[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

اعلان۔ حق تصنیف اس کتاب کا بحق مطبع اودھ اخبار محفوظ ہے

پندرھوان باب

سین مہملہ کے لغات کے ذکر مین اسمین پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

فارسی و عربی و ترکی وغیرہ لغات کے بیان مین

سین با الف

سا ۔ لفظ تشبیہ و مانند کا ہے ۔ اور پیسنے والا جیسے کہ آسیا سا اور افزو دن سے اور نام ایک قسم کے کپڑے کا مولانا جامی خلیل آسا در صدق و یقین زن ٭ لو اسے لا احب الآفلین زن ٭

سارا ۔ خالص سونا یا کستوری یا عنبر و نام زوجۂ ابراہیم خلیل اللہ صفدر فوقانی گل بستان برنگ عارض گلرنگ تو قربان ٭ فدا ابرو بوی زلف مشکبار تو عنبر سارا ٭

سا ستا ۔ نام ایک دیو کا تابعین اہرمن سے ہے ۔

سالامندرا ۔ ایک قسم کے چلپاسہ کا نام ہے جسکے چار پاؤن اور دو دم ہین گردن باریک رنگ ابلق ہے ۔ سیاہ و زرد نوشادر کی کان مین رہتا ہے پتھر مارنے سے وہ نہین مرتا نہ آگ مین جلتا ہے سمندر ابھی اسکو کہتے ہین گوشت اسکا سم قاتل ہے ۔

سالب ۔ سلب کرنے والا ۔ لیجانے والا ۔ نفی کرنے والا ۔ ہٹانے والا ۔

ساکب ۔ ڈالنے والا پانی یا خون کا ۔

ساخت ۔ وہ سامان جس سے گھوڑون کو زینت دین یعنے گھوڑے کا ساز بدر چار بج ۔ چون صبح ازجنیبت خاص شہنشہی ٭ این سبز خنگ را ز زر سرخ ساخت ساخت ۔

ساحت ۔ کشادگی و فضاے مکان ۔

سائحات ۔ عورتین روزہ دار ۔ اور سیر کرنے والین ۔

ساعت ۔ اہل نجوم کے حساب کے موجب اڑھائی گھڑی ایک گھنٹہ اور قیامت کا دن اور تھوڑا زمانہ اور حال کا زمانہ جو گذر رہا ہو محسن تاثیر ۔ از سختی قیامت ما را چہ باک باشد ٭ بے تو گذشت بر ما ہر شب ہزار ساعت ٭

سادات ۔ قوم سید جو رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کی آل ہین مولف حضرت سادات کی کیا بات ہے ٭ ہے یہی گھر جامع ذات و صفات ٭

ساکت ۔ چپ خاموش و مخود صفدر فوقانی نیست چون اختیار در دست ٭ دم مزن در قضا و ساکت باش ۔

سآمت ۔ بروزن ملامت ملول ہونا اور عاجز آنا تھک جانا ۔

سبات ۔ خواب کردن یعنے سونا ۔

سافوبت ۔ تیسرا حرف فاے معجمہ وہ آواز جس سے کبوتر باز کبوتر کو اپنی طرف بلاتے ہین ۔

ساج ۔ معرب سال جو ایک مشہور لکڑی ہے جسکی کشتیان بناتے ہین و یعنی طیلسان اور نام ایک قسم کے پتھر کا جسکے ساتھ تلوار وغیرہ کو صیقل کرتے ہین اور روٹی پکانے کا توا ۔

سافج ۔ نام ایک دوا کا جسکو تیزپات کہتے ہین ۔

سابیرج ۔ پہلوی مین مردم گیاہ جسکا نقشہ آدمی کا سا ہوتا ہے سر اسکا نگون رہتا ہے ۔ سر پر ریشہ بالون کی جگہ ہوتا ہے نر اور مادہ دونون یکجا زمین سے نکلتے ہین ہاتھ ایک دوسرے کی گردن مین ڈالے ہوے اور پاؤن ایک دوسرے کے پاؤن مین محکم کیے ہوے جو آدمی اسکو زمین سے اکھاڑتا ہے ایک دو روز مین مرجاتا ہے اسواسطے لوگ اکھاڑنے کے لیے یہ حیلہ بناتے ہین کہ اسکے سنبت کو کھود دیتے ہین جس سے جڑ گھاس کی نرم پڑجاتی ہے ۔ اور ایک کتے کو تین چار دن بھوکا رکھکر اس گھاس کے ساتھ باندھ دیتے ہین اور دور سے گوشت دکھاتے ہین کتا گوشت کے لینے کے واسطے زور لگاتا ہے تو گھاس زمین سے اکھڑ آتی ہے وہ کتا جلد مرجاتا ہے اور گھاس آدمی لے لیتے ہین ۔

سانج ۔ کسی کے قصور سے چشم پوشی کرنا ۔

سادہ لوح ۔ احمق بے شعور کم عقل امرد بے ریش ذوقی دل بدہ بر حسن خط سادہ لوحان جہان ٭ تا نباشی سادہ عقل مردنادان سادہ لوح ٭

سانح ۔ ظاہر ہونے والا پیش آنیوالا ۔ اور شکار جو بائین طرف سے آئے ۔

سالخوردہ ۔ پرانا قدیمی بہت برسونکا محمد انور حکیم گرچہ این نیا ستاں سالخوردہ شوہر نوسکند و بہار ...

ساعد ۔ ہاتھ کا پہونچا و آرنج و بازو اور مرغ کا بازو ۔ علی رضا تجلی اے فتنہ بد و چشم مست شدہ فوج چمن تو چو خورشید گرفت اختر اوج ٭

پیدا است ز چین آستین ساعد تو ٭ چون سینۂ ماہی کہ نماید ز موج ٭

سالوہ - عشق پیچہ جو مشہور بیل ہے اور درختون پر لپٹ جاتی ہے لیلاب بھی اسکو کہتے ہین اور سبزی جو حوض کے پانی پر آجاتی ہے۔ اور نام ایک ناو کا کشتی ہین - اور وہ رسن جو لڑکے درختون کے ساتھ باندھ کر جھولتے ہین اور ہالہ جو چاند پر پڑجاتا ہے۔

ساد - ژندی زبان مین اُستاد جسکو آموزگار کہتے ہین اور غیب آیا و جنگل اور ٹنک نر جو مادہ نہو جسکو فارسی مین گرانڈ اور عربی مین خنثیٰ کہتے ہین۔

ساجد - سجدہ کرنے والا - سر جھکانے والا۔

سار - نام ایک مرغ کا ہے جسکو شارک کہتے ہین اور نام ایک مرغ سیاہ رنگ کا جسکے پرون پر سپید خال ہین اور آواز خوش رکھتا ہے نیز بمعنی شتر یعنے اونٹ کے چنانچہ ساربان اونٹ کے مالک کو کہتے ہین اور بمعنی سر کے چنانچہ نگونسار یعنے سر جھکائے ہوے و بمعنی تشبیہ و مانند چنانچہ دیوسار دیو کی صورت والا و خاکسار وغیرہ و بمعنی رنج و آزار و تکلیف اور کلاک جو اندر سے پولی ہو و ہر چیز میانہ خالی و بمعنی صاحب و خداوند چنانچہ شرمسار و بمعنی محل و مقام و انبوہ چنانچہ کوہسار و نمکسار و شاخسار اور وہ حوض جسمین انگور ڈالکر اُسکا پانی نکالین۔

ساجور - کُتے کا گلوبند اور وہ لکڑی جو کُتے کے گلے پر باندھین۔

سائر - تمام اور باقی اور سیر کرنے والا۔

ساتر - چھپانے والا پردہ پوش۔

ساطور - بڑی چھری جسکو چھرا کہتے ہین - سعدی - زبان بو طلب کرد ساطور را ٭ کہ ویران کند خانۂ زنبور را ٭

ساغر - پیالہ شراب پینے کا - حافظ - خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد ٭ کہ در دستت بجز ساغر نباشد ٭

سالار - کہنہ و دیرینہ و سالخوردہ اور پیشرو و سردار چنانچہ قافلہ سالار و خوان سالار وغیرہ - نظامی - کہ سالار خوان خوردہ و خوان آوردہ ٭ خورشہاے خوش در میان آوردہ ٭

ساسر - نے اور کلاک جو پولی ہو۔

سالبر - ایک درخت کا نام ہے جو ایک سال پھلتا ہے دوسرے سال نہین پھلتا۔

سامر - ایک شہر کا نام ہے جسمین کپڑے نہایت لطیف بنتے ہین اور سامری جسنے موسے کی قوم کو گوسالہ پرستی کی ہدایت کی تھی اسی شہر کا تھا۔

سامندر - وہ جانور جو آگ مین پیدا ہوتا ہے اور اُسکے چمڑے کی ٹوپی بناتے ہین جب میلی ہو جاتی ہے تو آگ مین ڈالدیتے ہین مصفا ہو جاتی ہے

سامور - سرزمین مغرب مین ایک پہاڑ ہے جس سے سامور پتھر نکلتا ہے اور وہ پتھر نہایت سخت ہوتا ہے۔

ساحر - سحر کرنے والا - جادوگر۔

ساخر - مسخر کرنے والا - تابع کرنے والا۔

ساز - سامان و اسباب اور مزامیر جو مطرب سرود کے وقت بجاتے ہین سارنگی طبلہ و ڈھولک وغیرہ نظامی - سعادت بین روے تو و بار ٭ نوازندۂ ساز بنواخت ساز ٭

سازوبارہ - سامان و اسباب۔

ساکیز - شہد جو مشہور چیز ہے۔

سامیر - وہ پتھر جس سے ہتھیار تیز کرین۔

ساویز - تیسرا حرف واو آدمی جو خوش خلق و نیکخو ہو۔

سالوس - خوشگو و چرب گو و چرب زبان فریب اور فریب دینے والا مکار و حیلہ گر۔

سادس - چھٹا جسکو فارسی مین ششم کہتے ہین۔

ساس - کرم بدبو جو چارپائی و بوریا وغیرہ مین پیدا ہوتے ہین ہندی مین اُنکو کھٹمل کہتے ہین۔

سائیس - گھوڑون کا خدمتگار - اصل مین یہ لفظ سائس ہے جسکے معنے نگہبان کے ہین۔

سائس - سیاست کرنے والا اور نگہبان و بخشی و کوتوال بدرالدین چاچی سایۂ چتر سیاہت بود چتر خورشید ٭ سائس لشکر جاہت بود چہ بہرام ٭

ساپوس - اسپغول جو مشہور تخم ہے۔

ساسالیوس - سریانی زبان مین ایک نبات کا نام ہے جسکو انگدان و اشترغار کہتے ہین اور اُسکے گوند کو حلتیت بولتے ہین۔

سالکیس - بزرگ و شریف قوم کا سردار۔

ساولیس - حرف تیسرا واو وہ برتن جو جس سے بنایا جاتا ہے اور عورتین دھنی ہوئی روئی کاتنے کے واسطے اسمین رکھتی ہین۔

سازش - لگاو میل اتفاق۔

سام ابرص - چلپاسہ جو ایک جانور ہے۔

ساقط - افتادہ اور ناقص اور فرومایہ۔

سابع - ہفتم یعنے ساتوان۔

سامع - شنوندہ یعنے سننے والا۔

ساطع - بلند اور روشن۔

ساجع - خوش آواز پرندگانے والا بلبل وغیرہ -

سابغ - پورا کامل وسیع -

سائغ - بکسر ہمزہ گوارندہ ومطبوع طبع و ہاضم -

ساتغ - ترکی مین ایک زرد رنگ پھول کا نام ہی -

سالغ - ایک جانور خوش آواز وسیاہ رنگ کا نام ہی -

سالف - گذرا ہوا آگے گیا ہوا -

سارق - دزد یعنے چور -

سابق - آگے ہونے والا اور سبق دینے والا -

ساچق - وہ زیور واسباب وپوشاک جو نکاح سے پہلے دولہا دولھن کے گھر بھیجتا ہی ہندی مین اسکو بری کہتے ہین یہ لفظ ترکی ہی -

سائق - پیچھے سے چلانے والا نابینا کو - چنانچہ قاید آگے سے پکڑ کر چلانیوالا نابینا کو ہی -

ساق - پنڈلی شتالنگ اور زانو کے درمیان وتنہ درخت مثل شاخ ہندی مین ڈنڈی کہتے ہین محسن تاثیر - قدم بریدہ ام بگذار تا عمر ابد یابی * بود چون ساق گل در آب گل بسیار پیمانہ *

ساحق - پیسنے والا رگڑنے والا -

سارک - ایک پرندہ سیاہ رنگ خالدار کا نام ہی جسکو ہدہد کہتے ہین -

سالک - خدا کے راستہ پر چلنے والا صاحب طریقت محی الدین اعی سالک راہ خدا برخیز وقت صبحدم * کن دو رخواب از دیدہ ہا برخیز وقت صبحدم *

سابرک - مردم گیا جسکا ذکر پہلے تحریر ہوچکا ہی -

سارنگ - ہدہد جانور جسکو سارک بھی کہتے ہین بعض کے نزدیک ودینا ہی -

سالوک - مسافر راستہ چلنے والا -

سایہ برگ - ایک گھاس کا نام ہی اونٹ اسکو کھالے تو سوجاتا ہی -

ساحل - کنارہ دریا ندی کا کنارہ - حافظ - شب تاریک وبیم موج گرد ابی چنین ہائل * کجا دانند حال ما سبکساران ساحلہا *

سافل - نیچے جانے والا -

سائل - سوال کرنے والا مانگنے والا مولف چوہست رازق رزق تو حضرت رزاق * مباش بر در کس غیر ذات حق سائل *

سال - یونانی زبان مین کشتی جسپر سوار ہو کر دریا سے اترتے ہین اور ہندی مین نام ایک درخت کا - اور ایک برس کی میعاد بارہ مہینہ نقطہ اول برج حمل سے آخر نقطہ برج حوت تک یا اول محرم سے آخر ذی الحج تک مولف - ہست از گشتن ظہور روز وشب * اختلاف وانقلاب ماہ وسال *

سائل - ساطل - ایک دوا کا نام ہی جسکو شیرازی روشناک کہتے ہین -

سام - نام رستم کے باپ کا اور نام ایک پہاڑ کا اور نام نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اور ورم جو بدن پر پڑجاتا ہی جیسے کہ سرسام یعنے ورم ہوجانا دماغ کے پردہ کو اور رگ اور سی اعتبار سے آتشی جانور کا نام سام اندر ہی اور عربی مین بمعنی مرگ وہلاکت مولف - نزال ماند بدور جہان نہ رستم وسام نہ مرد آنکہ بماندش بہ نیکنامی نام *

ساسم - نانخواہ جو ایک خوشبودار تخم روٹی کے خمیر پر لگایا جاتا ہی اور عقرب کے نیش پر طلا کرتے ہین -

سالم - پورا پورا بے نقصان - سلامت -

سانگین - محبوب اور پیالہ شراب کا - سعدی - بمسجد در آید سر ایان دست * می اندر سر وساتگینے بدست *

ساسان - نام پسر بہمن جو اپنی بہن ہما کے خوف سے جنگل مین نکل گیا تھا اور خاندان ساسانی اسکی اولاد سے ہین - ہما نہایت خوب وبہت خورت تھی - اسکا باپ بہمن اسپر عاشق ہوگیا اور زردشتی پیشواؤن کی اجازت سے اس سے نکاح کرکے زوجہ بنالیا تھا - ساسان اس امر مین باپ کے ساتھ مخالف تھا اور بہمن کو قتل کردینے پر مستعد ہوا لیکن کامیاب نہوا اور وطن سے نکالا گیا -

سان - طرز روش ورسم وعادت ونظیر ومانند اور وہ پتھر جسپر تلوار چھری وغیرہ کو تیز کرین وسامان وسرانجام وسوہان وپارہ وحصہ وسلاح وسلاطان متعلقہ لشکر - شفیع اثر - دیدہ چند اینکہ سان لشکر افلاک را * برنجم طالع خصمش نشد ہرگز عیان * نور الدین ظہوری خوبان عجب کم خیل مدارا دہند شان * تسخیر ملک دل بتطا دل حوالہ است *

ساوین - پٹاری جسمین عورتین روئی کاتنے کے واسطے رکھتی ہین -

ساربان - شتربان اونٹ والا - صفدر قوقانی - چون مہار این شتر در دست اوست * می برد ہر جا کہ خواہد ساربان *

سالیان - بہت سے سال یعنی برس - یہ لفظ مفرد پر آسکتا ہی نظامی چنان زی کزان زیستن سالیان * ترا سود وکس را نباشد زیان *

سامان - نظام اور ترتیب اسباب صائب - وید از پالہ سامان طوق بندگی بشب * نداز دگرچہ پروا کس بالات قابین ہر دولہ ہر کہ از تعجیل ایام بہاران واقف است * ہمچو گل برگ سفر سامان کند در زیر پوست *

سائبان - شامیانہ خیمہ آفتاب گیر چتر حافظا خط سبز عارضت را نقشبندان قضا * سایبان از عنبر تر گرد نسرین بستہ اند *

ساران - عراق مین ایک قصبہ ہی -

سـاریان- ایک بستی گرجستان مین ہی-
ساطریون- یونانی مین ایک دوا کا نام ہی جسکو عربی مین خصیۃ الثعلب کہتے ہین-
سالیون- یونانی زبان مین تخم کرفس جو مشہور دوا ہی-
سابقین- اگلے لوگ پہلے لوگ جو گذر چکے ہین-
ساکن- ٹھہرا ہوا- بےحرکت- مؤلف زمین ساکن بفرمان الٰہی ؛ بگروش ہر زمان گردون گردان ؛
ساو- وہ محصول و باج و خراج جو بادشاہ زمیندارون و سوداگرون سے وصول کرے اور سونے چاندی کے ٹکڑے یعنی ریزے-
سابقہ- پہلا اور وہ حق جو پیشینہ ہو- میر خسرو- ببکرد و چرخ بافگندگی ؛ تاش دہی سابقۂ بندگی-
ساچمہ- ترکی مین چھوٹی گولیان جو بندوق اور توپ مین ڈالکر چلائین ہندی مین اسکو چھرا کہتے ہین-
ساختہ- مہیا و مستعد و آمادہ-
سادہ- امرد بے ریش احمق نادان اور خالص سونا چاندی-
ساجبہ- بکسر جاے مہملہ فتح باے موحدہ شدت کی بارش زور کا مینھ
ساقہ- دنبالہ لشکر و فوج- حیاتی گیلانی ز ساقہ و ز جناح آب کار فتح مجو ؛ عنان بجز طرف قلب کارزار مپیچ ؛
سامعہ- وہ قوت جو کان مین رکھی گئی ہی- اور انسان اُسکے ذریعہ سے ہر ایک بات سُن سکتا ہی-
ساحرہ- وہ عورت جو جادوگر ہو-
ساہرہ- ہموار میدان زمین کا-
سامانچہ- ساماخچہ- عورتون کا سینہ بند جسکو ہندی مین انگیا کہتے ہین
سارہ- چادر اور پردہ اور رشوت جو کسیکو چھپا کر دیجاوے- اور نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عورت کا-
ساوہ- نام ایک شہر کا عراق عجم مین جسمین سلمان نام ایک شاعر رہتا تھا اور سلمان ساوگی اُسکو کہتے تھے-
سانحہ- جو شکار شکاری کے بائین طرف سے آئے- جو تیر تیر انداز دہنی طرف چلائے اور حقیقت و کیفیت-
سالفہ- بکسر لام زرہ جو جنگ مین پہنتے ہین-
ساختہ پرداختہ- کیا ہوا مہیا کیا ہوا درست کیا ہوا- نظامی ترا بینم از ہر چہ پرداختہ است ؛ کہ ہستی تو سازندہ او ساختہ است ؛
ساعتہ- منسوب بساعت گھڑی گھنٹہ درویش والہ ہروی

شفق زپے بردن ہر ساعت باشد ؛ روزیکہ جوانی نبود ہمنفس عمر ؛
سالگرہ- یہ ایک جشن سلاطین و امرا ہر سال کے کرتے ہین اور جس روز و تاریخ وہ پیدا ہوے تھے اُسی تاریخ یہ جشن کیا جاتا ہی اور رشتۂ ولادت جو روز تولید مولود سے رکھا ہوا ہوتا ہی ایک گرہ دے دیتے ہین تا کہ معلوم رہے کہ اتنے برس کا وہ مولود ہوا ہی ۔ گشت چون رشتۂ عمرم کوتاہ ؛ معنی سالگرہ دانستم ؛
سایہ- مشہور لفظ ہی درخت کا سایہ- انسان کا سایہ- سورج کا سایہ یعنی دھوپ ہندی- سرزمین از شرق و غرب آمد بزیر سایہ اش ؛ چون توکردی اے کرم گستر نظر بر آفتاب ؛
سابوتہ- ژندی زبان مین بوڑھی عورت ؛
سابورہ- مخنث- یعنی ہیجڑا-
سارچہ- ایک جانور سیاہ رنگ کا نام ہی جسکے پرون پر سفید چھالے ہین
ساہہ- دام یعنی قرض و جاے امن و امان و جاے پناہ-
سانقہ- پرسیاوشان جو ایک مشہور دوا ہی-
ساغری- تخلص ایک شاعر کا جو مولانا جامی کا ہمعصر تھا اور نام ایک قسم کے چمڑے کا جسکو کیمخت کہتے ہین- شفیع اثر- ہستا قرا خرابپوست جامہ من ؛ براے تیغ شود ساغری ہمیشہ غلاف ؛
ساورتی- تحفہ و پیشکش و ہدیہ-
ساگی- نام ایک میوہ کا ہی-
ساری- اثر کرنے والا- سرایت کرنے والا-
سال جلالی- ایک شمسی سال کا نام ہی منسوب بتاریخ جلال الدین ملک شاہ سلجوقی-
ساہی- غافل و فراموش و سست-
سانگی- سانگنی- سانگینی- شراب پینے کا بڑا پیالہ-
ساچی- ژندی زبان مین سپید جسکو عربی مین ابیض کہتے ہین-
سازگری- موسیقی کے ایک پردہ کا نام ہی-
سائی- دریوزہ- فقیر گدائی کرنے والا-
سالی- دیرینہ و کہن سال مستعمل و در ہندی مین اپنی زوجہ کی بہن-
ساوگی- صفائی نادانی- بیوقوفی-
ساعی- کوشش کرنے والا- سعی کرنے والا-
ساقی- شراب پلانے والا- حافظ ساقی بیار بادہ کہ ماہ صیام رفت ؛ دہ مژدہ کہ موسم ناموس و نام رفت-
سامری- وہ زرگر جسنے موسی علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا اور

گوسالہ بناکر پرستش شروع کرادی۔

سین باباے

سبا۔ بلقیس کے شہر کا نام ہو جسکو حضرت سلیمان علیہ السلام مع تخت طلب کیا اور اُسکو اپنے نکاح مین لیا۔ یہ شہر یمن کے ملک مین ہو حافظ ؎ ہد ہد صبا بسبا میفرستمت ٭ بنگر کہ از کجا بہ کجا میفرستمت ٭
سبعہ امعا۔ ایک معدہ اور چھہ آنتین۔ اثنا عشری عائم دقیق اعور قولون مستقیم۔
سبک پا۔ تیز رفتار۔
سبز قبا۔ ایک جانور کا نام ہو جسکو سبزک کہتے ہین۔ رنگ اُسکا سبز سُرخی مائل ہو تاج بھی اسکے سر پر ہو۔
سبّ۔ گالیان دینا۔ بُرا بولنا۔ مؤلف۔ خارجی سبّ علی از راہ نادانی کند ٭ بر زبان آرد روافض سب اصحاب کبار ٭ ماندہ از کار است زین دو قوم قوم اولین ٭ قوم دیگر رو سیاہ و راندۂ پروردگار ٭
سبب۔ وسیلہ حاصل ہونے کسی چیز کا اور باعث ؎ برای روزی ہر روزہ حضرت رزاق ٭ شود مسبب و پیدا کند ز غیب سبب ٭
سبسب۔ بفتح ہر دو سین جنگل ویرانہ بیابان۔
سپیجاب۔ نام ایک شہر کا ترکستان مین
سباسب۔ ریت کا جنگل ریگستان۔
سفیداب۔ سفیداج۔ سپیدہ جو مشہور چیز ہو اور قلعی سے بنایا جاتا ہو سب سے اچھا سفیدہ کاشغری ہو۔ عبد اللہ ہاتفی حسینی ؎ کرسیلی زند عاج را ٭ چہ محتاج باشد سپیداج را۔
سباحت۔ شناوری یعنی پانی مین تیرنا۔
سبات۔ بروت یعنی موچھین۔
سبعیّت۔ درندگی درندہ ہونا۔ پھاڑ پھاڑ کھانا۔
سبقت۔ پیشی پکڑنا۔ آگے ہونا۔ مؤلف ہر کہ شد اندر طریق حق ہمی ثابت قدم ٭ بیشک اندر راہ حق از سابقان سبقت گرفت ٭
سبات۔ خواب و راحت و آسایش۔ آرام کرنا سو رہنا آسایش مین آنا۔
سبت۔ بفتح اول روز شنبہ ہفتہ کا دن۔
سبت۔ ایک گھاس کا نام ہو جو زمین پر بچھی رہتی ہو۔
سپست۔ بدبو گندہ و پلید و ناخوش۔ اور نام ایک گھاس کا ہو جسکے کھانے سے مویشی فربہ ہوتے ہین عربی مین اُسکو فصفصہ اور ترکی مین یونجہ بولتے ہین اور کپڑا جو میلا ہو اور مچھلی کی بو اور برتن مسی و برنجی۔

سبج۔ بفتح اول و ثانی ایک پتھر کا نام ہو جو سیاہ اور روشن اور نرم اور سبک ہوتا ہو گیلان سے لاتے ہین یہ پتھر جسکے پاس ہو کسیکی نظر نہین لگتی درد سر سے محفوظ رہتا ہو آگ مین نہین جلتا اگر اسکی عینک بنائین آنکھ کی سپیدی دور ہو جاتی ہو آنکھین روشن ہو جاتی ہین۔ نزول الماء کی بیماری کو دفع کرتا ہو۔ بعض اسکا میل بناتے ہین اور اُس سے آنکھون مین سرمہ ڈالتے ہین روشنی زیادہ کرتا ہو۔
سبنج۔ بکسر اول و فتح ثانی و سکون نون وہ لکڑی کا حلقہ جو زمیندار ہل چلانے کے وقت بیلون کی گردن مین ڈالتے ہین۔
سپنج۔ بکسر اول و فتح ثانی خس پوش جھونپڑا جو چند روزہ سکونت کے لئے بنالیا جاے اور ہر ایک جو ناپایدار و چند روزہ ہو اور ہر ایک چیز جو عاریتاً کسی سے لیجاے اور مہمانخانہ جو مہمانون کے کھانا کھلانے کے واسطے مقرر کیا جائے اور چراگاہ مویشی کا اور عدد پندرہ کا جسمین تین پنجے شمار مین آتے ہین۔
سبّاح۔ شناور تیراک پانی مین تیرنے والا۔
سبّوح۔ بفتح اول تسبیح پڑھنے والا۔ خدا کو پاکیزگی کے ساتھ یاد کرنے والا تعریف کرنے والا۔
سُبّوح۔ بضم اول خدا کا نام ہو نہایت پاک اور دوسرے کو پاک کرنیوالا
سباخ۔ زمینین جو شور ہون۔
سپاناخ۔ ایک ترہ یعنی سبزہ کا نام ہو جسکو پالک کہتے ہین۔
سبخ۔ بفتح اول و سکون با سے اور آخر مین خا سے منقوط نمک جو کھانے مین ڈالا جاے۔
سبد۔ ٹوکرا اور چھابہ جو لکڑی کا بنایا جاتا ہے اور اسمین سبزہ وغیرہ رکھکر فروخت کرتے ہین۔
سپند۔ نام ایک پہاڑ کا اور نام ایک مشہور تخم کا جو دوا کے کام مین آتا ہو اور دفع چشم زخم کے لیے آگ پر جلایا جاتا ہو ہندی مین اسکو ہرمل کہتے ہین۔ ابو طالب کلیم ؎ تو چون بجلوہ درآئی براے دفع گزند ٭ سپند آبلہ سوزد و لم بر آتشگہ داغ۔
سپید۔ بکسر سین و یاے مجہول مشہور رنگ ہو جسکو عربی مین ابیض کہتے ہین اور نام ایک قلعہ کا تعداد مین اور نام ایک رود کا ہین شروان اور گیلان کے بعض کے نزدیک سپید رنگ نہین ہو سوا سے اسکے اور سب رنگ ہین و بمعنی خالی مثلاً زمین سپید و دیدہ سپید یعنی بے نور و کف سپید یعنی خالی دست۔ سعدی ؎ چو یعقوبم ار دیدہ گردد سپید ٭ نبرم ز دیدار یوسف امید ٭

سبکاو - قلۂ کوہ پہاڑ کی چوٹی۔
سپنج - بکسر اول و فتح ثانی پانچوان دن ہر ایک شمسی مہینے کا۔
سپنجید - کوئی چیز انا کسی کے پاس ونیا و گوشہ نشینی و قناعت تحمل
سبزوار - نام ایک شہر کا۔
سپاغر - نام ایک پہلوان کا۔
سبکسار - فارغ و بے تعلق۔
سپر - بکسر اول و فتح ثانی مشہور چیز ہے جسکو عربی مین جُنّہ و ترس
ہندی مین ڈھال کہتے ہین ؎ سپر افگند رستم و استان ❊ جو آید
بمیدان آن پہلوان۔
سپیدار - سپیدہ جو ایک مشہور درخت لکڑی ہی اُسکی سفید ہوتی ہی
پھل کوئی نہین ہوتا۔
سپہر - بکسر اول آسمان جسکو عربی مین سما کہتے ہین ؎ بفرمان او
گردش مہر و ماہ ❊ سپہر برین چاکر بارگاہ۔
سپار - بمعنی آلہ آہنی جس سے زمین کھودتے ہین اور گھر کے ظروف
و اسباب اور وہ آلہ جس سے انگور کا پانی نچوڑتے ہین۔ اور وہ ظرف
جسمین انگور کا شیرہ جمع ہوتا ہی اور صیغہ امر سپردن سے اور سونپنے والا
جیسے کہ جان سپار وغیرہ۔
سپسار - بہ دو سین مہملہ دلال جو خریدار اور دوکاندار کے درمیان
آکر قیمت کسی جنس کی مقرر کرا دیتا ہے۔
سپہر - بکسر اول و فتح ثانی کرۂ آتشی جو کرۂ ہوا کے اوپر ہی اور
اُسکو کرۂ اثیر بھی کہتے ہین۔
سبز - مشہور رنگ ہی خط سبز وہ خط جو تازہ برآمد ہو و حُسن سبز
حسن ملیح سانولا رنگ غنی حُسن سبزی بخط سبز مرا کرد اسیر ❊ دام
ہمرنگ زمین بود گرفتار شدم۔
سپرز - ایک عضو اندرونی اعضا مین سے مقام سودا کا ہی
عربی مین اسکو طحال و ہندی مین تلّی کہتے ہین۔
سپوز - ڈالنا اور نکالنا ایک چیز کو دوسری چیز مین زور کرنا۔
سبوس - وہ بورا جو آٹا چھاننے کے بعد نکلتا ہی چھان بھی
اسکو کہتے ہین
سپاس - سپاسہ - منت و شکرانہ نظامی۔ سپاس خدا کن
کہ برنا سپاس ❊ نگوید شناہر دایزد شناس - ابوشکور - از آنکس
کہ بد کرد و نگذاشتم ❊ بروبر سپاسہ نہ بگماشتم۔
سپس - مزید علیہ پس کا معنی پس تر اُس سے پیچھے کمال اسمٰعیل

وصال را چہ کنم زین سپس کہ مایہ عمر ❊ فراق او بہ در راہ انتظار نہاد
سپرلوس - بادشاہی محل جسمین بادشاہ خود سکونت رکھتا ہو
سپریس - وہ میدان جسمین گھوڑا دوڑاتے ہین۔
سپارش - سپرد کرنا۔ سونپنا کسی کو کسی کے پاس واسطے اسکی
مطلب برآری کے جمال الدین سلمان طریق نیست سپارش
باسمان کردن ❊ کہ سایہ بر سر سکان ربع مسکون دار ❊
سپیوش - بذر قطونا - اسپغول۔
سپش - جون جو کرم انسان کے بالون اور کپڑون مین پیدا ہوتی
سبط - بکسر اول فرزند زادہ پوتا ہو یا پروتا - پسر زادہ ہو یا دختر زادہ
اور خطاب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا۔
سبط - بفتحتین و بفتح اول و کسر بائے وہ بال سر کے جو سیدھے ہون
زنجیر دار نہون۔
سبع - بفتح اول و سکون ثانی ہفت یعنی سات عدد ہین۔
سبُع - بفتح اول و ضم ثانی درندہ جانور مثل گرگ و شیر وغیرہ۔
سُبع - بضم اول و سکون ثانی ساتوان حصہ ہر چیز کا اور ساتوان حصہ
قرآن شریف کا یعنی ایک منزل۔
سِباع - بکسر اول درندگان شیر و گرگ وغیرہ۔
سپلغ - نان خورش سالن جو روٹی کے ساتھ کھاتے ہین۔
سپریغ - انگور کا خوشہ اور کھجور کا خوشہ جو درخت پر ہو۔
سبق - گھوڑا دوڑانا گرو باندھنا - چکر باندھنا تیر چلانا آگے بڑھنا
روزمرہ درس جو استاد شاگرد کو دیوے یہ لفظ بفتحتین و فتح اول و
سکون دوم مستعمل ہی دونون طرح شعرا نے شعرون مین اسکو باندھا ہی
صائب چو طفل من سبق از سینہ خود میگیرد ❊ پشت آئینہ مرا مانع گویائی نیست
میر خسرو - کتابی شد گل سے غنچہ تو بکشا مصحف خود را ❊ بہ بلبل دہ کہ سبق
کیف شئت الآخر زبان گیرد۔
سباق - آگے بڑھ جانا پیش دستی کرنا۔
سبک - مقابلہ گران کے کم وزن و بے عزت و بے توقیر
سباک - زرگر چاندی سونا گلانے والا ماخوذ سبک سے جسکے معنی چاندی
سونا گلانے کے ہین۔
سبزک - نام ایک جانور کا ہی جسکو ہندی مین نیل کنٹھ کہتے ہین۔
سبادوک - سبارُوک - کبوتر جو ایک مشہور پرندہ ہی۔
سپیتاک - سفیدہ جو مشہور چیز ہی۔
سپرک - نام ایک زرد گھاس کا ہی جس سے کپڑے رنگتے ہین

سپید برگ - ایک سبزہ کا نام ہے جسکو عربی مین بقلہ یمانیہ اور ہندی مین چولائی کہتے ہین -
سبل - آنکھونکی ایک بیماری کا نام ہے -
سبال - جمع سبلت بہت سی مونچھین -
سبیل - راستہ اور ہر ایک چیز وقف جو کسی کی ملک نہو - اشرف
کنون کہ عارضت از خط شد ست سرخ و سیاہ ÷ لبت چو آب محرم سبیل خواہد شد
سپیرم - پھول جسکا نام ریحان ہے -
سبکتگین - سلطان محمود غزنوی کے باپ کا نام ہے رباعی از مولف
چنان نماند بدنیا نہ اینچنین ماند ÷ درین زمانہ نہ آن ماند و نہ این ماند ÷
نہ فوج و لشکر محمود و راقیام بود ÷ نہ تخت و دولت و تاج سبکتگین ماند ÷
سبوحیان - فرشتے ملائک آسمانی مولانا جامی - شد از سبوحیان
گردون صلا دہ ÷ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ ÷
سبطین - امام حسن و امام حسین علیہما السلام -
سبحان - پاکی کے ساتھ یاد کرنا اللہ تعالی کو -
سبزان - معشوقان سبز رنگ -
سبعہ الوان - سات رنگ - سیاہ سپید - سرخ سبز زرد کبود - و عباسی
مولف خط انظار از چار اطراف ÷ شود رنگش عیان از سبع الوان -
سبعین - ہفتاد یعنی ستر جو ایک عدد مشہور ہے -
سپندان - حرمل علیہ سپند - حکیم رکنائے کاشی - برخیز مسیح تا نشینیم
در آتش تیز چون سپندان -
سبلان - ایک قسم کی دوا کا نام ہے جو روم کی طرف سے لاتے ہین اور
نام ایک پہاڑ کا ولایت آذربائیجان - اور یونانی زبان مین نام ایک پیمبر کا -
سپاہان - عراق عجم مین ایک مشہور شہر ہے پہلے اسکا نام دار الیہود
تھا - دجال کا خروج بھی قیامت کے قریب اسے شہر سے ہوگا - سعدی
مرا در سپاہان یکے یار بود ÷ کہ جنگ آور و شوخ و عیار بود -
سپستان - مشہور پھل ہے ادویات کی فصل مین اسکی تشریح تحریر ہوگی -
سبو - پانی اور شراب رکھنے کا برتن - یہ لفظ بفتح اول شہرت رکھتا ہے
مگر استادون کے اشعار سے پایا جاتا ہے کہ بکسر سین ہے میر خسرو ساقیا بوی
گل ست و بوی عود و بوے یار ÷ این سہ بو داریم بادہ در قدح ریز از سبو ÷
شیخ آذری - بوی شراب و بوی کباب ست و بوی یار ÷ پرکن سبو کہ از روی
روح در سبو ست -
سبحہ - تسبیح کے دانے جو ایک سو سواے امام رشتہ مین پروئے ہوے
ہوتے ہین اور اسپر وظایف خوان وظیفہ کی تعداد پوری کرتے ہین اور
یاد کرنا خدا کو پاکیزگی کے ساتھ مولف ہمیشہ رشتہ خاطر بیاد مولی
بند ÷ گذرد رشتہ دوانی و سبحہ گردانی -
سبابہ - وہ انگلی ہاتھ کی جو انگوٹھے کے ساتھ ہے -
سبعہ - سات جسکو فارسی مین ہفت کہتے ہین اور مشہور عدد ہے -
سبزہ - سبز گھاس جو زمین سے پیدا ہوتی ہے - اور نام ایک جانور کا
جسکو سبزک کہتے ہین - حافظ رسید مژدہ کہ آمد بہار و سبزہ دمید
وظیفہ گر برسد مصرفش گل ست و نبید -
سبزینہ - معشوق سبز رنگ سانولا محبوب - طغرا - بہار من بت سبزینہ
شگفتہ رخست ÷ مرا جزین نبود در جہان گمان بہار ÷
سپاہ - لشکر فوج بادشاہی - نظامی جہاندار کین زور بازو شنید
سپہ را ز رمن بابل کشید ÷
سپیدہ - مشہور چیز ہے جسکو سفیداج بھی کہتے ہین - نزاری قہستانی
صبا سفیدہ و بلغونہ کرد بر گل سیب ÷ بنفشہ بزدہ سر ہیچ سبزہ از لب جوی
سبغانہ - بغین معجمہ وضم اول آدمی دراز قد و بلند بالا ÷
سبغانہ - بفتح اول و غین معجمہ زر بیعانہ جو کسی خرید فروخت مین پیشگی دیا جاے
سبورہ - حیز و مخنث یعنی ہیجڑا -
سبوسہ - ریزہ لکڑی کا جو لکڑی سے آرہ چلانے کے وقت گرتا ہے
اور پوست غلہ کا جو آٹا چھاننے سے نکلتا ہے -
سپارہ - بفتح اول وہ پتھر جس پر استرہ اور چھری وغیرہ تیز کرتے ہین -
سپاوہ - بکسر اول شان و شوکت و فر و شکوہ و انبوہ لشکر -
سبکی - کم وزنی و بیقدری و بیعزتی -
سباعی - ایک قسم کے شعر کا نام ہے جسکے فی بند سات مصرعے ہوتے ہین -
سبع المثانی - سورہ فاتحہ جسکی مع بسم اللہ سات آیتین ہین -
سبزی - ساگ پات ترہ و بقلہ مثل پالک میتھی کرنب پیاز اور مولی وغیرہ -
نداریم چشم بر احسان مردم باز چون نرگس ÷ قناعت میکنیم با سبزی
و نان و پیاز امروز ÷
سپیدی - سپید ہونا اور نام ایک بیماری کا جس سے آنکھونکی سیاہی پر
سفیدی آجاتی ہے - صائب نشست از آسیاے چرخ گرد شیب بر رویم
سپیدی میکند راہ عدم از بہر سر مویم -
سپاری - مشہور چیز ہے جسکو عربی مین فوفل کہتے ہین اور ہندوستانی
اسکو کترکر پان کے ساتھ کھاتے ہین - خورم لاہوری پان کھاکر قتل کا
بیڑا اٹھایا شوخ نے ÷ رنگ ہے خورم تو کروسے جانسپاری اندنون -
سپری - آخر ہوا ہوا - تمام ہوا ہوا - طے کیا ہوا -

سپ

سین یا تا سے

ستا۔ بفتح اول ژندی زبان مین نام کتاب تفسیر ژند پاژند مصنفہ زردشت جسکو استا بھی کہتے ہین یہ کتاب آتش پرستی کے احکام مین لکھی گئی تھی اور آتش پرست اسکا کمال ادب کرتے تھے۔

ستا۔ بکسر اول شامیانہ و سائبان و چادر اور نام ایک لحن کا موسیقی مین اور نام ایک ساز جسکے تین تارین ہوتے ہین اور تین پیالے شراب کے جو نہار پیے جائین۔ اور مخفف ستاد جسکے معنی توقف و اقامت کے ہین میر خسرو بند زان ترکتازہ ہیچ بادش + بحز در صدر کستان ستادش +

سترسا۔ ژندی زبان مین حس کو کہتے ہین جسکی جمع حواس ہی۔

ستر کا۔ زیتون کا گوند جو گرم و خشک ہی۔

ستہا۔ ژندی زبان مین عالم دنیا اور زمانہ جو گذرتا ہی۔ ستیہا بھی اسی کو کہتے ہین۔

ستپنج۔ دو تین غلہ جو آپس مین ملے ہوئے ہون۔ ہندی مین اسکو کھچڑی کہتے ہین۔

ستنبج۔ خرمن غلہ کا جو ابھی بھوسہ اُسکا نہ نکالا گیا ہو اور سامان و خیرہ ہر چیز کا۔ اور حلقہ چوبی جو ہل چلانے کے وقت بیلون کے گلے مین پہنایا جاتا ہی۔

ستیج۔ پہاڑ کی چوٹی اور ستون جو سیدھا کھڑا ہو اور ہر ایک چیز بلند و راست

ستاخ۔ درخت کی شاخ جو پتلی اور نازک ہو اور مطلق شاخ۔

ستد۔ بکسر اول و فتح ثانی گرفت یعنی لیا۔ واضح ہو کہ دال ساکن ما قبل مفتوح جو علامت مضارع کی ہی سوا اسے اس صیغہ ماضی مین کسی ماضی مین نہین ہے۔ میرزا طاہر وحید درین بارگہ بے گواہ و سند بود گرم بازار داد و ستد۔

ستاوند۔ چوتھا حرف واو بڑا صفہ بلند اور بڑا دیوانخانہ کھیریکا مکان اور بالاخانہ۔

ستور۔ بضمتین چارپایہ گائے اونٹ گھوڑا۔ ذوقی باشد ار پابند در فکر شکم + پس چہ فرق اندر ستور و آدمی ست +

ستبر۔ بکسر اول و فتح ثانی گندہ موٹا غلیظ گاڑھا سطبر معرب اسکا ہی

ستخر۔ بکسر اول و فتح ثانی تالاب حوض وغیرہ جسمین پانی بھرا ہو۔

ستر۔ بفتح اول مخفف استار چھپی ہوئی چیزین۔

ستر۔ بکسر تین پندرہ مثقال کا وزن۔

ستر۔ پردہ حجاب اور چھپانا۔

ستر۔ بفتحتین فارسی مین مخفف استر جسکو خچر کہتے ہین مشہور چوپایہ ہے۔

ستار۔ پردہ پوش عیب چھپانے والا یہ نام خدا سے جل جلالہ کا ہی توحید تو ستاری تو غفاری تو دلداری تو غمخواری + عطا پاشی خطا پوشی کرم گستر کرم فرما توئی حاضر بہر محضر توئی ناظر بہر منظر + توئی ساکن بہر مسکن توئی قائم بہر ماوا +

ستار۔ بکسر اول نام ایک ساز کا ہی۔

ستوار۔ امین و معتمد و مضبوط و محکم مخفف استوار۔

ستوشر۔ پہلوی زبان مین عطسہ یعنی چھینک۔

ستیر۔ ایک سیر یعنی چالیسوان حصہ من تبریزی سے جو پندرہ مثقال ہوتا ہی اور ہر ایک من چھ سو مثقال۔

ستیز۔ جنگ و خصومت و خشم و ناسازگاری لڑائی فساد۔ نظامی خردمند آن نیست کز راہ تیز + کند با خداوند قوت ستیز

ستایش۔ بکسر اول ثنا و مدح و دعا و شکر نعمت تعریف کرنا سراہنا سیکو نظامی۔ ستایندگان جملہ در بارگاہ + ستایش گرفتند بر بزم شاہ۔

ستیہش۔ ستیزہ جنگ لڑائی۔

ستاغ۔ عقیمہ یعنی بانجھ عورت اور گھوڑی اور شتر مادہ جو بہت دودھ دیتی ہو اور وہ گھوڑا جسپر ہنوز زین نہ رکھا گیا ہو اور شاخ گاؤ و گوسپند۔

ستیغ۔ لڑائی جنگ خشم خصومت ہر چیز بلند و راست و قلعہ و حصار۔

ستاک۔ شاخ نورستہ و نازک پتلی شاخ درخت کی۔ علی خراسانی پروردہ سر چشمہ فیض ست چو طوبی + آن طفل طرب زا کہ بر دوش ستاک ست۔

ستگ۔ بزرگ اور بڑا ذی رتبہ۔

سترنگ۔ اصلی نام بازی شطرنج کا ہی معرب اسکا شطرنج ہی۔

ستروک۔ مفلس و نادار و متفکر و خشمناک آدمی۔

ستل۔ بکسر اول و فتح ثانی تالاب اور حوض۔

ستل۔ بفتح اول و ثانی مارنا اور تکلیف دینا۔

ستام۔ نام ایک زیور کا ہی جو گھوڑے کو پہناتے ہین۔

ستم۔ ظلم نا انصافی جور و تعدی سعدی آنرا کہ بجای تست ہر دم کرمی عذرش بنہ ار کند بعمرے ستمی۔

ستیم۔ خون و ریم و چرک جو زخم سے نکلتا ہی اور وہ مواد جو پھوڑے مین ہو اور بغیر نشتر کے نہ نکلے اور زر خرید کنیز اور خادمہ۔

ستارن۔ ستار بجانے والا جو ایک ساز مشہور ہی۔

سترون۔ عقیمہ عورت یعنی بانجھ اور بے اولاد عورت۔

ستون۔ مشہور لفظ ہی عربی مین اسکو عماد اور رکن کہتے ہین۔

ستان۔ بکسر اول مخفف استان یعنی دہلیز و مقام جیسے گلستان

دبوستان وبمعنی جا ومقام جیسے کہ شبستان وادبستان علیٰ ہٰذالقیاس اور وہ شخص جو پیٹھ پر سویا ہوا ہو جسکو ہندی مین چت کہتے ہین۔

ستو۔ کھوٹا سونا اور ملمع کی ہوئی چیز جو اندر سے تانبا ہو اور اوپر سونا یا چاندی کا ملمع ہو۔

ستودہ۔ صفت کیا گیا۔ سراہا گیا۔

ستوہ۔ تنگ و درماندہ و ملول و عاجز۔ ع جو از جنگ ہر دو ستوہ آمدند ❊ بصلح و صفا ہم گروہ آمدند۔

ستبنہ۔ بکسر سین و فتح تا و سکون نون و بائے موحدہ صورت مکروہ جسکے دیکھنے سے خوف معلوم ہو اور نام دیو کا جو خواب مین ڈراتا ہے۔

ستارہ۔ بخت و طالع و قسمت اور وہ آسمانی جرم جسکو کوکب کہتے ہین اور کلس جو گنبدون پر لگائے جاتے ہین اور نام ایک ساز کا ستار کے نیچے و بودسے جو آفتاب مرا گر ستارہ ❊ مید ستم برائے تو راہ نظارہ۔

ستیزہ۔ لڑائی اور فساد اور ہنگامہ۔ صائب عزم ستیزہ باول افکار میکنی ❊ با لشکر شکستہ چہ پیکار میکنی ❊

ستوقہ۔ کھوٹا درہم و دینار۔ کھوٹا روپیہ۔

ستّہ۔ بتشدید تا شش یعنی چھ عدد ین۔

ستہ۔ بغیر تشدید تا فارسی مین کھوٹا روپیہ۔ ستوقہ اسکا معرب ہے۔

ستادہ۔ مکر و فریب و حیلہ و بہانہ

ستخسبہ۔ غربال یعنی چھلنی جس سے آٹا چھانتے ہین اور عربی مین اسکو منخل کہتے ہین۔

ستُرہ۔ مخفف استرہ جس سے بال مونڈتے ہین عربی مین اسکو موسیٰ کہتے ہین۔

ستوسہ۔ عطسہ یعنی چھینک۔

ستیہہ۔ ضعیف و رنجور و ناتوان و ملول و عاجز۔

ستہ۔ بفتحین باسی کھانا۔ نان شبینہ اور انگور جسکو عربی مین عنب کہتے ہین

ستیرہ۔ جولاہون کے کام کا رسّا جو کام کی مقدار سے زیادہ ہو اور زیادہ حصہ کو وہ لپیٹ کر زمین پر رکھ دین۔

ستی۔ بفتح اول و یائے معروف فولاد اور لوہا اور نیزہ و سنان اور عورت عفیفہ جسنے سوائے اپنے دوسرے مرد کی صورت نہ دیکھی ہو اور ہندوستان مین ستی اُس عورت کا نام ہے جو اپنے خاوند مردہ کی نعش کے ساتھ زندہ جلجائے۔ صائب ہمچو ہندو زن کسی در عاشقی مردانہ نیست ❊ سوختن بر شمع مردہ کار ہر پروانہ نیست میر خسرو خسروا در عشقبازی کم ز ہندو زن مباش ❊ کز برای مردہ سوزد زندہ جان خویش را

ستارۂ یمانی سہیل ستارے کا نام ہے اسکے طلوع سے برسات کا پانی جو جا بجا ہوتا ہے خشک ہو جاتا ہے ولدالزنا یعنی حشرات الارض جو ہزارون قسم کے کیڑے برسات مین پیدا ہوتے ہین سب مر جاتے ہین اور ہیم بلغار خوشبو و خوش رنگ ہو جاتی ہے گھوڑے موٹے ہو جاتے ہین ابوالفضل ولدالزنا ست حاسد من آنکہ طالع من ❊ ولدالزنا کش آمد چو ستارۂ یمانی۔

سین با جیم

سجا۔ کتاب کا دیباچہ اور خط کا عنوان۔

سجایا۔ خوئین عادتین خصلتین سعدی کریم السجایا جمیل الشیم نبی الوریٰ یا شفیع الامم۔

سجیات۔ بہت سی خصلتین اور عادتین۔

سجدات۔ بہت سے سجدے۔

سج۔ بفتح اول رخ و رخسارہ اور چہرہ آدمی کا۔

سُج۔ بضم اول سرین و محفل گاہ چوتڑ و مقعد۔

سُج۔ عربی مین دیوار کو کہگل کرنا۔ اور نرم ہونا کسی چیز غلیظ کا۔

سجاوند۔ نام ایک قصبہ کا کابل کے علاقہ مین اور نام ایک موضع کا خواف خطہ خراسان مین جس جگہہ مصنف کتاب سجاوندی رہتا تھا اور نام ایک پہاڑ کا سیستان مین۔

سجود۔ بکسر اول عجز و فروتنی کرنا اور سر زمین پر رکھنا۔ سعدی گر او می برو پیش آتش سجود ❊ تو و اپس چرا می بری دست جود سنجر کاشی ہر بوالہوس نہ محرم راز کہن شود ❊ فی ہر کہ بت سجود کند برہمن شود۔

سجد۔ سخت سردی اور موسم سردی کا۔

سجّاد۔ سجدہ کرنے والا زمین پر سر رکھنے والا۔

سجلد۔ یونانی زبان مین چمپلی کو کہتے ہین جو مشہور پھول ہے سفید ہوا کرتا

سجع۔ جانورون کی آواز مثل بلبل و قمری و طوطی وغیرہ نیز وہ لفظ جو نثر کے فقرہ نثر مین واقع ہو اور مناسب اسکے دوسرے فقرہ مین بھی لکھا جائے سعدی روضتہ ماء نہرہا سلسال ❊ دوحتہ سجع طیرہا موزون۔

سجف۔ پردہ اور پردہ ڈالنا۔

سجاف۔ وہ حاشیہ جو کپڑون پر سیا جاسے چادر قبا وغیرہ کو اور جو لوگ اس لفظ مین نون زیادہ کرکے سنجاف کہتے ہین غلطی پر ہین۔ زلالی سجافِ دامنش چاک دل چاک ❊ گریبانش شگاف کنج افلاک۔

سجک۔ فواق یعنی ہچکی جو آدمی کو آنے لگجاتی ہو۔

سجیل۔ بکسر اول و تشدید جیم کنکر جو مٹی سے نکلتا ہو ع ہین ہمہ ابابیل شد مقتول ابابیل را

در دو ساعت بقوت سجّیل-
سِجِل- بکسر اول و دوم وہ کاغذ جسپر مہر و دستخط قاضی کے ہون سعدی
چو قاضی بفکرت نویسد سجل ÷ نگردد ز دستار بندان خجل-
سِجَال- جمع سجل بہت سے کاغذ جنپر قاضی کی مہر ہو مثل فتوی و بیعنامہ و ہبنامہ
سَجْل- بفتح اول و سکون دوم ڈول کلان بڑا ڈول یا چرسا جسکے ذریعہ
سے کنوئین سے پانی نکالین-
سجنجل- رومی زبان آئینہ منھ دیکھنے کا-
سیچقان ئیل- پہلا سال ترکون کے بارہ سالون مین سے جو انھون
نے مقرر کیے ہین-
سِجِّین- قیدخانہ اور سزا کا مقام-
سیچقان- ترکی مین موش یعنی چوہا-
سِجن- بکسر اول زندان یعنی قیدخانہ جسمین قیدی رکھے جائین-
سَجْن- بفتح اول سردی و سرما اور سردیکا موسم سجد کے بھی یہی معنے ہین-
سَجَّادَہ- جانماز جسپر نماز پڑھتے ہین صائب مدتے سجادہ تقوے
بدوش انداختی ÷ روزگارے ہم سبو بر دوش میباید گرفت-
سِجْدَہ- بکسر و بفتح اول عاجزی کرنا اور سر زمین پر رکھنا میر معزی
ستارہ سجدہ کند طلعت منیر ترا ÷ زمانہ بوسہ دہد پایہ سریر ترا ÷ صفدر فوقانی
خاک شو تا بر فلک قائم شوی مثل غبار ÷ سجدہ کن تا مر ترا بر اوج علیین برند ÷
سَجِیَّہ- خصلت خو عادت سبھاؤ-
سجاوندی- علم قرات قرآن مین ایک کتاب ہی-

سین با حای

سَحاب- ابر یعنی بادل جس سے مینھ برستا ہی- توحید لاشریک و یہمثال و
لایزال ÷ ذات پاک تست اسے عالی جناب ÷ گرچہ پنہانی تو از دیدہ
مگر ÷ ظاہری از ہر حجاب و ہر نقاب ÷ گاہ از ذرہ شوی پر تو فگن ÷ گاہ
روشن میشوی از آفتاب ÷ گاہ مثل برق ای پردہ نشین ÷ مینمائی
روی روشن از سحاب ÷
سحج- چھیلنا پوست اُتارنا اور خارش کی بیماری-
سُحُوج- چھیلا جانا-
سَحُور- وہ کھانا جو ماہ رمضان مین روزہ دار سحرگہی کو کھائین-
سَحَر- صبح ہونے سے پہلے جب روزہ دار طعام کھاتے ہین باقر کاشی
سحر بیاد تو خون جگر خورم تا صبح ÷ کہ روزہ دارم و سنت بود سحر خوردن ÷
سِحْر- بکسر اول جادو و افسون عرفی منم آن سحر بیان کز مدد مسیح
سلیم ÷ نبرد ناطقہ نام سخنم بے تعظیم-

سَحِیلَس- سریانی مین ایک خوشبودار گھاس کا نام ہی جسکو پارسی مین
خلال ماموں اور عربی مین اذخر کہتے ہین-
سَحْق- گھسنا اور پیسنا باریک کرنا-
سَحِیق- وہ چیز جو پیس گئی ہو-
سحبان وائل- ایک شخص فصیح و بلیغ کا نام ہی جسکا نام سحبان تھا
اور اُسکے باپ کا نام وائل-
سَحِیل- رشتہ یعنی تاگا-
سحبان- نام ایک شخص فصیح و بلیغ کا ہی- سعدی تو ان در بلاغت
بسحبان رسید ÷ نہ در کنہ بیچون سبحان رسید ÷
سَحَرَہ- ساحران بہت سے جادوگر-
سَحْنَہ- شکل اور منھ اور چہرہ-
سحرگاہ- صبح سے پہلا وقت صائب آدمی پیر چو شد حرص جوان
میگردد ÷ خواب در وقت سحرگاہ گران میگردد-
سَحَّاہی- قدیم زمانہ مین خط کو لفافہ مین ڈالکر بھیجنا مروج نہ تھا فقط
خط پر ایک مضبوط رشتہ باندھ دیتے تھے اسکا نام سحائی تھا-
سحابی- ایک شاعر کا تخلص ہی-

سین با خای

سخت سا- نام ایک کشتی کے داؤ کا جسکو گھسّا کہتے ہین-
سخا- سخاوت بخشش مہربانی جوانمردی مؤلف وقت حاجت
بندگان رابس توئی حاجت روا ÷ اسے سحاب لطف ابر رحمت و کان سخا
سخافت- تنگی و سبکی مقابل سنگینی کے و کم ظرفی و بیعقلی-
سخرت- مسخری کرنا ہنسی کرنا-
سُخُونت- گرمی اور گرم ہونا-
سَخْت- درشت و ناملائم یعنی کڑا و بخیل و ممسک اور کثیر و بسیار یعنی
بہت اور وزن کرنا- صائب بروے سخت نتوان گفتگو سے دلنشین
کردن ÷ بہمواری تلاش نام باید چون نگین کردن نظامی سریر و سر افراز
و تاج و تخت ÷ نہ چندانکہ آنرا تواند سخت ÷
سَخَاوَت- بخشش کرنا- جوانمردی کرنا سعدی مشو تا توان از سخاوت
بری ÷ کہ گوی بہی از سخاوت بری ÷
سخلات- جیل کے پھول سفید ہون یا زرد یا کبود-
سخج- ایک بیماری کا نام ہی جسکو ضیق النفس کہتے ہین-
سَخ- بدن اور کپڑے کا میل-
سخاخ- نرم زمین لائق زراعت-

سنجیر - ایک دوا کا نام ہی۔
سنجینوس - اذخر جو مشہور گھاس ہی۔
سنخش - پُرانا کپڑا اور پوستین اور ٹوپی وغیرہ۔
سنخوط - مکروہ و زبون۔
سَخَط - بفتحتین غصّہ و غضب و خشم۔
سُخط - بضم اول قبر یعنی گور۔
سخف - بفتح اول سُبک ہونا کم ظرف ہونا۔
سخیف - تنگ و سُبک و تنگ ظرف اور کپڑا جو گاڑھا بنا ہوا ہو۔
سخین - گرم پانی اور ہر ایک چیز جو گرم ہو۔
سُختن - وزن کرنا تولنا۔
سخون - سخن و کلام بات چیت۔
سخن - بفتحتین و بضمتین کلام بات چیت گفتگو شعر و کلام موزون نظامی
بنام جہاندار جان آفرین ٭ حکیمی سخن بر زبان آفرین۔
سخنو - چرب زبان۔
سختہ - تولا ہوا وزن کیا ہوا۔
سختانہ - سخت و درشت۔
سخرہ - زبون و زبردست و بیکار آدمی مفت کام کرنیوالا مسخری کرنیوالا
سختی - درشتی کرختی کڑاپن۔
سخی - سخاوت کرنے والا جوانمرد بخشش کرنے والا۔

سین با دال

سُداب - ایک گھاس کا نام ہی جو پودینہ کی طرح ہوتی ہی۔
سداد - بفتح اول راستی و درستی کردار و گفتار مین۔
سُداد - بضم اول ایک بیماری کا نام ہی۔
سد - دیوار بنانا بند کرنا حائل اور مانع ہونا ایک چیز کا دو چیزون مین صائب
بہر تماشی سد و گردم رخنۂ دل ٭ کاین سد ہر گہ بربند و سکندر بیتواند شد۔
سدید - راست و درست و محکم و استوار۔
سدیر - نام اُس عالیشان محل کا جو نعمان بن منذر نے بہرام گور کے واسطے بنایا تھا۔
سَدِر - بفتح اول و کسر دال حیران جسکی آنکھین حیرت سے کھلی رہجاتی ہین۔
سَدَر - بفتحتین تیرگی آنکھونکی گرانی اور گردش سر کی۔
سِدر - بکسر اول و سکون دال درخت کنار یعنی بیری کا درخت
سُدُس - بضمتین و بضم اول چھٹا حصہ ہر چیز کا۔

سدیس - گاے اور بکری اور گھوڑا پانچ برس کا اور اونٹ آٹھ برس کا۔
سدکیس - قوس قزح جو ایک رنگین کمان ابر مین مقابل آفتاب کے نمودار ہوتی ہی۔
سدوس - نیل جو مشہور چیز ہی اور اُس سے سیاہ کپڑے رنگتے ہین۔
سُداس - مژگان یعنی پلکین آنکھون کی۔
سدق - ترکی زبان مین ترکش کو کہتے ہین جسمین تیر رکھے جاتے ہین خصوصًا وہ ترکش جسمین ہر ایک تیر کے واسطے الگ خانہ بنا ہوا ہوتا ہی
خان خالص - خالص دل من صید سدقش شد کہ زشوخی ٭ از بال پری بر کمر خود سدقے داشت۔
سدوم - شہر لوط کے قاضی کا نام ہی جسنے قوم لوط کے جواز کا فتوی دیا تھا اور ہر ایک حاکم جو ظالم ہو اور نام ایک قریہ کا قوم لوط کے قریون سے
سدکام - نہایت ضرورت اور ناچاری کی حالت مین کسی سے کچھ مانگنا۔
سدیو - نام ایک دیو کا جو مکر و فریب سے انگشتری سلیمان علیہ السلام کی اپنے قبضہ مین لاکر انکی جگہ فرمان فرماے سلطنت ہوا۔
سدہ - فارسی مین آتش پرستونکا ایک جشن کا نام ہی جو ماہ بہمن کی دسوین تاریخ ہوتا ہی - اور نام ایک درخت کا جو ایران اور توران مین بڑا درخت ہوتا ہی - پانچ چھ آدمی ملکر اگر اُسکی اصل کو کلاوہ مین لین تو نہ اُسکے اُسکے سایہ کے نیچے دو سو آدمی تک آرام پا سکتے ہین پتے ایسے گنجان ہین کہ بارش کا پانی اُس سے گذر نہین سکتا - بلندی اور چوڑائی مین یہ درخت اپنا ثانی نہین رکھتا اس درخت پر قدرتی خریطے پائے جاتے ہین جو مچھرون سے بھرے ہوے ہوتے ہین اور بہار کی موسم مین پانی اُسکی شاخون سے نکلکر اور جم جاتا ہی وہ گوند کی جگہ سیاہی مین ڈالا جاتا ہی - لیکن غالبًا اس درخت کا نام ہی عربی مین شجرۃ البق اسکو بولتے ہین اور نام ایک قریہ کا نواح اصفہان مین اور نام اُس جشن کا جو سب سے پہلے کیومرث نے کیا جب اسکے گھر ایک سو لڑکی لڑکا ہو چکے تو اُسنے یہ جشن کر کے ایک رات مین اُن سب کی شادی کی۔
سُدّہ - عربی مین بضم اول و تشدید ثانی دہلیز دروازہ اور وہ گرہ جو انسان کے رودون مین پڑجاے - یا خانہ بند ہو یا ہچکی شروع ہو۔
سَدَنہ - بفتح سین و دال و نون بہت سے دربان و خادم و ملازم۔
سِدرہ - وہ درخت بیری کا جو ساتون آسمانون کے اوپر ہی اور جبرئیل علیہ السلام اسی درخت تک جا سکتا ہی آگے نہین بڑھ سکتا۔
سداشیہ - بلخ کے نواح مین ایک گانون ہو قدیم زمانہ مین اسجگہ بڑا آتشخانہ تھا اور آتشخانہ کے مالک کو برمک کہتے تھے جسکے معنی متولی کے ہین۔

سدابی - ایک گھاس کا نام ہے -

سین با راے

سرا - سرود کہنے والا گانے والا اور گھر اور مکان -
سَرّاء - عربی مین نرمی وراحت وخوشدلی اور فراخی اور دولتمندی -
سَرّاء ضَرّاء - رنج وراحت شادی وغمی شعر تو سلطانی تو رحمانی تو
سبحانی تو سبحانی + خبر گیر غریبانی چه در سرّا چه در ضرّا -
سرابالا - سیدھا راست جسمین کجی نہو - میر یحیی شیرازی
سرابالاست این ره تا به دون + ره تعریف تخشش طی کنم چون +
سراپا - تمام سر سے پانون تک بالکل اور خلعت جو کسیکو پہنایا جاے
نورالدین ظہوری - بمیدان نظاره گردم خورد + نگه را سراپاے بہم
خورد + محمد حسین شہرت - باندامم لباس سوختن از بسکه می زیبد +
چو شمع از تار و پود شعله پوشیدم سراپاے -
سرگردا - یہ ایک بیماری ہے جس سے انسان کا سر پھٹتا ہے - جب بیٹھا ہوا
اُٹھے تو آنکھون مین اندھیری آجاے عربی مین اسکو دوار کہتے ہین -
سربہا - خونبہا جو قاتل سے وارثان مقتول لیتے ہین -
سرنا - ایک ساز کا نام ہے جو شاہی نقارخانون مین بجایا جاتا ہے -
سروا - بات چیت شعر سخن کلام -
سرما - سردی کا موسم مولف چرا مستغرق فکر خور و پوش +
بود نادان بہر سرما و گرما -
سراب - شور زمین جو دور سے پانی کی طرح چمکتی ہوی نظر آوے مرزا
رضی دانش - موج آب زندگی برق سرابے بیش نیست + پا منہ از راہ
بیرون خضر گر رہبر شود +
سرخاب - نام ایک جانور کا ہے جو پانی کے کنارے پر اُڑتا نظر آتا ہے
وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسکی مادہ کو بخلاف اور پرندون کے سینے حیض کا
خون آتا ہے - اور نام ایک فن کا فنون کشتی مین سے - اور گلگونہ جو معشوق
چہرہ پر ملتے ہین اور سرخ رنگ شراب - اور نام ایک نہر کا نواح کابل
مین - اور نام ایک پہاڑ کا تبریز کے علاقہ مین اور نام ایک کتاب کا
رمل کے علم مین - اور نام رستم کے لڑکے کا جسکو سہراب بھی کہتے تھے محمد سعید
اشرف شہنشہ جور و سوی کابل کند + ز سرخاب خون صد دو گل کند + وله
ز اشکش دیده الوند پر آب + ز تیغش خفته در خون کوہ سرخاب سلیمان ساوجی
تراب سرخ می افتاده است زال خرد + چه جاے زال که رستم بفتد از سرخاب +
سرکوب - وہ عمارت جو دوسری عمارت پر غلبہ رکھتی ہو چنانچہ
دمدمہ جو قلعہ کے باہر بنایا جاے اور اُسکا گولہ قلعہ کے اندر جا کر
پڑے - طالب کلیم - نخستین قلعه آن سرکوب افلاک + که بالا برده
تا هم عالم خاک +
سُرب - بضم اول وثانی سیسا جسکی بندوق کی گولیان بناتے
ہین اور یہ ایک قدرتی اور کانی دھات ہے
سرداب - سردخانہ جو زمین مین بنایا جاے تاکہ گرمیون کی موسم
مین اُس سے فائدہ اُٹھایا جاے -
سراندیب - مشہور جزیرہ اور پہاڑ ہے جس جگہ آدم علیہ السلام
بہشت سے نکلکر آیا اور مقام کیا آدم علیہ السلام کے قدم کا نقش
اُس پہاڑ مین موجود ہے قبر بھی حضرت آدم کی وہان ہی ہے ایک شہر بھی
اُس جزیرہ مین ہے اُسکو بھی سرندیب کہتے ہین اس زمانہ مین اس جزیرہ کو
سیلان و سیلون کہتے ہین اور ہند کے ملک سے جنوب کی سمت
واقع ہے سنگلدیپ بھی اُسکو کہتے ہین -
سَروب - ہندی زبان مین کلام و گفتگو بات چیت -
سریرت - راز کی بات - بھید کی بات پوشیدہ بات پردہ کی
بات و خصلت و طبیعت -
سُرعت - تیزی کرنا اور جلد کرنا کام کا -
سُرادقات - سراپردے خیمے پردے -
سرشت - ایک چیز دوسری چیز مین ملی ہوئی - مٹی اور پانی آپس مین
ملی ہوئے آٹا پانی مین گوندھا ہوا - خلقت آفرینش طینت سعدی
بنی آدم سرشت از خاک دارد + اگر خاکی نباشد آدمی نیست -
سرایت - اثر کرنا تاثیر کرنا -
سرقت - چوری کرنا -
سرخ پشت - ایک پرندے کا نام ہے - میر خسرو - تیر کی تعریف مین
نگاه پیدن چو نقاب درشت + گرده زغن کرکس خود سرخ پشت -
سراٹ - ایک پہاڑ یمن کے ملک مین ہے -
سرخ بت - یہ دو بڑے بت موضع بامیان مضافات کابل جو بدخشان
مین پتھر کے بنے ہوئے ہین بلندی انکی پچاس گز اندر سے پولے لوگ زینہ
سے وہان اندر جا کر دیکھ آتے ہین یغوث و یعوق اُنکے نام ہین بعض انکو
لات منات کہتے ہین -
سرگذشت - وہ حالت جو اپنے اوپر گذر چکی ہو -
سرنوشت - مقسوم قسمت طالع نصیب -
سرمست - بیہوش شراب پیے ہوے -
سرپیچ - نیند کی حالت مین اونگھنا - سیر نجات زندگی راز و قیامت

بیچ میسد انیم ما + مرگ را در شام غم سپیچ میدانیم ما -

سراج - چراغ و آفتاب عالمتاب - نعتیہ از مولف - زآب فیض سحاب و نبیت ہمیشہ سر سبز باغ دنیا + ز نور روی تو پرتو افگن سراج دین و چراغ دنیا +

سرّاج - بفتح اول و تشدید راے زین بنانے والا اور زین بیچنے والا -

سرج - بفتح اول وہ زین جو گھوڑے پر باندھین -

سرنج - بفتح اول و ثانی خیمہ کی چھال ترادہ جلال الدین انوری تا خیام سرنج رابنود سرنج ہیچون ستون + تا طناب سرنج رابنود گرہ چون نکہ تاب +

سراغوج - گیسو پوش عورتون کا -

سرنج - کاسہ چوبین لکڑی کا پیالہ -

سرمج - ایک دوا ہی جسکو اسفناج رومی کہتے ہین صحرائی کو اگر جوش دیکر حاملہ عورت کو پلائین بچہ فی الفور گر جاوے عربی مین اسکو سرمق کہتے ہین

سرنج - جھانجھ جسکو بجاتے ہین -

سروج - ایک جنگل کا نام ہی جو کرمان کے علاقہ مین ہی -

سرخ - بفتح سین و سکون راے و حاے مہملہ موقوف چارپایہ چرنے والا اور چرنا اور چرنے پر چھوڑنا جانور کا اور بلند درخت اور آسانی -

سرلوح - کتاب کے پہلے ورق کے سر پر جو نقش لکھے جاتے ہین

سرخ - مشہور رنگ ہی اور نام ایک چھوٹی سی چڑیا کا جو نہایت سرخ ہوتی ہی ہندی مین اسکو لال بھی کہتے ہین جو ترجمہ سرخ کا ہی حافظ رنگ تزویر پیش مانبود + شیر سرخیم و افعی سیہیم

سرمد - ہمیشہ اور دائم اور نام ایک بزرگ ولی کا جو مجذوبی کیحالت مین بسبب کہنے کلمہ ہمہ اوست کے اورنگ زیب عالمگیر کے حکم اور علما کے فتوی سے قتل ہوا - یہ رباعی اُسکے تصانیف سے ہی - رباعی سرمد غم عشق بوالہوس را ندہند + سوز دل پروانہ مگس را ندہند + عمرے باید کہ یار آید بکنار + این دولت سرمد ہمہ کس را ندہند +

سُرُود - نغمہ و سماع یعنی راگ حسفہ فوقانی بجسلام محبت سرود تیغ جان + سماع مردہ دلانرا ہمیشہ زندہ کند -

سرد - مقابل گرم کے مشہور لفظ ہی مولف شدہ سرد این آتش سوز درون + از دو چشم اشکبار و آہ سرد +

سرخ بید - ایک قسم بید کے درخت کا -

سربند - عصابہ جو عورتین سر پر رکھتی ہین شفیع اثر - این سربند کہ در دست شکستہ افتادہ است + کے بسبی ہوسیائی میکند از کف رہا

سرحد - حد فاصل دو زمینون مین کوئی نہر ہو یا پہاڑ یا کوئی اور نشان جو دونون مین حائل ہو عبد اللہ ہاتفی طرفدار سرحد نگہبان راہ + گریزان ہمہ جانب تختگاہ +

سرہند - یہ عالیشان شہر صوبہ نشین اسلام کی سلطنت کے وقت ہند مین تھا بڑے بڑے علما و فضلا و مشائخ و امرا اسمین رہتے تھے چونکہ ہند کے ملک کی ابتدا اُسی سے تھی اور پنجاب کے ملک کا خاتمہ اسپر تھا سرہند اسکا نام رکھا گیا تھا گرو گوبند سنگہ کے فرزند اس شہر مین زین خان صوبہ کے حکم سے قتل ہوئے اس سبب سے سکھون کی قوم اسکی سخت دشمن ہوگئی اور انھون نے بار بار اسکو لوٹ کر اور رعایا کو قتل کرکے اُجاڑ دیا اب بحیثیت ایک گانون کے رہ گیا ہی اور امام ربانی مجدد الف ثانی پیر شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ اسی شہر مین رہتے تھے اب بھی انکا روضہ مقدس وہان ہی - قطعہ از مولف - شیخ احمد ولی مجدد دین + شاہ فرخ لقاے سرہندی + برتر از برتران عالم بود + پیش حق پیشواے سرہندی +

سردرد - مشہور لفظ ہی عربی مین اسکو صداع کہتے ہین جعفر قولی بدرد دل آنکس کہ شد مبتلا + نہ دیدست از دیدہ روے شفا + کہ از سوزش سینہ سرد کرد + کہ از ناتوانی کمر ورد کرد +

سراد - وہ سرکہ جو کھجور سے بنایا جاے -

سراوند - چوتھا حرف واو ژندی زبان مین وہ رنگ جو زرد ہو -

سرساد - ایک گھاس ہی جسکے پتے ہاتھ کی انگلیون کی طرح ہوتے ہین فارسی مین اسکو پنج انگشت اور عربی مین ذو خمسہ کہتے ہین -

سرلاد - سر دیوار منڈیر -

سرند - عشق پیچہ جو بیل مشہور ہی اور نام ایک فن کا فنون کشتی سے -

سِرّ - وہ راز جسکا پوشیدہ رکھنا ضرور ہو علی نقی کمرہ - گوش جام صدف گو پر اسرار شود + از سر حقہ سر مہر گلشان برخیزد +

سَر - مشہور لفظ ہی عربی مین اسکو راس کہتے ہین - ہر چیز کی بلندی اور ابتدا چنانچہ سر ہفتہ و سر ماہ و سر سال اور میل و خواہش - سعدی سر سرفرازان گردن فراز + بدرگاہ او بر زمین نیاز + میر خسرو روزن ہر گوش پر از بانگ رود + گنبد سر پر ز صداے سرود -

سربدار - یہ ایک خاندان بادشاہی تھا اور زمانہ انکی سلطنت کا سلطان ابو سعید بن کنجا سو خان کی وفات کے بعد ہوا تاریخ مین اسکا مفصل حال ہی محمد قلی سلیم زدہ خیمہ بطرف جوئبار ان + کند ہمچون سپاہ سربداران +

سر دفتر - دیوان و متصدی و افسر دفتر کا۔ شعر سر دفتر آیت نکوئی
شاہنشہ ملک خوبروئی + صائب۔ صائب این تازہ غزل کز
قلمت ریختہ است + جاے آنست کہ سر دفتر دیوان باشد۔
سرشار - وہ چیز جو سر سے گرتی ہو یعنی حد سے زیادہ چنانچہ
خندہ سرشار و گریہ سرشار و نشار سرشار و مستی سرشار و شوق سرشار
صائب۔ مخمور را نگاہ تو سرشار میکند + بد مست را عتاب تو ہشیار میکند +
سریر - بادشاہی تخت جسپر اجلاس ہو۔ سعدی ندیدیم چنین
گنج و ملک و سریر + کہ وقف ست بر طفل و برنا و پیر +
سرائر - سر کی جمع بہت سے راز اور بھید جو چھپانیکے لائق ہون
سردار - امیر حاکم افسر صاحب رتبہ۔ شعر او مہر کار خویش
مختار ست + در سران سرگروہ و سردار ست +
سرور - صاحب عزت و آبرو و سردار اور تخلص مولف کتاب کا
جسکا نام غلام سرور اور تخلص سرور ہے۔ مولوی معنوی
یک نظر فرما کہ مستغنی شوم ز ابنای جنس + سگ چو شد منظور نجم الدین [illegible] +
سرباز - جس شخص کو اپنے سر کی پروا نہو۔ اور وہ چیز جسکا سر کھلا ہو۔ صائب
راز صائب در زبان بیخودی رسوا نشد + بوی می در شیشہ سر باز خود را جمع کرد +
سرآغاز - ابتدا ہر ایک کی مقابل سرانجام کے۔
سرتیز - بیاے مجہول نوک نیزہ کی اور پلکین معشوق کی آنکھون کی اور
وہ آدمی جو تیز زبان اور چالاک ہو۔
سرشیر - اوزار معمار کا جس سے کہگل مکانون پر کرتے ہین گل مالہ بھی اسکو کہتے ہین
سرخس - یہ ایک شہر خراسان مین ہے۔ اور نام ایک دوا کا جسکو
کھیل دار بھی کہتے ہین اور وہ ایک لکڑی سیاہ رنگ ہے جو دریاے
خزر کے کنارے پائی جاتی ہے۔
سرخیوس - ایک دوا کا نام ہے جسکو شیطرج کہتے ہین۔
سرکش - نام ایک مرغ خوش آواز کا ہے۔
سدکیس - قوس قزح یعنی کمان جو ابر مین ظاہر ہوتی ہے سدکیس
بدال مہملہ بھی اسکا نام ہے۔
سریش - بکسر تین مشہور چیز ہے جس سے لکڑی لکڑی سے چپکائی
جاتی ہے۔
سربخش - وہ حصہ جو بڑے سردار کے واسطے ہو اور سب سے
زیادہ۔ نظامی - چو نوبت بسر بخش او رسید + شتر بار زر تا بخروار رسید +
سرپوش - اوڑھنی جو عورتین مختصر کپڑا گھر مین بیٹھکر سر پر رکھتی
ہین اور کلاہ یعنی ٹوپی اور ڈھکنا جو ہنڈیا وغیرہ برتنون پر رکھتے ہین۔

محسن تاثیر۔ آسمان دون پرست دو دو نفسے ہر نفس شے پرورد + عیب خود را
تا کند سرپوش خسی می پرورد +
سرزنش - ملامت کرنا۔ برا بولنا طعن کرنا۔ مرزا صائب از روے
نرم سرزنش خار میکشم + چون گل ز حسن خلق خود آزار میکشم۔
سرش - بلغت ژند و پاژند بہ وزن یون۔
سرکش - نافرمان و مغرور و بدخو۔ مؤلف۔ چرا ز حکم بہ پیچید
گردن این محکوم + چرا ز عہد اطاعت کشید پا سرکش +
سرمش - زرد آلو جو خشک ہو گیا ہو۔
سروش - نام سترھوین دن ہر ایک ماہ شمسی کا اور نام ایک
فرشتہ کا اور نام جبرئیل کا اور ہر ایک فرشتہ۔ حافظ۔ عفو الہی
بکند کار خویش + مژدہ رحمت برساند سروش۔
سرطراط - پالودہ جو مشہور چیز ہے۔
سرخط - سند قبالہ وثیقہ اور قطعہ خوشخط لکھا ہوا جسکو دیکھکر
مبتدی تعلیم خوشنویسی کی حاصل کرتا ہے۔
سراع - بکسر اول تازہ شاخین انگور کی جمع سرع
سریع - شتاب کرنے والا اور جلد اور نام ایک بحر کا عروض
مین جسکا وزن یہ ہے مفتعلن مفتعلن فاعلن۔
سراغ - پاؤن کا نشان۔ میرزا بیدل۔ زنالہ قوت واماندگان
بود بیدل + عصا سراغ قدم میدہد بمور لنگ +
سرریج - وہ مقام جس سے پانی نکلکر کسی حوض یا تالاب مین جمع ہو
سرپیچ - انگور کا خوشہ۔
سرشف - سرسون جو مشہور تخم ہے اور اس سے تیل نکالا جاتا ہے۔
سرف - عربی مین وہ خرچ جو بیجا کیا جاوے اور وہ مال جو بیفایدہ
صرف ہو اور درد گلو و درد سینہ جو کھانسی سے پیدا ہو جاوے۔
سرفہ - کھانسی جسکو سرفہ بھی کہتے ہین عربی مین اسکو سعال بھی کہتے ہین
سرادق - بضم سین و کسر دال سراپردہ شامیانہ خیمہ تنبو۔
سروق - بفتح سین و سکون واو جوتا جو مشہور ہے [illegible]
سرمق - بفتح اول و میم معرب سرمہ اور نام ایک سبزہ کا جسکو
ہندی مین بتھوا کہتے ہین۔
سرمشق - استاد کا خط جسکو روبرو رکھکر شاگرد مشق کرے
ملا طاہر غنی۔ گذار از قلم و نقد سیہ پا بیرون + سرمشق [illegible]
سرشک - بکسر شین اور بعض کے نزدیک بکسر اول و فتح دوم
آنسو جسکو فارسی مین اشک بھی کہتے ہین۔ ابوطالب کلیم [illegible]

زنجیر سرشک + دست و پایم بستہ و سر داد در صحرا مرا +

سرمہ ناک - وہ آنکھ جو سرمگین ہو - ابو البرکات منیر بخط روشن

تو روزگار می نازد وہ کہ سرمہ ناک از گشتہ چشم بینائی -

سرہنگ - لشکر کا سردار اور امیر لشکر کا و نقیب چوبدار اور شہر کا

کوتوال سعدی بسرہنگ سلطان نگہ کرد تیز کہ لطفش بیند ز خوش پرہیز

سر پاک - لڑکون کے ایک کھیل کا نام ہی -

سر چنگ - زور کا وہ ہنر جو کسی کے سر پر مارا جاسے - آرزو جہان

بازیچہ طفلان بود عزت چہ میخواہی - کہ سرچنگ جفای آسمان تا بستہ شان را

سرتک - وہ لڑکا جسکی ہن بھی ہو -

سراویل - ازار پاجامہ وہ کپڑا جو نچلی بدن کا پردہ ہو -

سرافیل - فرشتہ مقرب کا نام ہی جسکو اسرافیل بھی کہتے ہین بیابان

کو صور پھونکنا اسکا خاص کام ہی - نعتیہ از مولف جو شد سست

از پریدن پر جبریل + زپاسے عرش شد حافظہ سرافیل +

سرمل - قوم مغول سے ایک سردار کا نام ہی -

سربال - چادر جو اوڑھی جاتی ہی -

سرخ بال - ایک پرندہ کا نام ہی جسکو تیہو بھی کہتے ہین کبک کی

صورت پر مگر اس سے چھوٹا ہی -

سرخیل - رئیس قوم کا سردار جماعت کا -

سرمنزل - قریہ جملہ منزل - وہ مقام جہان مسافر کو پہونچنا

منظور ہو حافظ گر بسرمنزل سلمی رسی ای باد صبا + چشم دارم کہ سلامی

برسانی زمنش +

سرال - وہ شخص یا وہ چیز جو ہمیشہ گردش مین رہے -

سرکل - گوی یعنی گیند جس سے لڑکے کھیلتے ہین

سرسام - ایک بیماری کا نام ہی جس سے دماغ مین ورم پیدا

ہو جاتا ہی - اور سخت بے آرامی و خلل دماغ بیمار پر ظاہر ہوتی ہی ملک

دو رکن از سر بخار تعفن و کین + از دماغ خود ببر سرسام را +

سرانجام - ہر ایک کام کا اخیر اور اسکا ساز و سامان - صائب

از تن زارم اگر رشتہ سرانجام دہند + مانع روشنی دیدہ سوزن نشود -

سرلیشم - سریش جو مشہور چیز ہی -

سرومم - نام ایک شخص کا جو نہایت بدآواز تھا -

سُرم - بضم اول رودہ کا منہ جس سے فضلہ خارج ہوتا ہی - یہ لفظ

عربی ہے -

سرم - بکسر اول و فتح ثانی پوست خراشیدہ یعنی چمڑا چھیلا ہوا

یہ لفظ ترکی ہی -

سرطان - بہر سہ حرکات فتح نام ایک جانور کا ہی جو نہرون اور

تالابون مین ہر ایک غوک یعنی مینڈک کے ہوتا ہی عنکبوت کی صورت پر

ہندی مین اسکو گنگچہ و کنکٹہ کہتے ہین بکسر کاف رفتار اسکی کبھی سیدھی

سر کی طرف ہوتی ہی اور کبھی الٹی پانون کی طرف - اور نام چوتھے برج کا

بروج آسمانی سے جو چاند کا گھر ہی - اور فارسی مین نام ایک ورم یعنے

دنبل کا جو اکثر پیٹ پر ہوتا ہی نہایت سخت مادہ سوداوی سے وہ سبب

پیدا ہوتا جاتا ہی - سرخ اور سبز رنگین سرطان کی ٹانگون کی طرح اسمین

نمودار ہوتی ہین - سنجر کاشی - مہر چون سایہ ببرج سرطان انداز د +

اختران را ز قیامت بگمان اندازد +

سرون - بفتح اول و ضم ثانی ہر ایک حیوان کی شاخ یعنی سینگ

سرون - سرین - بضم اول کفل جو تڑ اور مقعد یعنی بیٹھنے کا

مقام انسان کا - محمد سعید اشرف - از سرینش تا میان جوش

لطافت میزند + پرتو خورشید بر کوہ و کمر افتادہ است + علی رضا تجلی

ای مہر سپہر خوبی و ماہ زمین + بر خاتم حسن گشتہ لعل تو نگین + ہی ہی چہ

لطافت چہ مقابلی وارد + خرمن شدہ ماہتاب و گردیدہ سرین +

سرحان - گرگ یعنی بھیڑیا جو ایک درندہ مشہور ہی -

سرقین - معرب سرگین یعنی گوبر -

سریان - بفتحات سرایت کرنا تاثیر کرنا - داخل ہونا ایک چیز کا

دوسری چیز کے اجزا مین -

سرای نعمان - وہ عالیشان محل جو نعمان بن منذر نے تعمیر کیا تھا

سرگران - بیہوش اور مست سے - بکی بیہش و سرگران از شراب +

یکسر مست خواب و دگر بیخواب +

سرکنگبین - سرکہ و انگبین جو سکنجبین مشہور ہی - یہ ایک مشہور

شربت ہی مولوی معنوی از قضا سرکنگبین صفرا فزود + روغن بادام

خشکی مینمود -

سردین - بفتح سین و کسر دال ایک قسم کی مچھلی کا نام ہی جسکو یونانی

مین سماردغ کہتے ہین -

سرغین - سرنا جو ایک ساز بجانے کا ہی - نائی ترکی بھی اسکو

کہتے ہین -

سریقون - سندور جو شنجرف سے بنایا جاتا ہی -

سرو - مشہور درخت ہی صائب قد موزون ترا نیست بشاطہ نیاز

مصرع سرو بتقطیع چہ حاجت دارد -

سرپنجہ۔ زور قوت طاقت اور ہاتھ کا پنجہ اور آدمی صاحب طاقت و زور ورد توانا و زبردست سعدی یکی بادشہ زادہ در گنجہ بود + کہ دور از تو ناپاک و سرپنجہ بود +

سرداب۔ تہ خانہ یعنی وہ گھر جو دو میان زمین کے سردی کے واسطے بنایا جاتا ہی۔

سرخچہ۔ پھنسیان جو جسم پر نکل آتی ہین۔

سروالہ۔ شلوار۔

سُرّہ۔ بضم اول و تشدید ثانی ناف۔

سَرَہ۔ بفتحتین و تخفیف راسے خالص و پاکیزہ اور اچھی چیز۔

سَرایندہ۔ سرود کرنے والا گانے والا۔

سُرفہ۔ کھانسی جو ایک بیماری ہی۔

سَرقہ۔ دزدی یعنی چوری۔

سَرِیَّہ۔ بفتح اول و کسر ثانی وہ لشکر جو پانچ کس سے زیادہ چار سو تک ہو۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سریہ اُس لشکر کو کہتے تھے جسمین حضرت بذات خود تشریف نہ رکھتے تھے اور افسر فوج کا کوئی اصحاب ہوتا تھا۔

سُرِّیّہ۔ بضم اول و تشدید راسے مکسور و تشدید یا سے وہ زر خریدہ لونڈی جو ہمبستری کے واسطے خریدی گئی ہو۔

سرپچہ۔ ایک جانور کا نام ہی جسکو ہندی مین ممولا کہتے ہین۔

سراسیمہ۔ حیران و پریشان و شوریدہ سر۔

سراقہ۔ عرب کے قبائل مین سے ایک قبیلہ کا نام ہی۔

سرون گاہ۔ وہ مقام جس جگہ سے حیوان کے سینگ نکلتے ہین شقیقہ بھی اسکو کہتے ہین۔

سرگروہ۔ جماعت کا افسر قوم کا افسر۔

سراپردہ۔ خیمہ تنبو اور پردہ دار مکان۔ سرادق اسکا معرب ہی۔ میرزا صائب۔ فلک بسیر و پا حلقہ بیرون در ست + در تماشے کہ سراپردہ جانانہ زدند۔ حافظ بزن بر اوج فلک حالیا سرادق عشق + کہ خود برو اجلت عاقبت بزیر مغاک +

سرچشمہ۔ مزید علیہ چشمہ وہ مقام جس سے پانی پیدا ہو نکلتی ہو سعدی دیدیم بسی آب ز سرچشمۂ خرد + چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد +

سرحلقہ۔ رئیس و سردار و افسر قوم ابو طالب کلیم گر حلقہ دام دگر حلقہ زنجیر + سر حلقہ بغیر از من دیوانہ کدام ست۔

سردہ۔ ایک قسم کے خربزے کا نام ہی جو اعلی اقسام مین سے ہی۔

سرمہ۔ مشہور لفظ ہی وہ پتھر جسکو پیسکر آنکھون مین ڈالتے ہین اور سرمہ دان وہ ظرف جسمین سرمہ رکھا جاتا ہی محمد طاہر نصیر آبادی

بخاک من نظری افگند آن سرو خرامان را + زگرد سرمہ بالا میزند دامان شرگان را + سلیم شکست رنگ بجای خمار گلہا را + کہ لالہ آمد و یک سرمہ دان شراب آورد +

سراجہ۔ نام ایک گانون کا مضافات قم سے اور نام ایک بیماری کا جو گھوڑون اور خچرون کو ہوتی ہی۔

سراچہ چھوٹا گھر اور خس پوش جھونپڑا۔

سُرخہ۔ ایک قسم کا کبوتر اور گھوڑا۔ اور نام ایک موضع کا مضافات سمنان سے اور نام افراسیاب کے بیٹے کا جو فرامرز نے اسکو زندہ پکڑا اور رستم نے سیاوش کے عوض اُسکو قتل کیا۔

سرغمہ۔ بہت بڑا عظیم المرتبہ۔

سرکہ۔ مشہور دوا ہی جو قند اور انگور سے بنایا جاتا ہی۔

سرنامہ۔ ہر ایک تحریر کی ابتدا۔ سعدی سرنامہ بنام آن خداوند کہ نقش راست با ہر نام پیوند

سرجملہ۔ خلاصہ اور انتخاب خواجہ نظامی زبان بزبان گنج پرداختم وزان جملہ سرجملہ ساختم +

سرنائی۔ شہنائی جو شادیون مین بجاتے ہین۔

سَرِی۔ سرداری افسری۔ حکومت صفدر نو خانی دادیم بسرور عالم + سروری و سری و سرداری +

سرپلی۔ ٹھوکر جو چلتے چلتے لگ جاتی ہی۔

سرگوشی۔ کانا پھوسی کسی کے کان مین آہستہ آہستہ باتین کرنا آشنا تا وگر بر سرم چہ می آرد + زلف او باز گرم سرگوشی ست +

سرائیلی۔ سامری وغیرہ کفار بنی اسرائیل جو مرتد ہوکر گوسالہ پرست ہوگئے تھے۔

سرابیلی۔ بفتح سین و کسر با سے موحدہ چیز یعنی مخنث۔

سری سقطی۔ نام ایک مشہور بزرگ کا جو ولی کامل اور پیشوای طریقت تھا۔

سراے۔ گھر اور منزل اور نام ایک شہر کا۔ کاروانسرا مہمانسرا کمال خجند اگر سرای چنین ست و دلبران سرای + بیار بادہ کہ من فارغم ز ہر دو سرای محمد جان قدسی مدہ راہ در خانہ بیگانہ را + وگرنہ سرا نام کن خانہ را +

سردی۔ سرد ہونا ٹھنڈا ہونا مقابل لفظ گرمی کے اور بیرحمی و بےمہری طاہر نصیر آبادی۔ منم آن میوہ کز خامی بہ بستان ہوس ماندم + زبس ایام سردی کرد با من نیم رس ماندم۔

سرمئی۔ وہ رنگ جو سرمہ کے رنگ سے مشابہت رکھتا ہو اقبال اسمعیل کاشف اہل دل با آب دیدہ دستار جان شستہ اند تا لباس سرمئی اخشیم مستقش آل کردہ +

سروری - سرداری افسری والا جاہی مولف - سروری
بے دست و پا از سرور دنیا و دین + یافت تاج افتخار و کرد حاصل سروری

سین با زای

سزا - معاوضہ اور بدلہ کسی کام کا اور مطابق و موافق الٰہی نہی
دوزخ پئے عقوبت ما کافران کم است + مارا مگر بآتش ہجران سزا کنند
نظامی سکندر بفرمود کاروشتاب + سزای نوشتہ نویسد جواب +
سزاوار - لائق یعنی جس معاوضہ کے کوئی لائق ہو صفت
فوقانی - خطا کارم خطا کارم + گنہ گارم گنہ گارم گنہگارم +
وہی ہرچہ سزای مالک ملک + سزاوارم سزاوارم سزاوارم +
سزاول - ترکی میں حاصل کرنے والا کسی چیز کا -
سزیدہ - لائق و سزاوار -

سین با سین

سست - چست کے مقابلہ پر ڈھیلا بیکار نکما جو پورا کام
نہ کر سکے نظامی - کمر بست ایرانیان سست کرد + بایران کمر
چست کرد +
سسطیعون - سریانی زبان مین ایک تخم کا نام ہی جسکو زحرا
بھی کہتے ہین اور اسکے درخت کے پتے کرفس کے مانند ہین اسکا
استعمال عقرب کے زہر کا علاج ہی -
سستی - ڈھیلا ہونا - ناکارہ ہونا قطعہ از مولف -
چستی کار کن اے صاحب کار + کہ افزاید سر چستی تندرستی
اگر سستی کنی و سست باشی + نہ بینی بار دیگر روی چستی

سین با طا

سطر کا - بکسر سین و فتح طا و سکون را سے یونانی مین زیتون
کے گوند کو کہتے ہین جو کھانسی کا علاج ہی -
سطرلاب - اصطرلاب جو حکما اور نجومیون نے آسمانی ستارون
کی انکشاف گردش کے لیے آلہ تجویز کیا ہوا ہی تشریح اس
لغت کی پہلے بھی درج کتاب ہو چکی ہی -
سطوت - قہر کرنا سخت پکڑنا - حملہ کرنا -
سطح - بفتح اول وہ میدان جو طول و عرض رکھتا ہو عمق نہین
سطیح - خیبر کے قلعون مین سے ایک قلعہ کا نام ہی -
سطر - لکھنا اور رستہ اور صف اور قطار نعتیہ از مولف
سطرین ورد بار یکتا و اسی کی پیوستہ ہم + وہ جگہ لکھا ہوا صل علی محمد علیہ
سطبر - معرب ستبر کا یعنی موٹا اور غلیظ -

سطور - سطر کی جمع ہی بہت سی سطرین یعنی صفین و قطارین -
سطاخینس - یونانی لغت ہی فارسی مین گندنا کوہی اسکا نام ہی
سطبوس - یونانی مین انار کے پھولون کا یہ نام ہی جسکو فارسی
مین گلنار کہتے ہین اور معرب اسکا جلنار ہی -
سطوع - بلند ہونا روشن ہونا -
سطل - چوڑا برتن برنجی ہو یا مسی وحشی رخش براق نعل تو زیبد
بوقت آب + سطل مہ ستارہ زندہ پر از آب کوثرش +
سطاریون - ایک گھاس ہی جسکو فارسی مین بیدابران کہتے ہین -
سطر یثیون - یہ ایک جڑ ہی جسکو شیرازی مین چوبک اشنان
کہتے ہین - آذریونجی اسی کا نام ہی -

سین با عین

سعد موفا - نام ایک شخص کا جو با مروت و وفادار تھا اور نام
مشتری ستارہ کا اور نیک بختی جو حد سے زیادہ ہو -
سعد و اسما - یہ دو نام عاشق و معشوق کے ہین جو عرب کے
رہنے والے تھے - سعد عاشق تھا اور اسما معشوقہ -
سعت - بفتح و بکسر اول و فتح عین فراخی و گنجایش و دولتمندی -
سعایت - غمازی و بدگوئی و بدزبانی - محمد رفیع واعظ در ودیدہ
میتوان زرخش و یدلی ریود + تیر سنگ سست رنگ نماید سعایتی -
سعادت - نیکبختی خوبی نیک طالعی سعدی این سعادت بزور
بازو نیست + تا نہ بخشد خدا ے بخشندہ +
سعد ذابح - بائیسوین منزل کا نام ہی منازل قمر سے اور وہ دو ستارے
ہین جنکے درمیان فاصلہ ایک گز کا ہے اور پاس ہی انکے ایک ور ستارہ
چھوٹا سا ہی اور ایسا معلوم ہوتا ہی کہ وہ اسکو ذبح کر رہے ہین -
سعد - بفتح اول نیک اور نام ایک بادشاہ کا جو فارس مین حکومت
کرتا تھا سعد زنگی اسکا خطاب تھا - سعدی - نرفت از جہان
سعد زنگی بدرد + کہ چون تو خلفے نام بردار کرد +
سعد - بضم اول ایک گھاس کا نام ہی جسکو ہندی مین ناگرموتھا کہتے ہین
سعد السعود - ستارہ مشتری اور نام چوبیسوین منزل کا منازل قمر سے
سعود - وہ ستارے جو باسعادت ہین مثل زہرہ و مشتری و قمر -
سعاد - نام ایک خوبصورت عورت کا جو عرب مین تھی -
سعید - صاحب سعادت نیک طالع مولف چہ طالع یاور و بخت
سعید است + شب ما شب برات و روز عید است +
سعر - نرخ ہر ایک چیز کا جو فروخت کی جاوے -

سَعتَر - ایک گھاس ہی جسکو فارسی مین آدیس کہتے ہین-
سعد اکبر - مشتری ستارہ-
سَعِیر - جلتی ہوئی آگ شعلہ آگ کا اور نام چوتھے طبقے کا طبقات دوزخ سے صفدر رفوقانی آب اشک از دیدہ چون باران ببارد تا کہ گردد سرد نار این سعیر ٭
سعتر باز - چپٹی باز عورت جو آلت چرمین بنا کر باتفاق دوسری عورت کے جماع کرین ایسی عورت کو سحاقہ بھی کہتے ہین طبقین بھی اور سعتری اس عمل کا نام ہی - میر خسرو آرسے جماع حملۂ مرغان جماع نیست ٭ کون را بکون نہند وہمی سعتری کنند ٭
سعوط - ناک مین دوا اوٹالنا-
سعال - سرفہ یعنی کھانسی جو ایک مشہور بیماری ہی-
سَعدان - نام ایک بستی کا شروان مین-
سَعدَین - زہرہ و مشتری-
سَعفَہ - گنج کی بیماری جو اکثر سر پر ہو جاتی ہی اور مدت مدید تک رہتی ہی بلکہ تمام عمر کے واسطے سر کے بال اکھڑ جاتے ہین پھر پیدا نہین ہوتے
سَعی بفتح اول و سکون عین کوشش کرنا قصد کرنا ارادہ کرنا دوڑنا اور دوڑنا حاجیون کا صفا اور مروہ مین سات بار اور کسب کرنا صائب توسعی کن کہ درین بحر پاید پد شوی ٭ وگرنہ ہر خس و خار سے شناوری اند-
سعدی - نام ایک مشہور شاعر کا ہی جسکا اصلی نام مصلح الدین تھا اور تخلص سعدی اور یہ تخلص اسنے سعد ابوبکر بن سعد زنگی کے نام پر مشہر کیا تھا جو اسوقت فرمان فرماے پارس تھا سعدی براہ تکلف مرو سعد یا ٭ اگر صدق داری بیار و بیا-

سین با عین

سَغَب - گرسنگی یعنی بھوک خواہش-
سُغد - سمرقند کے پاس ایک شہر ہی آب و ہوا جسکی نہایت لطیف ہی بہشت دنیا اسکو کہتے ہین پارسی سغدی جو زبان پارسی کے اقسام مین سے ہی اسی شہر کے ساتھ منسوب ہی اور زمین پست و نشیب جسمین بارش کا پانی جمع ہو-
سغرنہ اور سُغُر - خار پشت کلان جسکو ہندی مین سیہ کہتے ہین-
سُغود - ایک پرندہ کا نام ہی جسکو فارسی مین سنگخوارہ کہتے ہین اور عربی مین قطاۃ اور یہ چھوٹا سا مرغ سیاہ رنگ کا گل دار ہی-
سقنقور - رومی زبان مین ایک جانور کا نام ہی جسکو فارسی مین سقنقس اور کبیل کہتے ہین اور دوا مین مستعمل ہی-

سَغ - بیل کے سینگ اور وہ عمارت جو بلند اور طویل ہو اور گنبد سفید سیاہ
سغراق سُغقراق - ترکی مین کوزہ لولہ دار کو کہتے ہین یعنی لوٹیا اور گنگا
سَغبین - ایک قسم کا گوندہ جو باہر سے سفید اور اندر سے سرخ ہوتا ہی-
سغبان - گرسنہ یعنی بھوکا جو کھانے کی خواہش رکھتا ہو-
سُغدو - آلہ تناسل اور آنتین بکری کی-
سُغتو - وہ آواز جو طشت و طبق وغیرہ سے نکلے-
سغدہ - ساختہ و آمادہ و مہیا-
سغدیانہ - پیمانہ شراب کا-
سغانہ - تہ خانہ و سرد خانہ جو زمین کھود کر بنایا جاے-
سُغبہ - شیدا و فریفتہ و بازی خوردہ - فریب مین آیا ہوا - اور عربی مین بھوکا و خواہشمند-
سَغری - سخت روئی و بیحیائی و بیمروتی و بے لحاظی-
سَغدی - ہفت زبان فارسی سے ایک زبان کا نام ہی جو علاقہ سغد کے ساتھ منسوب ہی-

سین با فا

سفہا - جمع سفیہ نادان اور احمق لوگ ٭ ہر کہ با نشست صحبت سفہا دور باند از مجالس فقہا-
سفید آب - سفیدہ جو مشہور چیز ہی اور رنگسازون کے کام آتا ہی سفیدہ کاسہ گری بھی اسکو کہتے ہین-
سفارت - سفیر ہونا ایلچی ہونا یعنی پیغامبر ہونا-
سفاہت - حماقت نادانی کمینگی پاجی پن-
سُفت - بضم اول سوراخ یعنی چھید-
سِفت بکسر اول کتف یعنی دوش اور مونڈھا-
سِفنج - بکسر اول بہت تیز شراب جسکو مثلث کہتے ہین اور خام خربزہ-
سِفاح - بکسر اول اور تخیر مین حاے حطی - زنا کرنا حرامکاری کرنا-
سَفّاح - بفتح اول و تشدید فاسے منقوط سخاوت کرنے والا اور صاحب کلام خونریز و بے رحم اور لقب عبداللہ بن محمد خلیفہ اول خلفاے عباسیہ کے-
سِفاد - جست مارنا اور چڑھنا نر کا مادہ پر بارادہ مجامعت کے-
سفید - وہ رنگ جسکو عربی ابیض کہتے ہین اور پارسی مین سپید صفدر فوقانی - سر گل رنگین کے رخسارون پہ زردی چھا گئی ٭ آ یا گلشن مین وہ گل ہے اور ہو گیا ورد سفید-
سفود - سیخ کباب بھوننے کی جسکو باب زن بھی کہتے ہین-

سفندار - ہر ایک شمسی مہینے کے پانچوین دن کا نام ہی اور نام مہینہ شمسی کا اور نام ایک فرشتے کا جو زمین پر موکل ہی اور بمعنی زمین جسکو ارض عربی مین اور ہندی مین دھرتی کہتے ہین اور سپند جسکو ہرمل کہتے ہین اور وہ ایک تخم ہی جو دفع نظر بد کے لیے آگ پر جلایا جاتا ہی۔

سفرود - مرغ سنگخوار جسکو سفود بھی کہتے ہین۔

سِفر - بکسر سین و سکون فا سے کتاب اور خط و نامہ و پیغام۔

سَفَر - بفتح اول و دوم جانا ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو۔ صائب روشندلان ہمیشہ سفر در وطن کنند استادہ است شمع و ہمان گرم رفتن ست۔

سفیدار - درخت سفیدہ جسکی لکڑی سپید ہوتی ہی پھل نہین ہوتا اور بہت اونچا ہوتا ہی زیادہ پھیلتا ہی۔

سفیر - رسول پیک قاصد ایلچی ؎ از سفر آمد چو آن مرد سفیر گفت با شاہ جہان مافی الضمیر

سُقاوِیکوس - یونانی مین جنگلی پیاز کا نام ہی اگر چوہا اُسے ذرا سا کھا جاے فوراً مر جاے۔

سفارش - کسی کی بہتری کے واسطے کسیکو کہنا - ہمدردی کرنا۔

سفوف - کوئی کُٹی ہوئی اور چھنی ہوئی دوا جو پھانکنے کے لائق ہو۔

سَفَق - ایک قسم کا چمڑا ہی جو کیمخت کی طرح دانہ دار ہوتا ہی اور تلوار وغیرہ کے قبضوں اور میانون پر لگایا جاتا ہی۔

سَفک - قتل کرنا مار ڈالنا خون کرنا۔

سَفّاک - قاتل بیرحم خونی۔ قطعہ از مولف کجا سکندر و دارا کجاست افریدون ٭ کجاست زال کجا سام و رستم و ضحاک ٭ کجا یزید و ابوجہل و سنگدل حجاج ٭ کہ بود جابر و بے رحم و بیحیا سفاک ٭

سفرتاک - دری زبان مین وہ تفسیر جو کلام الٰہی پر لکھی جاے۔

سَفَرجل - بہی جو ایک مشہور میوہ ہی اور بہیدانہ اُسیکا تخم ہی۔

سُفال - بضم اول وہ برتن جو مٹی کا ہو۔ بکسر اول بھی صحیح ہی۔

سِفل - بکسر اول سُفل بضم اول نشیب و پستی

سُفول - پست ہونا نیچے اترنا نیچے جانا۔

سفائن - جمع سفینہ بہت سی کشتیان

سفاہان - نام ایک شہر کا اور نام ایک پردہ کا موسیقی مین۔

سفیان - نام ایک قریش کا جو اول حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ جنگ احد وغیرہ مین جو لشکر کفار کا امیر تھا اسکی زوجہ ہندہ نے سید الشہدا امیر حمزہ کی نعش پر جا کر انکو مثلہ کیا عضو و تناسل کاٹا سینہ چاک کرکے جگر نکالا اور دانتون مین چبایا اِس عداوت سے کہ اُسکا بھائی امیر حمزہ کے ہاتھ سے جنگ بدر مین مارا گیا تھا فتح مکہ کے روز یہ مسلمان ہوا۔ اسکا بیٹا معاویہ حضرت عثمان خلیفہ ثالث کی شہادت کے وقت امیر شام تھا۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خلیفہ چارم نے اُسکو اپنے پاس بلایا وہ نہ آیا اور بدعوی خون عثمان باغی ہو گیا۔ بہت سی لڑائیان لڑا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت معاویہ کو دیدی اُسنے یزید اپنے بیٹے کو ولی عہد کیا یزید کے ہاتھ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا مین شہید ہوے۔

سَفَن - بفتحتین وہ چمڑا جو تلوار کے قبضون اور میانون پر لگایا جاتا ہی سَفَن بقاف قرشت بھی اسیکا نام ہی اور آہنی سوہان جسکو ہندی مین ریتی کہتے ہین

سُفُن - بضمتین جمع سفینہ بہت سی کشتیان۔

سفتین - بر وزن مسکین نام ایک خطہ کا ترکستان مین۔

سفینہ - کشتی جسکے ذریعہ سے دریا سے اُترتے ہین اور وہ بیاض جسمین متفرق اشعار لکھے جائین قطعہ از مولف بلند ست آنکہ بام محبت ٭ ز زہد و ریاضت بدست آر زینہ ٭ ازین لجہ خود را بساحل رساند ٭ ز حسن عمل ہر کہ سازد سفینہ ٭

سَفَہ - نادانی بیوقوفی کم عقلی۔

سفلہ - فرومایہ۔ کمینہ کم حوصلہ۔ حافظ - سبب مپرس کہ چرخ از چہ سفلہ پرور شد ٭ کہ کام بخشی او را بہانہ بی سببی ست۔

سُفتہ - بضم اول ایک قسم تیر کا اور پرویا ہوا۔

سَفتہ - بفتح اول کاغذ جسکو ہندی مین ہنڈوی کہتے ہین اور تحفہ و ہدیہ۔

سِفتہ - بکسر اول ہر چیز سطبر و محکم یعنی موٹی اور مضبوط۔

سفیدمہرہ - سنکھ جو ہندو عبادت گاہون مین بجاتے ہین۔

سُفرہ - بضم اول تھیلا جسمین مسافر زاد راہ رکھتا ہی اور دسترخوان المشہور دسترخوان جسپر کھانا چُنا جاتا ہی۔ اور مقعد جس مقام سے اندرونی فضلہ نکلتا ہی فارسی مین اسکو کون کہتے ہین ملا طغرا گشت بدوران فقر سُفرہ طغرا حقیر ٭ نیست عجب گر ز شرم آب شود نان او ٭

سفیہ - کمینہ نادان بیوقوف صفدر فوقانی - سکے سر آرد پنبہ از گوش سفیہ ٭ گر چہ باشد دلربا گفت فقیہ ٭

سفال - و سفالینہ - ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کے ٹکڑے اور مٹی کا برتن۔

سفجہ - مثلث شراب جو بعد جوش دینے تین من کے ایک من ہو جاے اور کچا خربزہ۔

سُفلیٰ - بضم اول و سکون ثانی و فتح لام اور آخر مین یا جو قائم مقام الف ہی بہت پست اور نیچا درجہ یہ لفظ مؤنث اسفل ہی -

سِفلی - بکسر سین و کسر لام منسوب بسفل ہی جسکی معنی پستی کے ہین -

سَفَری - مسافر رستہ چلنے والا آدمی خواجہ حافظ دل گفت معطر کنم این شعر بوشیس ٭ بیچارہ ندانست کہ یارش سفری بود -

سِفاری - بکسر اول ساق خوشہ گندم جو اندر سے مجوف یعنی پولی ہوتی ہی عربی مین جسکو جل کہتے ہین بکسر جیم -

سَفانی - ایک گھاس کا نام ہی کھانا جسکا ہرا ایک فی بحان کے لیے زہر ہی مگر اونٹ اُسکو بڑے مزے سے کھاتا ہی عربی مین اسکو عین الابل کہتے ہین طبیخ اسکا بالون کو سیاہ کرتا ہی -

سَفلی - بفتح اول وہ دیگ آہنی جسکا سر کھلا ہو یعنی پتیلا اور کڑھائی لوہے کی جسمین حلوائی شیرینی بناتے ہین اور دودھ گرم کرتے ہین -

سین با قاف

سقمونیا - کسی درخت کا عصارہ مائل بسبزی و زردی کے ہی اور دوا تلخ سعدی - گو شہد و قند و شکر فائق تست ٭ کسی را کہ سقمونیا لائق تست ٭

سَقّا - پانی پلانے والا یا پانی دینے والا - مؤلف گاہ برق آتش فشاند بر زمین ٭ گاہ ریزد آب سقای سحاب ٭ ظہوری گرفتہ مذہب خفاش آفتاب پرست ٭ شدست ہمہ کش معبد مغان سقا ٭

سقراطیا - یونانی زبان مین نام ایک حکیم کا جو سکندر رومی کے زمانہ مین عابد و زاہد مشہور تھا -

سقلاب - ایک ولایت کا نام ہی ترکستان مین بلاد شمالی کی انتہا پر اور لوگ اُس سرزمین کے سرخ رنگ ہوتے ہین -

سقرلات و سقلات - یہ ایک قیمتی کپڑے کا نام ہی جو اون سے بنایا جاتا ہی ہند مین اسکو بنات کہتے ہین یہ لفظ ترکی ہی -

سَقایت - پانی دینا یا پانی پلانا -

سَقَنقُور - رومی زبان مین یہ ایک جانور کا نام ہی جو سوسمار سے مشابہت رکھتا ہی اور آدمیون کو کاٹتا ہی اسکے کاٹنے کے بعد اگر کاٹے ہوئے عضو کو پانی مین ڈال دیوے تو بچ جاتا ہی ورنہ یہ جانور پیشاب کرکے اُسمین لیٹتا ہی اور مجروح مرجاتا ہی اور اگر مجروح پانی پہلے جا گھسے تو سقنقور مر جاتا ہی -

سقوطر - ایک جزیرے کا نام ہی کہ صبر وہان سے لایا جاتا ہی اسی نسبت سے صبر سقوطری مشہور ہی -

سُنقُر - بفتح سین و سکون قاف چرغ جو مشہور شکاری جانور ہی -

سَقَر - بفتح اول و دوم دوزخ صفدر فوقانی سفر سے کیون نہین پرہیز کرتے ٭ کہ یہ تجنیس مین شکل سقر ہی -

سَقَط - بفتح اول و سکون دوم تلف ہونا اور مرجانا چارپایہ کا -

سِقط - بکسر اول و سکون ثانی گرجانا بچے حمل کا -

سَقَطَ - مرجانا چارپایہ کا خصوصاً اور غلط کرنا حساب و کتاب مین اور بُرا بولنا سعدی یکے روستائی سقط شد خرش ٭ علم کرد بر طاق بستان سرش ٭

سقلاط و سقرلاط - بنات جو ایک اونی کپڑا مشہور ہی اور سقلاطون ایک شہر روم مین ہی جس جگہ یہ کپڑا بنا جاتا ہی - نزاری قہستانی - بگیرد دامن کہسار سایش سقلاط ٭ چو سبزہ زار گستر میان باغ بساط -

سقراط - نام ایک مشہور حکیم کا ہی -

سَقاقلوس - یونانی مین ایک بیماری کا نام ہی جس سے انسان کا جسم یا کوئی عضو بے حس ہو جاتا ہی -

سقرنبوس - یونانی زبان مین کژدم یعنی بچھو جو ایک موذی جانور ہی -

سَقالیس - ایک شہر کا نام ہی جو اسکندر رومی نے آباد کیا تھا -

سقیروس - یونانی زبان مین ورم و آماس -

سَقف - چھت مکان کی سعدی - نگہ کن برین گنبد زرنگار ٭ کہ سقفش بود بیستون استوار ٭ صائب من آن روز از جنون خود تسلی میشوم صائب ٭ کہ از جوش شرابم سقف این میخانہ برخیزد ٭

سِقال - ترکی زبان مین محاسن جسکو فارسی مین ریش ہندی مین داڑھی کہتے ہین -

سُقم و سَقَم - بیماری اور عیب اور نقص -

سَقیم - بیمار اور ناقص اور عیب دار - توحید ہست دردست دوا سے ہر سقیم ٭ اسے طبیب خلق و دانا سے علیم ٭ تو قدیری و غفوری و شکوری ٭ تو قدیمی و حلیمی و حکیم ٭

سَقام - بفتح اول مرض بیماری و بکسر اول بیمار -

سقراطیون - یونانی زبان مین برگ سوسن اور بیخ سوسن -

سقسین - ایک ملک کا نام ہی -

سقلاطون - نام اُس شہر کا جس جگہ بنات کا کپڑا بنا جاتا ہی -

سقلینون - بیخ کبر رومی جو ایک دوا ہے -

سَقن - کچا شیرہ کھجور کا جو ہنوز آگ پر نہ رکھا گیا ہو -

سقوربون - یونانی زبان مین جنگلی لہسن جسکو عربی مین ثوم البری کہتے ہین -

سُقطہ - بضم اول وہ حصہ جو کسی چیز سے تلف ہو جاے -

سَقُطہ - بفتح اول پھسلنا -
سِقَایَہ - پانی پینے کا برتن اور وہ جگہ جہان پانی ہو اور پانی کا خزانہ جو مساجد مین غسل اور وضو کے لیے بنایا جاتا ہے - ملا طغرا - طغرا زین سقایہ زکم ظرفی سپہر * گر شام تشنہ گشت سر آب میخورد +
سقیفہ - وہ مکان جس جگہ فساد انگیز لوگ باہمی مشورہ کے لیے جمع ہون اور لغو باتین اور بیہودہ -
سَقَسقطہ - بفتح ہر دو سین بیہودہ باتین اور لغو تقریرین -
سَقَطی - خوردہ فروش بساطی متفرق چیزین بیچنے والا اور لقب ایک بزرگ پیر طریقت کا جسکو شیخ سری سقطی کہتے تھے -

سین با کاف

سِکبا - بکسر اول نام ایک آش کا ہے کہ میدہ و سرکہ و مصری و گوشت و کشمش کو باہم ملا کر پکاتے ہین -
سُکنا - سُکنی - بضم اول و آخر مین یاے قائم مقام الف ساکن ہونا ٹھہرنا اور وہ لوگ جو گھر مین ٹھہرے ہوئے ہین ہون میہمان یکشب و یک روزہ اند * جملہ سکنا سے سرے این جہان -
سَکوبا - نام ایک عابد نصرانی کا جسنے ایک عبادتخانہ بنایا اور حضرت عیسی انہی کے دیر مین جا کر آسمان پر چڑھ گئے -
سُکارا - سُکاری - مست و بیہوش لوگ -
سَکرات - وہ بیہوشیان جو مرنے کے وقت انسان پر طاری ہو تی ہین -
سُکوت - ساکت ہونا خاموش ہونا فرید الدین عطار - گر خبر داری زحی لایموت * بر دہان خود بنہ مہر سکوت +
سَکینت - بروزن غنیمت آسایش و آرام سے ورزمانہ غنیمت ست ایدل * یکدو دم گر سکینتے باشد +
سَکَنات - بفتحات جمع سکنہ سکون و آرام و استقامت مقابل حرکات
سُکُست - بضم سین و کاف فارسی انقطاع و ترک و علحدگی -
سکونت - رہنا - ٹھہرنا آسایش کرنا - مولانا اکبر لاہوری - نیست جاے سکونت اینخانہ + ای مسافر بہ بند رخت سفر +
سَکَنج - بفتحتین گندہ دہن یعنی وہ شخص جسکے منہ سے بدبو آتی ہو -
سِکباج - معرب سکبا جو ایک قسم آش کا ہو -
سُکج - بفتح اول مویز یعنی خشک انگور -
سکونج - ایک مشہور گانا ہے جسکو خنک کہتے ہین -
سُکارو - بضم اول و فتح دوم وہ گوشت جو آگ پر بھونا جائے اور بالیدہ جو گرم روٹی اور گھی و کھانڈ ملا کر بناتے ہین ہند مین اسکو چورما کہتے ہین
سکاوند - سیستان مین ایک پہاڑ ہے جسکو سجاوند بھی کہتے ہین -
سُکر - مستی اور نشہ جو شراب وغیرہ مسکرات سے حاصل ہوتا ہے سے رہنوی مست و بیدم اندر راہ + گفتمش کیست حال گفتا سکر +
سکندر - رومی زبان مین نام ایک بادشاہ فیلقوس کے بیٹے کا ہے - اسکی عمر و نبوت مین اختلاف ہے نظامی فرماتے ہین نظامی چو عمرش فرس اندر بست سال و بشاہنشہی بر نہش دو دوال * بس انگہ کہ بر بست فرزود ہفت + بہ پیغمبری رخت بر بست ورفت + مگر میر خسرو آئینہ سکندری مین فرماتے ہین کہ یہ بیان بالکل غلط ہے وہ لکھتے ہین خسرو - در وغست کان باد سفر رابنات + نویسندہ ہی سال گو ید حیات * ز عمر یکہ زینگو نہ اندک بود + در و فتح آفاق ورشک بود چنین خواندم از قصہ ورشان او + کہ پانصد فزون بود جولان او + سکندر کہ فرخ جہان شاہ بود * ز فرخندگی خاص درگاہ بود * گروہی زو ہذا ز ولایت ورش * گروہے نوشتند پیغمبرش + بتحقیق چون گرد شد باز جست * درستی شدش بر ولایت درست + اور واضح ہو کہ سکندر رومی زبان مین سر کو کہتے ہین اور پارسی مین نام ایک کھیل کا ہے کہ دونون ہاتھ زمین پر رکھین اور پانون آسمان کی طرف اور ہاتھون سے پانون کا کام لیکر چلین اس بازی کو پشتک یعنی سرنگون بھی کہتے ہین شیخ آذری از نہیب خم تیر قوس ذوالقرنین او * در چہ مغرب رود ہر شب سکندر آفتاب +
سِکّار - رومی زبان مین انسان کے سر کی چوٹی اور پہاڑ کی چوٹی یعنی بلندی
سَکنکور - عنب الثعلب جو مشہور دوا ہے -
سِکز - اخیر مین زاے منقوط زابلستان مین ایک پہاڑ ہے جسکے اندر سے دریاے اباسین یعنی سندھ گذرتا ہے -
سَکّز - بفتح سین و کاف مشدد ترکی مین عدد ہشت یعنی آٹھ -
سَکِنج - بفتح سین و کسر کاف ایک قسم کے گوند کا نام ہے جسکو عربی مین سعدالکی کہتے ہین -
سِگالش - آپس مین مشورہ کرنا و فکر و اندیشہ فردوسی - ز بیگانہ پردختہ کردند جاے * سگالش گرفتند ہر گونہ راے +
سِکّاک - سکہ لگانے والا مہر قائم کرنے والا - اور آہنگر یعنی لوہار -
سُکّاک - وہ چھت جو آسمان اور زمین مین ہے -
سُکُسک - کم رفتار گھوڑا جو رہوار نہو اور نام ایک درخت کا جسکی لکڑی کی آگ دیرپا ہوتی ہے میر الہی ہمدانی - از اسپ من الخند کہ جانگاہ است این * ہر سو کہ سوار او ست بدخواہ است این +

سبو از خجل نہ تنہا ی سکسک اوست + در بدراہی چہ نیک خوش رستاہی +
سُکّ - ایک قسم کی مرکب خوشبو کا نام ہی -
سِک - بکسر اول و تخفیف کاف سرکہ جو ایک مشہور چیز ہی -
سَگ - ایک قوم ترک کا نام ہی -
سَگ - کُتّا جو مشہور چارپایہ ہی عربی مین اسکو کلب کہتے ہین -
ع سگ در بار میران شو چو خواہی قرب ربّانی + کہ بر شیران شرف دارد سگ درگاہ جیلانی +
سگال - خیال و اندیشہ -
سُکُون - آرام چین تسلی اطمینان میر معزی شب چو کشتی بود مہر ش لنگر و ملاح ماہ + گفتی آن کشتی سکون از جنبش لنگر گرفت +
سُکّان - جمع ساکن باشندگان رہنے والے اور دنبالہ کشتی کا -
سکنجبین - معرب سرکنگبین جو سرکہ و انگبین کے الفاظ سے مرکب ہی مولانا اکبر لاہوری کلام سنتے ہی اپنے دلکا تمام جاتا رہیگا صفرا + کہ میٹھی باتون کی ساتھ اسکے ترش مزاجی سکنجبین ہی +
سِکّین - بکسر سین و کاف مشدد و مکسور کارد یعنی چھری +
سگاہن - یہ ایک سیاہ رنگ ہوتا ہی جو سرکہ اور لوہے سے بنایا جاتا ہی اور کپڑے اُس سے رنگے جاتے ہین -
سَکَن - بفتحتین اُنس اور الفت اور وہ چیز جو باعث آرام کا باعث ہو جیسے عورت و فرزند وغیرہ -
سَکَن - بفتح سین و سکون کاف وہ لوگ جو گھر مین سکونت رکھتے ہون +
سکیران - وہ لید گھوڑے گدھے وغیرہ کی -
سگ پستان - یہ پھل لسوڑے کے درخت کا ہی جسکو سپستان کہتے ہین دوا مین مستعمل ہی -
سکلو - یہ ایک آلہ چوبی کا نام ہی جو پنجہ کی صورت پر بنایا جاتا ہی اور زمیندار اُسکے ذریعہ سے غلہ بھوسی سے الگ کر لیتے ہین اور چھاج جس سے غلہ صاف کرتے ہین -
سگ آبی - ایک جانور کا نام ہی جسکی صورت کتّے سے ملتی ہی اکثر پانی مین رہتا ہی بید ستر بھی اسکا نام ہی اور اُسکا خصیہ جسکو جندبیدستر کہتے ہین اکثر امراض کی دوا مین مستعمل ہی -
سکاجہ - ایک بیماری کا نام ہی جس سے آدمی نیند مین ڈرتا ہی عربی مین اسکو کابوس کہتے ہین -
سکنہ - بفتحات جمع ساکن باشندگان -
سکینہ - بضم اول آرام و آسایش و آہستگی اور نام دختر نیک اختر امام حسین علیہ السلام -
سِکّہ - کوچہ و محلہ و بازار و رستہ اور وہ لوہے کا سانچہ جس پر چاندی سونے کے روپیہ و اشرفی پر ضرب لگاتے ہین - نظامی نخستین کس او شد کہ زیور نہاد + بر وصم اندرون سکہ زر نہاد - میر خسرو خطبہ راز نام تو تا آسمان آوازہ خاست + سکہ بیخواستی در ملک نشانی نشست + نظامی کہنے سکہ گرچہ یارا بود + کہ ہمسکہ نام دارا بود +
سَکتَہ - ایک بیماری کا نام ہی جس سے انسان بیہوش و بیحس و بیحرکت ہو جاتا ہی مردہ و زندہ پہچانا نہین جاتا - حکیم انور لاہوری در سکوت و سکتہ بیمار ت گرفتار بلاست + ای مسیحا کو در ینحالت دم جان بخش تو +
سکیزہ - جست مارنا کودنا لیٹنا لکد مارنا -
سُکُرّہ - اُسکرہ - بضمتین و را سے مشدد مفتوح چھوٹا گلی کاسہ پانی پینے کا
سکافرہ - مضراب جس سے ساز بجاتے ہین -
سکالہ - فضلہ سگ کتّے کا گوہ -
سُکُرکہ - ایک قسم کی شراب کا نام ہی جو غلہ جو و چانولون و ارزن سے بناتے ہین ماوراء النہر مین اسکا استعمال بہت ہی -
سکسنوبہ - ایک بوٹی کا نام ہی جسکو دل آشوب کہتے ہین بیخ آشت بھی اسکا نام ہی اور عربی مین ذو خمسہ اصابع استقاقہ - علاج ہی جس عورت پر شہوت غلبہ کرے اسکا دھوان اسکو دین تو افسردہ ہو جاوے -
سکونیہ - ایک قسم کی گھاس ہی جسکو سکبنیہ کہتے ہین دوا مین مستعمل ہی
سکزی - نام اُس پہاڑ کا جہان رستم پیدا ہوا - اور نام ایک بانکا منجملہ ہفت زبان فارسی کے -
سگائی - نسبت - ناتہ یعنی منسوب کرنا عورت کا مرد کے ساتھ قبل از نکاح یہ لفظ ہندی ہی اور فارسی مین بمعنی سگ گاسے یعنی کتے کا کتیا کے ساتھ جفت ہونا امیر خسرو و دو دل گر یک شود خویشی ہمانست وگرنہ نسبت دنیا سگائی ست -
سگلی - کشتی کے ایک داؤ کا نام ہی درویش والہ ہروی قرب تو بسجہرکہ عزازیل + بنہاد تبرک سجدہ نیل + پا در سگلیش لعن بنہاد + بر خاستنش زیاد را فتاد +

سین با لام

سُلّا - بضم اول و تشدید لام کھجور کا کانٹا -
سُلا - بضم اول و تخفیف لام نام ایک مطرب کا جو گانے مین نظیر نہین رکھتا تھا -

سَلوٰا۔ سَلوٰی۔ یہ وہ جانور ہے جو موسیٰؑ کی قوم بنی اسرائیل کو تیہ جنگل مین خوراک کے واسطے غیب سے ملتے تھے مرغ آسمانی بھی اسکو کہتے ہین۔ فارسی مین اسکا بودنہ نام ہے ہندی مین بٹیر۔ عیسا نزا مائدہ از آسمان ✤ موسیا نزا منّ و سلوٰی میدہی ✤
سَلمٰی۔ سَلمٰی۔ نام ایک معشوقہ کا جو عرب مین رہتی تھی اور ہر ایک خوبصورت معشوق
سَلب۔ بفتح اول و سکون ثانی نیست و نابود کر دینا۔
سَلَب۔ بفتحتین نیست و نابود کیا گیا۔ اور حیوان کا چمڑا۔ اور سخت لباس مثل جوشن و خفتان جو جنگ کے موقع پر پہنتے ہین اور ماتمی سیاہ لباس اور مطلق جامہ اور لباس یا تفنی سلب تا سے زرین قبا ہای زر ✤ ہمہ گنج یاقوت و لعل و گہر ✤
سِلاب۔ ماتمی کپڑا اور لباس۔
سُلَحفَات باضمہ یعنی کچھوا جو ایک آبی جانور مشہور ہے۔
سَلاسَت۔ نرم ہونا آسان ہونا ہموار ہونا۔ اور وہ عبارت جسمین مشکل و بعید الفہم الفاظ نہون۔
سُلامیات۔ بیخ ناخن و ناخنون کی جڑین اور انگلیون کی ہڈیان۔
سلطنت۔ دراز دستی و دراز زبانی قہر و غلبہ و حکومت و بادشاہت مؤلف نہ استحکام ملک و مملکت را ✤ نہ امید بقا این سلطنت را ✤
سُلت۔ غلہ جو جو مشہور غلہ ہے۔
سَلوت۔ بروزن رحمت آرام و خوشی و تسلی و اطمینان۔
سُلالات۔ جمع سلالہ بمعنے خلاصہ۔
سلامت۔ بے خوف بے گزند بے آزار ہونا بے عیب ہونا سعدی بدریا در منافع بیشمار ست ✤ اگر خواہی سلامت بر کنار ست ✤ جمال الدین سلمان نسیم سلمہ اللہ اگر چہ بود سقیم ✤ بمن رسید و من خستہ را سلامت داد ✤
سَلاجت۔ یہ ایک پتھر کا نام ہے جس سے بدبو پیشاب کی سی آتی ہے۔
سَلنج۔ وہ شخص جسکے ہونٹھ پھٹے ہوئے ہون دونون یا ایک ہونٹھ شق ہوا ہو۔
سِلاح۔ جنگ کے ہتھیار تلوار خنجر تیر و کمان برچھی بندوق وغیرہ ہزار بیدل جہاد بر سر میدان بنفس و شیطان کرد ✤ ز صبر و شکر و ریاضت ببست ہر کہ سلاح ✤
سَلیح۔ آلہ سلاح کا۔
سَلّاخ۔ چمڑا اُتارنے والا یعنی قصاب جو مذبوح جانورون کا پوست اُتارتا ہے سیفی ہر چند میکشد بت سلاخ زندہ ام ✤ این ست دوستان سخن پوست کندہ ام ✤
سَلخ۔ چمڑا اُتارنا اور وہ دن جو چاند کا آخری دن ہو اور اسی روز شام کو ہلال کے نمودار ہی کی امید ہو۔

سَلغُر۔ سلجوق شاہ بادشاہ فارس کے باپ کا نام تھا۔
سِلّور۔ یہ ایک قسم کی مچھلی رود نیل مین ہوتی ہے عربی مین اسکو جری کہتے ہین
سَلِیس۔ روان اور ہموار بے نشیب و فراز اور نام ایک متخلخل پتھر کا۔
سَلیش۔ سَلیش۔ زندی زبان مین ہے اور زبون مقابل نیک اور خوب کے
سَلَف۔ بفتحتین گذرا ہوا وقت اور زمانہ اور اگلے لوگ جو مر چکے ہون
سِلف۔ بکسر اول و سکون ثانی اپنی عورت کی بہن کا شوہر جسکو ہندی مین ساڑھو اور فارسی مین ہمزلف بولتے ہین۔
سُلف۔ بضم اول دری زبان مین وہ کھانسی جو بسبب خارش گلو کے آتی ہو۔
سَلاحِف۔ جمع سلحفات بہت سے کچھوے جو دریائی جانور مشہور ہین۔
سُلاف۔ انگور کا شیرہ جو بغیر نچوڑنے کے اُس سے نکلے
سِلق۔ بکسر اول چقندر جو ایک مشہور ترکاری ہے اسکے پانی کو اگر شراب مین ملائین تو سرکہ بنجاتا ہے اور اگر سرکہ مین ڈالین تو سرکہ شراب بنجاتا ہے۔
سلجوق۔ سلجوقی بادشاہون کے مورث اعلیٰ کا نام ہے اور ان بادشاہون سے پہلا بادشاہ طغرل بیگ بن میکائیل بن سلجوق ہوا تھا
سُلاق۔ آنکھون کی بیماری کا نام ہے جس سے پلکین سرخ و غلیظ ہو جاتی ہین
سَلمَک۔ موسیقی کی چھ آوازون سے ایک آواز کا نام ہے اور وہ چھ آوازین یہ ہین۔ شہناز۔ گردانیہ کوشت مایہ نوروز سلمک۔
سِلک۔ وہ رشتہ جسمین موتی پروئے ہوئے ہون۔
سلاک۔ چاندی سونے کا ٹکڑا۔
سَلِیک۔ بمعنی منسلک یعنی ایک چیز دوسری چیز مین داخل کی ہوئی جیسے کہ موتی تاگے مین پروئے ہوئے۔
سُلوک۔ بضمتین راستہ اور راستہ پر چلنا مقامات طریقت کو طے کرنا۔ نیکی و نیک روی اختیار کرنا۔ مؤلف رفتہ رفتہ خود بمنزل میرسد ✤ پا بنہد سالک چو در راہ سلوک ✤
سَلمَک۔ بفتح اول و سکون دوم ناودان یعنی پرنالہ اور پانی کا بدرو جسکا پانی بلندی سے پستی کو گرتا ہے۔
سَلّ۔ کھینچنا تلوار اور خنجر اور چھری وغیرہ کا اور کاٹنا رگ کا۔
سِل۔ بکسر اول جو چیز باہر نکالی جاوے۔ اور نطفہ اور نام ایک مہلک بیماری کا اور گھاس اور لکڑی کا پولہ جسپر چڑھکر لوگ دریا سے اُترتے ہین اور ایک قسم کا چھوٹا نیزہ جسکو سیل کہتے ہین
سَلاسِل۔ لوہے کی زنجیرین۔ سلسلہ کی جمع ہے۔
سَلسَال۔ پانی صفا اور میٹھا اور خوشگوار۔ سعدی

روضہ ہا و نہرہا سلسال + دوحہ سجع طیرہا موزون +

سلسبیل - بروزن زنجبیل نام ایک چشمہ کا جو بہشت مین جاری ہے اور ہر ایک چیز نرم و خوشگوار -

سلسیل - فرزند اور بچہ -

سلقل - ترکی مین دست چپ یعنی بایان ہاتھ چنانچہ سل کے معنی چپ اور قل کے معنی ہاتھ -

سلامان - آبسال - نام عاشق و معشوق کا اور نام ایک کتاب کا جسمین انکا قصہ لکھا ہے -

سلس البول - ایک بیماری کا نام ہے جس سے بیمار کا بول بے اختیار جاری ہوتا ہے

سلالم - خیبر کے قلعون مین سے ایک قلعہ کا نام ہے -

سلام - عربی مین گردن رکھنا سر جھکانا بے عیب ہونا اور ایک نام خدائے جل شانہ کے اسمای گرامی سے اور فارسی مین سو ہزار کی تعداد جسکو لکھ کہتے ہین حافظ از شاعرہ چون زلف تو درزر گیرم قاصدی کز تو سلامی برساند بر ما + ولہ دیرست کہ دلدار پیامی نفرستاد + نہ نوشت کلامی و سلامے نفرستاد +

سلیم - درست صاحب سلامت پورا نرم دل نرم مزاج سادہ مولف حق سلامت دارد ش از ہر بلا + ہر کہ باشد صاحب طبع سلیم +

سلم - بفتح اول و سکون لام فریدون کے بڑے بیٹے کا نام تھا - اور تختی لڑکون کے مشق کرنے کی -

سلم - بفتحتین نام ایک درخت کا اور ایک قسم بیع کا جو قیمت مال کی جنس کے تیار ہونے سے پہلے دیجاوے -

سلم - بضم اول و تشدید لام نردبان لکڑی کا لکڑی کی پوری مولف قرب حق خواہی اگر ورزید کوش + زانکہ نہ بدست سلم ستاین بام را +

سلم - بکسر اول و سکون لام صلح و آشتی -

سلجم - شلغم جو ایک مشہور ترکاری ہے -

سلطان - صاحب سلطنت فرمان فرما والی ملک توحید تو سلطانی تو رحمانی تو شانی تو سبحانی + خبرگیر غریبانی چہ در سرا چہ در صحرا +

سلمان - ایک شاعر کا نام ہے جسکو سلمان ساوجی کہتے تھے اور نام ایک اصحاب کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو خدمات شایان بجالایا سلمان فارسی اسکو کہتے تھے -

سلاطین - جمع سلطان بہت سے بادشاہ فریدالدین عطار صاحب نعمی کاز طین سلاطین میکند + نجم را رجم شیاطین میکند +

سلاجن - دری زبان مین بیجا بی و بیشرمی کی باتین درشت باتین -

سلدنیون - ایک درخت کا نام ہے جسکا پھول سرخ اور تخم کشنیز کی طرح ہوتا ہے پتی اور تخم دونون موافق زہر مار و عقرب ہین -

سلینون - یونانی مین ایک بوٹی کا نام ہے جو حوضون اور تالابون مین پیدا ہوتی ہے عربی مین اسکو کرفس الماء و قرۃ العین کہتے ہین -

سلو - بالفتح و بضمتین و تشدید واو خوش ہونا اور تسلی ہونا اندوہ کا - فراموش ہونا -

سلسلہ - لوہے چاندی سونے کی زنجیرین اور نام ایک کتاب کا و نسل داولاد و قرابت و ترتیب اسامی پیران کبار جس سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہو اسوقت تک میرزا صائب دیوانہ زسنگ ملامت مناب روسے - بازنجیر سلسلہ برپا گذاشتن -

سلالہ - خلاصہ اور انتخاب اور نطفہ اور وہ چیز جو کسی چیز سے نکالی جاوے

سلیقہ - سرشت و طبیعت و طرز و طریقہ ذوقی زہیروان طریقت طریقہ آموزند + زسالکان مسالک سلیقہ آموزند +

سلقہ - گذرا ہوا اور گندی ہوئی -

سلقہ - اشتباہ شکن کھانا -

سلہ - پٹارہ جسمین میوہ رکھتے ہین - اور جسمین سانپ کو مارگیر رکھتے ہین -

سلیطہ - زبان دراز عورت اور حاضر جواب -

سلاحی - سپاہی سلاحدار ہتھیار پہنے ہوئے میر خسرو بالگہت راست ہنگام بار + مہر سلاحی و فلک پردہ دار +

سلاخی - پوست کندن یعنی چمڑا اکھاڑنا

سلیمانی - ایک قسم کا پتھر ہے جسکی تسبیحین بناتے ہین -

سین با میم

سما - آسمان یہ لفظ سمو سے ماخوذ ہے جسکے معنی بلندی کے ہین توحید انکہ ز سر ابتدائی ابتدار ابتدا + در مقام انتہا ہر انتہار انتہا + حالک انشا نرا چو بخشید شرف نام خدا + از زمین برداشتی بردی غبارش بر سما + ذرہ را خورشید انور قطرہ را گوہر کنی + صاحب گنجینہ مفلس را گدا را بادشاہ + کردہ صورتگری بر آب در قعر شکم + مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا -

سمیرا - کہ معظمہ کے رستے مین ایک گانون کا نام ہے -

سماتا - سمانی - نام ایک مرغ کا ہے جسکو سلوی بھی کہتے ہین اور ہندی مین بٹیر -

سماعت - شنیدن یعنی سننا مصدر فوقانی وہ دیکھے جسکی آنکھین

جلوۂ عرفان سے روشن ہون + سُنے وہ جسکے گوش دل مین کچھ
تاب سماعت ہو +

سماجت - زشتی زبونگی بیباکی خوشامد -

سماحت - بحاے حطی جوانمردی سہل جاننا آسان تصور کرنا کسی مشکل امر کو اور اغماض کرنا -

سُمعت - بضم سین وسکون میم وفتح عین شنوانیدن سنوانا کسی بات کا کسیکو دیا اور دکھلانے کے لیے مثلاً کوئی اپنے نیک عمل کو مشتہر کرے تاکہ لوگ اسکو نیک کہین -

سُمرت - گندم گون ہونا گیہون کا رنگ ہونا -

سَمت - بفتح اول راہ راست وروش نیکو وقصد وآہنگ وصورت وہیئت

سِمت - بکسر سین وفتح میم داغ ونشان ونقش -

سِمات - بکسر اول نیک روش اور نیک صورتین اور طرفین -

سماوات - سما کی جمع بہت سے آسمان -

سموت - بہت سے داغ اور نشان -

سَمِج - بفتح اول وکسر میم بدونا خوش وزشت -

سمج وسمجہ - تہ خانہ جو برف سے بچنے اور گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے زمین کے اندر بناتے ہین اور مویشی کو اسمین باندھتے ہین -

سماح - اخیر مین حاے حطی جوانمردی کرنا بخشش کرنا -

سماخ - اخیر مین خاے نخذ سوراخ کان کا -

سمرقند - معرب سمرکند مشہور شہر ہی -

سمید - سفید میدہ کی روٹی -

سمراد - خیال وفکر ووہم -

سمند - تیر پیکان دار اور گھوڑا جو رنگت مین زردی مائل ہو نفیسیٔ انولی
سپہر جا کہ تو جولان دہی سمند اسنجا + بجاے گرد شود بوی گل بلند اسنجا +

سمور - نام ایک جانور کا ہی جو روباہ سے صورت مین مشابہت رکھتا ہی اور چمڑا اسکا سرخ سیاہی وتیرگی مائل ہوتا ہی اور بال بہت نرم وگرم - پوستین اسکے پوست کی قیمتی ہوتی ہی فریدالدین عطار
آن یکی پوشیدہ سنجاب وسمور + دیگری خفتہ برہنہ بر تنور +

سنمار - نام ایک معمار کا جسنے بحکم نعمان بن منذر بادشاہ بہرام گور کے واسطے قصر خورنق بنوایا جب تمام ہوچکا نعمان نے معمار کو قصر کی بلندی سے گرا دیا تاکہ مرجائے اور دوسری جگہ ایسا قصر نہ بنائے چنانچہ وہ مرگیا -

سمرکار - نام ایک شہر کا ہی بدخشان مین -

سمندر - بفتحتین نام ایک جانور کا ہی بقدر چوہے کے جو آتشکدہ مین پیدا ہوتا ہی جب آگ سے باہر نکلتا ہی مرجاتا ہی - بعض کہتے ہین ایک جانور پردار ہی جو آگ مین نہین جلتا - بعض کہتے ہین کہ ہزار برس کی آگ مین بعض کہتے ہین کہ سو برس کی آگ مین وہ پیدا ہوتا ہی -

سَمَر - افسانہ اور وہ بات جو سب کو معلوم ہو سعدی گرنیز درست
نہ بیداد گر + کند نام زشتش بگیتی سمر +

سم الفار - ایک کانی زہر کا نام ہی ہندی مین سنکھیا کہتے ہین چونکہ چوہا اسکے کھانے سے بہت جلد مرجاتا ہی سم الفار اسکا نام رکھا گیا یعنی چوہے کا زہر -

سمسار - عربی مین دلال کو کہتے ہین جو بایع اور مشتری کے درمیان آکر سودا کرا دیتا ہی - محمد سعید اشرف - بغرض تفاریق اشعار خود + شوم کار فرمای سمسار خود +

سمندا سلار - یہ ایک جانور سکندر رومی کے وقت ظاہر ہوا اسکی نظر جس ہی جان پر پڑتی فوراً مرجاتا سکندر کی فوج کے بہت لوگ مارے گئے آخر ارسطو نے اسکے اندفاع کی تدبیر پوچھی گئی اسنے کہا کہ اسکے روبرو آئینہ رکھنا چاہیے تاکہ اپنی نظر کی تاثیر سے خود مرجائے پس ایسا ہی کیا گیا اور وہ موذی جانور ہلاک ہوا عنایت نقشبند
علاج ذات شومت شومی ذات کند آری + سمندا سلار را عکس
سمندا سلار می باید -

سمیر - ہندی زبان مین بنک ما جو کسیکے حق مین مانگی جائے -

سماریس - ایک قسم کی مچھلی ہی جسکو عرب والے سمرین کہتے ہین -

سمت الراس - جو چیز اپنے سر کے مقابل ہو یعنی سر پر ہو -

سمط - وہ تاگا جو موتیون مین پرویا ہوا ہو سموط اسکی جمع ہی -

سم الخیاط - سوئی کا سوراخ -

سماط - صف دستر خوان سفرہ قطار سعدی بدینسان اگرشب
را ندم نشاط + بدیگر شکم را کشیدم سماط +

سماع - جو بات سننے مین آئے اور اگر اس سے کوئی لذت اور مطلب حاصل ہو - سرود راگ گانا - سعدی نگویم سماع ای برادر کہ چیست
اگر مستمع را بدانم کہ کیست +

سمع - بفتح اول کان سے سننا - اور سننے کی طاقت جو قدرت نے کانون مین رکھی ہی -

سِمع - بکسر اول بچہ گرگ یعنی بھیڑیے کا بچہ -

سماروغ - وہ اُگنے والی چیز جو برسات کی موسم مین زمین سے

انگشت کی طرح سپید اور گول طولانی صورت پر نکلتی ہے پنجابی زبان میں اسکو کھنب کہتے ہین اور لوگ اسکو پکاکر کھاتے ہین۔

سَمْسَق۔ ریحان کی قسم سے ہے۔ مرزنگوش اور مرزنجوش اور گوش موش بھی اسکو کہتے ہین سبز اور خوشبودار ہوتا ہے اور پھول بیرنگ کبود ہوتا ہے اسکی چوہے کے کانون کی طرح ہوتی ہے اسواسطے اسکو گوش موش بولتے ہین۔

سُمّاق۔ بضم اول و تشدید میم ایک ترش ذائقی میوہ کا نام ہے جو دوا مین مستعمل ہے۔

سَمّاق۔ ایک قسم کے پتھر کا نام ہے جو نرم اور سپید ہوتا ہے۔

سِماک۔ بکسر اول نام ایک ستارہ کا جو چودھوین منزل منازل قمر سے ہے

سَمْک۔ بفتح سین و سکون میم گھر کی چھت اور مقدار اونچائی ہر چیز کی اور بلند کرنا۔ اونچا کرنا۔

سَمَک۔ بفتحتین ماہی یعنی مچھلی جو زیر زمین ہے مؤلف پرو باوج سمت جو عاشق مولیٰ ہیم بحظہ رسد از سمک باوج سماک +

سَمارُوغ۔ پہلوی مین کبوتر جسکو عربی مین حمام کہتے ہین۔

سُمُک۔ بفتح اول و ضم ثانی بے عقل و بے ہنر۔

سمتاک۔ ضروری خرچ۔

سَمَندُوک۔ سمندر جانور جو آگ مین پیدا ہوتا ہے۔

سُموک۔ جمع سمک مچھلیان۔

سُمُوم۔ گرم ہوا سام اسکی جمع ہے۔ خلیفہ شاہ محمد از سموم حکم ببانغ وجود + ہرگز این غنچہ دل نہ کشود۔

سُم۔ ہر ایک چارپایہ کا پاؤن اور آدمی کے پاؤن محمد زمانخان راسخ گھوڑے کی تعریف مین۔ تسیم ناقہ در کوے قدم او ہوا گلدستہ برق سم او +

سَمّ۔ زہر جسکے کھانے سے انسان مرجائے اور سوئی کا سوراخ اور نام ایک پہلوان کا۔

سَمیرَم۔ یہ ایک سرزمین عراق اور فارس کی ہے۔ بلخ کے رہنے کے لیے پانی وہان سے لاتے ہین جب پانی وہان سے لیتے ہین جبتک اپنی جگہ پر پہونچین پیچھے کو نہین دیکھتے اور نہ پانی کو زمین پر رکھتے ہین پس وہ پانی لیکر اُن کھیتون پر جاتے ہین جہان ملخی یعنی ٹڈی کا دل ہوتا ہے اور زمین پر رکھ دیتے ہین اوسوقت غیب سے سیاہ رنگ پرندے پیدا ہوجاتے ہین اور ٹڈیون کو مار ڈالتے ہین سام بن ارم نے سب سے پہلے یہ ناحیہ دریافت کیا اسی نام سے مشہور ہوا کثرت استعمال سے سمیرم مشہور ہوگیا۔

سَمْصام۔ تلوار معرب اسکا صمصام ہے۔

سِمْسِم۔ غلہ کنجد یعنی تل جسکا تیل بھی نکالتے ہین۔

سَمان۔ ستائیسوین تاریخ ہر مہینے شمسی کی۔

سَمِین۔ فربہ و پرگوشت اور وہ چیز جو چربی کی طرح سپید فربہ جانور کے گوشت مین پیدا ہوجاتی ہے ہندی مین اُسکو رواج کہتے ہین۔

سَمْن۔ بفتح سین و سکون میم روغن گاو یعنی مادہ گاو کا گھی۔

سِمَن۔ بکسر اول و فتح ثانی فربہی یعنی موٹاپن۔

سَمَن۔ بفتحتین ایک پھول کا نام ہے جسکو چنبیلی کہتے ہین اکثر سفید ہوتا ہے اور بعض زرد ہادی سبزی میر خسرو۔ لوح سمن را کہ ورق کردہ باد مہر خورش داد بعنوان راز +

سمنون۔ یہ ایک قسم کے سیاہ دانے چنے سے چھوٹے ہوتے ہین خراسان مین اسکو نقل خواجہ کہتے ہین کھانا اسکا بدن کو موٹا کرتا ہے باہ کو بڑھاتا ہے

سمنون۔ ایک درویش صاحب حال و ریاضت کش کا نام ہے۔

سمارو۔ کبوتر جو مشہور پرندہ ہے۔

سمو۔ ساگ پات سبزہ ترکاری۔

سَمَنُو۔ ایک قسم کے حلوے کا نام ہے جسکو آش رشتہ بھی کہتے ہین

سُمُو۔ بلندی۔ اونچائی۔

سَمِیطہ۔ سلک مروارید۔

سَمِنہ۔ پوشیدہ و پنہان۔

سَمِنہ۔ یہ ایک تخم میوہ کی قسم سے ہے جسکو ہندی مین چرونجی کہتے ہین

سَمِیسَہ۔ نام ایک کپڑے کا جو باریک اور نازک ہوتا ہے۔

سماچہ و سماچچہ۔ عورتون کا سینہ بند جسکو انگیا کہتے ہین۔

سماکارہ۔ شراب خانہ کا سبو کش یعنی پانی بھرنے والا۔

سمانہ۔ ایک پرندے کا نام ہے جسکو سلوی اور بٹیر کہتے ہین۔ کرک اور بلار بھی اسکا نام ہے۔ اور گھر کی چھت اور بلندی اور نام ایک قصبہ کا ہند مین۔

سمیرہ۔ لکھا ہوا نقش کیا ہوا۔

سماعیلی۔ یہ ایک ملحد فرقہ مشہور ہے ظہور انکا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ہوا۔ امام جعفر صادق کا بڑا بیٹا اسمٰعیل تھا اور چھوٹا موسیٰ کاظم حضرت نے امامت چھوٹے بیٹے کو مرحمت کی اسمٰعیل بحال ناراض ہوکر باپ سے علیحدہ ہوگیا اور مصر کی طرف جاکر نیا فرقہ اسماعیلیہ قائم کیا جو شش پرست مشہور تھے یعنی چھٹا امام ہو

ماننے تھے اور اسماعیل کو خاتم الائمہ جانتے یہ لوگ اہل سنت اور فرقۂ اثنا عشریہ کے سخت دشمن تھے۔

سَمِیّ۔ وہ شخص جو کسی کا ہمنام ہو۔

سِمْنَانِی۔ جو شخص سمنان کا رہنے والا ہو اور یہ شہر دامغان کے پاس ہے۔

سَمَارِی۔ کشتی و جہاز۔

سَمَانی۔ یہ ایک دریائی مرغ ہے جسکو عربی مین قتیل الرعد کہتے ہین رعد کی آواز جب اسکے کان مین پہونچتی ہے مر جاتا ہے۔

سین با نون

سَنَا۔ وہ روشنی جو ضیا سے کمتر ہو اور نام ایک گھاس جسکا کھانا دست لاتا ہے۔ عمدہ وہ ہے جو مکہ مین پیدا ہوتی ہے اور سنا مکی مشہور ہے۔

سَنْگپا۔ وہ پتھر جس سے پانون کا میل اُتارتے ہین ہندی جھانوان۔ مولانا اکبر لاہوری ہاتھ لگ جائین تو فوراً چوم لون پانون اُس بت کے لبشکل سنگپا + محمد سعید اشرف + ہر کہ زان گلروی ماہی جدا خواہد شدن + پاپیش از سنگ ندامت سنگپا خواہد شدن +

سِنْجَاب۔ ایک جانور کا نام ہے جسکے چمڑے کی پوستین بناتے ہین اور وہ چمڑا خاکستری رنگ ہوتا ہے فریدالدین عطار۔ آن یکی پوشیدہ سنجاب و سمور + دیگری خفتہ برہنہ بر تنور +

سُنْبُلُ الطِّیب۔ ایک خوشبودار گھاس کا نام ہے جسکو ہندی مین بالچھڑ اور چرغہ کہتے ہین۔ سراج الشعرا صحبت اہل دل باطبع فقرمن نشناخت + سنبل الطیب پریشانی درین معجون نبود +

سُنْب۔ گھوڑون وغیرہ چارپایون کے سم یعنی پانون اور بڑا مکان جو کسی جنگل یا پہاڑ مین بنا ہو سو ہیشی کے رہنے کا احاطہ اور خانقاہ درویش خدا پرستون کی۔

سُنَّت۔ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کرتے رہے کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو مولف فرض حق مانند فرض سنت ای لپسر + ہست واجب سنت خیر البشر + کن ادا در زندگانی کن ادا + تا تو باشی سرخرو پیش خدا +

سَنْگ پُشْت۔ مشہور دریائی جانور جسکو ہندی مین کچھوا کہتے ہین

سَنْگ بَسْت۔ پتھر کی بنی ہوئی عمارت نہایت مستحکم و مضبوط نظامی دران خطہ بود آتش سنگ بست + کہ خوانند سے خرو سوزش آتش پرست +

سَنْبَات۔ ورمی زبان مین جو چیز آنکھ سے دیکھ لی جائے۔

سَنْبُوت۔ یونانی زبان مین زیرہ جو مشہور تخم ہے اور عمدہ زیرہ کرمانی ہوتا ہے۔

سَنْج۔ ایک باجہ کا نام ہے جو نقاروں و نفیروں کے ساتھ بجایا جاتا ہے ہندی مین اسکو جھانجھ کہتے ہین اور وزن کرنے والا تولنے والا نظامی ترازو ہی پولاد سنجان ہبل + زکفہ بکفہ ہمیراند سیل +

سَنْخَج۔ بفتح سین و سکون نون و فتح خا سے و سکون جیم ضیق النفس تنگی دم جو ایک مشہور بیماری ہے۔

سُنُوح۔ پیدا ہونا کسی حادثہ کا۔

سَنْگلاخ۔ وہ زمین جس سے پتھر اور کنکر نکلین۔

سَنْج۔ بفتح اول نمک جو کھانے مین ڈالا جاتا ہے اور چرک اور ریم جسکو عربی مین سخ کہتے ہین۔

سِنْخ۔ بکسر اول بیخ اور اصل اور مادہ ہر ایک چیز کا۔

سَنَلْخ۔ نیم تنہ جو ایک قسم کا جامہ پہننے کے لیے سیا جاتا ہے صدری اور فتوحی بھی اسکو کہتے ہین۔

سَنْجِد۔ نام ایک میوہ کا ہے جو عناب کی صورت پر ہوتا ہے بعض عناب ہی کو سنجد کہتے ہین محمد قلی سلیم زرو غن گشت خالی مغز کنجد + نماندہ آرزو در دندان سنجد +

سَنَد۔ بفتحتین جس چیز پر بھروسا اور تکیہ ہو اور اپنے دعوی کا استحکام اسکو تصور کیا جائے۔ مولف محمد جب کہ اس دنیا مین آئے + سند مہر نبوت ساتھ لائے۔

سِنْد۔ بکسر سین و سکون نون حرامزادہ و بد و شریر اور معیوب قافیہ جو شعر مین ہو۔ اور نام ایک ملک کا ہندوستان مین اور نام ایک دریا کا جسکو اباسین اور اٹک بھی کہتے ہین خواجہ فریدالدین گنج شکر کے مناقب مین ہے کان عرفان معدن جود و کرم گنج شکر + رہنماے روم و روس و پیشواے ہند و سند +

سَنْد۔ بفتح سین و سکون نون سرگین آدمی کا گوہ جو غلیظ اور سطبر ہو۔

سِنَاد۔ عیوب قافیہ سے ایک عیب کا نام ہے۔

سَنْدباد۔ نام ایک کتاب کا ہے جسکو حکیم ارزقی نے پند و نصائح مین تصنیف کیا اور نام گشتاسپ بادشاہ کے بیٹے کا۔

سَنْباد۔ طاقت فکر و خیال کی جو انسان مین ہے اور نام ایک مجوسی نیشاپوری کا جو باوجود عداوت دینی کے ابو مسلم مرقدی کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔

سُنُود۔ فکر کرنا کسی ایسے کام مین جسکا کرنا نکرنا یکسان ہو۔

سَنْجَار۔ نام ایک شہر کا ہے جو موصل سے تین منزل پر واقع ہے اور نام ایک موضع کا جسمین سلطان سنجر پیدا ہوا تھا۔

سنجر - نام ایک بادشاہ عادل کا -
سنگسار - ایک قسم کی سزا اور تعذیب کا نام ہی کہ مجرم کو کمر تک زمین مین داب کر پتھر مارتے ہین تاکہ وہ مرجائے صفدر فوقانی - بت پرستی ترک کرنے کا نہین ہی تا نہو یہ نفس کافر سنگسار +
سنقر - نام ایک شکاری جانور کا ہی باز کیطرح - مگر ہندوستان مین بسبب زیادہ حرارت کے زندہ نہین رہ سکتا اور نام ایک ترک بادشاہ کا اور نام ایک غلام کا -
سنگ - بکسر اول ترکی زبان مین نیزہ کو چاک یعنی برچھی -
سنگ زر - محک یعنی کسوٹی سونا پرکھنے کی -
سنگار - ہندی لفظ ہی بمعنے آرایش فارسی مین اسکو ہر ہفت کہتے ہین کہ تمام عورت کی آرایش کا سات چیز پر ہی فرحت کیا جب نہا دھو کے اُسنے سنگار + ستارے لگے ہوئے اُسپر نثار +
سنگر - جو دیوار وغیرہ حفاظت کی گرد لشکر اور قلعہ کے قائم کرین عالم مورچال سے محمد سعید اشرف ازانکہ ہمیشہ کار سنگار بود + باسنگر افغان چہ تواند کردن +
سنار - بفتح اول شخص عاشق و گرفتار - اور وہ پانی جو گہرا ہو کشتی اسمین چل نہ سکے -
سنار - بضم اول بیٹے کی زوجہ جسکو فارسی مین زن پسر کہتے ہین -
سندر - ایک گوند کا نام جو زرد رنگ کہربا کی طرح ہوتا ہی -
سنتور - خرطوم فیل ہاتھی کی سونڈ -
سنگ احمر - ایک پتھر سرخ رنگ ہوتا ہی جسکا ایک دانگ کھانا زہر قاتل ہی - بعض کے نزدیک وہ سرخ الماس ہی -
سنگار - بفتح اول رفیق راستہ کا اور ہمراہ جو سفر مین رنج و راحت کا سہیم ہو -
سنکور - پتھر سے یا لکڑی کا گول منکا جو سوت کاتنے کے وقت تکلے پر چڑھا لیتے ہین تاکہ کاتا ہوا سوت اُسپر جمع ہوتا جاے عربی مین اسکو فلک کہتے ہین -
سندس - ایک بیش قیمت کپڑے کا نام ہی جو بہشت مین بہشتیوں کا لباس اُس سے بنایا جائیگا -
سندروس - ایک زرد رنگ گوند کا نام ہی جسکو سندر بھی کہتے ہین
سنگاش - رشک و حسد -
سنجق - رومی زبان مین علم و نشان فوج اور کمر بند جو کمر پر باندھتے ہین سنجوق بھی اُسکو کہتے ہین -

سنبک - چھوٹی کشتی جو جہاز کے ساتھ ہو -
سنبک - وہ روئی جو پتھر پر لگائی جاے محسن تاثیر پیشت از تو در سر روزی سوای تو + سنبک بسینہ سنگ زنان از برای تو +
سنگ - پتھر ترجمہ حجر کا اور مقدار اور گرانی اور وزن و وقر و قیمت و قدر و عزت محمد قلی سلیم از خون پس از ہلاک رقم کن بسنگ من + کاین خون گرفتہ است شہید خدنگ من نظامی اگر کیمیا سنگ را زر کند + نسیم من از خاک عنبر کند +
سنبل - ایک خوشبو گھاس کا نام ہی جسکو سنبل الطیب کہتے ہین میر محمد افضل ثابت دل ہر جائی من بستہ زلف تو شود + گیسوی سنبل اگر سلسلہ پای صبا ست +
سندل - چھوٹی کشتی اور پاپوش یعنی جوتی اور آدمی جو بیعقل و بیہودہ فوت ہو -
سنگول - وہ اسباب جو ضروری ہو -
سنام - اونٹ کا کوہان -
سنگم - ایک جانور تیز پرواز کا نام ہی اور ہندی مین ہمراہی اور رفیق -
سن - دندان یعنی دانت و بمعنی سال و مقدار عمر سنین اسکی جمع ہی شعر بافسوس کن یاد ہر روز و شب + بغفلت اگر گذرد سن و سال + حافظ محتسب خم شکست و من سر او + سن بالسن و الجروح قصاص +
سن - ترکی مین بمعنی تو کلمہ خطاب ہی -
سندن - بکسر اول ترکی مین ترجمہ حرف از جسکے معنی اُردو مین سے نکلتے ہین
سن سن - ترکی مین اسکے معنی تو ہی تو ہی -
سن سن - حرام مغز جو بکری بھیڑ وغیرہ جانورون کی پشت سے نکلتا ہی
سنن - جمع سنت بہت سی سنتین -
سنین - جمع سنہ بہت سے برس -
سنون - وہ دوا جو دانتون پر ملی جاے ہندی مین اسکو منجن کہتے ہین
سنگترن - ترازو کی کم وزن -
سنیاسیان - ایک فرقہ فقرای ہنود کا ہی - یہ لفظ ہندی ہی -
سنان - سر نیزہ کا سر عصا کا اور ہر ایک چیز کا تیز ہونا لسبب کلیم ظفر ملازم تیغت سنان جو ہر شد + سر عدو و شرر شعلہ سنان تو باد + ناصر خسرو مپوش جامۂ جفا و مکش سنان ستم + کہ تیر نالۂ مظلوم کارگر باشد +
سندان - اہرن لوہے کا جسپر لوہار لوہا کوٹتے ہین - مؤلف چو موم از گرمی الفت شو و نرم + اگر باشد دلت مانند سندان +
سنگ انسو - سنگ مرمر جو مشہور پتھر ہی -
سنبالو - ہندی زبان مین بوزنہ یعنی بندر اور ہندی مین نام ایک درخت کا -

سنجہ - ترازو کے بانٹ جس سے ہر چیز وزن کیجاتی ہے -

سنندہ - بفتح اول سرگین آدمی آدمی کا گوہ جو درشت اور غلیظ ہو -

سنہ - بضمتین سال یعنی برس -

سنہ - بکسر اول و فتح ثانی غنودگی و نیم جوانی -

سنۃ - بضم اول و تشدید ثانی راہ و روش و طرز و طریق و عادت وزن پسر -

سنۃ - و بکسر اول و تشدید ثانی ہر چیز کے دندانے -

سنگچہ - ترالہ یعنی اولا جو بادل سے برستا ہے -

سنبلہ - ایک خوشہ گیہون اور جو وغیرہ کا اور نام چھٹے برج آسمانی کا جسکی صورت ایک لڑکے کی ہے اور ہاتھ مین خوشہ ہے حکیم [illegible]

سنان سنبلہ بر کشت افلاک + گریبانی لب البازدل چاک +

سنیۃ - روشن اور بلند -

سنبہ - ایک لوہے کے آلہ کا نام ہے جس سے سوراخ کرتے ہین برما بھی اسکو کہتے ہین -

سنجیدہ - تولا ہوا وزن کیا ہوا موزون مصرع و مضمون محسن تاثیر

گر سخن گستہ ندارد و قدر و مقداری چہ غم + وزن او ظاہر شود از معنی سنجیدہ اش +

سنباذہ - بفتح سین و دال مہملہ ایک پتھر ہے جس پر ہتھیار تیز کرتے ہین -

سنسنہ - انگور سیاہ اور زنبور سیاہ کو کہتے ہین -

سنی - بفتح سین و کسر نون روشن اور چمکتا ہوا اور بہت بلند -

سنی - پیرو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رباعی بہ سنیم

کہ کند طعنہ رافضی احمق + نہ رافضی کہ کند سنیم گریبان شق +

غلام حضرت عشقم دگر مپرس ازیم + کہ کیست بر سر باطل کدام بر سر حق +

سین با واو

سودا - سیاہ اور نام ایک خلط کا چار خلطون سے جو انسان کے جسم مین موجب اسکے قیام و حیات کا ہین اور دیوانگی اور عشق اور خرید و فروخت عرفی من پریشان گوی سہو اندیش و سودا ہرزہ دوست + من بسودا سیم و تا نبین سودای من + میرزا بیدل

بر سرم پیچید آخر دود سودای کسی + ورنہ عمرم بود کاین دیوانہ بی دستار بود +

سوا - بکسر اول اسکے معنی بغیر کے ہین حکیم انور لاہوری یا خدا

مشکل کشا کوئی نہین تیرے سوا + ہمدم و حاجت روا کوئی نہین تیرے سوا +

سواء - بفتح اول برابری اور برابر -

سویدا - بضم اول سیاہ نقطہ جو دل پر ہے یہ لفظ تصغیر سودا کی ہے اور مؤنث اسود کے لفظ کی -

سوق الثلاثا - شہر بغداد مین ایک سہ راہ بازار کا نام ہے جسمین منگل کے روز ہر ایک جنس کا بازار لگتا ہے اور بکثرت خرید و فروخت ہوتی ہے

سورنا - یہ ایک باجہ کا نام ہے جو شادیون مین بجایا جاتا ہے مخفف اسکا سرنا ہے طاہر وحید سورنا کی تعریف مین - چو شد در جشن و زبان سرورم جہانزا بفریاد خواند بسور +

سوبرا - ژندی زبان مین امید و امیدواری -

سورا - ایک شہر کا نام ہے -

سوفرا - قباد پدر نوشیروان کے وزیر کا نام ہے -

سوغات - وہ تحفہ جو کسی دوست کے واسطے کسی دوسرے شہر سے لایا جاوے یہ لفظ ترکی ہے فارسی مین اسکو رہ آورد کہتے ہین سنجر کاشی

بہ از جان براے خواجہ متاعی بدر دوست + کہ بسوغات نبر دست کسی زیرہ بکرمان -

سورت - بفتح اول حدت و تندی و ظلم و ستم و خشم و غصہ و غضب و تیزی

سورۃ - بضم اول شرف و منزلت و بزرگی اور ایک حصہ قرآن مجید کا چنانچہ سورہ فاتحہ و سورۃ مزمل و اخلاص وغیرہ اور نام ایک شہر کا ہند مین دریاے شور کے کنارے پر -

سویۃ - برابری اور اعتدال -

سومنات - نام ایک بت اور بتخانہ کا گجرات دکن کے علاقہ مین تھا جسے سلطان محمود غزنوی نے ۴۱۶ ہجری مین حملہ کیا بت کو توڑا بتخانہ کو خراب کیا اور مال کثیر اٹھا کر غزنی لے گیا سومنات لفظ ہندی ہے اصل مین سوم ناتھ تھا جیسے اور عبادت گاہین ہندون کی بیجناتھ و جگن ناتھ وغیرہ ہین اسکا نام سوم ناتھ تھا کیونکہ سوم چاند کو کہتے ہین اور ناتھ کے معنی خداوند و بزرگ کے ہین اس بتخانہ مین چاندگرہن یا چاندرات کے موقع پر پرستش کی جاتی ہوگی اہل فارس نے اخیر کا حرف ہ کو گرا کر سومنات اسکو اپنے اشعار مین باندھا ہے سعدی

بتی دیدم از عاج در سومنات + مرصع چو در جاہلیت منات +

سودد - سرداری و مہتری و پیشوائی -

سوء المزاج - مرض بیماری مزاج کا بگاڑ ذوقی گر نہ سوء المزاج باطنی ست + چارہ اش جوار طبیب معنوی -

سوفرج - دری زبان مین کف دریا یعنی سمندر کی جھاگ جو سمندر کے کنارے سے پہاڑون اور پتھرون پر جم کر خشک ہو جاتی ہے اور سنگ سے زیادہ سفید اور لطیف ہوتی ہے -

سوانح ۔ جمع سانحہ کی بہت سی کیفیتین اور روداد استعمال اسکا متوفی حالات کے بیان مین کیا جاتا ہی۔
سوراخ ۔ مشہور لفظ ہی جسکے معنی چھید ہین نظامی گنجوی
دانائے پیشینہ گفت + بیک در نشاید دو سوراخ سُفت مؤلف
چرا نہ مرہم صبر از خدای خود خواہی + کہ ہست بر دل لشیت زحرص صد سوراخ +
سوخ ۔ پیاز جسکو عربی مین بصل کہتے ہین۔
سوخ ۔ نام ایک شہر کا ہی۔
سواد ۔ رنگ کی سیاہی و شہر کے نواح و ملک و خط مسودہ محمد سعید اشرف
بالک ہند نسبتا ایران چہ میلی + چون اعتبار اصل نباشد سواد را صاحب
سیلو سجہا ستا ہی سیہ ز آن لیف + نیست سوادی کہ با صلاست مطابق +
سُود ۔ عربی مین جمع اسود کی جسکے معنی سیاہ کے ہین اور فارسی مین
فائدہ و نفع جو تجارت مین ہو اور ربا جسکو ہندی مین بیاج کہتے ہین ظہیر
با عیش نقد فکر سر انجام بہر است + زان قرض سود بہ کہ انعام بہتر است نظامی
سکندر کہ دنیا بنامی نمود + بدان نام نیکی بسی کرد سود +
سوگند ۔ قسم اور حلف مشہور لفظ ہی فغانی کاری نشد از پیش
تبرکی و ساقی + پیمانہ بیار ید کہ سوگند شکستیم +
سَود ۔ بفتح اول سبد یعنی ٹوکرا اور جھابہ جسمین سبزی فروش سبزی
اور میوہ فروش میوہ بیچتے ہین ۔ اور بار یک لکڑی سے بنایا جاتا ہی۔
سوسپند ۔ ایک گھاس کا نام ہی جسکو دودھیا کہتے ہین اُسکو
نچوڑین تو دودھ نکلتا ہی۔
سوسمار ۔ مشہور جانور ہی جسکو گوہ اور سگوہ ہندی مین کہتے ہین۔
سوار ۔ سوارہ ۔ جو شخص کسی پر چڑھ کر چلے پیادہ نہ گھوڑے پر سوار ہو یا
گدھے خچر کشتی وغیرہ پر ہندی مین اسکو اسوار بھی کہدیتے ہین خسرو خرم سید
کا مشب بر یار خواہی آمد + سر من فدای راہی کہ سوار خواہی آمد صائب
ز شقفت پست خطر ہاست سر بلندان را + کہ پیادہ شود ہمت سوارہ من +
سوداگر ۔ سودا ور جسکا لین دین جاری ہو تجارت کا کام کرتا ہو صفہ فوقانی
و ست از سودای دنیا بازدار + نیست سود تو درین سوداگری۔
سوفار ۔ سوفارہ ۔ دہان تیر یعنی تیر کا منہ اور سوئی کا سوراخ محمود
راست تیر ایازی محمود + در دل من نشست تا سوفار خسرو تیر کرشش
گشت چو سوفارہ ساز + گشت ز دستش سر سوفارہ باز +
سُور ۔ غیاث اللغات مین اسکے چند معانی لکھے ہین اول جشن جو عروسی
کے موقع پر کیا جاوے دوسرا سرخ رنگ جیسا کہ سرخ پھول کو گل سوری
کہتے ہین تیسرے خاکستری رنگ سیاہی مائل گھوڑے اور گدھے اور اونٹ کا

چوتھے قلعہ کی دیوار و شہر پناہ ۔ پانچوین نیم خوردہ ولپس خوردہ یعنی جھوٹا
چھٹے قرآن شریف کی سورت ۔ ساتوین نام ایک فتانی قوم کا۔
سورہ نور ۔ قرآن کی سورتون سے ایک سورت کا نام ہی۔
سُوبر ۔ قسم جمادات یعنی پتھر کے اقسام۔
سوسبار ۔ ژندی زبان مین گھوڑا جسکو فارسی مین اسپ اور عربی
مین فرس کہتے ہین۔
سوز ۔ حرارت گرمی جلن مؤلف شود از آتش دل سینہ بریان +
جگر میسوزد از آہ جگر سوز +
سوس ۔ مخفف سوسمار جس جانور کا ذکر تحریر ہو چکا ہی اس جانور
کی چربی اگر انسان کھائے تو جلد فربہ ہو جاتا ہی چربی کی مالش بھی ہوتا
کرتی ہی۔ اور نام ایک کرم کا جو ریشمی کپڑون کو لگ جاتا ہی اور بہت جلد
ضائع کر دیتا ہی اور نام ایک گھاس کا اور نام اُس کرم کا جو گیہون و
شالی وغیرہ اناج مین پیدا ہو کر اسکو کھا جاتا ہی ۔ اور نام ایک درخت کا
جسکی جڑ ملیٹھی ہی اور اسی لحاظ سے ملیٹھی کو اصل السوس کہتے ہین۔
سوریوس ۔ نمرود کا فر کا یہ اصلی نام تھا اُسکا ایک بیٹا تھا اُسپر
اسقدر غالب ہوا کہ باپ کو پکڑ کر آختہ کر دیا تاکہ سوا اسکے اور کوئی
وارث تخت و تاج کا پیدا نہو۔
سَولیس ۔ غفلت و بے خبری و نادانی۔
سُونش ۔ وہ بُرادہ جو سوہان کرنے کے وقت لوہے وغیرہ سے گرتا ہی
سورۂ اخلاص ۔ قرآن شریف کی صورتون مین سے ایک صورت کا
نام ہی یعنی قل ہو اللہ احد مؤلف صاحب اخلاص ہین جو لوگ اور
سینہ صفا + وردر کھتے ہین ہمیشہ سورۂ اخلاص کا
سَوط ۔ تازیانہ ۔ اور تازیانہ مارنا۔
سُواع ۔ ایک بُت کا نام ہی جسکو نوح علیہ السلام کی قوم پوجتی تھی۔
سَواطِع ۔ جمع ساطع بلند اور روشن۔
سَوغ ۔ جواز و روانگی و گوارائی۔
سُوء دماغ ۔ دماغ کا بگاڑ اور بیماری۔
سَوالِف ۔ گذری ہوئی باتین۔
سُوف ۔ حکمت کا علم اور فیلسوف صاحب حکمت۔
سَوابِق ۔ گذرے ہوئے لوگ۔
سَوق ۔ بفتح اول چلنا اور روان ہونا۔
سُوق ۔ بضم اول بازار اور جمع ساق بہت سی پنڈلیان۔
سَوِیق ۔ پست یعنی ستو جو جو اور گیہون کے بنا کر کھاتے ہین۔

سواک - نرم رفتار فارسی اور عربی مین تیرے سواے بغیر

سوگ - ماتم جو کسی کی مرگ پر کیا جاے حافظ بزیر زلف دو تا چون گذر کنی بنگر + کہ از یمین و یسارت چہ سوگوارانند +

سوداتمک - دو نون لفظ ترکی ہین ایکے معنی پانی دوسرے کے معنی روٹی

سوکک - یہ ایک آفت گیہون کے کھیت مین پیدا ہوتی ہی ہندی مین اسکو گروی کہتے ہین -

سوزاک - یہ ایک بیماری ہی جس سے سوزش پیشاب مین ہوتی ہی مجرا بول سے ریم اور خون آتا ہی -

سوسک - یہ ایک پرندہ کبک سے چھوٹا ہوتا ہی مگر شکل اُس سے ملتی ہی -

سوک - خار جو گیہون اور جو کے خوشون کے سر پر ہوتے ہین اور آدمی جسکی داڑھی کے بہت تھوڑے بال ہون -

سونانک - وہ آواز جو بحالت خواب ناک یا حلق سے نکلتی ہی -

سواحل - جمع ساحل دریا کے کنارے -

سئول - بروزن فعول وہ آدمی جسکو سوال کرنے کی عادت ہو -

سوال - مانگنا چاہنا کسی چیز کا کسی سے - سعدی سوال کردم و گفتم جمال روی ترا + چہ شد کہ مورچہ بر گرد ماہ خورشیدہ است + جواب داد ندانم چہ بود رویم را + مگر بماتم حسنم سیاہ پوشیدہ است +

سُول - رنگ خاکستری سیاہی مائل اور ناودان یعنی پرنالا اور بدرو پانی کا اور بیماری قولنج کی -

سوم - بفتح اول گردن بیچنا خواری اور رنج کھینچنا گھاس چرنا چارپایہ کا

سِوُم - بکسر اول وضم ثانی ثالث کا ترجمہ تیسرا عدد مین -

سُوتام - قدری قلیل تھوڑا ناقص کوچک اور اندک -

سواکن - جمع ساکنہ رہنے والے لوگ

سُوفن - نام ایک رود کا ہی -

سوسن - یہ ایک پھول چار قسم کا ہوتا ہی ایک سفید جسکو آزاد کہتے ہین دو زبان رکھتا ہی دوسرا کبود جسکو ازرق کہتے ہین تیسرا زرد جسکا نام خطائی ہی چوتھے آسمان گون مرکب رد اور کبود اور سپید سے ہی حافظ ای صبا بندگی خواجہ جلال الدین کن + کہ جہان پر سمن و سوسن آزاد کنی +

سُورن - بامای مہملہ حملہ کے وقت لشکریون کو باواز بلند جمع کرنا تکبیر کہکر بلانا یہ لفظ ترکی ہی - عبداللہ ہاتفی نہ ہر دو طرف سورن انداختند + ہزبرانہ بر یکدگر تاختند +

سوزن - سوئی جس سے کپڑا وغیرہ سیا جاتا ہی ملا مفید بلخی دیدہ تا چوش سرشکم شدہ خاموش ازبیم + زدہ مژگان ترم بر لب دریا سوزن +

سوہان - مشہور آوازہی ہندی مین اسکو ریتی کہتے ہین میرزا معز فطرت چشم تو بہ جلوہ زنجیر سوہان میزند + ہمچو مجنون گر کنم ہنگامہ بر پا خوش است +

سورنجان - ایک دوا کا نام ہی جسکی تشریح ادویات کی فصل مین تحریر ہوگی

سودمیان - بضم اول واو معروف و زای موقوف سرمایہ و نفع و سود و تحفہ +

سودان - سیاہ رنگ آدمی اور نام ایک ملک کا -

سودائیان - سوداگر لوگ -

سوران - ایک مرغ کا نام ہی جسکو سیار بھی کہتے ہین مرغ تلخ خوار بھی اسکا نام ہی

سوفطیون - یونانی مین ایک دوا کا نام ہی جسکو عربی مین خیمۃ اللقلق کہتے ہین

سولان - نام ایک دوا کا ہی جو روم سے لاتے ہین اور نام ایک پہاڑ کا آذربائجان مین اردبیل کے پاس اور اس پہاڑ پر مرد ان خدا پرست معتکف رہتے ہین -

سوین - وہ برتن جسمین کتا پانی پیے -

سوختہ - جلی ہوئی روئی یا لتہ جسپر چقماق سے آگ جھاڑتے ہین عربی مین اسکو حراق کہتے ہین سعدی در سوختہ پنہان نتوان داشتن آتش + ما نیز نگفتیم و حکایت بدر افتاد +

سُو - فارسی مین طرف اور ترکی مین پانی و شراب اور عربی مین بہ ایذا وہی ہمرہ بدی برائی و غم و اندوہ و تشویش و تغیر مزاج شعر بہ بستان شبہا بہ جلوہ گامزد + بہر سمت و بہر جانب بہر سو + شناسد عندلیب آن گلبدن را + درین بستان بہر رنگ و بہر بو +

سُوزَہ - قبا کا تکمہ اور کپڑے کی بغلین جو قبا مین لگائی جاتی ہین اور بیر بیز -

سُوسہ - وہ کرم جو گیہون مین پڑ جاتا ہی -

سوچہ - خشتک یا بغلک کپڑے کی -

سودابہ - کیکاوس کی زوجہ کا نام ہی -

سوزمہ - جغرات اور کھٹا دہی اور پنیر جو جغرات سے بناتے ہین -

سوکہ - سوراخ قبل یا دبر کا اور پس و پیش -

سُومہ - حد و انتہا ہر چیز کی -

سَوکیسہ - قوس قزح جو کمان ابر مین نمودار ہوتی ہی -

سوسنی - نیلا رنگ گھوڑے کا ہو یا کسی اور چیز کا -

سوری - ایک سرخ رنگ پھول کا نام ہی -

سوانی - آبکش اونٹ -

سواقی - جمع ساقیہ چھوٹی نہرین -

سوفسطائی - یہ فرقہ حکماے مذہب باطلہ سے ہین جو نفی حقائق کی کہتے ہین ایک انمین عنادیہ ہین جو قائل بحقائق اشیا نہین ہین اور کہتے ہین کہ

ایک وہم وخیال ہے دوسرے عشر یہ منکر ثبوت اشیا اور تابع اپنے اعتقادات کے ہین تیسرا فرقہ لاادری ہے جو ثبوت اور نفی دونون کے قائل نہین۔

سوقی۔ بازاری دکاندار منسوب بسوق۔

سواری۔ سوار ہونا گھوڑے یا اونٹ یا پالکی یا کشتی وغیرہ پر نعمت خان عالی سوار پالکی مسکفت یا آہ + شعر بیگم خانہ برد و شہم درین راہ +

سوچی۔ ترکی ہین شراب فروش سو کے معنی شراب اور چی علامت فاعل ہے چنانچہ خزانچی و باورچی وغیرہ۔

سودائی۔ دیوانہ مجنون خبطی غبد الغنی غنی۔ سودائی عشقت طبع سوندارد + اندیشہ ہو وہ سم نا بودندارد +

سوزنی۔ ایک قسم کے فرش کا نام ہے جسمین سوئی کا کام نہایت لطافت سے کیا جاتا ہے سعید اشرف۔ درزیر پا زخار ہم فرش سوزنی + بر فرق ہما ہیر طیلسان پر شت +

سین با ہای ہوز

سہا۔ ایک باریک ستارہ کا نام ہے جو بنات النعش کے تین ستارون ہین سے دوسرے ستارہ کے ساتھ ہے مولف کجاست قطرہ نا چیز و گوہر یکتا + سہا کجا و سہا کجا آفتاب عالمتاب +

سہراب۔ رستم کے بیٹے کا نام ہے جو اپنے باپ کے ہاتھ بحالت ناشناسی قتل ہوا تو چراست آدمی از بہر زیست و ز نیا و تابت کہ ہست قالب خاکی حباب بر سر آب + ز دارو ہر یک سحظہ رخت بر بستند + سہراب لشکر و نام آوران نیک خطاب + نہ جاہ و مال سکندر نہ ملک دارا ماند + نہ زور بازوے رستم نہ طاقت سہراب + نماند دولت و حشمت نماند لشکر و فوج + نماند مجمع اعدا نہ مجلس احباب + نہا دگردن تسلیم پیش تیغ اجل + امیر و والی اقلیم و حاکم و نواب + چو در دیار خموشان رسید شد خاموش + ندا و باز با یک سوال ہیچ جواب +

سہولت۔ آسان ہونا سہل ہونا صفدر رفوقائی۔ ہو دے تکلیف اپنے آپ کو دنیا کے کامون مین + چلا ہے کام اپنا بس سہولت جس طرح سے ہو۔

سہیت۔ ژندی زبان ہین عمارت و مکان۔

سُہاد۔ بیخوابی جو ایک بیماری ہے۔

سَہر۔ بفتحتین بیداری و بیخوابی۔

سُہر۔ بضم اول نام بیماری کا جس سے بیمار کو نیند نہین آتی۔

سِہر۔ بکسر اول مادہ گاو یعنی گاے جو مشہور چارپایہ ہے۔

سُہیل۔ مشہور ستارہ ہے۔ نظامی سہیلے بلاک عرب تافتہ +

اوسیم ہین رنگ از و یافتہ +

سہل۔ جو کام مشکل نہو بہت آسان۔ میر خسرو نگیرد سہل ہرگز صاحب بخت + غم دشمن خصوصًا دشمن سخت۔

سَہم۔ بالفتح عربی ہین تیر جو کمان سے چلایا جاتا ہے اور حصہ و بہرہ اور فارسی ہین بیم و خوف فردوسی۔ مرا سہم دادے کہ دریا ی نیل + تنت را ببایم کو دریاے نیل۔

سَہّام۔ بفتح اول و تشدید ثانی تیر انداز اور تیر گر۔

سِہام۔ بکسر اول و تخفیف ثانی بہت سے حصے اور بہت سے تیر جمع سہم

سُہام۔ بضم اول و تخفیف ثانی تاریکی و تغیر چہرہ و لاغری و ضعیفی۔

سَہام۔ بفتح اول و تخفیف ثانی شدت حرارت گرمی کی اور زایچہ جو بقاعدہ علم نجوم نکالا جاتا ہے شاعر کو اک قوی حال و انظار نیک + سہام کو لائک بیا باید نیک +

سہیم۔ شریک و حصہ دار جو کسی چیز مین ہو۔ صفدر رفوقائی خدا و ند عالم شریکم ہو کہ اندر خدائی ندارد سہیم +

سہو۔ بجہول بھانا فراموش کرنا درویش والاہروی چشم غیر سوی بہ دید و چشم من بسوی او + کرد و در دو ستہا کرد سہوی من خطا کرد م

سہی۔ تین عربی ہین شل شمولانا لمنہ چہ پستا آدمی را التن دار + خلق نیک و طبع نیک و نیک کار +

سُہروَردیہ۔ یہ خاندان اولیا کرام کا مشہور و معروف ہے۔ ان ہی کے حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین تھے۔ اور سہرورد ایک قصبہ کا نام ہے عراق عجم ہین جسمین وہ سکونت رکھتے تھے اس سلسلہ ہین ہزارون ولی کامل مثل شیخ بہاؤالدین ملتانی و سید جلال الدین مخدوم جہانیان وغیرہ ہوئے ہین۔

سہرا۔ ہندی لفظ ہے جو موتیون یا قیش یا پھولون کا بنا کر دولھا کے منھ پر بوقت شادی کے باندھتے ہین امتیاز خان خالص یا و من از حیا رخش بسکہ آب و تاب شد + سہرہ چو بست عاشق نگہ بر آفتاب شد +

سہیلہ۔ ایک قسم کے خیمہ کا نام ہے۔

سہی۔ سیدھا جسمین کج نہو یہ لفظ سرو کی تعریف ہین مستعمل ہے اور بنا سبت سرو کے قد کی تعریف مین استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ سہی بالا وسہی قامت و سہی قد۔

سین با یای

سیمیا۔ علم طلسم جس سے اپنی روح کا انتقال دوسرے شخص کے جسم ہین جو خالی روح سے ہو کر لیتے ہین اور اپنے جسم کو چھوڑ دیتے ہین اور ہر شکل مین جو چاہتے ہین ظاہر ہو سکتے ہین اور وہ صورتین

دکھلا سکتے ہین جنکا وجود وجود مین نہین آیا سے کیمیا و لیمیا و سیمیا

این ہمہ باشد ز خدمات اولیا +

سینا - بکسر اول شیخ ابو علی کے دادے کا نام ہی جو مشہور حکیم ہی

سینا - ایک پہاڑ کا نام ہی جسکو طور سینا کہتے ہین اور موسی علیہ السلام اُسپر جاکر خدا سے ہمکلام ہوتے تھے سے تجلی موسی کیجا نور الٰہی + منور در میان کوہ سینا +

سیما - نشان اور علامت جس سے کوئی پہچانا جاتے نیک نشان ہو یا برا اور وہ نشان جو کثرت سجود سے نمازیون کی پیشانی پر ظاہر ہوتے ہین اور پیشانی یعنی ماتھا سعدی - ہر کہ سیماے راستان دارد + سر خدمت بر آستان دارد +

سیا - مخفف سیاہ یعنی کالا سے شود ملک ویران اگر پادشا + ندارد تمیز سپید و سیا -

سیماب - زیبق یعنی پارا جو مشہور دھات ہی مولف بفکر سیم و زر انسان خاکی + چرا مضطر بود مانند سیماب -

سیلاب - پانی کا بہاو اور چڑھاو حافظ دور از رخ او دمبدم از چشمہ چشم + سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت +

سیر آب - سرسبز تر و تازہ و آبدار صائب بر لب ساغر از آن بوسہ سیراب نزند + کہ نیارد سخن از مجلس مستان بیرون +

سیب - مشہور میوہ ہی جسکو عربی مین تفاح کہتے ہین سے ذقن کوئی دو رنگ سیب + ربودہ از دل عاشق شکیب + بہ تخیل زنخ او ہی سیب بستان + فرو ماند رنگ و بوی سنبلستان + مصرع نارپستان جہان زا + دو دل اسے و دو دل صفرائیان را +

سیہ تاب - ایک رنگ کا نام جو سیاہ اور بنفشئی ہوتا ہی -

سیاب - بہلاوی مین زندگی و حیات اور وہ حباب جو پانی برسنے کے وقت پانی پر نمودار ہوتے ہین -

سیاقت - روان کرنا جاری کرنا -

سیئات - بروزن طیبات بہت سے گناہ اور قصور اور بدیان -

سیاست - حکومت کرنا نگہبانی کرنا قہر کرنا ہیبت دکھلانا ڈرانا دھمکانا - ابو الفرج رونی فلک سیاست او بستہ بر شہود سنین + زمانہ طاعت او بستہ بر قلوب و رقاب + نظامی سیاست کنند چون شود کینہ ور + بہ بخشش یدا نگہ کہ یابد ظفر +

سیادت - سید ہونا سردار ہونا بزرگ ہونا - نعمت از مولف بنی کیسے ہو جو ہ جہان مین پڑھ گیا رتبہ کرمت کا شرافت کا نجابت کا سیادت کا

سیاحت - سیر کرنا اور چلنا زمین پر -

سیرت - عادت خو طرز و طریق خصلت طینت توحید شاہ این دولت رود یا تو نہ حشمت + بجز رنج و پشیمانی و حسرت + بانگ انقلاب ہر آنچہ این شکل و نہ این صورت نہ سیرت + نہ فقر و فاقہ و افلاس ماند + نہ جاہ و دولت و ملک و حکومت +

سیاح - سیر کرنے والا پاؤن چلنے والا - مولف رود بمنزل خود ما بعد سیر و سفر + کہ آمدست براے سیاحت این سیاح +

سیخ - وہ سیخ جسپر کباب بھونتے ہین فارسی مین اسکو بابزن بھی کہتے ہین سعدی ہم سینہ کہ سلطان ستم روا دارد + زنند لشکریانش ہزار مرغ بسیخ +

سیمناخ - بخیل ممسک کنجوس -

سیمرغ - خدا سے کچھ مانگنا - و عاوزاری کرنا -

سید - پیشوا و مہتر و سردار - و لقب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سید ہر دو جہان بر تو ہزاران صلوات + والی کون و مکان بر تو ہزاران صلوات +

سید - بکسر اول و یاے معروف گرگ یعنی بھیڑیا جو مشہور درندہ ہی

سینہ بند - پیٹی جو گھوڑون کے سینہ پر باندھی جاتی ہی اور عورتون کی انگیا جو پستانون پر باندھتی ہین چغرا اولدل کی تعریف مین کہتا سینہ بند ش از ان در بغل کہ لاغر میان ست و فربہ کفل + حکیم حاذق گیلانی ز ضعف نفس بہ ہمت ہمانی و در رزم + ز رازخود و زرہ سینہ بند و معجر بہ +

سیغود - تواضع و تکریم و عجز و انکسار -

سیمناد - قرآن شریف کی صورتین مثل سورۂ فاتحہ و اخلاص وغیرہ -

سیفور - ایک قسم کے ریشمی کپڑے لطیف سیاہ رنگ کا نام ہی -

سیسنبر - ایک گھاس کا نام ہی جو پودینہ کیطرح خوشبودار ہوتی ہی معرب سیہ سنبل -

سیر - بکسر اول و فتح ثانی خصلتین اور عادتین سیرت کی جمع ہی و علم تواریخ و بیان احوال گذشتگان -

سیغر - خارپشت جو مشہور جانور ہی تیرانداز بھی اسکو کہتے ہین -

سیر - بکسر اول و یاے مجہول پیٹ بھرا ہوا بیزار و رنجیدہ -

سیر - بکسر اول و یاے معروف لہسن جو مشہور چیز ہی -

سیر - بفتح اول و سکون ثانی پھرنا چلنا اور رفتار صائب عمر باشد رہ مشغول بجیدہ عمر کہ نیم شبہ + ما کی ہم پا نغز الان سیر صحرا میر نم میر نجات بی گلی و سیہ و ما بی و بہار + سیر دار د گریہ رنگین ما +

سیر - بکسر سین و یاے مجہول شمشیر ای مقابلہ تیر مقابل کنند کہ تیر تلوار و خنجر وغیرہ

سپوس - اسپغول جو مشہور تخم ہی -
سپیس - گھوڑا تیز و تند و چالاک ہندی مین سیز آدمی کا -
سیسالیوس - سُریانی زبان مین وہ سبزہ جسکو حلفیت کہتے ہین -
سپوس - نام ایک درخت کا یونانی مین ہی -
سیاوُش - جوانمرد خوبصورت وعیاش اور نام بیٹے کیکاؤس فرمان فرمائے ایران کا تھا جسکے حسن وجمال پر سمات سوداوہ اُسکے باپ کی عورت کہ سواے اُسکی مان کے تھی عاشق ہوگئی اُسنے اُسکی درخواست کونا منظور کیا تو عورت نے جھوٹا بہتان اُسپر قائم کیا عورت کے کہنے پر بادشاہ نے رنجیدہ ہوکر اسکو اپنے علاقہ سے نکال دیا - سیاوش افراسیاب کے پاس جو اُسکے باپ کا مخالف تھا چلا گیا افراسیاب نے اپنی لڑکی اُسکے نکاح مین دی اور بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس رکھا مگر چند سال کے بعد وہ سرکے داماد کے اغوا پر افراسیاب اُس سے ناراض ہوگیا اور سیاوش کو ناحق قتل کر دیا -
سیہ گوش - نام ایک درندہ کا جو کتے سے چھوٹا اور بلی سے بڑا گلابی رنگ مائل بسیاہی ہی دونون کان سیاہ ہین سریع الحرکت اور تیز رفتار ہی جب شیر چلتا ہی تو وہ شیر کے آگے آگے ہوتا ہی اور چیختا ہوا چلا جاتا ہی تا کہ اُسکی آواز اور جانور سنین اور بھاگ جائین شیر کے حملے سے سلامت رہین سیاہ خس اور سیاہ قش بھی اسی کے نام ہین -
سیاط - جمع سوط بہت سے تازیانے -
سیاع - کہگل جو دیوار اور چھت کو لیپا تی ہی -
سیمرغ - یہ بڑا مرغ کوہ قاف مین رہتا ہی سعدی چنان پہن خوان کرم گسترد + کہ سیمرغ در قاف روزی خورد +
سیغ - بہت اچھا بہت عجائب نہایت عمدہ -
سیف - شمشیر یعنی تلوار مؤلف نگہ شمشیر بران زلف زنجیر + وہ مژگان تیر ابرو سیف مسلول +
سیوف - جمع سیف بہت سی تلوارین -
سیاف - تلوار یا بہادر پہلوان توحید نہ بد ماند نہ نیک اندر زمانہ + نہ باشد زندہ اجلاف و نہ اشراف + بگھور ی اجل یا جان سپارد + بہادر پہلوان و مرد سیاف +
سیراف - دریاے فارس کے کنارے ایک شہر آباد تھا -
سیشف - ایک بڑے درخت کا نام ہی جسکو سپستی بھی کہتے ہین -
سیاق - چلانا جاری کرنا اور علم حساب کا چونکہ حساب کے وقت قلم اور زبان دونون جاری ہوتے ہین اسواسطے اسکا نام سیاق رکھا گیا -

سیک - ترکی مین آلت تناسل مردان -
سیامک - کیومرث کے بیٹے کا نام ہی -
سیکناک - آہستہ اور سہج سے وہ شنیدہ رفتم نیم شب کوی جانان سیکناک + نرگس ہمادم پاسے دار رفتم با یوان سیکناک + لب را نہادم بر لبش تا گہ بدندان کندمش + در خشم شد آن نازنین گفت ای مسلمان سیکناک +
سیمرک - وہ کیڑا جو گیہون مین پیدا ہوکر اسکو تلف کردیتا ہی -
سیل - دریا کا بہاؤ اور چڑھاؤ میر خسرو خزینہ چنان زد بہر سو کہ سیل + کہ مفلس بیرون نیکرد میل +
سیول - جمع سیل بہت سے بہاو پانی کے -
سیال - رقیق اور بہ جانے والی چیز جیسے پانی اور دودھ وغیرہ
سیورغال - وہ معاش روزینہ تنخواہ جاگیر و انعام وغیرہ -
سجل - خارپشت جسکو تیرانداز کہتے ہین -
سیکل - زرد ہو جانا زراعت کا بسبب کسی آفت کے -
سیم - بیاسے بھول وہ پانی دریا کا جو کشتی مین آجاتا ہی اور ملاح اُس پانی کو کشتی سے نکالتا رہتا ہی -
سیم - سپاہی معروف چاندی نقرہ ملا شانی تکلو مہر فلک از انفقہ زرین تو کسے + جیح دو درہم از پردہ در گاہ تو سیمی -
سیام - پہلا اول نام کوہ نزدیک سمرقند -
سیوم - ثالث تیسرا -
سیلان - جاری ہوتا پانی و خون وغیرہ کا اور نام ایک جزیرے کا جسمین یاقوت پیدا ہوتا ہی نورالدین ظہوری یاقوت سرشک سیلان را + لخت جگر نگار سیلان -
سیران - سیر کرنا اور چلنا -
سیحون - اندجان و سمرقند مین ایک دریا ہی -
سیوشان - ہرات کے پاس ایک بستی ہی درویش والا گہری در مدح خواجہ سلطان احمد شہزادہ سیوشانی از بہر سکون جملہ اوطان + چون جان شدہ در تن سیوشان +
سیان - عشق پیچہ کی بیل جسکو لبلاب بھی کہتے ہین -
سیاوشان - ایک لکڑی کا نام ہی جسکو بقم کہتے ہین اور اسکا رنگ بذریعہ جوش کے نکالکر کپڑے رنگتے ہین -
سیحون نام ایک دریا کا ہی ما وراء النہر مین جو خجند کے پاس بہتا ہی [illegible]
[illegible]

سیریان - یاقوت سرخ اور قسم حریر جو نازک اور منقش ہے۔
سیرون - وہ موسم جب سردیون کا خاتمہ اور گرمیون کی آمد ہو
سیسارون - سیاہ دانہ یعنی کالونجی کی لکڑی۔
سیسیان - یونانی مین ایک گھاس کا نام ہے جسکو فارسی مین پنج انگشت اور عربی مین خمسہ اصابع اور حب القفقد بولتے ہین استسقا کی دوا ہے۔
سیستان - مشہور ولایت ہے جسکو نیمروز بھی کہتے ہین اور رستم اُسی ولایت مین پیدا ہوا تھا فردوسی نقش کردہ ام رستم داستان وگرنہ یلی بود در سیستان +
سیسنبرون - ایک بوٹی ہے جو پانی مین پیدا ہوتی ہے فارسی مین اُسکو کرفس آب اور عربی مین حرف الماء کہتے ہین۔
سی لحن - یہ ایک کتاب ہے باربد مغنی خسرو پرویز کے ... [illegible] ... کتاب خسرو شیرین مین اُن لحنون کی تفصیل نظم مین بیان کی ہے۔
سین - نام حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نام شہر جو چین مین ہے اور ایک حرف ہے حروف تہجی سے۔
سیو - وہ کیڑا جو گیہون کے انبار مین پیدا ہوکر اسکو کھاجاتا ہے اور وہ کرم جو لکڑی کو کھا جاتا ہے ہندی مین اسکو گھن کہتے ہین
سیوہ - میوہ سیب جسکو عربی مین تفاح کہتے ہین۔
سیئہ - برائی گناہ تقصیر جرم وغیرہ۔
سیبہ - ترکی مین وہ خندق جو دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کھودی جاتی
سیاہہ - درج ہوجانا کسی رقم کا حساب مین۔
سیہ چردہ - سیاہ رنگ۔
سیارہ - قافلہ کاروان اور وہ ستارہ آسمانی جو اپنی حرکت کے ساتھ متحرک ہو اور وہ سات ہین قمر عطارد زہرہ شمس مریخ مشتری زحل
سیاہ سیہ - کالا اور مست اور کثرت اور حبشی غلام اور اسفندیار کے گھوڑے کا نام اور نام چوتھے خط کا جام جم سے اور شبو اور نحس اور ایک قسم درخت بید کا اور چور رہزن شرف سفیدہ - سر زلفت بہ یغما برد دلہا + سیاہیت ترکتازی او کرامید +
سیفہ - جلد سازون کے ایک اوزار کا نام ہے جس سے کتاب کے حاشیہ کو کاٹ کر درست و ہموار کرتے ہین محسن ... [illegible]
سیپنہ - چھاتی عربی مین اسکو صدر کہتے ہین نظامی ... [illegible]

میان لاغر و سینہ انگیختہ + رباعی از مؤلف صفا کن غبار کدورت ز سینہ + کہ باقی نماند درو نقش وکینہ + بکن کندہ بر لوح دل نام مولیٰ کز ان نام روشن شود این نگینہ +
سیجعنہ - ایک جانور ہے جسکو صعوہ بھی کہتے ہین اور تیار و مینا۔
سیرہ - ایک پرندہ خوش آواز چڑیا کی قسم سے ہے۔
سیلانہ - میوہ عناب۔
سیلہ - گلہ گھوڑون اور بکریون وغیرہ جانورون چارپایون کا۔
سیپارہ - قرآن شریف کا تیسوان حصہ۔
سیزدہ - تیرہ عدد ہین۔
سیاہی - کالاپن مقابل سپیدی کے مؤلف دلیا خود را پاک دیدہ تن پاک + سیاہی دور کن از نامہ خویش +
سیہ گری - سیہ کرنے والا ... محمد سعید اشرف تا سحر سیہ گری مہتاب چالش بود مرا ...
سیفی - پہلا شعرا مین سے چند شعرا کا تخلص سیفی تھا ایک سیفی نیشاپوری شاگرد فرید کاتب کا ومداح علاء الدین تکش خان بادشاہ خوارزم تھا دوسرے امیر حاجی سیف الدین سیفی امیر تیمور کے دربار کے امراؤن مین سے گذرا ہے اشعار ترکی وفارسی کہتا تھا تیسرے سیفی بخاری ... ایک سیفی نامی شاعر گذرے ہین اور بہار ...
سیلی - طمانچہ جو اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا جاتا ہے سالک قزوینی باغ کی تعریف مین شاخش کہ بسیدہ ... سیلی بر رخ قمر کشیدہ +
سیمی - ... مستی ... اور وہ لگن جسمین شمع قائم ہو محمد سعید اشرف بکفت سیمی غلامان بناموس + زجام قہوہ پرچون چتر طاؤس۔
سی - ترکی مین ترجمہ تیس کا یعنی وہ اور فارسی مین تیس جو مشہور عدد ہے قطعہ از لطف بدل گر خواہش اسلام داری + مسلمانی اگر ای بہرہ اندوز + بخوان ہر روز فرض پنجگانہ + ادا کن روزہ در یکسال سی روز +
سیکی - وہ شراب جو بعد جوش دینے کے تین پاؤ سے ایک پاؤ رہ جائے۔
سیہ کی سختی و درد و رنج و آزار و بیماری و مفلسی و تنگدستی۔

دوسری فصل

اردو لغات کے بیان مین

سین با الف

سامنا - مقابلہ جو کسی کے ساتھ کیا جاوے - حکیم محمد انور لاہوری

اگھڑا ہو سر پہ جب پیکِ اجل + کون کر سکتا ہی اُسکا سامنا +
سانچا - قالب جسمین کوئی چیز ڈھالی جاسے - شعر ہزار لاکیسا جو بین
آجکل اُسنے نکالا ہی + کمر نازک ہی قد موزون بدن سانچے مین ڈھالا ہی +
ساہا - تاریخ شادی کی جوازروی زائچہ نجوم کے مقرر کی گئی ہو -
سارا - تمام بالکل پورا اپورا المعنیہ از مولف محمد کی مداح دنیا ہی ساری +
محمد کا وصاف عالم ہی سارا +
سالا - خسر پورا - زوجہ کا بھائی -
سانولا - وہ معشوق جو سبزہ رنگ ہو -
سالنا - نان خورش لازمہ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیئے -
ساندا - وہ رسی جو گاے اور بھینس دوہنے کے وقت اُسکی لاتون مین باندھ دیتے ہین تاکہ دولتی نہ مارے -
سانسا - فکر اندیشہ تحیر و تفکر -
سانپ - مشہور موذی جانور ہی جسکی ہزارون قسم ہین فارسی مین اسکو مار کہتے ہین عربی مین افعی وغیرہ بہت سے اُسکے نام ہین ؎
دونون ابرو دونون زلفین چار موذی ہین بہم + ایک جوڑا بچھون کا
ایک جوڑا سانپ کا -
سات - مشہور عدد ہی فارسی مین اسکو ہفت عربی مین سبع کہتے ہین مولف
دیکھنا یہی گذر جائین نہ غفلت مین کہین جتنے باقی ہین تمہاری عمر کے دن پانچ سات +
سانٹ - آمیزش کرنا فریب دھوکا -
سانچ - سچ راستی صدق بے لگاؤ بات نظیر - نظیر یار کو غم اپنا کیون
نہین کہتا + سُنا نہین ہی یہ تونے کہ سانچ کو کیا آنچ +
سانڈ - وہ نر گاؤ یا بھینسا یا گھوڑا وغیرہ جانور جو اجراے نسل مویشی کے لیے پالا جائے اور وہ بیل جو ہنود اپنے بزرگون کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہین اور وہ شتر بے مہار کی طرح پھرا کرتے ہین -
سار - قدر گن رتبہ درجہ -
سانس - دم جو آتا جاتا ہی پھونک اور بند ہونے سے انسان مرجاتا ہی صفدر فوقانی - رہو غافل نہ حق سے دم بھر بھی +
تیری جب تک کہ آئے جائے سانس +
ساس - خوشدامن یعنی اپنی زوجہ کی والدہ - خسر کی جورو -
سانگ - نقل جو کسی کی اُتاری جاسے -
ساگ - سبزہ ترکاری میتھی پالک کرب خرفہ وغیرہ -
سال - نام ایک درخت کا ہی جسکی لکڑی بڑے بڑے کامون مین صرف ہوتی ہی اور برس دن بارہ مہینے -

سابل - معمارون کا اوزار جس سے عمارت سیدھی کرتے ہین اور وہ گول چھوٹا سا پتھر ہوتا ہی اور اُسکے ساتھ تاگا -
سان - وہ چیز جسکو گردش دیکر تلوار خنجر چھری اُسترہ وغیرہ کو تیز کرتے ہین
سائین - مالک خداوند صاحب -
ساون - بارہ مہینے شمسی مین سے ایک مہینے کا نام ہی جو عین بارش کا مہینہ ہی ؎ شکل دکھلائیگا کب ہمکو خدا ساون کی + ہوگی کسقدر
گھر بار گھٹا ساون کی +
سالن - نان خورش لازمہ روٹی کھانے کا -
سادھو - فقیر تارک الدنیا جو ہندو ہو مگر لاہور مین مسلمان سادھو کشمیری بھی رہتے ہین جو دور دور ملکون مین جا کر ایک ذریعہ مکر و فریب سے روپیہ کما لاتے ہین اکثر فقیر مست مجذوب بنجاتے ہین فارسی کشمیری ہندی زبان بہت شستہ بولتے ہین بعض اُنمین سے تجارت بھی کرتے ہین شاید انکے بزرگ کشمیر مین ہندو ہونگے اب یہ مسلمان ہین -
ساٹھو - ہمزلف دو عورتین جو آپسمین حقیقی بہنین ہون اُنکے شوہر آپسمین ساٹھو ہین -
ساتھ - ہمراہ اور رفاقت اور پاس نسیم - شعر راہ نہین کہ ساتھ چلیے
دیکھ بوجھ نہین کہ بانٹ لیجے +
ساکھ - اعتبار عزت آبرو -
سایہ - کسی درخت کا سایہ یا سورج کی دھوپ یا جن و دیو پری کا آسیب لغت یا از مولف زیر سایہ جسکے رہتے ہین ہمیشہ مہر و ماہ + جن
سایہ حق کا سایہ ہی رسول اللہ کا +
سانجھ - شام کا وقت غروب کا وقت -
ساڑھستی - سات برس چھ مہینے ستارہ زحل کی گردش کے -
ساتھی - ہمراہی رفیق سفر شریک کار - نسیم مذکور نہین ہی کچھ جسکا
ساتھی نہین کوئی کار بد کا -
ساجھی - شریک سہیم حصہ دار -
ساڑھی - بڑی چادر جسکو عورتین ہنود وغیرہ کی پہنتی ہین آدھی بجاسے پایجامہ اور آدھی سر پر -
سالوتری - طبیب جو چارپایون کا معالجہ کرتا ہی -
سالی - جورو کی بہن -
سانولی - گندم گون عورت سبزہ رنگ -
ساہی - خارپشت جسکو فارسی مین تیر انداز بھی کہتے ہین ہندی مین سیہ بھی اسکا نام ہی -

سائی - پیشگی روپیہ جو کسیکو کسی کام کی تیاری کے لیے دیا جاوے یا کسی چیز کی خرید فروخت مین -

سین با بای

سپاٹا - چھلانگ جست -
سِپّا - موقع وقت اتفاق -
سُپارا - عضو تناسل کا سر -
سپنا - نیند کی حالت خواب کی حالت -
سَب - تمام کمال بالکل - نسیم دیکھا تو سب اُسکے جوڑ کی تھین + اندر کے اکھاڑے کی پری تھین -
سپورہ - مصنوعی آلہ تناسل جو چپٹی باز عورتین بناکر اُس سے اپنی حاجت روائی کرتی ہین - مچا چنگ بھی اسکو کہتے ہین -
سپاہی - بادشاہی فوج کا آدمی مؤلف - اجل کر دیگی اسکو قتل اگر ؤ بہادر پہلوان ہو یا سپاہی -
سپاری - مشہور پھل ہی عربی مین اسکو فوفل کہتے ہین ہندوستان مین اکثر چھالیا بھی کہتے ہین اسکو کترکر اور پان مین رکھکر کھاتے ہین اکثر بغیر پان کے بھی کھائی جاتی ہی مؤلف اگر آؤگے جانان پان کھاکر + تو دیکھوگے ہماری جانسپاری

سین با تا

ستھرا - پاک وصاف وبی عیب اور نام ایک ہندو فقیر صاحب سلسلہ کا جسکا مندر عالیشان لاہور مین قلعہ کی شمالی دیوار کے ساتھ شہر کے باہر بنا ہوا ہی -
ستارا - ستارہ جو آسمان پر ہی اور طالع نصیب قسمت نعتیہ از مؤلف چمکتے جہان تک ہین چاند اور سورج + نبی کا چمکتا رہیگا ستارا +
ست - بہت درست ہی - راست ہی - ٹھیک ہی -
سَتر - پردہ حجاب نقاب -
سَتّر - مشہور عدد ہی جسکو فارسی مین ہفتاد اور عربی مین سبعین کہتے ہین
ستّو - جَو اور گیہون بھون کر بناتے ہین اور قند کے شربت مین ملاکر پیتے ہین
سُتالی - موچیون کے ایک اوزار کا نام ہی جس سے وہ چمڑے مین سوراخ کرتے ہین -
ستّی - وہ عورت جو مرد یا خاوند کی نعش کے ساتھ جل جاتی ہی انگریزون کی عملداری سے پہلے ہندوؤن مین یہ رسم جاری تھی اکثر عورتین مردہ کے ساتھ چتا مین پڑکر جل جاتی تھین صفدر فوقانی نہ ان ہندو ستی ہوئی ہی کیون مردے پہ مرتی ہی + فقط الفت پہ

جان وہ زندہ دل قربان کرتی ہی -

سین با جیم

سچّا - راست گو سچ بولنے والا آدمی - مولانا اکبر لاہوری ہوا محو محبت اپنی ہستی جسنے گم کر دی + زبان سے کر انا المحبوب بول اُٹھے وہ سچا ہی
سجاوٹ - زینت سنگار بن بناؤ -
سَج - زیب و زینت بناؤ سنگار -
سچ - راستی سچ بولنا صدق - مؤلف بولنا اپنی زبان سے ہر گھڑی اسے یار سچ + پیش حق تا تجکو رکھے سرخرو ہر بار سچ +
سجن - دوست پیارا جانی یار - سودا باتین کدھر گئین وہ تری بھولی بھولیان - دل لیکے بولتے ہو سجن اور بولیان -
سَجّی - مشہور چیز ہی جس سے کپڑے میلے سفید کیے جاتے ہین -

سین با خای

سخت مقابل نرم کے جو چیز کرخت اور کڑی ہو جیسے کہ پتھر و لوہا وغیرہ مؤلف کیا کرتے ہین سختی کسقدر وہ سخت دل ہمسے + میرے بت کیسے بن بیٹھے ہین پتھر دیکھتے جاؤ +
سختی - سخت ہونا کڑا ہونا بیرحم ہونا - مؤلف ہمیشہ ہمسے سختی ہی مگر غیرون سے نرمی ہی + سدا ہی سرد مہری مجھسے اور لوگونسے گرمی ہی
سخی - عربی لفظ اردو مین مستعمل ہی سخاوت کرنے والا بخشش کرنیوالا جوانمرد مؤلف زمانے کا پیارا خدا کا ولی + سخی ہی سخی ہی سخی ہی سخی +

سین با رای

سُرخا - گھوڑا جو سفید سرخی مائل ہو -
سرکنڈا - گھاس پھوس -
سڑا - کھانا یا میوہ جو خراب ہوکر بو کرگیا ہو یعنی بدبو اُس سے آنے لگی ہو -
سرخ - ہر ایک چیز جو لال ہو اور نام ایک سرخ رنگ چڑیا کا -
سُرخ بادا - ایک بیماری کا نام ہی -
سڑاند - بدبو جو کسی چیز سے آتی ہو -
سَر - جسکو عربی مین راس کہتے ہین - مؤلف جو عبادت مین سر جھکاتے ہین + تاج عزت خدا سے پاتے ہین -
سُر - راگ کا سُر جو مشہور ہی -
سریش - مشہور چیز ہی جس سے لکڑی لکڑی کے ساتھ چپک جاتی ہی جلدگر بھی کتابون کے مقوی اُس سے بناتے ہین -
سُرنگ - نقب جو دیوار مین لگائی جاوی یا وہ گڑھا جو زمین مین کھودا جاوے

سڑک۔ راستہ راہ شارع عام۔
سراوگن۔ چوتھا حرف واو نام ایک اوزار کا جس سے زمیندار زمین کا نشیب و فراز درست کرتے ہین۔
سرسون۔ مشہور تخم ہی جسکا تیل نکالا جاتا ہی۔
سرکہ۔ مشہور چیز ہی جو قند اور انگور اور کھجور کا بنایا جاتا ہی۔
سُرمہ۔ پتھر کا قسم ہی جو آنکھون مین باریک پیسکر لگاتے ہین۔
سرنامہ۔ ابتدائی عبارت ہر ایک خط کی اور دیباچہ کتاب کا۔
سُراگائی۔ جنگلی گائے فارسی مین اسکو گاو دشتی اور عربی میں بقر الوحش کہتے ہین۔
سرمہ دانی۔ وہ برتن جسمین سرمہ رکھتے ہین۔
سُرمئی۔ وہ رنگ سیاہ جسمین کسیقدر سرخی بھی ہو۔
سِڑی۔ دیوانہ مخبوط الحواس احمق نادان بیوقوف۔

سین باسین

سُستا۔ ارزان کم قیمت غلہ ہو یا کوئی اور چیز۔
سُستایا۔ ٹھہر گیا آرام کیا بیٹھ گیا
سُسرا۔ عورت کا باپ اسکے شوہر کے لیے اور شوہر کا باپ عورت کے لیے سُسر ہی خسر بھی اسکو کہتے ہین۔
سُست۔ آرام طلب کاہل اور وہ شخص جو کام مین جیت نہو۔ مؤلف
تندرستی ہمکو کب ہوگی نصیب + کام کرنے مین اگر تم سست ہو۔
سُسرال۔ خسر کا گھر مرد کے واسطے عورت کے باپ کا گھر اور عورت کے واسطے مرد کے باپ کا گھر۔
سُستی۔ کاہلی آرام طلبی بے ہمتی۔ مؤلف۔ نہوگی تن سے جب تک دور سستی + کبھی حاصل نہوگی تندرستی۔

سین باکاف

سگا۔ حقیقی۔ رشتہ حقیقی بھائی وغیرہ۔
سکت۔ قوت طاقت توفیق توانائی
سُکروار۔ شکروار۔ جمعہ کا روز۔
سُگھڑ۔ عقلمند دانا لائق۔
سکورہ۔ چھوٹا برتن مٹی کا۔
سُکھ۔ آرام۔ صحت کی حالت مقابل دُکھ کے۔
سکھ۔ چیلا سکھی گورو کا اور نام قوم جو پنجاب مین بکثرت ہی اور گورو گوبند سنگھ کے پیرو ہین۔ شجرہ انکے سلسلہ کا گورو نانک تک پہونچتا ہی۔

سین بالام

سِل۔ وہ چوڑا پتھر جسپر دوا وغیرہ اشیا پیستے ہین اور نام ایک مہلک بیماری کا جس سے شُش مین زخم ہوجاتا ہی چونکہ شش متحرک ہمیشہ رہتا ہی وہ زخم اچھا نہین ہوتا بلکہ روز بروز زخم کھلتا چلا جاتا ہی اور خون منہ کے رستہ سے نکلنا شروع ہوجاتا ہی اور بیمار رفتہ رفتہ ہلاکت پر پہونچ جاتا ہی۔
سلام۔ بندگی تعظیم و تکریم تسلیم۔ ہندی۔ قائل بکتائیش ہین خاص و عام + متفق کرو حاشش عالم تمام + سرنگون دارو ہمیشہ در بندگی + مثل سرو استادہ دیگر در قیام +. ابتدا را ابتدا از ذات اوست + ہست بروے اختتام اختتام + نیست بر دنیای فانی اعتبار + ختم کن این ذکر ہندی والسلام +
سُلفہ۔ جلکر خاک ہوا ہوا۔
سلائی۔ میل جس سے آنکھون مین سرمہ ڈالتے ہین۔ سرمچو بھی اسکو کہتے ہین
سلامی۔ سلام کرنے والا تعظیم کرنے والا۔
سِلفچی۔ ہاتھ دھونے کا برتن۔

سین بامیم

سموسا۔ ایک قسم کا کھانا ہی جو مثلث میدہ سے پر بنا کر اور اُسمین کوئی چیز شیرین یا نمکین ڈالکر گھی مین تل دیتے ہین اور نہایت لذیذ ہوتا ہی
سمیٹا۔ جو شخص ہر ایک چیز کو سمیٹ لے۔
سمندر۔ بحر محیط۔ بڑا دریا مؤلف۔ ہو رو تے ہین ہم دیدۂ تر دیکھتے جاؤ + کوئی دم مین بہادینگے سمندر دیکھتے جاؤ۔
سُم۔ گھوڑے گدھے وغیرہ کا پانون۔
سمان۔ رونق کیفیت جو کسی کی مجلس مین ہو۔ شعر جناب بو
اگر بزم دلستان دیکھین + جو خواب مین بھی نہ دیکھا ہو وہ سمان دیکھین
سمندر پھین۔ کف دریا سمندر جھاگ۔
سمجھ۔ عقل ہوش فہم دریافت ادراک۔
سمدھی۔ جب ایک کی لڑکی اور دوسرے کا لڑکا آپس مین بیاہے جاینگے تو وہ دونون ایک دوسرے کے سمدھی کہلائینگے۔

سین بانون

سنپولا۔ سانپ کا بچہ سنپولیا بھی سانپ کے بچہ کو کہتے ہین
سنپیرا۔ وہ لوگ جو سانپ رکھتے ہین۔
سندیسا۔ جو پیغام زبانی دیا جائے۔
سُنہرا۔ وہ رنگ جو زعفرانی یا سونے کا رنگ ہو۔

سُنارا - زرگر زیور بنانے والا **مؤلف** - ترے پاس آئے سنارا
اگر + چھپا اُس سے لے جتنا ہو سیم وزر + کہ وہ ساری خلقت کا کھاتا ہی
مال + بلے جسطرح سے چراتا ہی مال + ترا مال بھی وہ اگر پائے گا + سمجھ
مفت کا مال کھا جائیگا +

سَنّاٹا - غش بیہوشی بیخبری -

سَنبھالا - ہوش درستی حواس -

سَنکلپ - پُن دان بخشش -

سَنت - فقیر خدا پرست درویش

سَنسناہٹ - گوشت بھوننے کی آواز - ہنڈیا کی آواز
جو وقت پکنے کے نکلتی ہی -

سُنگرہ - میوہ فروش - میوہ بیچنے والا -

سَنگر - احاطہ جو گرد لشکر کے حفاظت کے لیے قائم کیا جاے -

سنوار - درستی -

سنیچر - زحل ستارہ ہفتہ کا دن -

سنڈاس - پاخانہ بیت الخلا -

سنگ - ہمراہ ساتھ ساتھ یعنیہ از مؤلف ہی کے روبرو
دشمن نہ آسکے پاتے تھے + کہ تھا فرشتوں کا لشکر ہمیشہ رہتا سنگ +

سنگم - اتصال اور ملاپ

سُن - بے خبر بدحواس بیہوش -

سنبھالو - ایک درخت کا نام ہی جسکے پتے آدمی کے نیچے کیطرح
ہوتے ہیں -

سنکھ - وہ سنکھ جو ہنود کی عبادت گاہوں میں بجایا جاتا ہی -

سَنہ - مچھلی کے بدن کے چھلکے -

سین یا واو

سُوا - بڑی سوئی جس سے ٹاٹ وغیرہ سیا جاتا ہی -

سوتیلا - وہ بھائی جو دوسری ماں کے پیٹ سے ہو اور باپ
دونوں کا ایک ہو -

سودا - دیوانگی اور وہ چیزیں جو دوکاندار بیچنے کے لیے اپنی
دوکان پر رکھتا ہو * مولانا اکبر لاہوری حسن کی اب گرم بازاری
کہاں + سر گیا خط اور سودا بک چکا -

سوکھا - خشک جو تر نہو عربی میں اسکو یابس کہتے ہیں -

سونا - زر طلا ذہب مشہور دھات ہی **مؤلف** مس کو
کر دیتے ہیں سونا ایک دم میں خاکسار + ذرہ کو خورشید و قطرہ کو گوہر شاہوار +

سونٹا - ہاتھوں میں رکھنے کی لکڑی -

سونہا - سرخ رنگ گل معصفر یعنی کسونب کا -

سویا - ایک سبزہ کا نام ہی جو کھانے میں آتا ہی -

سُوپ - غلہ افشان یعنی چھاج جس سے غلہ صاف کرتے ہیں -

سَوت - ایک مرد کی دو عورتیں آپس میں سوت ہوتی ہیں جنکو
سوکن بھی کہتے ہیں - **نسیم** نبیاد ہرا فگنی کی بانی + ہی سوت میری
وہ تیری رانی +

سُوت - ریسمان جو کاتا جاتا ہی اور اُسکے کپڑے بُنے جاتے ہیں -

سوچ - فکر اندیشہ غور بچار **نسیم** کس سوچ میں ہو نسیم بولو +
آنکھیں تو ملاؤ دل کہاں ہی -

سورج - آفتاب عالمتاب **مؤلف** دو رخسار سے تمہارے چاند
سورج + ہیں وہ روشن کہ واری چاند سورج +

سوگند - قسم حلف مشہور لفظ ہی - **صفدر فوقانی** پریشان بہت سر
حالت ہی اپنی + تری زلف دوتا کی ہی سوگند + قسم ہمکو اسی یاسیت کی
اُسی کالی بلا کی ہمکو سوگند +

سونڈ - ہاتھی کی ناک جسکو خرطوم بھی کہتے ہیں -

سود - بیاج جو نقد روپیہ پر فیصدی لیا جاتا ہی - اور مسلمانوں میں
اسکی ممانعت ہی - **مؤلف** جو چھپ کر سود کھاتے ہیں مسلمان +
نہیں لیتے زبان سے سود کا نام +
منافع نام رکھ چھوڑا ہی اُسکا + بدلکر نام کر لیتے ہیں یہ کام +

سولہ سنگار - عورت کی آرائش کی سولہ قسم

سُوَر - خنزیر جسکو فارسی میں خوک کہتے ہیں اس جنگلی جانور کا کھانا
مسلمانوں کے لیے حکما حرام ہی - آیت حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ -

سُوسمار - ایک دریائی جانور جسکو خنزیر البحر اور خوک آبی کہتے ہیں
وہ مشک کی طرح پانی پر تیرتا ہی - اور ڈوبنے والونکو غرق سے نجات دیتا ہی -

سوسن - ووالی تخم ہی فارسی میں اسیکو بادیان کہتے ہیں -

سوگ - ماتم جو کسی کے مرنے پر کیا جائے -

سُول - درد جو پیٹ میں ہو -

سوجن - ورم جو بدن پر پڑ جاتا ہی -

سوہن - مخفف سوہان جو مشہور اوزار ہی -

سوئیاں - یہ ایک قسم کا کھانا ہی جو باریک باریک رشتے گیہوں کے
میدے سے بنا کر اور آگ پر بھونکر پکاتے ہیں یا مد قند اور دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں

سَو - مشہور عدد ہی جسکو فارسی مین صد اور عربی مین مائۃ کہتے ہین شہیدی
سَو بند وو تم دو ہی دو بوسے مگر اک ڈھب کے دو + ہی مثل مشہور ہین
مطلب کے سو مطلب کے دو + ایک مین لیتا نہین سے تیے اگر سو دو ہی دو
خواہ وہ سیب ذقن کے خواہ وہ غبغب کے دو +

سُولہ - مشہور عدد ہی جسکو فارسی مین شانزدہ عربی مین ستۃ عشر کہتے ہین

سونٹھ - مشہور دوا ہی جسکو عربی مین زنجبیل کہتے ہین یہ جبتک
تر رہے ادرک اسکا نام ہی جب خشک ہو جاسے تو سونٹھ ہی -

سوجھ - عقل فہم ادراک دانائی حکیم انور لاہوری نکتہ وحدت کا
وہ سمجھتا ہی جسکو خالق نے سوجھ بخشی ہی + جانتا ہی حقیقت اسکی وہ +
حق نے جسکو سمجھ عطا کی ہی +

سواری - جسپر کوئی سوار ہو - مثلاً گھوڑا خچر بہلی بگھی گدھا وغیرہ قطعہ از مولف
کیا ضرورت ہو وقت چلنے کے + اسے مسافر تجھے سواری کی + بوجھ بھاری
گر ہو ساتھ ترے + فکر اپنی زیرباری کی +

سوداگری - بنج - بیوپار - لین دین تجارت قطعہ از مولف حسن کا
بازار جب تک گرم ہی + کرلے جتنی کرسکے سوداگری + جاری رکھ دنیا
مین الیسا لین دین + تیری خوبی جسمین ہو اور بہتری +

سودائی - دیوانہ - مجنون - بدحواس -

سورج مکھی - مشہور پھول ہی -

سونا مکھی - ایک مکھی کی قسم ہی -

سُولی - مشہور لفظ ہی جسکو فارسی مین دار اور عربی مین صلیب
کہتے ہین -

سُوئی - سوزن جس سے کپڑے سیتے ہین -

سین با ہا ئی

سہارا - پشت و پناہ تکیہ - نعتیہ از مولف وہ محبوب عالم
خدا کا پیارا + گنہگار بندون کے دل کا سہارا +

سہرا - جو شادی کے وقت دولھا کے منہ پر باندھتے ہین
دولتمند موتیون کا اور عوام پھولون کا سہرا باندھتے ہین سے آج
وہ دن ہی کہ لائے در انجم سے فلک + کشتی زرین مہ نو کی لگا کر
سہرا + تابش اور شبہ بین رہے اخلاص بہم + گوندھے سورۂ اخلاص
کو پڑھ کر سہرا +

سہاگ - یا شوہر والی عورت کا سے جو بھتی دولت ہو ایسی شوہر کی
اور دولھن کا سہاگ قائم ہو -

سہاگن - وہ عورت جو باشوہر ہو -

سین یا یائی

سیتلا - ایک بیماری کا نام ہی جس سے تمام جسم پر آبلہ نکل آتے ہین
یہ بیماری اکثر خوردسال بچون کو ہوتی ہی -

سیٹھا - وہ کھانا جو بے لذت ہو -

سیخ پا - وہ گھوڑا جو سیدھا پچھلے دونون پانون پر کھڑا ہو جاسے

سیدھا - جسمین کجی نہو فارسی مین راست عربی مین مستقیم سے
تن عریانی سے بہتر نہین دنیا مین لباس + یہ وہ جامہ ہی کہ جسکا نہین سیدھا الٹا
سے رہنما ایسا کوئی کرلو تلاش + راستہ سیدھا جو دکھلائے تمہین +

سیسا - یہ ایک دھات کا نام ہی جسکو آنک بھی کہتے ہین سرب یا اسرب
بھی اسکا نام ہی -

سیب - مشہور میوہ ہی سے سیب پستان اس پری کی یان تلک
خوشرنگ ہی + باغبان خلد گر دیکھے تو جی للچاتے ہی -

سیپ - صدف جسمین موتی پیدا ہوتے ہین -

سیج - وہ فرش جو دولھن کے واسطے شب زفاف تخت پر بچھایا جاسے

سیخ - کباب بھوننے کی سیخ لوہے کی -

سیار - یونانی زبان مین گیدڑ کو کہتے ہین جسکو فارسی مین شغال بولتے ہین

سیر - ایک وزن کا نام ہی جو آجکل اسی روپیہ وزن کا رائج ہی اور
چالیس سیر کا ایک من ہی -

سیندور - مشہور چیز ہی جو سرخ ہوتا ہی عربی مین اسکو شقرہ کہتے ہین

سینگر - وہ خار جو گیہون کے خوشہ کے سر پر ہوتے ہین

سیس - سر جسکو فرق کہتے ہین دوہرہ سید کی اولاد کی کون کرے
کرت ہی ایس + اسد کا گھر جیت لیا دھر کے اپنا سیس -

سئیس - گھوڑے کا خدمتگار -

سینک - ہائے معروف پتلی سیخ لوہے کی جس سے روٹی
تنور سے اتارتے ہین -

سینک - ہائے مجہول گرمی آگ یا دھوپ کی -

سیجم - بیائی مجہول ایک بیل کا نام ہی جو عشق پیچہ کیطرح درخت پر چڑھ جاتی ہی -

سیون - دوخت کپڑے وغیرہ کی -

سیانا - دانا - عاقل - صاحب عقل - سے گرچہ انسان بہت سیانا ہو +
نا عقل ہی ہوا اور دانا ہو تیری اتنی کرو کیا جانے + غیب کا علم خود خدا جانے +

سیاہی - کالا پن - دوات کی سیاہی - رات کی سیاہی وغیرہ مولف
تا بہ اشک وہ دل کی سیاہی + کہ ہو پر تو فگن نور الٰہی +

سیٹی - وہ آواز جو منہ سے بذریعہ لبون کے نکالی جاوے عربی میں

اسکو صفیر کہتے ہین اور فارسی مین سپیل بولتے ہین۔

سیڑھی - زینہ پوڑی جسکے ذریعہ سے پستی سے بلندی پر جائین۔

سینگی - **سینگ** - جانور کے سینگ جسکو فارسی مین شاخ کہتے ہین

سینگی وہ ہوتی ہی جسکو جسم پر لگاکر بیمار عضو کا خون کھینچتے ہین۔

سیوتی - ایک پھول کا نام ہی۔

سینی - طشت مستی ہو یا پیتل وغیرہ۔

تیسری فصل

فارسی اصطلاحات و محاورات کے ذکر مین

سین با الف

ساختن با چیزی - ساختن چیزی با چیزی را - موافقت کرنا۔ سازگاری کرنا۔ میرزا صائب - غرورمن تمیساز و بہر صید زبون صائب + بگردام خود گرداندہ ام صد بار عنقا را + صائب عقل گر صائب نسازد باول من گو مساز + عشق با آن بے نیازی میکشد بار مرا +

سایۂ خدا - ظل اللہ خدا کا سایہ بادشاہ سعدی اقلیم پارس را غم از آسیب دہر نیست + تا بر سرش بود چو توای سایۂ خدا + برگشت پاس خاطر بیچارگان و شکر + بر ما و بر خدای جہان آفرین جزا +

ساقی شب - ماہتاب شب تاب۔

سایۂ خفت نخل حیات - کنایہ حضرت زکریا پیغمبر علیہ السلام سے ہی کہ قوم کے ہاتھ سے بھاگ کر ایک درخت سے پناہ مانگی درخت پھٹ گیا اور زکریا کو اپنے اندر چھپا لیا عند التلاش قوم کے شیطان نے مخبری کی کہ زکریا درخت کے اندر ہی قوم نے درخت پر آرہ رکھدیا او زکریا دو پارہ ہوگئے۔

سایۂ دست - تھوڑی سے امداد و اعانت عباس قلی خان لی اجازت بر بنا ید تیغ توفیق از نیام + سایۂ دستی زشاہ ذوالفقارم آرزوست +

سایۂ پست - وہ سبزہ جو درختون کے سایہ کے نیچے اُگا ہوا ہو اور وہ شخص جسنے ناز و نعمت مین عمر بسر کی ہو۔ ملا شافی تکلو - اگر فرشتہ بکویش گذر کند شافی + اسیر قامت آن سرو سایہ پست شود +

سادہ مرد - کم عقل نادان احمق بے ہنر کمے شناسد قدر ارباب ہنر + ہر کہ باشد سادہ لوح و سادہ مرد +

سازمند - ساختہ و آمادہ و تیار - نظامی - بدین سازمندی جہانگیر شاہ + برافراخت رایت ز ماہی بماہ + ولہ بفضل خنین خرم و شادمند + خراسان شدم زیر سر و بلند +

سال خرد - یعنی خرد سال بچہ چھوٹی عمر کا محمد قلی سلیم

گریان بیاور و بیتور فتم ازین جہان + چون طفل سال خرد کہ گریان بخواب شد +

سادہ پرکار - جو شخص باوجود سادگی کے پرکار یعنی شعبدہ باز اور کام نکالنے والا ہو - میرزا صائب - اشب باز نگہ سوی سخن خستہ ران + گرم ہی بینم عذار سادہ پرکار ترا +

سادہ طور - جو آدمی بے تکلف ہو نورالدین ظہوری مرا سادہ طورت کرد اما + چہ جور را خوب در کار تو کردم +

سادہ عذار - امرد بے ریش جسکے داڑھی نہو ابوالفضل آئینہ ز نقش سادہ باید + کان سادہ عذار رخ نماید۔

سازگار - سازگر وہ دوست جو موافق ہو اور سب چیز موافق ہو کلیم - در آتشم چو پنبہ و داغ از ملائمت + از طبع سازگار خود آزار میکشم - درویش والا ہروی - زبخت بد چہ طمع کردہ سازگر آید + ز گوش گر چہ توقع کنی سخن شنوی را۔

سازور - **سازوار** - درست و موافق نظامی چو بر میمنہ سازور گشت کار + ہمان میسرہ شد چو روی حصار +

سایہ پرور - **سایہ پروردہ** - جو شخص ناز و نعمت مین پلا ہوا ہو صفت خور رایگان خورسید محمد عرفی سایہ پرور نعمت در آفتاب رستخیز + فرش استبرق بزیر سایبان انداختہ + صفدر فوقانی دہر بیکار کاری بر نیاید + درخت سایہ پرور ناور و بار +

سایہ وار - سایہ زدہ یعنی جن و پری کا سایہ ہو اور جسکا سایہ پڑتا ہو چنانچہ تصویر سایہ وار وغیرہ میرزا صائب وقت زوال سایہ خورشید کم شود + چون سایہ وا گشت زخط آفتاب تو + میر خسرو شدہ از دست چون شوریدہ کاران + بماندہ بیخبر چون سایہ واران +

سایہ نگار - سایہ ور - صاحب سایہ بدر چاچی زہی عطای تو پیرایہ بند ہفت اقلیم + خہے لقای تو سایہ نگار ہر دو جہان جمال الدین سلمان بادشاہ بحر و بر بدر الدجی طور العلی + آفتاب سایہ ور کہف الوری خیر الانام

ساقی کوثر - کوثر پر پانی پلانے والا - جناب رسول مقبول صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم اور جناب مرتضی علی کرم اللہ وجہہ نعتیہ از مؤلف بدنیا پیشوای دین تو ہستی + بمحشر ساقی کوثر تو ہستی +

سابقہ سالار - سردار اور پیشرو مدحیہ از مؤلف در ہمہ فوج ظفر موج رسول - سابقہ سالار بودی مرتضی +

ساز و باز - بازی گر بیمان باز حکیم سنائی السلام اسے سپاہ ساز دباز + باجازت کہ ہیچ کردم باز +

ساقدوش - ترکی مین شاہ بالا کو کہتے ہین کہ عروسی کے روز

دو طفا کی سواری کے وقت ایک معصوم بچہ کو اسکے پیچھے بٹھلاتے ہین مجازاً ہمدوش و برابر میر معصوم کاشی - بہ بیضا ہسا عذوبان + ساقدوشی نمیتواند کرد +

ساق عرش پایۂ عرش معلی نظامی ز دروازۂ سدرہ تا ساق عرش + قدم بر قدم عصمت افگندہ فرش +

سال گردش - نئے سال کا آغاز میر معزی در پیش گوش و سر زلف حجاب بود + بر داشت او حجاب سر زلف تا بدارم + تا بحجاب شعر من آید بگوش او + در جشن سال گردش سلطان روزگار -

ساز بودن دماغ - خوش و خورسند ہونا - شفیع اثر شوق وصل تو دارم دماغ من ساز ست + می بہ واسے تو پیوستہ در کدو دارم +

سایل بکف - وہ گدا جسکے پاس گدائی کا برتن بھی نہو صرف ہاتھ ہون زکی ندیم ای یافتہ افلاک ز مہر تو شرف + خورشید و مہ از تو سایل بکف + جز رفع اعادی تو منظورم نیست + نو مید نبایدم تو پادشاہ نجف +

ساز و برگ - اسباب و سامان ضروری میر دولت بفکر اینجہان تا چند باشی + مہیا ساز و برگ عاقبت ساز -

سادہ دل خفیف العقل نادان اوحد الدین انوری ابرا گفتم چہ گوئی اوبہ محیط دست او + گفت ہان ورمیکشی پایہ زیانت را بکام + گفتمش چون گفت ہرگز دیدۂ اے سادہ دل + فتوی از اہل کرم مفتی زا بپای لیاھم +

ساغر جم - جام جم جو مشہور ہے صائب روشنگر تقدیر بیک تو جلا و او + آئینہ زانوی من و ساغر جم را -

سالار بیت الحرام - حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سعدی بہ گفت سالار بیت الحرام + کای حامل وحی برتر خرام + بگفتا فراتر مجالم نماند + بماندم کہ نیروی بالم نماند + اگر یک سر موی برتر پرم + فروغ تجلی بسوزد پرم +

سائیدن - گھسنا - پیسنا کسی چیز کا -

سازیدن - موافقت کرنا - اتفاق کرنا -

ساز کردن - ساختہ و آمادہ کرنا - صائب مدت عمر کم و وقت بہاران تنگ ست + غنچہ درپوست مگر برگ سفر ساز کند نظامی چو عزم جہان گشتن آغاز کرد + بہ رشتہ زدن رشتہ ہا ساز کرد +

ساغر بیتارک شکستن - **ساغر بسر کشیدن** - کمال غیبت سے بہت سی شراب ایک ہی دفع پی جانا محمد قلی سلیم رشک می آید مرا کہ ورگلشن سلیم + ساغری بسر کشد بیہوش گردد ہیچ گل + نور الدین ظہوری -

مغز ہشیار لیست پامال خمار + ساغر بیتارک مستی شکن +

ساغر خواستن - **ساغر خوردن** - شراب مانگنا شراب پینا جمال الدین سلمان من خاکپای آنکسم کز خون دل ساغر خورد + راز دل ساغر چرا ہر دم بلب می آورد + ابو طالب کلیم در روز ابر بادہ بیا ساغر شمردہ خوردن یعنی بود برابر با قطرہ ہاے باران +

ساغر کشیدن - پیالہ شراب کا پینا ذوقی بکش ساغر کہ وقت نو بہارست + گرفتہ جام بر کف لالہ زار ست +

ساغر زدن - پیالہ پینا - شراب پینا - نور الدین ظہوری بجو شنوی حق ور نہ تو بہ زن + از دست شو ساغر تو بہ زن +

ساغر نوشیدن - شراب پینا سعد زدم سروی و عطان بجو بیہوش غنمورست ایزد تو ساغر بنوش +

ساقط شدن - زائل ہوجانا کسی حق کا میرزا بیدل حق شمشیر تو ساقط نشود از سرما + پیش خورشید نگردد عرق از سیما خشک +

سایہ افتادن - سایہ پڑنا کسی کا کسی پر طالب آملی سایۂ لطف تو بر بہ کف خاکی گرفتند + باد بر بر ہن نافہ چین افشانند +

سایہ افشاندن - سایہ جھاڑنا سایہ ڈالنا میر خسرو نیست مرا آن نخل و آن شکوہ + کز سر خود سایہ فشانم بکوہ +

سایہ افگندن - سایہ ڈالنا - سایہ مین لینا - پناہ مین لینا اوحد الدین انوری چون سایہ دو بدم از پیش روزی چند + در صحبت او بسایہ او خرسند + امروز چو آفتاب معلوم شد + کو سایہ برین خاک نخواہد افگند +

سایہ افگن - سایہ ڈالنے والا - پناہ مین لینے والا صائب اگر نہال تو در باغ سایہ افگن شد + کہ سرو رخنہ دیوار باغ میجوید +

سایہ دست کسی گرفتن - فیض پانا فائدہ حاصل کرنا سعدی اثر قضا درین گلشن بود تا نخل تازش + گرفتہ سایہ دست از چنارش + واضح ہو کہ تاڑ ایک درخت ہندوستان مین بڑا درخت ہوتا ہے -

سایہ زدن - سایہ ڈالنا حکیم زلالی محمد شاہ جبینا اید دی کز مطلع ایجاد + زنجیر زرکش خود سایہ بر عرش معلی زد +

سایہ کردن - سایہ کرنا سایہ ڈالا میرزا صائب صائب بلند حوصلہ چون آسمان شود + بر ہر زمین کہ سایہ کند باغبان ما +

سایہ کسی بہ تیر و خنجر زدن - کسی کے سایہ کو تلوار مارنا کمال بغض و عداوت کرنا و حدت - ہیرلی ہر رقیبان سایۂ مارا بہ تیر + این سزاسے ما بلے مرزا سبلے آقا بلے +

سازوت اخیر مین واو بازیگر اور ریسمان باز میر خسرو سگ بقال
ترازو بود + جدول خطر است زساز و بود -
ساختہ رو - جسنے اپنا منہ بسبب غم و غصہ کے ترش کر لیا ہو -
سالبہ کلیہ - وہ جملہ جسمین نفی کل کی ہو -
سالبہ جزئیہ - وہ جملہ جسمین بعض کی نفی ہو -
ساق منجہ - پلنگ کے پائے جسپر سویا کرتے ہین ملا طغرا
شود بہند چو خراط چرخ بر سر کار + ز چوب خشک تھم ساق منجہ میخواہد +
ساقی کم کاسہ - وہ ساقی جو احتیاط کے ساتھ پیالہ دے میر معز فطرت
ساقی کم کاسہ می کور جام کمتر میکند + ہر قدر گویم باو صاحب سلامت بیشتر +
سال خوردہ - سال دار - سال دیدہ - سن رسیدہ پیر ضعیف آدمی عرفی
چنار سالخوردہ و سرو نو خیز + بہم شناختی بینندہ تیز + محسن تاثیر ہر سیت
چنار سالخوردہ + گستان سپہر افسردہ + میرزا صائب با کہن سالان
کن ای نوجوان کاوش کہ ہست + آتش پوشیدہ در مغز چنار سالدار + شوکت
بخاری عہد شباب رفت می سال دیدہ کش + ساغر بطاق ابروی
پشت خمیدہ کش +
سال و مہ - زمانہ وقت برس مہینے مقیمای فوجی در دور ما
بہار طرب رونمیدہ ہو + یارب بزمانہ منتظر سال و ماہ کیست +
سایہ زدہ - آسیب دیو و پری کا جسکو ہو میر خسرو بسکہ زین
شدز علم سایہ دار + ماند چو سایہ زدگان بیقرار +
سایہ گاہ - سایہ دار جگہ جس جگہ بہت سے درخت ہون نظامی
فرو ماند خسرو دران سایہ گاہ + چو سایہ شدہ روز بروی سیاہ +
سایہ گستردہ - کسیکو اپنی حمایت مین لیا ہوا - پناہ دیا ہوا سعدی -
چنان سایہ گستردہ بر عالمی + کہ زالی نیندیشد از رستمی +
سادہ روئی - امرد بی ریش بے داڑھی شیخ سعدی یکی را چو سعدی
دل سادہ بود + کہ با سادہ روئے در افتادہ بود +
سال آزمای - بہت بوڑھا آدمی پیر ضعیف نظامی بہر سپید
کاہی ہر دو سال آزماے + فگندہ سرت سایہ بر پشت پاے +
سالی - بہت بوڑھا - پیر ضعیف -
سائی - فارسی مین یہ ایک لفظ ہے جو گھسنے اور گھسانے کے معنی
دیتا ہی جیسے کہ پولاد ساسے جبہہ سای زمین سا سرمہ سا صندل سا
وغیرہ نظامی - رواروز نان تیر پولاد سای + در اندام شیران پولاد خای +

سین بابا

سپید بالا - صبح کاذب -
سپید بہنا - صبح کاذب -
سبز شدن آب - پانی پر رنگ سبز ہونا صائب آبی کہ نہ
در تہ جو سبز میشود + چون خضر زینہار مکن اختیار عمر +
سبز شدن آفتاب - غروب پر پہونچنا آفتاب کا مخلص کاشی
از رسیدنہای خط غافل مشو + زود گرد و سبز روی آفتاب +
سپید کردن لب - ہونٹھون مین ہنسنا -
سپید افتادن کوکب - مسعود ہونا طالع کا - رضی دانش
کوکبم از مہر روز ہا سپید افتادہ است + میکند تسخیر دل اشکم
رسید افتادہ است +
سبکدست - جلد و شتاب کام کرنا ہاتھ سے میرزا صائب کہ نداری
با بروی سبکدست تو میرسید + کہ زمین ناوکش بر مغز پیش از استخوان آید
سبک ہمت - کم ہمت سست کاہل محسن تاثیر دست تنہا
ز جہان بر داشتن دون ہمتی ست + پشت پا بر ہر دو عالم زن سبک
ہمت مباش +
سپید دست - سخی جوانمرد اور موسی علیہ السلام -
سبز پوشان بہشت - حورین و فرشتے -
سبز تلخ - معشوق سبزہ رنگ و ملیح - صائب میکند در خاک
و خون نظارگی را دو بینش + صبر تلخ من عجب شمشیر زہر آلودہ است +
سپید - سیر شکم - سیاہ وار -
سبحہ وار - سبحہ شمار - سبحہ ور - سبحہ گردان - عبادت کرنے والا
تسبیح پڑھنے والا میرزا صائب فریب گریہ زاہد مخور ز سادہ دلی +
کہ دام در دل دانہ است سبحہ داران را + ولہ ز مکر سبحہ شماران خدا
نگہ دارد + کہ صد سر است بیک حلقہ کمند اینجا درویش والا ہروی
بذکر وہی تو چشمم بسبحہ گردانی ست + ز دانہ ہای سرشک کہ پایہ چکرست ولہ
سخن ما بحدیث سر مردان پیوست + سبز پوشان سبقی سبحہ وران امدادی +
سبز آخر - وہ گھوڑے جنکو سبز خوید کھلایا جاوے اور دو لٹھ بند
آدمی نظامی - طویلہ زدند آخر انگیختند + بسبز آخران بر علف ریختند +
سبز شدن اختر - آسودہ حال ہونا - بہار آنقدر بایہ نماند ست
رخ چشم ثریا + کہ ز تخم گریہ ما سبز شود اختر ما +
سبزکار - نیکوکار آدمی - طغرا - در تعریف نجف معلی - زمرد بود گر
چنین سبزکار + خزان طلا را کند نو بہار +
سبزہ زار - جس جگہ بہت سی سبز گھاس ہو - صفدر فوقانی ذکر حق
گوید بہر لیل و نہار + ہر گیاہی سبز اندر سبزہ زار +

سبکبار - جسکے سر پر کوئی بار نہو یعنی تعلق نہ لگاؤ۔ مولانا اکبر لاہوری
بنہ از دوش خود بار تعلق + کہ تا اندر سفر باشی سبکبار -

سبک رفتار - **سبک رکاب** - **سبکرو** - آہستہ چلنے والا
صاف چلنے والا - صائب بہر تر نمی از جائے میروو دل ما + سبک
رکاب چو بوی گل ست محمل ما + ولہ آہ کز قامت چون تر سبک
رفتاران + غیر خمیازہ خشکے چو کمان نیست مرا + ولہ سبکروان نہانخانۂ
عدم رفتند + برہنہ تانہ چو نعلین ماند قالبہا -

سبکسار - کمینہ و فرومایہ آدمی فردوسی - سبکسار شاہی تمام
نخست + بفرجام کار اندہ آید درست +

سبک سیر - آہستہ رفتار صاف رفتار - میرزا صائب شد
غفلتم زنجیر سبک سیر + سنگین نمو و خواب مرا این صدای آب +

سپہ سالار - **سپہ کش** - لشکر کا افسر اور امیر حکیم زلالی شہر
نفری از ان نامہ برآشفت + سپہ سالار را خواند و چنین گفت + لیک
سپہ کش فتنۂ آخر زمان شد + پئے آوردن لشکر روان شد +

سپید کار - منافق جو دل مین کچھ اور ظاہر کچھ سوا وجلال الدین نوری
اگر نہ راہی تو بود سے بروبیم آوردی + سپید کاری گردون ہزار روز سیاہ
سبز در سبز - نہایت سبز اور نام ایک لحن کا مصنفہ باربد کے صائب
سبز نگر دید ز خط خوبی رو افروش + سبز در سبز شد از خط رخ گندم گونش +

سبز و چیم سبز - مشہور و معروف لفظ ہی شعرا پر دست لاجوردی
چشمانت ستم مہی + عالم خراب کردۂ این سبز و چیم سبز +

سبک خیز - چست و چالاک تیز رفتار - ذوقی کمر بند و طاعت
کردگار + بوقت عبادت سبک خیز باش +

سبزی فروش - سبزی بیچنے والا بقال - میرزا طاہر وحید
مرا شوخ سبزی فروش ست یار + کہ سبزی فروشد بباغ بہار +

سبک طبع - ضعیف اور سنجیدہ آدمی میر معزی ہموارہ ہی
باش سبک طبع خوش ایام + با مطرب و قوال سبکدست و خوش آواز +

سبز شدن حرف - کسی پر پڑھنا اور سبز ہونا حرف کا میرزا صائب
سینہ صافان سبز بسیار ند حرف خصم را + رنگ را طوطی کند
آئینۂ سیماب عشق +

سبز پل - بعضم بای پارسی کنایۃً آسمان ملا طغرا - شبی رہی
خوش شستہ از آب گل + گلی کان بود زینت سبز پل +

سبکبال - تیز اڑنے والا پرند صائب چسان دل رانگہدارد
کسی از چشم فتانش + کہ گیرا تر ز شاہین ست مژگان سبکبالش +

سبکدل - تھوڑے دل والا آدمی صائب ساقی از رطل
گران سنگی سبکدل کن مرا + حلقۂ بیرون این دنیای باطل کن مرا +

سبز چشم - جسکی آنکھیں نیلی ہون نہایت شریر اور مفسد آدمی باقر کاشی
رقیب تو کہ یارب کور و کر باد + عجایب سبز چشمے زرد گوشی ست +

سبز شدن تخم - نشوونما پانا تخم کا درویش والا ہروی تخم
آسودگی از خاک سفر سبز نشد + جست و الا عبث معنی مسروری را +

سپیدہ دم - **سپیدہ دمان** - علی الصباح صبح کا وقت نظامی
سپیدہ دمان کز سپہر کبود + رسانید خورشید شہ را درود + و بیر
عطارد منش را بخواند + کہ بر مشتری ریزہ دانہ فشاند

سبز تہ گلگون - جو چیز بظاہر سبز اور اندر سے سرخ ہو جیسے کہ حنا
اور پان میر یحییٰ شیرازی شرم از دست کی باشد کہ چون دست حنابستہ
لب از عمری شبی با سبز تہ گلگون بروز آرم +

سبز شدن - ظاہر ہونا - تر و تازہ ہونا نشوونما پانا سیراب ہونا صائب
توانی سبز شد در حلقۂ آزادگان صائب + ترا چون سرو گر در چار موسم
یک قبا باشد +

سبز شدن نان - خراب ہو جانا روٹی کا اور اسپر سبزی آ جانا صائب
کسے بید و آید و لیش از رنگ زرد سائلان + روسیاہی را کہ
نان شد در بغل زا مساک سبز +

سبز شیرین - سبزہ رنگ یعنی سانولا معشوق ملا شبیہی -
دل بتلخی غمش آسان تواند ساختن + گر تواند ساختن آن سبز شیرین با دلم +

سبز کردن - خوش کرنا - نہال کرنا - نوازش کرنا ملا طغرا
از یک نگاہ لطف مرا سرفراز کرد + چشم تو سبز کرد چو بادام تر مرا +

سبز گندم گون - معشوق سانولا رنگ مفید بلخی ز جا بر خیزم
در جستجوی او بجان رفتم + پی آن سبز گندم گون چو مور ناتوان رفتم +

سبزہ شگفتن - سبزہ پھولنا - سبزہ پیدا ہونا - باقر کاشی
امسال خزان وسوسہ فرمای جنون گشت + این سبزہ کہ بر عارض
جانانہ شگفتہ +

سبق گفتن - علم پڑھنا یا پڑھانا ملا طغرا ای معلم جز و استعداد
مردم جاہلی ست + کودک ما را سبق از علم نادانی بگو +

سبک جولان - صاف چلنے والا - میرزا صائب ناحق کشتگان
پرواندار و آن سبک جولان + نسوزد دل نسیمی را کہ رہ بر لالہ زار افتد +

سبک عنان - تیز چلنے والا اور صاف چلنے والا - صائب این قامت
خمیدہ و عمر سبک عنان + تیر کشادۂ و کمان کشیدہ است +

سبلت تافتن - موچھون کو تا و دینا میر خسرو - سبلت کین را
چو تاباید ولیر + در جگر خصم خلد موی شیر -
سپر افگندن - سپر انداختن - مغلوب اور عاجز ہونا - بھاگ جانا
سعدی - نہ ہر جای مرکب توان تاختن + کہ جاہا سپر باید انداختن نظامی
فلک وار با ہر کہ بند د کمر + بر آب افگند چون زرنیش سپر +
سپر برخ گرفتن - سپر بر سر کشیدن - منھ چھپا لینا کسی
بات سے سر چھپانا - صائب اینکہ گرد ماہ تابان مینماید ہالہ نیست +
ماہ از شرم جمال او سپر بر سر کشید + میرزا بیدل چو مطرب شو و جلوہ گر
ناگہان + بکف از نی و چنگ و تیر و کمان + سپر بر رخ خویش گیرد ز دف +
دلی کیست کا سنجا نگر دد ہدف +
سپر بسپر یافتن - ڈھال پر ڈھال اٹھانا اپنا بچاو کرنا سعدی
سواران دشمن چو در یافتیم + پیادہ سپر در سپر یافتیم -
سپر بر کتف دوختن - سپر استوار کرنا کتف پر نظامی در نجہ
چو دید آنچنان دست زور + سپر بر کتف دوخت چون پر مور +
سپر بروی در کشیدن - منھ پر ڈھال کھینچنا اپنا بچاو کرنا میر معزی
ز بیم تیر غلامانت بر فلک خورشید + بروی در کشد از ماہ گاہ گاہ سپر +
سپر بستن - ڈھال باندھنا رفیع واعظ کمزوران نگار بدخو جنگ
ولہا کمر نہ بندد + ز غمزہ تیغ و ز عشوہ خنجر ز چین ابرو سپر نہ بندد +
سپر کشیدن - ڈھال کھینچنا - محمد اسحاق شوکت جائیکہ خصم
تیغ زبان میکند بلند + باید بروز مہر خموشی سپر کشید +
سپید آمدن - ظاہر و نمودار ہونا - سرخرو ہونا - عزت حاصل کرنا - محسن تاثیر
بہ پیش طرہ اش تاثیر نتواند سپید آمد + بغیر از تیرگی ظاہر نشد
از عنبر خام ہم +
سپید شدن - سرخرو ہونا عزت حاصل کرنا محمد قلی سلیم
بعیش آباد ہندوستان غم پیری نمی باشد + کہ مو نتواند از شرم کمر ما
شد سپید اینجا +
سپید شدن خون - بے محبت ہونا - بے مہر ہونا - سنگدل
ہونا - ر کنائی کاشی - خونم ز سرد مہری آن شوخ شد سپید + اکنون
باین خوشم کہ بہا نیست آب را +
سپید چشم شدن - نابینا ہونا اندھا ہونا نظامی دہان فراخ و سیہ
چون تنور + گر و چشم بیندہ کرد و سپید +
سپید کردن دندان - تبسم کرنا ہنسنا بدر چاچی مرا از تپ غم ہر دم
کبود ہیا نماید لب + ترا از شادی این غم سپید ہیا کند دندان +

سپید کردن مژگان - بوڑھا ہونا معمر ہونا -
سپید چین - بقیہ پھل انگور کا جو درخت پر ہو -
سبز خوان - آسمان -
سبز الوان - سات قسم کے کھانے جو فرعون پکوایا کرتا تھا -
سپردن - سونپنا کسی چیز کا کسی کو +
سپوزیدن - کسی چیز کا کسی چیز مین داخل کرنا جیسے کہ
میخ کو لکڑی مین ٹھوکنا -
سپید رو - سفید رو - ئی - شگفتہ رو - سرخرو مقبول
صورت علی قلیخان شاملو سفید روی نباشیم چون لعل چشم +
کہ تیغ غمزہ او سرخ روز بسمل ماست طاہر وحید دائم دلم
ز یاد نکویان سفید روست + مانند میزبان کہ ز مہمان سپید روست +
سپید دیو - وہ دیو جسکو رستم نے قتل کیا تھا -
سبز چہرہ - سبزہ رنگ سانولا رنگ تشبیہی تھا نیسری
دو جا مین نشد آن سبز چہرہ طالع بین + کہ برگ سبزی ازین بوستان بمن نرسید +
سبز شدن دانہ و شاخ و سخن نشو و نما پکڑنا دانہ کا اور سبز
ہونا شاخ کا کرسی پر بیٹھنا سخن کا - ملا علی نورانی ہر کہ شد خاک گشتہ
برگ بری پیدا کرد + سبز شد دانہ چو با خاک سری پیدا کرد + ملا طاہر غنی گفتم
کہ شود از گل و خلعت چمنم سبز + گل کرد خط از لعل تو و رشتہ سخنم سبز میرزا صائب
بیادہ جوش نزد خون خشک من صائب + نشد ز تربت سحر شاخ مرجان سبز +
سبز کردہ - نوازش کیا ہوا پالا ہوا میرزا صائب ز طوطیان
شکر ناب را دریغ مدار + ز سبز کردہ خود آب را دریغ مدار +
سبزہ بیگانہ - وہ سبزہ جو بیموقع ہو جو لائق کاٹ دینے کے ہو میرزا
صائب تلاش صحبت آئینہ روی میکند شوخم + کہ جوہر از نگاہش
سبزہ بیگانہ میداند +
سبزہ خوابیدہ - وہ سبزہ جو زمین پر بچھا ہوا ہو محسن تاثیر
کہ دارم سبز گلزار شہادت آرزو + سبزہ خوابیدہ دانم تیغ زہر آلودہ را +
سپر ہزارہ - ایک قسم کی ڈھال کا نام ہے سپر تہ بر تہ چمڑا چڑھایا
جاتا ہے محسن تاثیر - ہر جا کہ کثرتی ست نمودار وحدت است +
باشد سپر ہزارہ ولیکن سپر یکی ست +
سپید شدن دیدہ - اندھا ہونا نابینا ہونا سعدی چو یعقوبم
ار دیدہ گردد سپید + نبرم ز دیدار یوسف امید +
سپید نامہ - معصوم جو گناہ سے پاک ہو درویش والہ ہروی
والہ سفید نامگی از من مجو کہ شد + فارغ گذاشت فکر سیاہان بجا مرا +

سبز پاے - کنایتاً مدبر و بدبخت آدمی میر خسرو چو سرسبزی خواجہ باشد بجاے + چہ اندیشہ از دشمن سبز پاے +
سبز پیشانی - جو بظاہر اچھا نظر آتا ہو میر خسرو ہی ہو ای تیرہ راے نورانی + اے سیہ کار سبز پیشانی +
سبک پی - و سبک پرواز - صاف رفتار و صاف پرواز ظہوری آن لطف سیہ دل سبک پا + یکسر وارد ہزار سودا + صائب در بساط من ز عنقای سبک پرواز عمر + خواب سنگینی جو کوہ قاف بر جا ماندہ است +
سبو شکستن چہار شنبۂ آخری - ایران مین یہ رسم ہی کہ چہار شنبۂ آخرین ماہ صفر کو بوقت شام چراغان کرکے پرانے گھڑے اور برتن گھر کے بام خانہ سے نیچے پھینک دیتے ہین اور باواز بلند کہتے ہین بلا رفت و صفا آمد یعنی بلا گئی اور صفا آئی - شاپور آن سبوی کہنہ ساقی کہ زندہ بادہ نوش + آخر ماہ صفر از بام خمار م فگند +
سپرداری - حفاظت نگہبانی صائب سیکند بی برگی از آفت سپرداری مرا + دشت شمشیر وار رہزن از عریانیم +
سپری - معدوم و نابود و ناچیز و تمام و آخر محسن تاثیر سپری در گشتن تاثیر نبودن ظفر است + تا نگردیدہ زخط لیت لگا ہست سپری -
سپید چشمی - بیحیائی و بی لحاظی و بیمروتی محسن تاثیر علاج چرس قامزن بر شوہ نقصان کرد + سپید چشمی نرگس بتو تیا نرود +
سپید گوئی - بات جو بے پردہ کہی جاے واعظ زصبح مرگ خبر میدہد و لیک ترا + سپید گوئی آئینہ پردۂ گوش شست +

سین با تا

ستون سر کردن دست را - پریشانی کی حالت مین سر کے نیچے ہاتھ رکھکر بیٹھ جانا - صادق بیگ صادقی بہ بستر افگند بیماری خیسمت مسیحا را + ستون سر کند اعجاز خسنت دست موسیٰ را +
ستون زنخ شدن دست - حیرت و استعجاب کی حالت مین ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھکر بیٹھنا میر خسرو باران اشک خانۂ مردم خراب کرد + دستم ہنوز زیر زنخدان ستون شود +
ستارہ دمدار - ستارۂ دنبالہ دار - دمدار ستارہ جو کبھی کبھی آسمان پر نمودار ہوتا ہی اور اسکا طلوع ہونا اکثر زمین پر نحوست پھیلاتا ہی اور کوئی کوئی تازہ آفت نمودار ہوتی ہی صائب زخال گوشۂ ابروی یار می ترسم + ازین ستارۂ دنبالہ دار می ترسم +
ستارہ شمر - رات کو جاگنے والا شب زندہ دار اور نجومی فردوسی ستارہ شمر گفت کای شہریار + نماند بگیتی کسی پایدار +
ستارۂ صبح بہار - ستارۂ سحر - ستارۂ زہرہ جو بہار کے موسم مین قبل از صبح آسمان پر چمکتا ہوا نظر آتا ہی صائب عرق فشانی رخسار یار او ریاب + ستارہ ریزی صبح بہار را دریاب +
ستایش گر - صفت کرنے والا تعریف کرنے والا عرفی اے آنکہ در ایام ستایش گری تو + صوفی شہر و عیب نگہبانی دم را +
ستمگستر - ستمگار - ستمگارہ - ظالم بی انصاف میر نجات در شلنگ ست عرق ریز گردد لبریا + گل شبنم زدہ گردید ستمگستر ما + یحییٰ فی کار او کشتن و تاراج اسیران شدہ است + کہ رقیبان ستمگارہ چند ست او را +
کمال اسماعیل - ہم وعدہ تو درازی عمر + ہم چشم سفید تو ستمگار +
ستیزہ کار - لڑنے والا جنگی آدمی ذوقی بیہنر از ان کسی کہ باشد + بدخوی و ستیزہ کار و مکار +
ستارہ شناس - نجومی جو نجوم کا علم پڑھا ہوا ہو مؤلف کجا گوش وارند اہل قیاس + بتقریر لغو ستارہ شناس +
ستر پوش - چادر جامہ وغیرہ محمد قلی سلیم چو گل از ہر طرف چاک دگر دارد گریبانم + ز رسوائی چہ صحرا ستر پوشم نیست و امانم +
ستم اندیش - ستم پرور - ظالم بے انصاف ذوقی راندۂ بارگاہ خلاق ست + بد گہر ظالم و ستم اندیش + ابوطالب کلیم پیش ازین دوران ستم پرور نبود + آسمان زنگولہ با اختر نبود +
ستم کش - مظلوم جسپر ظلم ہوا ہو - سعدی ستم کش گر آہے برآرد ز دل + زند سوز او شعلہ در آب و گل +
ستم کیش - ظلم کرنے والا بی انصاف سے تا چند ستم کیشی بدوران ای ظالم بگسل ستم کیش +
ستارۂ شمع - یعنی شمع ستارہ تشبیہ ستارہ کی جمال الدین سلمان ز سنگ حادثہ موج سپہر را چہ خلل + زباد نامہ شمع ستارہ را چہ زیان +
ستم ظریف - جو شخص ظرافت کے پردہ مین ظلم کرتا ہو درویش والہ ہروی - حسن ست ستم ظریف یارے + عشق ست ولی نکردہ کارے +
ستم شریک - جو کسی شخص ظالم کے ساتھ ظلم کرنے مین شرکت رکھتا ہو عبد اللطیف خان تنہا - ستم شریک جفا ہای روزگار بیا + بیا ہزار قیامت در انتظار بیا +
ستارہ جدول - جدول کشی کا ایک آلہ لکڑی اور لوہے کے بناتے ہین محمد سعید اشرف بسان قلم جدول آن بی بدیل + در این راہ بود وش ستارہ دلیل +

ستارہ چشم - وہ بادشاہ جسکا لشکر بیشمار ہو۔ ستارہ چشم بادشاہ جہان + بفرمان او گردش آسمان +

ستارہ بزیر آوردن - ستاروں کو اُتار لینا یعنی وہ کام کرنا جو ممکن نہو۔ سالک یزدی مگر کہ تیر ہوائی ست آہ مظلومان + ستارہای فلک را بزیر می آرد +

ستارہ درخشیدن - چمکنا ستارہ کا۔ حافظ ستارۂ بدرخشید و ماہ مجلس شد + دل رمیدۂ ما را رفیق و مونس شد -

ستارہ دندان - یہ لفظ محبوب کی صفت میں بولا جاتا ہے۔ میر معزی دیدم برہ آن نگار لب خندان را - وان ماہ رخ و ستارہ دندان را -

ستارہ ریختن - ستارہ جھاڑنا۔ کمال اسمٰعیل ستارہ چنان ریزد از چرخ فردا + کہ امروز از شاخ اخضر شگوفہ -

ستارہ زمین - ابرک جسکو عربی میں طلق اور کوکب الارض بھی کہتے ہیں

ستارہ فشان - روتا ہوا آنسو بہاتا ہوا۔ صائب چشمۂ خورشید را سراب شمارد + ہر کہ بہ بیند رخ ستارہ فشانش +

ستارہ نداشتن - بدطالع ہونا بدنصیب ہونا۔ مخلص کاشی ز بدبختی خویشتن چارہ ندارم + چہ چارہ کہ روشن ستارہ ندارم +

ستازن - مخفف ستارہ زن ستار بجانے والا اور سہ تار اور سہ تارہ ناص ایک ساز کا ہے۔ نظامی ستازن بر آورد بانگ سرود + سرودے نوآئین تر از صد درود +

ستام بر اسپ نہادن - گھوڑے پر زین رکھنا۔ ساز باندھنا میر خسرو بر صد ہزار اسپ ستام گہر نہید + پس بر ہزار پیل عماری زر نہید +

ستم شکن - ظلم کو توڑنے والا عدل کرنے والا۔ عرفی نہی ستم شکنی کز حلاوت عدلت + دہان راحت کون و مکان شود شیرین

ستوربان - گھوڑوں کا خدمتگار سائیس۔ میر معزی از جان کنند قیصر و جیپال بندگی + پیش ستوربان تو و پاسبان تو +

ستدن - لینا وصول کرنا۔

ستودن - صفت کرنا تعریف کرنا۔

ستیہیدن - لڑنا۔ نافرمانی کرنا۔ شور برپا کرنا۔

ستردن - چھپانا۔ مونڈنا۔

ستارہ سپاہ - ستارہ سریر - یہ الفاظ بادشاہ کی تعریف میں بولا جاتا ہے۔ جمال الدین سلمان - ایا ستارہ سپاہ کہ برج عصمت را + فروغ قبۂ مہر تو غرۂ غراست حسین ثنائی ایا ستارہ سریر کہ آسمان کبود + ز باد حلم تو قامت بنفشہ وار شکست +

ستارہ سوختہ - بدبخت و بدطالع آدمی صائب ستارہ سوختگان این انداز دوزخ + نہ سوختست بہیچ آتشی دوبارہ سپند +

ستم خانہ - ظلم کا گھر کنایتاً دنیا۔ ذوقی نجات عدل کہ ذوقی نصیب مظلومان - بہ نجز ظلم و ستم نیست زین ستم خانہ +

ستم زدہ - مظلوم جسپر ظلم ہوا ہو۔ ملا نسبتی تھانیسری - جدا ز دل ما را بزیر خاک کنید + بایک ستم زدہ در یک مزار نتوان کرد +

ستارہ پیشانی - ایک گھوڑے کی قسم ہے جسکو نجس جانتے ہیں -

ستیزہ خوئی - ستیزہ گری ستیزہ گر - لڑنے والا جنگ کرنیوالا نورالدین ظہوری - با ظہوری ستیزہ خوی مباش + با گدا خشم بادشا غلط ست + باقر کاشی اے کہ چرخ ستیزہ گر چہ واری + خیر جستے دگر چہ واری + ابوطالب کلیم یا دشمن غالب و بد ستیزہ گری + کسے بہ شکوۂ بیداد آسمان دارد +

سین با جیم

سجدہ گزار - سجدہ کرنے والا پاؤں پر سر رکھنے والا کمال اسمٰعیل افسر تخت سرا پاے ممالک گشتند + خود تو بودی کہ جہان لائق تخت و افسر + لاجرم سجدہ گزار ست ترا این در پاے + لاجرم بوسہ زنان ست ترا آن بر سر +

سجدہ پرواز - سجدہ کرنے والے لوگ ابوطالب کلیم زانوے سرا سجدہ پرواز + ورشہ از نقش جبہہ سینہ باز +

سجاوندی شدن مصحف - سجاوندی کردن مصحف شنجرف یا سونے کے پانی سے آیات قرآنی کے نشان قائم کرنا یا ہونا محسن تاثیر انجہا گلگل شود چون آن رخ محجوب شنجرف + مصحف خوشخط رخسارش سجاوندی شود + محمد سعید اشرف خواہم آن رخ را ز نقش بوسہ گلبندی کنم + مصحف رخسارہ او را سجاوندی کنم +

سجادۂ نان - دسترخوان جسپر کھانا رکھکر کھاتے ہیں -

سجدہ گاہ - جس مقام پر سجدہ کریں چنانچہ مسجد و عبادتگاہ عرفی سجدہ گاہ ہفت اقلیم ست سجدہ گاہ تو + قبلۂ ہفت آسمان ست آسمان آفتاب +

سجل زدہ - قبالہ شرعی جسپر مہر قضا ثبت ہو نظامی شب و روز ما را ہر بی دستی + سجل بر زدہ کاملی امتی +

سجی خانہ - شرابخانہ سیفی بدیعی تا رفت لعل دلبر سوی چی زدیدہ ام + از خون دیدہ مست شراب چکیدہ ام +

سجدۂ سہوی ۔ وہ سجدہ جو پہلوان کشتی گیر کشتی کے وقت کرتے ہیں
اسیر نجات شاید از سحر اگر پای بر افلاک نہی + سجود سہوی میر چو بنا کہ نہی +

سین با جای

سحر سنج ۔ جادو کرنے والا جادوگر میر خسرو باشد از اندیشہ و لم سحر سنج
پای فرو رفتت قلم را بگنج ۔
سحر خند ۔ صبح کیطرح ہنستا ہوا نور الدین ظہوری بشور حدیث
شکر خند تو + بنور جبین سحر خند تو
سحر مند ۔ جادوگر جادو کرنے والا میر خسرو دیدہ شد نیز سحر مندی
او + بست پیشمی ز چشم بندی او +
سحر ور ۔ داو کے ساتھ جیسے کہ ناسورہ تا جور و بہرور وغیرہ جادوگر جادو
کرنیوالا امیر خسرو نبات خانہ من از تری و شیرینی + دہان سحروران و یار بر بستہ دو +
سحر خیز ۔ صبح اُٹھنے والا صبح خیز ظہوری دلی دہ کہ از نالہ انگیزیش
ہم از شام باشد سحر خیزیش +
سحاب کف ۔ سخی سخاوت کرنے والا ۔
سحاب نوال ۔ سخاوت کا ابر ۔ بڑا سخی صفدر فوقانی ز تو
گشت سر سبزی ہر ماہ و سال + زمین و زمان ای سحاب نوال +
سحر حلال ۔ نام ایک کتاب کا جو مثنوی اہلی شیرازی کی ہے ۔ اور وہ کلام
جو موزون اور فصیح ہو ۔
سحر آفرین ۔ جادو کا پیدا کرنے والا ۔ جادو کا پتلا میرزا صائب
گرچہ طی شد روزگار دولت طومار زلف + از خط سحر آفرین خالی ست
دیوار سش ہنوز +
سحر بیان ۔ جسکا کلام دلاویز و دلپسند ہو عرفی منم آن سحر بیان
کز مدد طبع سلیم + نہر و ناطقہ تام سخنم بی تعظیم +

سین با خای

سخن در فلان چیز ست ۔ فلان چیز میں بات ہے یعنی احتمال عدم
دو نون امر کا سین ہے سنجر کاشی گفتم بتی تسکین دلم کو دم عیسی +
خندید کہ ای خستہ سخن در نفس ماست ۔
سخن تلخ ۔ کڑوی بات ۔ دشنام و حرف جو ناگوار ہو ۔ سعدی
سخن آخر بدہان میگذرد موذی را + سخنش تلخ نخواہی دہنش شیرین کن +
سخن از سخن بیرون آید ۔ بات بات سے نکلتی ہے ؎ نالہ من ہمہ از شیون
بلبل باشد + سہجانے کہ سخن از سخن آید بیرون +
سخن را سالی و ماہی نباشد ۔ سخن کی میعاد نہیں ہوتی جو کام مہینون
اور برسون میں انجام پائے اسکی کیفیت کی نقل مہینے اور برس

شیرین چاہتی سعید اشرف باین اندازہ میر فتند راست + نی با ہم
سخن را سال و ماہ ست +
سخن راست تلخی مید ہد ۔ سچی بات کڑوی ہوتی ہے ؎
سخن راست تلخ می باشد + مید ہد لیک لذت شیرین +
سخن شنیدن بیخ دولت ست ۔ بات کا سننا دولت کی جڑ ہے ۔
نور العین واقف ای سرو ناز حرفے بشنو بشنو ز قمری خویش
گو شنید بیخ دولت باشد سخن شنیدن +
سخا گستر ۔ سخی جوانمرد صاحب مروت میر معزی ای سخا گستر ہنرمند
کہ ہر کو ساعتی + با تو بنشیند ہنرمندی سخن گستر شود +
سخاور ۔ صاحب سخاوت سخی جوانمرد رباعی از مولف
ال داری اگر سخاور باش + مرد فیاض و بندہ پرور باش + حکم داد
گر خدای کریم + صاحب عدل داد گستر باش +
سخت زور ۔ صاحب زور و طاقت صفدر فوقانی مکن زور
با بازوی سخت زور + مبادا کہ کمزور گردی چو مور +
سخن پرور ۔ ناظم و ناثر صاحب کلام نظامی کشیدہ وشش طوطیا
مدام + سخن پرور و طوطیا نوش نام +
سخن گزار ۔ تقریر کرنے والا بیان کرنے والا درویش والہ ہروی
نگرند سوی والا بادب اگر شود سر + ہر سخن گزاران سخن از سخن گزاری +
سخن گستر ۔ سخن کہنے والا شاعر سخن پھیلانے والا ۔ میرزا صائب
شگفتہ باد گلستان معنی طالب + کزو ست وی سخن گستران ایران سرخ +
سخنور ۔ بولنے والا صاحب سخن شاعر ؎ از سخن یابد سخنور
اقتدار + ور زبان دانی زبان دان افتخار +
سخن بکر ۔ پاکیزہ سخن و بی عیب و تازہ نظامی بدین لفظ نسخہای بکر
بسختی توان زادن از راہ فکر + سخن گفتن و بکر جان سفتن ست +
نہ ہر کس سزای سخن گفتن ست ۔
سخاورز ۔ سخاوت کا اختیار کرنے والا سخی صاحب سخاوت میر معزی
ای سخاورزی کہ ناسختہ بگوئی یک سخن + وان سخا را چون بسنجی از خزینہ
میزان کنی ۔
سخت باز ۔ قمار باز جو قمار بازی کے کام میں اُستاد ہو سب سے
بازی لیجاسے محسن تاثیر ۔ شدوہ چارم سخت بازی در قمار دلبری +
ہر دو عالم را بادوردادِ اول باختم +
سخت مغز ۔ مغرور و متکبر جو کسی کی بات نہ سُنے نظامی چو روستان
سختی کش و سخت مغز + فریبے شنیدند نیکو نہ نغز +

کشیدند سرہا کہ تا زندہ ایم + باین عہد و پیمان سر افگندہ ایم +
سخن پرواز ۔ سخنور ۔ صاحب کلام ۔ شاعر نعمت خان عالی
نی مانند کس چہ یادگار ہے در جہان عالی + گلاب از گل سخنہا از سخن
پرداز می ماند +
سخن ساز ۔ جو شخص جھوٹی بات بنالے صائب تو کہ ہرگز سخن
اہل سخن نشنیدی + چون سخن ساز و سخن فہم و سخندان شدہ +
سخن سنج ۔ پختہ و پسندیدہ سخن صائب صائب سخن سنج
بود زندہ جاوید + فیروزہ من کان نشاپور ندارد +
سخن طراز ۔ سخنگو ۔ سخنور ۔ شاعر ۔ صاحب کلام ۔ صائب کلک
سخن طراز رگ خواب سخت بود + زاندم کہ من گرفتمش آہنگ خواب کرد +
سخن رس ۔ سخن فہم یعنی وہ شخص جو سخن کے دقائق کو سمجھ سکتا ہو صائب
ز شاہان سخن رس رتبۂ افکار صائب را + بغیر از شاہ والاجاہ
ایران کس نمیداند +
سخن شناس ۔ سخن کا پہچاننے والا فہیم و ذکی آدمی سعدی ہر کہ
مرد سخن شناس بود ۔ می شناسد وقار اہل سخن +
سخت جوش ۔ بہت جوش کرنے والا نظامی از ان آتشین جانہ
سخت جوش + کسی جان برد کو بود سخت کوش +
سخت کوش ۔ سخت گیر ۔ سخت کوشش کرنے والا ۔ سختی اور
اور سخت پکڑنے والا ۔ امیر خسرو ۔ بر آن تن کہ زد خنجر سخت کوش +
روان شد سرش پای کوبان ز دوش +
سختی کش ۔ سخت کش ۔ سختی کش وہ ہی جو کہ پیاس بھوک گرمی
وغیرہ مصائب پر صبر کرے ۔ اور سخت کش وہ جسکا بدن متحمل سختی کا
ہو اور ایک قسم کا بار اٹھا سکے ۔ سخت کمان کھینچ سکے نظامی
تنے چند بگزید عیار وش + کماندار سختی کش و سخت کش +
سخن کش ۔ سخن فہم اور وہ جو بعد تمام بات سننے سخن تاثیر محتاج
سخن کش نبود طبع سخندان + نشستہ نہ کس برگ ابر بہاران +
سخن باف ۔ سخن گو ۔ شاعر ۔ ناظم و ناثر ۔ خاقانی ۔ نہ مرد الہم
و خاقانی سخن باقم + کہ روح قدس تنہا رود با ودا شعارم ۔
سخت ساق ۔ محنتی آدمی اور جو الٹ روبرو ہر وقت ٹھہرا رہے میر خسرو
پیسم چاکران چون سخت ساقان + کہ پیوستہ بدرگاہ خاقان ۔
سخت دل ۔ جسکا دل سخت ہو مقابل نرم دل کے بے مہر و سنگدل
بے رحم ابوطالب کلیم ۔ عجب از نما سخت دلان نیست رفتنی + اے
خواجہ سوی کا سہ جو سوی تعمیر نیست ۔

سخت چشم ۔ شوخ ۔ بی حیا ۔ بی لحاظ گستاخ میر خسرو حیست دکو کم
مخالف گوئی + زیرک سخت چشم حجت جوئی +
سخت لگام ۔ سرکش گھوڑا بدلگام شعر سخنک عجز بنہ سر اگر تو
انسانی + مباش بر سر تندی چو اسپ سخت لگام +
سخن فہم ۔ دانا ۔ لئیق جو سخن سمجھ سکتا ہو فوقی رسد بمغز سخن
ہر کہ او سخن فہم ست + وگرنہ قابل این رتبہ نیست ہر حیوان +
سخت استخوان ۔ صاحب طاقت و زور ۔ سختی کش و توانا نظامی
دلیر و تنومند و سخت استخوان + شکیبندہ و زور مند و جوان ۔
سخت جان ۔ مصائب کا بار اٹھانے والا ۔ یا جو سخت
بیماریون سے زندہ رہنے والا ۔ محمد رضا شکیبی شبہای ہجر را
گذرانیدیم و زندہ ایم + ما را بسخت جانی خود این گمان نبود ۔
سخت خوردن ۔ سخت تکلیف یا صدمہ اٹھانا صفدر فوقانی
ہست در عشق بتان سنگدل شام و سحر + سخت خوردن بار رنج و غم
بسر برداشتن ۔
سخت کمان ۔ وہ تیرانداز جو سخت کمان کھینچ سکتا ہو حافظ
چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند + بیمار کہ دیدست بدین سخت کمانی +
سخت بر کسی گرفتن ۔ تنگ پکڑنا ۔ تنگ کرنا نظامی دریچائی سختی
بگیریم سخت + وزین چاہ بی بن بر آریم رخت +
سخن از دہان کسی گرفتن ۔ کسی کی بات کو اسکے منہ سے پکڑ لینا یعنی
اسکو بولنے نہ دینا خود وہی بات کرنے لگ جانا میرزا اسماعیل ایما
ہر چہ در دل گذرد کے بزبان می آرم + عجب باشد کہ سخن از دہن کس گیرند +
سخن از لب واکشیدن ۔ کسی کے منہ سے بات لے لینا میرزا صائب
از لب منصور مستی سخن می کشی + یک جہان غماز را در پشت دروجا میدہی +
سخن آفرین ۔ سخن پیدا کرنے والا یہ جملہ خدا کی شان میں بولا جاتا ہے
کبھی بڑے شاعر صاحب سخن کو بھی کہدیتے ہیں سعدی بنام خداوند
جہان آفرین + حکیم سخن بر زبان آفرین ۔
سخن افشاندن ۔ سخن کہنا باتین کرنا ۔ نورالدین ظہوری تاہ
حسرت بگردون رساند + سخنہای آغشتہ در خون فشاند ۔
سخن انداختن ۔ بات مین بات ڈالکر تا محمد قلی سلیم گہ نام گل
گیرم گہ یاد گلستانے + برنگوہ در اندازم ہر جا سخن رویت +
سخن با کسی داشتن ۔ کنایتاً بات کہنا یا تو نہین مطلب سمجھانا محمد قلی
سلیم ۔ بسلیم گفتم و دارم نظرہ ات سخنی + بتجہ گفت کہ منہ و زبان چہ میدا
سخن بر خاک افگندن ۔ اپنی بات کو خوار اور بے اعتنا کرنا ۔

بات کو ضایع کرنا حافظ اگر زمردم ہشیاری ای نصیحت گوی + سخن بخاک مفگن چرا کہ من مستم +

سخن برزمین افگندن ۔ سخن برزمین زدن ۔ اپنی بات کو ضایع کرنا کھکر گنوانا جمال الدین سلمان ۔ سخن را برزمین نتوان فگند جملہ چون باران + ببی در گوش باید کرد ہمچون لولوی لالا طاہر غنی حاسد از کردہ خود گشت پشیمان امروز + برزمین زد سخنم را و با فلاک رسید +

سخن از زبان کسی بستن و ساختن ۔ کسی کیطرف سے کوئی بات بنا کر کہنا رضیع واعظ ۔ زنبیان کہ مازدیم بلب مہر خامشی + دشمن چگونہ ساخت سخن از زبان ما +

سخن بلند شدن ۔ مشہور ہونا ۔ بڑھ جانا بات کا حافظ خوبی رفاقت تو نیارد کرد مرزند + زین قصہ بگذرم کہ سخن میشود بلند +

سخن بیش بردن ۔ بنا کر بات کہنا ۔ اچھی طرح سے کلام کرنا ملا مفید بلخی از دست خصم کے جگر ریش میبرم + آنم کہ ہیچ خامہ سخن بیش می برم +

سخن بمذاق کسی تلخ بودن ۔ بات کا کڑوا لگنا محمد قلی سلیم سخن من بمذاق تو اگر تلخ بود + چون لبت ہر سخنی را بشکر غوطہ دہم +

سخن چین ۔ وہ شخص جو جھوٹی باتیں کہکر دو شخصوں مین جو آپس مین دوست ہون عداوت و فتنہ برپا کرے سعدی میان دو تن جنگ چون آتش ست + سخن چین بدبخت ہیزم کش ست +

سخن بر چیزی داشتن ۔ کسی چیز کے عیب کیطرف خیال ہونا اور اسکا نقص دل میں ہونا محمد قلی سلیم آشفتہ زبان ہیچو سلیم اگر احباب + دارند سخن بر سخن من سخنم نیست +

سخن دراز کشیدن ۔ سخن دراز کردن ۔ مدت تک باتین کرتے رہنا ۔ سعدی سخن دراز کشیدم و ہمچنان باقی ست + کہ ذکر دوست نگیرد ہیچ گونہ ملال + ولہ بخندہ گفت کہ سعدی سخن دراز مکن میان تہی و فراوان سخن چو طنبوری +

سخن در زبان نہادن ۔ کسیکو بلانا اور بولنا نور الدین ظہوری ہر دم ہوس نہد سخنی در زبان ما + مہری بہ بوسہ کاش نہد بر دہان ما +

سخن راندن ۔ بات کرنا کلام کرنا نظامی سخن راند ز اندازہ کار خویش + زبہروزی صلح و پیکار خویش +

سخن رفتن ۔ بات شروع ہونا ۔ ذکر چلنا میر معزی جواب دادم و گفتم ز بہر رفتن من + ترا ایسی سخنان رفت گوشدار جواب +

سخن روشن کردن ۔ بات کو مشہور کرنا اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنا جمال الدین سلمان نور ملک انشمع رای تست دا بیت بار نا + این سخن با آفتاب و ماہ روشن کردہ است +

سخن زدن ۔ سخن زن ۔ بات کرنا اور بات کرنے والا محمد قلی سلیم عشق آمد و با من سخن از حسن بتان زد + این حرف مین تا بدر و برہمان زد +

سخن کردن ۔ بات کرنا تقریر کرنا ۔ بولنا ۔ باقر کاشی تو آن نہ کہ کنی با کسی بمہر سخن + برای ہیچ چہ ضایع کنم محبت خویش +

سخن کشیدن ۔ بات سننا ۔ سخن سننا ۔ مفید بلخی گدای می سخن تلخ میفروش کشید + خوش آنکہ منت می چون سبو بدوش کشید +

سخن از چیزے گذشتن ۔ مذکور ہونا سخن کا میرزا صائب تا از عقیق او بہ بدخشان سخن گذشت + از سنگ لعل چون عرق از سر مین گذشت +

سخن گستردن ۔ بیان کرنا سخن کا شرح و بسط کے ساتھ اور مشتہر کرنا نظامی باندازہ باید سخن گسترید + گزاف سخن را نباید شنید +

سخن گفتن ۔ بات کہنا ۔ تقریر کرنا ۔ سعدی چو کاری بی فضولی من برآید + مرا در وے سخن گفتن نشاید +

سخت بازو ۔ زور آور ۔ توانا ۔ زبردست صفدر فوقانی بدست زورمند و سخت بازو ہکم زوران مکن زور آزمائی +

سخت رو ۔ بدخو ۔ و درشت ۔ و ناہموار ۔ صائب تا بروی سخت ما صائب سرو کارش فتاد + توبہ کرد از سخت روی سیلی استاد ما +

سخت پنجہ ۔ مسک بخیل و زبردست ۔

سخن پوست کندہ ۔ جو بات ظاہر و برملا کہی جائے ۔

سخن چاویدہ ۔ چبا چبا کر جو بات کہی جائے جس سے طعن و ملامت پائی جائے ۔

سخن زندہ ۔ عجائب بات دلچسپ بات سالک یزدی کہنگی سخن کس حدیث تازہ ما را + درین زمانہ سخنہای زندہ یاب نباشد +

سخت زہ ۔ کمان جسکا چلہ سخت ہو ۔

سخت پاے ۔ توانا و ثابت قدم میر خسرو سکندر کہ بنیاد از سخت تر چہ شد از سخت پایان چنین سخت تر +

سخت پیشانی ۔ صاحب جرأت و بیباک میرزا صائب اینچہ ابروی سخت پیشانی ست + اینچہ لبہای نرم گفتارست +

سخت کوشی ۔ نہایت درجہ کی کوشش کرنے والا مولانا جامی شدیم از پند گوئی سخت کوشی + زبان کردیم سوہان درشتی ۔

سخن افواہی ۔ بازاری بات جسکے سچ یا دروغ ہونے پر اعتماد نہو محمد سعید اشرف نوبہار ست و بوی گل چو بیت خرگاہی + بوی از غنچہ دوان چون سخن افواہی +

سخن پیرائے - سخن کرنے والا - بات ٹھیک بنانیوالا جامی
سخن پیراے این رنگین حکایت + چنین کرد از سخن سنجان روایت +
سخن پیرای - سخن سنج - شاعر صاحب کلام شفیع اثر
چو حرف خوش که زافواه در بدر افتد + سخن پیرای ندرد بدیہ یاد آئی + نظامی
سخن سنجے آمد ترازو بدست + درستی زر اندوده را می شکست +
سخن علیقی - بعین مہملہ وه سخن جس سے خون کی بو آئے ماخوذ
علق سے جسکے معنی خون بستہ ہین -
سخن غلیفی - بغین معجمہ اماله غلاف کا یعنی کنایہ وار رمز باتین اور
چھپی ہوئی باتین اور ساختہ باتین سیفی کاروفروش کی تعریف ہین
سخنہای غلیفی میکند از من بہ ہجران چو آتیم برد کا نش تیغ انداز و بروی من
سخنگوی - سخن کہنے والا - شاعرات کرنے والا صائب شمع در پردۂ
فانوس نیفتد ز زبان + نشود چشم سخنگوی تو از آب خموش +
سخن مجلسی - وه بات جو مشہور ہو مجلسونین انکا ذکر ہو محتشم کاشی
سخن مجلسیش میکشد از ذوق مرا + چون نسیم گر شنوم روزی
ازان لب راز سے +

سین با دال

سدره قد - معشوق کی تعریف مین بولا جاتا ہی ظہوری
سدره قدان نتوانند کشید + آه ازان قامت رعنا گستاخ +
سد کشادن - منہدم کرنا - مسمار کرنا - گرا دینا دیوار کا اور
تسخیر کرنا قلعہ و ولایت کا اوحد الدین انوری ملک ہمہ خسروان
گرفتیم + سد ہمہ دشمنان کشادیم +

سین با رای

سرا بالا - بلند محل اونچا - بلند بالاخانہ - چوپاره سیرچی شیرازی ره تعریف
تخت شطی کنم چون + سرا بالاست این ره تا بگردون +
سراپا - تمام و مجموع - سر سے پانون تک اور خلعت جو ملک
نوکر کو بخشتے نور الدین ظہوری بمیدان نظاره گر رہم خورد + نگرا
سراپاے برہم خورد + محمد حسین شہرت باندامم لباس
سوختن از بسکہ می زیبد + چو شمع از تار و پود شعلہ پوشیدم سراپائی +
سر تنہا - باضافت رای اکیلا اور یکہ حسن رفیع خود سر تنہا
بدل غیر رساند + در راه خطا تیر ترا ہمسفری نیست +
سرمہ سا - سرگین آنکھین سیاه دیده صائب صد جام
لبالب ست در گرو + در حلقۂ چشم سرمہ سائیش -
سرو بالا - یہ جملہ معشوق کی تعریف مین بولا جاتا ہی -

سر برآوردن مرغ از آب - اسقدر وقت جسقدر مرغ پانی
پینے کے وقت چونچ پانی مین رکھ کر نکالتا ہی نظامی نوشابہ کے ذکر مین
بمقدار آن سر درآرد بخواب + کہ مرغی برون آورد سر ز آب +
سر حساب - واقف و خبردار و آگاه محسن تاثیر سر حساب از کار
بودن سر نوشت من بس ست + ہست چون آئینہ از جوہر خط پیشانیم +
سر خواب - فنون کشتی مین سے ایک فن کا نام ہی میر نجات
در مخالف کہ ترا گفتہ کہ سر خواب مزن + گر دوی کرت بپیچ شود ناب مزن +
سر شب - ابتدای شب اول شب پہلا حصہ رات کا محمد سعید اشرف
تا یکی از سر شب تا بسحر نالیدن + چند خون تا بدل سخت جگر خاییدن +
سرمۂ افسون غیبت - بفتح غین ایک سرمہ جو کوئی اسکو
آنکھون مین ڈالے لوگون کی نظر سے چھپ جائے ایسا سرمہ اہل
طلسم بناتے ہین - ہند مین اسکو لگنجن بفتح لام کہتے ہین سرمۂ خفا
بھی اسکا نام ہی علی رضا تجلی نشان آب حیاتم چہ میدہی ای
خضر + کجاست سرمۂ از چشمہا نہان گشتن + محمد سعید اشرف
تا نبینی و نہ بینندت برآ از خویشتن + سرمۂ غیبت بچشم خویش گرد افشاند نیست +
سر انگشت - مشہور لفظ ہی حاجت تشریح کی نہین سعدی
بخون عزیزان فرو برده چنگ + سر انگشتہا کرده عناب رنگ +
سر بست - سر بستہ - بند و ملفوف و پوشیده صائب سر چه از
در خم سر بستہ گردون از شست + می بحکمت میخورم جامی فلاطون از شست نخ ...
بشرو ہنده حال سر بست من + نہ تہمت نیست سربست من +
سر دست - باضافت راے جو چیز حاضر و موجود ہاتھ پر رکھی ہو
اور جو اسباب ہاتھ پر رکھکر بازار مین فروخت کیا جائے سعدی
ببازوان توانا و قوت سر دست + خطاست پنجہ مسکین ناتوان بشکست
سر فلان بسلامت - سر فلان سلامت - محاوره یعنی اگر فلان شخص جاتا رہا ہی
تو غم نہین ہی فلان سلامت رہی جو اسکا نعم البدل ہی درویش واله ہروی سر فلان
بسلامت چہ شد ار رنگ نماند + سبزی از رہم اگر رفت سیاہی باقیست + رضی دانش
بزم ما نور ز عکس مہ روشن دارد + شمع گر مرد سر شیشہ سلامت باشد +
سرکۂ مفت شیرین از عسل ست - مفت کا سرکہ شہد سے میٹھا ہی
سر نوشت - پیشانی کی لکھت - مقسوم - طالع ابو طالب کلیم
سر ما از زانوی اندوه جدا خواہد شد + سر نوشتم اگر از لوح جبین برخیزد و لہ
سر نوشت با بدست خود نوشت + کاتب خوشخط انخواہد بہ نوشت +
سر پیچ - نیند کی ابتدا مین جو اونگھ آجاتی ہی میر نجات زندگی را
در فراقت بپیچ میدانیم ما + مرگ را در شام غم سر پیچ میدانیم ما + نیز نگی

جو سر پر باندھی جاے۔ میر افضل ثابت ہین عمامہ بست بدست صبا کبوتر
بر سر + بدین علاقہ ز سر پیچ مرگ واہ خبر +

سرشک قدح۔ شراب کے قطرات فطامی سرشک قدح نالہ
ارغنون + روان کرد از دیدہ بارود خون +

سرلوح۔ وہ نقش و نگار جو کتاب کے آغاز پر یعنی بسم اللہ پر
باآب زر کرتے ہین نعمت خان عالی دنیا طلبان بے خبر از
مطلب اصل اند + چون طفل کہ مشغول بسرلوح کتاب ست +

سرخر پیدا شد۔ یعنی ناکارہ چیز ہاتھ لگی اور ایسا شخص ملا
جس سے نقصان ہوا محمد سعید اشرف چون دوش آن یار
سیمبر پیدا شد + ناگاہ رقیب فتنہ گر پیدا شد + رفتم کہ بگیرم یک
سرکاری بزنم + گز دست قضا یک سرخر پیدا شد +

سر فلان درد میکند۔ فلان شخص کا سر دکھتا ہے یعنی فلان
چیز سے اسکو تکلیف ہے سید عبد اللہ حالی صندل سرخ
بسر شکم بیخ زرد کہ دید + کہ ہماندم سر عشوقی او درد نکرد +

سر فلان می جنبد۔ یعنی ابھی زندہ ہے سر اسکا ہلتا ہے سلیم
سخن بیار و بہ تحسین با معاملہ کن + سر کسی بجہان خیر با نمی جنبد +

سرکند۔ یہ ایک رسی ایران کے بادشاہون کے اصطبل
کے دروازہ پر بندھی ہوئی ہوتی ہے اگر کوئی مجرم و جیب النقدیر اسکو
اگر پکڑ لے تو اصطبل کا عملہ اسکی حمایت کرتا ہے۔ اور کہتے ہین کہ یہ شخص
اب ہماری حمایت مین آگیا شفیع اثر ہوا ر بند جا بزلف تو دلہا سے
مستمند + باشد ستم رسیدہ پناہش سرکند +

سرمہ آلود۔ سرمگین آنکھین محبوب کی سا درابلق کیسے
کم دیدہ موجود بغیر از اشک چشم سرمہ آلود +

سرو از راستی آزاد شد۔ مثل ہے کہ راستی کے سبب
سرو آزاد ہوا ہے۔ راستی کن راستی + زانکہ سرو
از راستی آزاد شد +

سرو قد۔ محبوب کی تعریف مین بولا جاتا ہے مؤلف در
گلستان جہان شکر خدا + سرو قدی گلعذاری یافتم +

سر از پیر۔ مقابل سربالا کے نیچے کا درجہ اور قد یہ ایک چیز
کی طالب آملی خطاب بہ قلم ہر کہ تیرہ چشمہ زنی غوطہ سر از پیر
صد گوہر ناسفتہ برآری چو برآئی +

سر انداز تیر۔ تیر سقف یعنی وہ شہتیر جو چھت پر ڈالتے ہین ملا طغرا
تیر نفسم گر نبود بر سر کاشانہ ما + سر انداز نسازد چو کمان خانہ ما +

سرای سرور۔ شراب خانہ ستی کا گھر صفدر رقم قاآنی بنظم لبا
ز مستی و بہشتی باز آ + کہ نیست خانہ دنیای دون سرای سرور +

سرباری۔ وہ تھوڑا جو سر کے بڑے بوجھ کے اوپر رکھ لیا عرفی مین
اسکو علاوہ کہتے ہین فارسی مین سروارہ بھی کہتے ہین شفیع اثر
بسکہ ارد خاطرم شوق سبکباری اثر + زندگانی بارہ سربار ست
عقل کا ظلم +

سر بیچار۔ لمبے بال سر کے جنکو سناسی ہندو فقیر بجای پگڑی
سر پر باندھ لیتے ہین۔ ملا طغرا کی برنگ سبز سناسی بود سر پیچار
بید گر از طرہ خود چتر بندی سر گند +

سرتا بسر۔ سراسر۔ مجموع و تمام و کمال اثیر الدین اومانی
بسے بگشتم و سرتا بسر جہان دیدم + بچشم عقل در احوال ہمکنان دیدم + مؤلف
از خدا مردم سراسر غافلند + غافل اند و جاہل اند و کاہل اند +

سر تیر۔ ایک تیر کی مسافت میرزا رضی دانش نگاہش گوشہ
وارو ولی چون وقت کار آید + ز آشوب قیامت بیشتر افتد سر تیرے +

سر چشمہ وار۔ وہ شخص جو کسی امر کا مخترع ہو ملا طغرا سر چشمہ وار
شکوہ از چشم کافر کیش او + پیش آن سرچشمہ وار نامسلمانی بگو +

سر خیز۔ جو شخص کسی کام مین مقدم اور پیش رو ہو شفیع اثر
ہمیشہ گرم چو طنبور بود صحبت ما + نشست بی سر خیز کوک ساز عشرت ما +

سرخ عیار۔ ایک عیار کا نام ہے کہ عیاری مین اپنا ثانی
آپ ہی تھا۔ محمد قلی سلیم روان کن زر برای می کہ زمان سرخ عیار ست
کہ در یکدم سبو را دست و گردن بستہ می آرد +

سردسیر۔ جو ملک سرد ہو مثل کشمیر وغیرہ باقر کاشی
از سرد سیر مہر و محبت رسیدہ ایم + از یکدو جرعہ گرم نگردد دماغ ما +

سرد مہر۔ بے مہر و بیرحم و سنگدل ملا طغرا نالم چرا ز سلکو
سپہر بکہ گرمی ندیدہ ام از ان سرد مہر +

سرشیر۔ ملائی جو دودھ پر گرم ہو جانے کے بعد آجاتی ہے ترکی مین
اسکو قیماغ کہتے ہین طاہر وحید بود چون زلف بست تخمیر
او + چو پستان ما در سرشیر او +

سر قطار۔ افسر مقدم پیشرو پیش امام قافلہ سالار
میر یحیی شیرازی۔ با خویش ہر کہ کرد مرا چون جرس شمار + در کاروان
اہل خرد ہم سر قطار شد +

سرکار۔ باصطلاح دفاتر شاہان اسلام ہند ایک حصہ ولایت کا
جسمین چند پرگنے شامل ہون چنانچہ سرکار لاہور و سرکار ملتان و سرکار

الہ آباد وغیرہ اس عہد مین سرکار کی عوض ضلع یا قسمت بولتے ہین نیز بمعنی کار فرما و صاحب اہتمام و منتظم اور وہ مکان جسمین جولاہون کے کارخانے ہون شرف الدین شفائی من آن خورشید عریانی لباسم کہ مہتاب ست سرکار کتانم + وله دست دولت نہی ست شفائی زہ شد لیکے چیزی کہ ہست در سرکار تو حسرت ست +

سر لشکر - افسر فوج کا لشکر کا افسر ملا وحشی سر لشکر فتنہ کہ آید زپے جان + تازان زرہ عرصہ جولان تو آید +

سرمایہ دار - صاحب ثروت و مالدار سعدی زدیدار نیالت ندارم شکیب + کہ سرمایہ داران حسن اند و زیب +

سرمہ دنبالہ دار - وہ سرمہ جسکے پیچھے کان کی طرف دنبالہ رکھا جائے محسن تاثیر سینہ پہلو بزلفش ست سرمہ دنبالہ دار + یا عنان ناقہ لیلی ست مجنون سیکشد +

سر وکار - باہم دو شخصون کے جو معاملہ ہو صائب فتادہ است سروکار من بدریائے + کہ نہ سپہر و لوپی بقاست ہیچ حباب +

سر سبز - ہرا بھرا - تر و تازہ درخت وغیرہ صائب درین چمن سر سبزان برہنہ پا وارد + کہ چار موسم چون سرو یک قبا دارد +

سرو ناز - محبوب کی تعریف مین بولا جاتا ہی اسیر لاہجی قصد جانم کرد یار دلنواز + ریخت خونم بے گنہ آن سرو ناز +

سر و نفس - کم طاقت و دم گیر ناتوان صائب در گلستان تیغ سر و نفس محرم نیست + گوش بر زمزمہ مرغ کبابست مرا +

سر آغوش - اوڑھنی عورتون کے پہننے کی ناظم ہروی سپہر از کہکشان زرین سر آغوش + چو معشوقان بہ بند افگندہ بر دوش +

سر جوش - وہ شوربا جو پہلے جوش مین دیگ سے اُتارین - اور ہر چیز جو صاف ہو جیسے کہ بادہ سر جوش و مے سر جوش و بوسہ ناسے سر جوش رفیع واعظ سند زتمامی در سرکار ہوس عہد شباب + تندی این آتش آخر بخت سر جوش مرا +

سر در پیش - خجل و شرمسار و متامل طاہر غنی کم ز حیوانات باشد پیش ارباب تمیز + آدمی کز انفعال جرم سر در پیش نیست +

سرکش - نافرمان - خود پسند - یہ لفظ سوا سے حیوانات کے اور اشیا پر بھی آسکتا ہی چنانچہ می سرکش - و نگاہ سرکش میرزا صاحب تسخیر نگاہ سرکش او عاجزم ورنہ + عنان برق زدست می پیچید گیاہ من بلبہ حسد رکن اذ می سرکش کرنا کش باز مین گیری + بہ چندین دست نتوانند نگہدار عنان او +

سر زلف - ناز و تبختر و استغنا و بی پروائی مفید بلخی تا توچو شانہ بسر زلف میکنم + با نوخطان سخن بسر زلف میکنم +

سر طوق - باضافت و بدون اضافت بڑا حلقہ جو زنجیر پر ہوتا ہی سعید اشرف دریا کی تعریف مین خروشان موجہا سر چرخ تسخیر + ورا و گرداب چون سر طوق زنجیر +

سر ورق - پہلا ورق کتاب کا نعمت خان عالی حسن دو عشقے بجہان شہرہ از یار شود + ابروش بسملہ سرورق ایجاد ست +

سر آہنگ - چوبدار شاہی اور فوج ہراول جو لڑائی کے وقت سب آگے ہوتے ہین نظامی سر آہنگ باساقہ از تیر و تیغ + بر آورد کوہی ز آہن بسیغ -

سر بزرگ - صاحب رتبہ و توقیر آدمی نظامی نیایش کنان گفت کز تخت شاہ + کند بر سر تخت این بندہ راہ - سرش را بافسر گرامی کند + بدین سر بزرگیش نامی کند +

سر خاک - بالین سر - کنایۃً صائب بہ نگاہ دل سر گشتہ مارا دریاب + بچراغی سر خاک شہدا او دریاب +

سر کوچک - حقیر و فرومایہ و بے قدر نظامی ولیکن نگشت آتش گرم را + بسر کوچکی داشت آزرم را +

سر و برگ - خیال اور دماغ - حوصلہ ظفر خان احسن با شوق نالہ بلبل بگلشن میروم + ورنہ کے مارا سر و برگ تماشای گل ست +

سر غزل - ہر ایک غزل کا مطلع اور وہ غزل جو دیوان مین عمدہ و اعلی ہو - بدچپاچی خنیان گران مجلس سلطان عصر را + این سر غزل بہدیہ رسان ای صبا زمن +

سر فیل - کنایۃً خصیہ جو مشہور عضو ہی حکیم شفائی در ہجو محمد رضا فکری در آن قطار عجب بختیان سر مست اند + کہ بار شان سر فیل ست و ست خر سر بار

سرمائی گل - وہ سردی جو بہار کے موسم مین ہو صائب عندلیبا ندارد تاب استغنای گل + بیشو دست و دل ما سرد از سرمای گل +

سر بام - لب بام - محل کے اوپر کا درجہ ملا طغرا - شد ز نقش پای بتان نگار + سر بام رنگین تر از لالہ زار +

سر ہم آوردن زخم - اچھا ہو جانا زخم کا ملا طغرا - زخم ناسورش در آرد سر بہم + گر کویت گر شود داروی گل +

سرت گردم - تیرے سر پر قربان ہو جاؤن سنجر کاشی دل سنجر نیازی کہ افتد + سرت گردم مدل اندرون ہنر نیست + محو چشم سفاک و خونریز صلاح و بیرم این بگلرچہ بیخ خشی شوخی یسکند +

با من کبود روئی سپہر سیاہ کار +

سر درگم - جس چیز کا سرا نہ لگے اور رشتہ سر درگم وہ رشتہ جسکا سرا نہ ملے - میر یحیی شیرازی - رشتہ ہر عقدہ کارم زبس سر درگم ست + صد گرہ افگندہ ام تا یک گرہ وا کردہ ام +

سر شدن مہم - کار سرانجام پانا مطلب حاصل ہونا میر حشمتی - موی سر کردم سپید و سر مہم من نشد + دست و پاے میزنم اکنون کہ آب از سر گذشت +

سر علم - جو چیز علم کے اوپر بطور کاکل کے لگاتے ہیں مفید بلخی - در صف اہل جنون مارا نشانے دیگر ست + لالہ سان از داغ سودا سر علم داریم ما +

سر کردن قلم - تراشنا اور درست کرنا قلم کا - درویش والہ ہروی - گرچہ خاموشم و وابستہ ام از گفت و شنود + کاغذی پیش نہادم قلمی سر کردم +

سرگرم - مصروف و متوجہ اور سرخوش و مقید و سجدہ عاشق و فریفتہ حنا - بیک آتش چو داغ لالہ میسوزم درین گلشن + نہ ہر شمعی تواند کرد چون پروانہ سرگرمم +

سرمہ چشم - سرمہ آنکھوں کا - محمد جان قدسی - چنان با ہیچ چشمم زود خشم + کہ نرگس زخاکم دہد سرمہ چشم +

سر نازدن شکم - **سر نا نواختن شکم** - بولنا اور قراقر کرنا پیٹ کا - میر یحیی شیرازی - نالہ تا کے کشم از فرقت زر + چند سر نا زنم بحسرت زر - عبد الغنی قبول - بسکہ آئین نوازش زجہان شد مفقود + شکم گرسنہ گاہم نوازد سرنا +

سرو سمن اندام - **سرو گل اندام** - یہ جملے محبوب کی تعریف میں بولے جاتے ہیں میرزا صائب - نیلی ز تماشا نشود ہیچ سمن بر + این فاختہ از سرو گل اندام تو گل کرد +

سر البستان - **سر بوستان** - جو باغچہ گھر میں ہو نور الدین ظہوری - گل امید تا بکی چینم + از سر بوستان فرض محال +

سر ابرو خم کردن - غضب کی علامت ظاہر کرنا بیدماغ ہونا امیر خسرو - بکرشمہ سر ابرو مکن از بہر خدا خم + کہ ز محراب تو بر شد بفلک نعرۂ یارب +

سراج السالکین - ماہتاب عالمتاب محمد انور حکیم لاہوری - چہ غم گر بود خانہ ام بی چراغ + کہ ما را سراج السالکین بس ست +

سر از آب بیگانہ شستن - بیگانہ ہو لینا امیر خسرو - سر انگہ توان ز آب بیگانہ شست + کہ از خون خود دست شوید نخست +

سر از بالین تہی کردن - قریب مرگ ہونا - نظامی - تو سر سبز باشی بشاہنشہی + کہ من کردہ ام سر ز بالین تہی +

سر از جیب برآوردن - **بر کردن** - کسی کام کی تیاری سے نکلنا صائب - یکبار سر برآر ز جیب قبای ناز + دست مرا ببین بگریبان چہ میکند + ولہ - گرچہ چشم انتظار ما ید بیضا نمود + کو پیراہن سر از جیب مروت بر نکرد +

سر از خاک برزدن - زمین سے نکلنا - ظاہر ہونا پیدا ہونا اگنا - ملا وحشی - نرگس رساند مژدہ کہ ساغر کشان چشم + بانامہ سپید سر از خاک برکشید +

سر از خط بیرون رفتن - **سر از خط برگرفتن** - نافرمان ہونا سرکشی کرنا - نور الدین ظہوری - خط از خط حکمش کسی برگرفت + کہ از خصمی خود کم سر گرفت + اوحد الدین انوری - چہ گفت گفت بسوگند خوردہ ام بسرم + کہ ہرگز از خط عشق تو سر نہ بردارم +

سر از خواب برکردن - **سر از خواب تہی شدن** - بیدار ہونا نیند سے جاگنا - عبد اللہ ہاتفی - سر اہل ایران تہی شد ز خواب + کہ بگذشت دریای آتش ز آب + حافظ - ماہی و مرغ دوش نخفت از فغان من + آن شوخ دیدہ بین کہ سر از خواب بر نکرد +

سر از خواب جہاندن - سر خواب سے اٹھانا درویش والہ ہروی - از خواب جہاندیم سر تیر سحری را + بر شیشہ رسیدیم دعای سحری را +

سر از خواب در آمدن - بیدار ہونا جاگنا نظامی - سر نرگس انگہ در آید ز خواب + کہ ریزد برو ابر بارندہ آب +

سر از خویش برآوردن - اپنی ہستی سے بے خبر ہونا بیہوش ہو جانا - میرزا بیدل - بیدل چمن آرای گریبان خیالست + یارب نشود آنکہ سر از خویش برآرد +

سر از رشتہ بر نیاوردن - **سر از رشتہ بیرون نبردن** - نہ سمجھنا حقیقت کسی چیز کی صائب - ہیچ از کس از رشتہ کارم سر بیرون نبرد + نبض من بند زبان گردید جالینوس را +

سر از زانو برگرفتن - مراقبہ سے سر اٹھانا صائب - نگیرد سر از زانوی فکر سر نہار مدہ کہ غنچہ ہر چہ طلب کرد از گریبان یافت +

سر از زیر خاک زدن - اگنا زمین سے اور پیدا ہونا ملا وحشی - زبہر ندامت ست کہ بردیم زیر خاک + این سبزہ کہ سر زدہ از زیر خاک ماست +

سر از شیشہ تہی چرب کردن - فریب دینا سید حسن غزنوی - نجوہ جام کہ سر چرب کرد خصم ترا + بشیشہ تہی این آبگینہ زنگ جراس +

سر از نشاء سبک ساختن - سرخوش اور تر دماغ ہونا طالب آملی - تا سر از نشۂ تحقیق سبک ساختہ ام + خرقہ بابستہ بر دوشم ہمہ گر یابستہ تار ست +

سر از یک آستین برآوردن - **سر از یک جیب برآوردن** - کسی کے ساتھ

برابری کا دعوی کرنا صائب ہمان باشد گران از شوخ چشمی بر دل مردم + اگر سوزن سر از یک جیب با عیسی برون آورد + ولہ نظر باشد سیمین چراغ صبح را مانند + برآرد گر ید بیضا سر از یک آستین با او +

سرا سر زدن سرا سر شدن سرا سر کردن - اس سرے اس سر تک سیر کرنا - زلالی از وحشت کہ یا نزدہ چاک سفینہ ام سخت چاک سرا سر باز میزند + میرزا صائب تا نفس در سینہ با مشق سرا سر میکند + کاغذ بادست اوراق کتاب زندگی - میر یحیی شیرازی شد چہ پایش سرا سر بازار + خاک غم ریخت بسر بازار +

سر افتادن - غالب ہونا - زیادہ ہونا محسن تاثیر چون تو قی میکشد زلف مسلسل کاکل ست + چین ابرو چون سر افتد چین پیشانی شود

سر افشاندن - نثار کرنا سر کا ملا قاسم مشہدی ہر کس کہ نامرد سری در رہت افشاند + فرو انتواند کہ سر از سنگ بر آرد +

سر آمدن - آخر ہونا - انجام پر پہونچنا صائب چمن بہ یہ فراض رشک سنبل خویش + سر آمدی نکویان بہ ہمین کاکل خویش +

سر انداختن - قتل کر دینا سر اتار دینا - نظامی - ستیغ بر گردن افراختش + دران پارہ گفتن سر انداختش +

سر با برابر کردن - سر با بر سودن - بلند ہونا بڑے رتبہ پر پہونچنا صائب مشو ز افتادگی غافل سرت برابر گر سا یہ کہ از راہ تنزل قطرہ گوہر میتوان شد +

سر باختن - سر کھیلانا یعنی نثار کرنا صائب سر چہ باشد کس نبازد در رہ داغ جنون + این کدو پوچ را در کار این زنبور کن +

سر باز زدن - کسی چیز سے الگ ہونا - جدا ہونا اسکی خواہش رکھنا صائب عاقلانیکہ ز زنجیر تو سر وا زدہ اند + غافلانند کہ بر دولت خود پا زدہ اند +

سر بالا کردن - بر بالا کردن - سر اٹھانا - اوپر کو دیکھنا - اوپر نظر کرنا صائب او را ز فرزندنا ہموار خجلت میکشد + خاک سر بالا نیفگ کرد از تقصیر ما جمال الدین سلمان - درچمن کرد ناز سرو ترا بہ بنید سر فنا زد + از خجالت سر عجب باشد کہ بر بالا کند +

سر بپای کسی دادن - کسی کے پانؤن پر سر رکھنا صائب ہیچ ہمدردی نبی یابم سزای خویشتن + ہمچو مجنون سر بپای خویشتن

سر بجای کشیدن - کسی ہمت کو متوجہ ہونا رضی دانش داد مجنون ز بی آبی خراب افتادہ است + گریہ الا سری بپایان صحرا کشید

سر بچیزی داشتن - سر بچیزی فرو آمدن - کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا - رجوع کرنا - سر جھکانا - جھک کر دیکھنا میر محمد افضل ثابت

جز بتعظیم تیغ او یکدم + سر عاشق فرو نمی آید + محمد اسحاق شوکت گذشت بسکہ برای تو شوکت از دو جہان + نبود میل کلاہش سری بتاج نداشت

سر بخواب در آمدن - سو جانا - نیند میں ہو جانا نظامی سر شغل ما گر در آید بخواب + مپندار کین خانہ گردد خراب +

سر بدیوار آمدن - سر بدیوار رسیدن - دیوار کے ساتھ لگ کر سر کوٹنا - صائب از وحشت زود بدیوار می آید سرش + مباش ہر کس کہ چون خورشید دامن بر زمین + صائب از کوچہ آن زلف کہ سالم بدر آید + کانجا سر خورشید بدیوار رسید +

سر بر چیزی خوردن - سر بر چیزی زدن - سر کسی چیز سے ٹکرا جانا اور سر کسی چیز کو مارنا مولانا جامی آب از سر و قد ست می آید از فرسنگہا + در حسرت پابوس تو سر میزند بر سنگہا محمد قلی سلیم بعشق از بس سر من خورد بر سنگ + کنند داغم چو پائے رہروان درد +

سر بر داشتن - سر اٹھانا شعر سر ز تیغ حسن لین روبان چہ بر میدا شتم + منکہ بار زندگی را در و سر میدا شتم +

سر بر در زدن - کسی کے دروازہ پر سر مارنا دروازہ ٹھکٹانا دوسرے بر درش سر میزنم تا باب فیض + از در قفلش کشاید بر جہان +

سر بردن - یعنی بسر بردن گذارنا وقت کا عبد اللطیف خان تنہا عمر را از بسکہ با سودر وی بسر بردہ ایم + شد ہما آخر نصیب از استخوان با چو شمع +

سر بر سر کسی داشتن - سر بر سر کسی نہادن - کسی کے ساتھ خصومت و آویزش رکھنا - متوجہ ہونا - خیال رکھنا شاپور چون نہم سر بر سر سجادہ قربان بری + جامہ جانا بخون دل نمازی میکنم + ولہ شد ز مجنون نیتی این کتب عمری ست کہ عشق + بہر تعلیم جنون کی سر بسر من دارد +

سر بر کمر زدن - پتھر پر سر مارنا کیونکہ کمر پتھر کو بھی کہتے ہیں نظامی - جز او ہر کسے با تو سر میزند + چو زلفت تو سر بر کمر میزند +

سر از چیزی برون کردن - سر برون آوردن - کسی چیز کے عہدے اور ذمہ داری سے نکلنا محمد قلی سلیم ہر کسے بیرون نیارد سر بسر از زلف او + شانہ داند معنی این مصرعہ پیچیدہ را + ابو الحسن فراہانی ہیچکس زان طرۂ پیچیدہ سر بیرون نکرد + باوجود آن کہ مضمون پیش پا افتادہ بود +

سر بریدن - سر کاٹنا - قتل کرنا - مارنا - ع شمع سے سگوید
با اہل بزم با سوز و گداز + سر بریدن پیش این سنگین دلان گل چیدن است +
سر بزانو نشستن - مراقبہ میں ہونا - کسی بات کی فکر میں ہونا - وفا
سر بکوہ و بیابان دادن - آوارہ ہونا - خانہ بدوش ہونا - خواجہ حافظ
صبا بلطف بگو آن غزال رعنا را + کہ سر بکوہ و بیابان تو دادہ ما را +
سر بگوش گذاشتن - سر گوشی کرنا - ایک دوسرے
کے کان میں بات کہنا - محسن تاثیر - ز راز بادہ پرستان کہ میشود آگاہ
بگوش شیشہ اگر سر ایاغ نگذارد +
سر بلند کردن - سر اونچا کرنا - عزت دینا - سرفرازی بخشنا - ذوقی
سر عاجزی نہ بخاک نیاز + کند تا خدا عزترا سر بلند +
سر بہ بیضہ کشیدن - نہایت خوشی کی حالت میں آسمان کے
ساتھ دعوی برابری کا کرنا - نظامی - چو بینو چرا گاہی آمد پدید + کہ
از خرمی سر بہ بیضہ کشید +
سر پا خوردن - سرپا زدن - ٹھوکر کھانا اور ٹھوکر مارنا - لڑکھڑانا -
بیدلی - اڑے آڑے از گلیم خود چو پا بیرون نہد + کفش تنہا چہ
خورد سرپائی کفش ساغری + خان خالص - ایاغ لالہ زار آمد سرپا
بیفزند خالص + چہ داند کور راہ و تا چشم روشن را +
سر پستان سیاہ کردن - دستور ہے کہ شیر خوار بچہ کا دودھ
چھڑاتے ہیں تو پستان پر کوئی چیز سیاہ اور تلخ لگا دیتے ہیں تاکہ
بچہ اس سے نفرت کرے - غیاثی حلوائی - ز تیرہ بختی شد و آن زمان
شدم آگاہ + کہ دایہ ام سر پستان خویش کرد سیاہ +
سر پوش از روی راز افتادن - افشا ہونا - راز کا بھید
کھل جانا - ناظم ہروی - از لب زرد و رنگ طاقتم جوش + افتادہ
ز روی راز سرپوش +
سر پوش گذاشتن - کسی بات کو چھپا دینا - محسن تاثیر
ہر کس کہ بتان را ہوس بگذارد + در سلک حق پا لی ہوس بگذارد + در
پردہ مگوی چون سخن حق باشد + سرپوش بحرف پختہ کس نگذارد +
سر پیچ زدن - سرپیچ مارنا - محسن تاثیر - خط او از شراب
رنگ بہوش + زدہ سرپیچ در صبح بناگوش +
سر توقع خاریدن - امیدوار ہونا - آرزو مند ہونا - شرف الدین شفائی
پیش ہمہ کس سر توقع خاری + آن لحظہ کہ جاے دگرت میخارد +
سر جدا کردن - سرکاٹ ڈالنا - اور الگ کرکے دینا - صدقہ
عید فطر کا ہر ایک گھر کے آدمی کے نام سے ع سر جدا کرد از تنم شوخیکہ

با ما یار بود + قصہ کوتہ کرد ورنہ درد سر بسیار بود + مخلص کاشی - چون آمد
مہ زکوۃ عید فطر + بار اول کن سر مخلص جدا +
سر جنبانیدن - سر ہلانا - بحالت تعجب کے یا ممانعت سے پیش آنا
کسی امر میں - نظامی - ملک در سراپاے آن جانور + ببصرت
ہمی دید و جنبانید سر +
سر چراغ افگندن - چراغ کا گل اتارنا - صائب - نورے
نماندہ است بچشم ستارگان + افگندنی شدست سر این چراغہا +
سر چین - خلاصہ اور برگزیدہ - مفید بلخی - بسکہ دارد در پریشانی
نزاکت کاکلش + ہر کجا آشفتگی را دید سرچین میکند +
سر حرف باز کردن - شروع کرنا بات کرنا - محمد قلی سلیم - بدل پر
از شکایت سر حرف باز کردم + تو عار گوش با من کہ سخن دراز باشد +
سر حرف برداشتن - کسی سے فائدہ حاصل کرنا - محسن تاثیر - با اہل ہنر
نشین و طرفے بردار + از کیسۂ عمر نقد صرفی بردار + در معرکہ ہنر بہ ہر بیہودہ
سخن + با تیغ زبانی سر حرفی بردار +
سر خارہای جہان تیز کردن - اپنے آپ پر گمان نیکوکاری کا
رکھنا - اچھا سمجھنا - محمد سعید اشرف - خدایا تو بے چیز با چیز کن +
سر خارہاے جہان تیز کن +
سر خاریدن - سر کھجلانا - لطف کرنا - تسلی دینا - توقف و بہانہ
کرنا - حیلہ حوالہ کرنا - لیت و لعل کرنا - فردوسی - بدستان بگو آنچہ
دیدی بکار + بگویش کہ از آمدن سر مخار +
سرخ شدن - افروختہ ہونا - غضب میں آنا - میرزا ہاشم مجذون
بیضہ را عمر گذشتم با من از من مکدر شد + لبش را لعل خواندم سرخ
چون یاقوت احمر شد +
سر خود خوردن - مرتکب کسی ایسے امر کا ہونا جس میں خود ضرر
اور تکلیف کا ہو - اور ہلاک ہونا - ع مہر زن بر دہن خندہ کہ در بزم جہان
سر خود میخورد آن پستہ کہ خندان گردد +
سر خود گرفتن - سر - یعنی خیال اپنا پکڑنا - کسی چیز کو تمام چھوڑ کر
چل دینا - صائب - سر خود گیر ز درگاہ بہشت ای رضوان + کہ ز اہل کرم
نیست بدربان محتاج +
سرخ و زرد از خجالت شدن - شرمندگی کے سبب سے حالت
بدل جانا - طرح طرح کا رنگ بدلنا - محمد سعید اشرف - گلزار جہان را
کہ بہار و گہ خزان + سرخ و زرد از خجالت رو تو گردد ہر زمان +
سر خویش گرفتن - سر خویشتن گرفتن - الگ ہونا -

علیحدہ ہونا اپنے گھر کو جانا۔ سعدی برو ہر چہ می بایدت پیش گیر + سرما نداری سر خویش گیر + ابو طالب کلیم با عارض تو چہرہ شدن حد شمع نیست + گریان ز بزم رفت و سر خویشتن گرفت +

سر دادن ۔ چھوڑ دینا ۔ چلانا تیر اور توپ اور بندوق کا ۔ گولہ مارنا منتر پھونکنا محمد قلی سلیم ۔ نسبتی در عاشقی ما را بمرغ بسمل ست + تا ز ما صبا دسر نگرفت ما را سر نداد ابوالفضل چون زلف تو ریزم جنونی + چشم تو سرو ہم فسونی +

سر داستان ۔ ابتدا ہر ایک داستان کی اور وہ تمہید جو سرخی سے لکھی جائے میرزا رضی دانش ماہست حرف زلف تو سر داستان ما + پیچیدگی برون تر ود از زبان ما +

سر داستان کشادن ۔ قصہ شروع کرنا باقر کاشی در دل ما شنیدنی نیست + مکشا سر داستان ما را +

سر داشتن ۔ ارادہ رکھنا ۔ خواہش رکھنا ملا وحشی عتاب آلودہ آمد بادہ بر سر دست بر خنجر + کرامی بیگنہ را میکشد دیگر چہ سر دارد +

سر در جہان گرفتن ۔ سر در جہان نہادن ۔ اپنا شہر اپنا گھر ۔ اپنا مکان چھوڑ کر کہین نکل جانا ۔ سعدی نہ بدہ مرد سپاہی را تا سر بنہد + و گرش زر ندہی سر بنہد در عالم + میر خسرو لشکر شیہ عشق و ظلم ترک جان گرفت + صبر گریزپاے سر اندر جہان گرفت +

سر دزدیدن ۔ سر چرانا کسی امر سے اپنے آپ کو بچانا صائب بگریبان تامل سر خود دزدیدن ۔ صدف گوہر یکدانہ خاموشان ست +

سر زخم مالیدن ۔ گوشمالی دینا ۔ ہوش مین لانا ۔ غرور و تکبر سے باز رکھنا ۔ میر محمد افضل ثابت ۔ سر زخم قلم کسی نمالید + ہمر شش بہوای تو نشان رفت +

سر زدن ۔ کوشش کرنا تلاش مین رہنا فعل کرنا اور ظاہر ہونا کسی امر کا ۔ نظامی درین رہ کہ سر بر دری میزنم ۔ پا مسید تا جی سر سے میزنم + میر خسرو سر بازوی لبسی سر سخن ہم زن از طفیل + از سر رواج وہ روش کار خویش را +

سر زمین ۔ زمین ۔ دھرتی مشہور لفظ ہے میرزا عبد الغنی شمن چرا بجون بنشیند زکین ما + کز آب تیغ سبز شود سرزمین ما +

سر سخت خوردن ۔ سختی اٹھانا ۔ تکلیف پانا محمد سعید اشرف عدو از کفت گز یک لخت خورد + ز سر سختی آخر سر سخت خورد +

سر سوزن ۔ مقدار قلیل بہت تھوڑا مقدار نظامی ۔ گرافتد پریشان سر سوزنے + وہن را کشاید چون روزنے +

سر شیشہ باز کردن ۔ شراب پینے کے لیے شیشہ کا منھ کھولنا باقر کاشی چہ خوش است و بجو و بتو شرح راز کردن + بتو رو برو نشستن سر شیشہ باز کردن +

سر قلیان ۔ چلم جسپر تنباکو رکھ کر اور تنباکو پر آگ دھر کر نے پر رکھتے ہین اور بذریعہ نے کے دھوان اسکا کھینچتے ہین ملا فوقی یزدی حسن وہمی کی مدح مین ۔ کہ سر قلیان طبع آن شکر ریز بود لبریز تنباکو ی رس انگیز +

سر کشادن ۔ بالون کو کھولنا کسی کے ماتم مین زمانہ غیر موہی پریشان جو ہر شمشیر + تنہا بمرگ شہیدان سری کشودہ شود +

سر کن پرکن ۔ جلد و شتاب و سراسیمہ و حیران محمد سعید اشرف امشب کہ مرا یار بمنزل آمد + از مقدم او مراد حاصل آمد + از دو نباشد رقیب افتان خیزان + سر کن پرکن چو مرغ بسمل آمد +

سر گران ۔ مخمور و مست و بد دماغ سعدی ندیم کسی سر گران از شراب + ولیکن خرابات و ندیم خراب +

سر گرفتن ۔ سر اتار لینا میرزا صائب دوش مجلس از زبان شکوہ ام در میگرفت + کاش این شمع پرشیار کسی سر میگرفت +

سر و پا گم کردن ۔ حیران و پریشان ہونا ۔ میر خسرو فرستادن پاسخ نغز وار + سر و پا سے گم کردی مغز وار +

سر و دستان یاد دادن ۔ بھولی ہوئی بات کسیکو یاد دلانا جبر سے اسکی آسایش مین خلل آئے سفا خر حسین ثاقب بذوق نالہ امروز میتوان جان داد + کہ عندلیب سرودی بیاد دستان داد +

سر بتو ۔ سر نگون و متفکر و حیران حیلہ گر و مکار و فریبی باقر کاشی ۔ گر دو نم از مہ بلند ترست + بعد ازین سر بتو ہی خود نبرم +

سرخ مرو ۔ یہ ایک سبزہ ہے جو کھانے مین آتا ہے ہندی مین اسکو لال ساگ کہتے ہین شاخ اسکی سرخ ہوتی ہے اور پتی سبز ۔ سپید مرو کو ہندی مین چولائی کہتے ہین بعض کے نزدیک یہ سبزہ سوا لال ساگ و چولائی کے ہے ۔

سر دارو ۔ وہ سفوف جو کسی جوشاندہ پر چھڑک کر جوشاندہ پیا جائے فوقی یزدی ۔ معدہ جانرا ز اخلاط تعلق پاک کن + گر ترا بخشنے ز سر داروی حکمت دادہ اند +

سر داشتن ترازو ۔ ایک پلہ بھاری ہونا ترازو کا برابر نہ ہونا ہم غلط سنجیدہ منصور میرزا حق گویا + بلی ہم غلط سنجید ترازو ئے کہ سر دارد +

سردرو - غمگین متفکر و متحیر و ناخوش ملا مفید بلخی امشبم شیشہ بی می ناب ست + سر درو تر زبرف مہتاب ست +

سرآوازہ - راگ کو الاپنا۔ شروع کرنا ملا طغرا لب از صوت تعریف او تازہ باد + ز وصفش ترنم سرآوازہ باد -

سرراہ - کام کا سرانجام ہونے والا ملا طغرا درباب جمع مردم دربار بادشاہ + زبیگونہ گشت خامہ تحریر سرراہ +

سرِ بصحرا دادہ - وحشی و دیوانہ جنگل مین رہنے والا صائب سر بصحرا دادہ چشم سیاہ لیلی ام + چشم آہو حلقہ زنجیر مے باید مرا +

سرپوشیدہ - عورت جو پاکرہ ہو صائب دران محفل کہ مردان کلاہ از ترک سر پا شد + ز سرپوشیدگان ست آنکہ پا و ستار مقصد

سرخ و سیاہ - نیک و بد۔ اسلام و کفر وغیرہ صفدر فوقانی رنگہا دارد گلستان جہان + دل ہمہ اصلا برین سرخ و سیاہ +

سروستارچہ - کلغی جو سر پر رکھتے ہین میر خسرو زان سروستارچہ بی بہا + ورد دل بدخواہ نیستی ریشہا +

سرزدہ - ملامت کیا گیا۔ گردن مارا گیا۔ سر کوٹا گیا جیسے کہ مار سرکوفتہ - ملا طغرا۔ آید بخندہ راز جمال تو سرزدہ + گر شاخ گل گرہ نزند پاسے غنچہ را +

سرزندہ - بڑے سروالا۔ صاحب عزت۔ جوانمرد دولتمند محمد سعید اشرف ویدیم وضع اشرف بی ساز و برگ را + سرزندہ بنرم بخیر از کدو نداشت +

سرگذشتہ - جان سے سیر۔ زندگی سے تنگ صائب از سر گذشتہ اند کریمان این زمان + کو سرگذشتہ کز دستار بگذرد +

سرگرفتہ - محجوب و غضبناک حافظ آن شمع سرگرفتہ دگر چہرہ برفروخت + وان پیر سالخوردہ جوانی زسر گرفت +

سرگروہ - رئیس جماعت کا۔ مقدم - سردار۔ افسر مثنوی فرمانروای تاجداری + رئیسی سرگروہ اہل اسلام +

سرماسوختہ - جو درخت بسبب سردی اور برف کے جل جائے صائب نماند از سر و مہر بہای ور جگر آہی + درختی را کہ سرما سوختہ دود از بنی آید +

سرآوردن خبری - اخیر پر پہنچانا کسی چیز کو صائب ابتشی برآرد نو بہار زندگانی + چو زنبور عسل آنرا کہ منزل مختصر باشد +

سرآوری - گردآوری و خبرگیری نعمت خان عالی اگر بیجا دل اعضا ہمہ بحال خود اند + کند سرآوری گلہ ہا شبان تنہا -

سرفرازی - سربلندی عزت۔ آبرو درویش الہروی عشق راہست منصور سرفرازی داد + ترک سر کردن کرون سر و سامان دادش +

سربازی - سر قربان کرنا فدا ہونا۔ صائب ز سربازی درین گلشن چنان خوشوقت میگردم + کہ میرقصم چو گل در دامن گلچین زر خود را +

سرپائی - جماع و مباشرت نعمت خان عالی ایک فاحشہ کے قصہ مین - در گشودن باعث رسوائی ست + گرے مجال سستک و سرپائی ست +

سرپرستی - کسی حالت کی خبر رکھنا - تیمار حال کرنا سوگ قطب شاہی ہمہ جائی گردد + از طرف کلاہ تو ہوائی گردد + زینسان کہ بسر پرستی اوج گرفت + جاوارد اگر فلک زجائی گردد +

سرتراشی - بال منڈوانا جسکو ہند مین حجامت کرانا کہتے ہین حافظ ز ز نکتہ باریک تر ز مو اینجاست + نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند +

سرخیرگی - پریشان حالی و پریشانی و باطل اندیشی نظامی بسر خیرگی فتنہ بر بستہ موی + سوی بار جنگاہ تو آورد روے -

سرزدائی - تلوار۔ خنجر وغیرہ سلاح جس سے آدمی کا سر کٹ سکتا ہو۔ بابا فغانی - تیغ زبان عارفان زنگ گرفت ہمچنان + عشق تو جلوہ میدہد خنجر سرزدائی را +

سرسختی - سرکشی و تکبر و غرور و نافرمانی شفیع اثر زشمشیر شش عدو گر خبر بود + نمی کرد اینقدر سرسختی از خود +

سرشوئی - سر کو دھونا اور وہ چیز جس سے سر کو دھوئین نظامی زمین را ز چرخ عنبر کنیم + بسر شوئی شادی سگلے تر کنیم -

سرگرانی - وہ شخص جسکا سر پھرتا ہو اور باعث سر پھیرنیکا فردوسی زمین از گرانی شدہ سرگراسے + کہ بیچارہ گشت از پی چار پاسے +

سرگوشی - کان مین بات کرنی عنایت خان آشنا نادگر بیرسم چو می آرد + زلفنا و یار گرم سرگوشی شت +

سین با سین

سست وفا - جسکی وفا بہت کم ہو اور اسکے قیام پر اعتماد نہو لغت چون بہار گلست سست وفا + پس چرا بست دل براو بلبل + تا گہان چون خزان بہار اشم آید + نظر آید نہ گل نہ نکہت گل +

سست بخت - بدبخت - کم نصیب - مفلس - نادار فوقی نا کرد سست حق چون صاحب بخت + نظر فرما بحال سست بختان +

سست پیوند - کمزور - کم طاقت - کم ہمت میرزا صائب بیکی اشارہ گرہ سستی پیدا از ابرو + فغان کہ بند قبای تو سست پیوند است +

سست عہد - جسکے قول و اقرار پر اعتبار نہو اور اپنی بات پر ٹھہرا نہ رہے **صائب** برچرخ سست عہد منہ دل ساده گی + طاق شکستہ نیست سزاوار شیشہ را +

سست انگیز - جو بڑھنے اور نشو و نما پانے مین سست ہو **میر الہی** ہست مردانہ آبستن کند لب را بجلوہ + بہر زمین لذت نباشد نخل سست انگیز را +

سست ریش - احمق و بیوقوف و نادان **مولوی معنوی** سخت ور باشد آن امیر سست ریش + چون نہ بیں بیند نہ پیش از احمقیش +

سست رگ - جو کام کرنے مین سست ہو **ف** مدار کار جہان منحصر بود پی ہیچی ست + ترا بحلق نزیبد کہ سست رگ باشی +

سست عزم - جسکے عزم و ارادہ مین سستی ہو **صائب** مردان عنان بدست توکل نداده اند + تو سست عزم در گرو استخاره +

سست پیمان - جسکے اقرار پر اعتماد نہو **نظامی** گزین آمدن شد پشیمان شد ست + ز سختی کشی سست پیمان شد ست +

سست پی - **سست کوش** - جس شخص کو کام کرنا مشکل ہو جائے کمزور و کم طاقت ہو **نظامی** من از تخمہ بہمن و پشت کے + کجا از سر سم ازو ره ی سست پیسے + **نورالدین ظہوری** رنج طلب ست اصل حصول + سختی کشد آنکہ سست کوش ست +

سست رای - بی عقل - بیوقوف - نادان **نظامی** چو بر ہستی تو سوگند است + ببین بحجت انگیختم دلکشاہی +

سست مہاری - سست باگ ہونا - ڈھیلی باگ ہونا **اوحدالدین انوری** - باجراءت سپہر سست مہار + باحسودت زمانہ سخت لگام +

سین با عین

سعادت سنج - نیک بخت صاحب سعادت **میر خسرو** سنج دانی کہ چند بردم رنج + تا ز روست شدم سعادت سنج +

سعادت مند - صاحب سعادت - صاحب نکوئی **ف** ہر کہ مستحکم بحق پیوند کرد + خویش را مرد سعادتمند کرد +

سین با فا ی

سفره شطرنج - وه بساط جسپر شطرنج کھیلتے ہین **شفیع اثر** سفره شطرنج انجم را بپاس از یکدگر + در دریزان استخوان بوسیده با را از کنار +

سفلہ نہاد - جسکی سرشت مین فرومائگی اور سفلہ پن ہو **عرفی** گرچہ سختی کشم از سفلہ نہادان تا خیر + ورچہ بر صدر نشینان بنہایم تقدیم +

سفتہ گوش - محکوم و مطیع فرمان بردار **نظامی** من آن سفتہ گوشم کہ خاقان چین + زنا سفتگان کرده بودم گزین + **ولہ** ترا ہست چون من بسی سفتہ گوش + بجو نیز چون من بہ تندی مکوش +

سفر خشک - جس سفر مین کچھ فائده نہو -

سفتن - پرونا - سوراخ کرنا کسی چیز مین **ف** سخنہای ناگفتنی گفتہ شد + گہرہای ناسفتنی سفتہ شد - **محمد جان قدسی** زمین چون غبار از جہان رفتہ شد + ز ناوک چو سوزن سنان سفتہ شد +

سفره دوری - دوستون کی ضیافت جو بار بار اور نوبت بنوبت ہو - اور دستر خوان جو مدور واسطے کھانا کھلانے کے بنایا جاے **محسن تاثیر** بلکہ غرق نعمت الوان حسن آن گلم + سفره دوری ست گوئی آشیان بلبلم +

سفینہ دریائی - وه کشتی جو دریا پر چلتی ہو - **میرزا صائب** ز حسن شوخ تو نظاره تماشائی + سفینہ ایست کہ گرد یده ایست دریائی -

سین با قاف

سقایہ حاج - سبیل پانی کی جو حاجیون کے واسطے قائم کیجاے **زکی ندیم** بدفع غم دو سہ پیمانہ میدہد ہیہیم + سلسلست لب ساقی کنون سقایۂ حاج +

سقر لاط دوز - بنات کا سینے والا **طاہر وحید** چہ گویدکسی از سقرلاط دوز + دران روی شمع شبستان فروز +

سقف نہم ترک - ایک قسم کی بکلف چھت کا نام ہے **جمال الدین سلمان** گر شود ناظر بسقف نیم ترکت آسمان + بر زمین افتد کلاه از فرق ترک نہچین +

سقط چین - ریزه ہر چیز کا جو جمع کیا گیا ہو **حکیم شفائی** عاکئی ہچو من اول از دخل سخت کو ہیم و نا انصافی + باز افسردگی شعر سقط میسگویم +

سقیفہ بستن - کسی پر بہتان باندھنا - دروغ تہمت قائم کرنا - **نورالدین ظہوری** - ہر کہ خواه نشین داستان چرا بندم + سقیفہ سازی طبع سخن طراز گذشت +

سین با کاف

سکہ درست - شخص راست معاملہ بے نفاق جسکا قول و فعل دونون یکسان ہون **شفیع اثر** - ہر کجا سکہ درستی ست چو زر در عالم باشد از ادیش از سیلی ایام محال +

سگ لوند - یہ نام ایک مسخرے کا تھا جو عہد سلاطین صفویہ مین صاحب اقتدار تھا یہ شعر اسکا ہے شعر سحر آمدم بکوبت کہ شکار رفتہ بودی + تو کہ سگ نبرده بودی بچہ کار رفتہ بودی +

سکتہ ور - جسکو سکتہ کی بیماری ہو - **درویش والہ ہروی** پایی خروم ز سنگ جہال + اشرح شد و سکتہ ور شد اقوال +

سگ جگر - جو شخص موذی و مردم آزار ہو خاقانی استخوان
پیشاش کنم غم را + زانکہ غم مہمان سگ جگرست +
سگ خاموش گیر - جو کتا چپکے سے ٹانگ پکڑ لے صائب ایکہ
از شغل عمارت غافل از دل گشتہ + از سگ خاموش گیر خاک غافل گشتہ +
سگسار - جو دنیا کا طالب ہو اور معنی اسکے کتے کے مانند میر خسرو
فضول چند کنم کز درت زدن دم عفو + نہ حد خسرو مردم نماے
سگسار ست +
سگباز - کتا پالنے والا کتے کے ساتھ کھیلنے والا میرزا طاہر وحید
اگر بود سگباز از اہل ورد + چرا با سگ خویش بازی نکرد +
سگ دنبالہ کش - پیچھے پیچھے آنے والا کتا شانی تکلو چند در بند
کمند نظر خود باشی + سگ دنبالہ کش چشم تر خود باشی +
سگدل - جو شخص کتے کے سے خواص رکھتا ہو نظامی گر آزرم
خواہم ازین سگدلان + نخواند غافل مرا عاقلان +
سگ چار چشم - وہ کتا جو دو خال سیاہ اسکی آنکھوں پر ہون
اور آنکھوں مین نور کم ہو قدسی سگ نفس را رفتہ از کار چشم + تو
از عینکش کردہ چار چشم +
سکندر خوردن - سکندری خوردن - پھسل جانا گھوڑے کے
اگلے پاؤن کا اور گر پڑنا - بعض کے نزدیک ٹیڑھا ہونا پچھلے دونون سموں کا
دوڑنے مین اور گر جانا میرزا مقیم جوہری - نصیب قسمت من کرد
جوہری اینجا + کہ نیست روزی او جز سکندری خوردن +
سکہ بزر زدن - سکہ بزر کردن - وعدہ پورا کرنا - زبان سے
کہکر اسکے برخلاف نکرنا محتشم کاشی تا قیامت احتیاج مردم عالم
باوست + ہر کہ کار خویشتن را سکہ بزر میکند محمد سعید اشرف گفتہ بودی
کہ کنم ترک علائق اشرف + چونکہ گفتی سخنی سکہ بزر باید زد +
سگالیدن - اندیشہ کرنا - سوچنا - فکر کرنا - میر معزی خویشتن را
ہم بدست خویشتن کشت ای عجب + آنکہ با تو بد سگالید و ز تو باز استاد
سگبان - وہ آدمی جو کتے کی خبر گیری پر مقرر ہو سیفی بسکہ از دلبر
سگبان شدہ ام و شیفتہ + میروم در پی او چون سگ گردن بستہ +
سگ جان - جس شخص کی عادت کتے کی سی ہو خاقانی عقل سگجان
ہو اگرفتہ چو باز + کاین سگ باز چون شکار گرست +
سگ در پوست داشتن - موذی و بد نفس ہونا -
سگ دندان - جو شخص بد مزاج ہو اور ہر کسیکو کاٹنے کو دوڑے سہ
بوقت غصہ کو باشد سزاوار + کہ سگ دندان بود انسان نادان +

سگ زن - ایک قسم کا تیر ہے جسکا پھل نہایت تیز و باریک ہوتا ہے خسرو
ہم از وی ست روا قفص نشانہ لعنت + کہ ہم سگ زن ست پریشان
ستر انہ نکہار ست +
سگی کردن - ظلم کرنا - بیرحمی کرنا - بی انصافی کرنا سہ مناسب نیست
کار آتش از خاک + سگی کردن نشاید آدمی را +
سگالیدہ - اندیشہ کیا گیا - سوچا گیا سہ گرہ زین از سپہر کہن
نا سگالیدہ ہیچ کار مکن +
سگ بوزنہ - وہ کتا جسپر بندر کو سوار کرتے ہین جیسے کہ ہندمین بندر
بندر کو بکری پر سوار کرتے ہین اسیطرح ایران مین کتے پر سوار کرتے ہین
سگ پا سوختہ - کتا جسکے پاؤن جلے ہوئے ہون اور ایک جگہ قرار
نہ پکڑے ایسے ہی آدمی ہرزہ گرد و دربدر پھرنے والے کو سگ پا سوختہ
کے ساتھ تشبیہ دیتے ہین محسن تاثیر دید یا صنیکہ سخن زان رخ افروختہ
لالہ بیرون ز چمن چون سگ پا سوختہ رفت +
سکان کشتی - کشتی کے دنبالے نور الدین ظہوری بحکم وزای تو آنا
ستوان کردن + برای کشتی افلاک لنگر و سکان +
سکہ خوردن - دعوی قائم اور درست ہونا دعوی کا نور الدین ظہوری
ظہوری کہ خود را اطلاعی شمرد + درین گفتگو دعویش سکہ خورد +
سکہ زدن - مضروب کرنا روپیہ پیسہ کا نقش ضرب محمد شاہ
سکہ زد بر ہفت کشور سایۂ فضل الہ + حامی دین محمد شاہ عالم بادشاہ +
سکہ مردی - مردی کا نشان مرد کی داڑھی وغیرہ جیسے آبرو محسن تاثیر
چو بے زر پیش کس ریشی ندارد خواجہ جا دارد + کہ جا ست سکۂ مردی
شمارد سکۂ زر را +

سین با لام

سلام روستائی بی طمع نیست - مثل ہے یعنی کوئی کام دنیا
مین بے طمع نہین قطعہ از مولف تعلق با ہمی و کار و بار سے +
بشاہی و گدائی بی غرض نیست + نباشد بی طمع قربان شاہان +
سلام روستائی بی غرض نیست +
سلاح شور - سلاح دار - سپاہی بہادر - لڑیا - ہتھیار
پہننے والا - سعدی چہ خوش گفت آن تہیدست سلحشور + جوی
زر بہتر از پنجاہ من زور +
سلسلہ دار - جو شخص کسی سے ملازمت وغیرہ کا تعلق رکھتا ہو امیر خسرو
سلسلہ دار ور گشت از سر تا تن قدم + بست طراز عبیدہ تاج
فراسیاب را +

سلسلہ پروانہ - صاحب سلسلہ و متعلق صائب دریا بار نیم جان
سلسلہ پروازی نیست + روزگاری ست درین دائرہ آوارگی نیست +
سلسلہ زلف - سلسلہ موی - وہ معشوق جسکے بال زلفون کے
سلسل و زنجیر دار ہون جمال الدین سلمان - منم ز شوق تو دیوانہ
تا تو سلسلہ زلفی + شدم ہوای تو آشفتہ تا تو غالیہ موی طالب آملی -
عدوم خراب زہر جبینان دیلم اند + طالب اسیر سلسلہ مویان تاشکست +
سلام تفنگ - سلام توپ - وہ سلامی توپ و تفنگ کی
جو ہر وقت کنارے پر لگنے جہاز کے بندر پر اتاری جاتی ہے عبد الغنی
قبول - بکیش حق طلبان طرح آشتی جنگ ست + کہ ضرب توپ
سلام ہست اہل دریا را +
سلاخی کردن - کسی کا چمڑا اتارنا - پوست کندہ بات کہنا
بی رعایت تقریر کرنا -
سلسلہ جنبان - تعلق پیدا کرنے والا - ذریعہ قائم کرنیوالا
سلسلہ ہلانے والا صائب باد بہار سلسلہ جنبان صحبت ست
موج شراب دام پریزاد عشرت ست +
سلطنت راندن - حاکم بادشاہ فرمان فرما سعدی کی سلطنت ان
صاحب شکوہ + فرو خواست رفت آفتابش بکوہ +
سلطنت کشیدن - فرمانبرداری کرنا - میر معزی ایزد اوند کہ گردون
باہمہ فرماندہی + سایہ شد از بندگانش سد سراران سلطنت +
سلام ترازو - سلام پلہ - جھک جانا ترازو کا مخلص کاشی
نکتہ سنجان راست تعظیم سخن فہمان ضرور + زانکہ دارد از ترازو
مشتری چشمی سلام +
سلامانہ - وہ روپیہ وجہ نذر و سلام کے دولہا کو عروس کے
گھر والون سے ملتا ہے محسن تاثیر یک نظر دور گران حسن سلام بہ بند
حاصل باغ جنان را بسلامانہ برد +

سمن عذار - محبوب کی صفت مین بولتے ہین صائب چون استرہ باد
ور تراش ست + ہر چند جہان سمن عذارست +
سمن ساق - محبوب کی تعریف مین بولا جاتا ہے سالک یزدی بخشد
بجنگل مستان + جام می ساقی سمن ساقی +
سمن اندام - سمن بر - سمن خد - سمن بناگوش - سمن بوی -
یہ جملے محبوب کی تعریف مین بولے جاتے ہین - صفدر فوقانی گل از
گلزار حسنش گل بچیند + چو روی آن سمن اندام بیند + صائب
نیلی ز تماشائش شود پیچ سپہر + این فاختہ از سر و گل اندام گل گرد + میر رضی
ہزار شکر کنم دولت موید را + کہ باز داد بمن دولت سمن خدرا + خالد بن
ربیع - در خواب از ان سمن بناگوش + تشریف خیال یافتم دوش + مؤلف
باج حسن نیلوا ختری مہری و مہر ولی + باغ در گلرنگی سہی سروی سمن بوئی +
سم بارگی بر سر خون کشیدن - دشمن کے مارنے کے لیے سوار ہونا
نظامی - جناح سپہ را بگردون کشید + سم بارگی بر سر خون کشید +
سمنستان - باغ گلزار - پھولون کا کھیت خاقانی اندر سم
زر سم اطلس از کیسہ سیم + وستم سمنستان بہر لالہ زار کرد +
سموم آفرین - سمومستان - گرم ہوا کا پیدا کرنے والا جنگل -
اور جس جگہ گرم ہوا ہو طالب آملی - گلزار ما سمومستان قیامتست
آب و ہوا دوا سپہ گریزد ز باغ ما + قاسم مشہدی باین نگاہ سموم آفرین
بفصل بہار + اگر نظر بہ چمن افکنی خزان گردد +
سم افگندہ - عاجز و در ماندہ چلنے سے ناچار - ذوقی زمیدان جو
ہوا اسپ خویش + اگر پہلوانی سم افگندہ دار +
سمن سینہ - معشوق کی تعریف مین کہا جاتا ہے نظامی ببرد رگرفت
آن سمن سینہ را + ز رو گوہر برداشت گنجینہ را +
سمن سای - زلف کی تعریف مین لکھا جاتا ہے شاپور بالین
سر سلیم کہ در پای تو دارد + عالم خطر از زلف سمن سای تو دارد +

سین با سین

سمن سیما - خوبصورت پیشانی معشوق کی تعریف مین کہا جاتا ہے
صائب - دمید خط ز بناگوش آن سمن سیما + غریب شامی از صبح گاہ
پیدا شد +
سمن غبغب - معشوق کی تعریف مین کہا جاتا ہے نور الدین ظہوری
منظر حبیب سمن غبغبان + از و لب چشمی کام شیرین لبان +
سمن راز - گلزار - باغ جسمین پھول ہون - میر خسرو بہشت
بسمن زار ہا + کور شد از دیدن آزار ہا +

سین با نون

سنگ آسیا - چکی کا پتھر مشہور ہے ملا شانی تکلو بدبودی
گر قیامت سم بمہر ار گند ہم + چو سنگ آسیا میگردم ہم چرخ نگون برسر +
سنگ آمدن پا - یعنی سنگ آمدن پا پتھر پر پاون آجانا
ٹھوکر لگنا - وا نہم سنگ آمدن پا رہرو براہ + گوئی کہ در بریدن
راہ توشہ ام +
سنگ سودا - ایک سیاہ رنگ پتھر کا نام ہے جس سے لوگ پاون
کے صاف کرتے ہین سنگ پا بنا لیتے ہین قدسی ہر پائی خود کسی آن بدستم مبکرفت

گر دو بین گرما بہ من ہم سنگ سودا بودمی +
سنگ صندل سا - وہ پتھر جسپر صندل کو رگڑین صائب
پیش ازین رو سے دو عالم در دل ویرانہ بود + کعبہ اول سنگ
صندل سای این بتخانہ بود +
سنگ محتسب - وہ پتھر جس سے محتسب شرابخانہ مین جاکر
شراب کے شیشے توڑ ڈالتے ہین رضی دانش تہنیت گویند
مستانراکہ سنگ محتسب + بر دل من آمد و این آفت از مینا گذشت +
سنگ بست۔ **سنگ بستہ** - نہایت مضبوط اور مستحکم
اور جو چیز کسی مضبوط عمارت کے اندر لگی ہو۔ **نظامی** سنگلے
کا چنین گوہر سنگ بست + بسختی توان آوریدن بدست +
سنگ تربت - وہ پتھر جو قبر پر لگایا گیا ہو خواجہ آصفی
وصیت ستم سنگین دلان بفریاد ہم + کہ مردن از من و تربت سنگ تربت باز دو +
سنگ جراحت - مشہور پتھر سفید رنگ ہی جسکو پیس کر
زخم پر ڈالتے ہین تو زخم اچھا ہو جاتا ہے خسرو جو نبوری دیوانہ
عشق ترا ہر رنج راحت میشود + سنگ گر آید بسر سنگ جراحت میشود +
سنگ قناعت - وہ پتھر جو بھوک کے وقت پیٹ پر باندھ
لیا جائے چنانچہ یہ رسم رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کے وقت
جاری تھی محسن تاثیر سنگ قناعت ما سنگ نشان باشد +
ورنہ بسر رفتی آسان رہ توکل +
سنگین دست - وہ جو اچھی طرح کام نہ کر سکتا ہو سست
و کاہل ہو میرزا صائب - بی ستون را تیشہ ام در حملۂ اول گرفت
نیست با من نسبتی فرہاد سنگین دست را +
سنگ لاخ - کنکر اور وہ زمین جسمین کنکر ہون **نظامی** حضور
تو در صوب این سنگلاخ + دیار لشکر شد فراخ +
سنگ بربالای سنگ نمیماند - سنگ برسنگ نمی ایستد -
سخت ہنگامہ اور ہجوم ہین جو پتھر پر پتھر نہین رکسکتا سلیم
بکوہ آر دہیبت و گر آہنگ + نہ ایستد سنگ انجا بر سر سنگ +
سنگ را سنگ می شکند - پتھر کو پتھر توڑتا ہے یعنی
سختی بسختان در زمانہ + کہ آخر بشکنی تو سنگ با سنگ +
سنگ مسجد - وہ پتھر جو مسجد کو لگا یا گیا ہو صائب بتنا را
ز دل چون سنگ مسجد وور میسازیم + اگر دانی ہمہ مطلب تا
در پے مدعا بودن +
سنبل زار سنبلستان - باغیچہ سنبل کا - ظہوری

گھوڑے کی تعریف مین - زرافشاندن سنبلستان عیال +
پر از نافہ جیب صبا و شمال + **ولہ** نکہت یکبار مو بر خلق عالم تنگ کرد
تا نگوید کس کہ در تاتار سنبل زار نیست +
سنجیدہ گفتار - جسکی باتین خوش اور خود وہ شیرین کلام ہو
صائب - جو آید در سخن لعل لب سنجیدہ گفتارش + زبی مغزی
گہر بر روی دریا چون حباب افتد
سندان گذار - وہ تیرانداز جسکا تیر سندان یعنی لوہارون کی اہرن
سے نکل جائے میر خسرو ترک خدنگ افگن سندان گذار + ہر سہ
شیرافگن و اژدر شکار +
سنگ زور - وہ پتھر جسکو صاحب زور آدمی ریاضت بدنی کے لیے
اٹھا کر سر تک لاتے ہین پھر زمین پر پھینک دیتے ہین - ہندی مین اسکو
مگدر کہتے ہین **صائب** بود کوہ بی ستون فرہاد را گر سنگ زور
از دل سنگین خوبان ست سنگ زور من +
سنگ سر مزار - پتھر جو قبر پر لگایا گیا ہو مسیح کاشی ای غم بیکران نیست
حاصل روزگار من + کوہ گران درد تو سنگ سر مزار من +
سنگ انداز - قلعہ کے کنگرون مین جو سوراخ دیوارون کے اندر
رکھے جاتے ہین اور ان سوراخون سے قلعہ والے دشمن پر گولی گولہ پتھر
مارتے ہین محمد عصار قلعہ کی صفت مین ز سنگ اندازان سنگلے
کہ جستی + پس از رفتے سر کیوان شکستے +
سنگریز - جس پتھر پارے جائین اور ناامید محروم **نظامی** گہی
باچنین گوہر خانہ خیز + جو بوطالبی را کہی سنگریز +
سنانکش - نیزہ دار نیزہ برچھی **نظامی** سنان کش یکی نیزہ
سی ارش + بر آب جگر یافتہ پرورش +
سنگ آتش - سنگ چقماق جو مشہور پتھر ہے رضی دانش
جلوۂ معشوق ہے پاہم از ہر شعلہ + سنگ آتش انگار ظہر آوردہ اند +
سنگ بالش - **سنگ بالین** - وہ پتھر جو سر کے نیچے رکھ کر
سو جائین محسن تاثیر - زشیرین سر کند شتی کشتہ سنگین خواب پشیمیم
بکوہ بیستون ہمدا ندا دار دو سنگ بالینم + سعدی بیا تا درین شیوہ
چالش کنیم + سر خصم را سنگ بالش کنیم +
سنگ تراش - وہ شخص جو پتھر کا کام کرے -
سنگ داغ - وہ پانی جسمین پتھر گرم کرکے بار بار ڈالین تاکہ
پانی صاف ہو جائے میرزا طاہر وحید در رہگذار جانان خورشید
سنگ داغ ست + رخسار و لب من ہم چشم و ہم چراغ ست +

سنگدل - بیرحم و جفا کار ظالم صفدر خوقانی رحم بر تو خدا نخواہد کرد + گر تو بیرحم و سنگدل باشی +

سنگ صنم - جس پتھر کا بت بناتے ہین صائب در دل سنگ صنم نقط شرار افتادہ ست + تا بمبر گرمی من برہمنی ساختہ اند +

سنگ کم - ترازو کا باٹ جو مروجہ وزن سے کم ہو صائب مہیا شو والا ورعشق انواع محبت را + کہ سنگ کم نمی باشد ترازوی قیامت را +

سنگ خوردن - پتھر کھانا - پتھر لگنا - قدسی اگہ نیم کہ سنگ کجا خوردہ شیشہ ام + دانم کہ دل شکست و ندانم کجا شکست +

سنگ در آب افگندن - ایک جگہ ٹھہرے رہنا - ایک جگہ سے کہین نہ جانا نظامی - گرم سنگ در آبی نہی در جواب + چو کوہ افگنم سنگ خود را در آب +

سنگ در دہان انداختن - خاموش ہونا چپ ہونا صائب بنفشہ پیش خطت قفل بر زبان انداخت + گہر ز شرم لبت سنگ در دہان انداخت +

سنگ در سم بودن - سنگ در موزہ افتادن - حرکت سے باز رہنا - گھر سے نکل کر کہین نہ جانا - سفر کو ترک کرنا - نظیری نیشاپوری دیر ست رخش سعی مرا سنگ در سم ست + ناخن ہمیشہ در جگر خار میزنم + اوحد الدین انوری چرخ را با شرفش سنگ فتد در رفتار کوہ را با سخطش کیک فتد در شلوار +

سنگ زدن - پتھر مارنا مشہور لفظ ہے قاسم مشہدی سنگ بر سینہ زدم از درش آواز آمد + کہ شگفتہ ست کسی کو نکند بیدارش +

سنگ زن - وہ ترازو جو ایک پلہ اسکا کم ہو -

سنگ سفتن - مشکل کام کرنا -

سنگ طفلان - وہ پتھر جو خورد سال لڑکے دیوانون کو مارتے ہین ۔ سنگ طفلان چہ خوش آمدہ مبارک وارد + وقت آن شد کہ بگلبانگ سر شیشہ ما +

سنگ فسان - وہ پتھر جس سے تلوار - خنجر وغیرہ ہتھیارون کو تیز کرین - محسن تاثیر ناصح برای تندی تیغ زبان تو + کافی ست روی سخت تو سنگ فسان تو +

سنگ فلاخن - مشہور لفظ ہے - صاحب نیم سنگ فلاخن لیک وارم سخت ناسازی + کہ سرگردہ سر ہر کس کہ گردم دور م اندازد +

سنگ آستان - گھری دہلیز کا پتھر عبد الغنی قبول زیر سر گنجے ز سنگ آستانش داشتم + سر باین معنی مرا در کوہی او پامال بود +

سنگ آمدن - پتھر آنا بھاری معلوم ہونا صائب گر ندیدم خاکساری تا شوم امین ندانستم + کہ ہر جا ہست سنگے بر سبوی عشق مے آید +

سنگ امتحان - سنگ محک کسوٹی کا پتھر بابا فغانی این دل کہ در عیار وفا نقد خالص ست + بر سنگ امتحان زدنش احتیاج نیست +

سنگ باران - اولے برسنا آسمان سے صائب از سرا نو اگر یکدم گذاری بر زمین + دل طپیدن سنگ باران میکند آئینہ را +

سنگ بر شیشہ افتادن - ناگہانی صدمہ ہونا نظامی بدارای گیتی و دانای راز + کہ دارم بہبود دارا نیاز + ولیکن چو بر شیشہ افتاد سنگ + کلید در چارہ ناید بچنگ +

سنگ بسنگ زدن - پتھر پر پتھر مارنا شفیع اثر خراب لطف عتابم ازین بتان فرنگ + مدام از دو دلی میزنند سنگ بہ سنگ +

سنگ ترازو - ترازو کے باٹ جس سے ہر ایک جنس تولی جاتی ہے سعدی اگر محتسب گردد آنرا غمست + کہ سنگ ترازوی بارش کم ست +

سنگ رو - بے حیا - بے لحاظ آدمی شانی تکلو کیسا جہانرا من آن کہن گیرم + کہ خوشدلم بہ تماشای سنگ روئی چند +

سنده - بر وزن خندہ فربہ و سطبر چیز -

سنگ راہ - جو پتھر رستہ مین پڑا ہو اور وہ چیز جو کسی کے کام کے اجرا مین حرج ڈالے ابن یمین - برسے کان گرفتم اندیشیں + گشت خر سنگ سنگ راہم شد +

سنگ ژالہ - سنگچہ - سنگسار - ایک مشہور سیاست ہے جو آدمی کو زمین مین کمر تک گاڑ کر پتھر مارتے ہین -

سنگ سیاہ - کالا پتھر کسوٹی کا - زلالی عشب نان مرو کیا جلوہ گاہ است + کہ در کعبہ مرا سنگ سیاہ ست +

سنگ شیشہ - وہ پتھر جسکو گلا کر شیشہ بناتے ہین شوکت علاج غیر مکافات نیست ظالم را + کہ سنگ شیشۂ ما شیشہ میشود آخر +

سنگ صلایہ - پتھر کا کھرل جسمین دوائی پیسی جاتی ہے -

سنگ یدہ - یہ ایک صاحب تاثیر پتھر ہے جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اسکو تھوڑا سا اسکے سامنے رکھتے ہین فوراً بارش شروع ہو جاتی ہے - یہ عمل ترکون مین رائج ہے حبیب السیر مین لکھا ہے کہ جب کشتی نوح علیہ السلام کی جودی پر ٹھہری اور وہ ہین مشہور ہوئی تو حضرت نوح نے یافث کو مشرق شمال کے سمت مامور کیا

رخصت کے وقت اُسنے آرزو کی کہ اسکو کوئی ایسا عمل عنایت ہو کہ جب
چاہے بارش ہو جاے حضرت نوح نے اسم اعظم اُسکو سکھلایا اُو
وہی اسم ایک پتھر پر نقش کر دیا وہی پتھر اب تک ترکون کے پاس ہے
جسکے ذریعہ سے جب چاہین بارش ہو جاتی ہو ترک اسکو جدہ تاش
عربی حجر المطر فارسی مین سنگ یدہ کہتے ہین صائب اشک را
موی کشان تا سر مژگان آورد + کار سنگ یدہ از نالہ نے می آید +
سنبلی۔ موسیقی کے علم مین سے ایک نوا کا نام ہے ملا نگہت سمرقندی
سید پیری کہ رفت دلما سوئیش + از خود لی آورانو رخ نیکو لیش + ترسم کہ
بشنود سنبلی خوان سازد + مرغان چمن را گل گیسویش +
سنگ آزمائی۔ ریاضت کش۔ محنتی آدمی نظامی تو نیز اریہ
مرد سنگ آزمای + سنگ سنگ شو تا بمالی بجای +
سنگ خرفی۔ یہ ایک پتھر ہو جب اسکو گھس کر بالونکو لگائین
بال اُتر جاتے ہین۔
سنگ شجری۔ یہ ایک پتھر سمندر مین درخت کی طرح تہ سے
نکلتا ہو شاخین برابر درخت کی طرح نکلتی چلی جاتی ہین جب اُسکی
شاخ پانی سے باہر آ مین تو پتھر ہو جاتا ہے
سنگ ماہی۔ یہ ایک کنکر مچھلی کے منھ سے نکلتا ہو سنگ گردہ کی
بیماری کو دفع کرتا ہو
سنگ موسی۔ ایک قسم کا سیاہ رنگ پتھر مشہور و معروف ہے
میر محمد افضل ثابت۔ چہ باین تجبت رہ وادی ایمن سپرم خلوہ ہم دیر
نظرم نیز چہ سنگ موسی ست +
سنگ یرانی۔ یہ ایک پتھر ہو اسپر شیشہ تیز کرتے اگر دوسرے پتھر پر
مارین تو آواز نہین آتی اور اس پتھر پر شیشہ اسطرح گھس جاتا ہو جیسے
لکڑی میں۔
سنگینی۔ بھاری پن اور سنگین جو چیز وزن دار امد پتھر کی بنیا
میرزا صائب۔ در کدامی ساعت سنگین نداختم کوہ غم + در زمین سینہ
ما خاکساران جا گرفت +

	سین با واو	

سوار پا۔ تیز رفتار۔ پیادہ چست و چالاک۔ مولانا اکبر لاہوری
اسپ خواہد منظر بوقت کار + ہر کہ مرد سوار پا باشد +
سوختہ پا۔ تیز رو اور شتاب چلنے والا آدمی نور الدین ظہوری
اند درہ اگر گشتم از گرم روانم + خورشید درین راہ چو من سوختہ پا نیست +
سوختہ کوکب۔ بد نصیب۔ بد قسمت مدبر و بدبخت آدمی ظہوری

اختر گریہ موج قرہ اوجی وارد + گرچہ بیداغ تو دل سوختہ کوکب شدہ است +
سوار دولت۔ صاحب دولت و مال محسن تاثیر فزودم آبرو تا ساکن
ویرانہ خویشم + سوار دولتم تا چون نگین در خانہ خویشم +
سوہان روح۔ جو چیز جان کی دشمن ہو ناصر خیالش بدل خنجر و تیغ
جان + غمش تیشہ چشم و سوہان روح +
سود مند۔ فائدہ مند نفع مند باقر کاشی دور از طبیبان و تو
بر جان + خوش سود مند ست الحمد للہ +
سوار کار۔ جو شخص اپنے کام مین لائق ہو خصوصاً چابک سوار جو
گھوڑے کی سواری کا اُستاد اور گھوڑے کو درست کرنے والا ہو
محمد سعید اشرف۔ ہمیشہ دیدہ مجوبان گلعذار من + سمند عمر بتان را
سوار کار من +
سوگوار۔ جو شخص کسی کے ماتم مین ہو میر معزی گو نفشہ سوگ
خصم تو نخواہد داشتن + از چہ معنی در لباس نیلگون شد سوگوار +
سوزناک۔ دردناک جس سے غم پیدا ہو باقر کاشی معنی بکش
نالہ سوزناک + کہ سوز دل مردہ در زیر خاک +
سوزن بال۔ و سوزن پر۔ مرغ کے بچے کے پر جو نکلنے پر ہون۔
سالک قزوینی۔ دیدہ ات و بقیہ سوزن پر ست + بخیہ زن جامہ خشک و
تر ست + زلالی زمرغابی سوزن بال دیدہ + کہ جز اشک شرر
دانہ نچیدہ +
سواد اعظم۔ ہر ایک بڑا شہر خصوصاً مکہ معظمہ و مدینہ منورہ محمد انور
لاہوری۔ خدا عظمت بہر اقلیم داد ست + سواد اعظم ملک عرب را +
سواد تراشیدن۔ ایجاد کرنا کسی چیز کا۔ اور نمونہ اُتارنا۔
سواد تند کردن۔ سواد روشن کردن۔ سیاہی کو روشن کرنا۔
نوشت خواند کا ملکہ حاصل کرنا صائب روشن کند سواد خط سر نوشت را
چشمی کہ گشت با لب پیمانہ آشنا۔
سواد خوان۔ جو شخص لکھ پڑھ سکتا ہو صائب بچشم ہر کہ چو مجنون
سواد خوان شدہ است + سیاہ خیمہ لیلی ست داغ ہر لالہ +
سواد زدودن۔ سیاہی دور کرنا۔ کالا پن اُتار دینا۔ ابو الفیض
فیاضی۔ بزدود سواد کفر ز ایام + بر بند فشاند نور اسلام +
سواد طلبیدن۔ سواد کردن۔ نقل کرنا کسی کتاب و قبالہ وغیرہ
کا حافظ تا بود نسخہ عطری دل سودا زدہ را + از خط غالیہ سالی تو
سوادی طلبید + او حد الدین انوری اخلاق تو سواد دیگر آسمان
چیدہ شد بیاض دفتر دیوان روزگار +

سوار بودن - سوار ہونا - غالب ہونا کسی چیز پر میر الہی اسپ ہوس چہ تازم زینسان کہ گشتہ ام + از کام دل پیادہ و بر آرزو سوار +

سوار سیستان - رستم پہلوان -

سوختن - جلنا - جلانا - روشن ہونا اور کرنا صائب سحر کہ از تف غم آتشم بجان میسوخت + ز قصۂ الم شمع را زبان میسوخت +

سوختہ جان - دل جلا - عاشق ابوطالب کلیم کدام سوختہ جان راست تاب آتش ما + بآہ سرد دلی را کہ گر کباب کنیم +

سودا بہم خوردن - سودا بہم زدن - سودا بر ہم زدن - باہمی معاملہ بگڑ جانا اور بگاڑ دینا - ابوطالب کلیم - متاع دل بہ کسی دادہ بودم باز میگیرم پشیمان طرۂ دیدم کہ برہم خورد سودا یم طالب آملی رحم کن سودائے با بیچارگان برہم مزن - میتوان آخر بجائے زلف سر یکسو گذشت ملا قاسم مشہدی - ما راز نفع و سود تو سودا بریدہ است + سودا بریدہ است و چہ زیبا بریدہ است +

سودا بلند افتادن - سودا بلند شدن - معاملہ باہمی درست ہو جانا اور وحشت و دیوانگی زیادہ ہونا ابوطالب کلیم اگر سودا بلند افتاد این سر چہ بیا شد اکلیم از سر خود رو فکر ہای سرو بالا کن +

سودا انگیختن - معاملہ درست ہو جانا - دیوانگی کا زیادہ ہونا نور الدین ظہوری - سودای تو می پرد ظہوری + از خامی خویش شہر ما سست +

سودا داشتن - خیال رکھنا - معاملہ رکھنا مخلص کاشی - نہ کنون ربط بآن زلف چلیپا دارم + من باین سلسلہ عمری ست کہ سودا دارم +

سودا زدن - خیال رکھنا - جنون ہو جانا صائب میفتد ہر روز بکارش شکستے تازہ + من بسودای سر زلف کہ سودا میزنم +

سودا شکستن - سودا توڑ دینا میر حسن دہلوی من لب دکان بیش ار کردم خریداری ولیکن + اعتبار دکان بہ نسبت سودا شکستہ ہم +

سودا کردن - سودا نمودن - معاملہ کرنا - باہم خرید و فروخت کرنا - مرزا خان شہپالی نقد جان آخر شد و صلت بما سودا نہ کرد + دیدہ خالی از نگہ گشت و ترا پیدا نہ کرد + طغرا - ملا سے جاہل کی ہجو مین - چہ سودا نمودہ بکاغذ فروش + ورا آوردہ چون کاغذ سر در خروش +

سودای پختہ پختن - وہ سودا کرنا جو نہ ہوسکے حافظ حافظ درین کمند سر سرکشان بسی ست + سودای کج مپز کہ نباشد مجال تو +

سوداگرہ شدن - توقف مین پڑنا معاملہ کا میر الہی

بکشا - متاع لخت دل بفروش نگاہ سے + سودا چو گرہ گشت خریدار کشد رنج +

سودن - گھسنا - ملنا آپس مین - ناصر ملتانی - سودہ زین سودا باشد ہر ترا + زانکہ زر درست تا ہست سودن ست +

سوراخ شدن در آسمان و سقف آسمان - کوئی بڑا حادثہ ظاہر ہونا - نور الدین ظہوری - ہیچ سوراخی نخواہد گشت سقف آسمان + کز سر کاہی نجیب شادمانی پرچم +

سوزان - جلتا ہوا نہایت گرم - سعدی آتش سوزان نکند با سپند + آنچہ کند دود دل دردمند +

سوسن زبان - جو شخص کہ بولنے پر قادر نہو شیخ العارفین نسبے از خار خارت شعلہ در جان گلستا نہا را + ز لعلت مہر خاموشی بلب سوسن زبانہا را +

سوی کسی گردیدن - کسی کی طرف ہو جانا - ملا طغرا فلک بیرنگ خواہد روی یارا + چسپان گیسو پیدا ان سوی یارا +

سوختن تنخواہ - سوختن زر - معدوم ہونا تنخواہ - اور روپیہ کا تلف ہو جانا - محمد قلی سلیم - لبراہیم عشق دہ صفت سلیما + وانگی تو ہمای سوختہ تنخواہ نگہدار + نعمت خان عالی گرم او جہنم گر سوخت ہم چہ غم + ازبسکہ سوخت دلم را کباب کرد +

سوداخانہ - تجارت کا مقام خواجہ آصفی مصر دل را کاروان عشق سوداخانہ یافت + کنعان ہر ساعتت آنجا یوسفی در بار رشت +

سودازدہ - سودائی - دیوانہ مجنون خبطی میر خسرو چند گوئی کہ فراموش کن از خسرو + آخر او از دل سودازدہ چون خواب برفت +

سودہ - مشہور لفظ ہے جیسے کہ سودہ الماس و سودہ آہن و سودہ صندل وغیرہ - ہند مین اسکو برادہ کہتے ہین شفیع اثر بکہ گہر اعیت دنیا فسانہ خاکسار + بر تیغ و سودہ آہن شتغلیم صبا +

سوزندہ - جلانے والا - آتشی - سوزان صائب مرا آتش سوزندہ زخم سے آید + کہ زندگانی خود صرف داغ خالی کردہ +

سوزن زدہ - سیا ہوا - سوئی سے سوراخ کیا ہوا صائب صفحہ آئینہ را کاغذ سوزن زدہ کرد + تا چہ با سینۂ مجروح کند مژگانش +

سین با ہای ہوز

سہی بالا - سیدھے قد والا معشوق - حافظ جو بیا بستہ ام از دیدہ بدامن کہ مگر + بر کنارم بنشانند سہی بالائے +

سہی قامت - معشوق کی تعریف مین بولتے ہین ذوقی

دلم پرورد زار سہ طلعتی + کی نالہ بیکسی تو اشتے +

سہو العقد۔ وہ سہو جو شمار میں واقع ہو۔

سہو الفکر۔ وہ سہو جو سمجھ میں واقع ہو۔

سہمناک۔ سہمگین۔ جس چیز سے خوف آئے نظامی زبستہ کا دمی راکند سہمناک + چہ در صبا آتش چہ در نا خاک +

سہ اسپہ پہونچیدن۔ تین گھوڑوں سے کسی موقع پر جلد و شتاب پہونچنا۔ ملا آملی در فراقت سہ اسپہ پہ پویم + پیراغ دولت بی جو یم +

سہ پہ نشستن۔ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھنا۔ روبرو بیٹھنا۔ شیخ اوحدی من دو لدار و سطر سہ نشستہ + چار مین چار شی کہ پہ در بہ بود +

سہ پہ کردن۔ تین کو تین سے بھرنا۔ نظامی یکی از زر و دیگر از لعل پُر + سہ دیگر زیاقوت و چارم ز دُر +

سہ تا نہ۔ سہ گانہ۔ تین پیالے شراب کے جو علی الصباح پیتے ہیں حکیم نزاری۔ صحبا دوائی کردہ خواہم + حکیمانہ سہ تائی خوردہ خواہم + ولہ غلام ہمت آنم کہ چون نزاری مست + پس از دو گانہ واجب سہ گانہ بر گیرد +

	سین با یاے	

سیماب پا۔ جس شخص کو ایک جگہ پر قرار نہ ہو قطعہ از مؤلف درجہان اندر تلاش سیم و زر + ہمچنین در تاب و تب ہستی چرا + بیقرار و مضطرب باقی مدام + صورت سیماب ای سیماب پا +

سیم سحاب۔ بادل کی چاندی۔ بارش کے قطرے انوطالب کلیم قطعہ تا سیم سحاب تا سفر دہ + مدد امن قطرہ رنگا ست + درعہدہ حفظ ایزدی باد + ذاتست کہ عطای بیشمار ست +

سیم ناب۔ خالص چاندی۔ عمدہ چاندی مؤلف عارضش پارہ ء یاقوت ناب + گوہرش دندان و ساعد سیم ناب +

سینہ تاب۔ جو چیز سینہ کو گرم کرے صائب چو آب خضر سیہ پوش شد محیط سراب + زانکہ سوخت درین دشت سینہ تاب نفس +

سیم تاب۔ یہ ایک سنہری لوہے پر کرتے ہیں اسطرح کہ لوہے کو لیموں کے عرق سے تر کرکے آگ پر رکھتے ہیں۔ اور وہ نیلگون ہو جاتا ہے طالب کلیم نیلگون شد فلک از تیرگی اختر ما + کرد آئینہ سیہ تاب زنگار گستر ما +

سید۔ تیسین سو۔ مگر محاورے میں بہ تعداد کے موقع پر

سیہ صدیہ لیتے ہیں میر معزی تنگار قندلب کورا ابو در زلفنہ سیہ چنبر با چنبری بستہ برسنبل کسی چین و قند یا رانند +

سیاست گر۔ سیاستی۔ سفاک۔ خونریز۔ بیرحم۔ جلاد سختگیر حاکم حسین سنائی گرمان سیاستی و نہیب عتاب تو + جور دنا ستم آسمان غرق ست + میرخسرو دیدہ ور ناسہ چون سر بلند یافتہ ز آشوب گناہے گزند + تیغ بر اورده سیاستگری + تا بسر صاحب رساند سری +

سیاہ پیر۔ پیرانا اور بوڑھا غلام۔ قدیم ملازم۔ میرزا صائب با خودی سرکش او آتش سخن پذیر ست + با خط باندار ریحان سیاہ پیر ست

سیاہ سر۔ سیاہ سار۔ استکہ یعنی نگر جسکا چہرہ کالا ہوتا ہو اور آدمی جسکا سر کالا ہوتا ہو حکیم سنائی۔ سقلہ کرد و زوال جاہ سپید کہ سیہ ساز بزنتا بہ سیہ + فخر گرگانی سیہ سر اقتضا بر سر نوشت ست + گنہ کاریش در گوہر سرشت ست +

سیہ کار۔ بدکار۔ گنہ کار سیہ سینہ شیخ العارفین کو نہ نظران نفت سیہ کار ندانند + این ہر دو دلان فیض شب تار ندانند + صفدر قزوینی تا بہ ہر دو دیدہ این سیاہی + لیشواز سینہ خود ای سیہ کار +

سیہ گر۔ سیاہ کار گنہ کار کمال اسماعیل۔ ہمہ سیہ گری آمد حنی نطرہ خویش + چرا ز چہرہ نیاشتی نکو کاری +

سپاہی لشکر۔ وہ لشکر جو جنگی نہو صرف لشکر کی کثرت دکھلانے کے واسطے جمع کئے گیے ہوں رباعی ای دل اگر تیار سپاہی ست سرمس در سیل و لش بکینہ خواہی ست سرمس + در لشکر حسن او دو چشمش جنگی ست + باقی خط و خال او سپاہی ست مترس +

سیب بجور۔ یہ قسم ایک سیب کی ہے جو نہایت خوشبودار ہوتا ہے اسکے پوست کو اگر گھر میں جلائیں تو تمام گھر خوشبودار ہو جائے طاہر وحید ز آتش تب برخ آن رشک حور + سیب بنج سوخت چو سیب بجور +

سیخ پر۔ وہ بچہ مرغ کا جسکے پر نکلنے پر ہوں میر خسرو۔ طوطیان کز بیضہ خاکی برون جستند تیز + سیخ پر شد ہر یکی و در ماتش پر و

سیلاب گیر۔ پست زمین جسمیں پانی جمع رہے صائب مانند شراب لعل بہت گذشتہ ایم + سیلاب گیر سینہ زمین بلند را +

سیم آور۔ فاحشہ عورت جو روپیہ لیکر زنا کرائے محمد حسین شہرت میان مردم و نیا بغیر سیم آور + نداشت سیم کسی بر رو فا سیمبران

سیم شاخدار۔ نقرہ شاخدار۔ خالص چاندی محسن تاثیر سفید قد و ساعدان و زنگانہ + بسیم شاخدارش شاخانہ فولہ

در وقتِ تو بدل چو گرگ بر گلہ زند + شوق تو بجان چو برق بر غلہ زند +
سیمین بدنی کہ از تو سر می پیچم + با نقرہ شا خدار سر کلہ زند +

سیہ بہار - عمدہ بہار - بہار مطبوع - بہار با فراط - شیخ ہزارنگ
گل زار در کنار من ست + جنون کجاست کہ جوش سیہ بہار من ست +

سیہ روزگار - بد قسمت - بد نصیب او می صائب بدستِ تہی
میکشایم گرہ ہا + نر کار سیہ روزگاران چو شانہ +

سیہ روز - غمگین - ماتمی - مصیبت زدہ ابو طالب کلیم چشم غم
آن زلف سیہ روز ندارد + از ماتم ہمسایہ درین خانہ خبر نیست +

سیل خیز - جوش آور - بہاؤ پانی کا فخری زسیل خیز فنا این ست
قصر ثبات + چنانچہ حصن فلک را ز صدمت بلکن +

سیماب ریز - تلوار کی تعریف مین بولتے ہین نظامی ستیزندہ از تیغ
سیماب ریز + چو سیماب کردہ گریزا گریز +

سینہ باز - منقش جیسے کہ باز کا سینہ اور کھلا اور ابھرا ہوا سینہ
نظامی - تدروان رومی و زاغان زنگ + شدہ سینہ باز یعنی دو رنگ +

سیاہ پوش - ماتمی اور جاسوس بادشاہی جنکا لباس سیاہ
ہوتا تھا - حکیم اسدی سپیدی پی دیدن شاہ شد + ہنرہ سیہ پوش
درگاہ شد +

سیب آزالیش - بروزن آسایش ایک قسم کا سیب ہی جو اصفہان
مین ہوتا ہی - نو کی ندیم عنغب ساقی بدست آرم و مستی ندیم ضعف
را چارہ از سیب آزالیش کنیم

سیاہی افتادن از داغ - سیاہی برداشتن از داغ
سیاہی ریختن از داغ - نزدیک پہونچنا داغ باز خم کا اچھے
ہونے پر ابو طالب کلیم - نیامدی و سیاہی ز داغہا افتاد +
سفید شد بر ہت چشم انتظار افسوس + ولہ کلیم سوختہ را وقت شد
کہ بر وارند + زردی کبستر تپہ چون سیاہی از سر داغ + میرزا معز فطرت
کف می شد نمکسار ز بخت داغ دون در ایاغ من + سیاہی ریخت
نمک سودہ بر بالا سے داغ من +

سینہ شگافت - چھدا ہوا سینہ میرزا صائب دل معشوق
اگر بینیہ فولاد بود + نالہ سینہ شگافم جرسی میباند +

سینہ صاف جسکا سینہ صاف ہو منافق نہو توحید سینہ خود
کن صفائی سینہ صاف + دور کن از دیدہ روشن غلاف + دوز مانہ
راستبازی پیشہ کن + تا توانی شو نہ از حق بر خلاف +

سیم ساق - معشوق کی تعریف مین کہا جاتا ہی شفیع اثر ہیچ گلدستہ
کمر از پے خدمت ببندند + سیم ساقان ہمی قامت و خورشید لقا +

سیاہ سنگ - جرجان مین ایک موضع کا نام ہی اور اسی مقام پر
بہمن نام ایک چشمہ ہی لوگ اُس سے پانی لیتے ہین اور ایک قسم کے
کرم بھی پیدا کرتے ہین اگر کوئی پانی لینے والا کرم پر پانوں رکھدیتا ہی
تو پانی اُسکا تلخ ہو جاتا ہی -

سیہ آہنگ - ایک ساز کا نام ہی - اور وہ ساز جو درست ہو
کسی طرح کا نقص اُسمین نہو صائب ذرہ تا خورشید گلبانگ انا الحق
میزند - نغمہ خارج ندارد ساز سیر آہنگ ما +

سیمک - علاقہ ہندوستان کے ایک وزار کا نام ہی جسپر ابریشم اور سوت
لپیٹتے ہین

سینہ چاک - عاشق دلسوختہ - پارہ جگر صائب جنبش از
خط عالمی زیر و زبر دارد ہنوز + سینہ چاکان چون قلم زیر و زبر دارد ہنوز

سیاہ دل - منافق - بدکار - بدکردار صمغہ فوقانی سوی تو
شد سفید صد حیف ست + گر سیاہ تن سیاہ دل باشی +

سیاہ سال - جس سال بارش نہو اور قحط پڑ جائے علی نقی یک
برگ سبز و یک گل سوری ببار نیست + در این سیاہ سال امید بہار نیست +

سیماب دل - جسکا دل مضطرب و بیقرار ہو ۵ زحرف پندگویان
غلط کوش + شد آن سیماب دل سیماب در گوش +

سیم حلال - سیم خالص - سیم خام - خالص چاندی
اوحد الدین انوری - زر شک چہرۂ بدخواہ تو چو زر عیار + ز اشک
دیدہ بدگوی تو چو سیم حلال +

سیاہ چشم - بے حیا - بے مروت - بے لحاظ حبیب حال بندہ
ندارد چو درین شب تار + سیاہ چشمی شوخ سیاہ چشم سین

سیاہ گلیم - مفلس - بے دولت - بد قسمت صائب در گلشنیکہ
بلبل ما شد گلیم پوش + ہر غنچہ در نقاب گل آفتاب داشت +

سیاہی بادام - وہ لکھنے کی سیاہی جو پوست بادام جلا کر
بناتے ہین - میرزا محمد علی ماہر از و بہر مشق شاہ مدام چشم
خوبان سیاہی بادام +

سیہ چشم - جو کسی کی نعمت کو حسد کی آنکھ سے نہ دیکھے کسی کے
مال مین طمع نہ کرے - صائب - دیدۂ ما سیر چشمان شان و نا شکند +
ہیچ جوہر نفس را آئینہ ما شکند +

سیماب چشم - باضافت یای اشک یعنی آنسو خاقانی گوش بالیسے
از سیماب چشم انباشتہ + تا فراق نازنینان را خبر بشنودمی +

سیم اندام — سیمبر — معشوق کی تعریف مین یہ لفظ بولی جاتی ہے اوحدالدین انوری — سیم بارم زابر دیدہ کہ یار + گرچہ سنگین دست سیمبر ست ؎ دیدہ باید وصل گر گرد و نصیبت طالب از بست سیم اندام یا +

سیاہ پستان — وہ عورت جسکی اولاد نہ جیے جسکو دودھ پلائے وہ بچہ بھی مرجاے قطعہ از مؤلف گاہ بخشد سحاب رحمت حق + در تن مردہ چمن جانے + ژالہ بارد بگلشن سرسبز + گاہ ابر سیاہ پستانے +

سیاہ اندرون — سیاہ دل — بدکار — منافق +

قطعہ — بیروے نکوئی شود سرخرو + سیہ سینہ مرد سیاہ اندرون ز بدکاری خویشتن شرمسار + ز اعمال و افعال خود سرنگون +

سیاہ نامہ شدن — بہت سا لکھا جانا خط کا کاغذ بھر جانا بہت سے گناہون سے نامہ اعمال سیاہ ہو جانا — یوسفی یوسفی آنکہ شدش نامہ سیاہ + غفر اللہ تعالی ذنبہ +

سیاہی از چیزی دیدن — کسی چیز سے صرف سیاہی دیکھنا صنائع ہمین سیاہی از آب زندگی دیدست + ز حسن ہر کہ مقید بخط و خال شود +

سیاہی با کسی کردن — غضب کرنا اسیر مجیر الدین بیلقانی سیاہی میکند با من سر زلف نگو نسارش + باب می آورد جانم لب مثل شکر بارش +

سیاہی بر چیزی کشیدن — کسی چیز کو کالا کر دینا — محمد اسلم سالم ہنوز از آتش مے وقت پیری رنگ کاہی را + بکش بر چہرہ روے سپیدی این سیاہی را +

سیب سیمین — ایک قسم سیب کا ہی جو سپید اور سرخ ہوتا شاپور ترنج غبغب او بسکہ دارد کند دندان را + خیال سیب سیمین میکنم سیب زنخدان را +

سیب مسکان — سیب عنبرین — اقسام سیب کے ہین نجیب خالص — بشاخ سیب پیدا سیب مسکان + چو بر زلف بتان سیب زنخدان +

سیپارہ را قرآن کردن — سیپارون کو جمع کرکے قرآن بنا لینا — تھوڑے کو بہت کر لینا — صائب جمع گر از بستن لب شد دل من دور نیست + خامشی سیپارہ را بسیار قرآن کردہ است +

سیخ شدن — مقابلہ پر آنا لڑنے کو تیار ہو جانا — باقر کاشی — شانا بر سات خانہ ام کند از سیخ + می نتواند کوہ شدن بادی سیخ + برین چون شد منزل نو رس دوزخ + امسال کہ شد بہشت نو رس تاریخ ۱۰۲۲

سیر آمدن — ملول ہونا تنگ ہونا — بی نیاز ہونا پیٹ بھر جانا آسودہ ہونا — عبید اللہ ہاتفی اگر امروز آنجا بدیر آمدی + ز نعمتہاے دین از جان بسیر آمدی +

سیر در لوزینہ دادن — سیر در لوزینہ خوردن — نیکی مین بدی کو ملانا — مزے کو بے مزہ کرنا — خوشی مین غم ملانا — فریب دینا فریب کھانا اوحد الدین انوری — ہر کہ در پیمان تو وہ تو بسیار چون پیاز + انتقام روزگارش داد در لوزینہ سیر + حکیم سوزنی اندر ایام تو بر خوان غرور روزگار + ناکسان کس شدہ خوردند در لوزینہ سیر +

سیماب در گوش ریختن — کانون مین پارہ ڈالنا — کسی بات کو نہ سننا — بہرا بن جانا — خاقانی ہمہ گیتی ست بانگ ناحق اما نشنود خواجہ + کہ سیماب ضلالت ریخت در گوش اہل خذلانش +

سیماب گردیدن — بیقرار ہونا — بی آرام ہونا — ناصر علی — علی از شوخی طرز سخن آرا جہا دارم + کہ تا بر گوش حاسد میخورد سیماب میگردد +

سیماب کردن — بیقرار کرنا بی آرام کرنا مخلص کاشی یک شرر برق تجلی گو ہم سیماب کرد + ضبط خود را بیقراری چون نمی خواہم من +

سیماب گون — یہ جملہ تلوار کی تعریف مین بولا جاتا ہی عرفی تیغ سیماب گون در آمد شد + سر و دست و د پیکر انداز دو +

سیم بر سنگ زدن — جماع کرنا — مباشرت کرنا قطعہ مرد باش و زن مکن زیرا کہ در ایام ما + زن نخواہد ہیچ مرد یا تمیز ہوشیار + در اسیر شہوتی یار ہی کنیزک خوبرو + سیم ساقی سرو قد با ہر و سے گلعذار + تا بطبع تو بود با او بزن بر سنگ سیم + ور بدل گردد مرا چشن نیستا و زر عیار +

سیمتن — معشوق کی تعریف مین بولتے ہین ؎ بسا ماہر وی و بسا سیمتن + کہ رفتند از ین دار رنج و محن +

سیم ذقن — محبوب کی صفت مین بولتے ہین —

سیم سرین — معشوق کی تعریف مین کہا جاتا ہی — میر معزی در مجلس تو مطرب و در بزم تو ساقی + سرو سمن اندام و بت سیم سرین باد +

سیمین بدن — سیمین تن — سیمین ذقن — محبوب کی تعریف بولے جاتے ہین —

سیمین صولجان — ہلال یعنی نیا چاند —

سیمین میان — محبوب کے اوصاف مین سے ہی — نظامی — بدست آورد ہم آن سرو روان را + بت سنگین دل و سیمین میان را +

سینہ پیچیدن — رنج پانا — تکلیف اٹھانا — ظہوری نداند کسی غیر ارباب فکر + کہ چون می بہ پیچید از تاب فکر +

سینہ خستن — سینہ خوردن — مشہور ہی — ظہوری

فرو شد اگر خوبی سینہ باز + ہمین سینہ خورد خورد و شاہبازہ صائب
کے تا یک فرشیان نسودیم + سگ سینہ عرشیان نخستیم +
سینہ دادن - زور و قوت کرنا - مدد دینا - طاقت دینا میرزا رضی
دانش - گوشہ گیران تن برحمت بی محابا کے دہند + چون
شنا ور سینہ را بر موج دریا کے نہند -
سینہ دریدن - زخم لگانا - مارنا - فردوسی بروز نبرد آن یل
ارجمند + بشمشیر و خنجر بگرز و کمند + برید و درید و شکست و ببست
یلان را سر و سینہ و پا و دست +
سینہ زدن - سینہ مارنا - کسی کام پر مستعد ہو جانا - صائب
ابر بہار سینہ بگلزار میزند + خون شفق علم بسر خار میزند -
سینہ سودن - مشہور و معروف ہی یعنی کسی امر مین سینہ دینا -
کسی مشکل کو آسان کرنا - مولانا لسانی کار بلبل نبود سینہ
بر آتش سودن + پیش دلگرمی پروانہ بہم مشرب +
سینہ کردن - فخر کرنا - بڑائی کرنا - رفیع الدین لبنانی -
چون ز پہلوی ہمت کس نخورد جز جگری + تو مکن سینہ کہ چون
من نبود دلدارے +
سینہ کشادن - بی حجاب ہو کر ملنا - سینہ کھولکر ملنا طالب آملی
خورشید حسن سینہ کشود ای سحاب شرم + رشح خوی کہ ببینم
گداز جبین ماست +
سینہ مالیدن - مشہور ہی ابوطالب کلیم - دریا باکی کہ خضر
سینہ مالد بر سراب + فیض رحمت جہام چون در ساغر مید ہا
سیہ زبان - وہ شخص جسکی بددعا تاثیر کرے - صائب خط تیغ
در قلمرو خسار او گذاشت + آخر سیہ زبانی ما کرد کار خویش +
سیہ شدن زبان - بیکار ہو جانا زبان کا بہت بولنے سے
محسن تاثیر - حذر در تیرہ روزی ہا بپرداز اہل سخن کردن + زبان
چون شد سیہ ویران کند شہری بنفرینی +
سیاست گاہ - سیاست کا مقام دار السجزا پر چاچی در
سیاست گاہ قہر حق بر قفاے کائنات + لطف را دانم جنازہ بر سر
سر وقت است +
سیاہ کاسہ - مسک بخیل کنجوس میرزا صائب خدر قتند
آن چشم نیم باز کنند + ز میزبان سیہ کاسہ احتراز کنند +
سیاہ نامہ - بدکار - بد کردار - فاسق - فاجر سعدی سیہ نامہ
چندان تنعم براند + کہ در نامہ جائے نوشتن نماند +

سیماب کشتہ - سیماب مردہ - وہ سیماب جسکو کشتہ کیا جاسے
اور وہ سیماب غلیظ جو آئینہ کی پشت پر لگاتے ہین محسن تاثیر تا حنا در خون
نہ غلطد نکشد سیماب را + عالم اول میشود تاثیر خود رحم ستم + ملا قاسم
مشہدی - بستہ ست عشق در نفس با دم مسیح + سیماب کشتہ زندہ شود
از فسون ما + نصیر الدین مشتاق عکس از تبسم تو چو مائل بخندہ شد
سیماب مردہ در پس آئینہ زندہ شد +
سیم نقرہ - سیم حلال خالص چاندی میر معزی از پی آرایش
بزم توانگر کان خویش + منعقد گشتند سیم نقرہ و زر عیار +
سیم نبہرہ - ایک قسم چاندی کی ہے +
سیہ چردہ - سبزہ رنگ معشوق یعنی جسکا سانولا رنگ ہو طالب کلیم
زبسکہ نقش سیہ چردگان بدل جا کرد + تن سیاہ چو رگ ساخت استخوان مرا
سیہ دیدہ - بی حیا بی لحاظ - بی شرم صفدر فوقانی کرنکوئی
بہ بد شود حاصل + سر خرد کے شود سیہ دیدہ +
سیاستی - آدمی بیرحم - جلاد - خونریز حسین ثنائی گردون سیاستی
وعجب عتاب تو + جور زمانہ و ستم آسمان خوش است +
سیب آفتابی - داغدار سیب اور پژمردہ محسن تاثیر گر چہ از
تاب عذارش آفتابی گشتہ است + بوی جان می آید از سیب زنخدانش ہنوز
سیب دلیلی - ایک قسم کا سیب ہے جو نیزد مین ہوتا ہے ۔ یوسف
راہبر گردید آن چاہ زنخدانم + دلالت کرد این سیب دلیلی تا بکنعانم +
سیب شامی - ایک قسم کا سیب ہے جو سیاہی مائل ہوتا ہے آرزو
حاصل شیرین کلامی کو کہ یکسر زندگی + در سیہ روزی مرا چون سیب شامی صرف شد
سیبی سجودی - یہ ایک مثل ہے جیسے کہ برگ سبز است تحفہ درویش
تحفہ محقر اور عجز و انکسار بہت سالک قزوینی در طریقت چونکہ سیبی
سجودی گفتہ اند + پیش ہر سیب زنخدانی سجودی میکنم +
سیلاب دوانی - بہت سی بخشش کرنا - بی اندازہ سخاوت کرنا محتشم
ابر لطف تو سیلاب دوانی محتاج + من لب تشنہ بیک قطرہ چکانی محتاج +
سیمابی - ہر چیز جو نہایت سفید اور درخشان ہو جیسا کہ پیراہن سیمابی
روستار سیمابی وغیرہ سلمان چون سحر پیراہن خاک ست سیمابی ز تاب
چون فلک آئینہ صورت زنگاری ز آہ +
سیم بہمابی - بروزن لن ترانی وہ چاندی جو غیر خالص ہو -
سیم بندی - یہ ایک طرح کی روشنی ہوتی ہے کہ بہت سی شمع لوہے کے
تار سے باندھ کر روشن کرتے ہین رات کو وہ شمع ہوا مین معلق نظر آتی ہین
سیم کے معنی اسجگہ تار کے ہین -

سعید اشرف۔ چراغان کی تعریف مین۔ زمین در رقص شادی ہیچو فانوس + ہوا از سیم بندی دام طاؤس +

سیمگاری۔ جلوہ گری و دلفریبی۔ نظامی کنم سیمکاری کرہ سیمین تنم + ولی قفل گنجینہ را نشکنم +

چوتھی فصل

اردو محاورات و اصطلاحات کے بیان مین

سین با الف

سابقہ پڑنا۔ معاملہ پڑنا۔ واقفیت ہونا۔ لین دین ہونا۔ ربط و ضبط ہونا ؎ سابقہ جب کہ پڑ گیا تسے + ہوا معلوم آپ کیسے ہین +

سات پردون مین چھپا کر رکھنا۔ نہایت حفاظت سے رکھنا۔ نہایت احتیاط سے رکھنا مؤلف سات پردون مین چھپا کر رکھون + آئے گر آنکھون مین وہ نور نظر +

سات دھار ہو کر نکلنا۔ کھانا ہضم نہونا۔ اور دستون کی راہ نکل جانا ؎ لگ گئی تیری نظر وہ ہو کے نکلا سات دھار + اسے بسیرن کل مرے بچہ کا سب کھایا ہوا +

ساتھ دینا۔ کسی کو مدد دینا۔ ہمراہی کرنا۔ رنج و راحت مین شریک رہنا ؎ امید صبر و تحمل کی دلکو ہیجا تھی + نہ ساتھ دیکے فرقت مین چلد ہے ساقی + قطعہ از مؤلف سالکان طریق حق طلبی + ہاتھ مین جسکے ہاتھ دیتے ہین + کبھی ہوتے نہین جدا اُس سے + دمبدم اُسکا ساتھ دیتے ہین +

ساتھ کا کھیلا۔ بچپن کا دوست + لنگوٹیا یار ہمعمر۔

ساتھ لگے پھرنا۔ ساتھ ساتھ پھرنا۔ ہر وقت کسی کے پیچھے پیچھے پھرنا۔ سایہ کی طرح ہمراہ رہنا۔ دُم کے پیچھے رہنا۔

سار جاننا۔ قدر جاننا۔ گن پہچاننا ؎ جان فدا اپنی اُسپہ کرتے ہین + جو محبت کی سار جانتے ہین +

سارھستی آنا۔ ساڑھے سات برس کو سنیچر کی گرہ کا آنا نحوست آنا۔ بُرے دن آنا۔

ساز و باز کرنا۔ میل ملاپ کرنا۔ توڑ جوڑ ملانا۔ سازش کرنا۔

ساغر چلنا۔ شراب کا دور چلنا شراب پینا۔ مولانا اکبر گل شگفتہ ہے برستا ابر ہے + وقت ہے ساقی ذرا ساغر چلے +

ساکھا ڈالنا۔ جھگڑنا۔ لڑنا۔ فساد برپا کرنا۔

ساکھ جاتی رہنا عزت و اعتبار مین فرق آنا۔ آبرو برباد ہونا۔

سالخوردہ ہونا۔ پُرانا ہونا۔ کہنہ ہونا۔

سامنے آنا۔ روبرو آنا۔ مقابل ہونا صفدر فوقانی کسکا منھ کا ہے بغیر آئینہ + اُس پری وش کے سامنے آئے۔

سامنا کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ لڑنا جھگڑنا۔ سخت جواب دینا۔ گستاخانہ پیش آنا۔

سامنے کرنا۔ مقابل کرانا۔ روبرو کرا دینا۔

سامنے ہونا۔ روبرو ہونا۔ پردہ نکرنا۔ بیحجاب ہونا۔ حکیم محمد انور خجل ہو کر نہ دکھلاتا کبھی یار و گر چہرہ + جو ہوتی سامنے وہ مہر طلعت ماہ تابان کے +

سان پر چڑھنا۔ دھار رکھی جانا۔ تیز کیا جانا۔ باڑھ پر رکھا جانا برق۔ آنکھون کی گردشون سے یہ جوہر عیان ہوا + تیغ نگاہ یار بھی چڑھتی ہے سان پر +

سانپ سونگھ جانا۔ سانپ کا کاٹنا۔ زہر کا چڑھ جانا۔ بیہوش ہو جانا۔ از مؤلف جان لے لیتی ہے یہ کالی بلا + خون پی جاتا ہے یہ خونخوار سانپ + مارا جائیگا وہ عاشق زلف کا + سونگھ جائے جسکو یہ پُر پیچ سانپ +

سانپ کی طرح پھن مار کر رہ جانا۔ سانپ اپنی مین کے لیے پھن مارتا ہے اور پھر حاصل نہین کر سکتا۔ یعنی کوشش کرکے ناامید رہ جانا۔

سانٹ لینا۔ کسی شخص کو اپنی طرف کر لینا۔ مخالف کے آدمی کو توڑ لینا۔

سانچے مین ڈھالنا۔ زیب و زینت دینا۔ درستی پر لانا خوبصورت بنانا داغ۔ تم ہی کہو کہ کہان تھی یہ وضع اور ترکیب + ہمارے عشق نے سانچے مین تمکو ڈھالا ہے +

سانس اُکھڑنا۔ رک رک کر سانس آنا۔ قریب مرگ ہونا ذوق۔ کیا آئے تم جو آئے گھڑی دو گھڑی کے بعد + سینہ مین ہوگی سانس اُکھڑی دو گھڑی کے بعد +

سانس چڑھ جانا۔ ہانپنے لگ جانا۔ جلد تھک جانا۔

سانس لینا۔ دم لینا۔ سانس کھینچنا چلتی چلتی ذرا ٹھہر جانا۔

سانس نہ نکالنا۔ اُف نکرنا۔ فریاد نکرنا۔ منھ سے نہ بولنا۔ شکایت نہ کرنا۔

سانگ بھرنا۔ کسی کی نقل اُتارنا۔ کھیل کرنا۔ تماشا کرنا۔

سانٹھا ہو جانا۔ سمٹ جانا۔ اکٹھا ہو جانا۔ مستعد ہونا۔ تیار ہونا۔ مقابل ہونا۔

سایہ پڑ جانا۔ عکس پڑ جانا۔ دوسرے کی سی خو بو ہو جانا۔

سایہ سے بھڑکنا - کسی کے سایہ سے ڈرنا خوف کھانا پرچھائین سے جھجکنا -

سایہ مین آجانا - جن دیو پری کا سایہ ہو جانا - کسی کے زیر سایہ ہونا - پناہ مین آجانا - مفتی حیدر دوبارہ وہ کیسے گھر نہ جائے + جو یکبارہ ترے سایہ مین آگئے +

سامنے کی بات - روبرو کا ذکر - آنکھون سے دیکھی ہوئی بات - وہ بات +

سات پانچ - چالاکی - مکروفریب +

سان نہ گمان - وہم وخیال - پتہ ونشان مولانا اکبر لاہوری خدا نے آنکھون سے دیکھلائی ہمکو وہ حالت + نہ تھا کبھی ہمین جسکا ذرا بھی سان گمان +

سائین کی سائین - جون کی تون - اصل اصل رقم سود کے بغیر پنجاب مین اس لفظ کو سانوین کہتے ہین -

سانپ نکل گیا اب لکیر پیٹا کرو - موقع ہاتھ سے جاتا رہا اب افسوس کیا کرو نظیر خیال زلف کو تو اے نظیر پیٹا کر - گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر +

سادھو بچہ - چالاک اور عیار آدمی -

سانجھے کی بیچی - وہ عورت جو ہر سال حاملہ ہو کر بچہ جنے -

سانپ کا کاٹا سوا رسی سے ڈرتا ہی - جسکو ایک دفعہ سانپ نے کاٹا ہو وہ آیندہ ایسا ڈرتا ہی کہ چلتے چلتے رسی اُسکے پاؤن کے نیچے آجاتی تو اُسکو وہ سانپ تصور کرتا ہی - چنانچہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو پھونک پھونک پیتا ہی - رند خیال زلف مین نظارہ سنبل نہین کرتے ہین کاٹا ہو جب سے سانپ نے رسّی سے ڈرتے ہین +

سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے - لاٹھی مارنے مین احتیاط چاہیے کہ سانپ مر جائے مگر لاٹھی نہ ٹوٹے اگر لاٹھی ٹوٹ گئی تو صریح نقصان ہو

سین باباے

سبز ہونا - تروتازہ ہونا - پھلنا - پھولنا - رونق پرآنا - صاحب مال واولاد ہونا - میر سبز ہوتی ہی نہین یہ سرزمین + تخم خواہش دل مین تو بوتا ہی کیا - نعتیہ از مولف ہو گیا اس ابر رحمت سے ہر اک گلزار سبز + بیخ سبز و شاخ سبز و برگ سبز و بار سبز +

سبق پڑھانا - پٹی پڑھانا - کوئی شرارت کی بات کسیکو سکھلا کسی سے لڑا دینا - قطعہ از مولف نہ تو سنتے ہین میری وہ ناوان اور نہ اپنی مجھے سناتے ہین + وہ ہی کرتے ہین جو کہ در پردہ + غیر اُنکو سبق پڑھاتے ہین +

سبکدوش ہونا - کسی ذمہ داری سے بری ہونا - بوجھ اُتر جانا - ہلکا ہونا - فقیر شکر خدا کہ کٹ گئی گردن فقیر کی + بار گران سے آج سبکدوش ہو گیا +

سبکو ایک لاٹھی ہانکنا - سب کے ساتھ یکسان برتاؤ کرنا - کسی درجہ کا لحاظ نکرنا +

سپاٹا بھرنا - لگانا - مارنا - چھلانگ مارنا - اڑ جانا - جلد جلد بڑھنا

سپاٹا لڑانا - پٹس جانا - مطلب نکالنا -

سپاٹا لڑنا - موقع ملنا - سنجوگ بننا -

سبز قدم - منحوس نامبارک - کمبخت - مولانا اکبر رہی نہ بزم کی زینت نہ آب وتاب رہی + کہین سے آگیا جب دم رقیب سبز قدم

سب ہاتھ لیے بیٹھے ہین - تمہارے بغیر کسی نے کھانے مین ہاتھ نہین ڈالا سب تمہارا انتظار کر رہے ہین -

سبکی ہی - بی عزتی ہی بے آبروئی ہی بدنامی ہی - رسوائی ہی +

سب چیز کی لہر بہر ہے - سب چیزین موجود ہین - کسی چیز کی کمی نہین

سین باباے

ستارہ چمکنا - نیک نصیب ہونا - اقبال مند ہونا صاحب دولت ہونا - نعتیہ از مولف ہوے چاند سورج غلامی مین حاضر محمد کا جس وقت چمکا ستارا +

ستارہ گردش مین ہونا - پریشانی یا مصیبت مین ہونا +

ست بچن کا نوکر ہونا - ہان مین ہان ملانے کو اپنا کام سمجھنا خوشامد کرنا -

ست پر رہنا - اپنے ایمان اور قول پر قایم رہنا - عفت وعصمت پر رہنا

ست چھوڑ دینا - کسی کام کے کرنے سے ہمت ہار دینا - پست حوصلہ ہو جانا +

ستر ا بہترا - ستر بہتر برس کی عمر کا بڈھا - پیر فرتوت - مخبوط الحواس

ستانا - کسیکو تکلیف دینا - رنج پہونچانا - مولانا اکبر لاہوری رنج مت دینا کسیکو مت ستانا دیکھنا + مردم آزاری کے پھندے مین نہ آنا دیکھنا +

ستم ٹوٹنا - ظلم پڑنا - مارا جانا غارت ہونا - شوق چھوٹے کی جان پر ستم ٹوٹے + شاہ عباس کا علم ٹوٹے +

ست نجا - سات قسم کا اناج ملا ہوا - گڈمڈ - ملا جلا -

ست نکل جانا - طاقت کا زائل ہونا - تھک جانا - مفلس ہو جانا -

ستو باندھ کے پیچھے پڑنا۔ نہایت ہی کوشش اور جانفشانی سے کسی کام کو کرنا۔ کسی بات کے سر ہو جانا۔

ستھراؤ کرنا۔ مار کر ڈھیر لگا دینا۔ کثرت سے گرانا سیکڑون کو کشتہ کرنا۔ میر ابرو ہی کی جنبش نے یہ ستھراؤ کیے ہین + مارا نہین اُن نے کوئی تلوار سے اب تک +

ستھراو ہو جانا۔ بہت سے مکانون یا درختون کا گر جانا۔ کشتون کے ڈھیر لگ جانا۔

سٹپٹاتے پھرنا۔ آوارہ یا مارا مارا پھرنا۔ پریشان و سرگردان پھرنا +

سین با جیم

سُجھنے جانا۔ پاخانے جانا۔ رفع حاجت کے لیے بیت الخلا جانا۔

سَچ مُچ۔ بالکل صحیح۔ بہت درست۔ نظیر گل رنگی نگر پیڑہی گلبدنی ہی + کیا نام خدا حسن ہین سچ مچ کے ہنی ہو۔

سَچّا ہاتھ۔ دیانت داری۔ ایمانداری۔ ساکھ +

سین با خاے

سخت سُست کہنا۔ برا بولنا۔ ملامت کرنا ۵ سنگدل ہیے ایسے بگڑے ہین + روز ہی سخت سُست کہتے ہین +

سخن پروری کرنا۔ اپنی بات کا پاس کرنا۔

سخن دینا۔ قول دینا۔ عہد کرنا۔ اقرار کرنا۔

سخن ڈالنا۔ سوال کرنا مانگنا +

سخت جان۔ جسکی جان مصیبت سے نکلے +

سین با دال

سدِّ راہ ہونا۔ کسی کام مین حارج ہونا۔ ممانعت سے پیش آنا۔

سِدھ کرنا۔ پورا کرنا۔ جادو کے زور سے اپنے قبضہ مین لانا۔

سین با رائے

سر اٹھانا۔ اترانا۔ غرور کرنا۔ گھمنڈ کرنا۔ سحر سر اٹھایا جو بگولے نے پریشان ہوا + خاک ہو خاک کے پتلے کو سزاوار گھمنڈ +

سر اڑا دینا۔ سر کاٹ ڈالنا۔ قتل کر دینا۔

سِر آنا۔ جن بھوت کا کسی کے سر پر چڑھ بولنا۔ کسی بات مین ضد کرنا +

سر آنکھون پر رکھنا۔ کمال عزت کسی چیز کی کرنا۔ نعتیہ از مولف۔ نبیؐ کے نقش پا کو زائران درگہ والا + کبھی دل پر کبھی سر پر کبھی آنکھون پہ رکھتے ہین +

سر آنکھون پر بٹھلانا۔ کسی بزرگ کا اعزاز کرنا کمال درجہ کے ارادت سے پیش آنا۔

سر باندھنا۔ مانگ چوٹی کرنا۔ سر گوندھنا +

سر بھاری ہونا۔ درد سر ہونا۔ چکر آنا۔

سر بیچنا۔ جان کو جوکھون مین ڈالنا۔ فوج کی نوکری کرنا +

سر پٹکنا۔ سر مارنا۔ کسی کام مین نہایت سعی اور کوشش کرنا۔ سمجھانا۔ فہمایش کرنا +

سر پر اٹھانا۔ شور و غل برپا کرنا۔ ادھم مچانا +

سر پر پڑنا۔ مصیبت آنا۔ بلا نازل ہونا۔

سر پر چڑھانا۔ بچہ کو بہت لاڈ پیار کر کے خراب کر دینا۔ عادتین بگاڑ دینا۔ نوکر یا ملازم کو گستاخ کر لینا +

سر پر چھپر رکھ دینا۔ کسی کے سر پر احسان کا بار رکھ دینا یا قرضدار بنا دینا۔

سر پر خاک ڈالنا۔ خاک اڑانا۔ ماتم کرنا۔ رونا۔ پیٹنا۔ نوحہ کرنا۔

سر پر رکھنا۔ نہایت درجہ کی عزت کرنا۔ جرأت ہاتھ جرأت کے جو کل سنگ در یار لگا + کبھی چھاتی سے لگایا کبھی سر پر رکھا +

سر پر کالی ہانڈی رکھنا۔ بدنامی اٹھانا۔ رسوا ہونا شرمندہ و خجل ہونا +

سر پر کھڑا ہونا۔ نہایت نزدیک آ جانا مولف تو کیون بیٹھا ہے ہو کر ایسا غافل + اجل ہر وقت جب سر پر کھڑی ہے +

سر پر ہاتھ پھیرنا۔ چمکارنا۔ پیار کرنا +

سر پر ہاتھ رکھ کر رونا۔ سر پکڑ کر رونا۔ نہایت غم و الم مین ہونا قسمت کو رونا۔ ذوق اے ذوق وقت نالہ کے رکھ لے جگر پہ ہاتھ + ورنہ جگر کو روئیگا تو سر پہ رکھ کے ہاتھ۔

سر پر ہاتھ دھرنا۔ سر پر ہاتھ رکھنا۔ کسی کا مددگار بننا۔ سرپرست و مربی ہونا۔ کسی کے سر کی قسم کھانا۔ جلال لکھنوی کل نہ تھا شکوہ تمھارا بخت کے شاکی تھے ہم + ابتک یاد آئیگا لو ہاتھ سر پر رکھ دیا۔

سر پڑنا۔ حصہ مین آنا۔ ذمہ لگنا۔

سر پکڑنا۔ تسلی و تشفی دینا۔ ڈھیر بندھانا۔ مدد کرنا۔ حمایت کرنا۔

سر پھرانا۔ چھوڑنا۔ ٹکرانا۔ مغزنی کرنا۔ سر مارنا۔ نہایت کوشش کرنا۔

سر پھرنا۔ چکر آنا۔ جی گھبرانا۔ سودا ہونا۔ برق حال کچھ کہتے ہین جب کہتی ہو وہ رشک پری۔ سر ہمارا سنتے سنتے یہ کہانی پھر گیا +

سر پھوٹنا۔ سر کا ٹکڑے ہو جانا۔ سر مین شدت کا درد ہونا +

سر پھوڑنا - سر کے ٹکڑے کر دینا - لڑنا - جھگڑنا - آپس مین لڑائی کرنا -

سر پر بٹھانا - عزت کرنا - خاطر و مدارات کرنا -

سر پر کھیلنا - مرنے پر مستعد ہو جانا اور قتل کرنے کے لیے تیار رہنا - جرأت - جھکی گردن یہان ہی اور وہان تیغ برہنہ ہی + اجل یہان کھیلتی ہی سر پہ وہان تیغ آزمائی ہی +

سر پر لینا - کسی امر کو اپنے متعلق کر لینا - دوسرے شخص کی مصیبت اپنے ذمہ پر لے لینا -

سر تا پیر تا کر دینا - کسی چیز کو بانٹ دینا تقسیم کر دینا -

سر توڑ کر لینا - زبردستی سے وصول کرنا - یار علی رشید کا مین توڑ کے سر لونگا دیکھنا + غائب جہان نما یہ مرا جام ہو گیا +

سر تھکانا - سر کھپانا - سر مارنا - مغز زنی کرنا - تقریرین کرنا اور سننا

سر جوڑنا - سر جوڑ کے بیٹھنا - آپس مین صلاح و مشورہ کرنا - اتفاق و ملاپ کرنا - پوشیدہ گفتگو کرنا -

سر جھکانا - فرمان برداری کرنا - اطاعت کرنا - حکم مان لینا - شرمندہ ہونا - مؤلف سرفرازی اگر تم چاہتے ہو + سیکھ لو عاجزی سے سر کو جھکانا +

سر چڑھا - بے ادب - گستاخ - مغرور -

سر چڑھانا - سر کاٹ کر کسی بزرگ کے مزار یا دیوی دیوتا کے مندر پر چڑھانا - میر تقی طوف مشہد کو جب مین جاؤنگا + تیغ قاتل کو سر چڑھاؤنگا -

سر چڑھ کے بولنا - جن بھوت جادو کا کسی کے سر پر چڑھ کے بولنا - نسیم کیا لطف جو غیر پردہ کھولے + جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے

سر چڑھنا - سر پر قرض ہو جانا - کسی کا گستاخ ہو جانا -

سر خاب کا پر لگنا - سب سے افضل ہونا - سب سے بڑھ جانا یہ جملہ طنزاً کسی کے حق مین بولا جاتا ہی -

سر خرو ہونا - سبکدوش ہونا - بری الذمہ ہونا - فتحیاب ہونا - سیر سے خون سے ہاتھ رنگین کر لیے قاتل نے آج + زمرۂ عشاق مین اب سرخرو ہم ہو چکے +

سرد مہری کرنا - بے مروتی بیوفائی کرنا - میر سرد مہری کی بسکہ گلرو نے + اوڑھی ابر بہار نے بھی شال +

سر دھرا - بزرگ - بڑا - بوڑھا - مربی - سرپرست -

سر دھننا - سر کو دے مارنا - نہایت افسوس کرنا شوق گرم آہون سے سینہ جھنتا تھا + صورت شمع سر کو دھنتا تھا +

سر دینا - جان پر کھیلنا - مرنے کو مستعد ہو جانا - جو مین مارے ہوئے جانان تری زلف پریشان کے + وہ سر دیدینگے دام زلف مین لیکن نہ آئینگے +

سردی ہونا - جاڑا پڑنا - زکام ہونا -

سر ڈھکنا - سر چھپانا - اوڑھنی اوڑھانا -

سر رنگنا - سر لال کرنا - کسی کے سر کو لہو لہان کر دینا سر توڑنا - سر پھوڑنا -

سر رہنا - کسی کے پیچھے پڑے رہنا - چمٹے رہنا -

سر زد ہونا - ظاہر ہونا - واقع ہونا - ظہور مین آنا - صادر ہونا

سر سبز ہونا - پھلنا پھولنا - ہرا ہونا - مشہور و معروف ہونا - میر سر سبز ملک ہند مین ایسا ہوا کہ میر + یہ ریختہ لکھا ہوا تیرا دکن گیا +

سرسون پھولنا - زرد ہی زرد نظر آنا - سرسون کے کھیت کا پھولنا - شاہ نیاز بریلوی - من موہن نے چھب دکھلائی سرسون پھولی آنکھون مین + ہیم کی زردی مکھ پہ چھائی سرسون پھولی آنکھون مین -

سہرہ ہونا - کسی چیز کا کسی پہ دار و مدار ہونا - عزت و آبرو کا تمغہ ملنا

سر سہلانا - سر پر ہاتھ پھیرنا - خوشامد کرنا - تملق و چاپلوسی کرنا -

سر سے چلنا - سر کے بل چلنا - نہایت تعظیم سے پیش آنا - عزت کرنا - ناسخ - نقش پا سے یار پر رکھیے بھلا کیونکر قدم + سر سے چلنے کی ہر کوی یار مین عادت ہین +

سر سے کفن باندھنا - مرنے کو مستعد رہنا - اپنی جان کو کچھ چیز نہ سمجھنا - میر سر سے باندھا ہی کفن عشق مین تیرے یعنی + جمع ہم نے بھی کیا ہی سر و سامان یکجا +

سر سے کھیلنا - سر ہلا کر کھیلنا جسطرح سایہ زدے کھیلتے ہین - سہ ڈسا ہو کالے نے جسکو کافر تو وہ فسون کے اثر سے کھیلے + وہان و گیسو کا تیرے مارا نہ منہ سے بولے نہ سر سے کھیلے -

سر سے مارنا - ناراضگی کے ساتھ کسی چیز کو واپس دینا -

سر سینگ ہونا - کسی خاص علامت کا ہونا - کوئی خاص نشان قائم ہونا -

سرفراز کرنا - عزت دینا - آبرو بخشنا قطعہ خدا نے آدمی تجکو بنایا + کیا ہی ساری خلقت مین سرفراز + عبادت مین ہو مشغول ہر دم + ترا دم جب تلک ہی تجھسے دمساز +

سر کرنا - کسی سے لڑا دینا - مقابلہ پر ڈال دینا - بال گوندنا - مانگ چوٹی کرنا -
سر کرنا - بندوق چلانا فیر کرنا - ملک فتح کرنا - لڑائی مین کام لینا
سر کو آنا - لڑنے کو دوڑنا - پیچھے پڑنا - کاٹنے کو دوڑنا -
سر کھانا - شور مچانا - دق کرنا - تنگ کرنا -
سر کھجانا پٹنے کو جی چاہنا - مار کھانے کو جی چاہنا جراُت
بزم رندان مین شیخ آتا ہی + اب تو اُسکا بھی سر کھجاتا ہی -
سر گاڑی پیر پہیا کرنا - نہایت محنت و مشقت کرنا -
سر گنجا کرنا - سخت مار دینا - مال چھین لینا مفلس و نادار کردینا
سر گھٹنوں مین دینا - شرمندہ یا آزردہ خاطر ہونا -
سر گباشی ہونا - مرجانا - وفات پانا - بہشت مین جانا - بیکنٹھ مین جانا -
سر گریبان مین ڈالنا - فکر کرنا - سوچنا متردد و متفکر ہونا - ناسخ - فکر سے خالی نہین ہون تجھم جانان مین کبھی + کبھی زانو پہ میرا سر ہی گریبان مین کبھی + میر تقی کیا نظر آتا ہو کہ شرم سے گل + سر گریبان مین ڈال لیتے ہین +
سر لگنا - تہمت لگنا - الزام دھرا جانا -
سر مارنا - کمال کوشش کرنا سعی کرنا - ذوق پایا در اثر یہ سمین رات بھر پھیری + سر مارتی یہ آہ سپہر کہن کے ساتھ +
سر کھپانا - بہت سی محنت کرنا - ریاضت مین مصروف رہنا - غالب فکر دنیا مین سر کھپاتا ہون + مین کہان اور یہ وبال کہان +
سر مُنڈانا - سر کے بال اتروانا کسیکا چیلا بننا -
سر مونڈنا حجامت کرنا - بال اُتار لینا - کسیکا مال فریب سے لے لینا - اُسکو مفلس کردینا -
سرمہ کردینا - نہایت باریک پیسنا -
سرمہ ہوجانا - پسکر باریک ہوجانا -
سر مین خاک ڈالنا - ماتم کرنا - رونا پیٹنا -
سر نام کرنا - مشہور و معروف کرنا -
سر نگ اُڑانا - مشہور لفظ ہی -
سر نیچا کرنا - شرمانا - لجانا - لحاظ مین آنا -
سر ہلانا - انکار کرنا - ضعیف و کمزور ہوجانا -
سر ہونا - کسی بات کے پیچھے پڑ جانا -
سر چوٹ - اب اسیوقت فی الحال -

سر بازار - بازار مین سب کے سامنے - علانیہ -
سر بمہر - بند جسپر مہر لگی ہوئی ہو -
سر پر - نہایت قریب - بہت نزدیک -
سر جھاڑ منھ پہاڑ - بے تمیز عورت نہ سر مین کنگھی ہو نہ ہاتھ منھ دھویا ہوا ہو -
سر نہ پیر - نہ ابتدا نہ انتہا - نہ آگا نہ پیچھا - بے سروپا بے ٹھکانا
سر سے پاؤن تک - تمام و کمال بالکل - سارا سے بام روشن تھا طور کی صورت + سر سے پا تک تھی نور کی صورت +
سری پھل - ناریل جو مشہور چیز ہی -
سر آنکھون سے - بسر و چشم - بہت بہتر -
سرخ و سپید بنا ہوا ہی - موٹا تازہ ہی - تندرست ہی -
سر سے سر د آتا ہی - سر کے ساتھ بگڑی ہی - سروار کے ساتھ فوج ہی - ان باپ کے ساتھ بچے ہین -

سین با سین

سُسرال کا کتا - وہ جنوائی جو خسر کے گھر رہے اور خسر کی روٹی کھائے -

سین با فا

سفر کرنا - رحلت کرنا - مرجانا - انتقال کرنا - قطعہ از مولف عزیزو کب تلک زندہ رہو گے + کہ آخر بالیقین مرنا ہی تمکو + رہو گے گھر بنا کر کب تلک تم + جب اس گھر سے سفر کرنا ہی تمکو +
سفید پڑ جانا - سفید ہو جانا - کسی خوف یا بیماری کی باعث چہرہ سپید ہو جانا -
سفید خون - انسان کی منی -

سین با کاف

سکڑ سکڑ کرنا - بخیلی کرنا - کنجوسی کرنا - ممساک ہونا -
سکڑی پڑنا - تنگی پڑنا مصیبت پڑنا -
سکھا شاہی - سکھون کی عملداری جو بے انصافی و ظلم و غارت کا زمانہ تھا -
سکہ بٹھانا - سکہ جمانا - حکومت قائم کرنا ضرب چلانا - میر سکے بٹھائے ہین بہت ترسا کے داغ نے + جھنڈا گڑا ہی کشور دل مین صلیب کا +
سکھ فرمانا - آرام کرنا سو جانا -
سگھڑ بھلائی - صفت کی نیکی صفت کی بھلائی -

سین بالام

سلامت روی اختیار کرنا - چین سے چلنا - کفایت شعاری کرنا - نیک عادتین اختیار کرنا -

سلام دینا - بندگی کہنا - رخصت کرنا - آزردہ ہی رو عجب - رنجش خاطر کو دو سلام + آؤ گلے لگو ہمسے کیسے نہین نہین +

سلام کرنا - بندگی کرنا - رخصت کرنا - خیرباد کہنا - چھوڑنا - ترک کرنا - تیاگنا - میر کوچے کے اسکے باشندون نے سبکو یہین سے کیا سلام - کسکا کعبہ کیسا قبلہ کون حرم ہے کیا احرام +

سلامی اتارنا - کسی امیر کی تعظیم مین خالی بندوقون یا توپون کی فیر کرنا -

سلائی پھیرنا - اندھا کرنا - نابینا کرنا -

سل سے بیٹھنا - تسلی سے بیٹھنا -

سلفہ کر ڈالنا - جلا ڈالنا - خاک کر دینا -

سلام ہی - بندگی ہی - تسلیم ہے - بس ہی - شوق - مفت مین ہم تو ہوگئے بدنام + اس محبت کو آپ کے ہی سلام -

سین بامیم

سما باندھنا - کسی بات کی پوری پوری تصویر کھینچ دینا - پوری پوری کیفیت ظاہر کرنا -

سمجھ پر پتھر پڑنا - عقل جاتی رہنا - ہوش گم ہونا ذوق تجھے اے سنگدل اترام جان مبتلا سمجھے + پڑین پتھر سمجھ پر ایسی ہم سمجھے تو کیا سمجھے +

سمندر پار اتارنا - جلاوطن کرنا -

سین بانون

سناونی آنا - پردیس سے کسی کے مرنے کی خبر آنا -

سناٹا آنا - غش آجانا - بیہوش ہو جانا -

سناٹا بتنا - بالکل گم صم ہو جانا - اجاڑ سا معلوم ہونا سنسان ہونا -

سنبھالا لینا - مرتے آدمی کا کسیقدر ہوش مین آجانا - ذوق بیمار محبت نے لیا تیرے سنبھالا + لیکن وہ سنبھالے سے سنبھل جائے تو اچھا +

سنبھل سنبھل کر بگڑنا - بن بن کر بگڑنا - خوب ناراض ہونا داغ سنبھل سنبھل کے بگڑتا ہی کچھ دل بیتاب + الٰہی آج یہ صدمہ ہو جان پر کیسا +

سنبھا کی کنجیا - وہ کنجیا جسکی ٹہری پر بال ہون -

سنجھا بتی کرنا - شام کے وقت چراغ جلانا -

سنجھا پھولنا - شام کو شفق ظاہر ہونا -

سن سے جی ہو جانا - پژمردہ خاطر ہو جانا -

سنکلپ کرنا - ہبہ کرنا - بخشش کرنا - پن کرنا -

سنگسار کرنا - پتھرون سے مار دینا - مولا اکبر لاہوری اس بت سنگدل سے جو پھر جاسے + ماردو اسکو سنگسار کرو +

سن ہو جانا - بے حس و حرکت ہو جانا -

سنیچر آنا - برا ستارہ آنا - نحس دن آنا -

سنگھ - راجپوتون کا خطاب ہی جاٹ سکھون کو یہ خطاب گورو گوبند سنگھ نے دیا -

سنت آدمی ہی - فقیر آدمی ہی -

سین باواو

سوانگ لانا - رنگ لانا - بہروپ بھرنا - شعبدہ بازی کرنا مکر و فریب کرنا - کبھی خوش کبھی رنجیدہ ہو جانا - **قطعہ از مولف** کبھی روتے ہین صورت بلبل + کبھی گل بن کے مسکراتے ہین + شکل ہر دم نئی بدلتے ہین + ہر گھڑی تازہ سوانگ لاتے ہین آتش کبھی تیر بنتی ہی کبھی خنجر کبھی سنان + لاتی ہی رنگ یار کی مژگان نئے نئے

سوا نیزہ پر آفتاب آجانا - قیامت قائم ہونا - سخت گرمی ہونا -

سوت باندھنا - سیدھ باندھنا - نشانہ اور شست لگانا -

سوت جاری رہنا - آمد کا سلسلہ قائم رہنا -

سوتی بھڑون کو جگانا - سوئے فتنہ کو بیدار کرنا - پرانے جھگڑونکو تازہ کرنا - دبی ہوئی آگ کو ہوا لگانا -

سو جان سے عاشق ہونا - لٹو ہونا - شیدا ہونا - فریفتہ ہونا - دل سے فدا ہونا - یار علی صنوبر گیا غش مین ہوئی سو جان سے عاشق + عجب بوٹا سا قد اسکا نمونہ ہی قیامت کا +

سو جان سے صدقے یا نثار ہونا - واری واری جانا - بلہاری جانا قربان جانا میر وہ جو خنجر بکف نظر آیا + میر سو جان سے نثار ہوا +

سوجھتا کرنا - بندوبست یا انتظام کرنا -

سودا اچھلنا - ہونا - دیوانہ یا پاگل ہو جانا - دیوانگی کا زور کرنا -

سود کھانا - بیاج کھانا نقد روپیہ قرض دیکر فیصدی بیاج وصول کرنا

قطعہ از مولف اس زمانہ کے جو مسلمان ہین + بیاج لیتے ہین سود کھاتے ہین + نام اسکا منافع رکھتے ہین + اصل پر سود جب بڑھاتے ہین +

سورج کو چراغ دکھانا - بے فائدہ کام کرنا -

سوکھا پڑنا - بارش نہونا - قحط پڑ جانا -

سوکھا ٹالنا - کچھ نہ دینا - باتوں میں ٹال دینا -

سوکھا جواب دینا - صاف جواب دینا - انکار کرنا -

سوکھکر کانٹا ہو جانا - لاغر ہو جانا - بدن پر گوشت نہ رہنا ذوق

اڑ رہے گا دشت میں لیلی ترے ناقہ کا گام + ہو گیا مجنون جو کانٹا سوکھکر اچھا ہوا +

سوکھی چنائی کرنا - خشک عمارت کرنا جسمیں چونا یا گارا نہ لگایا جائے بغیر پانی پینے کے کھانا کھانا -

سوکھے دھانوں پانی پڑنا - عین موقع پر بارش کا ہونا -

سوکھے گھاٹ اتارنا - مایوس رکھنا کچھ نہ دینا - کسی کی خواہش کو پورا نکرنا سحر داسے محروم ہی نہ ہو پہنچے چشمۂ مقصود تک + سوکھے گھاٹوں تشنہ کا سون کا اُتارا ہو گیا +

سول سے لگنا - ناگوار معلوم ہونا - بُرا لگنا - دل میں چبھنا -

سولہ سولہ گنڈے سُنانا - بیشمار گالیاں دینا - ملائم باتیں کہنا -

سولی پر جان ہونا - مصیبت میں مبتلا ہونا - خطرہ میں جان ہونا - راحت - ہجر ابرو فراق مژگان ہیں + دل ہی خنجر پہ جان سولی پر +

سولی پر چڑھانا - دار پر کھینچنا - مار دینا - تکلیف دینا - رنج پہونچانا نسیم سنبل مرا تازیانہ لانا + شمشاد اسے سولی پر چڑھانا +

سونٹھ لیسانا - زچہ کے واسطے ضروری سودا خریدنا - حاملہ کے کھانیکی چیزیں بہم پہونچانا -

سونٹھ کی ناس لینا - خاموش رہنا - زبان سے کچھ نہ کہنا تحمل و صبر کرنا -

سونٹے پڑنا - خوب پیٹا جانا - مار کھانا -

سونے کا نوالہ کھلانا - بہت عمدہ اور قیمتی کھانے کھلانا - ناز پیار سے پالنا - برق کہتے ہیں دیکے بوسہ طلائی جبین کا + سونیکا میں نے تجھکو نوالہ کھلا دیا -

سونے کی چڑیا ہاتھ لگ جانا - کسی مالدار سے ملاقات ہو جانا -

سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکل جانا - ناممکن بات کا وقوع میں آجانا - خدا کی قدرت ظاہر ہونا -

سونٹھیا صراف - مالدار دولتمند - دیانت دار - صراف جو سونے کا لین دین کرتا ہو -

سوکھی الفن - پتلی دُبلی عورت نازک بدن -

سونتا سے ہاتھ - وہ عورت کا ہاتھ جو زیور سے خالی ہو -

سونا سوگندھ - زر خالص کھرا سونا - تاسخ سونا سگندھ کیوں

دیکھوں تجکو اسے پری + رنگت سنہری اُسپہ یہ خوشبو بدن میں ہے -

سو لبسوے - غالباً ظن غالب - ہونے والی بات -

سوکنوں کی جوڑی - یہ نام ایک آتشبازی کا ہے - دو مورتیں مانند سوکنوں کی بنا کر انمیں باروت بھر دیتے ہیں جب آگ دی جاتی ہے تو وہ دونوں آپسمیں لڑتی ہیں -

سین یا ہا سے ہوز

سہاگ اُترنا - عورت کا خاوند مرجانا - رانڈ ہونا بیوہ ہونا -

سہتا سہتا - قابل برداشت - نیمگرم پانی یا دودھ وغیرہ -

سہاگ رات - پہلی رات عورت کی خاوند کے ساتھ ہمبستری کی شب زفاف تخت کی رات -

سہرے کی بیاہتا عورت -

سین یا یا سے

سیاہ دکھانا - فوج کی حاضری دینا - لشکر کی کثرت ظاہر کرنا سہ ہمارا دل وہ رستم ہے کہ آنکھ اسکی نہ جھپکے گی + دکھائیں ترک چشم اسکو سیاہ فوج مژگان کا +

سیاہ و سفید کرنا - نیک و بد کرنے پر مختار ہونا - مستقل حاکم ہونا - قلعۂ از مولف - رات دن کو خدا بدلتا ہے + جو سیاہ و سپید کرتا ہے + حکم سے اسکے وار ونیا ہیں + کوئی جیتا ہے کوئی مرتا ہے +

سیاہی کا دبانا - کسی کالی بلا کا خواب میں آکر ڈرانا - کابوس کی حالت ہو جانا - آتش دھیان اُس کا کل مشکیں کا جو آیا مجھکو + خواب میں آکے سیاہی نے دبایا مجھکو +

سیپ لگنا - کسی پرندے کا دُبلا ہو جانا - طوطا کبوتر وغیرہ کا پر حجبہ اٹھنا -

سیپی کا سا منھ نکل آنا - لاغر ہو جانا - بدن پر گوشت نہ رہنا -

سیتلا کا کھاجا - وہ شخص جسکے چہرہ پر بہت سے چیچک کے داغ ہوں -

سیج چڑھنا - عروس کا اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستر ہونا -

سیخ پر لگانا - کباب بھوننے کے لیے گوشت سیخ پر چڑھانا کسیکو سخت تکلیف دینا

سیدھا آنا - سامنے آنا مقابل آنا - راستی و درستی پر آنا -

سیدھا بنانا درست کرنا کج نکالدینا - ٹیڑھا باتیں نہ کہنا سمجھا دینا

سیدھا بننا - سیدھا ہونا - ٹھیک ہونا - درست ہونا - سیدھی راہ پر آنا سہ خم جب سے قدر راست میں آیا سنبھل گئے + سیدھے بنے ہم ایسے کہ سب بل نکل گئے +

سیدھی سنانا - صاف صاف کہدینا - زبان پر آنا - سُنا دینا -

سیدھی انگلیون گھی نکالنا - کسی کام کو آسانی کے ساتھ کر لینا -

سیدھے سادے بنّا - بھولے بھالے بنّا بیوقوف و احمق بننا

سیدھے منھ بات نہ کرنا - کھلے طور پر کلام نہ کرنا - منھ پھیر کر بات کرنا - اترانا - غرور کرنا -

سیر کی ہنڈیا مین سوا سیر پڑا اور ابھنا - حوصلہ اور گنجایش سے زیادہ مال ملگیا - مفلس کو دولت ملگئی تو اپنے جامہ سے باہر نکل گیا -

سیڑھی سیڑھی چڑھنا - درجہ بدرجہ ترقی حاصل کرنا - پایہ بپایہ اوپر جانا -

سیکھ دینا - سکھانا - نصیحت کرنا - مشورہ دینا - تدبیر بتلانا -

سیلا سی سے بولنا - نرمی سے بولنا - اخلاق سے پیش آنا -

سیلا کر کے کھانا - سرد کر کے کھانا - جلدی نکرنا آہستگی سے کام لینا -

سینت کے رکھنا - حفاظت سے رکھنا -

سین مارنا سین دینا - اشارہ کرنا -

سینڈھ لگانا - نقب لگانا - سوراخ کرنا -

سینگ دکھانا - فخر ظاہر کرنا - بڑائی جتانا -

سینگ کٹا کر بچھڑون مین ملنا - بڑا ہو کر بچون کے ساتھ کھیل کود مین شریک ہونا -

سینگ سمانا - پناہ ملنا - حفاظت کا مقام ہاتھ لگ جانا -

قطعہ از مؤلف - تم نہین چاہتے اگر ہمکو + تیری محفل مین ہم نہ ٹھہرینگے
چند روزہ گذارہ کر لینگے + سینگ اپنے جہان سما ئینگے +

سینگ نکلنا - جوان ہونا ہوشیار ہونا -

سینہ ابھار کے چلنا - غرور سے چلنا - اترا کر چلنا - اینٹھکر چلنا - خرامان خرامان چلنا -

سینہ زوری کرنا - سرکشی کرنا - زبردستی کرنا -

سینہ کوٹنا - ماتم کرنا نوحہ کرنا - میرا دل جو تھا اک آبلہ پھوٹا گیا +
رات کو سینہ بہت کوٹا گیا +

سینہ سے لگانا - پیار کرنا - محبت کرنا - ؎ مضطرب ہتا ہی
مدت سے یہ دل + آج سینے سے لگا لو ہمکو +

سیدھی سادھی چال - سلامت روی کا طریقہ - سیدھا رستہ - کفایت شعاری تا سخ خیر چاہے تو سیدھی چال چل اور مال مست +

گر تے ہین نشہ مین چلتے ہین اگر میخوار کج +

سیدھی آنکھون - خوشی بخوشی - کھلے ماتھے - رضامندی و خوشدلی کے ساتھ مؤلف - غیر کا سب ٹھرا ئین جاتا رہے اک آن مین + سیدھی آنکھون سے اگر وہ سرو قد ہم سے ملین +

سیف زبان - وہ شخص جسکی زبان مین اثر ہو جو بات منھ سے کہے ظہور مین آجاسے - مدحیہ کردہ اہل قلم مین ہی تھا
سیف قلم + تمام اہل زبان مین وہی تھا سیف زبان +

سیتلا کی پھوٹی ہوئی آنکھ - ایسا نقصان جسکا معاوضہ نہو سکے جیسے کہ سیتلا کی پھوٹی ہوئی آنکھ درست نہین ہو سکتی -

سیدھی آنکھ - مہربانی کی نظر - لطف کی نگاہ -

سینہ بسینہ - باپ دادون سے نسلاً بعد نسل - مدحیہ از مؤلف
عنایت کیا غوث اعظم کو حق نے + جو تھا علم عرفان کو سینہ بسینہ +

سیدھی انگلیون سے گھی نہین نکلتا ہی - قاعدہ ہی کہ برتن مین لگا ہوا گھی بغیر ٹیڑھی انگلیون کے نہین نکل سکتا اسی طرح کمینہ اور پاجی آدمی نرمی اور مہربانی سے کام نہین دیتا جبتک اسپر سختی نہو +

سیر کے واسطے سوا سیر موجود ہی - زبردست کی سرکوبی کے لئے اس سے زیادہ زبردست موجود ہی ایک سے ایک بڑھکے ہی -

سیر چشمی - قانع ہونا - جا بجا ہونا بے پروا ہونا -

پانچوین فصل

اودیات اور ان لغات کے ذکر مین جو علم طب کے متعلق ہین

سین با الف

سالامندرا - یہ ایک جانور سانپ کی شکل سے ملتا ہوا مع دو ہاتھ اور دو پاؤن چھوٹے چھوٹے کے ہی دُم اسکی چوڑی ہی رنگ اسکا ابلق زردی و سیاہی سے ملا ہوا - آگ اسپر تاثیر نہین کرتی اگر تنور مین ڈالدین تو آگ بجھ جاسے اور طبیعت اسکی نہایت گرم اور خشک ہی اسکا گوشت ایک مثقال سم قاتل ہی روغن اسکا اگر بالون کو لگایا جائے تو بال فوراً گر جائین -

ساج - یہ ایک بڑے قد کا درخت ہی اسکو ہندی مین سال اور ساگون کہتے ہین اسکی لکڑی بڑے بڑے کام مین خرچ ہوتی ہی اسکے پھل کو حبش و دیگر کھاتے ہین طبیعت اسکے لکڑی کی سرد اور خشک ساتھ تھوڑی حرارت کے درد سر گرم کو نافع ہی اور اورام گرم کو اسکا ضماد تحلیل کرتا ہی سوزش معدہ و تشنگی کو دفع کرتا ہی -

ساذج — یہ ایک ہندی درخت کے پتے ہین جو بڑا درخت
اور بلند ہوتا ہی - لکڑی اُسکی خوشبو ہوتی ہی یہ درخت سوا اسکے
ہند کے اور کسی ولایت مین نہین ہوتا - طبیعت اسکی گرم اور
خشک حافظ ارواح و اخلاط - مفرح و مسمن و محلل ریاح مصلح
معدہ مقوی جسم مدر بول و حیض ہی -

سام ابرص — یہ ایک جانور ہی جسکو ہندی مین چھپکلی کہتے ہین
جنگلی اور شہری ہوتا ہی - طبیعت دونون کی گرم اور خشک ہی ضماد اسکے
گوشت کا مسون کو دور کرتا ہی بالون کو جماتا ہی اور اگر عقرب کے نیش پر
رکھین تو درد کو تسکین دیتا ہی -

ساداوران — یہ ایک سیاہ مائل بسرخی اکثر درختون کے جوف
مین پائی جاتی ہی جو نارجیل کے درخت سے ملے وہ بہتر ہی طبیعت
اسکی سرد اور خشک تھوڑی حرارت کے ساتھ حابس اسہال
دموی ہی زخمون کو اچھا کرتا ہی اور اورام کو تحلیل کرتا ہی -

سامان — یہ ایک جنگلی گھاس نہایت نرم اور باریک ہوتی ہی
اسکے بوریے بنائے جاتے ہین جو نہایت نرم ہوتے ہین طبیعت
اسکی سرد اور خشک ہی اسکے بوریے پر بیٹھنا موجب حصول فرحت
ہی بواسیر اُس سے دفع ہوتی ہی اور راکھ اسکی قاطع نزف الدم ہی -

ساگودانہ — یہ ایک دوا ہی جو اکثر جزائر سے لائی جاتی ہی
طبیعت اسکی گرم و تر ہی بیمارون کو بجائے غذا دودھ یا پانی مین
پکا کر فالودہ کی طرح دیتے ہین طبیعت کو فرحت دیتی ہی -

سین بایاے

سبج — معرب شبہ یہ ایک سیاہ پتھر چمکیلا ہوا ہلکا جلد ٹوٹنے والا
بلاد سوڈان اور ہند کے پہاڑون سے نکلتا ہی طبیعت اسکی
سرد خشک دافع خفقان مقوی معدہ و باصرہ و مقوی دل ہی -

سپستان — مشہور درخت ہی جسکو ہند مین لسوڑا کہتے ہین
اسکے پھل کا نام بھی لسوڑا ہی - صورت اسکے پھل تازہ کی کتیا کے
پستان کی طرح ہوتی ہی اسواسطے نام اسکا سگ پستان مشہور ہوا
کثرت استعمال سے سپستان کہا جاتا ہی - طبیعت اسکی حرارت اور
برودت مین معتدل ہی - تلیین سینہ و حلق و درستی آواز اور کھانسی
گرم اور خشک کے لیے مفید ہی حرقت البول اور تیزی صفرا
کو دور کرتا ہی -

ستیہ — بفتح سین و کسر تا ے و سکون یاے تحتانی ایک مچھلی
کا نام ہی جسکی ہڈی نہایت سخت ہوتی ہی گوشت اسکا پولا اور

سورا اندر اشنج کی طرح ہوتا ہی - اور سوراخون مین بجاے مغزون سیاہ
پانی بھرا ہوا ہوتا ہی اور وہ پانی تیل کی طرح چراغ مین جلتا ہی اسکے اندر
دافع سنگ مثانہ و سنگ گردہ ہی اور مدر بول -

سین باتاے

ستاور — یہ ایک درخت ہندی کی جڑ ہوتی ہی جو دافع سوزاک اور
سوزش بول ہی -

سین باخاے

سخار — یہ ایک گھاس اذخر کی صورت پر ہی - مزا اسکا تلخ طبیعت
اسکی گرم اور خشک دافع صرع و فالج و مقوی معدہ و فاتح سدہ جگر ہی

سین بادال

سداب — یہ ایک گھاس ہی جسکو ہندی مین ساتول اور
ساتری کہتے ہین - بستانی - پہاڑی اور جنگلی تین قسم کی ہوتی ہی
پتی اسکی چھوٹی پھول زرد اور بیج ایک غلاف مین تین تین تیز بو ہوتے ہین
انمین سے بستانی ہی - طبیعت اسکی گرم اور خشک ہی عقل کو بڑھاتی ہی
دماغ کو طاقت دیتی ہی - مدر حیض و بول ہی اور بھی فایدے اسکے بکثرت
کتابون مین لکھے ہین جنکی تشریح اس موقع پر نہین ہوسکتی -

سدر — یہ ایک مشہور درخت ہی جسکو فارسی مین کنار ہندی مین
بیر کہتے ہین - بہت سے اقسام اسکے ہین - جنگلی اور باغی بھی ہوتا ہی طبیعت
اسکی سرد خشک اور بستانی تازہ پھل سرد و تر قابض و دیر ہضم ہی -

سداب بری — پتی اسکی پتلی شاخین کم اور بدبو زیادہ بستانی سے
طبیعت اسکی گرم و خشک سموم قتالہ سے ہی چار درم اس سے کھائین
تو ہلاک کر دیوے - لوہے کے اوپر اسکو ملین تو مورچہ نہین لگتا ضماد
اسکے پتون کا عضو کو بیحس کر دیتا ہی -

سین باراے

سراج القطرب — یہ ایک گھاس ہی کہ بحالت تر اور تازہ ہونیکے
چراغ کی طرح رات کو روشنی دیتی ہی - سراج کے معنی چراغ کے ہین اور قطرب
کرم شب تاب کو کہتے ہین جسکو ہندی مین جگنو بولتے ہین - تریاقی تاثیر
اسمین وہ ہی کہ ہر ایک زہر کے اثر کو دور کرتی ہی خصوصاً رتیلا کے زہر کا تو یہ علاج ہی اکسیر

سرخس — یہ ایک جڑ سیاہ رنگ ہوتی ہی ہندی مین اسکو
کہتے ہین - نر اور مادہ دو نون قسم کی نر اسکا بیدون ساق اور بیدون پھل
پھول کے - بلکہ ایک شاخ اسکی جڑ سے جمتی ہی بقدر ایک گز کے
اور اطراف پر پتی و ندانہ دار مشابہ چھچھوندر کے پرون کے اور مادہ
بدون شاخ کے طبیعت اسکی دوسرے درجہ مین گرم اور تیسرے درجہ مین خشک

منشا۔ جالی و مفتح و محلل و مفرح و مسہل ہی مانع حمل مسقط جنین نافع وجع المفاصل ہی۔

سدرس ۔ یہ ایک ہندی درخت ہی سلطان الاشجار۔ درخت زکریا اور سریہ بھی اسکو کہتے ہین۔ بڑا درخت ہوتا ہی طبیعت اسکی سرد اور خشک ہی پتی اسکی شبکوری کو دفع کرتی ہی۔ دانتون کو مضبوط کرتی ہی جذام اور خدر کو فایدہ دیتی ہی تخم اسکا فالج و لقوہ و استرخا و درد مفاصل و امراض دماغی کا علاج ہی۔

سرپھونکہ ۔ یہ ایک سبزہ ہی۔ شاخین اسکی پتلی اور بلند پتی اسکی پتلی پھول سرخ اور سپید۔ مگر سپید پھول والا نایاب۔ تخم مشابہ باقلا کے پوست خالدار مغز زرد اور کڑوا طبیعت گرم تر دافع سرفہ یعنی کھانسی و امراض جگر و طحال و گردہ و مثانہ و بواسیر خونی۔

سرطان نہری ۔ سرطان بحری ۔ یہ جانور آبی مشہور ہی جسکو خرچنگ فارسی مین ہندی مین کیکڑا کہتے ہین۔ نہری چنگ کی طبیعت سرد اور تر کثیر الغذا دیر ہضم اور بہی ساتھ قوت جاذبہ کے تین عدد سرطان کی اطراف کاٹ کر اور جوف انکا پانی اور راکھ سے خوب دھو کر جو مقشر کے ساتھ پانی مین پکائین اور وہ پانی پئین تو سل اور دق اور کھانسی کو دفع کرتا ہی۔ سرطان بحری سمندر مین ہوتا ہی جب تک پانی مین رہتا ہی نرم ہوتا ہی باہر آکر جب ہوا لگتی ہی تو بہتر ہو جاتا ہی۔ یہ سرطان نہری سے چھوٹا ہوتا ہی مشابہ چھچھوندر کے اسکو جلا کر آنکھون مین ڈالین تو بصارت کو زیادہ کرتا ہی۔ دانتون کو لگائین تو دانت مضبوط ہوتے ہین کھانا اسکا زہر قاتل ہی۔

سرکچی ۔ یہ ایک ہندی گھاس کا نام ہی ساق اسکی گرہ دار ہر ایک گرہ پر شاخ پتی سفید سی مائل پھول چھوٹا طبیعت مائل بحرارت رطوبت اسکے پتون کا جوشاندہ وجع مفاصل اور درد پشت کو دفع کرتا ہی جڑ اسکی حمیات مرکبہ کو نافع ہی۔

سرو بستانی و سرو بری ۔ دونون قسم کے سرو کا درخت ہی بستانی بڑا درخت ہوتا ہی۔ خزان مین بھی سرسبز رہتا ہی پھل چھوٹا سا جوزرومی کی صورت پر طبیعت اسکی پہلے درجہ مین گرم تیسرے درجہ مین خشک قابض محلل دافع عسر البول مقوی مثانہ ہی پینا دو مثقال اسکے پسے ہوے پتون کا ساتھ آدھے مثقال مرکی کے بول فی الفراش کی بیماری کا علاج ہی۔ سرو بری بھی تاثیر مین سرو بستانی کی طرح ہی مگر بالونکے سیاہ کرنے مین اس سے زیادہ سریع التاثیر ہی۔

سرپا کنچی ۔ ایک سبزہ ہی پتی اسکی مشابہ پتی رطبہ کے پھول زیرہ اور سپید طبیعت معتدل حرارت اور یبوست مین فضلہ دماغی اور سودا کو دفع کرتا ہی جذام کا علاج ہی۔

سین باطای

سطاخنیس ۔ لغت یونانی ہی اور ایک سبزہ کا نام پتی جسکی سفید اور چھوٹی رونگٹے دار اور خوشبو کوہستان اور خشک زمین مین پیدا ہوتا ہی طبیعت گرم اور خشک وحشت خوف۔ وسواس۔ مالیخولیا۔ اور خفقان بارد اور بیخوابی و ریاح غلیظہ کا علاج ہی۔

سطراطیوطس ۔ یہ ایک بوٹی پانی پر بدون جڑ کی ہوتی ہی مشابہ بادرنجبویہ کے اس سے چھوٹی اور نعناع سے بڑی ہندی مین اسکو جل کھمبی کہتے ہین طبیعت اسکی سرد تر سوزش بول و سوزش اعضا کو نافع ہی۔

سطاریون ۔ یہ ایک بوٹی مشابہ عشق پیچہ کے درختون پر لپٹ جاتی ہی بنفشہ کی طرح اسکا پھول ہی گل عقرب اور براران بھی اسکو کہتے ہین طبیعت اسکی مرکب القوی۔ اورام گرم کے تحلیل کرنے مین اس سے زیادہ کوئی علاج نہین پھول اور پتی اسکی کوٹ کر بچھو اور زنبور اور رتیلا نیش پر باندھین تو زہر جاتا رہی۔

سطرشقون ۔ یہ ایک بوٹی گیہون کے کھیت مین پیدا ہوتی ہی ساق اسکی پتلی اور گرہ دار بدون کسی شاخ کے ہی پتی بقدر انگوٹھے کی پھیلی کی جگہ ایک قبہ اسپر سفید صنوبری شبیہ سفید اور زرد چنبیلی کے پھولونکی طرح اسمین بیج زیرہ کے مانند جڑ لمبی اور سفید اور تلخ طبیعت اسکی گرم اور خشک نہایت جالی محلل قوی مسہل رطوبت امراض جگر و یرقان و عسر النفس کی نافع ہی۔

سین باعین

سعد ۔ ہندی مین اسکو موتھ کہتے ہین یہ ایک جڑ لمبی اور چوڑی مختلف شکلون کی اندر سے سپید اور خوشبو کوقی اور ہندی بہت سے اقسام کی ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم و خشک مدر بول و حیض دافع درد و بواسیر الانف و خفقان و یرقان ہی۔

سعوط ۔ ہر ایک شے جو ناک مین پھونکی جاسے یہ اختراعات جالینوس ہی۔

سعدان ۔ عربی مین یہ ایک گھاس کا نام ہی جو خار دار اور سفید اور نرم ہوتی ہی۔ پھل اسکا گول اور خاردار اور جڑ اور پھل دونون اسکے مدر بول مین قاطع زحیر اور اسہال ہی۔

سین باقافی

سقادیکیس بکسر دال یونانی زبان مین ایک گھاس کا نام ہی ساق جسکی
بقدر دو بالشت شاہترہ کی طرح پھول زرد اور سفید جڑ مائل بہ تیزی
بتلخی بعض اسکو جنگلی پیاز جانتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک
مقوی معدہ مسکن درد گردہ و مثانہ تریاق سموم مسہل اخلاط غلیظہ ہی
سفرجل - بہی جو ایک مشہور میوہ ہی اور اسکے تخم کا لعاب دوا مین
مستعمل ہی - بہی آزاد اور بہی ترش اور بہی ترش شیرین - شیرین بہی کا
نام بہی آزاد ہی - تین اقسام اسکے الگ الگ طبیعت رکھتے ہین شیرین
کی طبیعت حرارت اور برودت مین قریب باعتدال ہی مقوی دل
و دماغ و معدہ و مددگار روح حیوانی - ترش کی طبیعت پہلے درجہ مین
سرد و دوسرے مین خشک - معدے کی تقویت مین شیرین سے زیادہ
قوی اور ترش و شیرین قاطع صفرا و مفرح روح و مقوی معدہ ہی -
سقفید ولیون - یہ ایک بوٹی سونف کے ساتھ مشابہت
رکھتی ہی - تر زمینون مین پیدا ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک
مفتح و مسہل بلغم دافع صرع و عسر النفس ہی -

سین با قاف

سقمونیا - یہ دوا ایک گھاس کا دودھ ہی جو سخت زمین بے آب
پہاڑی مین پیدا ہوتی ہی - شاخین اسکی بہت سی زمین پر بچھی ہوئی
ہوتی ہین اسلیے لیسدار رطوبت نکلتی ہی - پھول اسکا سفید اور گول
جڑ سفید بقدر گاجر کے جس سے دودھ لیا جاتا ہی طبیعت اسکی گرم
اور خشک جالی و محلل و مفتح مسہل صفرا و مدر فضلات قاتل جنین
دافع زہر کژدم ہی -
سقولوقندریا - یہ ایک جانور مکڑی کی صورت پر شہری اور
بیابانی ہوتا ہی اسکے بہت سے پانون ہوتے ہین ابو سبع اور سبعین
اور اربع اور اربعین بھی اسکو کہتے ہین طبیعت اسکی گرم اور تیز ہی
اور زہر قاتل اگر آدمی کے جسم سے چھو جائے تو خارش شروع ہو جاتی ہی -

سین با کاف

سکباج - ایک قسم کی غذا ہی جو سرکے سے بناتے ہین سرد اور رطب
ملطف و مفتح و قاطع بلغم و مسکن غلیان خون -
سکبینج - یہ ایک گھاس کا گوند ہی باہر سے سرخ یا زرد اندر سے
سپید ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک مسخن و ملطف جالی و محلل
دافع قولنج و اورام صلبیہ ہی -
سکر - فارسی مین شکر ہندی مین کھانڈ اور شکر اور گڑ کہتے ہین
یہ شکر یعنی گنے کا عصارہ یعنی نچوڑ ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک

اور جو تازہ عصارہ سیال ہی وہ گرم و تر ہی ملین طبع و حلق و سینہ و ریہ
و مقوی باہ ہی خون صالح کو پیدا کرتا ہی -
سکر العشر - یہ شبنم ہی جو عشر درخت کے پتون پر آسمان سے برس کر
جم جاتی ہی - اس درخت کو فارسی مین خرک ہندی مین اک کہتے ہین جو
ولایت خراسان مین پڑتی ہی وہ سپید نمک کے ٹکڑون کی طرح ہوتی ہی
اسکو یمانی کہتے ہین اور سیاہ رنگ کو حجازی بولتے ہین ان دونون
مین سے یمانی عمدہ قسم ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک ہی مگر حجازی گرم
زیادہ ہی یمانی سے مفتح و مقوی جگر ملین طبع و آلات تنفس دافع سرفہ
و قرحہ شش و درد سینہ و جگر و معدہ ہی -
سک - عصارہ آنولہ کا جو تازہ آنولے سے نکالا جاتا ہی اسکو
سک اصلی کہتے ہین جس ملک مین آنولہ نہین ہوتا تو خام کھجورون سے
سک بناتے ہین اسکو سک غیر اصلی کہتے ہین طبیعت اسکی دوسرے
درجہ مین سرد پہلے درجہ مین گرم اور دوسرے درجہ مین خشک ہی
مفتح و محلل و قاطع نفث الدم و حابس قی و مقوی اعصاب قوت
ماسکہ ہی اور اگر سک مین مشک ملایا جائے تو اسکو سکامسک
کہتے ہین طبیعت اسکی مائل بگرمی ہی -
سکاحیہ - یہ ایک بوٹی کا نام ہی پتی اسکی مشابہ پتی مورد کی اور وسط
ساق مین ایک حلقہ انگوٹھی کی طرح ہوتا ہی جسکو انگوٹھی کہتے ہین طبیعت
اسکی گرم و خشک مسہل سودا ہی اور دافع صلابت طحال -
سکوہ - یہ نام ایک درخت کا جو ہند کے ملک خصوصاً ملک بنگال
مین بکثرت ہوتا ہی - بہت بڑا اور بلند لکڑی اسکی عمارتون مین خرچ
ہوتی ہی اسکا پوست اکھاڑین تو اسکے نیچے سے رال نکلتی ہی -

سین با لام

سلاجیت - ہندی لفظ ہی اور یہ قسم مومیائی کی کہ دکن کے ملک صوبہ
بہار وغیرہ مین پتھرون سے اُنکی مستی ٹپک کر جم جاتی ہی طبیعت
اسکی گرم اور خشک ساتھ تریاقیت کے دافع فساد خون ضیق النفس
و دق و تپ کہنہ و بواسیر بادی و خونی و جریان ہی -
سلت - جو برہنہ یعنی وہ جو جسکے اوپر خوشہ مین پردہ نہین ہوتا
معمولی جو سے کچھ چھوٹا طبیعت اسکی گرم و خشک کھانا اسکا دودھ
کے ساتھ بدن کو فربہ کرتا ہی چربی پیدا ہوتی ہی روٹی گرم اسکی
ملین طبع ہی -
سلحفات - ایک دریائی جانور ہی جسکو کشف اور سنگ پشت
فارسی مین ہندی مین کچھوا کہتے ہین طبیعت اسکی گرم تر مقوی باہ

اور مکر ہی کباب اسکے بعض کو تیار کرتے ہین ۔
سلق ۔ چقندر جو ایک مشہور چیز ہی ۔ طبیعت اسکی مرکب القوی ساتھ حرارت اور یبوست کے ہی قاطع بلغم قلیل الغذا دافع رعشہ محرک شہوت جماع ہی ۔
سلانیون ۔ ایک درخت اقسام بیدین سے ہی بیت المقدس شام کے پہاڑون مین ہوتا ہی ۔ پھول سکا سرخ بیج مشابہ سیاہ دانہ کے طبیعت اسکی گرم اور خشک خاندہ اسکے پتون کا رب کو صاف کرتا ہی آواز کو درست کرتا ہی ۔ سموم حیوانی خصوصاً افعی کے زہر کا علاج ہی ۔
سلاحہ ۔ بجاے حلی پیشاب پہاڑی بکریون کا کہ مستی کی حالت مین پتھرون پر پیشاب کرتا ہی اور وہ جم جاتا ہی سیاہ رنگ تیر کے مانند ولایت دیلم مین اسکا شورہ بناتے ہین جس سے بارود عمدہ بنتی ہی ۔ طبیعت اسکی گرم اور خشک مسہل اخلاط سوختہ اور دافع جذام ہی ۔
سلخ الحیہ ۔ پوست مار سانپ کی کینچلی جو سانپ اپنے جسم سے اتار کر پھینک جاتا ہی ۔ طبیعت اسکی گرم و خشک دافع بواسیر ظاہری و اندرونی کا ہی ۔
سلیخہ ۔ ہندی اسکو تج کہتے ہین ۔ یہ پوست ایک درخت کا ہی جو ہند مین پیدا ہوتا ہی یا کنارے دریاے عمان مین پتے اسکے سوسن کبود کی طرح ہوتے ہین ساق غلیظ پوست موٹا اور وہ سات قسم ہی ۔ ایک زرد غلیظ اور خوشبو دوسرا برنگ مرجان اور پرت دار اور خوشبو تیسرا مائل بزردی بغیر خوشبو کے چوتھا سرخی اور سیاہی کے درمیان اور رقیق ۔ پانچوین رقیق کبود اور خوشبو گلاب کے پھول کی سی چھٹا مشابہ قسط کے اور غیر براق ساتوین رقیق اور بہت سیاہ اور بدبو ۔ بعض کہتے ہین کہ دارچینی کے درخت سے حاصل ہوتا ہی یہی قول درست معلوم ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک ملطف اور مسخن و منضج و محلل و مقوی اعضا و مقوی معدہ و کبد مخرج جنین مقوی بصر دافع زکام و کھانسی ہی ۔
سلوی ۔ یہ ایک جانور پرندہ ہی جو حضرت موسیٰ کی قوم کو تیہ جنگل کی قید مین خدا کی طرف سے خوراک پہونچایا جاتا تھا ہندی مین اسکو لوا بولتے ہین ۔ بعض کے نزدیک یہ سمانی ہی ۔ بعض اسکو دریائی جانور کہتے ہین ۔ طبیعت اسکی گرم و خشک تاثیر مین محرک باہ ہی ۔

سلیمانی ۔ فارسی مین اسکو دار اشکنہ ہندی مین استیا کہتے ہین سنکھیا اور پارا سے بنایا جاتا ہی ۔ طبیعت اسکی گرم و خشک کھانا اسکا زہر قاتل ہی مرہمون مین استعمال کیا جاتا ہی ۔

سین با میم

سمکتہ الصیدا ۔ یہ ایک مچھلی چشمہ تول مین جو قریہ تبوک کے پاس ہی ملتی ہی سمیکہ صیدا اور سمکہ برکہ اور سمکہ تول بھی اسکو کہتے ہین مشابہ چھوٹی چھپکلی کے ہوتی ہی دو ہاتھ اور پاؤن اور پنجے رکھتی ہی اور دم ذرا ٹیڑھی ۔ نر مادہ دونون قسم کی ہوتی ہی جب تک زندہ رہی نر اور مادہ پہچانی جاتی ہین ۔ بعد مرنے کے علامتین نر اور مادہ کی کم ہو جاتی ہین ۔ صیدا اور تبوک دو گانون شام کے ملک مین ہین اور تول نام ایک چشمہ ہی جسمین یہ مچھلی ہوتی ہی ۔ نر مادہ کے ساتھ جماع آدمی کی طرح کرتا ہی فصل بہار مین یہ مست ہوتی ہی اور آپس مین زیادہ جماع ہوتا ہی طبیعت اسکی دوسرے درجہ مین گرم اور خشک ہی اور کف جو اس سے نکلتا ہی وہ تیسرے درجہ مین ہی ۔ ایک رتی کف اسکا انڈے کی زردی کے ساتھ کھانا مین نوباہ کو جوش مین لاتا ہی اور کامل نعوظ پیدا کرتا ہی یہانتک کہ پھر وہ نعوظ فرو نہین ہوتا اور ہلاکت تک پہونچاتا ہی گوشت اسکا باہ کی تقویت کے واسطے عجیب و غریب نسخہ ہی ۔
سمیرا ۔ یہ ایک قسم کی بوٹی کاسنی کی طرح ہی پتی اسکی نہایت سبز ہوتی ہین اور جڑ طولانی ہی ایک جانور کے لیے زہر قاتل ہی ۔
سمور ۔ یہ ایک جانور ترکستان مین پایا جاتا ہی ۔ اسکے چمڑے کی پوستین بناتے ہین جو قیمتی ہوتی ہین ۔ اور سنجاب سے زیادہ گرم ہی اور سرد مزاجون کے لیے نہایت مفید کھانا اسکے گوشت کا مقوی باہ و مقوی دل و سینہ ہی ۔
سماق ۔ مشہور میوہ ہی جو کھٹا اور میٹھا ہوتا ہی ۔ طبیعت اسکی سرد اور خشک قابض و مقوی معدہ قاطع صفرا دافع اسہال صفراوی ہی ۔
سمک ۔ مچھلی کو کہتے ہین جسکی ہزارون اقسام ہین ۔ عمدہ مچھلی وہ ہی جو شیرین اور کم وزن پانی مین رہتی ہی اور وہ پانی پتھرون یا موتی ریت پر ہمیشہ جاری رہتا ہو ۔ طبیعت مطلق مچھلی کی سرد اور تر ہی اور بعض گرم تر کہتے ہین ۔ کباب تازہ مچھلی کے اگر یہ بھون کر کھانا بہتر ہی اس مچھلی سے جو گھی مین بھونی جاوے یا شوربا پکایا جاوے گوشت مچھلی کا مرطب اور سمن مولد منی ہی دودھ بڑھاتا ہی گردے کی چربی کو زیادہ کرتا ہی ۔
سمسم ۔ فارسی مین کنجد ہندی مین تل کہتے ہین مشہور چیز ہی جسکا تیل بھی نکالا جاتا ہی ۔ کھانے مین بھی آتا ہی ۔ طبیعت اسکی گرم و تر ساتھ

رطوبت لزجہ کے قلیل الغذا مقوی و مفتح صالح الکیموس مسمن بدن ملین آواز و اسعاد و محلل اورام گرم ہے۔

سماق الدباغین ۔ مازو کو ہی جیسکے چھوٹے دانے ہوتے ہین چمڑے دباغت کے مصالح مین بھی اسکو داخل کیا جاتا ہے۔ طبیعت اسکی بہت سرد اور قابض۔ اور خواص اسکے سماق کی طرح ہین۔

سمقوطن ۔ یہ نام ایک گھاس کا ہے جو دو قسم کی ہوتی ہے ایک صحری دوسری سہلی۔ صحری پتھریلی زمین مین جمتی ہے بدون شاخون کے سخت اور خشک اور خوشبو۔ پتی پتلی مزا شیرین۔ جڑ لمبی طبیعت گرم ہے یہ دوا امراض باطنی امراض کا علاج ہے۔ زن و مرد اس سے فائدہ اٹھاتے ہین۔ سہلی شاخدار گھاس۔ رونگٹے دار پھول زرد اگر اسکو ہاتھ لگائین تو کھجلی ہونے لگے رنگ ظاہری اسکے ریشے کا سیاہ اندر سے سپید بدون شیرینی اور خوشبو کے طبیعت گرم دافع نفث الدم و اورام مقعد ہے۔

سمن ۔ بفتح سین و سکون میم روغن گاؤ و گاومیش وغیرہ یعنی گھی اور مسکہ یعنی مکھن طبیعت اسکی گرم تر محلل مفتح ساتھ قوت تریاقی کے ہے ہر ایک زہر کا مقابلہ بھی کرتا ہے جلد کو نرم کرتا ہے۔ بشرہ کو صاف کرتا ہے دماغ کو مصفا کرتا ہے بدن کو موٹا کرتا ہے خشکی کو دفع کرتا ہے۔ کھانسی خشک اور یرقان اور طحال کو نافع ہے۔

سمین ۔ چربی جو جانور کے پردۂ شکم اور روده وغیرہ پر ہوتی ہے طبیعت اسکی نہایت گرم تازہ گھی سے قریب الفعل زیادہ جلد ہضم ہونے والی ملین طبع سریع الاستحالہ اور تریاقی تاثیر مین گھی سے زیادہ۔

سمکۂ دہیہ ۔ بحر ابیض مین ایک قسم کی مچھلی بہت بڑی ایک سو گز سے دو سو گز تک لمبی بیس گز چوڑی۔ منھ اور ناک اسکی پیٹھ پر ہے درمیان دو شانون کے اسکے دم لینے کے وقت سمندر سے فوارے کی طرح پانی اچھلتا ہے۔ لوگ اسکو شکار کرتے ہین ہزارون من روغن اسکے جسم سے نکلتا ہے۔ اسکی چربی کی بتیان بنا کر چراغون مین جلاتے ہین

سمانی ۔ یہ ایک پرندے کا نام ہے عربی مین اسکو قتیل الرعد کہتے ہین اور مشہور ہے کہ یہ جانور جب بادل کی آواز سنتا ہے مر جاتا ہے طبیعت اسکی گرم و خشک کثیر الغذا مسمن بدن مدر بول دافع درد مفاصل ہے۔

سین با نون

سنگھاڑا ۔ ہندی لفظ ہے اور پھل ایک گھاس کا جو پانی مین جمتی ہے تالابون اور جھیلون مین بکثرت ہوتی ہے اسکا پھل سہ گوشہ ہوتا ہے ہر ایک گوشہ پر ایک کانٹا رنگ سیاہ باہر سے اندر سے سفید لذیذ لوگ پکا کر کھاتے ہین آٹا بھی بناتے ہین طبیعت تر پھل کی سرد تر اور خشک کی سرد خشک مقوی باہ دافع کھانسی و تپ صفراوی و مفتت سنگ گردہ و سنگ مثانہ ہے پیاس کو دور کرتا ہے بھوک بڑھاتا ہے۔

سینگھیا ۔ یہ ایک جڑ ہرن کے سینگ کی صورت پر ہے اسواسطے اسکو سینگھیا کہتے ہین ہند اور خطا کے درمیانی پہاڑون مین پیدا ہوتی ہے بعض قوی القوت اور بعض ضعیف القوت۔ اور بعض متوسط القوت قوی القوت مین اسقدر قوت ہے کہ اسکو ہاتھ سے چھو کر دوسرے شخص کے عرق آلودہ جسم کو وہ ہاتھ لگا دین تو وہ اسیوقت مر جاتا ہے اور متوسط مین بعد کسیقدر دیر کے۔ اور ضعیف القوت مین ایک دن یا آدھے دن مین زہر کی تاثیر ہو زہر ہلاہل اسی کا نام ہے۔

سنجاب ۔ جنگلی چوہا اسکے بال بڑے اور نہایت نرم ہوتے ہین اسلیے اسکے چمڑے کی پوستینین بناتے ہین جو قیمتی ہوتی ہین۔ شیعہ اسکے گوشت کو کھانا حرام اور اسکے پوست کو پہننا حرام جانتے ہین۔ اور اہل سنت کے چار مذہب مین اختلاف ہے۔ طبیعت اسکی پہلے درجہ مین گرم دوسرے درجہ مین تر گوشت اسکا مسکن حرارت و درد سینہ دافع سرفہ یعنی کھانسی ہے۔

سنباذج ۔ یہ ایک نرم پتھر ہے مختلف رنگون کا ایک سپید جسکو دودیا کہتے ہین دوسرا سیاہ جسکو نیلیا پکارتے ہین۔ تیسرا مسوریا جو مسور کی دال کی رنگت پر ہے۔ یہ سب سے اچھا ہے طبیعت اسکی بہت خشک ہے منجن اسکا دانتون کو صفا کرتا ہے اورام کو تحلیل کرتا ہے سوزش سینہ کو دور کرتا ہے بواسیر کا علاج ہے۔

سنور ۔ گربہ یعنی بلی جو مشہور جانور ہے کابل وغیرہ سرد ملکون کی بلیون کے چمڑے کے پوستینین بنتی ہین طبیعت اسکی گرم تر گوشت اسکا دافع وجع المفاصل و نقرس و درد پشت ہے پوستین اسکا بدن کو فربہ کرتا ہے۔

سندرلیطیس ۔ یونانی مین یہ ایک گھاس کا نام ہے جو انگور کے درختون کے پاس پیدا ہوتی ہے طبیعت اسکی سرد خشک التیام قروح و دفع اورام و خنازیر کے لیے شدید الاثر ہے۔

سندروس ۔ یہ ایک چیز مشابہ کہربا کے زرد رنگ ہے روغن کنجد یا سرسون کے تیل مین ڈالکر آگ پر رکھین تو پگھل جاتی ہے اور روغن بنتا ہے یہ کسی درخت کا گوند ہے بعض کے نزدیک یہ کافور کے درخت کا گوند ہے گھاس کو بھی یہ کہربا کی طرح اٹھا لیتا ہے۔ پس فرق اسمین اور کہربا مین مشکل ہے طبیعت اسکی گرم اور خشک مجفف رطوبات دماغی دافع اسہال دموی قاطع بلغم معدی و امعا مدر بول و حیض ہے۔

سنبل ۔ لغت مین سنبل خوشہ کو کہتے ہین اور نام گھاس خوشبو کا جو سنبل الطیب و سنبل العصافیر و سنبل رومی و سنبل کوہی وغیرہ مختلف اقسام کا ہی سنبل ہندی کو یونانی مین ناردین اور ہندی مین بالچھڑ کہتے ہین ۔ یہ ایک گھاس بغیر پھل اور پھول مشابہ دُم سمور ایک انگلی لمبا اور خوشہ دار اور کئی عدد آپسمین ملے ہوے رنگ اسکا اشقر سیاہی مائل بزردی بہت خوشبو اور تیز جڑ اسکی تھوڑی سخت ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک مفتح سدہ دماغی و معدہ و کبد و مقوی دماغ و جگر و فم معدہ وغیرہ ۔

سنگسپویہ ۔ ہندی مین اسکو تخم چکونڈا اور تخم سنوار بھی کہتے ہین یہ ایک دانہ بہت سخت مشابہ پتھر اور بڑے انگور کے دانہ سے اور چھوٹا ماش کے دانہ تک طبیعت اسکی گرم اور خشک ہی ضماد اسکا سرکہ کے ساتھ اورام خبیثہ کو اچھا کرتا ہی جذام اور برص کو مفید ہی ضیق النفس و امراض سوداویہ و صفراویہ کو دفع کرتا ہی ۔

سنبوسہ ۔ مشہور اغذیہ مین سے ہی اور میدہ کی ٹکیہ مین قیمہ گوشت وغیرہ ڈالکر اور مثلث شکل کی پوڑیہ بناکر گھی مین چھوڑ دیتے ہین طبیعت اسکی گرم تر کثیر الغذا مقوی اعصاب مسمن بدن ہی ۔

سنا مکی ۔ مشہور گھاس ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک مسہل بلغم و سودا و صفرا منقی دماغ و مقوی بدن ہی ۔

سنبل رومی ۔ یہ بوٹی پھولدار اور خوشبو مع جڑ خوشبو کے ہی سنبل الطیب کے ساتھ اسکی مشابہت نہین ہی پتی اسکی اونچی اور چوڑی طبیعت اسکی سنبل الطیب سے گرم زیادہ ہی مگر عمل مین اس سے ضعیف یرقان کو دفع کرتی ہی عسر البول کا علاج ہی ۔ رنگ رخسارون کا روشن کرتی ہی

سنبل جبلی ۔ پہاڑی سنبل اس بوٹی کو ظاہری مشابہت سنبل الطیب سے نہین ہی مگر فوائد اسکے اور اُسکے ایک ہین ۔

سنبل فارسی ۔ پرسیاوشان بھی اسکا نام ہی ۔ ایک قسم پیاز سے ہی جو نرگس کے ساتھ جمتی ہی نہایت خوشبو اسکی پیاز نرگس کے پیاز سے ضعیف پھول بنفشی اور بعض سپید بشکل چنبیلی کے سپید پھول کو گل شبو کہتے ہین اسواسطے کہ رات کو اس پھول کی خوشبو دن سے دوچند ہو جاتی ہی ۔

	سین با واو	

سوس ۔ یہ ایک بوٹی ہی جو اکثر بلاد مین پیدا ہوتی ہی فارسی مین اسکو مہک کہتے ہین زمین کے اوپر پھیل جاتی ہی جڑ اسکی زمین مین قائم ہوتی ہی کہ جب کاٹو پھر نکل آتی ہی ۔ اسکی شاخ ایک انگلی کی مقدار

موٹی پھول سرخ و کبود ملا ہوا اسکی جڑ کا پوست سیاہ اندر سے زرد ہی ایک قسم کی جڑ شیرین دوسرے کی تلخ ہی ۔ شیرین جڑ کو مقشر کرکے استعمال مین لاتے ہین کہ سانپ اسکو بہت چاہتا اور اسکو چاٹتا ہی تلخ بسبب سمیت کے مستعمل نہین طبیعت اسکی گرم و خشک منضج اخلاط غلیظہ مسکن تشنگی و سوزش معدہ مقوی اعصاب محلل ریاح دافع ضیق النفس ہی ۔

سویق ۔ ستو جو غلہ جو اور گیہون اور چانولون کے بنائین طبیعت اسکی اس چیز کی طرف سے جس سے ستو بنایا گیا ہو جو کے ستو حرارت کو تسکین دیتے ہین قے اور اسہال صفراوی کو فائدہ مند ہین اگر شربت انار مین گھول کر پیئین ۔ ستو گیہون کے گرم مائل باعتدال سریع الہضم کثیر الغذا امزجۂ متوسطہ کے واسطے نافع ہین اگر قند کے شربت مین پیئین ۔ علی ہذا القیاس چانولون اور چنون کے ستو امزجہ مختلفہ کو مختلف فائدہ پہونچاتے ہین ۔

سوقال ۔ یہ ایک شگوفہ اور پوست غلیظ مشابہ پوست درخت لسان العصافیر کے ہی طبیعت اسکی گرم و خشک ساتھ حدت و حدّت کے درد مفاصل بارد کو نافع ہی ۔

سولان ۔ یہ ایک جڑ سرخ رنگ صقالیہ اور روم سے لاتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک دافع لقوہ محلل اورام مقوی باصرہ ہی ۔

سوسن ۔ مشہور پھول ہی ۔ سپید بستانی کی طبیعت گرم اور خشک دوسرے درجہ مین جنگلی بستانی سے گرم و خشک زیادہ ہی دافع امراض ریہ و طحال و کبد و رحم و بواسیر و خنازیر ہی ۔

سورنجان ۔ یہ ایک جڑ مشابہ لسن صحرائی صنوبری شکل تین قسم کی ہوتی ہی ۔ ایک اندر باہر زرد و تیرگی مائل دوم سرخ تیرہ تیسری اندر باہر سیاہ ۔ نوع اول سب سے اچھا ہی ۔ باقی دو انواع مین سمیت ہی تیسرا قسم بالکل متروک ہی ۔ سبزہ اسکا ایک بالشت اونچا پھول زرد طبیعت اسکی دوسرے درجہ مین گرم تیسرے درجہ مین خشک مسہل اقسام بلغم نافع یرقان و وجع المفاصل ۔

سولقیہ ۔ یہ ایک شربت چانولون سے بنایا جاتا ہی ۔ چانول کو ٹکر چھلنی مین پھر پکاتے ہین تھیر آثار کا پانی اور ماء العسل اور شیرۂ انگور اور قند اسمین ڈالتے ہین دارچینی و لونگ و بسباسہ ایزا کر کر کئی بیت دو دن اور سردی مین چاردن دھوپ مین رکھتے ہین اور استعمال مین لاتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک قاطع بلغم خام مفتح سدد جگر و طحال نافع استسقا و یرقان ہی ۔

سودانی - یہ ایک چڑیا ہی دم جسکی لمبی اور چوڑی سی بقدر سیلی یا تھکے خوراک اُسکی کرم حشرات الارض و انگور ہی طبیعت اسکی گرم خشک گوشت اُسکا مضر دماغ ہی -

سین باہاے

سہجنہ - یہ ایک بڑا درخت ہی بنگال مین بکثرت ایک قسم کے پھول سرخ دوسرے کے سفید تیسرے کے زرد اور لمبے لمبے پھل تخم سپید ستہ پہلو پھل اور پھول اُسکے کھانے مین آتے ہین گوند بھی اُسکے تنہ سے نکلتا ہی طبیعت اسکی گرم خشک سریع الاثر دافع بلغم مقوی باصرہ مشتہی طعام ہی -

سین بایاے

سیپیا - یہ ایک مچھلی بحر قلزم بحیرہ طبریہ سرطان کی صورت ہوتی ہی - اُسکے گوشت کے جوف مین سیاہ رطوبت ہوتی ہی جس انسان لکھ سکتا ہی بلکہ بحیرہ کے پاس رہنے والے وہی سیاہی لکھنے مین خرچ کرتے ہین اسی لحاظ سے اہل مرکب اسکا نام رکھا گیا ہی - طبیعت اُسکی گرم خشک دیر ہضم ملین بطن دافع داء الثعلب و سفیدی چشم ہی

سیسنبر - یہ ایک گھاس ریحان کی قسم سے بری اور بستانی ہوتی ہی بری کو فدانج کہتے ہین جو بستانی سے قوی ہی خوشبوی مین بھی زیادہ سفیدی مین بھی زیادہ پھول مائل بسرخی ہی طبیعت گرم خشک تیسرے درجہ مین مفرح مفتح و مقوی دماغ و دل دافع عفونات مدر بول و حیض -

سیساالیوس - یہ ایک گھاس چار قسم پر منقسم ہی ایک مشابہ سوئف کے دوسری مشابہ بیلا کے تیسری مشابہ زیتون کے چوتھی مشابہ انجدان کے طبیعت سب اقسام کی گرم اور خشک دافع صرع و عسر النفس مقوی ہاضمہ مقوی دماغ درد رحم اور تقطیر البول کا علاج ہی -

سیبل - یہ ایک درخت ہندی ہی جو مشہور و معروف ہی طبیعت اسکی گرم و تر مقوی باہ و مقوی حرارت غریزی مسمن جسم دافع اسہال صفراوی ہی -

سیسارون - جڑ ایک گھاس کی ہی اگر جوش دین تو خوش مزہ معلوم ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم و خشک ہی معدے کو قوت دیتی ہی بھوک کو بڑھاتی ہی مدر بول و حیض ہی -

سیسبان - یہ ایک درخت دو گز تک اونچا ہوتا ہی پتے چوڑے

پھول زرد بہت خوبصورت پھل بقدر میتھی کے باغون مین باغ کی زینت بڑھانے کے لیئے لگایا جاتا ہی طبیعت اسکی مائل بگرمی اور خشک ہی مقوی معدہ حابس اسہال دافع ورم طحال اور تریاق سموم ہی -

سیلان - کھجور کا عصارہ جو طبخ کے بغیر دھوپ مین خشک کر لیتے ہین طبیعت اُسکی گرم و خشک منفتح و محلل جالی معدہ و امعا ہی کبد کو طاقت دیتا ہی باہ کو بڑھاتا ہی -

سیو - ایک گھاس خوشبودار کا نام ہی طبیعت اُسکی گرم اور خشک دافع سنگ گردہ و سنگ مثانہ مدر بول و حیض ہی

سولھوان باب

شین معجمہ کی لغات کے ذکر مین
اسمین پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

فارسی و عربی و ترکی وغیرہ لغات کے بیان مین

شین باالف

شا - اختصار شاہ کا - بادشاہ فرمان فرما - قطعہ از مولف
نیمجانا نرا بفضل خویش جان بخشی کنی + ناتوانا نرا توان و بی نوایا نرا
نوا + از جنابت مال و دولت مفلسان حاصل کنند + گنج گوہر
تنگدستان خاکساران کیمیا + ذرہ را خورشید انور قطرہ را گوہر کنی
صاحب گنجینہ مفلس را گدارا پادشا +

شاداب - سیراب و پرآب و تر و تازہ مولف در ہر گل و خار دیدہ
کن باز + تا گلشن ہمہ ہست شاداب +

شاہ آب - شہاب - پہلا سرخ رنگ جو کسونب کے پھول سے
نکالا جاتا ہے مولف کن وضوای عاشق از خون جگر + تا تو باشی
سرخرو مثل شہاب +

شاباب - اہواز کے ملک مین ایک درخت کا نام ہی

شارب - پینے والا پانی یا شراب وغیرہ کا -

شامخات - بلند مقامات اور بلندیان اور پہاڑونکی چوٹیان -

شامت - بفتح میم بدفالی بدبختی و شومی شعر ہر چہ با ما کرد کرد اندر
جہان + شومی یا شامت اعمال ما +

شامت - بکسر میم کسیکی خرابی اور برائی پر خوش ہونا -

شات - گوسپند جو مشہور جانور ہی - یہ لفظ تائی مدورہ کے ساتھ لکھا جاتا ہی

شالوج - ایک میوہ کا نام ہی جو زرد آلو کی طرح ترش ہوتا ہی -

شارح - شرح کرنے والا - بیان کرنے والا - نعتیہ از مؤلف
محمد شارح لفظِ ہمہ اوست + محمد خیر خواہ دشمن و دوست +

شاخ - شاخہ - درخت کی شاخ - حیوانون کی شاخ یعنی سینگ
اور آدمیون کے ہاتھ انگلیون سے کتفِ تک - اور پیر انون سے انگلیون تک
اور چھوٹی نہر جو بڑی نہر سے نکالی جائے اور پیالہ شراب کا - اور شراب جو
گلاب کے ساتھ ملی ہوئی ہو - و چاک و شگاف - اور بارہ وت وان جسمین بارود
رکھکر کمر کے ساتھ باندھ لیتے ہین میر طاہر وحید ما ز تجدد یار باعاشق
نگردد آشنا + سبب ببین شاخ را پیوند کردن مشکل ست +

شاخ شاخ - پارہ پارہ - ٹکڑے ٹکڑے - الگ الگ - شعر نورِ عرفانست
روشن در گلستان شاخ شاخ + جلوۂ ذات ست از ہر گل نمایان
شاخ شاخ - تحفۂ تحفہ مینماید لالہ رنگین روی خوش + جلوہ کشید
سنبل و نسرین و ریحان شاخ شاخ +

شاماخ - سینہ بند عورتون کا جسکو انگیا کہتے ہین - اور نام ایک
غلہ کا جسکو ہندی مین سانوان اور سوانک بولتے ہین -

شاہ رخ - نام ایک بادشاہ زادہ کا - اور نام ایک شطرنج باز کا جو شطرنج
کھیلنے مین استاد تھا - نظامی مبارک بود فال فرخ زدن + نہ بر رخ
زدن بلکہ شہ رخ زدن +

شامخ - بلند - بہت اونچا -

شالخ - نام پسر قینان بن ارفخشد بن سام بن نوح - اور عابر جسکے
نام کے ساتھ عبرانی زبان منسوب ہی اُسکا بیٹا تھا اور پارس جسکے ساتھ پارسی
زبان منسوب ہی عابر کا بیٹا تھا -

شاہد - حاضر و گواہ اور معشوق صاحب حسن و جمال غنیمت
بنام شاہد نازک خیالان + عزیز خاطر آشفتہ حالان +

شاد - خوش و خرم و آسودہ حال - نظامی نیارد بکس رنج ہیچکی
بباد + نگردد بر اندوہ کس نیز شاد +

شاگرد - نوکر چاکر خدمتگار - یہ لفظ پہلے شاہ گرد تھا - کثرتِ استعمال
سے شاگرد ہو گیا سعدی نہ رستش دیدم در زرع و شاگرد و درخت +
دلی بی مروت چوبی بر درخت +

شارف - روندہ یعنی چلنے والا -

شابود - ہالہ جو چاند کو پڑ جاتا ہی -

شادورد - خسرو پرویز کے ساتوین خزانہ کا نام ہی منجملہ آٹھ خزانون کے -

شاذ - بتشدید ذال معجمہ جدا اور اکیلا - اور صرفیون کے نزدیک
وہ لفظ جو خلاف قیاس ہو یعنی مطابق قواعد کلیہ کے نہو -

شاطر - دلاور - چالاک - تیز رفتار - شطرنج باز - شوخ و بیباک -
دوزدہ - وگرہ بر سعدی گرچہ شاطر بود خروس بجنگ + چہ زند پیش
باز روئین چنگ - محسن تاثیر گل از پیادگانت سنبل ز شاطرانت
نرگس رکاب گیرد وقت سواری تو +

شاعر - جاننے والا اور یافت کر لینے والا - شعر کہنے والا - اشعار از مؤلف
زندہ ماند شاعر شیرین زبان + از سخن تا گردش دور زمان +

شاپور - یہ نام ایک بادشاہ کا ہی جو اشک بن یافث کی اولاد سے
تھا - زکریا پیغمبر علیہ السلام اُسی کے عہد مین درخت مین پناہ گزین
ہوا - اور آرہ سے چیرا گیا - اور اُسکو شاپور ذوالاکتاف کہتے تھے
اسواسطے کہ اہل عرب مین سے جسپر وہ اختیار پاتا اُسکے شانے نکلوا دیتا
اسکے بعد اور بھی چند شاپور بادشاہ گذرے ہین - اور خسرو پرویز
دربار کا ایک امیر بھی شاپور تھا جو خسرو اور شیرین کے درمیان
وسیلہ مواصلت کا تھا اخیر عمر مین بادشاہ اس سے مکدر خاطر ہو گیا
اور نظر سے گرا دیا سعدی شنیدم کہ شاپور دم در کشید + چو خسرو
برایش قلم در کشید +

شابہار - نام ایک قدیمی بتخانہ کا جو نواح کابل مین تھا اور اب
وہ بڑے بھاری جنگل مین واقع ہی -

شار - نام ایک جانور سیاہ رنگ خوش آواز کا ہی جسکو
مینا کہتے ہین طوطی کی طرح باتین کرتا ہی - اور شغال یعنی گیدڑ اور
ایک قسم رنگین چادر ابریشمی جو عورتین پہنتی ہین اور وہ کپڑا
جو فانوس پر ڈالا جاتا ہی - و بمعنی رقص و سماع اور عمارت بلند
اور حصار ستہ و خطاب بادشاہ گرجستان و آبادی و شہر و بستی
اور وہ کھوٹ جو چاندی سونے مین ڈالا جاسے اور گرنا پانی کا
کسی اونچے مقام سے پستی کو شعر وہان باغ فوارہ و آبشار +
بہر حوض و تالاب بیش از شمار +

شاکار - شاکر - دری زبان مین بیگار یعنی زبردستی
بلا اجرت کام کرانا -

شارمار - قسم ایک بڑے سانپ کی ہی -

شاستر - ہندوؤن کے عقائد کا علم -

شالامار - اس نام کا ایک باغ کشمیر مین اور ایک لاہور مین
ہی معنی اسکے عیش کا گھر کشمیر کا شالامار اگرچہ اب تک موجود ہی
مگر خراب و خستہ لاہور کا شالامار اچھی حالت مین ہی کہ سرکار انگریزی

اسکی مرمت پر ہزارون روپیہ ہر سال خرچ کرتی ہے سیکھی وقت مین جسقدر
سنگ مرمر وغیرہ قیمتی پتھر اس باغ پر لگا ہوا تھا سب سکھون نے
اُتار لیا۔ پہلے ایک چہ بچہ یعنی حوض خورد جو شاہی غسل کے لیے سنگ
ہشب کا بنا ہوا تھا پچیس ہزار روپیہ کو سردار گوجر سنگھ نائب
لاہور نے حکاکون کے پاس فروخت کر دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا
وقت آیا تو اسنے تمام بارہ دریون کا سنگ مرمر اتار کر امرت سرگرو
دوارہ اسکے دربار بھیج دیا عمارت چونہ سے سفید کرادی۔ یہ باغ
شاہجہان بادشاہ نے بنوایا تھا جو اب تک اُسکا یادگار
موجود ہے۔ ۱۰۵۷ ہجری مین اُسکی عمارت ختم ہوئی۔ اور نمونہ
خلد برین تاریخ نکلی۔

شاموس - یونان مین ایک شہر اور نام ایک جزیرہ کا ہے۔
شاباش - مخفف شادباش ہے اور یہ کلمہ تحسین و آفرین کے
موقع پر کہا جاتا ہے و بمعنی عطا و بخشش و نثار سیر معزی سن چون
شنیدم از دور آواز مطربانش + وان شادباش کہتروان نوش باد مہتر +
شاش - ایک شہر کا نام ہے جسکا اصلی نام چاچ ہے اسکا معرب
شاش ہے۔ اب اُسکو تاشکند کہتے ہین۔ فارسی مین اُسکے معنی مُوت
اور پیشاب کے ہین۔
شاخص - وہ جسکی آنکھین حیرت سے کھلی رہ گئی ہون حیران ششدر
شایع - آشکارا و ظاہر و مشہور و معروف۔
شاع - سب کے روبرو۔ سب کے سامنے۔
شارع - سیدھا راستہ۔ بڑا راستہ اور وہ عالم و فاضل جو
شرع کے علم سے واقف ہو۔
شافع - شفاعت کرنے والا۔ بخشوانے والا گنہ گارون کا۔ یہ
خطاب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم کا ہے نعتیہ از مؤلف
شافع روز جزا و ہادی دنیا و دین + ہین رسول اللہ فخر اولین و آخرین +
شاربغ - آخیر مین غین منقوطہ ترکی مین دستار یعنی پگڑی
سر باندھنے کی۔
شارف - شتر مادہ پیر۔ بوڑھی اونٹنی۔
شاف - **شیاف** - **شافہ** - وہ میل یا بتی جسکو دوا لگا کر
قبل یا دبر مین رکھی جاسے یا آنکھون مین لگائی جاسے شفائی نسخہ
سرزدہ زمن میخواست + گفتم این شافہ ساز و آمدہ است +
شاہق - بلند اور بلند عمارت۔ اور طبیبون کے نزدیک نبض کی
حرکت جو مائل بارتفاع ہو۔

شارق - روشن اور چمکتا ہوا آفتاب وغیرہ۔
شاق - نہایت دشوار اور سخت اور مشکل از مؤلف بدہ
ہر انچہ بود حق اہل استحقاق + حساب خلق ہم از دست خویش کن بیباق +
چرا بوقت عبادت شوی تو کاہل و سست + چرا بجا مثل و مبالغہ
مشقت شاق +
شایق - صاحب شوق۔ شوقمند۔ مؤلف میرساند مرد مشتاق را
باوج قرب حق + دوستی و صدق و اخلاص و وفاق و اشتیاق +
شارشک - نام ایک ساز کا جسکو رباب بھی کہتے ہین چار تارین
لگا کر بجایا جاتا ہے اور نام ایک جانور کا جسکو تیہو بھی بولتے ہین۔
شارک - مشہور جانور ہے جسکو مینا کہتے ہین۔ طوطی کی طرح
باتین کہتی ہے۔
شالنگ - گھوڑے کا زین پوش اور فرش کا نچلا حصہ اور قاصد تیز رو
شالہنگ - مکر و حیلہ و ظلم و ستم اور آدمی سرکش و نافرمان
اور گرو یعنی رہن۔
شانک - عورتون کا سینہ بند یعنی انگیا۔
شانک - حوصلہ مرغان یعنی پرندون کا پوٹا جسمین اُنکا کھایا ہوا
دانہ رہتا ہے فارسی مین اسکو سنگدان بھی کہتے ہین۔
شاک - سپاہی جسنے ہتیار پہنے ہون
شاخل - بضم و کسر خاے نام ایک غلہ کا ہے جسکو ہندی مین ارہر کہتے ہین
شاغل - صاحب شغل جو کسی کام مین مشغول ہو مؤلف مشغول
زیبا ہی این جہان مائل + کہ نیست زو بجز از درد و رنج و غم حاصل + بغیر
یاد خداوند مگذران یکدم + بذکر و فکر خدا باش ہر زمان شاغل +
شاقول - بقاف منقوطہ وہ آلہ جس سے معمار اپنا کام سیدھا
کرتے ہین اور وہ گول لوہے یا پتھر سے بنایا جاتا ہے۔ اُسکے سر پر آہنی کنڈا
لگا کر تاگا باندھا جاتا ہے ہندی مین اسکو ساہل کہتے ہین جب کام کی سیدھ
دیکھنی منظور ہوتی ہے تو اوپر سے نیچے لٹکا کر دیکھ لیتے ہین ظاہر وحید
معمار کی تعریف مین۔ چو شاقولش این رنگ نا ریختہ + دل من بہ
موئیست آویختہ +
شال - اصلی معنی اسکے گلیم یعنی گدڑی کے ہین اور مشہور وہ
قیمتی کپڑا ریشمی ہے جو کشمیر مین بنایا جاتا ہے اگر اسکے دو پرت جمع کیے جاوین
تو دو شالہ نام رکھا جاتا ہے حسن چو حسن و صفیہ لباس شالپوشان
میکند + رنگ اسید از رخ اطلس فنایان می برد +
شاتل - ایک گھاس کا نام ہے۔

شاکلول - بہت سا کہانیوالا پرخور اور بہت سا بولنیوالا پرگو گندہ منفہ - بکواسی آدمی -

شاہ کال - ایک قسم کی روٹی کا نام ہی جو میدہ اور تخم مرغ اکر پکاتی ہین - اور نام ایک حلوا کا جسکو کلاج بولتے ہین -

شام - مغرب کا وقت - اور نام ایک ولایت کا - مؤلف می پرستد ذات حق را صبح و شام + یک بیک خورد و کلان وخاص و عام + مؤلف تابع فرمان ہمہ دور زمان شام و سحر + سرنہادہ در سجودش ہند و سند و روم و شام

شایان - لائق و سزاوار مؤلف بتعظیم و تسلیم بر آستانت + کند سجدہ سرو قد گردون گردان ز بہر رتبہ اعلی تو واری مراتب + بہر فخر لائق بہر شان شایانت

شایگان - فراخ ولایق و سزاوار اور ہر چیز بہتر اور خوب اور نام ایک خزانہ کا خسرو پرویز کے خزاین مین سے اور شفقت ولی مرد مؤلف - دہ از دست خود اسے مرد نادان + کہ این عمر تو گنج شایگان ست +

شادن - بکسر دال بچہ آہو یعنی ہرن کا بچہ -

شارستان - بڑا شہر اور بڑا قصبہ جسکے اطراف مین باغ ہون اور وہ رستہ جسطرف سے پانی نکلتا ہو -

شاہین - ایک شکاری جانور کا نام ہی اور ترازو کی ڈنڈی جسکے دونون طرف ترازو کے پلے لگائے گئے ہون اور ترازو کا سر جو تولنے کے وقت ہاتھ مین لیا جاتا ہی -

شادمان - شادمانہ - شادمند - خوش و خورم آسودگی کی حالت مین مؤلف بی تعلق شو ز دنیا سے دلی + باش اندرین دونیا شادمان + میر معزی از دولت و سعادت او شادمانہ شد + ہر دل کہ از نحوست ایام غم کشید + نظامی بفضل چنین خرم و شادمان + بستان شدم زیر سرو بلند +

شان - فارسی مین خانہ زنبوران یعنی بھڑونکا چھتا جسمین شہد ہو اور مخفف لفظ ایشان نظامی بفرمود تا خوار کردند شان + رسن بستہ بردار کردند شان + ملا طغرا - توت کی تعریف مین گر از شاخ آن شوخ دم میزند + بصل شان خود وا بہم میزند + اور عربی مین شان کے معنی عزت و آبرو و قدر و منزلت و شکوہ و ہیبت نعتیہ از مؤلف - خدا خود ہو ثنا خوان محمد + بڑی کیا اس سے ہو شان محمد +

شادان - بہت خوش اور خوشحال - مؤلف زد نیای فانی دل در خدا بند + کہ باشی در جہان خوشحال و شادان +

شادران - ایک شہر کا نام ہی -

شام غریبان - ایک شہر کا نام ہی -

شاہ نشین - بادشاہ کے بیٹھنے کا مکان -

شاتو - بتاہی فوقانی زینہ و نردبان - یہ لفظ ترکی ہی عربی مین اسکو سلم کہتے ہین - ابو نصر نصیرائی - کجا بر کنگر قصرش کمند افگن توان گشتن + کجا بر بام گردون نردبان نتوان نہاد شاتورا +

شاؤ - خالص - چنانچہ زر شاؤ -

شاملو - طائفہ قزلباش مین ایک فرقہ کا نام ہی -

شارو - شارک جو مشہور جانور ہی -

شاشو - ایک گھاس کا نام ہی جسکو پرسیاوشان بھی کہتے ہین

شائی کلیو - عجم کے پیغمبرون مین سے ایک کا نام ہی -

شانہ - کنگھی جو کہ سر کے بالون وغیرہ مین پھیرتے ہین اور نام ایک ہتھیار کا اور کوچ جولاہون کا - طاہر غنی از رشک کند باد صبا بر سر خود خاک + ور زلف تو شد بند مگر ناخن شانہ +

شارقہ - چیز روشن و روشنی آفتاب -

شاقہ - دشوار اور سخت محنت - مؤلف بہر جمع مال و زر فاقہ مکن + بہر دنیا محنت شاقہ مکن +

شاہنشاہ - بڑا بادشاہ - بادشاہون کا بادشاہ مؤلف زہی خدا و خدا وند و شاہ و شاہنشاہ + شہان ملک لایق غلام آن درگاہ + زہی خدا کہ ز آئینہ رخ مہ و خور + گہی بشام و بہ جلوہ و گہی بہ پگاہ -

شایستہ - بروزن آہستہ لایق و بہتر - مؤلف مرد شایستہ کند آہستہ کار + آید از آہستگی شایستگی +

شائبہ - آمیزش و آلودگی -

شارہ - رنگین و منقش دستار جسکو ہندی مین چیرا کہتے ہین اور نام ایک قسم کے رنگین و باریک کپڑے کا -

شاوند - یہ ایک پتھر سرخ رنگ سیاہی مائل بہت نرم ہوتا ہی عربی دکا ورسی رنگ آنکھون و دواؤن مین استعمال کیا جاتا ہی عربی مین اسکو حجر الدم کہتے ہین معرب اسکا شادنج ہی -

شاردہ - روم کے جزائر مین سے ایک جزیرہ ہی -

شارویہ - خسرو پرویز کی بیٹی کا نام ہی جسنے خسرو کو شیرین کے سبب سے مار دیا -

شازہ - عمامہ بڑی پگڑی -

شاشولہ - پگڑی کا شملہ جو پیچھے رکھتے ہین شاغولہ بھی اسکو کہتے ہین -

شاشه - پیشاب - موت اور تری اور ترشح -
شالده - عمارت کی نیو یعنی بنیاد -
شامه - عورتون کے پہننے کی اوڑھنی -
شاه - پادشاه - مالک - خداوند - والی ملک - اور وہ شخص جسکی شادی ہو اور مہرا مہره شطرنج کا - اور آدمی صاحب علم وفضل اور ہر ایک جسکو عزت دینی منظور ہو شاه کا لفظ اسکے ساتھ لگاتے ہین جیسے شاه سوار و شاه انجیر و شاه توت و شاہراه وغیره -
شاہتره - مشہور سبزه ہے جو دوا مین مستعمل ہے معرب اسکا شیتره ہے عربی مین اسکو بقلة الملک بھی کہتے ہین -
شاه دانه - تخم بنگ - بنگ کے بیج -
شایکه - ایک درخت کا نام ہے جسکا گوند انزروت ہے -
شابه - میوه ہر ایک درخت کا -
شابنکاره - ایک خطه کا نام ہے ملک فارس مین -
شاه چینی - ایک قسم کی حنا کا نام ہے -
شاکی - شکایت کرنے والا - گله کرنے والا
شاطی - دریا کا کناره -
شافعی - چار مذاہب اہل سنت مین سے ایک مذہب کے امام کا نام ہے
شامی - شام کا رہنے والا منسوب به شام
شانی - دشمن - عداوتی -
شالی - مشہور غله ہے جس سے چاول نکالتے ہین -
شادی - خوشی - راحت مقابل غمی کے میر معزی گر بتو شادی آرم ہرگز مباد و شادی + ور بیتو باده نوشم نوشم مباد باده +

شین با بای موحده

شبغا - وه احاطه کانٹون کا جو بکریون کی شب باشی کے لیے گانون سے باہر بنایا جاتا ہے شبغاز - و شبغازه کے بھی یہی معنی ہین
شباب - بفتح اول نام ایک پرده کا موسیقی مین اور عربی مین جوانی اور جوان لوگ - جمع شاب کی - سعدی ضعیفی بیشود کارت خراب + انتظام کارہا کن در شباب +
شباب - بکسر اول نشاط اور خوشی -
شباب - بضم اول و تشدید ثانی جوان لوگ یه لفظ بھی جمع شاب کی ہے
شبت - بکسر اول و تشدید ثانی مشہور بیج ہے جسکو ہندی مین جھکری کہتے ہین اور جوانی اور جوان ہونا اور آگ جلانا اور بلند ہونا -
شب - رات جسکو عربی مین لیل کہتے ہین - سعدی

شب چو عقد نماز بر بندم + چه خورد بامداد فرزندم +
شپپ - جلدی جانے والا - کودنے والا - جست مارنے والا -
شپشاپ - شپاشاپ - تیرون کے چلنے کی آواز -
شپشپ - درخت کی شاخ اور آدمی مضطرب و بے تمکین و بزدل
شبت - مشہور سبزه ہے جسکو ہندی مین سویا بولتے ہین -
شبکات - جمع شبکه کی جالیان پتھر سے جو عمارتون مین لگائی جاتی ہین اور شکاریون کے جال جنمین جانورونکو پکڑتے ہین -
شب برات - شعبان مہینے کی پندرھوین رات جسمین ملائکه حکم ربانی سے انسان کی عمر کا حساب اور رزق کے تقسیم کی فرد ایک سال کے واسطے لوح محفوظ سے نقل کر لیتے ہین اور اسی کے مطابق اُسکو تمام سال مانا رہتا ہے رباعی از موقف شب برات
ای وہ تو کیا رات پیاری رات ہے + سر بسر عشرت کا دن فرحت کی ساری رات ہے + وصل کی حاصل اگر ادس یا ده روسے ہو برات +
عید کے دن سے مبارک یه ہماری رات ہے +
شبست - دری زبان مین وه چیز جو طبیعت کو ناگوار گذرتی ہے یعنی ناپسند ہو -
شپلت - پایه و مرتبه و درجه اور وه بلند آواز جو کبوتر باز کبوتر اڑانے کے وقت کرتے ہین -
شبح - بفتحتین وجابی حطی شخص و جسم اور بدن جمع اسکی اشباح ہے -
شبور - بفتح اول و تشدید ثانی نفیری اور ناسے جو بیتل کی بنا کر بجاتے ہین -
شبر - ایک بالشت یعنی فاصله جو خنصر انگلی کے ناخن سے انگوٹھے کے ناخن تک ہاتھ کے کھولنے کی حالت مین ہے ست بھی اسکو کہتے ہین اور اصلی نام قاتل امام حسین علیه السلام کا جو شمر مشہور ہے -
شبر - بفتح اول و تشدید ثانی نام حضرت امام حسن علیه السلام کا
شبر بتخفیف یا سے بھی درست ہے -
شبیر - بفتح اول و تشدید ثانی نام حضرت امام حسین علیه السلام کا -
شبر و شبیر و مشبر - یه تینون نام حضرت ہارون علیه السلام کے فرزندون کے تھے اسی لحاظ سے رسول مقبول صلی الله علیه وسلم نے حسن و حسین و محسن صاحبزادون کو شبر و شبیر و مشبر کے نام سے موسوم کیا
شبیار - ایک دوا کا نام ہے جسکو ہندی مین ایلوا کہتے ہین -
شب قدر - یه بڑی بزرگ رات ہے اسکی تعریف قرآن مین لکھی ہے عربی مین اسکو لیلة القدر کہتے ہین - اسکے تعین مین اختلاف ہے

یہ بات تسلیم کی گئی ہو کہ رمضان کی تیسری دہائی مین یہ مبارک رات آتی ہو اور ستائیسوین رات رمضان کے مہینے کی بزرگون نے مقرر کرکے حکم دیا ہو کہ اُس رات تمام رات انسان بیدار اور خدا کی عبادت مین مصروف رہی کہ اس ایک رات کی عبادت بحکم قرآن ہزار مہینے سے افضل ہو-

شبدیز- سیاہ رنگ اور نام گھوڑے خسرو پرویز کا جو شیرین کی سواری کے لیے روم سے منگوایا تھا رنگ اُسکا سیاہ اور تمام جہان کے گھوڑون سے چار وجب بلند اُسکا قد تھا- اور نام ایک لحن کا موسیقی مین-

شباویز- ایک پرندے کا نام ہو کہ تمام رات ایک پانون سے درخت کی شاخ کے ساتھ لٹک رہتا ہو اور حق حق صبح تک پکارتا ہو جب تک اسکے گلے سے خون کا قطرہ نہین گرتا وہ خاموش نہین ہوتا-

شپوز- خفاش جو مشہور پرندہ رات کا اُڑنے والا ہو شپرہ بھی اسکو کہتے ہین-

شپش- جوئین جو انسان کے بالون اور کپڑون مین پڑجاتے ہین

شباط- رومی زبان مین ایک مہینے کا نام ہو جو تقریباً پھاگن کا مہینا ہوتا ہو-

شبطباط- نام ایک گھاس کا ہو جسکے پتے سرخ ہوتے ہین یا بل بکدورت عربی مین اسکو عصی الراعی کہتے ہین-

شبوط- ایک قسم کی مچھلی ہو جو دریائی دجلہ مین ملتی ہو اسکا پتا نزول الماء کی بیماری کو دفع کرتا ہو-

شبع- یہ لفظ عربی مین جوع کے مقابلہ پر ہو یعنی پیٹ بھر جانا طعام سے اور سیر ہونا-

شبچراغ- یہ پتھر جواہرات کے اقسام سے ہو رات کے اندھیری مین وہ چراغ کا کام دیتا ہو- پہلے یہ دریائی گاے کے منھ مین ہوتا ہو جب گاے رات کو جنگل مین گھاس چرنے کے لیے دریا سے نکلتی ہو تو شبچراغ کو زمین پر رکھ دیتی ہو تاکہ اُسکی روشنی مین گھاس بخوبی چرلے جب سیر ہو جاتی ہو تو زمین سے اُٹھا کر پھر منھ مین رکھ لیتی ہو اور دریا مین چلی جاتی ہو اسکے حاصل کرنے والے اس جنگل مین چھپ رہتے ہین جب گاے زمین پر رکھتی ہو وہ اٹھا لیتے ہین نظامی

بہ شبرنگی آن شب چراگشت مست + چو ماہ آمدش شبچراغے بدست +

شپلق- شپلاق- ترکی زبان مین طپانچہ- مکا جو کسیکو مارا جاے- شوقی یزدی

زمانہ مین کہ زسر پنجہ ستم ہر دم + بگوش عیش ونشاطم ہمی زند شپلاق-

شباق- سوراخ کرنے والا- جالی بنانے والا-

شبک- بکسر اول و کاف یعنی تکلا جس سے سوت کاتا جاتا ہو-

شبالنگ- وہ جنگلی جانور جو شکار کے لایق ہون آہو- و گوزن و بز کوہی وغیرہ-

شبتاک- دولتی مارنے والا گھوڑا و گدھا وغیرہ-

شبل- بکسر اول بچہ شیر کا- چھوٹا شیر-

شپل- بکسر اول و باے فارسی بلند آوازی و فریاد اور کبوتر بازون کی آواز-

شپیل- اونٹ کا بچہ و شیفتگی و دیوانگی-

شبنم- بفتحتین سردی اور سرد ہونا-

شبنم- قطرات جو رات کو برستے ہین اور علی الصباح پھولون اور سبزے پر نظر آتے ہین میرزا بیدل

باندک روی گرمی پشت برگل ہمیکند شبنم + چرا در آشنائی اینقدر کس بیوفا باشد +

شبرم- بکسر اول ایک قسم کی گھاس ہو جو پانی کے کنارے پیدا ہوتی ہو اگر گاے بیل اُسکو کھائے فی الفور مر جاے بکری وغیرہ اور کسی جانور کو اس سے اذیت نہین پہونچتی-

شبلم- ژندی زبان مین بھاگنا-

شبان- چرواہا مویشی کی حفاظت کرنے والا- جانورون کو چرانے والا- اور جمع شب کی خلاف قیاس سعدی

وزان بال دُ ملک از خلل غم بود + کہ تدبیر شاہ از شبان کم بود + محمد طاہر وحیلی

در دل بنیم شبان کوب کہ چون روز شود + ہمہ دریا بکشا یند و در دل بیند ند +

شبان- بضم اول و تشدید ثانی جمع شاب بہت سے جوان

شبستان- شب باشی کا مکان- رات کے سونے کا مکان خوابگاہ منقبت از مؤلف-

ابوبکرؓ و عمرؓ عثمانؓ و حیدرؓ + خدا کے دوست یاران محمدؐ + وہی تھے گھر مین مالک سارے گھر کے + وہی تھے در بہ دربان محمدؐ + وہی چارون تھے حضرت کے خلیفہ + وہی تھے جانشینان محمدؐ + وہی تھے پہلوان دین و دنیا + وہی تھے شہر سیدان محمدؐ + وہی چارون چراغ خاندان تھے + وہی شمع شبستان محمدؐ +

شبعان- جسکا پیٹ بھرا ہوا ہو-

شبرغان- بروزن نگران شہر بلخ کا ابتدائی نام ہو اور اب شہر کے پاس ایک گانون ہو-

شب بو- ایک پھول کا نام ہو جو رات کو خوشبو دیتا ہو

شَشَبَہ - بفتحتین کانچ کے دانے جسکو ہندی مین پوت کہتے ہین اور نام ایک پتھر کا جو سیاہ و روشن و سبک و نرم ہوتا ہی کہربا کی طرح - اور پیتل جو مس اور جست کی ترکیب سے بنتا ہی -

شُبْہَہ - بضم اول وفتح حرف ثالث عربی مین پوشیدہ اور مشتبہ ہوتا اور فارسی مین گمان اور شک - بدر چاچی بہانہ ایست غروب آفتاب برا پر شام + صریح باتو بگویم کہ نیست شک و شبہہ چو آسمان بسوے قصر شاہ کرد نظر + ز رفعتش بسر آسمان فتاد کلہ

شِبْہ - بکسر اول و سکون ثانی - شِبَہ - بکسر اول وفتح ثانی مثل و مانند و نظیر -

شَبَکَہ - بفتحتین جالی جسمین شکاری جانوروں کو پکڑتے ہین -

شَبَّانَہ - بتشدید بای ایک جانور خوش آواز کا نام ہی -

شَبَّابَہ - بہردو بای موحدہ آگ روشن کرنے والا -

شَبَانَہ - جو چیز رات کی بچی ہوئی ہو یعنی باسی اور گذشتہ رات - میرزا صائب - آب خضر ومی شبانہ یکی ست + مستی و عمر جاودانہ یکی ست + عبدالرحیم خان خانخانان یکچند دلم بہ ہجر آموختہ بود + در ذوق وصال دیدہ بر دوختہ بود + یاد تو شبانہ ترکتازی آورد + بر باد بداد آنچہ اندوختہ بود +

شَبِینَہ - رات کی رکھی ہوئی چیز - باسی کھانا وغیرہ - ع نباید غم روزی روز خوردن + چو گردد شکم سیر نبان شبینہ +

شَبِیہ - بروزن فقیہ نظیر و مشابہ و مانند - اور وہ تصویر جو اصل کے ساتھ مطابق ہو -

شِبْلی - نام ایک کامل ولی کا جو بغداد مین قیام پذیر تھا - اور ۳۳۴ھ ہجری مین فوت ہوا -

شین بانای

شِتَا - سردی کا موسم - جاڑون کے دن - سعدی عمر گرانمایہ درین صرف شد + تا چہ خورم صیف و چہ پوشم شتا -

شُتْرپَا - ایک گھاس کا نام ہی جسکے پتے اونٹ کے پیرون کی صورت پر ہین -

شِتْبِینَا - ژندی زبان مین خندہ یعنی ہنسنا - اور شگفتگی و تازگی و تبسم -

شِتَاب - جلد - بلا توقف - شتابی اسکا مرادف علیہ ہو دوڑنا چلنا نظامی زہر قبضہ خنجر سے در شتاب + بر آورد چون اژدہا سر ز خواب ولہ سکندر بتاریکی اندر شتاب + رہ روشنی خضر یابد بر آب +

شِشْت - وہ روپیہ جو قمار باز بعد جیتنے کے بہت سے روپیہ حاضرین پر بطور شکرانہ کے بانٹتا ہی -

شِشْتَفْت - گھر کی چھت اور ہر ایک چیز جس سے کسی کا سر ڈھانکا گیا ہو - چنانچہ سرپوش وغیرہ -

شُتُر - بضمتین مشہور چارپایہ ہی جسکو عربی مین ابل اور ہندی مین اونٹ کہتے ہین - محمد قلی سلیم وہن از لقمہ لبسکہ ساز دپر چاک افتادہ بر لبش چو شتر +

شَتْر - بفتح اول و سکون ثانی فارسی مین کنارہ و گوشہ اور نام ایک قلعہ کا ایران مین - اور عربی مین کاٹنا - و بفتحتین کاٹا گیا - اور برگشتگی پلکون کی اوپر نیچے سے اور پھٹ جانا پلک کا -

شتکار - زمین کو زراعت کے لیے درست کرنا - ہل چلانا تخم ریزی کے لایق کرنا -

شتہ غلط - کشتی کے داؤ مین ایک داؤ کا نام ہی -

شترمرغ - ایک پرندہ ہی جسکے بعض اعضا اونٹ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہین اور وہ آگ کھا جاتا ہی -

شتاغ - دودھ دینے والی بچہ دار عورت - اور ہر ایک مادہ جانور جو دودھ دینے والی ہو -

شتاک - تازہ شاخ جو کسی درخت سے نکلے -

شتالنگ - گٹا انسان کے پانون کا جسکو عربی مین کعب کہتے ہین -

شتک - پانی کی موج جو چڑھاؤ اور بہاؤ کے وقت ظاہر ہوتی ہی -

شترنگ - مردم گیاہ جسکا ذکر پہلے تحریر ہو چکا ہی -

شَتَل - وہ روپیہ جو قمارخانہ مین جیتنے والے کی طرف سے بانٹا جاتا ہی محمد قلی سلیم تلاش کام ندارم برای خویش سلیم + کہ مدعا من از نقش داون شتل ست +

شَتْم - بفتح اول گالی - بدکلامی - بدگوئی -

شُتُلُم - بہر سہ حروف مضموم ظلم - جور - تعدی -

شتان - ژندی زبان مین بہت سے سال یعنی برس جنکو عربی مین سنین کہتے ہین -

شتمن - سرین و مقعد جسپر آدمی بیٹھتا ہی - یہ لغت ژندی ہی -

شَتَن - ژندی زبان مین شہر جسکو عربی مین مدینہ کہتے ہین -

شتربان - اونٹ والا - ساربان -

شترغو - ترکی مین ایک ساز کا نام ہی جو مطرب بجاتے ہین

شَتَم - ہر ایک چیز باسی جو رات کی پس ماندہ ہو -

ستّاہ - ژندی زبان مین تیرنا پانی مین -
ششتی - ہرایک چیز پراگندہ -

شین با جیم

شجارا - ژندی زبان مین درخت جسکو عربی مین شجر کہتے ہین -
شجاعت - بہادری - دلیری - جو ایک صفت آدمی کی ہو -
شج - زمین سفید جسمین زراعت نہو اور شور جسمین غلہ نہ پیدا ہوسکے اور توڑنا کشتی نے دریا کے پانی کو -
شجد - سخت سردی جس سے درختون کے پتے جھڑ جاتے ہین -
شجاع - بہادر - پہلوان - صاحب شجاعت - توحید ہزاران شجاعان اہل شجاعت + ہزاران دلیران بازوی طاقت + شہان جہان والیان ولایت + امیران دربار و ارکان دولت + کہ بودند در دار دنیای فانی + شب و روز سرگرم عیش و مسرت + گذشتند و رفتند آخر ز دنیا + نبردند با خود بجز داغ حسرت +
شجن - باز رکھنا کسی کی حاجت کا اُس سے اور غم اور غمگین ہونا اور شاخ دوسری شاخ سے ملی ہوئی - اور سخت سردی اور جنگل کا رستہ جسمین درخت بہت ہون -
شجعان - جمع شجاع کی بہت سے بہادر آدمی -
شجرہ - درخت اور اسامی وار نام بزرگان سلسلہ کے جو شیخ اپنے مرید کو لکھ کر دیتا ہے - اور شجرہ نسبی و حسبی ہوتا ہے نسبی شجرہ آبائی ہوتا ہے اور حسبی پیران عظام کے نام -

شین با حای حطی

شحیح - بفتح اول و کسر ثانی و بہردو حای حطی مرد بخیل و حریص و ممسک
شحیح - بخیل و حریص و ممسک آدمی سے داغ حسرت میبرد بردل صریح + چون کند رحلت ازین دنیا شحیح +
شحرور - ایک جنگلی مرغ کا نام ہے جسکو پہاڑی کتاب کہتے ہین -
شحم - چربی جو انسان اور حیوان کے جسم مین ہے توحید تو در عظمی تو در عصبی تو در تنبی تو در شحمی + تو در روحی تو در جانی تو در جسمی تو در اعضا + چو بو در گل تو پنہانی نہان در جسم چو شحانی + چو زر مخفی بہر کانی چو گوہر در تہ دریا +
شحن - پُر کرنا - بھرنا چلانا - دور پھینکنا -
شحون - قوی و بزرگ -
شحنہ - کوتوال اور حاکم جو بادشاہ کی طرف سے کسی شہر مین مقرر ہو اور انتظام سیاست کا اسکے متعلق ہو نعتیہ از مولف حاکم آئین ویہی یا رسول + شحنہ ملک یقینی یا رسول +
شحمہ - تھوڑی سی چربی اور نرمہ گوش و بنا گوش -
شحنگی - کوتوال ہونا - حاکم ہونا -

شین با خاے

شخا - گھس جانا ایک چیز کا دوسری چیز مین - چبھ جانا کانٹے کا پانون مین -
شخ - شاخ کا اختصار ہے - اور سخت ہر چیز سے - جیسے شخ کمان یعنی سخت کمان - اور زمین شخ یعنی سخت زمین سعدی نہ در کوہ سبزی نہ در باغ شخ + ملخ بوستان خوردہ و مردم ملخ +
شخار - بکسر اول و فتح دوم بجی جو مشہور چیز ہے اور دھوبی اُس سے کپڑے دھویا کرتے ہین -
شخص - جسم آدمی کا اور بدن سعدی ایکہ شخص منت حقیر نمود تا درشتی ہنر نپنداری + اسپ لاغر میان بکار آید + روز میدان نہ گاو پرواری +
شخول - شخیل - شخل - صفیر و بانگ و فریاد و نعرہ بلند - اور ناخن سے اُکھاڑنا - اور چونچ سے کاٹنا گوشت کا کسی جانور کے -
شخم - وہ زمین جو زراعت کے لئے درست کی گئی ہو -
شخن - خراش ہوجانا - شگاف کرنا -
شخانہ - شہاب ثاقب جو آسمان پر ستارہ ادھر اُدھر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے -
شخکاشہ - تگرگ و ژالہ یعنی اولے جو آسمان سے برستے ہین +
شخیرہ - صابون جس سے کپڑے دھوئے جاتے ہین -
شخلی - ہرایک گھاس کی جڑ -

شین با دال

شدت - سختی رنج تکلیف جو کسیکو پہونچائی جائے قطعہ از مولف - نہ این دولت بود باقی نہ افلاس + نہ این عزت نہ این ذلت بماند + نہ مستحکم بود شدت نہ نرمی + نہ این کثرت نہ این قلت بماند +
شُد - فارسی مین ہوا - گیا - گذرا -
شدّ - بفتح اول و تشدید ثانی عربی مین استوار کرنا - محکم کرنا - اور موسیقیون کے نزدیک درست کرنا نغمہ کا بعد اسکے بلند و پست کرنے کے - طالب کلیم ہمدانی گلبانگ نغمہ سازان شدی بلند دارد + از فرش رفتہ تا عرش این صیت کامرانی +
شدّ و مد - شان و شوکت و تکلف و ظاہر آرائی -

شدائد - بہت سی سختیان اور تکلیفین -
شدید - نہایت سخت -
شدیار - وہ زمین جو زراعت اور تخم ریزی کے لیے درست کی جائے -
شِدْق - بکسر اول کنج دہان یعنی دونون لبون کی دونون طرف جو گوشے ہین -
شَدَق - بفتحتین فراخ ہونا دہان کے گوشون کا -
شَدَّہ - بفتح اول و تشدید دال علم و نشان عبد الغنی قبول
غنی از کنب مقصد او گردیدم قبول آخر + ز فیض آبلہ شد شدۂ گوہر سر انگشتم +

شین با زای

شرا - لین دین - خریدنا اور بیچنا صفدر فوقانی بباز ار جہان سوداگری کن - کہ تا یابی ازان بیع و شرا سود +
شرمی - الف بصورت یا جنگل جسمین درخت بہت سے ہون اور باریک ٹہنیان جسکو ٹہنی کہتے ہین -
شُرَفا - شریف لوگ - نیکذات لوگ -
شُرَکا - وہ لوگ جو آپسمین کسی کام مین شریک ہون -
شُرَیّا - ترکی زبان مین بادشاہ و فرمان فرما -
شِرب - بکسر اول پینے کی چیز جسقدر کسی کے حصہ مین آئے -
شُرب - بضم اول پینا پانی و شراب وغیرہ کا -
شَرَب - بفتح اول فارسی مین کتان جو ایک باریک اور قیمتی کپڑا ہوتا ہو -
شراب - پینا اور ہر چیز رقیق جو پینے مین آئے اور شراب انگوری اور قندی وغیرہ جو نشہ دیتی ہین - میر معزی لساز و عود بدہ یک شراب وصل مرا + کہ من بسوختم از ہجر تو چو ز آتش عود +
شربت - ایک دفعہ پینے کے لائق پانی یا شراب وغیرہ نظامی چو دولاب گو شربت تر دہد + از ین سر ستاند از ین سر دہد -
شریعت - بڑی نہر اور کنارہ پانی کا جہان سے عام و خاص پانی بھرتے ہون - اور وہ راستہ جسپر خاص و عام چلتے ہون و مذہب و ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میر معزی نکرد خران بزران تو شریعتی بنہاد + کہ کرد و بر ہمہ عالم مباح خون رزان +
شرافت - بزرگی - نیکذاتی نہایت طینتی - صفدر فوقانی سیادت بجنمہ النبی ختم شد + شرافت بذات علی ختم شد +
شَرَج - بفتح اول آخر مین جیم روان ہونا پانی کا سنگستان سے اور نام ایک نہر کا مین ہین - اور جھوٹ بولنا - اور مضبوط باندھنا -
شَرَج - بفتحتین کہکشان اور جنگل کی فراخی شگاف کمان کا بند جہہ کا - اور نام بیماری جسمین ایک خایہ دوسرے خایہ سے بڑا ہوجاتا ہو -
شرح - بجای حلی کھولنا - بیان کرنا - ظاہر کرنا - میرزا صائب قرص خورشید سیت اول لقمۂ مہمان صبح + چون توانم داد شرح نعمت الوان صبح + حافظ بہار شرح جمال تو داد در ہر فصل بہشت ذکر جمیل تو کرد در ہر باب +
شرح تجرید - یہ ایک کتاب شرح علامہ قوشجی نے تجرید کے متن پر لکھی ہو جو علم عقاید شیعہ مین خواجہ نصیر الدین طوسی کی تصنیف ہو -
شراب طہور - وہ شراب پاک جو بہشتیون کو بہشت مین پلائی جائیگی - آیت وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا
شرار - آگ کی چنگاریان جو آگ سے اُڑین حسین سنائی در دل ز بہم خشم تو آتش اگر فتد + دیگر بجای قطرہ فشاند شرار چشم +
شرر - آگ کی چنگاری جو جلتی آگ سے اُڑے صائب ز روی گرم کہ جان در شرر گرفت مرا + کہ آفتاب قیامت ببر گرفت مرا +
شر - خیر کے مقابلہ پر - برائی - فساد - ہندی چو گل ز گلشن عالم بہشت رخت سفر + نہ برگ خشک بصحن چمن بماند نہ تر + نہ حرف ماند نہ جوہر نہ جسم ماند نہ جان + نہ نور ماند نہ ظلمت نہ خیر ماند نہ شر +
شر و شور - برائیان اور شرارتین -
شربت دینار - دینار تخم کشوث کو کہتے ہین اس شربت مین جزو اعظم وہ ہو اسواسطے اسکا نام شربت دینار رکھا گیا مسہل و دافع قبض ہو -
شِرْز - بکسر اول ترکی و پہلوی مین آفتاب یعنی سورج -
شُرْطہ - بضم اول باد مراد یعنی ہوا کی ہوا جس سے جہاز کو کچھ خطرہ نہو اور سیدھا منزل مقصود کو چلا جائے حافظ کشتی شکستگانیم ای باد شرطہ برخیز + باشد کہ باز بینیم آن یار آشنا را +
شَرْط - بفتح اول لازم کرنا اور لازم ہونا اور عہد و پیمان ہونا و طور و طرز - نظامی بشرطے کہ کشم جان خود جای او + کہ ہرگز نتابم سر از رای او +
شرایط - جمع شرط بہت سی شرطین -
شراع - بکسر اول بادبان کشتی کا -

شرح مطالع – یہ ایک کتاب منطق کے علم مین ملا قطب الدین کی تصنیف ہی –

شرع – سیدھا راستہ جسپر عام و خاص کے چلنے کا دین و ملت و مذہب – میر معزی فتنہ خیزو چنین شرع کہ عشق تو نہاد + گر خبر یابد از مین رخصت تو خواہد امام –

شرایع – شرع کی جمع بہت سی شرعین –

شرداغ – جامہ پیشواز جسکی چھوٹی آستین ہون –

شرشوف – جو مٹی ڈھونے کے لیے دست ارا یہ بنایا جاسے اور منقل یعنی آگ رکھنے کی انگیٹھی –

شریف – بزرگ صاحب قدر و منزلت و نجیب و اصیل اور نام ایک شہر کا ایران مین اور حاکم مکہ معظمہ کا جو شریف کہلاتا ہی مفید بلخی ای شام شریف طرہ شکنیت + ای صبح نشا پور رخ رنگینت + خال تو فرح بخش تر از شام حیات + سر سبد سواد کابل پر چینیت سالک تو ہی اشریف کعبہ عشقیم و دائم برہمن + ارمغان از بہر ما ناقوس و زنار آورد +

شرح مواقف – یہ کتاب میر سید شریف نے مواقف کے متن پر لکھی ہی –

شراسیف – پہلو کی ہڈیون کے سر جو شکم کی طرف ہون جمع شرسوف –

شرف – بزرگی و قدر و منزلت از روی حسب کے ہو یا نسب کے یا علم و فضل کے اور شرف ستارون کا بروج مین چنانچہ شرف آفتاب کا انیسوین درجہ برج حمل مین اور شرف چاند کا تیسرے درجہ برج ثور مین اسی طرح عطارد کو سنبلہ مین اور زہرہ کو حوت مین اور مریخ کو جدی مین اور مشتری کو سرطان مین اور زحل کو میزان مین شرف حاصل ہی نظامی شرف یافتہ مشتری از حمل + گرایندہ از علم سوے عمل + میر معزی آسمان قدری کہ تا گشتہ وجود ش برزمین + از وجود او شرف وارد زمین بر آسمان +

شرایف – بزرگیان عزتین آبروئین –

شرق – آفتاب چمکتا ہوا – اور روشن – اور وہ سمت جسطرف سے سورج نکلے – مؤلف شود جلوہ گر جلوۂ نور ذات + ز ہر شرق و غرب و جنوب و شمال +

شروق – ظاہر ہونا روشنی – اور نکلنا سورج کا –

شریاق – بکسر اول آنکھون کی رگین –

شرک – ایک بیماری ہی جس سے بسبب جوش خون کے بدن پر چھوٹے پھنسیان نکل آتی ہین اور مرغون کے پکڑنے کی جالی کے حلقے اور ٹیڑھا راستہ –

شراک – جوتی کی دوال –

شرنگ – جنگلی خربزہ جو خوش رنگ ہو اور حنظل یعنی تُما –

شرندک – پہاڑی آلو جسکو عربی مین تفاح البر کہتے ہین –

شرفاک – آہستہ آواز اور پاؤن کی آواز بوقت چلنے کے –

شرم – مشہور لفظ ہی حیا و لحاظ – صائب شرم از نگاہ آن گل سیراب میچکد + زان تیغ الحذر کہ از و آب میچکد +

شروان – خاقانی کے شہر کا نام ہی –

شروین – شروان کے قلعے کا نام ہی –

شرطین – منازل قمر سے پہلی منزل کا نام ہی –

شریان – حرکت کرنے والی رگ جو انسان کے جسم مین ہی –

شرائین – شریان کی جمع ہی –

شرّان – ہر چیز پے در پے گرنے والی اور بارش جو ابر سے ہوتی ہی –

شریون – قطران اور ہر ایک چیز جو سیاہ ہو –

شربین – ایک قسم کا درخت صنوبر ہی جس سے قطران حاصل ہوتا ہی –

شرحہ شرحہ – پارچہ پارچہ ٹکڑے ٹکڑے – مولوی معنوی سینہ خواہم شرحہ شرحہ از فراق   تا بگویم شرح درد اشتیاق +

شرپچہ – وہ کمان جو بانس کی بنائی جاوے –

شرمہ – شرمندہ و خجل و شرمسار –

شرطیہ – جو بات کسی پر منحصر ہو چنانچہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنھار موجود اگر سورج نکلے گا تو دن ہو جائیگا –

شرہ – غالب ہونا حرص کا و نشاط و تیزی و جوانی و حرص –

شرطہ – بضم اول ہوا موافق جو جہاز کے واسطے ہو –

شرفہ – بضم اول اور تیسرا حرف فای موحدہ عربی مین عمارت کے کنگرے –

شرفہ – بفتح اول فارسی ہر ایک آواز جو آہستہ ہو چنانچہ رفتار مین پاؤن کی آواز –

شرمندہ – بفتح میم صاحب شرم – یہ لفظ شرم مندہ تھا ایک میم گرا دیا گیا تو شرمندہ ہو گیا –

شرعہ – کمان کا چلہ –

شرزہ – بروزن ہرزہ حیوان مہیب و خشمناک کھلے ہوئے دانت اور نام ایک درندہ کا جو شیر پر غالب ہے – میر معزی ز بیم شیر اندر کشند و دم نہ زنند + نہنگ و شرزہ و پیل دمان و شیر عرین –

شُرده - بہ دال مہملہ خوشگوئی و خوش کلامی اور نام ایک بانکا
نورالدین ظہوری - از زبان دانیش در طرف چمن افگندہ شور + بلبلان
پہلوی گو قمریان شُردہ خوان +
شُرذمہ - تھوڑی جماعت آدمیون کی اور تھوڑا سا میوہ +
شَرارہ - آگ کی چنگاری اور شریر لوگ -
شَررہ - ایک پتنگا آگ کا - اور شریر لوگ -
شَرُوَہ - واؤ کے ساتھ رومی زبان مین نام ایک پہلوان کا
شَربتی - قسم جامۂ ابریشمی باریک اور قسم شیرینی اور قسم آلو
جسکو زرد آلو کہتے ہین - اور نام ایک تخم کا اور عقیق جسکا رنگ شربتی
ہو یعنی نہایت سرخ نہو - محسن تاثیر کام دو جہان بعقد لذت + از
شربتیش خورند شربت +
شَراحی - نام ایک قسم کے طعام کا ہے -

شین با سین مہملہ

شَست - بفتح اول ساٹھ عدد ہین اس لفظ کو صاد سے بھی
لکھتے ہین اور بشیر حجّام حلقۂ زلف اور تار جو ساز پر لگاتے ہین اور زنار جو ہنود
گلے مین ڈالتے ہین - اور مخفف لفظ نشست کا فارسی مین اور سوفار
تیر کا اور آہنی قلابہ جس سے ماہی گیر مچھلیان پکڑتے ہین و مضراب آہنی
جس سے ستار بجاتے ہین اور حلقۂ کمند کا اور نر انگشت ہاتھ کا جسکو ابہام
کہتے ہین نظامی غلامان ترکم چو گیرند شست + زتیر سے رسد
لشکرے را شکست + صائب شست بر ہر دل کہ ہندوی کشد
در خاک و خون + باوجود بی پروبالی خدنگش بے خطا ست +
شَستر - جنگ کے ہتھیار یہ لفظ ہندی ہے اور نام ایک شہر کا
شَستک - آلت چرمی جو شہوتی عورتین اپنی رفع حاجت کے لیے
بناتی ہین اور آلہ تناسل و کیر و قضیب - شرف الدین شفائی رئیس
قوم شوخی تا میان ہمکاران + بہ شستک بالا بلند من نشین +
شُستہ - صاف - پاکیزہ - روشن - دھویا ہوا -
شُستری - شہر شستر کا رہنے والا -
شَستی - ایک قسم کی درخت کا نام ہے چنانچہ قبائے شستی و
جامہ شستی محمد سعید اشرف جامۂ شستی خود را مہ تماشائی کن +
در لباس قلمی مشق خود آرائی کن محسن تاثیر ستے کہ از لب خوانش ست
می پرستی او + کشد بدامن پری را قبای شستی او +

شین با شین

شَش جہت - چھ طرف - اور جہتین - مشرق - مغرب -
جنوب و شمال تحت و فوق - جعفر زٹلی کنم دست و تیغ کہ در دال جہات
نہ بہ ہیچم در بہ شش جہات +
شَش پَر - ایک آہنی گرز کا نام ہے جسکے چھ سر ہوتے ہین میرزا طاہر
خیر شش پر ش را از آن راست کرد + کہ از شش جہت پر زند در نبرد +
شَشدر - حیران و متحیر و مقید اور یہ ایک چال بازی نرد مین ہے -
شَش - چھ عدد مین جسکو عربی مین ستہ کہتے ہین - ملا منیر
بخاری در ولادت بابر بادشاہ - چو در شش محرم زاد آن شہ کرم
تاریخ مولدش ہم آمد شش محرم -
شُش - اندرونی اعضا مین سے ایک عضو کا نام ہے جسکو عربی
مین ریہ اور ہندی مین پھیپھڑا کہتے ہین -

شین با طای

شَطحیات - وہ باتین جو صوفیہ کے نزدیک شرع مقدس کے
برخلاف ہون اور وہ کلمات جو مستی و بے اختیاری کی حالت مین
کسی کی زبان سے نکلین جیسے کہ حسین بن منصور حلاج نے انا الحق
کہا اور بایزید نے سبحانی ما اعظم شانی پکارا -
شَطرنج - مشہور بازی ہے معرب ستر نگ اور ستر نگ ہندی لفظ ہے
کیونکہ اسکے مہرے سات قسم کے ہین حکیم لیلاج نے ہند مین اسکو
ایجاد کیا اور نوشیروان کی خدمت مین تحفہ بھیجا نظام استرآبادی چہ سان
پیادہ نگردم ز اسپ کام کہ زد + درین زمانہ شود لنگ گر بود لیلاج +
شَطر - بفتح اول و سکون ثانی نصف حصہ ہر چیز کا و طرف و
جانب و جہت -
شَط - نہر - اور دریا کا کنارہ -
شَطَط - اندازہ سے گذرنا - ظلم کرنا -
شَطَل - جو شخص قمار بازون کی محفل مین انکی خدمت کے لیے بیٹھا ہے
اس امید پر کہ جو روپیہ جیتےگا اُسکو کچھ دیگا اس خیرات کا نام شطل ہے
جو اُسکو دیجاوے -
شَطَن - رسن دراز یعنی رسّی لمبی -
شط مفلحان - نام ایک چشمہ کا ہے -
شَطری - تھوڑا سا ایک حصہ - ایک نیمہ -
شَطاحی - شوخی و بیحیائی و شرارت -
شَطرنجی - شطرنج کھیلنے والا - اور نام ایک مشہور فرش کا جسمین
طرح طرح کے رنگ بھرے جاتے ہین شطرنج کی بساط کو بھی شطرنجی کہتے ہین
نورالدین ظہوری چنین فیل در عرصۂ کارزار + ندیدست شطرنجی روزگار +

شطی - بی باک و بی خوف آدمی -

شین با طای معجمه

شطایا - ہر چیز کے دندانے اور ٹکڑے اور ریشمی ہر چیز جمع شظیہ جسکے معنی حرام مغز کے ہین -

شین با عین

شعب - بفتح اول شگاف و غار جو پہاڑ یا راستہ مین ہو -
شعب - بضم شین و فتح عین جمع شعبہ بہت سی شاخین -
شعاب - بکسر اول و فتح ثانی جمع شعب بہت سے غار اور شگاف -
شعیب - نام ایک پیغمبر اولوالعزم کا ہی جسکے پاس موسی علیہ السلام دس برس رہکر شبانی کی اور اُسکی دختر نیک اختر سے نکاح کیا حافظ
شبان وادی ایمن گہی رسد بمراد + کہ چند گاہ بجان خدمت شعیب کند +
شعر - بفتح اول آدمی کے بال اور نام ایک قسم کے باریک کپڑے کا جو سیاہ رنگ ہوتا ہی -
شعر - بکسر اول دریافت کرنا - اور جاننا - اور سخن موزون جو مقفی ہو سب سے اول عربی مین یعرب بن قحطان نے اور فارسی مین بہرام گور بادشاہ نے شعر کہا ابوطالب کلیم کس بسحر شاعر تلاش ما نبی فہمد کلیم + شعر فہمان جملہ صیاد اند صید بستہ را +
شعائر - جمع شعیرہ کی - قربانیان اور عبادتین -
شعیر - بروزن حقیر نام ایک غلہ کا ہی جسکو فارسی اور ہندی مین جو کہتے ہین -
شعار - وہ لباس جو فاخرہ لباس کے نیچے پہنین تاکہ اوپر کا لباس عرق سے خراب نہو جاسے اور وہ کپڑا جو بدن کے ساتھ ملا ہوا ہو مثل پاجامہ و قبا وغیرہ بخلاف چادر کے جسکو دثار کہتے ہین مؤلف
خاکساری پیشہ کن ای خاکسار + سجدہ کن بر خاک عجز و انکسار +
سرنگون شو سرنگون + تا خدا بخشد ترا تاج وقار +
نیست چون بر زندگانی اعتبار + ہر دم خود را دم آخر شمار +
عیب تو پوشد خداوند کریم + گر کنی پرہیز و تقوی را شعار +
شعور - عقل دانائی وادراک - مؤلف رسد پیک اجل
ناگہان چو آخر کار + نماند جاہل نادان نہ اہل عقل و شعور + -
میرزا صائب - شعر از زاہد خشک آن لب می نوش میگیرد + ز سنگ
خارہ دل آن چشم بازی گوش میگیرد +
شعاع - روشنی چمکارہ - پرتو چاند یا سورج - شمع یا بلور وغیرہ کا میر خسرو آتش این مشعلہ تا بدار + پرتو شعاع افگند انجام کار +
شعف - شیفتہ کرنا - شیدا کرنا - بیمار ہو جانا کسی کی محبت مین مسیح کاشی - تا نشان تیر او کردند یک از شعف +
ای مسیحا کاش ارواحم ہمہ اعضا بدے +
شعبان - آٹھوین مہینے قمری کا نام ہی -
شعبدہ - بروزن بتکدہ اس بازی کو کہتے ہین جسکا کچھ نمود ہو اور بود نہو یعنی دستی صفائی و ہشیاری و چالاکی سے سب کچھ دکھلایا جاوے مگر اصل مین کچھ بھی نہو -
شعشعہ - بفتح ہر دو شین روشنی - چمکارہ ظہوری پرتو شمع عذارش جلوہ گر بر روے گل + شعشعہ نور رخش بر ماہ تابان تافتہ +
شعلہ - آگ کا شعلہ مشہور لفظ ہی میرزا معز فطرت -
دل افسردہ را آغوش سیلاب ست آسایش + عروس شعلہ را در بستر آب ست آسایش +
شعبہ - جماعت اور شاخ درخت کی اور موسیقیون کے نزدیک وہ نغمہ جو دوسرے نغمہ سے نکالا جائے چنانچہ نغمہ مین بارہ مقام ہین اور چوبیس شعبہ فی نغمہ دو شعبہ نکالے جاتے ہین -
شعری بروزن حربا شعری - بروزن دہلی نام ایک ستارہ کا ہی جو آخر موسم سرما سر شام نظر آتا ہی اہل عرب قبل از اسلام اسکی پرستش کرتے تھے -
شعری شامی - یہ بھی ایک ستارہ ہی روشنی کم رکھتا ہی چونکہ شام کا ملک عرب سے شمال کی طرف ہی اسواسطے اسکو شامی کہتے ہین شعری غمیصا بھی اسکا نام ہی -
شعری یمانی - ستارہ سہیل کو کہتے ہین بعض کے نزدیک سہیل اسکے سوا ہے ہی -

شین با غین

شغا - پہلوی مین ترکش کو کہتے ہین جسمین تیر رکھتے ہین عربی مین اسکا نام جعبہ ہی -
شغب - آواز بلند و شور و غوغا و فتنہ و فساد -
شغاد - رستم کے بھائی کا نام ہی جو دل سے اسکا دشمن تھا شکار کے بہانہ رستم کو جنگل مین لے گیا اور فریب دیکر مع رخش اُسکے گھوڑے کے کنوئین مین ڈال دیا - رستم نے اسی حالت مین ایک تیر ایسا اُسکو مارا کہ مع ایک درخت کے جسمین وہ چھپا تھا پرو لیا

اور اپنے مرنے سے پہلے اُسکو مار دیا۔

شَتغر ۔ وہ آبلہ جو بسبب کثرت کار ہاتھون پر پڑ جاے ۔ یا زیادہ چلنے کے سبب سے پانوٗن پر پڑ جاتے۔

شتغر بغر ۔ پراگندہ و پریشان حال۔

شتغ ۔ چارپایہ کا سینگ جو اندر سے خالی یعنی پولا ہو۔

شَغَف ۔ بفتح اول و سکون ثانی شدت محبت کی اور عشق پرلے درجہ کا۔

شَغَف ۔ دل کے پردہ تک پہونچنا کسی گرمی اور سوزش کا اور محبت کا کمال تک پہونچنا۔

شغاف ۔ دلکا پردہ ۔ دل کا غلاف ۔ سویداے دل و حجاب اندرونی دل۔

شغنک ۔ آدمی کمینہ و ناوان و ابلہ۔

شغال ۔ گیدڑ جو ایک مشہور جانور ہی۔

شغل ۔ بضم و بفتح اول کسی کام مین مصروف ہونا اور رکا رہنا کسی کام مین ۔ میر خسرو ۔ غمزہ زن گشت ماہ صقلابی + فتنہ را داد شغل بیخوابی +

شغبہ ۔ ذلیل و خوار و فریفتہ و شیدا اور سخت و درشت ہوجانا بدن کی جلد کا بسبب کثرت کار کے۔

شغالی ۔ ایک قسم کے انگور کا نام ہی۔

شین با فاے

شفا ۔ صحت ۔ تندرستی ۔ و اعتدال مزاج میرزا صاحب باد بہار من نفس آرمیدہ است + بیماری نسیم شفا میدہد مرا +

شفاعت ۔ کسی گنہگار کو بخشوانا اُسکی رہائی اور بہتری کے لیے اُسکے مالک کی خدمت مین عرض کرنا خواہش کرنا سعدی امیدست زانانکہ طاعت برند + کہ بی طاعتان را شفاعت کنند + سرور لاہوری ۔ در توبہ خدا مسدود کرو یگا قیامت کو + شفاعت کا مگر دروازہ اُسدن بھی کھلا ہوگا +

شفقت ۔ بفتح شین و سکون فا و فتح قاف اور بعض کے نزدیک بتشدید قاف مہربانی جو کسی کے حال پر کی جاے میر نجات از تغافل جگرم سوخت ندانم آخر + کہ سزاوار عتاب شفقت خواہم شد + و اعظ قزوینی ۔ سربلندی آرزو داری شفقت پیشہ کن + کین علم را رہنش باران احسان پرچم ست +

شفت ۔ بفتح اول لب یعنی ہونٹھ اور نام ایک گانوٗن کا گیلان میں

جس جگہ مٹی کے برتن کانسے کار نہایت عمدہ و قیمتی بناتے ہین اور ژندی زبان مین جو چیز کم بہا و ناکارہ سفت ملجانے والی ہو و سجح و نا راست و ناہموار۔

شِفت ۔ بکسر اول جاری ہونا خون اور ریم کا ۔ کسی زخم سے پھوٹنا دنبل کا۔

شُفت ۔ بضم اول ممسک و بخیل آدمی۔

شفالج ۔ ایک میوہ کا نام ہی جسکو سرکہ مین ڈالکر کھاتے ہین۔

شفتش ۔ بہر دو شین منقوطہ درخت کی شاخ اور وہ لکڑی جو ہندا یعنی دھینے اپنے ہاتھ مین رکھتے ہین اور روئی جو اڑ جاتی ہی اُسسے جمع کر لیتے ہین۔

شُفّاف ۔ بضم اول و تشدید فا نہایت لطیف چیز جس سے اُسکے اندر کی چیز نظر آجاے ۔ اور جو اُسکے پیچھے ہو وہ بھی بخوبی معلوم ہو جیسے آبگینہ اور قارورہ اور شیشہ اور پانی وغیرہ۔

شَفْت ۔ بفتح اول پہلوی مین شب یعنی رات اور عربی مین وہ کپڑا جو پتلا اور باریک ہو جسکے آنکھون پر رکھنے سے سب کچھ نظر آجاے نیز یعنی لاغر کرنے اور اندوہگین کرنے کے۔

شِف ۔ بکسر اول عربی مین کمی و افزونی نفع نقصان ۔ سود و زیان۔

شفشف ۔ بفتح ہر دو شین بیخ درخت و شاخ درخت۔

شفق ۔ صبح و شام جو سُرخی آسمان پر ظاہر ہوتی ہی صائب تاچون شفق مدام رخت لالہ گون شود + بے بادہ مگذران چو شفق صبح و شام را +

شفترک ۔ خاکشی جو ایک خاردار بوٹی ہی ۔ سواے اونٹ کے اُسکو کوئی نہین کھاتا ۔ عربی مین اُسکو خمخم کہتے ہین۔

شفترنگ ۔ ایک میوہ ہی جو زردآلو اور شفتالو کے باہم پیوند کرنے سے حاصل ہوتا ہی۔

شفناک ۔ کہنہ و فرسودہ و بیکار اور آدمی احمق و بی ہنر و نادان۔

شفشاہنگ ۔ وہ لوہے کی تختی جسمین بہت سے سوراخ باریک اور موٹے ہوتے ہین اور زرگر چاندی سونے کا تار اُن سوراخون سے کھینچکر لمبا کرتے ہین ہندی مین اسکو جنتر کہتے ہین میر الٰہی ۔ گذر زروز نہ اختران کند رخش + چو سیم مغشش از چشمہاے شفشاہنگ +

شفتل ۔ ایک گھاس کا نام ہی جسکو سہ برگہ کہتے ہین اور ہندی مین تین پتی ۔ اور چنبیلی اسکا پھول ہی۔

شفل ۔ بارش او نٹون کے ناخن۔

شفتین ۔ بفتح اول عربی مین دونون لب ۔ دونون ہونٹھ ۔
شفشیر ۔ بکسر اول نام ایک مرغ کا ہے جسکو فارسی مین بوتیمار کہتے ہین اور ہندی مین بگلا ۔ وہ ہمیشہ دریا کے کنارے رہتا ہو اور پانی نہین پیتا اس خیال سے کہ پانی کم ہو جائے عربی مین اسکو غمامہ بھی کہتے ہین ۔ یہ جانور دو قسم پر منقسم ہوا ایک یہی جسکا ذکر تحریر ہو چکا ۔ دوسرا چڑی وہ خفاش کی صورت پر ہوتا ہو اور دم اسکی چوہے کی سی اسکی دم مین ایک خار ہو جس سے لوگون کو کاٹتا ہو اسکی دم اگر کسی کے زیر بالین رکھین اسکو نیند نہ آئے اور اگر کسی درخت کے نیچے دفن کرین درخت خشک ہو جائے ۔
شفتالو ۔ شفتالود ۔ مشہور میوہ ہی جسکو آڑو کہتے ہین ۔
سیرجی شیرازی ۔ لب خود بہ لبش پیوستم از لبش لشنم و صلم + کہ شفتالو چہ پیوندی بود آبے دگر دارم سعدی گرد عنبر بستہ بر نخش + راست گوئی ہی ست مشکات آلود + گر بچنگال صوفیان افتد + نہ بہندش مگر شفتالود +
شفناہ ۔ جمع شفتہ بہت سے لب یعنی ہونٹھ ۔
شفرہ ۔ بفتح اول سر چیونٹی کا اور ایک چھرا کاٹنے کا جسکو رانپی کہتے ہین ۔
شفرہ ۔ بضم اول پاک ستہم جس جگہ پلکون کے بال پیدا ہوتے ہین ۔
شفشم ۔ ہمسایہ ہونا ۔ دیوار بدیوار ہونا ۔
شفشہ ۔ کاتا ہوا سوت جو تکلے پر لپٹا ہوا ہو ۔
شفاخانہ ۔ جس جگہ لوگون کا معالجہ بادشاہ کی طرف سے مفت ہو ۔ صائب ۔ مسیحی را کہ خمارے بنود دردنبال + از شفاخانہ ان نرگس بیمار طلب +
شفانہ ۔ ایک مرغ کا نام ہو جو بہت رنگ رکھتا ہی ۔
شفودہ ۔ ژندی زبان مین ایک ہفتہ یعنی شنبہ سے جمعہ تک ۔
شفتالوی آروی ۔ شفتالوی کاردی ۔ اقسام میوہ شفتالو کا نام ہی ۔
شفقی ۔ جو چیز سرخ رنگ شفق کی طرح ہو صائب قسم بساقی کوثر کہ از شراب گذشتم + زیادہ شفقی ہمچو آفتاب گذشتم +

شین با قاف

شقا ۔ پہلوی مین ترکش جسمین تیر رکھے جاتے ہین ۔
شقرت ۔ بضم اول نام ایک رنگ کا ہے جو زرد مائل بسرخی ہوتا ہے ۔
شقاوت ۔ بدبختی و بدنصیبی بدقسمتی قطعہ از مولف سراپا شقاوت یہ دنیا سے دون ہی + سعادت اگر چاہیے اسکو چھوڑ دو + فقط اپنا پیوند جوڑو خدا سے + تعلق کے رشتے جو ہین انکو توڑو ۔
شقر ۔ بفتح اول و کسر ثانی پہاڑی لالہ جو ایک پھول ہی ۔
شقدار ۔ دیہات کا حاکم اور پرگنات کا عامل ۔ قانونگو ۔
شقایق ۔ لالہ جو مشہور پھول ہی ۔ یہ لفظ مفرد اور جمع مین یکسان ہے ۔
شق ۔ بفتح اول شگاف اور شگافتہ ہو جانا ۔ پھٹ جانا ۔ اور دشوار ہو جانا کام کا ۔ اور نام ایک قلع کا قلاع خیبر سے مولف رموز کثرت و وحدت زبان چہ شرح کند + کہ بارہ بارہ شود کاغذ و قلم دو شق + صائب خامہ اش را شق بشمشیر شہادت میزند + ہر کہ چون شیر خدا صاحب بود یکرنگ عشق +
شِق ۔ بکسر اول ٹکڑا کسی چیز نصف کسی چیز کا ۔ کنارہ پہاڑ کا اور بھائی اور دوست ۔
شقیق ۔ برادر اور بھائی ۔
شقاق ۔ ایک طرف ہو جانا ۔ مخالفت اور دشمنی کرنا ۔
شقایق نعمان ۔ قسم ایک لالہ کا ہی جو نہایت سرخ ہوتی ہی اور نعمان نام ایک بادشاہ کا تھا جسنے پہاڑ سے اسکا تخم منگوایا تھا بعض کا قول ہی کہ نعمان بضم نون خون کو کہتے ہین سرخی کی مناسبت کے سبب سے اسکو شقایق نعمان کہا گیا ۔
شقردیون ۔ سیر صحرائی یعنی جنگلی لہسن ۔
شقہ ۔ پارچہ و جامہ و کاغذ ۔ اور جامہ پیشواز یعنی جو آگے سے کھلا ہو ۔ اور وہ کپڑا جو علم کے سر پر لگاتے ہین ۔
شقشقہ ۔ اونٹ کی آواز جو مستی مین بولتا ہی ۔
شقیقہ ۔ نرم جگہ جو کان اور پیشانی مین ہی ۔ اور آدھے سر کا درد ۔
شقی ۔ بدبخت ۔ بدکار ۔ بدکردار ۔

شین با کاف

شکیبا ۔ صبر کرنے والا ۔ سہارنے والا ۔
شکوثا ۔ سریانی زبان مین تخم کشوث ۔
شکیب ۔ بکسر اول و یاے مجہول صبر و آرام ۔ بفتح شین پڑھنا خطا ہی ۔ سعدی ز دیدار اینان ندارم شکیب + کہ سرمایہ داران حسن اند و زیب ۔
شکوب ۔ دستار و مندیل سر پر باندھنے کی ۔
شگفت ۔ تعجب و استعجب و عجیب و غریب ۔ سعدی

تبسم کنان دست برلب گرفت + کہ سعدی مدارا نچہ بہی شگفت +

شگفت - پھولا - کھلا - ہنسا - خوش ہوا - مولف تازہ رنگ و تازہ بو حاصل شود زین گلستان + اندرین بستان بہر لحظہ گل دیگر شگفت +

شکایت - گلہ کرنا - ناراضی ظاہر کرنا - شانی تکلو کاری لکن کہ بادہ زجام دگر خورم + رنیرم شکایت تو بہر کس کہ برخورم +

شکنج - تاب و پیچ و دام و زنجیر - مولف مقید دل بقید دردو رنج ست + گہے درتاب و گاہی در شکنج ست +

شکوخ - لغزش کھانا - پھسلنا -

شکند - نمناک زمین مین جو لمبے لمبے کیڑے سرخ رنگ پیدا ہوتے ہین عربی مین انکو خراطین و احمر الارض کہتے ہین -

شکا وند - سیستان کے پاس ایک پہاڑ ہی سرپہ جسکا سجاوند ہے

شکر - بضم اول اپنے منعم کی نعمت کا احسانمند ہونا - سپاس و ثنا کہنا - سعدی کجا بس شکر این نعمت گزارم + کہ زور مردم آزاری ندارم +

شکر کشکر - بہ تخفیف و تشدید کاف شیرینی جو مشہور چیز ہی - سالک یزدی - بخورم خون کہ تا داد بہ میگیرد + سید بہ شیر ز لعل تو شکر میگیرد +

شکر - بفتح اول و سکون کاف فرج زن عورت کی شرمگاہ -

شکرہ - بکسر اول و فتح کاف ٹوٹا ہوا او رشکار کرنے والا وزنبور سیاہ یعنی بھنورا -

شکار - جو آدمی کسی جانور کے مارنے کا ارادہ کرے اسکو شکاری کہتے ہین اور وہ جانور جسکو شکار کرنا مطلوب ہو اور وہ شخص جو تابع و مطیع و مغلوب ہو خان آرزو - غزالان حرم جان من و جان شما + کان جفا پیشہ صنم بہر شکار آمدہ است +

شکیر - نام ایک میوہ کا ہی اور وہ زرد آلو سونا سی ہوتا ہی -

شگرف - زیبا و نیکو و عجیب و بزرگ - اگر اس لفظ کو اشیا مین استعمال کرین زیبا و عجیب اور اگر آدمیون مین استعمال کرین تو صاحب و مالک و صاحب شکوہ و بزرگ - مولانا جامی طمع دارم کہ کرنا گہ شگرفی + بخواند زین محبت نامہ حرفے +

شگاف - چاک و درز و سوراخ و رخنہ - مولانا جامی شگافے زد بصد افسون و نیرنگ + دران خیمہ چو چشم خیمگی تنگ +

شگوف - ابریشم جو کاتا گیا اور درست کیا گیا ہی -

شک - بفتح اول شبہ و وہم و گمان - ؎ خدا را حق بدان ای مرد زیرک + کہ گردد یک قلم دوراز ولت شک +

شک - بضم اول سم الفار یعنی سنکھیا جو ایک زہریلا پتھر مشہور ہی - فارسی مین مرگ موش بھی اسکو کہتے ہین -

شکابنک - چلنے مین جو آواز پانون کی نکلے -

شکانک - پرندون کا حوصلہ یعنی پوٹا جسمین دانہ جمع رہتا ہی

شکیل - بکسرتین گھوڑے کی باگ ڈور و مکر و فریب -

شکال - بکسر اول وہ رسن جس سے گھوڑے یا اونٹ کو باندھین و مکر و حیلہ -

شکّال - بفتح اول و تشدید ثانی شکاین بنا سیوالا سوانگ بھرنیوالا

شکبیل - بفتح صاحب شکل خوبصورت بکاف فارسی شغال یعنی گیدڑ جو مشہور جانور ہی -

شکل - ہیئت و صورت و تصویر طغرا - دیوار گر شکل آہو کشید زدنبال او چون شکاری دوید + مولانا کاتبی قضا از مزرع آفاق قطع زندان خواست + کہ شکل ابروی ساقی مثال و اس نہاد +

شکال - ہند کے ایک راجہ کا نام ہی جسنے اول بنیاد سلطنت کی ہند مین قائم کی -

شکول - جلدی و چابکی -

شکم - بطن پیٹ مشہور لفظ ہی سعدی تنور شکم دمبدم تافتن + مصیبت بود روز نایافتن + شکم بند دست ست و زنجیر پا شکم بندہ نادر پرستد خداسے +

شکن - چین جو منھ اور جسم اور جامہ پر پڑین اور پانی پہ نمودار ہون - نظامی صراپا تو در بادہ بستن مباد + شکن باد لیکن شکستن مباد +

شگن سگون - نیک فال لینا کسیکی آواز یا پرواز وغیرہ سے یہ لفظ ہندی اور فارسی مین مشترک ہی یا یا فغانی فال ہم کراز ہوس کشتہ شوم بیک نفس + ہم ز لب تو این سخن بہ کہ بشگون نہد کسی +

شکپو - آہستہ چلنے مین جو پانون کی آواز ہو اور جو آواز سوتے کی حالت مین انسان کے گلے سے برآمد ہو -

شکالیو - ہر چیز جو آگ کے کوئلون پر پکائی جاسے لکڑی اسکے نیچے نہ جلائی جائے -

شکنجہ - ایک قسم کی تعذیب کا نام ہی اور نام ایک آلہ چوبی کا

جسمین جلد بند جلد شدہ کتاب کو رکھکر اسکو چار سمت سے کاٹتے ہین شفیع اثر در ہجو سخیف قلی صدر ایران - باورنمی کنم کہ بوقت شکنجہ نام از فتاہ بان کسی نماند چشیدہ است +

شکوہ - بکسر اول و سکون ثانی شکایت گلہ رضی دانش بسکہ شب شکوہ از زلفت بہ سنبل کردہ ام + ہمچو برگ لالہ دودم بر زبان پیچیدہ است +

شکوہ - بضمتین حشمت و بزرگی و مہابت و شان و شوکت کہ فریدون شوکتی جمشید جاہی + سکندر حشمتی دارا شکوہی +

شکوہ - بکسر اول وضم دوم خوف - دہشت ترس و بیم -

شکوفہ - نئے پتے اور نئے پھول جو بہار مین درختون سے نکلین اور اطبا کے نزدیک کھانا کھایا ہوا جو قی ہو جاے بہضم ہو شفیع اثر تفل شگوفہ واشود از باد صبحدم + گلشن کند بمژدہ نوروز زر نثار + سعدی - شگوفہ گاہ شگفتہ ست گاہ خوشیدہ + درخت گاہ برہنہ است گاہ پوشیدہ +

شکرانہ - شکر کرنا کسی کا احسان بیان کرنا -

شکرہ - بکسر اول ایک شکاری مرغ کا نام ہی جو باز کے اقسام مین سے ہی -

شکنبہ - معدہ چار پاؤن کا جسکو اوجھڑی کہتے ہین -

شکستہ - ایک قسم کے خط کا نام ہی ع خط آمدست ونگارم از ان شکستہ دل ست + جواب خط چو بخط شکستہ تحریرست -

شگافہ - گہوارہ - مہد جھولنا -

شگادہ - نقب دینے والا - قبر کھودنے والا - کفن چرانے والا جسکو عربی مین نباش کہتے ہین -

شکلہ - چھلکا خربزہ و ہندوانہ کا جو اُس سے اُتارا جائے -

شکنہ - خار پشت جو مشہور جانور ہی -

شکوہی - اخیر مین الف بصورت یا - گلہ - شکایت -

شکرتری - سپید شکر و قند و نبات -

شکاری - شکار کرنے والا - اور جانور جو شکار ہو چکا ہو - ملا شانی تکلو - کمین گشادہ زہر سو ہزار حکم انداز + مرا شکار سے توفیق بر شکار آمد +

شکری - نام ایک رنگ کا ہی جسمین سُرخی اور زردی ملی ہوئی محسن تاثیر - تنگ گردست بسی حوصلہ آن تنگ شکر + از لب پستہ آن مہوش رنگ شکری -

شین با لام

شلیخا - عیسی علیہ السلام کے ایک اصحاب کا نام ہی -

شلکا - گیلی زمین اور کیچڑ جسپر چلا نہ جاسکے -

شلیخ - بجاے منقوط صدا و آواز -

شلوار - ازار اور تنبان اور پاجامہ جو کمر مین پہنتے ہین یہ لفظ مرکب شل اور وار سے ہی شل کے معنی ران اور وار کلمہ نسبت سراویل اسکا معرب ہی - اشرفی نام ایک کسبن عورت کی ہجو مین چہ پاک از تنگ دستی اشرفی را + کہ دار الضرب در شلوار دارد +

شلف - فاحشہ عورت اور نام ایک رودخانہ کا ہی افریقہ مین -

شلاق - زدوکوب کرنا - مارنا کسیکو یہ لفظ ترکی ہی اور شوخ اور فتنہ انگیز مفسد و عیار - طاہر وحید اطفال مکتب کی تعریف مین ہر یک زبرای جان عشاق + افتادہ ز طبع شوخ شلاق ملا فوقی یزدی - زمانہ بین کہ زسرپنجہ ستم ہردم + بہ بیخ گوش لشا طم ہمی زند شلاق +

شلتاق - جنگ وجدل فساد لڑائی یہ لفظ ترکی ہی ملا سنجانی تکلو - ز نالہ دل مظلوم بر تو سیلہ زنم + کہ ترک چشم تو بسیار میکند شلتاق

شلتوک - غلہ شالی جسمین سے چانول نکلتے ہین -

شلنگ - جست مارنا - کود کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا پڑنا زلالی - کدام صاحب آن صاحبی کہ در رعنائیش + بہ پیشگاہی فلک میزند شلنگ ستارہ -

شلک - ایک ہی دفعہ چلا دینا توپ اور رہکلہ اور بندوقونکا زکی ندیم - شلک رعد شد و برق در آتشبازی ست + سایہ بان نسق و ساقی بستان ابر ست +

شلاک - گھر کا بدرو جسکے ذریعہ سے گھر کا میلا پانی باہر نکلجاتا ہی -

شلیل - نام ایک میوہ کا ہی جو سرخ و سپید ہوتا ہی شفتالو کے ساتھ مشابہت رکھتا ہی اور وہ کپڑا جو زرہ کے نیچے پہنتے ہین -

شل - بفتح اول عربی مین وہ شخص جسکے ہاتھ پاؤن حرکت سے رہ چکے ہون اور فارسی مین ہر ایک چیز سست اور نرم کمال خجندی - نیست عالی سندی بہر فضیلت امروز + خیر و ستار بزرگ و کم شل بستن +

شل - بکسر اول چھوٹا نیزہ جسکو سیل بھی کہتے ہین والہ ہروی شل در مجہ دلیران بند و بر فیلان بدان ماند + کہ چرخ مشتری را بر جہانیک یک عیان آمد +

شُشُل۔ بضم اول نام ایک میوہ کا جسکو بیل کہتے ہین گول بہی کی طرح ہوتا ہی۔ اکثر لوگ اسکا مربا ڈالتے ہین
شُلغَم۔ مشہور ترکاری ہی جو کھانے مین آتی ہی۔
شَلاتِین۔ بروزن سلاطین شوخ و ناخوش و سخت گیرندہ و محکم و معشوق نافرمان و بی تکلف و بی آرایش۔ میرزا صائب
چارا بن و اوی شلاتین تیز خون ناحق ہست + از علایق چیدن امان رغبت سہل نیست +
شُلَّہ۔ بضم اول حیض کا لتہ۔ اور عورت کی شرمگاہ اور بیت پرست
شَلَّہ۔ بفتح اول جس جگہ مویشی کا گوبر جمع کرین۔
شَلَّہ۔ بلا تشدید لام قصاص و بدلہ۔
شَلتَہ۔ محلہ یا گانون مین جو جگہ کوڑا ڈالنے اور میلا جمع کرنیکی ہو۔
شَلخَتہ۔ لات جو کسیکو ماری جائے۔
شَلفِینہ۔ شرمگاہ عورتون کی۔
شَلفِیہ۔ ایک کتاب کا نام ہی جسکے مضامین تمام فحش ہین۔
شَلمَابہ۔ شلغم جو مشہور ترکاری ہی
شَلاتِیقی۔ شوخی و عیاری و پیچیدگی۔

شین با میم

شَمسا۔ رندی زبان مین سورج کی دھوپ اور چاندنی اور روشنی چراغ اور مشعل کی۔
شَمشَرا۔ مرزنگوش جو ایک قسم کی ریحان ہی نہایت خوشبو عربی مین اسکو اذان الفار کہتے ہین اسواسطے کہ اسکے پتے چوہے کے کان کیسے ہوتے ہین
شَمَّات۔ کسی کی خرابی پر خوش ہونے والی۔
شَماتَت۔ کسی کی خرابی پر خوش ہونا۔ صائب کند شماتت زاہد فرنگ عالم را + خدانخواستہ میخانہ گر خراب شود +
شَمبَلیت۔ میتھی جو مشہور ساگ ہی
شَماخ۔ مخفف شاماخ نام ایک پہلوان کا اور سینہ بند عورتون کا۔
شَمالخ۔ شلغم جو مشہور ترکاری ہی۔
شَمشاد۔ مشہور درخت ہی۔ اور شعرا معشوقون کے قد کے ساتھ اسکی تشبیہ دیتے ہین ظہیر فاریابی نسیم لطف تو در باغ اگر نفشاند + نسیم نکہت عنبر ز طرہ شمشاد +
شَمبَلید۔ میتھی جو مشہور ساگ ہی۔
شَمغَند۔ بد وضع و بد لباس عورت اور جس شخص سے بدبو آتی ہو مدہوش و بی خبر۔

شَمسَد۔ نوحہ و فریاد و بیہوشی و بیہودگی۔
شَمشِیر۔ تلوار جو مشہور ہتیار ہی مرکب شم اور شیر سے معنی اسکے شیر کے ناخن کیونکہ شم کے معنی ناخن اور شیر کے معنی شیر ہین نظامی گنجوی شمشیر جوشن گذار + بگردن کشی کردہ گردن فراز میرزا صائب مدبسم اللہ دیوان قضا شمشیر ست + ساحل بحر پر آشوب فنا شمشیر ست +
شَمَر۔ بہر دو فتح فارسی مین چھوٹا حوض و تالاب اور قیماق یعنی بالائی جو دودھ پر آجاتی ہی۔
شَمَر۔ بفتح اول وسکون میم آہستہ آہستہ چلنا خراماں خراماں چلنا
شِمر۔ بکسر شین وسکون میم نام قاتل سید الکونین امام حسین علیہ السلام جسنے چھاتی پر چڑھکر حضرت کا سر گردن سے الگ کیا تھا
سعالما شد شمر دوداندرین دنیا نماند + طوق لعنت ماند اندر گردن او پایدار +
شُمار۔ بضم اول حساب گنتی جو لین دین مین ہو عفو کن عفو ای شہ عالی جناب + زانکہ دارم جرم بیحد و حساب +
شِمار۔ بکسر اول سپاہی میں بادیان جسکو ہندی مین سونف کہتے ہین
شَمکو۔ ایک شہر گنجہ کے پاس مولد نظامی گنجوی ہی۔
شَمِیر۔ بڑی منقوط زمین جو قابل زراعت کیجائے۔
شَمس۔ آفتاب عالمتاب یعنی سورج لغتیہ از مولف شمس سر گرم اطاعت ہر زمان + آسمان بندہ قمر حلقہ بگوش +
شَموس۔ بفتح اول سرکش و بدخو۔
شُموس۔ بضمتین جمع شمس بہت سے سورج۔
شَمَّاس۔ بفتح اول وتشدید میم مہتر ترسایان جو سر منڈا کر عبادتخانہ مین بیٹھے ہوئے اور نام اسکا جسنے شمس پرستی کا دین ایجاد کیا۔
شَماساس۔ نام ایک پہلوان ایرانی کا جو سیاوش کے لشکر مین تھا۔ اور نام ایک تورانی پہلوان کا جو قارن بن کارہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔
شَمَش۔ بہر دو شین منقوط وہ گلا ہوا سونا یا چاندی جو نالچہ مین اُلٹنے کے لائق ہو۔
شَمع۔ موم جو شہد سے نکلتا ہی اور مشہور وہ بتی جو موم یا چربی سے بنا کر جلائین۔ اور روشنی حاصل کرین صائب از شناخت شمع شرر وارمی پرد + پروانہ کہ گرد تو یکبار سے پرد +
شُموع۔ جمع شمع کی بہت سی شمع۔
شَمَّاع۔ شمع بنانے والا۔ سیفی۔ سوخت دل از غم شماع و بیجان سکو شمع

ہیچو شمیم کہ بار رغن خود میچو شیم +
شملک - ایک دوا کا نام ہی کہ گوگرد کے ساتھ ملا کر ملنے سے بدن کے سفید داغ جاتے رہتے ہین -
شمسک - ژندی زبان مین تلون کو کہتے ہین جو ایک مشہور غلہ ہی اور اسکا تیل نکالا جاتا ہی -
شمول - شامل ہونا - مل جانا ایک چیز کا دوسری چیز مین -
شمل - پریشان ہونا - پراگندہ ہونا جمع ہونا - یہ لغت لغات اضداد مین سے ہی -
شمال - وہ ہوا جو قطب کے سمت سے آئے - حافظ خوشخبر باشی اے نسیم شمال + کہ بما میرسد زمان وصال -
شمائل - خصلتین اور عادتین اور شکلین اور شاخین جو درخت سے نئی نکلین - میر حسین دہلوی شمائل تو لطیف ست صورت تو قبول + مبادچز تو مرا دل بدیگرے مشغول +
شمم - بفتح اول وتشدید میم بو سونگھنا یعنی سونگھنا یہ لفظ عربی ہی -
شُشم - بضم اول وسکون میم فارسی مین چمڑے کی جوتی پاپوش و نعلین چرمین -
شتم - بفتح اول وسکون ثانی فریب و نفرت و نوحہ و فریاد اور ایک قسم ناقص ابریشم کا -
شُشتم - بضم اول و میم مشدد مخفف شوم محمد حسین شہرت از حسرت منصب جگرم خون شدہ باشد + در خاطر اگر داشتہ باشم ازہر شیم +
شمیم - وہ ہوا جسمین خوشبو ملی ہوئی ہو اور سونگھنا خوشبو کا خلق عزا رسانی - مانند گل ہمایہ کشید یم شمیمی + آشفتہ نگردیم بتحریک نسیمی
شمائم - جمع شمیمہ بہت سی خوشبوئین -
شماسیان - آتش پرست اور شمس پرست - نظامی سپاہی دہ خال عباسیان + سپیدی بچشم شماسیان +
شمعون - یوسف علیہ السلام کے بھائیون مین سے ایک کا نام تھا جسنے حضرت یوسف کے قتل کردینے کے واسطے مشورہ دیا تھا نیز نام ایک شخص کا حضرت عیسی کے اصحاب سے -
شمن - بفتحتین بت پرست بت پوجنے والا -
شمنان - بہت لمبا چوڑا فرش -
شمہ - بفتح اول وتشدید میم عربی مین تھوڑی سی خوشبو -
شِمہ - بکسر اول وفتح میم بالائی جو دودھ کے اوپر سے اترتی ہی -

شمسہ - ناہدان یعنی وہ دریچہ جو گھر مین روشنی کے واسطے رکھا جائے اور کلس جو گنبد و قبہ کے اوپر لگایا جاوے -
شمسیہ - نام ایک رسالہ کا ہی منطق کے علم مین اور شمس الدین اسکا مصنف ہی -
شمّامہ - بتشدید میم ایک قسم کے خربزہ کا نام ہی جسکو ہندی مین کچری کہتے ہین اور ایک مصنوعی ترنج مرصع جسمین طرح طرح کی خوشبوئین بھری جاتی ہین اور امراء ہاتھ مین رکھتے ہین -
شمامچہ - خوشبو جو سونگھی جائے -
شمامہ - خوشبو جو کسی پھول وغیرہ سے آئے - اور نام ایک ساز کا جسکے ساتھ نے بھی ہوتی ہی آواز اُسکی نہایت خوش ہی سیفی بخیبی نے شمامہ چرا نیشکر نمیگردی + تراکہ بر لب شیرین یار دسترس ست +
شماسی - آتش پرست شمس پرست نام ایک فرقہ کفار تابعین کا ہے -
شماخی - ایک قصبہ شروان کے پاس ہی -
شمعی - یہ ایک سبز رنگ مائل بسیاہی جسکو ہندی مین تیلیہ مونگیہ کہتے ہین سالک یزدی عاشق کسی بود کہ برآید برنگ دوست شمعی لباس در بر پروانہ من ست +

شین با نون

شنوا - بفتحات سننے والا کان سے یا کان جو سن سکتے ہون شعر - از خدا خواہ گر تو میخواہی + گوش شنوا و دیدۂ بینا +
شنا - بکسر و بفتح اول پانی مین تیرنا - اور نام ایک ورزش کا جو کشتی گیر کرتے ہین ہندی مین اُسکو ڈنڈ کہتے ہین اشرف بہم طوفان بلا در خشکیم پیش از تری ست + ہیچو کشتی گیر زان مشق شنا دارم بخاک +
شنب - پہلوی مین گنبد اور قبہ جو کسی بزرگ کی قبر پر یا مسجد پر بنایا جاتا ہی
شنعت - شناعت - زشتی و بدی و طعنہ و ملامت و بدگوئی -
شنات - بروزن قنات دشمنی رکھنے والے -
شنت - ژندی زبان مین سالی و سنہ یعنی برس -
شنج - پہاڑی زمین اور ناہموار میدان اور ایک قسم کی سیب جسکو تو تیا ہی اکبر کہتے ہین -
شنبلید - و شنبلیت - یتھی مشہور ساگ ہی
شنند - سنقار مرغان یعنی پرندونکی چونچ جسکو ٹونٹھی کہتے ہین
شنقار - و شنقار - نام ایک شکاری جانور کا جو سفید رنگ عقاب کی برابر ہوتا ہی اور قوت مین عقاب پر غالب نہایت کمیاب ہوتا ہی -

شناور - بکسر اول پانی مین تیرنے والا اور شوم ونا مبارک خرابی وننگ وعار اور وہ شاخ جو درخت سے تازہ نکلی ہو اور عربی مین دشمن وعداوتی آدمی -

شنگوبر - وہ شراب جو خرما سے بنائین -

شنگیار - خیار جو دراز ہو یعنی ککڑی -

شنکور - وہ چمڑے یا لکڑی کا فلک جو تکلے پر چڑھا کر سوت کاتتے ہین -

شنیز - بزاے منقوط شونیز یعنی سیاہ دانہ جسکو کلونجی بھی کہتے ہین -

شنش - کچی کھجور جسکے دانے ابھی سخت ہوے ہون اور وہ لکڑی جو نداف یعنی دھنیا ہاتھ مین رکھتا ہو اور اُس سے روئی اُڑی ہوئی جمع کر لیتا ہو -

شنایع - بدیان - بُرائیان -

شنیع - بُرا و بد بون و ناخوش

شنجرف - شنگرف - مشہور چیز ہو تشریح کی حاجت نہین

شنبق - پہلوی دری مین پسر خواندہ یعنی متبنی جسکو بیٹا بنایا گیا ہو

شنگ - دزد و رہزن اور معشوق شوخ و نافرمان -

شنگ - سرو کا درخت اور وہ خیار جو تخم کے واسطے رکھا جاوے

شنگک - شوخ وظریف وخوش کلام وخوبصورت -

شنگک - کھجور کا خوشہ - اور انگور کا خوشہ -

شنکول - بروزن مقبول خوبصورت معشوق شوخ وشنگ -

شنگل - شوخ وعیار - ورہزن

شَن - پانی کی مشک جو پرانی ہو گئی ہو - اور نام ایک گھاس کا ہو جس سے رسی بناتے ہین ہندی مین اُسکو سَن بسین مہملہ بولتے ہین سنی بھی کہتے ہین - اور عربی مین ایک قبیلہ کا نام ہو -

شنان - ایک گھاس کا نام ہو جسکی سجی بنائی جاتی ہو اور کپڑے دھوے جاتے ہین -

شنو - کشتی گیرون کی ایک ورزش کا نام ہو جسکو ڈنڑ کہتے ہین -

سیر نجات - نیست ہمدرد تو صد ہا انتظار من شنو ✤ سیر دو بیہدہ در معرکۂ خاک شنو ✤

شُنشُو - ایک دماغی حرکت کا نام ہو جسکو عربی مین عطسہ ہندی مین چھینک کہتے ہین -

شنوسہ - عطسہ یعنی چھینک -

شناہ - پانی مین تیرنا -

شنشنہ - طبیعت اور عادت جو ہے -

شنتربہ - یہ ایک بیل کا نام ہی جو دمنہ گیدڑ کے فریب مین آکر شیر کے ساتھ لڑا اور مارا گیا - کتاب کلیلہ و دمنہ مین اُسکی تشریح ہو -

شنبہ - ہفتہ کا دن جسکو سبت عربی مین کہتے ہین اور آواز گھوڑے اور شیر کی -

شندلہ - نام ایک دوا کا ہو جسکو تودری کہتے ہین -

شنگلہ - ابریشم یا طلائی پلہ جو پگڑیون اور دوالون اور دو پٹون مین دیا جاتا ہو تاکہ وہ خوبصورت معلوم ہون -

شنگولہ - شوخ وعیار وظریف وچور و رہزن -

شنگہ - آلہ تناسل اور وہ جگہ جس جگہ گوبر اور کوڑا ڈالا جاتا ہو -

شنگینہ - وہ لکڑی جس سے بیل چلاتے ہین -

شنخہ - وہ لکڑی کا پنجہ جس سے زمیندار ہوا مین سوکھے ہوے غلہ کو اُڑا کر دانہ الگ اور بھوسہ الگ کرتے ہین -

شنیشرہ - میوہ دار درخت کے پھول - اور قے اور استفراغ

شنبی - طشت کلان یعنی بڑا طشت جو مشہور برتن ہو اور نام ایک گھاس کا جسکے ریشون سے رسیان بناتے ہین -

شین با واو

شوا - بکسر اول عربی مین گوشت بریان اور فارسی مین سختی پوست ہاتھ پانون کی جو بسبب کثرت کار کے وقوع مین آجاتی ہو اور ہاتھ پیر گٹھے پڑ جاتی ہین -

شوغا - خاربست احاطہ جو بکریون کے واسطے گانون کے باہر بناتے ہین اور بکریان رات کو اُسی مین رہتی ہین لطیفی جو گرگ دزد گیر و قصہ شوغا ✤ شبان اندر شبان افتد بغوغا ✤

شوائب - آمیزشین اور آلودگیین جو آپس مین ہون -

شوب - بضم اول پگڑی - مندیل جو سر پر باندھتے ہین -

شوب - عربی مین باہمی ملاقاتین اور ملاپ اور شہد جسکو عسل کہتے ہین -

شوات - سرخاب جو ایک مشہور جانور ہو -

شوکت قوت وتیزی وشدت وحدت صاحب رشادی

معشوق عاشق در نظر ہا شوکتے دارد ✤ کہ نقش پای مجنون پنجۂ شیر ست پنداری ✤

شوبست ۔ علاج جو بذریعہ دوا کے کیا جائے یا بذریعہ افسون کے
شورباج ۔ معرب شوربا جو گوشت پکا کر نکالا جاتا ہے ۔
شوخ ۔ بواو معروف بدن کا میل و ریم و زرد آب جو کسی
زخم سے نکلے ۔
شوخ ۔ بواو مجہول بے باک و دلیر و چالاک آدمی رباعی توحید
رسد بمنزل مقصود خود کجا گستاخ ✽ کہ مست راندہ درگاہ کبریا گستاخ
خدا برحم و تفقد برو نظر نہ کند ✽ بود کسیکہ شرانگیز شوخ یا گستاخ ✽
شوامخ ۔ جمع شامخہ بلند و بلند پایا یعنی بہت سی بلندیاں و اونچائیاں
شوارد ۔ جمع شاردہ بھاگنے والے اور متفرق ہونے والے مجمع
توڑنے والے ۔
شواہد ۔ جمع شاہد بہت سے گواہ ۔ اور معشوق ۔
شواد ۔ شوات جسکے معنی سرخاب کے ہین اور سرخاب مشہور
جانور ہے ۔ بعض کے نزدیک شواد ایک اور جانور سوا سے سرخاب
کے بھی ہے جو ایک سال مین کئی طرح کے رنگ بدلتا ہے اور عربی مین
اسکو بوقلمون کہتے ہین ۔
شود ۔ ایک سبزہ ہے جسکو شبت فارسی مین اور ہندی مین سویا
کہتے ہین ۔ اور قسم ایک مورچہ کا جو نہایت چھوٹا جسم اُسکا ہوتا ہے ۔
شوند ۔ بنون عجمہ پہلوی مین باعث و سبب و مادہ ہر ایک امر کا
شوارسند ۔ ژندی زبان مین گربہ یعنی بلی ۔ اور نوحہ
کرنے والی عورت ۔
شور ۔ غلغلہ و شہرت اور بلند آواز اور نمک اور نمکین و نحس و شوم
شوکت ۔ بیا و آن لب شیرین بپس از مرگ ✽ نمک شد خاکم از بس
شور کردم ✽ سعدی زمین شور سنبل برنیارد ✽ در او تخم عمل
ضائع مگردان ۔
شورمور ۔ شوم و ضعیف و ناچیز و نامبارک اور قسم ایک چیونٹی
کی جو بہت چھوٹی ہوتی ہے ۔
شوستر ۔ خورستان مین ایک شہر ہے ۔
شوشیر ۔ پہلوی مین قاقلہ صغار یعنی چھوٹی الائچی جو مشہور چیز ہے ۔
شومیر ۔ زمین جو لائق زراعت کے ہو ۔
شونیز ۔ سیاہ دانہ جسکو ہندی مین کلونجی کہتے ہین ۔
شورش ۔ شور و غوغا و آشفتگی و پریشانی و ملامت و شکیبی سیر کرا بیچے
چون جمال دوست شور را جلوہ داد ✽ شورشی در جان مشتاقان نہادہ ✽
شوط ۔ دوڑنا ۔ گشت کرنا ۔

شوخط ۔ خوشہ انگور کا ہو یا کسی اور چیز کا ۔
شواظ ۔ بضم اول و ظای منقوطہ آگ کا شعلہ ۔
شوارع ۔ بڑے بڑے راستے ۔ شاہی سڑک ۔
شوغ ۔ آبلے جو بسبب زیادہ چلنے کے پانون مین پڑ جاتے ہین
اور بسبب زیادہ کام کرنے کے ہاتھون پر ۔
شواہق ۔ جمع شاہقہ نا خود شہوق سے بلندیاں اور اونچائیاں
اور شہوق کے معنے بلند ہونا ۔
شوارق ۔ روشنیاں اور روشن چیزین ۔
شوق ۔ خواہش و آرزو اور چاہ فغانی بند بند ہم شد فغانی
بستہ زنجیر شوق ✽ خوش علم زین بند اگر باز کشاید مرا ✽
شولق ۔ گھوڑا جسکی دُم سیاہ ہو اور چارون سم اُسکے سپید ہون ۔
شوانیق ۔ ایک سبز رنگ مرغ کا نام ہے جو اپنی منقار سے درخت
کی شاخ کو سوراخ کر دیتا ہے ۔
شوک خار یعنی کانٹا ۔
شوالک ۔ سرخاب جو مشہور جانور ہے ۔
شوشک ۔ طنبور و رباب و چہارتارہ اور نام ایک جانور کا جسکو
تیہو کہتے ہین ۔
شولک ۔ اسفندیار کے گھوڑے کا نام ہے اور بادریسہ سوت کا
جو اچھی دوک پر ہو ۔
شوال ۔ قمری مہینون مین سے دسوین مہینے کا نام ہے اور مسلمان
بعد گذرنے رمضان کے اس مہینے کی پہلی تاریخ عید کرتے ہین ۔
شواغل ۔ بہت سے شغل اور کام ۔
سورغال ۔ روزینہ جو کسی کا مقرر ہو ۔ یہ لفظ اصل مین سیورغال ہے
جسکے معنی مدد معاش کے ہین ۔
شوال ۔ بہ تخفیف واو کار و عمل و صنعت و حرفت و پیشہ ۔
شوکل ۔ کاتا ہوا سوت جو تکلے پر ہو ۔
شوم ۔ مصدر ہے معنی اسکے بدفالی اور بتصرف فارسیان منحوس و بخیل و نامبارک ۔
شورم ۔ پہاڑ جسکو عربی مین جبل اور فارسی مین کوہ کہتے ہین ۔
شوان ۔ شبان و چوپان جسکو ہندی مین چرواہا کہتے ہین مویشی کا محافظ
شوملن ۔ ژندی زبان مین دوزخ جو بہشت کے مقابلہ پر ہے ۔
شومن ۔ پیشانی اور ماتھا ۔
شوی ۔ خاوند شوہر خصم جورو کا سعدی زن بیجو بر در و بام و کوی ✽
ہمی کرد فریاد و میگفت شوی ✽

شوشو - غلہ کا نام ہی جسکو گاورس وارزن کہتے ہین اور ہندی مین چینا اور مینڈوا -

شولہ - بضم اول نام انیسوین منزل کا منازل قمر سے - اور وہ دو ستارے انتہائی دم عقرب پر ہین نیش کی جگہ پر نہایت منحوس -

شوشہ - تودہ پشتہ اور سلاک زر و نقرہ و آہن اور ریزہ ہر چیز کا میر الٰہی گر سایہ تو بشہر معمور افتد + ز آتش قہراز کی نور افتد + شمع از خنکی چو شوشۂ یخ گردد + بروئت اگر پرتوش از دور افتد +

شوریدہ - دیوانہ - برگشتہ حال -

شورہ - نمکین اور زمین جسمین شور ہو - اور نمکین مادہ جو زمین سے نکال کر نمک بنایا جاسے یا باروت بنائی جاسے +

شوہرہ - سہرہ جو شادی کے موقع پر دولہا دولھن کے منھ پر باندھتے ہین -

شورابہ - وہ پانی جو نمکین ہو -

شوکہ - وہ لوہے کا ناوچہ جسمین چاندی سونا گلا کر ڈھالتے ہین تاکہ شوشہ بنجاوے -

شولہ - بفتح اول کوڑی جسمین خس و خاشاک جمع ہو اور ستارہ شہاب ثاقب جو آسمان پر ٹوٹتا نظر آتا ہی -

شوری - اخیر مین الف بجمہوریت یاسے مشورہ صلاح و مشورت تجویز

شوہی - شوہر خاوند عورت -

شوخی - گستاخی - اندازسے بڑھنا - میرزا بیدل تبسم ہر کجا رنگ سخن زان لعل تر ریزد + ز آغوش رگ گل شوخی موج گہر ریزد +

شین باہاے ہوز

شہروا - وہ روپیہ جو کسی ایک شہر مین رائج ہو عام چلن اسکا نہو اور کسی زبردست حاکم نے وہ چلن اپنے علاقہ مین جاری کیا ہو دوسرے علاقہ مین اسکو کوئی نہ لے -

شہدا - شہید لوگ جو ناحق قتل ہوے ہون -

شہبا - مؤنث اشہب سیاہ و سفید گھوڑیان جنکی سپیدی سیاہی پر غالب ہو -

شہلا - عورت میش چشم - اور شہلا ایک قسم کا گل نرگس ہی جسکے پھول مین زردی کی جگہ سیاہی ہوتی ہی -

شہاب - بفتح اول سرخ رنگ جو پیلا رنگ نہایت سرخ کسم کے پھولون سے نکالا جاسے اور سگ بچہ یعنی کتے کا بچہ -

شہاب - بکسر اول روشن ستارہ اور آگ کا شعلہ - اور وہ ستارہ جو ٹوٹتا ہوا آسمان پر نظر آتا ہی -

شہرا سب - ایک ملک کا نام ہی جسمین لومڑی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہی اور اسکے چمڑے کی پوستینین بناتے ہین -

شُہُب - روشن ستارے -

شہادت - شہید ہونا - اور گواہی دینا - مؤلف حسین ابن علی فرزند دلبند پیمبر نے + دیا سر راہ حق مین اور لیا درجہ شہادت کا

شہرت - مشہور ہونا - ظاہر ہونا آشکارا ہونا ابوطالب کلیم خاکساری نقش پا تعلیم میگیرو زما + در فن خود گرچہ سعدی ریم شہرت کردہ ایم

شہوت - خواہش کرنا - آرزو کرنا - چاہنا - مؤلف طالب داری اگر ذات خدارا + زدل برکن ہوا و حرص و شہوت +

شہامت - بزرگی - توانائی - شادمانی جیبتی -

شہر بند - دیوار - شہر پناہ و حصار و قید خانہ و زندان نظامی حصار فلک برکشیدہ بلند + دروکردی اندیشہ را شہر بند +

شہید - گواہ - اور وہ شخص جو کسیکے ہاتھ سے ناحق قتل ہوا ہو - میرزا صائب - چہ آرزوی شہادت کنم کہ سوختہ است + بداغ یاس جگر گوشۂ خلیل از تو +

شہود - حاضر ہونا - اور حاضر ہونے والے اور گواہ شاہد کی جمع اور تصوف مین وہ مقام رویت حق ہی کہ مراتب کثرات و موجودات ظاہری سے عبور کرکے توحید عیانی تک پہونچ جائے اور ہر ایک موجود مین حق کو دیکھے غیریت کا خیال تک نرہے توحید نمود حضرت واحد در دوئی مسدود + بچار سوی جہان باب اتحاد گشود + زہے مکاشفہ مکشوف کشف اسرارش + زہے مشاہدہ مشہود راز ہاے شہود +

شہرود - نام ایک ساز کا اور نام ایک رود کا عراق مین -

شہد - مشہور چیز ہی جسکو عربی مین عسل کہتے ہین سعدی مگو شہد شیرین شکر فائق ست + کسی را کہ سقمونیا لائق است +

شہند - پہلوی مین نیکی اور بہبودی +

شہر - بڑی آبادی جسکو عربی مین بلد و مدینہ و مصر کہتے ہین ہندی مین بستی عربی مین مہینہ اسکے معنی ہین توحید و اردنیا ہست چون ناپایدار + بر بنایش چشم مضبوطی مدار + نیست چون بزندگانی اعتبار + ہر دم خود را دم آخر شمار + مثل مہر و ماہ در ہر روز و شب + نام روشن کن بہر شہر و دیار +

شہریار - شہر گیر - بادشاہ حاکم شہر کا + میر معزی شہریاری شہر گیر بادشاہ ملک بخش + خسرو معجز فتوحی دادگر مالک رقاب +

شہریور - ایک شمسی مہینے کا نام ہو یعنی جب تک آفتاب برج سنبلہ میں رہے ہند میں اسکو ماہ کنوار کہتے ہیں -

شہوار - ہر چیز عمدہ جو بادشاہوں کے لائق ہو -

شہور - جمع شہر کی بہت سے مہینے -

شہیر - مشہور و معروف -

شہپر - بڑا پر پرندہ جانور کا سعدی با وج شرف چون پرد جرعہ باز + کہ بر شہپرش بستہ سنگ آز +

شہر سبز - یہ ایک شہر سمرقند کے پاس ہو کش بھی اسکو کہتے ہیں امیر تیمور کا اصل وطن وہی شہر ہو میر رضی دانش غریب ملک بہار ہیم و شہر سبز چمین + نہ گل فروش شناسد نہ باغبان مارا +

شہناز - ایک ساز کا نام ہو شفیع اثر بجان آتش زند چون ارغنون قیرہ پرواز + بشہ ناز نرسد ہر گاہ گیر داوج شہناز من +

شہرتاش - ہموطن و ہمشہر چنانچہ خواجہ تاش -

شہیق - اخیر درجہ گدھے کی آواز کا اور زفیر اولین درجہ یعنی ثقیل آواز کا نام زفیر اور باریک آواز کا نام شہیق -

شہک - وہ لذت جو جماع سے حاصل ہوتی ہے -

شہلنگ - ریسمان تاب و ریسمان ساز رسن بنانے والا -

شہلان - نام ایک پہاڑ کا شاید کہ سیلان ہو -

شہر زرین - نام ایک شہر کا جو سلیمان علیہ السلام نے آباد کیا تھا - نجیب خالص سیر آبادی - سوادش در نظر از قیصر ایوان + بود چون شہر زرین سلیمان +

شہمین - یہ ایک شہر ہاین قزوین و تبریز کے ہی جسکو شہر زنگان بھی کہتے ہیں اسکو اردشیر بابکان نے آباد کیا تھا

شہربانو - یزدجرد بادشاہ کی لڑکی زوجہ حضرت سید الشہدا امام حسین علیہ السلام کی جسکے بطن عفت سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے -

شہرہ - مشہوری نام آوری اور شہرہ جو دولہن و دولہا کے سر پر شادی کے روز باندھتی ہے -

شہبرہ - ضعیفہ عورت - بوڑھی عورت -

شہبہ - بضم اول یہ ایک کلمہ ہو کہ نفرت اور کراہت کے موقع پر بولتے ہیں -

شہنشاہ - بڑا بادشاہ مخفف شاہان شاہ حیاتی گیلانی شد زبان چہ قوت وچہ بر تا + یکایک آفرین خوان شہنشاہ

شہبلہ - پیرزن - بوڑھی عورت -

شہہ - بضم اول کلمہ نفرت و کراہت ہی -

شہ - بفتح اول مخفف شاہ بادشاہ فرمان فرما -

شہلہ - وہ گوشت جو بہت چرب ہو -

شہنائی - ایک ساز ہو جسکو سرنا کہتے ہیں -

شہیدی - تخلص ایک شاعر کا اور تربوز جو اندیجان (؟) میں

شہی - بادشاہی اور نام ایک حلوا کا جو نشاستہ اور تخم مرغ سے پکاتے ہیں اور عربی میں وہ چیز جو اشتہا پیدا کرے

شہری - شہر کا رہنے والا اور نام ایک سرود کا -

شہوی - شہوانی - منسوب بشہوت -

شین مع یاے

شیدا - آشفتہ اور دیوانہ اور عاشق طوحید زروے گل تو بنمائی بگلشن چہرہ زیبا + کنی طاہر بہر سوئی حسن قد رعنا + تو از قامت بہر جانب قیامت کردہ بر پا + تو افگندی ز حسن دلربا اندر جہان غوغا + بحسن یوسفی خود کردہ یوسفی گرم بازاری + تو خواندی سوی خود بہر خریداری زلیخا را + زہر شکل وز ہر صورت رخ زیبا تو بنمودی + تو اہل دید را کردی بحسن جانفزا شیدا -

شیوا - بیای مجہول فصیح و بلیغ -

شیر خدا - خدا کا شیر لقب حضرت مرتضی علی کرم اللہ وجہہ لطف پہلوان دین حق شیر دلیر + حیدر و صفدر علی شیر خدا +

شیربہا - وہ زیور و پارچات جو شادی کے روز دولہا کی طرف سے دولہن کے گھر پہونچاتے ہیں ترکی میں اسکو ساچق اور ہندی میں بری کہتے ہیں - شفیع اثر پیالہ را نبود بی فروغ ماہ صفائی + برائے دختر رز لازم ست شیر بہاے -

شیبا - وہ سانپ جسکو افعی کہتے ہیں -

شیب - بفتح اول ضعیف ہونا بوڑھا ہونا بالوں کا سفید ہو جانا صفدر فوقانی - دانی کہ چہ چیز دفت شیب ست + صد آفت و صد ہزار عیب ست +

شیب - بکسر اول و یاے مجہول مخفف نشیب پست زمین ذوقی - چونکہ از خاک ست اصل ہر وجود + ہر سری دارد رجوع خود بہ نشیب +

شیب شیب - ہر دو لفظ بیای مجہول سرگشتہ و مدہوش و بیخبر

شیر قلاب - کمربند کا تسمہ جو شیر کی صورت پر اکثر بناتے ہیں -

شیب - بکسر اول و یای معروف و تیا۔ تازیانہ کا جو تسمہ کا ہوتا ہے۔ اور گریہ اور نوحہ جو کسی کے مرنے پر کیا جاسے اور ژندی زبان مین مہر یعنی مقعد اور وہ زمین جو نہایت سخت ہو۔
شیداب - نام ایک حکیم کا جو مٹی کو خدا سمجھتا تھا اور خاک کی پرستش کرتا تھا جسطرح گبر آگ کو پوجتے ہین وہ مٹی کو پوجتا۔
شیخوخت - بڑی عمر کا ہونا۔ پچاس برس سے بڑھ جانا۔
شیبت - ضعیفی۔ بڑھاپا۔ بڑی عمر کا ہونا۔
شیشۂ ساعت - وہ گھڑی جو شیشہ کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔
شیرخشت - یہ ایک مسہل دوا میٹھے ذائقہ کی ہوتی ہے جو رات کو شبنم کی طرح ہوا سے برستی ہے اور خراسان مین ایک قسم بید کے درخت پر جم جاتی ہے۔
شیث - حضرت آدم کے لڑکون مین سے ایک پیمبر کا نام ہے جو بعد آدم کے نبوت اُنکے نام پہنچی۔
شیرج - روغن کنجد یعنی تلون کا تیل عربی مین اسکو دہن الخل کہتے ہین۔
شیرزج - خفاش۔ شبپرک۔ چمگادڑ جو ایک مشہور جانور ہے اور رات کو اُڑتا ہے دن کو نہین نکلتا۔
شیخ - عربی مین یہ ایک خطاب بزرگی کا ہے ہر کسیکو بطریق ادب اہل عرب یا شیخ کہہ دیتے ہین معنی اسکے بزرگ بڑی عمر کا آدمی
شَید - بفتح اول بروزن قید مکر و فریب ؎ سجز کید از زنان حاصل نگردد + کہ کار شان سراپا مکر و شید ست +
شید - بکسر اول و یای مجہول روشنی اور آفتاب۔
شید - بکسر اول و یای معروف وہ چیز جس سے دیوار کو پلستر کرین مثل چونہ و گگی و گچ وغیرہ۔
شیاد - مکار اور فریبی آدمی۔
شیپور - نام ایک ساز کا ہے جو جنگ مین بجاتے ہین نفیری و نائی بھی اسکا نام ہے۔
شیر - بیاے معروف دودھ مشہور چیز ہے ذوقی تلطف یا خلق خدا کن + بہر یک نیک و بد شیر و شکر باش +
شیر - بیاے مجہول مشہور درندہ ہے مولانا اکبر لاہوری ؎ تا اگر پنجہ شیری خدا داد + بکم زوران مکن زور آزمائی +
شیار - وہ زمین جو زراعت کے لیے ہل چلا کر درست کی ہو۔
شیکار - وہ کام جو بلا اجرت مفت زبردستی کسی سے کرایا جائے

ہندی مین اسکو بیگار کہتے ہین۔
شیراز - فارس مین مشہور شہر ہے۔ کہتے ہین کہ عمرو لیث نے آباد کیا بعض کے نزدیک یہ شہر حضرت سلیمان علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے۔
شیز - ایک لکڑی سیاہ رنگ ہے جسکو آبنوس کہتے ہین۔
شیخ الرئیس - لقب شیخ ابو علی سینا کا جو ایک صاحب کمال حکیم گذرا ہے
شیاف ابیض - ایک مرکب دوا کا نام ہے جو آنکھ کی بیماری کا علاج ہے
شیرغاط - کشتی کی ایک داؤ کا نام ہے۔
شیوع - ظاہر ہونا۔ مشہور ہونا۔
شیاف - بتی کسی دوا کی جو قُبل یا دبر مین رکھی جاسے ملا فوقی یزدی ؎ چشم گفتگو محل نمک کش + شیافی ز بکون لب ز آتش +
شیشاک - وہ بکری کا بچہ جو ایک برس کا ہو۔ اور نام ایک رباب چار تارہ کا۔
شیشک - ایک پرندہ کا نام ہے جسکو تیہو بھی کہتے ہین اور پہاڑی کوا جو ابلق سیاہ و سپید ہوتا ہے۔
شَیک - وہ ہاتھ پانون جو کام نکر سکتے ہون۔
شِیَم - بکسر اول و فتح یای عادتین اور خوئین اور خصلتین جمع شیمہ کی سعدی ؎ کریم السجایا جمیل الشیم + نبی البرایا شفیع الامم +
شیم - بکسر اول و یای معروف درم وار مچھلی کو کہتے ہین محمد قلی میلی ؎ عکس دست درم افشان تو بہ بحر افتاد + ریخت چون شاخ شکوفہ درم از ماہی شیم +
شیروشلیم - بیت المقدس کا نام ہے۔
شیشم - مصنفات باربد سے ایک کتاب کا نام ہے جو خسرو پرویز کے دربار مین ایک استاد مطرب تھا۔ اور سرود مسجع اسکی تصنیفات سے ہے۔ اور اس سرود کا نام اُسنے سرود خسروانی رکھا اور نام ایک ساز۔ اور نام ایک قسم کے درخت کا جسکی لکڑی عمدہ ہوتی ہے ہندی مین اسکو ٹالی کہتے ہین۔
شیروان - بکریون کے پیٹ مین سے یہ شیروان سفید رنگ نکلتا ہے جسکا گوشت دانہ دار ہوتا ہے محمد قلی سلیم ؎ دایہ ز کودکی بدامانش + شیروان داده جای پستانش +
شیرین - جو چیز شیر کے ساتھ منسوب ہو حلاوت اور لذت مین اور ہر ایک چیز جو مطبوع و مقبول ہو اور نام معشوقہ فرہاد میرزا صائب ؎ گرچہ در شرم و حیا چہرۂ مریم مثل ست + ہست رخسار تو چون پردہ از و شیرین تر + بکوی ادھم اسکین ملان بدیدو عوغا شد + کہ عاشق بیشہ شیرین تراز فرہاد پیدا شد +

شیلان - سفرۂ خوانچہ کا - کھانے کے برتن - سلیم کس صرفی
برنگ مصور ندیدہ است + بر طاق خانہ اش زدہ شیلان کشیدہ است +

شیون - نوحہ اور ماتم کی آواز - و نالہ و فریاد اور ہر ایک آواز جو دردناک
ہو - صائب - تا من دل شدہ را دست نہ گردون بر داشت + جو ہر تیغ
چون سلسلہ شیون بر داشت +

شین بفتح اول زشتی اور عیب مقابلہ پر زین کے -

شین - بکسر اول و یای معروف مخفف نشین یعنی بیٹھ اور نام ایک
حرف کا حروف تہجی سے -

شیذمان - گرگ درندہ بھیڑیا جو مشہور درندہ ہی -

شیروان - نام ایک شہر کا ہی -

شیبان - نام ایک ولی کا - اور نام ایک قبیلہ کا -

شیشو - نام ایک مرغ کا ہی جو کبک سے چھوٹا ہی -

شیو - کمان جس سے تیر چلاتے ہین -

شیافہ - بتی دوا کی جو قبل یا دُبر مین رکھی جائے -

شیرازہ - جزو بندی کتاب کی جو جلد بند کرتے ہین - صائب
بغیر از خط کہ پیچیدست بر روی ولا و یزش + کہ مصحف را دگر شیرازہ
از زنار مے سازد +

شیرہ - چاشنی قند اور مصری کی اور نچوڑ انگور وغیرہ کا طالب
شراب کہنہ یا شیرہ گشت از واژگون بختی + دگر زنیسان بماند ہفتہ
انگور میسگرود +

شیشہ - مشہور ہی جسمین شراب و عرق وغیرہ سیال چیزین رکھتے ہین
صائب - بلفظ نازک صائب معانی رنگین + شراب لعل در شیشہ ہای
شیرازی ست +

شیہہ - گھوڑے کی آواز جسکو عربی مین صہیل بولتے ہین -

شیمہ - طبیعت و عادت و خصلت و خوبی -

شیفتہ - عاشق و مدہوش و بیخبر - صفدر فوقانی مرد و نیا و ار
نادان بیخبر + ہست بر دنیای فانی شیفتہ +

شیوہ - طرز - طریق عادت - روش - حکیم انور لاہوری قناعت
شیوۂ مردان دین ست + قناعت عادت اہل یقین ست +

شیرویہ - پسر خسرو پرویز - بمعنی شجاع و بہادر و دلیر - سعدی
شنیدم کہ خسرو بشیرویہ گفت + در آندم کہ چشمش ز دیدن بخفت +
بر آن باش تا ہر چہ نیت کنی + نظر در صلاح رعیت کنی +

شیعہ - گروہ اور قوم اور فرقہ اور جماعت اور اس زمانہ مین جو فرقہ
جو شیعہ امامیہ کہلاتا ہی - چار اصحاب کبار سے تین کو وہ نہین مانتے
علی المرتضی کرم اللہ وجہہ چوتھے جانشین کو خلیفہ برحق جانتے ہین
عشرۂ محرم مین سخت ماتم امام حسینؑ کا کرتے ہین بخلاف سنیون
کے کہ چارون خلفا کو برحق مانتے ہین - عشرہ محرم مین روتے ہین
مگر چھاتی نہین کوٹتے -

شیدہ - سورج اور ہر ایک چیز چمکنے والی - اور نام افراسیاب
کے بیٹے کا کیخسرو بن سیاوخش اسکا بھانجا ایک روز اسکے ساتھ
کشتی کر رہا تھا - آخر کیخسرو نے اسکو ایسی سختی سے زمین پر دے مارا کہ مر گیا -

شیرابہ - خشخاش جو مشہور چیز ہی -

شیرانہ - لکڑی کی رئی جس سے دودھ بلوتے ہین اور مسکہ نکالتے ہین

شیفتگی - بیہوشی و حیرانی - و دیوانگی -

شیدی - لقب حبشیون کا ہی جیسے میان اور لالہ وغیرہ -

شیر ماہی - ایک بڑی مچھلی کا نام ہی جسکے دانتون کے
پیش قبض کے دستے بناتے ہین -

شیرینی - میٹھی چیز جو کھانے مین آئے - صائب
وعدۂ بوس آرزوی تشنہ را در خواب کرد + دیدہ این طفل را
شیرینیٔ افسانہ است +

دوسری فصل

اردو لغات کے بیان مین -

واضح ہو کہ اس فصل کے اردو لغات جسقدر کتاب نفایس اللغات
وغیرہ مین درج ہین - سب فارسی و عربی اردو مین مستعمل ہین اور سبکے سب
پہلی فصل مین درج ہو چکے ہین دوبارہ لکھنا انکا محض بے سود ہی
اسواسطے متروک ہوا -

تیسری فصل

فارسی محاورات و اصطلاحات کے بیان مین

شین با الف

شامیہا - شام کے وقت - صیدی طہرانی نقش دیوار
از ہجر تو چشم کاسے + بر سر بام بر آ چون مہ نو شامیہا -

شاخ گوزن در ہوا - ہلال - ماہ نو - نیا چاند -

شاہ خرگاہ مینا - آفتاب عالمتاب -

شانہ بہا - قیمت قلیل - تھوڑی قیمت صرف جس سے ایک
کنگھی خرید سکین

شام غریب - شام غریبان شام مسافرونکی جو وحشتناک ہوتی ہی

با قمر کا سبھی حیف من و شکن زلف تو دانی چو نیست + آشنا
که در شام غریبان محتاج + صائب دل و آن زلف ندارد غم
تنہائی ما + فیض صبح وطن این شام غریبان دارد +

شام مغرب - ہلال ماہ نو نیا چاند -

شاہ عرب - ذات مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم حکیم انور لاہوری - زمین حلقہ در گوش شاہ عرب + فلک گردشکن از نور ماہ عرب +

شاخ نبات - وہ شاخین جو مصری کے کوزے مین ہوتی ہین - نیز مراد شکر یعنی گنے سے جسکے شیرہ سے مصری بنائی جاتی ہی اور نام معشوقہ حافظ شیرازی حافظ - اینہمہ شہد و شکر کز سخنم میریزد اجر صبریست کز ان شاخ نباتم دادند +

شانہ دست - کف دست یعنی ہتھیلی ہاتھ کی -

شاہ بیت - وہ عمدہ بیت جو غزل مین ہو محسن تاثیر شاہ بیتے زمن حریفی برد + روشنم شد که شاہ دزد می ہست +

شاہ برج - بڑا برج جو بادشاہی محل اور قلعہ مین ہوتا ہی چنانچہ قلعہ اکبرآباد و دہلی و لاہور وغیرہ مین ہی ملا طغرا شراب کی تعریف مین نشیند چو در شاہ برج قدح + شود حکمران سپاہ فرح +

شاخ بشاخ - شاخ در شاخ - کثرت کے ساتھ اندازے سے زیادہ شعر بہم فلطان و پیچان برگ در برگ +

شاخ پیوند - پیوندی درخت جسکو کسی دوسرے درخت کا پیوند لگایا جاوے حاتم بیگ ہمدانی زبس بیگانہ ام از آشنایان + غریبم در وطن چون شاخ پیوند

شاہ باد - تیز ہوا جو چلتی ہی محمد قلی میلی چو طوفان کند شاہ باد نہیبش + شود قبۂ فلک جملہ ابتر +

شاہ داماد - نوشاہ جسکی شادی ہوئی ہو حکیم شفائی محمد رضا فکری کی ہجو مین - کسیکہ ہیچ پیشش ہست شاہ داماد ے + شود ز دولت من روشناس شہر و دیار +

شاہ دزد - بڑا بھاری چور جو اپنا ثانی نرکھتا ہو -

شاید - مشہور لفظ ہی - سعدی مرا شاید انگشتری بی نگین نشاید دل خلق اندوہگین +

شاخ زر - سونے کی شاخین جو بادشاہی خزانون مین رکھی ہوتی ہین سلیم - ز برگہا سے خزان ہر نہال شاخ زر ست + چہ کیمیاست کہ طالع بباغبان دادست +

شاخسار - کسی درخت کی وہ جگہ جس جگہ سے بہت سی شاخین نکلی ہون اور شماروں کی وہ آہنی تختی جسمین موٹے اور باریک سوراخ بیشمار ہوتے ہین اور سونے چاندی کے تار اسمین ڈالکر کھینچتے اور بڑھاتے ہین آرزو - بقصد کینہ ایام سر چہ جنبانی + ز شاخسارہ شمشاد ارہ را چہ غم ست +

شاخ صنوبر - معشوق کی تعریف مین بولتے ہین حافظ من آن شاخ صنوبر را ز باغ سینہ برکندم + کہ ہر گل کز غمش بشکفت محنت بار می آرد +

شاد بہر - خوش نصیب صاحب بخت - نظامی یکے روز فارغ دل و شاد بہر + برآسودہ بود از ہو سہاے دہر +

شاد خوار - بے مزاحمت شراب پینے والا کمال اسمٰعیل شراب خورد و نہان از رقیب شب ہمہ شب + ز بادہ او خوش و شاد خوارے آید -

شامت بخیر - تیری شام خیر کے ساتھ - یہ دعائیہ کلمہ ہی خواجہ حافظ - ورت شیخ گوید مرو سوے دیر + جوابش چنین گو کہ شامت بخیر +

شانہ سر - ہدہد جو ایک جانور ہی اور مرغ سلیمان بھی کہتے ہین ملا طغرا - آنکس کہ پی تخت سلیمان عقل برد + چون شانہ سر مقید افسرے شود +

شانہ گر - شانہ بنانے والا - شانہ تراش طاہر وحید - بین تا بت شانہ گر شد و چار + مرا روز و شب شانہ بینی ست کار +

شانہ گیر - شانہ پیچ - روکش و نافرمان و سرکش و شوخ - محمد قلی سلیم - ز سودای قلم اور از زبان نیست + ندانم از چہ زلفش شانہ گیر ست +

شاہ بندر - وہ شخص جو محصول لینے کے لیے بندر پر مقرر ہو - میر سعید اشرف - چو گردید فارغ بال یکسر + ز دست انداخت جور شاہ بندر +

شاہوار - جو چیز بادشاہون کے لائق ہو میر معزی دیدہ ام در دولت و ملک ملک سلطان بسی + نہ بہای دلفروز تشبیہای شاہوار را

شاخدار - دیوث دبی غیرت و خودبین -

شاخ بدیوار - سرکش و مغرور -

شادور - وہ شخص جو عاشق و معشوق بین ایلچی و پیام آور ہو

شاہ خاور - آفتاب عالمتاب -

شانہ آویز - ایک قسم کی سزا ہی کہ مجرم کے ہاتھ شانون پر باندھ دیتے ہین ملا طغرا نذر دی دل طغرا نمی کند اقرار + علاج ہندوے زلف تو شانہ آویز ست +

شاہد بازی — شاہد بازی کرنا یعنی خوبصورت عورتون اور بے ریش بچون سے ساتھ صحبت رکھنے محمد قلی سلیم سرو گل سوی ندارد رند شاہد باز را + تاک را ہم دوست میدارم بذوق دختری + شاہد بازیم
می پرستیم + خوش طائفہ ایم ہرچہ ہستیم +
شاخ نرگس — معشوق کی تعریف مین بولتے ہین حافظ ہرکجا آن شاخ نرگس بشگفد + گلرخانش دیدہ نرگس دان کنند +
شال طوس — طوسی رنگ کا دوشالہ محمد سعید اشرف شعر فردوسی کجا و گفتہ اشرف کہ نیست + با کمر بند مرصع قدر شال طوس را +
شادی مبارک — یہ جملہ بوقت تہنیت عروسی یا تولد فرزند کے بولا جاتا ہی۔ حافظ حافظ شب ہجران شد بوی خوش وصل آمد شادیت مبارک باد ای عاشق شیدائی +
شادی مرگ — وہ مرگ جو زیادہ خوشی کے سبب سے وقوع مین آئے طاہر وحید گو از زخم شمشیرت زجان بی بہرہ گردیدم + ہر آئینہ نگشت از شوق شادی مرگ گردیدم +
شاہ رگ — رگ جان شریان حرکت کرنے والی رگ حبل الورید محسن تاثیر مریض عشق چون نبضے کہ بندد تسمہ نعنا دستش + کمر بندد بجون خویشتن با شاہ رگ دارد +
شاخ غزال — ہرن کے بچہ کے سینگ۔ ناصر علی غمت آنجا کہ دارد ماتم شوریدہ حالان را + پریشان تر ز موی سر کند شاخ غزالان را +
شاخ گل — محبوب کی تعریف مین بولتے ہین محمد قلی سلیم بباغ میبرد آن شاخ گل سلیم دگر + بہار در چمن امروز میہمان گل ست +
شان عسل — شان موم — آشیانہ زنبوران۔ شہد کی مکھیون کا چھتا جسمین شہد اور موم دونون ہوتے ہین۔ وحید مانند شان موم کہ ریزد شمع زان + شد خانہ ام خراب کہ معمور شد دلم +
شاہد عدل — گواہ سچا جو سچی گواہی دیوے محسن تاثیر باین قیامت و صبح دو شاہد عدل ست + کہ خرمن سخن سوختہ نشدہ ست سخن +
شاہ زاول — لقب سلطان محمود غزنوی کا حکیم سوزنی سعید شاہ جہان سوی محمد خرد دین مہمان + چو شاہ زاول سوی غلام خویش ایاز +
شادکام — شادکار — بیت خوش خور سند جلال الدین سلمان

آب را شد چشمہ سار روشن کہ شاہنشاہ گل + بر سر پر شوکت آمد تاز روی شادکام + نظامی تو شادی کن ار شادکاران شدند + تو با تاجی ار تاجداران شدند +
شاخ از پشیمانی برآمدن — نہایت پشیمان ہونا محمد سعید اشرف غزال اگر بتو میداشت لاف یکسانی + برآمدست کنون شاخش از پشیمانی +
شاخ زعفران — اعلی اور نادر اور عمدہ آرزو بیش جلوہ او نسبت سرخرو نو روزنہ + بلاک ہند بود شاخ زعفران ہو لی +
شاخ شکستن — مغلوب کرنا خود سری سے باز لانا سلیم مغرور بحسن خویشتن بود + زلف تو شکست شاخ سنبل +
شاخ گل بر سر زدن — پھول کی چھڑی مارنا محمد علی واحد از غبار ہم شاخ گل بر سر بلا تاکی میزنند + تا بتان از نقش پا گل بر مزار ہم ریختند +
شاخ گوزن — ہلال ماہ نو نیا چاند۔ خاقانی کردہ دران خرم فضا چہد گوزنان چند جا + شاخ گوزن اندر ہوا اینک نگونسار آمدہ +
شادروان — بساط و فرش جو بارگاہ سلاطین مین بچھتا ہو مشہور شادروان ہی اسماعیل یہ وہ ہین کہ چہ زیبا کشیدہ است بہار زگوشہ گوشہ در اطراف باغ شادروان —
شادمان — شادمانہ — شادمند — مشہور ہی میر معزی از دولت سعادت او شادمانہ شد + ہر دل کہ از نحوست ایام غم کشید + ادیب صابر — غم دنیا نخوردست ہر کہ صابر + بوقت رحلت خود شادمان رفت + نظامی بفصل چنین خرم و شادمند + بہ پستان شدہ زیر سر و بلند +
شال بگردن داشتن — بیمار ہونا۔ کیونکہ بیمار بخوف تصرف ہوا کے شال گردن پر لپیٹے رکھتا ہی محسن تاثیر گر نہ از حسرت خورشید رخت رنجورست + ماہ از نالہ چرا شال بگردن دارد +
شانہ بدل کردن — عورتین جو آپسمین بہنین بنتی ہین کنگھی بدل لیتی ہین جس طرح مرد پگڑی بدل بھائی بنتے ہین سنجر کاشی شانہ زلیدہ موئی کرد با مجنون بدل + سنجر شوریدہ سر کیفیت با دیوانہ ایم +
شانہ خالی کردن — اعراض کرنا بہانہ کرنا۔ روگردانی کرنا — محسن تاثیر رو بہ تیغ کہ بیبی زہر گی چون صبح + شانہ خالی کن از گرہ دریا باشد +
شانہ در آب بودن — شانہ در آب داشتن — شانہ در آب نہادن — آرایش اور سنگار کے خیال مین ہونا

سفید باختی - سر آرایش زلف کد این سیمتن دارد + کہ از امواج در آب سست دایم شانہ دریا را - محمد قلی سلیم - ز زلف موج تا بیرون برد نتوانست + دو هم ماہی نہادہ شانہ در آب + ملا طاہر غنی شب کہ در مد نظر آن گیسوے پر تاب داشت + مردم چشم تر مژگان شانہ را در آب داشت +

شانہ زدن - کنگھی کرنا - شانہ کرنا بالونکو کمال خجند سر زلفش چو شانہ میزد باد + اصلح اللہ شانہ گفتم +

شانہ زن - شانہ کش - شانہ کرنے والا محسن تاثیر عنبر مویش بصد تجمل + از شانہ زنان زلف سنبل طالب آملی من تو شانہ کش زلف نالہای ہمیم + بیا بجائزہ ہم دہان ہم بوسیم +

شانہ شکستن - خائف و ہراسان ہونا نظامی شتہہاے آئینہ پیل مست + ہمی شانہ بر پشت پیلان شکست +

شانہ کردن - شانہ کشیدن - مشاطگی کرنا - اور حیلہ بہانہ کرنا طالب آملی - مشاطہ گر نہ ایم عروسان نغمہ را + بر زلف شان چہ شانہ بہضراب می کشیم + مشہد قمی دمی کہ خواہم ازو بوسہ زلف شانہ کند + روز ساپہ زدن تا فتن بہانہ کند +

شانہ نہادن - شانہ کرنا - ملا طغرا صبا چون بہ زلفش نہد شانہ را در آید بزنجیر دیوانہ را +

شاہ اندازی کردن - اپنے اندازے سے زیادہ کا دعوی کرنا - ناحق فخر کرنا مخلص کاشی مہر درویش بگو در دل شہ اندازہ در سخن اینکہ کند اینہمہ شہ اندازی -

شاہ نشین - عالیشان عمارت - بادشاہون کے بیٹھنے کا مکان حافظ شاہ نشین چشم من تکیہ گہ خیال تست + جاے شہ است چشم من بیتو مباد جاے تو +

شایستن - لائق و سزاوار ہونا ملا وحشی شکارے نسیم کارایش فتراک را شایم + بقید من چہ سعی ست اینکہ وارد صید بندمن +

شانہ بین - فال دیکھنے والا - اور یہ فال مخصوص بکری کے شانہ کی ہڈی پر ہے کہ اسپر کوئی نقش لکھکر از روے حساب مآل مطلب معلوم کرتے ہین طاہر غنی خاطرش چون از غبار لشکر خط جمع نیست ہر دم از زلف پریشان شانہ بینی میکند +

شاریدن - ٹپکنا پانی کا زخم سے -

شاشیدن - موتنا - بول کرنا - تر ہونا -

شاہ چین - آفتاب یعنی سورج -

شاہ گوہران - یہ ایک جوہر خسرو پرویز کے پاس تھا جب اسکو تاگا باندھ کر دریا مین لٹکا دیتے - بہت سے اور قیمتی جواہر اسکو چمٹ جاتے جو بغیر اُتارنے کے نہ اترتے

شاہیدن - بزرگی اور پارسائی کرنا -

شاخ آہو - کمان جس سے تیر چلاتے ہین اور وعدہ جو وفا نہو محسن تاثیر - بنوعی خوشدلی رم کردہ از عالم کہ پنداری + بطبعہای می بر شاخ آہو آشیان دارد +

شاخ شاخ شدن گلو - پارہ پارہ ہونا گلے کا بسبب بلند آوازی کے نظامی بیندیش زان گفتہا سے فراخ + کہ آوازہ گردد گلو شاخ شاخ +

شاخ گیسو - زلف کی لٹین نظامی ز ہر سو شاخ گیسو شانہ میکرد بنفشہ بر سر گل دانہ میکرد +

شاہ لیمو - یہ عمدہ قسم کا لیمو فارس و کرمان مین ہوتا ہے تاثیر جز لب شاہی نشود قطرت قسم قانع + شاہ لیمو شکند حدت صفرای مرا +

شاخچہ - تہمت و افترا جو کسی پر باندھا جاے - طالب آملی ہزار شاخچہ بر خویش بستہ ام طالب + اگر بتیر در افتم بہ بین چہا بندم +

شاخشانہ - جھگڑا - تکرار - فساد - نور الدین ظہوری رندان ز شاخشانہ بہر دم چہ در ہم اند + گر دانچہ محتسب بظہوری عسس نکرد +

شاخ ناشکستہ - بے ادب - گستاخ خود سر محمد جان قدسی جوان از ملامت گرفتش بہ تیر + کراہی چون کمان شاخ ناشکستہ پیر -

شامگاہ - شام کا وقت - بعد غروب آفتاب نور الدین ظہوری ز عیش بلبل شوریدہ شامگاہ مپرس + چو زندگانی پروانہ در سحر نکست

شاہ کاسہ - بڑا پیالہ - شفیع اثر پیالہ از سر فغفور میزند تبخیش + کہ بادہ میخورد از شاہ کاسہ حوصلہ دار -

شاخچہ بندی - بہتان بندی و افترا پردازی میر الٰہی ہمدانی تنہا نہ بستی نگہش فتنہ پسند ست + از ہر مژہ ہی نرگس او شاخچہ بندست +

شانہ کاری - الجھاو - اور پیچ فریب و مکر کمال اسمٰعیل - کمال از سر ندارد با تو زلفش + مشو ور ہم کہ آن از شانہ کاری ست +

شین با یاے

شب احیا - یہ تین راتین متبرک اُنیسوین[19] - اکیسوین[21] تیئیسوین[23] ماہ رمضان کی اما میہ مذہب کے بزرگ جانتے ہین تمام رات دن تینون راتون مین جاگتے رہتے ہین اور انکا قول ہے کہ لیلۃ القدر انھین تینون راتون مین مخفی ہے اور واقعہ شہادت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ

بھی جنھین راتون سے قریب قریب ہوا ہی میر نجات نخیراتہ دل سرزندہ
عاشق نہ شناسد + قدر شب احیای سر زلف بتان را +

شب چرا - رات کو چرنے والا گھوڑا - رات کو کھا جانے والا یعنی رات کے وقت سواری دینے والا - سیاہ رنگ شبی اور چرنا حیوانات کا رات کے وقت چراگاہ مین - اور نام اس نقل کا جو رات کا کھانا کھاتے ہین **نظامی** بشب زنگی آن شب چرا گشت مست + چو ماہ آمدش شب چراغی بدست **مومن حسین یزدی** نے پسر خوان مردمان چون ذرہ ایم + نی نقل مجالس از پے شب چرہ ایم + امروز کہ ناکسان درین بازارند + ما جنس کساد هیم و زرنا سرہ ایم +

شب یلدا - بہت لمبی رات جو گیارھوین تاریخ ماہ جدی کی رات ہی - کیونکہ بارھوین تاریخ دن بڑھنے لگ جاتا ہی اور رات گھٹنے لگ جاتی ہی **صدر فوقانی** - دیدہ باید در غم گیسوی دوست صبح کے گرد شب یلدای ما +

شب شراب - **شب خمار** - وہ رات جسمین شراب پئین - **حکیم صادق** - ہزار شکر کہ با تو ہر دو ہم بزمیم + شب شراب گذشت و شب خمار گذشت -

شب غریب - بروزن عندلیب وہ نان و حلوا جو پہلی رات میت کی قبر پر تقسیم کیا جاے بستحق اطعمہ روزاجل کفن بر سم ہیچو نان ہین + از بہر وصل چاپلت حلوای شب غریب +

شب پرست - خفاش شب پرک جانور جو رات کو اُڑتا ہی **مولف** چشم امیدم ہمہ شب باز ماند + در غم گیسو بشکل شب پرست -

شب حاملہ ست تا چہ زاید یعنی رات آبستن ہے دیکھئے کیا جنتی ہے یعنی آیندہ دن سے واقعات کی حاملہ ہی - اگر رات مصیبت کی ہو تو نا امید نہونا چاہیے شاید دن کو کوئی بہبود کی صورت نمودار ہو جاے -

شب دزد - رات کو چوری کرنے والا **مولف** زلف شب دزد شہ چہ گستاخ آمدہ ست + راہ دین در روز روشن میزند +

شب گرد - رات کا پھرنے والا چور اور کوتوال وغیرہ **رضی دانش** کیجا پروای مردم ہست چشم مے پرستش را + بغیر از خواب شبگردی نگیرد چشم مستش را +

شب زندہ دار - رات کو عبادت کرنے والا - **سعدی** خردمند عثمان شب زندہ دار + چہارم علی شاہ دلدل سوار +

شب کور - جو رات کو نہ دیکھ سکے -

شبگیر - وقت سحر صبح سے اول **مظہر کاشی** ساقیا شبگیر شد

شمع شبستانی بیار + بزم روحانی بیا کن جام ریحانی بیار +

شب افروز - شمع کی تعریف مین بولا جاتا ہی - اور قسم ایک ریشم کی جسمین زمین نقرئی ہوتی ہی اور پھول طلائی **محمد سعید اشرف** چو دیبای شب افروز آن سمن بر + بہر ساعت نمودی رنگ دیگر +

شب خیز - جو شخص رات کو اٹھتا ہو **صائب** ہر کسی قیمت نداند نالۂ شب خیز را + خسروی باید کہ داند قدر این شبدیز را +

شب پوش - لحاف وغیرہ جو رات کو اوڑھ کر سوئین **حکیم سنائی** چہ رسم ست این نہادن زلف بر دوش + نمودن روز را در زیر شب پوش +

شب تیغ - دسوین محرم کی رات جسکو شب شہادت بھی کہتے ہین -

شبہای طاق - شب احیا جسکا ذکر تحریر ہو چکا ہی **مخلص کاشی** رخسار دلفروزت باشد مہ مبارک + شبہاے طاق این مہ آن ابروان طاق ست +

شب آہنگ - بلبل جو مشہور پرند ہی **زلالی** شب آہنگے بیا لیشم نوازد صدای آشنا بر آشنا زد +

شبرنگ - ہر ایک چیز جو سیاہ ہو - **صائب** سادہ میسازد ز جوہر روشنی آئینہ را + نیست پروای خط شبرنگ رخسار ترا +

شب گل - بہار کے موسم کی رات جو رات کو جاکر گلزار کی سیر کرین **مفید بلخی** خط شبرنگ برون زان لب گل می آید + مژدہ ای بادہ پرستان شب گل می آید + عندلیبان چہ بلا سوز فغانے دارند + بی تو بوی شب خون از شب گل مے آید +

شب بر پا داشتن - رات کو بیدار رہنا **مخلص کاشی** رہائی نخواہم ز زنجیر زلفت + چرا این شب قدر بر پا نہ داری +

شب بروز کردن - **شب بروز آوردن** - تمام رات بیدار رہنا **لسانی** شب تا بروز بودم من مبتلای ہجران + تو شب بروز کردی با مبتلای دیگر + **صائب** دمید صبح و نگشتیم آشنای چراغ شبی بروز نکردیم زیر پای چراغ +

شب خوش کردن - وداع کرنا - رخصت کرنا **سعدی** مصرع رہ فراق دوستان شب خوش بگفتیم خواب را +

شبخون - رات کو دشمن پر حملہ کرنا - **نظامی** بادشاہ گر یک شبیخون کند + ز ملکش ہما کہ بیرون کند + **و لہ** چو شبخون دارا در آمد براہ + ز پولاد پوشان زمین شد سیاہ +

شب درمیان - جب اس مین رات درمیان ہو **شفیع اثر** بزم وصل ہم پیوستہ از نازہ سیہ روزی + من و آن بیوفا شب درمیان بود ہم دو راتہم +

مولف - چہ دانی کہ فردا چہ خواہد گذشت + بترس از بلائی کہ شب درمیان +

شب زندہ داشتن - رات کو جاگتے رہنا ظہوری - برون آکہ گردون شب زندہ دار + کہ بر طبق کردہ بہر نثار +

شب ساختن - رات رہنا - رات بھر صحبت رکھنا - نظامی - سواد شب خون چو از تاختن + بر آسودہ آمد بشب ساختن +

شب شکستن - رات کاٹنا - رات گذارنا مسیح کاشی - شب شکستن بہر شبگیر ست اندر زلف تو + شب شکست و پیچ دل را بہرہ شبگیر نیست +

شب نشین - رات کے بیٹھنے کا مکان فیضی و دانش - شب نشین کن بر بساط سبزہ مہتابی خوش ست + قسمت از سرچشمۂ بینا دم آبی خوش ست +

شب رو - رات کا چلنے والا چور و کوتوال وغیرہ سعدی - خدایا تو شب رو بآتش مسوز + کہ رہ میزند سیستانی بروز +

شب افسانہ - وہ افسانے جو رات کو نیند آنے کے لیے سُناتے ہین نظامی - ستدے چند را از رقیبان راہ + ز بہر شب افسانہ بنشاند شاہ +

شب خانہ - سرای جسمین مسافر رات کو آکر شب باش ہون - سعدی - بنا کردہ نان داد و لشکر نواخت + ہم از بہر درویش شبخانہ ساخت +

شب سدہ - ماہ بہمن کی دسوین تاریخ فریدون نے بعد فتح ضحاک کے جشن کیا - اور یہ رات ہندون کی ہولی کی اخیر رات کے قریب قریب کی جس رات یہ ہولی کو جلاتے ہین فردوسی - بیکے جشن کرد آن شب و بادہ خورد + شدہ نام آن جشن فرخندہ کرد +

شب ماندہ - رات کی باسی چیز محمد سعید اشرف - بیشود بہ نام عالم ہر کہ ماند شب بوبتد + نیست قدری در نظر نعمت شب ماندہ را +

شبنم گریہ - آنسو جو رونے کے وقت آنکھون سے نکلتے ہین - طالب آملی - از شبنم گریہ سبز کردہ + تا کاشتہ دانہ در گل ما +

شبنم گوشوارہ - گوشوارہ کے موتی ابو طالب کلیم - در چمن جمال تو ای گل باغ رنگ و بو + شبنم گوشوارہ را آب گہر گلاب شد +

شبنم مژہ - **شبنم مژگان** - اشک یعنی آنسو طالب آملی - شبنم طراز بتغافل بود نشاید کہ ز شوق + شبنم مژہ ام پاسے تار سر ستم - زلالی - ایا زد شبنم مژگان وضو کرد + بہ تربت خانہ محمود رو کرد +

شب تازی - رات کے وقت کسی پر حملہ کرنا - شبخون مارنا

شب بازی - رات کو کھیل کرنے والے لوگ - سوانگ نکالنے والے پتلیان نکالنے والے و مکر و فریب نظامی - چنان بود شب بازی روزگار + کہ شد را دگرگون شد آموزگار +

شین با تا ی

شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت - اونٹ بوڑھا ہوا اور موتنا نہ سیکھا - یہ مثل سکے واسطے ہو کہ بوڑھا ہو جاسے مگر لیاقت نہ سیکھے - قطعہ از مولف - گذشت از عمر انسان حیف چل سال + مگر از علم سرمایہ نیندوخت + بزیر بار شد احمق شتر پیر + مگر تا حال شاشیدن نیاموخت +

شتاب آلود - بہت جلدی اور شتابی - شانی تکلو خبر دارد کہ شانی از زود ی دیدنش دارد + بہ سجدہ ی خانہ رفتار شتاب آلودہ می بیند ش

شتر بار سپرد - یہ بخیل کی حالت پر کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ جبہ نہین دیتا اور لوگ پوشیدہ اور چوری اسکے مال سے اونٹ لاد کر لیجاتے ہین - بخیل از مال خود چیزے نہ بخشند + برد دزد ست دزد و از وی شتر بارہ +

شتر را بچمچہ آب میدہد - اونٹ کو چمچہ سے پانی دیتا ہے یعنی اُسکے جسم کی مقدار نہین دیتا -

شتر غلط - کشتی کے فنون مین سے ایک فن کا نام ہے -

شتر دل - بے حوصلہ و بد دل و بی جگر آدمی طالب آملی - طالب ثبات حملہ مورچیم نیست حیف + شیر نرم ولیک شتر دل فتادہ ام +

شتر خان - **شتر خانہ** - اونٹون کے رہنے کا مکان سلیم - بجز از موج وقت آسائش + میدہد یاد از شتر خانش +

شتاب خوردہ - **شتاب زدہ** - وہ ڈرتا ہوا جلدی اور تندی کی حالت مین میرزا طاہر وحید - دوش از در هم درآمد جانان شتاب خوردہ از بادہ رنگ مستی از شعلہ تاب خوردہ صائب - عرق ببرگ گلت میدود شتاب زدہ + نگاہ گرم کہ این آتش ترا بآب زدہ +

شتر حجرہ - کام جسکا وقوع مین آنا ممکن نہو اور دو چیزین جو باہم مخالف ہون - میر یحیی شیرازی - شتر در حجرہ از گرما ست پنہان + شتر حجرہ ست حسرت سار بانان +

شتر گربہ - سخت و نرم ملایم و نا ملایم بات نامناسب - شناید بلا شتر چون مست گردد میکشد بار + شتر گربہ ست کار مرد ہشیار +

شتر دلی - نامردی - بزدلی - بی حوصلگی ؎ شتر گرچہ پشت خود کشد بار + مگر مرد شیر دل ہست بیکار +

شین با جیم

شجر کلیم - وہ درخت جس سے موسی علیہ السلام نے وادی ایمن مین بجوالی کوہ طور تجلی انوار الٰہی دیکھا -

شین با خای

شخالیدن - خراشیدن و خلانیدن - چھیلنا اور چبھونا -

شخائیدن - چھیلنا - خراشنا - تراشنا -

شخشیدن - پھسلنا - جگہ سے گرنا -

شخلیدن - سیٹی مارنا - اور پژمردہ ہونا -

شخودن - دانتون سے کاٹنا - ناخنون سے خراش دینا -

شخولیدن - پکارنا - فریاد کرنا -

شین با دال

شد مخالف - بی اصول نغمہ - بی سُرا راگ محسن تاثیر لیکہ اوضاع جہان شد مخالف برداشت + تا طنبور لکد بر سر طنبور زند +

شد پہلوان - اس بلند آواز کو کہتے ہین جو کشتی گیر کشتی کرنے سے پہلے سب کو سُناتے ہین -

شدن - ہونا - مشہور لفظ ہی طاہر وحید - تا بہاس شدہ چشم آشنا + خانۂ دل را شدہ بر گل بنا +

شین با رای

شراب صبح - وہ شراب جو مخمور علی الصباح خمار توڑنے کیواسطے پیتے ہین - صبوحی بھی اسکو کہتے ہین - صائب - روان شوچون شراب صبح از گلہاے مخموران + گرہ تا چند در یک جا بجون آب گہر باشی +

شرب الیہود - یہودی مسلمانون کے خوف سے شراب بہت کم پیتے تھے تاکہ مستی ظاہر نہو - سالک یزدی - کسی تا کے کند شرب یہود از بیم رسوائی + ایا غم پر کن ای ساقی کہ کار عیسی از دم +

شرم آلود - شرمناک - شرمگین - صائب - از حجاب حسن شرم آلود کو لعلی ہنوز + بید مجنون سر بپیش انداختن باز آورد +

شراب پشت دار - وہ شراب جو مقوی و بہی دوائین ڈالکر کھینچی گئی ہو - میرزا صائب - از سیہ مستی کند کم خویش را ہر کس کشید + زان لب نو خط شراب پشت دار بوسہ را +

شرابخوار - شراب دار - شراب پینے والا - اور جسکے پاس شراب ہو - حافظ - ترسم کہ روز حشر عنان بر عنان رود + تسبیح و خرقہ رند شرابخوار +

عثمان بخاری - شرابدار شد و جامہ دار و مشرف و خیل + وکیل خرج و کدخدا و خوان سالار +

شراب شکر - قند سرخ کی شراب - میرحجی شیرازی - ترانہ خال بود بر لب ای بت شیرین + نشستہ ہندوی میخوارہ و شراب شکر +

شراب گوڑ - یعنی شراب قند سیاہ - میرزا صائب - بادۂ انگور و آب خضر از یک چشمہ ایست + مرد دل در سینہ آتش ہر کس شراب گوڑ خورد +

شربت دار - جو شخص شربت بناکر فروخت کرتا ہو یا اس خدمت پر کسی کا نوکر ہو - سیفی - شربتی دارد لبش مہر دل بیمار من + مردم و رحمی ندارد ماہ شربت دار من +

شرم حضور - وہ شخص جو صاحب شرم ہو - صائب - دارد ہنوز شرم حضور مرا نگاہ + پنہان ز من بخلوت آئینہ میرود +

شرمسار - شرمندہ خجالت کی حالت مین - سعدی - کرم بین و لطف خداوندگار + گنہ بندہ کردہ ست او شرمسار +

شراب شیراز - شیراز کی شراب - سلیم - سلیم معتقد نظم خواجہ حافظ باش + کہ نشہ بیش بود در شراب شیرازی +

شرر آمیز - جس آگ مین سے شرارے بہت اٹھتے ہون - صائب - نیست آرام در آن دل کہ ہوس بسیار ست + شرر آمیز بود شعلہ چو خس بسیار ست +

شربت الماس - چمکتی ہوئی تلوار +

شراب قورق - بادشاہ کے پینے کی شراب جو عوام کو نہ ملسکتی ہو - شفیع اثر - محروم نگاہش شدم از منع رقیبان + مانند شراب قورق این بادہ گران شد +

شراب انداختن - شراب افگندن - شراب بنانا - شراب تیار کرنا - علی خراسانی - ہر کہ با بلبل نشیند مست از می کم شود + ما سیہ مستان عشق از گل شراب انداختیم + ولہ - بادہ گر خام ست بزم عیش ما افسردہ نیست + کردہ ایم از خون صبوحی تا شراب افگندہ ایم +

شراب خانہ رسان - گھر کی بنی ہوئی شراب - عرفی - بنوش و باک مدار این شراب خانہ رسان + کہ نیست خوردن این بادہ را پشیمانی +

شراب شیرین - میٹھی شراب جو تلخ نہو -

شرارستان - جس جگہ سے شرارے نکلتے ہون - محمد زمان راسخ - ہوس صحبۂ شرارستان اشکم + نگاہ واپسین مہمان اشکم +

شربت حیوان - شربت خضر - شربت مسیحا - آب حیات زندگانی کا پانی - علی خراسانی - گر تو آئی بسر کشتہ شربت حیوان بر کہف +

خضر را بر سر بیمار تو خواہم دیدن + شیخ العارفین حیات آنرا
شمارم کز خوبی لبتاندم ساقی + بجامی میفروشم شربت خضر و مسیحا را
شرح کشاف انشا کردن — خواندن زیادہ گوئی کرنا —
تکلف سے بولنا۔ شفیع اثر — لب بہ بند از کشف ای صوفی
کہ تا دم میزنی + شرح کشافی زبہرت ہر یک انشا کردہ اند +
محمد سعید اشرف بر مصحف روی او نظر کن ناصح + بسیار مگوی
و شرح کشاف مخوان +
شرمگین — شرمناک — شرمندہ — شرم آلود — شرم زدہ
شرمسار — شرمیل عرفی بگرم چشمی من در نظارہ مستی +
بشرمگینی من در نظارہ اشعار + صائب مدار بوسہ از ان روی
شرمناک طمع + کہ خضر تشنہ ازین چشمہ سار میگردد +
شراب زدہ — جو شراب پیکر سیر ہو چکا ہو رفیع واعظ کتو
تشنہ ام ای محتسب شراب زدہ + بیا و شیشہ ہی را بپیش من بردار +
شراب گذشتہ — شراب بی مزہ سفید باشی ہر چند چون
کباب کند گریہ سماع + از تشہ دو ہیچو شراب گذشتہ است +
شرم زدہ — شرمندہ — شرمسار حافظ ای شرم زدہ غنچہ مستور
از تو + حیران و خجل نرگس مخمور از تو + گل با تو برابری کجا خواہد کرد
کو نور زمہ دارد و مہ نور از تو +
شرمگاہ — شرم کی جگہ عورات کی میر خسرو خالیست بہ
شرمگاہ است ای مہ کہ گراو + در چشم بود دیدہ نباشد مگر او + یارب
چہ سعاست بر آن تختہ عاج + یک نقطہ و چند حرف باریک بر او +
شراب پرتگالی — وہ شراب جو پرتگال مین بناتے ہین —
طالب آملی — کسی کیفیت چشم ترا چو من نمی داند + فرنگی قدر میداند
شراب پرتگالی را +
شراب دہ منی سہ منی — اقسام شراب ہین میر معزی ارجل
شراب دہ منی کم نکشی + ورجو و پیالہ بود و ہم نکشی + یک بند ز سفرہ تو
ناشایدکس + تا روی چو سفرہ فراہم نکشی +
شراب قندی — شکر کی شراب طالب آملی قدح پر از می انگور
کن کہ طالب را + شراب قندی ہندوستان ضرر دارد +
شراب کہربائی — زرد رنگ کی شراب محمد قلی سلیم ارغوان گل
میکند در باغ من از زعفران + چہرہ لعلی ز شراب زعفرانی میکنم +
شرم جاے — مرادف شرمگاہ — عورت کے شرم کی جگہ
امیر خسرو خالے کہ بشرم جای آن نوش لب ست + بر چشمہ خورشید

تشنا قی ز شب است + جائیکہ مگس بلرزد از شب + خالش مگس است
و می نامرزد عجب است +
شرمساری — شرمندگی۔ تجالت امیر شاہی سبزواری
سیکشد سر و پیش بالایت + شرمساری ز قد کوتہ خویش +

	شین معجمہ با سین مہملہ	

شستہ عذار — بی ریش و امرد آدمی صائب آنرا کہ صفحہ
دیدار خبر یافت + ہر شستہ عذاری بنظر عالم آب است +
شست آویز — ایک طرح کی تعذیب کا نام ہے کہ مجرم کے
دونون انگوٹھے ہاتھ کے رسی سے لٹکا کر باندھ دیتے ہین محسن تاثیر
چو دام زلف عنبر بیز کردہ + دل صد نافہ شست آویز کردہ +
شستگی الفاظ — صفائی الفاظ اور سلاست اور جزالت لفظی
محسن تاثیر — صد شستہ بحر سخن شستگی الفاظ است + نیست جز
شستی تر گو ہر شاداب سخن +
شست و شو دادن — دھونا۔ صاف کرنا ابو طالب کلیم
رسیل اشک چنان شست و شوی دیدہ دہم + کہ ہر نظارہ
غریبی جنید از نظرم +
شستہ شدن — نہایا جانا غسل دینا میت کا نعمت خان عالی
بحمام ارشدی آن قدر نشناس + شودی چشم پر آبی بہ طاس +
ہمانا پیش او چون رفت بگریست + کہ خواہی شستہ شد پیش از نعمت

	شین با شین	

شش عروس عنا — چھ ستارے آسمانی سوای آفتاب
ماہتاب کے۔ قمر عطارد زہرہ مریخ مشتری زحل —
شش ضرب — بازی نرد مین ایک چال ہے اور صوفیہ کے ذکر نفی
اثبات مین ایک قسم کا ذکر ہے
شش و پنج — ایک قسم کے قمار کا نام ہے اور شش پنج زن
و شش پنج باز اسکو کہتے ہین جو اپنا تمام مال تلف کر دیوے اور حیلہ گر
و مکار ہو میر خسرو تا شدی بہفت و نہ در پنج + نقد عصمت فتاد در شش و پنج +
شش بانوی پیر — سات ستارے سوا سے آفتاب ماہتاب کے
افضل الدین خان خاقانی — شش بانو پیر کردہ ہر ہفت + عالم بجود ید
ہفت در ہفت +
شش پر — ایک ہتیار کا نام ہے میرزا طاہر وحید بہر شش
پرش را از ان راست کرد + کہ از شش جہت بر تنم در خورد
شش روز — وہ چھ روز جسمین خالق جل شانہ نے تمام عالم موجودات کو پیدا کیا

آیت شریف اَللّٰہُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِی سِتَّۃِ اَیَّامٍ

شش انداز - چھ مہرون کا کھیل کھیلنے والا جو تین ہاتھ مین رکھتا ہی اور تین ہوا مین پھینکتا ہی کوئی انمین زمین پر نہین گرنے دیتا نظامی - برون آمد ز پردہ سحر سازی شش اندازی بجای شیشہ بازی

شش طرف - چھ سمت - مشرق - مغرب - جنوب - شمال تحت فوق

شش پستان - وہ عورت ضعیفہ جسکی پستان نرم و سست یعنی چھیچھڑے کی طرح ہو گئی ہون سختی جاتی رہی ہو - افضل الدین خاقانی - جنگ ست شش پستان زنی رومی و لے زنگی تنی + مریم صفت آبستنی عیسیٰ و دہقان مین درد +

شش ارکان - چھ رکن زندگی کے جسکو ستہ ضروریہ کہتے ہین جب تک انسان زندہ اُنکے بغیر نہو گا - اول ہوا جو محیط ابدان ہی دوسرے کھانا پینا جسکے بغیر زندگی مشکل ہی - تیسرے حرکت و سکون ظاہری جو خاص کام جسم کا ہی - چوتھے حرکت و سکون نفسانی مثلاً غضب و حلم و فرح و غم وغیرہ - پانچوین خواب و بیداری چھٹے استفراغ و احتباس یعنی خروج بول و غائط و جماع و فصد و احتباس عدم خروج ان چیزون کا -

شش خاتون - چھ ستارے سوائے آفتاب کے -

ششم زمین - روم کی ولایت -

شش آماسیدہ - جو آدمی نامرد و بزدل ہو -

شش قبرقہ - احمق نادان بیوقوف - واضح ہو کہ قبرقہ پسلی کی ہڈیون کو کہتے ہین - ایک شخص کا غلام نہایت بیوقوف تھا مالک نے اُسکو ہنسی سے کہا کہ تمام جہان کی پسلی کی ہڈیان سات ہوتی ہین اور تیری چھ ہین - غلام کو اس بات کا اسقدر غم ہوا کہ اُسی غم مین مر گیا - اُس روز سے شش قبرقہ بیوقوف کو کہنے لگ گئے -

شش دانگہ - پورا پورا - نہایت درست ہر ایک امر مین کامل عیار

شش سری - یہ ایک قسم کا سونا نہایت عمدہ ہوتا ہی وجہ تسمیہ یہ ہی - خراسان مین ایک بت سراپا سونے کا تھا چھ اسکے سر تھے مسلمانون نے جب اسکو توڑا تو معلوم کیا کہ سونا اسکا نہایت عمدہ ہی اس روز سے اس سونے کا نام زر شش سری مشہور ہوا

شین با عین

شعلۂ بالا - محبوب کی تعریف مین کہا جاتا ہی - مؤلف بیدار نو فرا رسم دلبری با حسن زیبائی + بہ پوش گلعذاری شمع روئے شعلہ بالائی

شعلہ مزاج - گرم مزاج معشوق کے وصف مین بولا جاتا ہی حکیم انور لاہوری - سرو کے گرود ز آب اشک ما + گرمی آن شمع و شعلہ مزاج +

شعلہ فریاد - شور و غوغا جو فریاد کے وقت کیا جاتا ہی علی خراسانی گر باین قانون علی از دست گل افغان کنم + شعلۂ فریاد ما گردد گواہ عندلیب +

شعلہ بار - نہایت گرم جس سے آگ برستی ہو حسین سنائی درجوف آب کار عنایت اگر کند + گرد و لبسان پنجہ خود شعلہ بار دست +

شعلہ دیدار - شعلہ رخسار - شعلہ روی - معشوق کی تعریف مین بولے جاتے ہین قاسم مشہدی گریبان میدرم تحو و چو بینیم شعلہ رخسارے + نگاری شعلہ روی تند خوئی شعلہ دیداری +

شعلہ زار - شعلہ زبان - شعلہ ستان - شعلہ سوار یہ الفاظ مشہور ہین صائب آتش عشق ز خاکستر ہند ست بلند + زن ودین شعلہ ستان بر سر شو ہر سوزد طالب آملی - نسیمی از چمن عشق آستین بفشاند + کہ گلستان مرا داغ شعلہ زار نکرد + مرزا رضی دانش فیض شمعیکہ شد افسردہ بمحفل نرسد + مردن شعلہ زبانان سخن خاموشی ست + میرزا جلال اسیر با سبے پر و بالان چہ برد دعوی پرواز + خاشاک باین شعلہ سواران بفروشیم +

شعلہ آواز - وہ مطبوع آواز جو دل مین اثر کر جاے تاثیر - قوال بیر کی تعریف مین جہانکہ آئینہ گیرند در چراغانی + عیان ز گردن او شعلہ ہای آوازست صائب فکر جانسوز مرا یک نقطہ سنے انداز نیست + یک سپندم بزم من بی شعلۂ آواز نیست +

شعبدہ باز - بازیگر - مکار - فریبی مولانا مظہر دلبر من چو خبر یافت زعزم سفرم + دردوید از سر حسرت سوی من شعبدہ باز +

شعلہ پوش - سراپا آگ - جلتا ہوا - طالب آملی منم کہ دود دلم شعلہ پوش می آید + لبم چو صبح تبسم فروش می آید +

شعربافت - ابریشمی پارچات - زربفت وغیرہ بننے والا طاہر وحید ولم بہ بیت شعر بافت ست بند + کہ ہر تار باشد بہ دستش کمند + زدل کردہ تاراج تاب مرا + چو مخمل برید ست خواب مرا + از و عاشقان راست دردان و درد + ز یک ریشہ سر زد گل سرخ و زرد + چہ سازم بآن یار نا سازگار + کہ با قد ز ابریشم نرم تار +

شعلۂ تاک - انگوری شراب علی خراسانی سوز جگر سوختہ ام از گل صہباست + داغ دل صد پارہ ام از شعلۂ تاک ست +

شعلہ ناک - جلتا ہوا - نہایت گرم ابو طالب کلیم بہوش باش ولا آہ شعلہ ناک کش + کنون کہ ناوک او سینہ را گلستان کرد +

شعلہ جوال - شعلہ جوالہ - یہ ایک کھیل کا نام ہی کہ ایک لکڑی کے

دونون سرون پر چرب کپڑا باندھ کر آگ لگا دیتے ہین اور اسکو اس زور سے گھماتے اور پھراتے ہین کہ آگ کا چکر بندھ جاتا ہی محسن تاثیر
تا بگلشن رفت سرو آتشین رخسار من + طوق گردن ساخت قمری شعلۂ جوالہ را + ظہوری ۔ گھوڑے کی تعریف مین چون بگردش فتاد در جولان + آب گردید شعلۂ جوّال +

شعلۂ جام ۔ شراب جو پیالہ مین ہو نورالدین ظہوری بغم رسان شعلۂ جام مرا + گرم کن سیخ شان مین خام را +

شعر بستن ۔ شعر لکھنا ۔ مضمون باندھنا محسن تاثیر قسمت نظم روزی ما را حوالہ کرد + سد رمق بہ بستن اشعار کرد دایم ۔

شعف دادن ۔ مشتاق کرنا ۔ شوق دلانا ۔ ملا طغرا کعبہ معظمہ کی تعریف مین ۔ مرا چشم آہو شعف دادہ است + کہ ہمرنگ آن لیلی افتادہ است +

شعلۂ جولان ۔ معشوق کی تعریف مین بولا جاتا ہی میرزا بیدل
نسبے رخ آن شعلۂ جولان پیکر فرسودہ ام + ہمچو اخگر زیر دیوار شکست رنگ ماند +

شعلہ چین ۔ مشہور و معروف ہی حکیم زلالی شقائق را نشان در آستین ست + کہ دامان کدامین شعلہ چین ست +

شعبدہ باز ۔ بازیگر ۔ فریبی ۔ مکار ۔ محسن تاثیر تاثیر شد از چشم زیرا مر تو جانان + سحر ست فسون سازی این شعبدہ باز +

شعر آمدہ ۔ وہ شعر جو خود بخود طبیعت سے نکلے آورد نہو تاثیر زقید ساختگی حسن شوخش آزاد ست + چو شعر آمدہ سوز و نمیش خدا داد ست +

شعبۂ رقص زرینہ ۔ نام ایک شعبہ کا موسیقی مین ملا طغرا خواند شعبہ رقص زرینہ + شفقتہ سے بماند زود رفیبنہ +

شعلۂ آہ ۔ آہ کی سوزش اور جلن علی خرا سانی در بزم تو چو شعلہ آہی نہ نشستم + در عشق تو چی روز سیاہی نہ نشستم +

شعلہ زادہ ۔ شیطان ۔ ابلیس صائب بربان آدمیت ما قدسیان پس اند + گو شعلہ زادہ تا نمناید سجود ما +

شعلہ نگاہ ۔ گرم نگاہ ۔ غضب کی نگاہ عبداللطیف خان تنہا گشت دل در گرو شعلہ نگاہی ست کہ باز + مے پرد چشم سمندر کہ دران دانہ شود +

شعلہ خوی ۔ شعلہ قامت ۔ شعلہ کار ۔ شعلہ ور ۔ یہ الفاظ معشوق کی تعریف مین بولے جاتے ہین نورالدین ظہوری نتوانند آرزوی ہر دل نہاد خرمن + برقی ز شعلہ خوئی گر در نہاد باشد +

محمد زمان راسخ ۔ کرنا گرسر کشید آن شعلہ قامت + ہمیان شد ز جہ بازوی قیامت + میرزا بیدل شعلہ کاران را بجا کسترِ قناعت کردن ست + ہر کجا عشق ست دہقان سوختن ہم حاصل ست + مفید بلخی مفید طبع بلندم چو شعلہ دارد گرم + جنس برتو معنی و کان شعلہ گری + میرزا رخس و خاشاک گرد پیش آتش شعلہ ور + چوب گل کے سے تواند ساختن حاقل مرا +

شعلہ نوشی ۔ آگ کو کھا جانا عرفی عشق را بدنام کردی سینہ بر آتش بدار + شعلہ نوشی کن بھل بازیچہ پروانہ را +

شین با غین

شغل سنج ۔ شغل کرنے والا ۔ مشغول ہونے والا نظامی بدستوری او شوی شغل سنج + کہ دستور دانا بہ از مال و گنج +

شغل ور ۔ صاحب شغل و صاحب کار میر خسرو گہی چو شغل وران تکیہ کردہ بر بالش + گہی بکنج حرم گہ بصفہ بار ست +

شین با فا

شفق زار ۔ شام کی سرخی یا صبح کی جو آسمان پر ظاہر ہوتی ہے ملا طغرا ۔ ہمین سا قیا پنبہ گویا بود + کہ منصور حلاج مینا بود + ز دست خودش بر سر دار کن + ز خونش ہوا را شفق زار کن +

شفقستان ۔ شفق کا مقام جو سرخ ہوتا ہی + درویش والہ ہروی از دیدہ ز بسکہ خون روانست + گردون ز زمین شفقستان ست +

شفق جلوہ ۔ جو سرخ رنگت دیوی میان ناصر علی ہوا تمام شفق جلوہ شد تماشا کن + چہ کردہ کہ دگر رنگ گل بیابانی ست +

شین با کاف

شکر اندا ۔ جس چیز مین شکر بھری ہو نورالدین ظہوری ز تلخی نیست ظہوری بجا مم + کام اگر شد شکر اندا چہ حظ +

شکستن بنا ۔ عمارت کا گرا دینا ۔ منہدم کرنا ۔ خواجہ آصفی ۔ سیل غم تو بر دل آباد من گذشت + ہر سو بنای خانۂ صبر و سکون شکست +

شکر خواب ۔ بی فکری کی نیند میرزا صائب بخون ستگان خواب شیرین تلخ میسازد + شکر خوابی کہ من بر روی فرش بوریا دارم +

شکر آب ۔ میٹھا شربت اور رنجش اور کدورت جو دو دوستون مین واقع مین آئے جسکو شکر رنجی بھی کہتے ہین ملا شانی تکلو از یک جواب تلخ کہ مقصود ما نشست + در جام دوستی شکر آبی نمی نمی +

شکر لب ۔ شیرین زبان شیرین سخن سعدی) شکر لب جوانی نی آموختی کہ دلہا بہ آتش چو نی سوختی +

شکوہ آشوب۔ شکوہ پرداز۔ شکوہ سنج۔ شکوہ مند۔ شکایت کرنے والا۔ گلہ کرنے والا۔ مرزا صغر قطرت۔ مطلبے جز شکر غمہای وفا از تو نیست + خوانندہ باشی نامہ ہای شکوہ آشوب مرا + سالک قزوینی۔ ز سالک شکوہ پردازی نہ شرط راہ میباشد + کہ اول منزل یوسف بدین رہ چاہ میباشد + مرزا بیدل شخص نسیان شکوہ سنج غفلت احباب نیست + تا فراموشی بخاطر ہاست در یادیم ما +

شکر دخت۔ اچھی لڑکی مقابل شیرین پسر۔ لالی شکر دختے زانگبیدن پر + شیرین پالکر چون رشتہ در +

شکست۔ ٹوٹنا۔ ہزیمت پانا جنگ مین محمد قلی سلیم سحر نسیم کہ آن زلف تابدار شکست + شکوہ دست سیاہی نیا بسوز اشکست +

شکست قیمت۔ قیمت کا کم ہو جانا۔ بھاؤ اور نرخ کا اُتر جانا۔ ع زنا پسندی مردم عزیز خویشتنم + بود گرانی ما از شکست قیمت ما +

شکم پرست۔ شکم پرور۔ بہت کھانے والا آدمی۔ اور جسکو اپنے ہی پیٹ کی فکر ہو۔ میر خسرو۔ شکم پرست زمعنی ست دور اسیار بہ است تو بہ جو زگوہر سنہ شام + صائب بوالہوس از ان لب شیرین نظر بر بستہ نیست + این شکم پرور برای نقل صہبا می خورد +

شکر گنج۔ یہ خطاب حضرت قطب الاقطاب خواجہ فرید الدین چشتی اجودھنی پاک پٹی کا ہے باعث یہ تھا کہ حضرت مٹی ہاتھ مین لیتے تو قند بنجاتی۔ یہ کرامت بارہا حضرت سے ظہور مین آئی یہ بزرگ سلطان المشائخ نظام الدین زربخش دہلوی کے پیر تھے اور قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی دہلوی کے مرید طریقت مین انکو بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ قطعہ معدن صدق وصفا گنج شکر + منبع جود و عطا شیخ وحید + قطب اقطاب زمانہ غوث دین + فرد عالم حضرت خواجہ فرید +

شکر پیچ۔ پڑیا یا تہ ہنے کا کاغذ جسمین شکر کی پڑیا بندھی ہو۔ میر خسرو کاغذ خام بود شکر پیچ + کاغذ پختہ بود معنی سنج +

شکر خند۔ شکر خندہ۔ تبسم اور خندہ معشوق کا۔ عبد اللطیف خان تنہا۔ درستخوانم شد سمندر طوطی از رشک ہما + این نیستان شعلہ زار از برق شکر خندہ کیست + صائب جہان ز صبح شکر خندہ تو روشن شد + کہ دیدہ است شکر اینقدر سفید شود +

شکر سفید۔ شکر تری۔ سپید کھانڈ جسکو بورا اور چینی بھی کہتے ہین ذوقی از لب لعل تو شد یاقوت سرخ + وز مذاق گفتگو شکر سفید + آرزو از خجالت آب میگردد مدام + از لب او قسمت شکر تری ست +

شکستن درد۔ زائل ہونا درد کا۔ سیفی اسفرنگی ہیچ خمار ست درد تو کہ نگردد + جز بگران خواری شراب شکستہ +

شکستہ بند۔ وہ شخص جو ٹوٹے ہوے جوڑون کو باندھے اور علاج کرے۔ محسن تاثیر می گلرنگ باشد تنگ بستہ شکستہ بندو لہای شکستہ +

شکربار۔ نہایت شیرین یعنی میٹھی۔ صائب بسکہ می چسپیم کام ولب از شیرینیش + نقل نتوان کرد گفتار شکر بار ترا + اردو لب سے ملتے ہین شیرینی سے ہوتی ہو نبات + وصف کیا لکھون مین اُسکے لعل شکر بار کا +

شکرزار۔ نیشکر کا کھیت۔ گنے کا کھیت۔ صائب دل مقید بشکرزار ہوس نیست مرا + رشتہ حرص بپا ہمچو مگس نیست مرا +

شکرگر۔ حلوائی جو کھانڈ بناتا ہے سید حسن غزنوی۔ گل شکرست جمع بذات مبارکت + خلق تو گلفروش وزبانت شکر گرست +

شکست کار۔ کام کی بیرونقی محتشم کاشی زہی طغیان حسنت بر شکست کار من باعث + ظہورت بر زوال عقل دعویدار من باعث +

شکستن کاروبار۔ بیرونقی و کساد کار محمد قلی سلیم شکست کار دل من از وست کائنہ را + خدا چشم بد از چہرۂ تو دور کند +

شکم خوار۔ شکم خوارہ۔ بھوکا۔ اور طماع جو کبھی سیر نہو۔ شعر چو قرص گرم فلک دیگ کہن بکشود + ز آتش رحم پیدا شد این شکم خواری + خواجہ سلمان۔ ای کریمیکہ ہمہ وقت زخوان کرمش + معدۂ آز شکم خوار بلاسے دارد +

شکم دار۔ جسکا پیٹ بڑھا ہوا ہو اور ہندی مین اُسکو توندلہ کہتے ہین ظہوری ہاتھی کی تعریف مین۔ ہی شد زتشبیہ او معتبر + فلک از زمین پرشکم دار تر +

شگوفہ زار۔ سرسبز باغ ع شگوفہ زار شود ہر چمن کہ من گذرم زبسکہ سینہ داغ از تنم فرو ریزد +

شگون گیر۔ جو شخص فال دیکھکر کام کرے ظہوری در گذشتن نتواند نگہ از کشتہ او + تا تسلی ندہد چشم شگون گیر مرا +

شکار انداز۔ شکاری۔ شکار کرنے والا۔ صائب دل پرخون او ان زلف شکار اندازے خواہم + چہ گستاخم کہ خون کبک از شہباز میخواہم +

شکرآویز - مشہور لفظ ہی حافظ ترا رسد شکرآویز خواجگی گہ جود
کرآستین بگریبان عالم افشانی +

شکرپرداز - شکر کرنے والا - سپاس کہنے والا - صائب
ہر سر خارسے زبان شکرپردازی شدست + محمل لیلی ہمانان
در بیابان آمدہ ست +

شکرپنیر - ایک قسم کا میٹھا پنیر ہوتا ہی نہایت لطیف ملا فوقی
یزدی - شکرپنیر کلامم گرز ملکیدہ نبات + زمن نگیر و بقال
ہم بہ نرخ سماق + دگر بعرض کشم در طویلہ سیہ قطم + خورم
ز مہتر اسپان دو صد تبر تخماق +

شکرخیز - جس زمین میں شکر پیدا ہو - صائب من و مصری
کہ شکرخیز بود خاک اینجا + کوزہ شہد بود حنظل افلاک آنجا +

شکرریز - وہ نثار جو شادی کے روز دولھا دولھن کے سر
کرین - اور نرم اور شیرین کلام و آواز خوش کسی گانیوالے کی
نزاری قہستانی - شکرریز عروسی چون کنم ساز + بیارم در شبستان
بصد ناز + سلمان سطربان تو جو بر عود شکرریز کنند + روح را
مغز معطر شود و لب شیرین +

شکرپوش - قسم شیرینی کی ہی کہ الائچی و پستہ و بادام وغیرہ
میوہ جات کو شکرپوش کردیتے ہین - یعنی انپر کھانڈ چڑھا دیتے ہین
صائب بازہر چشم خند ہ ہم آغوش کردہ + بادام تلخ را چہ
شکرپوش کردہ +

شکرچیش - وہ شکر جو نمونہ دکھلایا جاسے نظیری نیشاپوری
لب دادہ بشتری شکرچیش + بس نرخ شکر گران نہادہ +

شکرفروش - شکرفشان + شکر بیچنے والا اور شکر بانٹنے والا
حافظ - شکرفروش کہ عمرش دراز باد چرا + تفقدی نکند طوطی شکرخارا

شکستن چشم و گوش - اندھا اور بہرا ہونا صائب ترسم گریہ
چشم گہربار شکند + این کاسۂ گدائی دیدار شکند حسین سنائی
وصف عصاے حاجت قدت نمی کنم + تا گوش او گرانی گفتش نشکند

شکنج کش - مشہور لفظ ہی طالب آملی سپاہ درد و غم از ہر طرف
بہجوم کنند + کہ دل شکنجہ کش عیشہا و عشرتہاست +

شکر سماعی - شکر سوار - عمدہ گانے والا اور عمدہ سوار -
حکیم سنائی - در زدہ زدن شکر سماعی + در گوسے زدن
شکر سوارسے +

شکرحرف - شیرین کلام خوشگو ظہوری شکرحرفان طبیب شور نجینا

نگاہ تلخ شان زہر دہائی +

شکربرگ - شکربرہ - شکربورک - شکربوزہ - شکرپارہ
ایک مشہور شیرینی ہو نزاری قہستانی ہمچو سگ در دیر بیبوزہ + خواند
خرزہرہ را شکربوزہ + ولہ بیاو بوسہ منہ خوان خوردنی کہ بود + تفاوتی
ز شکربرہ تا شکربوسہ + نظامی شکربوزہ بانوک دندان براز +
شکرخوارہ راکردہ دندان دراز +

شکررنگ - سرخ رنگ جو پھیکا ہو جو انسان کے چہرہ پر بحالت
شرمندگی ظاہر ہوتا ہی غنیمت خندہ را از وہنش تاب جدائی نبود +
این گل از غنچہ شکررنگ برون می آید +

شکرلنگ - جسکی رفتار مین تھوڑا سا لنگ ہو شفیقی بخاری
شوز باد کج دراست نیشکر لیکن + بجلوہ ہای قدش چون رسد شکرلنگ ست

شکنجہ آب نمک - یہ ایک سزا ہی جو گنہگارون کو دیجاتی ہی اور نمک
پانی مین گھول کر انکو پلایا جاتا ہی محسن تاثیر از گریہ شرح جور تو کرباب بایک
نگفتم + صد بحر را شکنجۂ آب نمک کنم +

شگوفہ رنگ - سپید رنگ - خواجہ جمال الدین سلمان شگوفہ رنگ
شد موی ست چو سر و آن بہ کہ برنائی + برعنائی کہ بر پیران نزیبد کسوت زیبائی

شکستہ دل - پریشان و غمگین و پشیمان قطعہ از مولف نیست
حاجت کہ در میان جہان + ہر دو نیا شکستہ دل باشی + لبستہ باشی بند
اہل و عیال + خستہ و زار و مضمحل باشی +

شکارافگن - شکار کرنے والا - شکاری - نظیری نوک خاری نیست
کز خون شکاری سرخ نیست + آفتی بود آن شکارافگن کزین صحرا گذشت

شکارستان - شکارگاہ جس جگہ شکار کرین طالب آملی نکردہ صید
گذشتیم زین شکارستان + سر کمند بپاسے غزالہ نزدیم +

شکرچین - مشہور لفظ ہی - سید حسین غزنوی عرصۂ جانفزاے
خاطر تو + مجمع طوطیان شکرچین +

شکرخوردن - شکر کھانا منہ میٹھا کرنا - نظامی ہمہ نارپستان ببالا
چو تیر + زپستان ہر یک شکر خوردہ شیر +

شکر در شیر کردن - آپس میں محبت و اختلاط کرنا صائب صلح و صفا
تدبیر کردند + تو بیداری شکر در شیر کردند +

شکردہان - شیرین کلام و خوشگو درآن مجمع گروہ نکتہ دانان +
ہمہ شیرین لبان شکردہانان +

شکرستان - جس جگہ شکر پیدا ہو خواجہ آصفی دارند بدور شکرستان
تو خوبان + چون نیشکر انگشت تحیر بدہنہا +

شکرسخن و شکرشکن — خوش کلام۔ حافظ شکرشکن شوند همه
طوطیان هند زین قند پارسی که بنگاله میرود۔
شکر و قند شکستن — شیرین کلامی کرنا۔ بابا فغانی تلخی نشنیدیم
هم از ساقی مجلس + هرچند که پیش شکر و قند شکستیم +
شکر و شیر بودن — شکر و شیر بودن — آپس مین کمال اختلاط
و امتزاج کرنا۔ صائب زخلق خوش شکر و شیر باش با احباب +
زروی تلخ مکن تلخکام الفت را + مخلص کاشی بود ترویم از اخلاص
هر دم گوارا تر + که من در شیر جای آب از خامی شکر کردم +
شکستن توبه و پیمان — اپنے اقرار و قول سے پھر جانا۔ بدعهدی کرنا
مؤلف۔ چرا شکست عهد این بندۀ نادان معاذ الله + چرا شد اینقدر
بیباک انسان الامان توبه +
شکستن — توڑنا۔ اور ٹوٹنا۔ خم ہونا۔ خم دینا۔ آشفته و بیدماغ ہونا
فیضی۔ جعدی برخ سمن شکسته + دستۀ چمن از بنفشه بسته — زلالی
شه غزنین چو زلف یار بشکست + دل و دینش تبار و ما پیوست +
شکسته پیمان — مشہور لفظ ہے ہیچوت دل خود شکسته پیمان +
بابا به کار خود پشیمان +
شکسته زبان — جو بخوبی کلام نکرسکتا ہو صائب خیز و رشیشه خانهٔ
دل صحبت الامان + هرجا که من شکسته زبان گفتگو کنم +
شکم انداختن — اسقاط حمل کرنا۔ حکیم زلالی شکم انداخته ابر بهاری +
شده آبستن گوهر نثاری +
شکم باز کردن — پیٹ کھولنا۔ کھانے کے وقت کمربند ڈھیلا کرلینا۔ یا سیر ہوکر
کھا چکے تو بند جامہ کے کھول دینا تاکہ کھانا معدہ مین تحلیل ہوجائے۔
کمال اسماعیل۔ خور وز خوان کرم تو بناز + نعمت بسیار و شکم کرده باز +
شکم برآمدن — بلند ہونا۔ بڑھ جانا پیٹ کا بسبب حاملہ ہونے کے
نصیرای ہمدانی۔ شکم برآمد و کلک مرا لبسان دوات + که شد زلطف
مدحش بمعنی آبستن +
شکم بر پشت چسپیدن — نہایت لاغر ہونا صائب اندر یاضت
هر که را بر پشت می چسپید شکم + ناله اش چون چنگ سر آهنگ می آید برون
شکم بر زمین نهادن — بیٹھ جانا گھوڑے اونٹ بیل وغیرہ چارپایون
کا جمال الدین سلمان۔ حلمت اگر به پیش فلک پا درآورد + خنگ
فلک زضعف نهد بر زمین شکم +
شکم چارپهلو کردن — پیٹ بھر کے کھانا۔ ابن یمین حرص را گرچه بود
علت جوع کلبی + چارپهلو کند از خوان نوال تو شکم +

شکم خاریدن — پیٹ کھجلانا۔ حیلہ کرنا۔ بہانہ بنانا۔ عذر قائم کرنا
انوری۔ مردم از مشتری و زهرۀ چرخ + خود سعادت چرا طمع دارد +
کان یکی زاهد فسرده دلی ست + کز همه کارها شکم خارد +
شکم دادن — مشہور و معروف ہے شیخ حزین مصرع گردون گرسنگی
این بار شکم داد +
شکم داشتن — حاملہ ہونا۔ پیٹ والی ہونا ملا طغرا۔ بسی ہنبت العنب
شوخ ست ای خم حفظ او میکن + که تا غافل شدی این دختر مینا شکم دارد
شکم دزدیدن۔ در خویش دزدیدن — ڈرنا۔ خوف کھانا۔ جی چرانا
جان چھپانا۔ نعمت خان عالی زبس خونریز شد بیباک من
با خنجر مژگان + نگین از نام او ترسد شکم درخویشتن دزدد +
شکم سودن — خم کھانا۔ ٹیڑھا ہونا۔ جھک جانا عرفی شکم سیر
رسودی ابر سیراب + چراغ برق گشتی شاخ عناب +
شکم گرفتن — پیٹ پاکڑنا۔ مشہور لفظ ہے میرخسرو۔ چو سبزه خویش را
خط تو خواند جای آن باشد + که گل از خنده بر خاک او فتد و غنچه شکم گیرد +
شکنبه بر سیما کشیدن — ایک قسم کی سیاست و تعذیب کا نام ہے
ابوطالب کلیم۔ ممتاز محل کی تعزیت مین — هر آنکو طبل را آزرد با آواز +
کنندش پوست سر طبله باز + شکنبه طبل سان بر سر کشندش +
دو دسته چوبها بر سر زنندش +
شگفتن — خندیدن ہنسنا کھلنا۔ خوش ہونا علی خراسانی
تا از گل می عارض دلدار شگفت ست + دل در سر هر خان گرفتار
شگفت ست + در خانهٔ ما صورت گلهای چمن نیست + از عکس
رخ او در و دیوار شگفت ست +
شکار جرگه۔ شکار قمرغه — ایک قسم کا شکار ہے کہ بہت سے جمع ہوکر
جنگلی جانورون کو گھیر کر ایک جگہ جمع کرتے ہین اور شکاری انکو
شکار کرتا ہے ہند مین اسکو ہنکا جوڑی کہتے ہین ابوطالب کلیم

پس از صید و لسا بارا هم عطا + شهنشاه عالم محیط سخا
ز دهلی بپالم توجه نمود + که نخچیر گاه شهنشاه بود +
بدان صیدگه شاه گیتی فروز + بصید افگنی گرم شد چار روز +
چنان خوش نشین گشت نقش شکار + که یک روز شاهنشه کامگار +
بزخم تفنگی که شد خاصیان + سپه زصاحبقران زمان +
چهل آهوا فگند از دست خویش + بهر یک نیفگند یکبار بیش +
ندارد کسی یاد در روزگار + بید و ستد قمرغه بدینسان شکار +
شکارگاه — شکار کھیلنے کا مقام جنگل — ابوطالب کلیم

شکارگاہ معانی ست کنج خلوت من + زہ کمان شکار رم کنند وحدت من +

شکایت پیشہ - **شکایت گستر** - **شکایت مند** - شکایت کرنیوالے لوگ صائب۔ آسمان از اہل شود زد بہ شکایت پیشگان + دایہ بیزار ست از طفلی کہ پستان میگزد + اوحدالدین انوری ادترا سے گفت کین گلبہ را جمع کن + تا ترا لازم شود چندین شکایت گستری + حاجی باقر شیرازی کسی کز ترک در دیشی شکایت مند میگردد +

شکرخمہ - جو تیر نشانہ پر جا لگے نظامی چون زکمان تیر شکرخمہ ریخت + زہر ز بیرزن خالہ خوانش گریخت +

شکربیہ - ایک حلوے کا نام ہو جسکو عربی مین ناطف کہتے ہین - صفدر فوقانی - بود زہر بلاہل گرچہ دنیا + ترا بخشد مذاق شکربیہ +

شکست شیشہ - وہ آواز جو شیشہ کے ٹوٹنے سے سنی جائے شرف الدین شفائی - بدست دل شکنی عاجزم کہ ہر نفسم + شکست شیشہ خاطر بگوش می آید +

شکستہ - وہ چیز جو درست نہو - ٹوٹا ہوا ٹکڑا - اور وہ چیز جسمین کچھ کسر باقی ہو ہر چند اجزا اُسکے بالفعل متفرق نہون بخلاف خرد کی لفظ کے کہ اسمین صورت تفرقہ کی بالفعل لازم ہی نظامی شکستہ چنان گشتہ ام بلکہ خرد + کہ آبادیم را ہمہ باد برد - اور خراب وضائع و بے رونق چنانچہ بازار شکستہ و لشکر شکستہ و خط شکستہ و زبان شکستہ باقر کاشی برون کردم ز پا خار شکستہ + برون رفتم ز گلزار شکستہ + بسود آن غمت سودی ندیدم + چو بازرگان بازار شکستہ +

شکستہ پناہ - جو کسی مظلوم کو اپنے پاس پناہ دیوے امان بخش امیر خسرو - سایہ مہر تو شکستہ پناہ + ذیل عفو تو پردہ پوش گناہ +

شکم بندہ - حریص وطماع - بہت سا کھانے والا - پیٹ بھر کر کھانیوالا سعدی شکم بند دست ست و زنجیر پای + شکم بندہ نادر پرستد خدای +

شکم پارہ - اسبغول جو ایک دوا مشہور ہی -

شکر پائی - لنگڑا جو بخوبی چل نہ سکے میر حسن دہلوی سخن می شکنی یا وقت گفتن + زنگی و نانت شد شکر پا +

شکرخا - شیرین میٹھا - صائب طمع بوسہ از ان لعل شکرخا دارم + خبر از خانہ در بستہ تمنا دارم +

شکر رنجی - کچھ رنجیدگی جو دو دوستون مین وقوع مین آوے

شکستن در چیزی - بند ہونا اور بند کرنا ایک چیز کا دوسری چیز مین چنانچہ آہ جگر مین اور آنسو آنکھون مین صائب

شدہ ست سینہ من ہمچو تیغ جوہر دار + ز بسکہ آہ شکست ست در جگر ما را

شکل حماری - **شکل عروسی** - **شکل ماموتی** - یہ اشکال علم ہندسہ کی ہین میر محمد افضل ثابت چو علم ہندسہ حسن قبول دریابد + کنند شکل حماری بدل بشکل عروس +

شین با لام

شلغم - **شلغم زدن** - بی فائدہ گفتگو کرنا شرف الدین شفائی شلغم شلغم مزن کہ از تو + شلغم نخرند اہل ادراک +

شین با میم

شمع اسپا - وہ شمع جو چکی کے پاس روشن ہو

شمع بالا - محبوب کی تعریف مین بولا جاتا ہی ملا قاسم مشہدی ز سوز سینہ من شمع بالائی خبر دارد + کہ از بال و پر پروانہ دستے بر کمر دارد +

شمع محراب - وہ شمع جو مسجد کی محراب مین روشن ہو میر اصفہانی از فروغ عارضت پاک ست وصلت خانہ ام + زردی رخسارہ من شمع محراب من ست +

شمع قد - یہ جملہ معشوق کی تعریف مین بولا جاتا ہی آرزو شہید جلوہ آن شمع قد گل پوشم + و داغ بلبل و پروانہ بر مزارم سوخت +

شمع مزار - وہ شمع جو مزار پر روشن ہو عبدالرزاق فیاض سالہا بیہودہ چون شمع مزار بیکسان + سوختیم و پرتو ما محفلے روشن نکرد +

شمامہ عنبر - یہ ایک گیند چاندی یا سونے کا مرصع بنا کر اسکے اندر عنبر بھر دیا جاتا ہی تاکہ بادشاہ و امرا اپنے ہاتھ مین رکھکر اسمین خوشبو لیا کرین -

شمع ریز - وہ شخص جو شمع کی بتیان بناتے ہین محسن تاثیر چشم مخمور ترا نا دیدہ نرگس از قلم + شمع می ریزد کہ بر بالین بیمار آورد

شمع ساز - مرادف شمع ریز - شمع بنانے والا ملا طغرا - چراغی کہ میسازی از جام مُل + نمی آید از شمع سازان گل +

شمردن - شمار کرنا - حساب کرنا - قطعہ مکن در گنج دینار و درم جمع + کہ عمرت بگذرد اندر شمردن + اجازت نیست چون یک حبہ آخر + از ان گنج گران با خویش بردن +

شمشیر در بغل خوابیدن - کمال احتیاط کے ساتھ سونا ابوطالب کلیم بنازم ترک مستت را کہ تیغ اندر بغل خوابد + بخونریز اسیران نخفتن بایدش میان بستن

شمع بالین ــ شمع جو بالین پر روشن ہو صائب در روپای عشق کس بدل نمی سوزد بکس + از تب گرم ست اینجا شمع بالین خسته را +

شمعدان ــ جسپر شمع جلاتے ہین خواجہ سلمان لاله در بزم چمن شمع معنبر برفروخت + بہر شمعش نرگس از زر شمعدان می آورد +

شمع زیر دامن ــ شمع زیر سرپوش ــ جو شمع دامن کے نیچے ہو ــ یا سرپوش کے میرزا صائب شدو از پرده پوشی درد و داغ عشق سوا تر + شمع زیر دامن از گریبان دود سیخیزد + وله آسمان صائب عبث چشم در چشم ما کرده است + من نه آن شمعم که پنهان زیر سرپوشم کنند +

شمع سوختن ــ برافروختن ــ برکردن ــ نهادن ــ زدن ــ شمع روشن کرنا ــ صائب اگرچه شمع کافوری خرد در خانه می سوزد + چراغ از چشم شیران بر سر ویرانه می سوزد + فردوسی بماندند آتش افروختند بہر جای شمعے ہمی سوختند حافظ بهان شمعے که در مجلس نهی باروی او ساقی + چو خود را در میان بیند روان برخیزد و بنشاندش + سعدی اے بلیے کور وزر روشن شمع کافوری نهد + زود بینی کش بشب روغن نباشد در چراغ خواجہ سلمان ــ تا درین ایوان مینا ہر شبی برمیکنند + شمع ناہید و چراغ ماه و قندیل برت + باورانت در مقامے کز چراغ مجلست + ہر صباحی برفروزد شمع زرکاری لگن +

شمع کشتن ــ گل کردن ــ خاموش کردن ــ نشاندن شمع بجھا دینا طالب آملی ــ بعبین کعبه مرا کشت عشق و رعهدی که بی گنه نتوان شمع در شبستان کش + عرفی گمان مبر که تو چون بگذری جهان بگذشت + ہزار شمع بکشتند و این چمن باقیست + نظامی شب از زور خشنده چون گوی برد + چراغے بیفروخت شمعی بمرد + ابو طالب کلیم ــ چون شمع ہر جا که نشانند نشینیم + با ہیچ کس سخت و شنو بر سر جا نیست +

شمرده ــ گنا ہوا ــ حساب کیا ہوا صائب قدم شمرده نهد حسن در قلمرو خط + چه عاملی که بپای حساب می آید +

شمع مرده ــ گل ہوئی ہوئی شمع بجھی ہوئی میرزا صائب بنور عشق دل را زنده کن پسند از غفلت + که شمع مرده در بالین خواب زندگی باشد

شمع انگوری ــ شراب انگوری مسیح کاشی شمع کافوری بعالم شهرت دارد ولی + شمع انگوری آب و تاب دیگری دیگرست +

شین با نون

شناسیدن ــ تعریف کرنا ــ اور شناساندن اسکا متعدی ہو میرزا طاہر وحید شہرت بدلداوه ازما تو انہمائی ہاست + بشناساند بمردم صوی تیغ تیز را +

شنگرف زدن ــ قلم کو شنگرف مین بارادہ لکھنے کے ڈبونا ارادہ سبحی داضح ــ تا فصل گل جدا کنم از فصل داغ دل + شنگرف میزنم قلم نوبهار را

شنودن ــ شنیدن ــ سننا ــ سونگھنا کسی بو کا عرفی گر بشنود نسیم ہوائی حریم او + بر مغز نوبهار نهجوم آورد عطاس + نور الدین ظهوری ــ نافه چین طره گشت دلم + بوی دولت زخود شنود مشب + وله بیا بباغ که گل ہمچو عارض تو شگفت + زهر طرف بشنو نغمه ہای منقاری +

شنیده کے بود مانند دیده ــ یہ ایک مثل ہو کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی کے ساتھ برابر نہین ہو ــ ترا دیده و یوسف را شنیده شنیده کی بود مانند دیده از مولف ــ ارد وہم اپنی آنکھون سے ہین تجھکو آج دیکھ چکے + ہو حسن یوسف مصری سنی سنائی بات +

شین با واو

شوربخت ــ بدبخت ــ بدنصیب ــ بدقسمت ــ ظهوری ہر شوربخت را بشکر خنده چه کار + با زہر تلخ ساخته ایم و عتاب تلخ +

شورپشت ــ شوریده پشت ــ وہ چارپایہ جو سرکش و رنا فرمان ہو ــ جب بار اُسکی پشت پر رکھا جائے گرا دے ــ اور سرکش آدمی مجازاً محسن تاثیر ــ شوربخت و شورچشم و شورپشتی ای رقیب + اینچنین گیرد نمک آنرا که نشناسد نمک +

شوره بستن سر ــ گنجا ہونا ــ اور گنج ایک بیماری ہو جو سر پر پیدا ہو ــ نبل ہو جاتی ہین مسیح کاشی سر ہر کس که شوره بست از جهل + چرخ از مہر و مہ کلاه دہد +

شور و شر ــ شور و غوغا ــ خرابی و فساد ــ علی قلی بیگ خراسانی دردور چشم مست بتان ہیچگه علی + بی شور و شر بزم شراب ہے بدید کس +

شوریده کار ــ پریشان کار بدانتظام میر خسرو پرده کش است شوریده کار + ضامن آمرزش آمرزگار +

شوریده مغز ــ جسکے دماغ مین خلل ہو صائب عشق او کرد اینچنین شوریده مغزم ورنه بود + سرنوشت آسمان با ابجد طفلانه ام +

شوخ طبع ــ جسکی طبیعت مین تیزی ہو طالب آملی شیرین سخن کر شوخ طبیعت بود بلاست + آبی که شور گشت بود تلخ در مذاق +

شور طالع ــ بدبخت و بدقسمت ظهوری ہر که شیرین تر فراق جانگزا ایش تلخ تر + شور طالع تر ز فرہادم ببین احوال چیست +

شوریده دماغ ــ شوریده رای ــ دیوانه و سودائی جسکے دماغ مین خلل ہو میر خسرو سنگه بود هم کز دل و شوریده رای + کین خویش برهم با خدای +

شوریده زلف - محبوب کی تعریف مین کہا جاتا ہی میر معزی زلف او شوریده ودیدم حال من شوریده گشت + کردم از شوریده حالی برخ چو سیل وتن چو مال + گر نداری باورم بشنو که خلقان کرده اند + نام او شوریده زلف و نام من شوریده حال +

شوریده رنگ - رند اور لاابالی آدمی سعدی ذرا و باش پاکان شوریده رنگ + ہمانجا ی تاریک لعل ست و سنگ +

شوخ چشم - شوخ دیده - بی حیا و بی شرم صفدر فوقانی - نگار شوخ چشم و شوخ دیده + کسی مثالش بچشم خود ندیده +

شور چشم - جسکی نظر بد ہو اور جلد اثر کرنے والی عربی مین اسکو عیون کہتے ہین ظہوری گشته بودم بچشم او شیرین + چشم من از برای من شور ست +

شوره بوم - شور زمین جسمین سبزه نه پیدا ہو نہ کہنے کے لایق ہو سعدی باران که در لطافت طبعش خلاف نیست + در باغ لاله روید و در شوره بوم خس +

شوریده کلام - پریشان گو خراب گفتگو کرنے والا - ظہوری شوریده کلامم نمکین ست سوالم + تنگ شکرستان دہن تلخ جواب ست +

شورانیدن - پریشان کرنا - ابتر کرنا آصف خان جعفر که چشم نازنین درخواب نازست + مشوران خواب بروی شب درازست +

شوقستان - مقام شوق کا شوق کی جگہ حسین ثنائی ہر قدم گامی بشوقستان دل + در جہان بی بیابان میزنیم +

شوخ ترازو - جو شخص ترازو مین عدل نرکھتا ہو کم تولتا ہو طغرا چشمت از کشمکش سرمه دلم را خون کرد + بعسس قلبی آن شوخ ترازو گفتم

شوخی کده - شوخی کا مقام میرزا بیدل گستاخ نگو ہیم کران گوشه چشم ست + گوییم که شوخی کده شاہد نازست +

شوریده - آشفته و پریشان حال سه تیم بسمل عاشق ابروی اوست + بسته زلفش بود شوریده حال +

شوریده راه - خلاف مذہب و طریق اور وه لوگ جو کتب سماوی کی پیروی نه کرین لامذہب و غیر مقلد نظامی چو آن دشتبانان شوریده راه + شنیدند یک یک سخنہای شاه + سر از حکم آن داوری تافتند + که آیین خود را چنان یافتند +

شوخ روی - نافرمان گستاخ - سرکش فردوسی در آمد فرستاده شوخ روی + سر تور بنہاده در پیش اوی +

شین با ہاے

شہر آشوب - نہایت خوبصورت معشوق جسکے دیکھنے کا مشتاق تمام شہر ہو اور ہر ایک کی زبان پر اُسکا ذکر ہو حافظ فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شہر آشوب + چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را +

شہد پرور - شہد طراز - شہد لب - معشوق کے وصف مین بولے جاتے ہین درویش واله ہروی - شہد طراز لب لعل نگار زہر فروش بین و دندان مار + ابوطالب کلیم زشیرینی جانہا بسکه صنعت شہد پرور شد + لب از جنبش بہم چسپیده من خوشدل که بہتر شد + وله در ہند تره بختی دوا ز روزه سست کار + زان شہد لب ہمیشه دلم تلخکام شد +

شہره آفاق - جو شخص زمانه مین مشہور ہو میرزا صائب میتوان شہره آفاق شدن + مه چو لاغر شد ایام نما میگردد +

شہره ایام - جو شخص مشہور ہو بہرام بیگ سامعانی تبرک آرزو با شہره ایام میگردد + نگین دل کنده چون گردید صاحب نام میگردد +

شہیدستان - شہادت گاه - شہیدزار - شہید ہونیکا مقام - گواہی دینے والون کی جگہ - کلمه شہادت پڑھنے والون کی جگہ - ارادت خان واضح - کجا ست تیغ بکف خود سر بلا انگیز + که خاک دشت جنون را شہیدزار کند + سیان ناصر علی - شہادت گاه ما باید لب پر شہیدار ده + تہی از بحر پہلو ہیچو ساحل میکند اینجا حکیم زلالی رسید از راه و دیداز و در ربود + شہیدستان زمین گردون کفن بود +

شہر بہم زدن - شہر کو اُجاڑ دینا - باقر کاشی تا چشم بر ہم میزنی افتاده شہر سوخته + شہری بہم بر میزند ہر جنبش مژگان تو +

شہر خموشان - جس شہر مین کوئی نه بولے ملا مرشد در ده ام شور ارکسی پیدا نیست + گوئی از شہر خموشان میروم +

شہر زنان - عورتون کا شہر - چنانچه ملک تاراج جو ہند مین تہا - ملا طغرا - طالع شہر زنان دارد نگارستان ہند + ہست ہر چیزی فراوان مرد کمیاب ست و بس +

شہرستان - بادشاه اور نام ایک شہر کا علاقه اصفہان مین امیر معزی بادشاہی که ہست گیتی بخش + شہریاری که ہست شہرستان +

شہر گردان کردن - تشہیر کرنا شہرت دینا عبدالغنی قبول داشت با خورشید رویت لاف اندک نسبتی + ماه را از بہر عبرت شہر گردان ساختیم +

شہر ناپرسان - جس شہر مین کوئی کسیکو نه پوچھے - عدل انصاف کا رواج نہو - ناانصافی کا بازار گرم ہو - رضی دانش شدیاه حسیام و ہر طرف نالان ست باد امن زبد دسته ریحان ست + تسبیح بند و رجای پیمان ست +

شہر مضان چہ شہر تا پرسان ست +

شہرگاہ - شہر آبادی بستی - فردوسی ز یک میل کرد آفریدون نگاہ + یکی کاخ دید اندران شہرگاہ +

شہدیہ - اصفہان مین ایک مکان منقش صفی منڈا کا ہے -

شہرکشائی - بادشاہ فرمان فرما - میر معزی - آن شہرکشائی تو کہ از راہ فتوحت + شہرطست کشیدن خط نسیان بسر بر -

شین با یاے تحتانی

شیر دیبا - شیر دیوار - شیر رایت - یہ شیر کی تصویرین پارچہ دیبا اور دیوارون اور نشانون کے پھریرون پر لکھی ہوئی ہوتی ہین خواجہ جمال الدین سلمان - خورشید نصرت ست بتوفیق کردگار طالع ز شیر رایت جمشید کامگار - شفیع اثر چون شد آخر حکمتش در دفع او معجز نما + شیر دیبا ہمچو گربا ستش درید از یکدگر + فوقی ز رعب تو بمیدان شجاعت + شود شیر نیستان شیر دیوار +

شیر طلا - سونے کا شیر جو اکثر پرستش گاہون مین دیوتاؤن کی سواری کے لیے بناتے ہین عبد الغنی قبول پیش من از گربہ جبینی بود بمقدار تر + ور زمین ہند مردم خوار گر شیر طلا ست +

شیرین قبا - معشوق کی تعریف مین بولا جاتا ہے میر حسن دہلوی قد چون نیشکرش را آسمان + زینت شیرین قبائی میدہد +

شیر قلاب - بکسوا آہنی یا برنجی جو شیر کی شکل پر بنا ہوا ہوتا ہے اور قلندر اپنے کمربند پر لگا کر بند کمر سے باندھتے ہین طاہر وحید نیفگند ہرگز برون از دہن + سگ نفس را شیر قلاب من +

شیرین لب - شیرین نفس و شیرین نگاہ - محبوب کی تعریف مین بولتے ہین ملا طغرا دہد زان دو بادام شیرین نگاہ + بہ فتوی فتنہ صد دستگاہ + رفیع احقر - ہمدگرہ ظاہر بجسم لاغر نیشکر احقر از رشک لب شیرین آن شیرین لب ست + سعدی کی گفت این نوع شیرین نفس + درین شہر سعدی شناسیم و بس +

شیرین کردن خواب - اچھی طرح سو جانا صائب چنانکہ شیر کند خواب طفل را شیرین + فزود غفلت من از سفید موئیہا +

شیشہ ساعت - شیشہ کی گھڑی جسکے دو نون شیشہ کے خانہ بنے ہوئے ہوتے ہین ایک مین ریگ بھری رہتی ہے ان دونون کے بیچ باریک سوراخ ہوتا ہے جب ریگ ایک شیشہ سے سوراخ کے راستے سے دوسرے شیشہ مین آجاتی ہے گھنٹہ گذر جاتا ہے صائب غم عالم فراوان ست و من یک غنچہ دل دارم + چسان در شیشہ ساعت کنم ریگ بیابان را +

شیشہ نبات - وہ شیشہ جسمین مصری کا قوام ڈالکر کوزہ بناتے ہین جب مصری بستہ ہو جاتی ہے شیشہ کو توڑ کر پھینک دیتے ہین محسن تاثیر - سنگ مزار من ہمہ شد شیشۂ نبات + بودم ز بسکہ حسرت شیرین لبان بخاک +

شیر صبح - صبح کا دودہ یعنی صبح کی روشنی محسن تاثیر جہان روشن شد از پاک گوہر میبرد فیضے + کہ شیر صبح را جز پنجہ خورشید مے دوشد +

شیر چرخ - شیر سپہر - شیر فلک - شیر گردون - برج اسد جو پانچوان برج آسمان کا ہے -

شیر مرد - بہادر - دلاور - پہلوان - پرزور نظامی اگرچہ نہم زن شیر نیستم + ز حال جہان بیخبر نیستم + منم شیر زن گر توئی شیر مرد چہ مادہ چہ نر شیر وقت نبرد +

شیر نمد - وہ شیر کی صورت جو نمد پر بنی ہو میر خسرو شہ کہ بر تخت بہ تمکین بود + شیر نمد روبہ پشمین بود -

شیرازہ گیر - جلد بندھی ہوئی کتاب میرزا صائب طول امل چہ رشتہ کہ برہم نتافتہ ست + شیرازہ گیر نیست در ینجا کتاب عمر +

شیر گیر - بہادر - دلاور - پہلوان - اور مست و مدہوش - صائب - بیک دو جام مرا شیرگیر کن ساقی + کہ شیر مست شدست از شگوفہ لبتا نہا +

شیر و شکر - ایک کپڑے کا نام ہے اور اختلاط وارتباط باہمی سلیم - عزیز آن کس کہ دارد میہمان را + کند شیر و شکر دستار خوان را

شیرۂ انگور - انگوری شراب علی خراسانی جامی آنست کہ در سینہ دل شیفتہ ام + در پی شیرۂ انگور بشیراز شود +

شیرین بسر - شیرین تبسم - شیرین تکلم - شیرین حرکات شیرین خرام - شیرین دہان - شیرین زبان - شیرین سخن شیرین سوار - و شیرین سوال - انکے معنی مشہور و معروف ہین صائب - صائب ز نغمۂ تو شکرزار شد جہان + گفتار حق خامہ شیرین زبان تست + ولہ شیرین تبسمی کہ مرا راہ دین زدہ ست از موم مہر بر دہن انگبین زدہ ست ولہ + از خط شیر شد پشت لب آن شیرین تکلم را + کہ از دبستگیہا حرف گرد آن دہن گردد + نیشکر کی تعریف مین - رسد گر پای آن سبز شیرین خرام + نگردد دگر کاسئی تلخکام

میرزا معز فطرت — شیرین حرکات ست زلبس جلوهٔ نازت + زنبور
عسل میکند آن موی میان را + میر خسرو — شیرین سوار من
چه خبر دارد از جهان + مسکین کسی که بیند از دور در بندمان + ظهوری
ده چه خونها در دل شیرین سوالان میکنند + تا جواب تلخ از لبهای
شکر خاسے ہند +

شیشه کار — شیشه گر — مشهور لفظ ہی میر خسرو زین نازکان
رعنا بگریز خسرو از انکه + در کوی شیشه کاران دیوانه در نگنجد +
ابو طالب کلیم + چشمان تو ترک دل عاشق نتوانند + با شیشه گران
کار بود باده کشان را +

شیشه باز — شیشه کے ساتھ کھیلنے والا — مکر فنون —
حیله گر — مکار — حافظ شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و
راست + گر این منظر بینش نفسی بنشینی +

شیشه ساز — مشهور لفظ ہی درویش واله ہروی سختی
از پیہ عدو دارم چو نرمی ہمه دوست + شیشه سازی میکنم
گاہی گہی آہنگری +

شیر فلوس — وہ ضرب پیسے کی جسکے ایک طرف شیر کی تصویر
اور دوسری طرف نام شہر و نام بادشاہ مسکوک ہی اور یہ ضرب
اصفہان و شیراز مین رائج ہی نویدی شیرازی آوردن زر بدست
آسان نبود + خوابیده بروی ہر فلوسی شیرے +

شیر بالش — شیر فرش — فرش اور تکیہ پر جو شیر منقوش
ہون انوری لاف زند حسود ولیک + شیر بالش نشد چو شیر
عرین وله ببارگاه تو در شیر فرش ایوان را + بخاصیت فرش و
فر شیر گردون باد +

شیر مرغ — مرغونکا دودھ وہ امر جسکا حاصل ہونا غیر ممکن ہو
اور ایسے امر کو جان آدم بھی کہتے ہین کہ اسکا حاصل ہونا بھی
ممکن نہین ہی

شیرک — بکاف تصغیر دلیر اور پچھلا سا زافتادن او دلیر
شدم + چو روبه شد او بنده شیرک شدم +

شیر دل — صاحب حوصله و ہمت و پر زور میر خسرو زینسان
که ناوک میزند چشمم شکار انداز او + بسیار مرد شیر دل گردد شکار ناز او

شیرمال — ایک قسم کی مکلف روٹی کا نام ہی —

شیرین شمایل — شیرین صورت — خوبصورت — خوش آواز
ابو طالب کلیم — کار کلیم باشد آنجا مگس پرانی + ہر جا که دلربائے

شیرین شمائل قند + ملا طغرا در تشبیه بآن آہنی کلک شیرین صریر
که صوتش شکر ریخت در جوی شیر +

شیشه دل — نازک دل — ڈرپوک — صائب — من شیشه دلم
حوصلهٔ سنگ ندارم + دارم سر صلح و جگر جنگ ندارم +

شیر اندام — جوان — فراخ سینه — نازک کمر — صاحب قوت
طاقتور — میر نجات بازدل پر دو زمن پر فن با تدبیری + شیر اندامی بنا
نوچه کشتی گیرے +

شیرین صنم — معشوق کی تعریف مین کہا جاتا ہی — میر معزی
چهرهٔ من چین گرفت از جور آن شیرین نگار + قامت من خم گرفت
از زلف آن شیرین صنم +

شیرین کلام — شیرین گزار — شیرین گفتار — محبوب کی تعریف
مین بولے جاتے ہین صائب تا ز آئینه شکر نگ نیاید بیرون + متکلم
نشود طوطی شیرین گفتار + میر خسرو من آن سرچشمهٔ شیرین گوارم
که آب زندگانی نام دارم + شعر نکو خسرو شیرین کلامے + سکندر
حشمتے جمشید جامی +

شیر اوژن — قوی و پر زور و صاحب طاقت عبد الواسع
ملک بو الفضل نصر ابن خلف فرزانه تاج الدین + که بر پاید ہمین تاج
از سر شاہان شیر اوژن +

شیرازه شدن — جمع ہونا — فراہم ہونا یکجا ہونا —

شیر افگن — پہلوان — پر زور — بہادر — شعر با پہلوانان
شیر افگنان + که گشته اند از چشم مردم نہان +

شیر پشمین — وہ شیر جو پشم کا بناتے ہین — مولوی معنوی
شیر پشمین از برای کد کنند + بو مسیلم را لقب احمد کنند +

شیر خام خوردن — غفلت اور بے شعوری کرنا ظہوری گرچه
شیر خام خورده ست آدمی من پخته ام + گرم خون بود ست دایه وار شیر دیگرم

شیردان برگشتن — دودھ کا برتن الٹ جانا — معامله دگرگون ہو جانا
صورت بدل جانا — خرابی واقع ہو جانا میر نجی شیرازی بر سر خوان چه
جلوه گر گردد + شیردان طعام برگردد +

شیر سیستان — رستم پہلوان —

شیرین بودن خون — لذیذ اور مرغوب ہونا خون کا وحدت شکمی
خون شیرین ست وحدت را خدا آسان کند + باز مشکل شد که با ما
تیغ نازش خون گرفت +

شیشه بر سر بازار شکستن — افشای راز کرنا بھید کھول دینا —

صائب - صائب زپرده داری ناموس شد خلاص + هرکس شکست برسر بازار شیشه را +

شیشه بر سر کسی شکستن - شیشه بر سنگ زدن - شیشه بر سنگ آمدن - در سنگ افتادن - منغص ہونا عیش کا - برہم و درہم ہونا مجلس کا - افشای راز ہونا - بھید کھل جانا - میر خسرو و در افتادن چو از اسا غراز چنگ + در افتد کوہ کن را شیشه در سنگ + وحید ببوعی راز دل را پاسدارم + که می گیرم گر آید شیشه بر سنگ + صائب - گریه شادی ما تلخ نگرد صائب + آسمان شیشهٔ خود گر شکند بر سرما +

شیشه برہم خوردن - شیشه بریکدیگر خوردن - آپس مین ٹکرانا شیشون کا - اور ٹوٹ جانا - محمد قلی سلیم گر نسیمی بر بساط عشرت ما بگذرد + شیشه با بریکدگر چون موج دریا میخورد + صائب پا بہر جا میگذارم نشتری در خاک ہست + شیشہای آسمان گو یا که برہم خورده است +

شیشه جان - جو شخص نہایت نازک ہو - کسی سختی کا بار نہ اٹھا سکتا ہو - صائب ہر شیشه جان خزینهٔ اسرار عشق نیست + ناموس شیشه ایست که در بار عشق نیست +

شیشه چیدن - شیشون کو قطار باندھکر رکھنا - میرزا بدیع سبزواری شیشہا چیدست برطاق و لم دست امید + گرفت سنگی ز نومیدی تماشا مے شود +

شیشه را بند زدن - شیشه را بند کردن - پیوند کرنا - بند لگانا - محمد صادق - دست غیب - شوخی که زند شیشهٔ دلها را بند + سوز و بخوبی هر شبش چرخ اسپند + زو بند بسی شیشهٔ قلیان ونکرد + یکبار دل شکستهٔ ما را بند +

شیشه در جگر شکستن - بیقرار و مضطرب کرنا -

شیشهٔ روزن - وہ شیشے جو تابدانون مین لگائے جاتے ہین - خواجه آصفی - خانهٔ دل راز بہر دید نت روشن کنم + روزن آنچشم و عینک شیشهٔ روزن کنم +

شیشه شکستن - شیشه توڑنا - طالب آملی ما شیشه می در شب مہتاب شکستیم + زین شیشه شکستن دل احباب شکستیم +

شیشه گردن - احمق اور بیوقوف خاقانی این شیشه گردنان که ازین خیمهٔ کبود + بی نام چون قرابهٔ گردن طناب شان +

شیطانی شدن - شیطانی کردن - نیند مین انزال کرنا محتلم ہونا محتلم کرنا -

حکیم شفائی - خاطر من که بہر فکر دو عیسی زاید + حیف باشد که بہر فکر شود شیطانی + ملا فوقی یزدی گر عروس بکر فکرم چہره بنماید بخواب + جبرئیل عقل را در لحظه شیطانی کنم + طغرا ازبسکه طبع من از عیش مجتنب تمشیشوم بعروس زمانه شیطانی +

شیر زنه - وہ آلہ لکڑی کا جس سے دودھ بلوکر مسکہ نکالتے ہین -

شیر سراپرده - وہ شیر کی تصویر جو پردہ پر کھچی ہو - انوری شیر فلک آن شیر سراپردهٔ دوران + در مرتبه با شیر لباعت نه چخیده +

شیر خانه - شراب خانه -

شیرین بہانه - حیلہ و بہانہ سے کسی بات کو ٹال دینے والا صائب عشاق را لب طمع از بوسه بسته است + ازبس دہان تنگ تو شیرین بہانه است

شیشه خانه - شراب خانه - اور وہ مکان جسمین شیشے کا کام بنا ہوا ہو -

شیشهٔ راه - یعنی سنگ راه میرزا محمد زمان - تعلق شیشهٔ راه خرام ست + بپای جستم این رشته دام ست +

شیشه گر خانه - شیشه بنانے والون کا کارخانہ محمد سعید اشرف شیراز که پیرز شیشه گر خانه بود + از باطن صاف باده شیرازی ست +

شیخ نجدی - شیطان لعین کا لقب ہی صرف نجدی بھی کہتے ہین نظامی بر نجد شدی ز تیز و جدی + شیخانه ولی نه شیخ و جدی + جمال الدین بن عبد الرزاق - نه خاک تیره بماند نه آسمان لطیف + نه روح قدس بماند نه نجدی ملعون +

شیر آبی - نہنگ یعنی مگرمچھ -

شیر حاجی - قلعہ کی اندرونی دیوار جو باہر کے حصار کے اندر ہو میرزا عبد الغنی حامی دین محمد حیدر خیبر کشا ست - قلع دین متین را شیر حاجی مرتضی ست +

شیر شدن موی - بال دودھ کی طرح سفید ہو جانا - ضعیف ہونا بوڑھا ہونا - صائب تا پای بر فلک نه گذاری ز مہد خاک + موت اگرچه شیر شود شیر خوارهٔ +

شیر قالی - وہ شیر جو قالین پر منقش ہوتا ہے غنی فراغتی به نیستان بوریا دارم + سبا دراه درین بیشه شیر قالین را +

شیر لوائی - وہ تصویر شیر کی جو نشان پر لکھین جمال الدین سلمان - آہوے چشم تو و شیر لوا سے سلطان + قلب احباب شکست و صف بدخواه درید +

شیر ماہی - ایک قسم کی مچھلی کے دانت ہین جو شیر کی صورت پر ہوتے ہین -

شیشہ بازی ــ رقاصی کے فنون مین سے ایک فن کا نام ہی کہ رقص کرنے والا شیشہ پانی یا گلاب کا بھر کر سر پر رکھ لیتا ہی اور ناچتا ہی اس خوبی سے کہ شیشہ کو جنبش نہین ہوتی گردن پر رکھ کر بھی ناچتا ہی شفیع اثر ــ شکستہ بر سر ہم اندہ شوخی و بیباکی + ہزاران دل بعشق شیشہ بازی شاہد نازش +

چوتھی فصل

اردو محاورات کے ذکر مین ــ

شین با الف

شاخ در شاخ ہونا ــ پیچیدہ ہونا ــ الجھا ہوا ہونا از مؤلف کتاب ادھر ایس مین گنجان برگ در برگ + ادھر غلطان و پیچان شاخ در شاخ +

شاخ زعفران بننا ــ صورت بدل لینا ــ غرور مین آنا ــ خود نما ہونا صفدر فوقانی ــ بدل رنگت گئی باغ جہان کی + نئے گل ہین نرالی ہیں ہریان ہین + جو گل مشہور تھے سولی کے تنے + بنے وہ آج شاخ زعفران ہین +

شاخ لگانا ــ کسی درخت کی شاخ کو کاٹ کر دوسری جگہ لگانا سینگی لگانا ــ سینگی توڑنا ــ ذوق بیمار چشم دلبر آہو نگاہ لو + شاخین بھی گر لگائین تو لیکے ہرن کی شاخ + ولہ عریان ہی مجھکو زیر زمین دفن کرنا تھا + یہ دوستون نے اور لگا دی کفن کی شاخ

شاخسانہ نکالنا ــ شاخسانہ کھڑا کرنا ــ کوئی مقدمہ برپا کرنا ــ نیا جھگڑا اپنا قائم کرنا ــ کسیکی برائی ظاہر کرنا قطعہ از مؤلف نئی چلیا چالین چرخ دوار + نئی رنگت دکھاتا ہی زمانہ + نیا ہوتا ہی جھگڑا روز برپا + نیا ہوتا ہی ظاہر شاخسانہ + آتش مصرع سرو مین لاکھون مین نکالون شاخین + باندھون مضمون جو قد یار کی رعنائی کا +

شاخ ہونا ــ کوئی نئی یا انوکھی بات ہونا ــ فخر کی بات ہونا ــ آتش چشم و کمر سے تیری چشم و کمر ملائین + چلنے مین کیا سکلف کیا شاخ ہی ہرن مین + ولہ چاردن مین رنگ مثل بو ہوا ہو جائیگا ــ کونسی وہ شاخ ہی جسپر چمن کو ناز ہی +

شادی کرنا ــ بیاہ کرنا ــ خوشی منانا ؎ خوشی کا غم ہی جب دنیا مین انجام + کسی شادی سے تم خوشدل نہونا ــ

شادی مرگ ہو جانا ــ خوشی کی کثرت کے سبب سے مرجانا ــ از حد خوش ہونا مولانا اکبر لاہوری کیون نہ شادی مرگ ہو جائینگی اکبر عندلیب + ٹوٹتی ہین موسم گل مین قفس کی تیلیان +

شاعری کرنا ــ مبالغہ کے ساتھ کسی امر کو نظم مین بیان کرنا موزون کلام لکھنا ــ حکیم انور لاہوری شاعری شاعر کرین کیا جا انور آجکل + اس زمانہ مین کوئی انکا نہین جوہر شناس +

شاق گذرنا ــ ناگوار گذرنا ــ برا معلوم ہونا ــ

شامت آنا ــ شامت سر پر کھیلنا ــ خرابی پیدا ہونا ــ بچھڑ ون آنا ــ شعر پیچ مین زلفون کے آتا ہی وہی برگشتہ بخت + طالع بد سے شامت ہی جسکے سر پہ کھیلتی +

شام کا صبح کرنا ــ رات کاٹنا ــ شب گزاری کرنا ــ غالب کاوکاوِ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ + صبح کرنا شام کا لانا ہی جوئے شیر کا

شام کو شام سحر کو سحر نہ گننا ــ اتنا بھی خیال نہ کرنا کہ یہ وقت آرام کا ہی اور یہ وقت اٹھنے کا ہر وقت برابر کوشش کیے جانا ــ صفدر رامپوری ــ شام کو شام سحر کو نہ سحر گنتی ہون + بلکہ اڑتی ہوئی طائر کے مین پر گنتی ہون +

شان چوٹا ــ اورون کی وضع قطع اڑانے والا ــ

شان مارہی جانا ــ شان جانا ــ رتبہ یا عزت کم ہونا ــ آبرو مین فرق آنا ــ رنگین ــ وہ نہ آئے تو تو ہی چل رنگین ــ اسمین کیا تیری شان جاتی ہی +

شان مین جفتی آنا یا پڑنا ــ ننگ و عار آنا ــ شرم آنا ــ جرأت زیست سے جو ہاتھ دھو بیٹھا ہی گر اس پاس بھی + آبیٹھو گے تم تو کیا جفتی پڑیگی شان مین +

شانہ پھڑکنا ــ دوست کی ملاقات کا شگون ہونا ــ

شانہ ہلانا ــ نیند سے جگانا ــ بیدار کرنا ــ مومن خیال خواب راحت ہی علاج اس بدگمانی کا + وہ کافر گو دمین مومن مرا شانہ ہلاتا

شاہ عباس کا علم ٹوٹنا ــ خرابی ہونا ــ بری بات ہونا ــ شاہ عباس کی مار پڑنا ــ شوق ــ چھوٹے کی جان پر ستم ٹوٹے + شاہ عباس کا علم ٹوٹے +

شامت کی مار ــ بدقسمتی ــ بدنصیبی ــ

شین با بائے

شب خوابی ــ رات کا لباس جو پہنکر سوئین ــ

شب زفاف ــ وہ پہلی رات جس رات عروس اپنے خاوند کی سیج پر جائے ــ سہاگ کی رات ــ تخت کی رات ــ

شین با تائے

شتر بے مہار ــ بن نکیل کا اونٹ ــ آزاد ــ بیخوف ــ بیباک

نذر۔ قطعہ از مولف آجکل اس بوستان دہر کے + سارے گل مرجھا گئے ہین ایکبار + گل کی گھٹتی جاتی ہی ہر لحظہ آب + بلبلین و قمری ہوئے ہین دم بخود + شور و غل کرتے ہین کوے نابکار + بڑھتی جاتی دمبدم ہی نوک خار + سچے دین کے رہنما جو لوگ ہین + انکی باتون پرنہین کچھ اعتبار + دین کی پابندی جو تھی جاتی رہی + ہوگئے آزاد اہل روزگار + کوئی لامذہب کوئی بے قید ہی + کوئی بے دین کوئی ملحد بدشعار + کوئی منکر ہی خدا کی ذات کا + دونون عالم مین خدا کی گنہگار + کوئی منکر اولیا اللہ کا + بے ادب بدگو ہے پیران کبار + + روکنے والا کوئی انکو نہین + چھوٹے پھرتے ہین شتر وہ بے مہار +

شتر غمزہ ۔ بیجا نخرا ۔ بیجا حرکت ۔

شتر کینہ ۔ اونٹ کی دشمنی دلی عداوت قطعہ از مولف کس طرح سے اسکی ہم سے صلح ہو + فی الحقیقت ہی شتر کینہ رقیب + اسکے دلکو کس طرح ہم دھو سکین + بسکہ ہی مردسیہ سینہ رقیب +

شین با جیم

شجرہ فلا ۔ چیز بست ۔ انگڑ کھنگڑ ۔ بوریا بدھنا ۔ کھاٹ پیڑھی گھرکا اسباب ۔ خانہ داری کا سامان ۔ خط تیر ۔ شجرہ حسبی نسبی ۔

شین با خای

شخصیت بگھارنا ۔ پاجبانا ۔ شیخی کرنا ۔ اترانا ۔ گھمنڈ کرنا ۔

شین با دال

شد بد ہونا ۔ کسی کام مین تھوڑی واقفیت ہونا ۔ خبردار ہونا ۔

شدت کا ۔ زور کا نہایت سخت ۔

شدہ شدہ ۔ رفتہ رفتہ ۔ آہستہ آہستہ ۔

شین با رای

شربت پلانا ۔ سگائی کرنا ۔ ناتا نسبت کرنا ۔ نیک شگون کرنا ۔

شربت کے سے گھونٹ پینا ۔ کسی سختی کو بخوشی برداشت کرلینا زہر کو شربت سمجھ لینا ۔

شرح چڑھانا ۔ کسی کتاب کی متن پر شرح لکھنا ۔ اسکو آسان کردینا

شرع پر چلنا ۔ شرع کے احکام کے موافق کام کرنا ۔ برخلاف نکرنا

شرع مین رخنہ ڈالنا ۔ شرع شریعت مین کوئی نئی بات نکالنا ۔ بدعت قائم کرنا ۔

شرم سے پانی پانی ہونا ۔ شرم کے مارے عرق عرق ہونا ۔ پسینے پسینے ہونا ۔ مصرع سست ہمت اسکا گر دوبارہ ہو + پانی پانی شرم سے ہووے سحاب +

شین با شین

ششش و پنچ مین ہونا ۔ فکر و اندیشہ مین ہونا ۔ سوچ بچار مین ہونا ۔ تردد مین ہونا ۔ قطعہ از مولف خدا کے نام پر انگنت دیکر اٹھاؤ مست شمار گنج مین رنج + ضرورت کیا کہ اس لاشی کی خاطر + رہو تم رات دن اندر ششش و پنج +

شین با عین

شعشہ اٹھانا ۔ شعشہ چھوڑنا ۔ کوئی خبر مشہور کردینا ۔ کوئی نئی تمہید اٹھانا ۔ جھوٹ سچ بک دینا ۔

شعشہ نکالنا ۔ نکتہ چینی کرنا ۔ کسیکا نقص پکڑنا ۔

شعلہ بھبوکا ہونا ۔ نہایت خفا ہونا ۔ غصہ مین آنا ۔ آگ ہوجانا ۔ میرحسن ۔ یہ سنکر وہ شعلہ بھبوکا ہوئی + لگی جل کے کہنے بلا کیا ہوئی +

شین با کاف

شکار کرنا ۔ پھندے یا جال مین پھنسانا ۔ مار ڈالنا ۔ قابو مین لانا ۔ موہ لینا ۔ عاشق بنا لینا ۔ قطعہ از مولف ۔ ترک چشم اس پری شمائل کے + مرغ دل کو شکار کرتے ہین + کوڑا ہاتھو مین لیکے زلفون کا + ہر طرف مار مار کرتے ہین +

شکار ہونا ۔ کسی دام مین پھنس جانا ۔ قتل ہونا ۔ مارا جانا ۔ عاشق ہوجانا ۔ جانباز ۔ ازل سے تیر نظر کے شکار ہونے کو + تڑپ رہا ہی یہ دل مرغ نیم جان کی طرح +

شکل بگاڑنا ۔ بے عزت کرنا ۔ بے آبرو کرنا ۔ زلت پہونچانا ۔ صورت خراب کردینا ۔ بری تصویر لکھنا ۔

شکل بنانا ۔ ڈول ڈالنا ۔ صورت قائم کرنا ۔ بے چین ہونا ۔ ناک بھون چڑھانا ۔

شکل سے بیزار ہونا ۔ سخت ناراض ہونا ۔ دیکھنے کو جی نہ چاہنا ۔ قطعہ از مولف دم نکل جائے گا جب تجھ سے الگ + یار اور اغیار ہوجائینگے سب + تیری صورت بھی نہ دیکھیگا کوئی + شکل سے بیزار ہوجائینگے سب +

شکل نکالنا ۔ تدبیر کرنا ۔ سوچنا ۔ بچارنا ۔

شکنجے مین کھینچنا ۔ سخت سزا دینا ۔ ستانا ۔ دق کرنا ۔ تکلیف پہونچانا قید کرنا ۔ زنجیر پہنا دینا ۔

شگن کرنا ۔ شگون کرنا ۔ کسی کام کو نیک ساعت اور شبھ گھڑی مین شروع کرنا ۔

شگوفہ چھوڑنا ۔ فتنہ انگیزی کرنا ۔ نئی بات دل سے نکال کر کہدینا

مؤلف - گلبدن اک آن مین رنجیدہ ہمسے ہو گئے ٭ چلیے دشمن کوئی ایسا شگوفہ چھوڑ کے ٭
شگوفہ کھلنا - شگوفہ پھولنا عجیب و غریب باتون کا ظہور مین آنا باغ مین تازہ شگوفہ نکلنا -
شگون ہونا - کسی کام کا نیک ساعت مین شروع ہونا -
شکرلب - معشوق شیرین کلام خوش تقریر ۔ کرین کیون نہ شکرلبون کو مرید ٭ کہ دادا ہمارا ہی بابا فرید ٭
شکم پرور - پیٹو بہت کھانے والا ۔ وہ کیا دینگے کسی بھوکے کو کھانا ٭ گرسنہ اور شکم پرور جو ہونگے -
شکم سیر - پیٹ بھرا سیر چشم -
شکرمقال - خوش کلام خوش تقریر -
شکررنجی - تھوڑی سی رنجیدگی ان بن -

شین با لام

شلاک اڑانا - شلاک چھوڑنا - بندوقون مین چھرا یا پانی بھر کر چھوڑنا یا باڑہ مارنا سلامی اتارنا - ایسی بات کہنا جو کسی کو سخت و ناگوار گذرے

شین با واو

شورہ کی قلفی - گوری رنگت کی عورت جسمین ملاحت نہو - خوبصورت عورت یا لڑکا -

شین با ہے

شہدپن پھیلانا - بدمعاشی کرنا بدچلن ہونا -
شہد سا میٹھا - نہایت شیرین بہت ہی میٹھا -
شہد لگا کر چاٹنا - یعنی یہ بیکار چیز ہے اور کس کام آئیگی اسکو شہد لگا کر چاٹنا -
شہرخموشان - قبرستان مرگھٹ -
شہرشملہ - وہ شہر جہان انصاف ہو -
شہد کی چھری - میٹھی چھری - دشمن دوست نما - منافق وہ شخص جو بظاہر خوشامد کرے باطن مین سخت دشمن ہو -

شین با یاے

شیخی بگھارنا - اپنی بڑائی اپنے منھ سے بیان کرنا اپنی آپ تعریف کرنا آتش - دم دے انھین بھی کوئی انکا بھی دل پکائے ٭ زاہد کمال اپنی شیخی بگھارتے ہین -
شیخی کرکری ہونا - شیخی جھڑ جانا شیخی نکل جانا - سبک خفیف ہونا بیقدر ہونا - آبرو گھٹنا - عزت کو بٹہ لگنا ۔ خاک مین ملکے بھی زاہد کو جو رندون سے غرور رہا ٭ کرکری ہو گئی شیخی پہ شیخیت نہ گئی -
شی دینا - کنکوے کو ڈھیل دینا - ڈور چھوڑنا - کنکوا بڑھانا - اکسانا بھڑکانا - آگ لگانا - لڑائی کرانا - تیل ڈالنا -
شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پینا - عدل و انصاف ہونا -
شیر کے کان کترنا - مکار و فریبی ہونا -
شیر کرنا - حوصلہ دینا - ہمت بڑھانا - تیز کرنا - چراغ کی بتی نکالکر روشن کرنا
شیر کی بولی بولنا - قے کرنا - کھایا ہوا کھانا منھ کے رستے سے باہر آجانا الٹنا - بنی آدم کی ٹولی کی ٹولی بیٹھی بولے ہین شیر کی بولی -
شیر مارنا - بڑی بہادری و جوانمردی کرنا عجیب و انوکھا کام کرنا
شیر و شکر ہونا - آپسمین محبت و پیار ہونا -
شیر ہونا - جوان ہونا - بالغ ہونا - دلیر ہونا - غالب آنا -
شیش محل کا کتا - نہایت گھبرایا ہوا کیونکہ جب کتا شیش محل مین جاتا ہی تو چارون طرف اسکو کتے ہی کتے نظر آتے ہین اسپر وہ بھونکنا شروع کرتا ہی نہایت گھبرا جاتا ہی -
شیشے کی طرح پھولنا - مغرور ہونا - اترانا - تکبر کرنا - بڑائی کرنا -
شیشے مین اتارنا - جن بھوت کو قید کرلینا - موہ لینا - فریفتہ کرنا و اسپر دیکر کام لینا آتش - اک پری کو بھی نہ شیشے مین اتارا ہمنے ٭ یاد کیا آئیگا اس گنبد مینائی کا ٭
شیطان اٹھانا شیطان مچانا - غل شور کرانا - لڑنا - جھگڑنا فساد برپا کرنا
شیطان سر پر چڑھنا - بھوت یا جن سر پر سوار ہونا - بدکاری پر مستعد ہونا - غضب مین آنا - متکبر و مغرور ہونا ذوق - نشہ دولت کا بد اطوار کو جس آن چڑھا ٭ سر پہ شیطان کے اک اور بھی شیطان چڑھا ٭
شیطان سے زیادہ مشہور ہونا - بدی کے ساتھ مشہور ہونا -
شیطان کا کان مین پھونک دینا - شیطان کا فریب دینا - دام مین لانا - مغرور و متکبر بنانا -
شیطان لگنا - ناشایستہ حرکت کرنے لگنا - شرارت پر آمادہ ہونا -
شیطان ہو جانا - شریر ہونا - لڑنے لگنا -
شیطان ہونا - خواب مین نہانے کی حاجت ہونا - محتلم ہونا -
شین قاف درست ہونا - صحیح تلفظ ادا کرسکنا -
شیطان کی آنت - لمبی چیز لمبی داستان لمبی کہانی -
شیر نر - بہادر جوانمرد دلیر
شیطان مجسم - نہایت بد اور شریر شیطان کا سا جسم
شیر گرم - جو چیز بہت گرم نہو پینے کے لائق -

شیشے کا دیو - شراب -
شیشہ باسا - نہایت نازک جلد ٹوٹ جانے والا -
شیطان کی خالہ - مکار عورت دلالہ محتالہ -
شیخ چلی - دیوانہ - پاگل - مورکھ - بیوقوف - اصل مین یہ نام شیخ چلی ہی اور اس بزرگ نے چالیس چلے اپنی عمر مین کاٹے اوشیخ چلی خطاب تھا
شیر مادر ہی - ماکا دودھ ہی حلال ہی -
شیطان کی چوکڑی شیطانی لشکر - شریر لوگون کا گروہ -
شیطان کے کان بہرے - جسوقت کسی بری چیز کا ذکر کرتے ہین تو اس محاورہ کو بولتے ہین کہ شیطان اس بات کو نہ سن لے ورنہ وہ سب مین مشہور کردیگا اسکے کان بہرے ہوجائین تو بہت اچھا ہی -

پانچوین فصل

ادویات یعنی لغات متعلق بعلم طب کے بیان مین

شین با الف

شادنج - معرب شادنہ عربی مین حجر الدم اسکا نام ہی یہ ایک پتھر سرخ زرد سفید خاکستری ہوتا ہی سب سے بہتر خاکستری ہی طبیعت اسکی پہلے درجہ مین سرد دوسرے درجہ مین خشک مجفف رادع قابض مدمل قروح مقوی اعصاب ہی آنکھون کو روشن کرتا ہی اسہال دموی کو روکتا ہی -
شاضل - بہ ضاد معجمہ مشہور غلہ ہی جسکو ہندی مین ارہر اور تور کہتے ہین دانے اسکے چھوٹے چنے کے برابر ہوتے ہین طبیعت اسکی سرد اور خشک نفاخ دیرہضم قلیل الغذا اور مع اسہال صفراوی و فساد بلغم ہی -
شارف - یہ نام ایک ہندی جڑ کا ہی جو تر بار کی شکل پر ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم و خشک مسہل بلغم دافع امراض باردہ ہی ہندی مین اسکو بدھارا بھی کہتے ہین
شاہ مبارک - اس دوا مین اختلاف ہی بعض اسکو بنفسج الکلاب کہتے ہین اور بعض شجر ابراہیم بولتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک ہی دافع صرع و ضیق النفس و سرفہ ہی -
شاہ بلوط - فارسی مین اسکو روشنک کہتے ہین دانے اسکے بقدر باقلا کے ہوتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک مسہل قوی اخلاط غلیظہ مقوی مفاصل و اعصاب فالج و لقوہ ہی -
شاہ سفرم - شاہ سپرم - عربی مین اسکو سلطان الریاحین کہتے ہین فارسی مین نازبو بولتے چند اقسام کی ہی چنانچہ تلسی کو بھی انھین اقسام مین شمار کرتے ہین خوشبو مطبوع اسکی پتیون سے آتی ہی طبیعت اسکی گرم و خشک مفتح سدہ و بانی محلل اورام دافع خفقان و ضعف معدہ و درد سینہ و سرفہ ہی
شاہترہ - مشہور بوٹی ہی جو تلخ ہوتی ہی طبیعت اسکی حرارت مین معتدل اور دوسرے درجے مین خشک مصفی خون و مدر بول مسہل سودا ہی -
شاہ چینی - یہ دو عصارہ حنا چینی کا ہی بعض کے نزدیک عصارہ ریوند کا طبیعت اسکی سرد اور خشک مجفف اور قابض ہی طلا اسکا واسطے درد گرم اور اورام گرم کے نافع ہی -

شین با بائے

شب - بکسر شین پھٹکری جو مشہور چیز ہی طبیعت اسکی گرم و خشک قاطع نزف الدم ہی زخمون کے زائد گوشت کو کاٹتی ہی اور انکو بند کرتی ہی آنکھون کے میل کو اتارتی ہی سرخی کو دور کرتی ہی -
شبت - مشہور سبزہ ہی جو کھانے مین آتا ہی ہندی مین اسکا سویا نام ہی طبیعت اسکی گرم و خشک منضج مفتح و ہاضم مدر بول و حیض ہی -
شبرم - یہ گھانس باغون اور جنگلون مین پیدا ہوتی ہی گائے بیل اسکو نہین کھاتے اگر کھائین تو مرجائین بکری بکرا کھائین تو انکو مضرت نہین پہونچتی طبیعت اسکی گرم اور خشک سموم قاتل مین سے ہی اور مسہل قوی بلغم اور سوداکا -
شبہ - فارسی مین رومی توتیا ہندی مین جست کہتے ہین معدنی اجساد مین سے ہی برنج بھی اسکا نام ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک ہی اسکے بنے ہوے برتنون مین کھانا مقوی دل و معدہ و دافع خفقان ہی اسکو جلاکر آنکھون مین ڈالین تو آنکھون کو جلا کر دیتا ہی سفیدی دفع کرتا ہی -

شین با تائے مثلثہ

شثث - یہ ایک گھاس ہی جس سے چمڑے کو دباغت کرتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک ہی پینا اسکے جوشاندے وخساندے کا حابس و مقوی معدہ دافع اسہال ہی -

شین با جیم

شجرة الراہب - دمشق کی سرزمین مین یہ ایک درخت مزروع و غیر مزروع ہوتا ہی اسکا بیج کار آمد ہی خوشے کے اوپر کے دانے قے لاتے ہین اور نیچے کے دانے دست لاتے ہین اور درمیانی قے بھی لاتے ہین اور دست بھی -
شجرہ ابی مالک - یہ ایک گھانس بری و بحری ہوتی ہی پتی اسکی چوڑی بقدر ہتیلی ہاتھ کے دندانہ دار بطور آرہ کے شاخین مجوف پھول چھوٹا پھل گول بقدر چنے کے طبیعت اسکی دوسرے درجہ گرم اور یبوست مین معتدل ہی جڑ اسکی ادویہ شریفہ سے ہی مقطع بلغم جالی اور مسہل دافع امراض سوداوی جذام و قرحہ ردیہ و خنازیر وغیرہ پتی اسکی نزف الدم کا مجرب علاج ہی
شجرۂ ابراہیم - بعض اسکو ام غیلان یعنی کیکر کا درخت جانتے ہین بعض کہتے ہین کہ یہ اور درخت ہی پتون سے بھرا ہوا پھول خوشبو اور زرد ہوتا ہی

بلے آب زمینون مین پیدا ہوتا ہی پھول اسکے عطریات مین ڈالے جاتے ہین

شجرۃ المریم- شاخین اسکی آپسمین ملی ہوئی مشتبک ہین اگر پانی مین ڈالی جائین تو لمبی اور موٹی ہوجاتی ہین جب نکال لین تو خشک ہوکر اصلی حالت پر آجاتی ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک ہی کھانا اسکا چہرے کو سرخ کرتا ہی زکام کو روکتا ہی نزول الماء کو دفع کرتا ہی خسائدہ اسکا دفع عسر ولادت اور نکالنے جنین کے بے مانند علاج ہی-

شین با حاے حطی

شحرور- یہ ایک پرند قمری کی شکل کا سیاہ رنگ چونچ اور پانون جیسے زرد سرخی مائل طبیعت اسکی گرم تر گوشت غذاے صالح جلد ہضم ہونیوالا دافع مالیخولیا و فالج ہی-

شحم- چربی جسکو فارسی مین پیہ کہتے ہین جانور نر کی چربی گرم زیادہ مادہ سے ہی عمدہ چربی وہ ہی جو تازہ ہو ہر ایک جانور کی چربی الگ الگ تاثیر رکھتی ہی-

شین با راے

شراب- اصطلاحی نام خمر کا ہی ورنہ ہر ایک پانی کو جسمین قند اور کوئی شئے ڈالکر قوام دیا ہو شراب کہ سکتے ہین مثلاً شراب بنفشہ شراب نیلوفر شراب صندل وغیرہ-

شراب مرزق- یہ ایک خمر ہی جسمین میدے کی روٹی بھگو کر کھاتے ہین بہت فائدہ دیتی ہی-

شربین- یہ ایک درخت سرو کی قسم سے ہی مگر پتی چوڑی اور پھل سرو کے پھل سے چھوٹا ہی اصفہان مین اسکو لوش کہتے ہین پچاس برس تک اسکی عمر ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک اسکے پتون کا خسائدہ قروح اندرونی و بیرونی و سستی اعضا و ضعف معدہ وجگر کا مجرب علاج ہی اور پھل دانتون کے درد و خناق کو دفع کرتا ہی اور حقنہ اسکے جوشاندے کا معدہ اور امعا کی کرب کو مفید ہی-

شرلفہ- ہندی مین اسکو سیتا پھل کہتے ہین یہ پھل صنوبر کے پھل کی صورت پر ہی فارسی مین اسکو کاج کہتے ہین طبیعت اسکی گرم تر ساتھ رطوبت لزجہ کے مسخن و مقوی معدہ و محرک مواد ساکنہ و ملین طبع ہی-

شین با شین

ششریت- یہ ایک قسم کی گھاس کی جڑ ہی جو مصر کی سرزمین مین پائی جاتی ہی انگلی سے زیادہ موٹی طبیعت اسکی گرم اور خشک استسقا کی بیماری کا عمدہ علاج ہی

شین با طا

شطیبہ- یہ ایک بوٹی پہاڑون اور میدانی ملکون مین ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم وخشک حمیات گرم کو بالخاصیت نافع ہی اور مدر بول محلل ریاح معدہ-

شین با عین

شعر الجیاد- یہ ایک بوٹی گھوڑے کے بالون کی باریک اور سیاہ بغیر پتون اور ساق کی ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک بخور اسکا واسطے دفع تپ ربع کے علاج ہی اور اگر مسافر پیادہ چلنے والا اسکو اپنے پاس رکھے تو تھکنے مین نہ آئے-

شعر- فارسی مین موے ہندی بال کہتے ہین بال انسان کے نہ کہ جانورون کی پشم طبیعت انکی سرد اور خشک خاکستر انکی واسطے خشک کرنے زخمون کے مفید ہی اور طلا جرب اور حکہ کے دفع کرنے کے لیے عمدہ علاج ہی گنج کی بیماری کو بھی یہ طلا دفع کرتا ہی-

شعیر- غلہ جو جو مشہور چیز ہی مزاج اسکا سرد اور خشک قلیل الغذا زیادہ گیہون سے ساتھ قوت جالیہ اور قابضہ اور مجففہ کے مسکن جوش صفرا وخون ہی پتون کی گرمی کو فرو کرتا ہی-

شعر الغول- یہ گھاس بغیر پھل اور بغیر پتون اور بغیر ساق کے ایک باریک تار بال کی طرح زمین پر پھیلتی جاتی ہی پھل پھول پتا کچھ نہین ہوتا اقلیم ثالث مین ملتی ہی اور کسی ولایت مین اسکا وجود نظر نہین آتا اگر اسکو آگ پر رکھین تو بالون کے جلنے کی بو ظاہر ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک بخور اسکا تپ ربع کو دور کرتا ہی اور فائدے اسکے بھی درج کتب طبیہ ہین-

شین با فاے

شفنین البری- یہ ایک سفید پرند فاختہ سے بڑا ہی لمبی اسکی ٹانگین ہین گردن ناتمام ہی فارسی مین اسکو بوتیمار ہندی مین بگلا بولتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک دوسرے درجہ مین مسمن بدن مقوی قوت باسکہ و حواس و حافظہ محرک باہ صورت بیخوالی ہی دریا کے کنارے بیٹھکر چھوٹی مچھلیان پانی مین سے نکالکر کھاتا ہی-

شفنین البحری- یہ ایک دریائی جانور خفاش یعنی شبپرک کی صورت پر ہوتا ہی اسکی دم مین ایک نیش کانٹے کی طرح ہی اس سے یہ کاٹتا ہی جسکو کاٹے درد عظیم پیدا ہوتا ہی اسکے نیش کو اگر کسی کے بستر مین رکھین صاحب بستر کو نیند نہین آتی اگر کسی گھر مین دفن کردین گھر اجڑ جاے گھر کے آدمی آپسمین لڑمرین اسکے گوشت کو جلا کر اگر راکھ دو شخصون پر کہ آپسمین دوست ہون ڈال دیجاے تو فی الفور ایک دوسرے کے دشمن ہوجائین اسکے نیش کو اگر کسی کے پیشاب مین ڈالدین پیشاب والے کے مثانہ مین درد شدید پیدا ہو جب تک نکالین درد موقوف نہین ہوتا-

شین با قاف

شقائق - یہ ایک پھول ہی جسکو فارسی مین لالہ کہتے شقائق النعمان بھی اسکا نام ہی اسلیے کہ نعمان بن منذر اسکو دوست رکھتا تھا اور اسی نے پہلے خورنق مین اسکو اپنے محل کے چار طرف بویا تھا بعض کا قول ہی کہ نعمان خون کو کہتے ہین اسکا رنگ بھی سرخ ہی اسو اسطے شقائق النعمان اسکا لقب مقرر ہوا خشخاش کے پھول کے ساتھ اسکی مشابہت ہی پتے اور پھول اور پھل اسکا خشخاش کا سا ہی مگر تخم اسکا خشخاش سے باریک بہت ہی بری اور بستانی دونون قسم کا ہوتا ہی دو قسم اسکی مشہور ہین ایک پنج برگ جسکے پھول کی پانچ پتی ہین دوسرا صد برگ یہ بڑا پھول ہی اسکو ہزارا بھی بولتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک افیون جو خشخاش کی طرح اس سے نکالی جاتی ہی خشخاش سے زیادہ مخدر و منشی ہی اسکے خشک پھول کی نا کستر کے کھانے سے بدن کا ہر ایک درد جاتا رہتا ہی مثل وجع مفاصل وغیرہ نفوخ اسکا رعاف کو بند کرتا ہی-

شقراق - یہ ایک پرندہ بقدر کبوتر کے سبز رنگ خوش شکل بازو سیاہ اور مخطط حریص و بدخو ہوتا ہی روم و شام و خراسان مین بکثرت ہی چڑیا کے بچے چرا لیجاتا ہی آدمیون سے نفرت کرتا بولتا بہت ہی طبیعت اسکی گرم و خشک بلغمی بیماریان اسکے کھانے سے دفع ہوتی ہین-

شقاقل - یہ ایک جڑ گرہ دار ساتھ لزوجت اور تھوڑی شیرینی کی ہی بقدر انگلی کے موٹی اور لمبی سفید رنگ اسکی ساق بھی گرہ دار اور پھول گول بقدر ریٹھے کے اور پھول بنفشہ سے بڑا طبیعت اسکی گرم اور تر ہی باہ کو بڑھاتی ہی قاطع بلغم مقوی پشت و معدہ و کبد و گردہ ہی-

شین با کاف

شکر قند - یہ جڑ ایک سبزہ کی ہی جو زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہی اسکو لوگ بو دیتے ہین جب بڑھ جاتی ہی تو اکھاڑ کر فروخت کرتے ہین آگ پر بھون کر یا پانی مین پکا کر کھاتے ہین لذت اسکی میٹھی ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم و تر مسدد و قابض و نفاخ ہی-

شکک - عربی مین اسکو سم الفار فارسی مین مرگ موش ہندی مین سنکھیا کہتے ہین یہ معدنی زہر مشہور ہی طبیعت اسکی چوتھے درجے گرم اور خشک آدھا درم اسکا ایک وزن مین آدمی کو مار دیتا ہی اکتحال اسکا ایک دن مین بینا کو نابینا کر دیتا ہی چوہا اسکے کھانے بلکہ سونگھنے سے فی الفور مر جاتا ہی ایک چوہا بھی اسکو کھا کر اگر مر جائے تو گھر کے باقی ماندہ چوہے سب بھاگ جاتے ہین - یہ پتھر پانچ قسم کا ہوتا ہی ایک پھٹکریا اسکی شکل سپید پھٹکری کی سی ہوتی ہی دوم ہلدیا یعنی زرد رنگ تیسرا گودیا شراب کی رنگت پر سرخ چوتھا دار انار کے دانہ کی طرح سرخ پانچوین سنکھیا یہ بہت سپید سنکھ کی رنگت پر جسکو ہندو عبادت کے وقت بجاتے ہین کیمیا گر اس پتھر کے بہت خواہشمند ہین ہزارہا ادویات مرکبہ مین بھی یہ ڈالا جاتا ہی اسکے کشتے کئی طرح کے ہوتے ہین

شکر تیغال - یہ ایک جانور کا گھر اور غلاف اسکا ہی جسمین سکونت رکھتا تھا اس کیڑے کا نام تیغال ہی اور فارسی مین سیہال وہ ریشم کے کیڑے کی طرح درختون کی شاخون پر اپنے منہ کے لعاب سے خانہ بناتا ہی اور اسمین بیٹھ کر مر جاتا ہی جب لوگ ان خانون کو اتارتے ہین تو کیڑا اسمین مرا ہوا پاتے ہین بعض مین نہین بھی ہوتا طبیعت اسکی حرارت اور رطوبت مین معتدل ملین صدر دافع سرفہ ہی حلق کو صفا کرتی ہی آواز کو درست کرتی ہی-

شکاعی - ایک بوٹی ہی جو دو قسم کی ہوتی ہی ایک وہ جسکے پھول سفید شاخین پتلی دوسری جسکا پھول بنفشی شاخین قوی بقدر ایک انگلی کے ہین عربی مین اسکو شوکہ فارسی مین چرخہ ہندی مین اونٹ کٹارا بولتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک ہی جو شاندہ اسکا امراض معدہ و کبد و حمیات مرکبہ کہنہ کے لیے نافع ہی فالج و رعشہ و درد پشت و جذام و برص کا علاج ہی-

شین با لام

شلّ - پھل ایک ہندی درخت کا ہی جسکو سفر جل ہندی کہتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک محلل قوی و مسہل دافع ریاح و فالج و عرق النسا ہی-

شلیل - یہ ایک میوہ شفتالو اور زردآلو کے باہم پیوند کرنے سے حاصل ہوتا ہی خراسان مین اسکو شفترنگ کہتے ہین شفتالو سے لذیذ اور لطیف زیادہ ہی افعال اور خواص اسکے شفتالو کے سے ہین-

شلجم - شلغم مشہور سبزہ ہی جسکی جڑ کو شلغم بولتے ہین سرمائی موسم مین امیر و غریب اسکو کھاتے ہین ہند مین اسکو شلغم کہتے ہین طبیعت اسکی گرم و تر ہی کثیر الغذا دافع کھانسی ملین سینہ مقوی باصرہ مشتہی طعام محرک باہ مدر بول ہی-

شین با میم

شمع - فارسی مین اسکو موم کہتے ہین اور شہد کی مکھیان اپنے چھتے مین اسکے خانے بنا کر شہد انھین جمع کرتی ہین طبیعت اسکی اول درجہ دوسرے مین گرم رطوبت مین معتدل ہی قوت اسکی تیس برس تک نہین جاتی محلل منضج ملین اعصاب ہی زخمون کو اچھا کرتا ہی-

شین با نون

شُشند - یہ ایک خوشبو مصر مین بنائی جاتی ہی لبان کے جوہر اُڑاکر یہ خوشبو بنائی جاتی ہی طبیعت اسکی گرم خشک مقوی دل دافع سرفہ خفقان وغیرہ کی

شین با واو

شُوا - کباب یعنی خشک بھونا ہوا گوشت طبیعت اسکی گرم وخشک مقوی دل سریع الہضم جید الکیموس مقوی اعضاے رئیسہ محرک باہ ہی-

شواصرا - فارسی مین اسکا مشک الجن نام ہی اور یہ ایک خوشبودار گھاس ہی لوگ اسکی پتی کپڑون مین رکھتے ہین تاکہ خوشبودار ہوجائین کستوری کی بو اُس سے آتی ہی پہاڑون اور خشک زمینون مین ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم خشک مقوی دماغ وروح مدر بول وحیض ہی-

شوندر - چقندر، رو شلجم احمر بھی اسکو کہتے شلجم کی طرح یہ بھی کھائے جاتی ہی طبیعت اسکی سرد وتر دوسرے درجے مین گرم اور تر آخر پہلے درجہ مین دافع ریاح وعفونت مسخن وجاذب خون ومحرک باہ ومقوی جسم ہی-

شونیز - اسکو فارسی مین سیاہ دانہ ہندی مین کلونجی کہتے ہین مشہور چیز طبیعت اسکی تیسرے درجے مین گرم اور خشک مدر شیر وبول وحیض مسقط جنین ہی زندہ ہو یا مُردہ تریاق سموم شربتًا وبخورًا وحمولًا ہی-

شوحط - بہ حاے حطی ایک درخت کا نام ہی شاخین اسکی بدون گرہ کی سیدھی پتی مشابہ پتی بید کے اسکی لکڑی سے کمان گرکمان بناتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک ہی دافع اسہال ہی اسکے سایہ مین اگر کوئی بیٹھے یا سوئے بیمار ہوجائے-

شوکران - یہ جڑ ایک سبزہ کے ساتھ لزجت ہی ساق اسکے سبز کی گرہ دار مشابہ شاخ سوسن کے طبیعت اسکی سرد خشک مخدر ومسکر ومسموم ہی

شین با یا

شیرخشت - مشہور دوا ہی فارسی مین اسکو شیرخشک بھی کہتے ہین یہ شبنم ہی کہ بلاد خراسان اور ہرات اور بعض بلاد فرنگستان مین ایک درخت ہی کہ اسکو شیر کہتے ہین رات کو برستی ہی لکڑی اسکی خالدار زرد وسپید ثقیل الوزن ہوتی ہی اسپر شبنم جم جاتی ہی تو لوگ اُتار لیتے ہین اور تحقیق یہ ہی کہ یہ دوا اس درخت کا گوند ہی جو اسکی گرموں کے نکلتا ہی اور بستہ ہو جاتا ہی کیونکہ خشت خراسان مین گوند کو کہتے ہین طبیعت اسکی گرم رطوبت اور یبوست مین معتدل جالی وملین طبع ومسہل صفرا ومقوی جگر ومعدہ مسکن حرارت وسوزش ہی-

شیطرج - ہندی مین اسکو چیترہ اور چیتہ کہتے ہین یہ ایک گھانس ہی کہ قبرستان اور پرانی دیوارون پر پیدا ہوتی ہی جاڑون مین سرسبز اور گرمیون مین خشک ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم وخشک جالی ومفتح ومسہل دافع بلغم ودرد مفاصل ہاضم طعام ومحرک باہ ہی-

شیح - بہ حاے حطی یہ ایک گھانس ہی جسکو فارسی مین درمنہ کہتے ہین پھول اسکا خوشبو اور کڑوا مشابہ افسنتین کے پتی مشابہ پتی سداب کے پھول زرد وسُرخ وخاکستری بعض کے نزدیک یہ ایک قسم افسنتین کا ہی طبیعت اسکی گرم وخشک قاطع بلغم ومحلل ریاح ومسہل اخلاط فاسدہ ودافع سموم حیوانی ہی-

شیلم - فارسی مین اسکو گندم دیوانہ کہتے ہین دانہ اسکا جو کے دانہ سے پتلا اور چھوٹا ہوتا ہی اور گیہون کے کھیت مین قدرتی پیدا ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم وخشک مخدر ومسکر ومنوم ہی قروح خبیثہ کا علاج ہی اور رام کہنہ کو دفع کرتا ہی-

شیبہ - یہ ایک گھاس ہی کہ ساق اسکی سفید مائل بسپیدی ریزہ ریزہ گویا مقراض سے کتری ہوئی نہایت خوشبو شیراز مین بکثرت ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک محلل ریاح مدر بول منقی فضلات ودافع اورام ریحی وبلغمی ہی-

شیرستہ - یونانی مین میٹھے سرکے کا نام ہی اکثر فائدہ مین مانند سرکے ہی جو مضرت سرکہ مین ہی اسمین نہین ہی سُرخ رائی اور شلجم تری کے بیج تیز سرکے کے ساتھ پیستے ہین پھر دس مثقال وہ اور دو سو مثقال انگور کا پانی اور پچاس مثقال پرانا سرکہ اسمین ملا دیتے ہین دو ہفتہ مین شیرستہ تیار ہوجاتا ہی اس دو ہفتہ مین ہر روز اسکو ہلاتے ہین-

شیخ البحری - سمک یہودی کہ شیخ یہودی اسکو کہتے ہین یہ جانور دریا مین رہتا ہی ہفتہ کے روز اپنی جگہ سے حرکت نہین کرتا اسواسطے اسکو یہودی کہتے ہین اسکی پشت کا چمڑا سخت ہی اسکا گوشت بھیانک بلغمی کو دور کرتا ہی اسکے نخو سے پتھر ٹوٹ جاتے ہین اسکا پوست اگر پاس رکھا جائے تو نقرس کی بیماری نہین ہوتی اسکا دل بریان کرکے کھائیں تو داءالثعلب کی بیماری نہین ہوتی-

سترھوان باب

صاد مہملہ کے لغات کے ذکر مین اسمین بدستور پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات فارسی وعربی وغیرہ کے بیان مین

صاد با الف

صاحب - دوست - یار - صاحب صحبت - ہمنشین - مالک - خداوند وزیر یہ لفظ مقطوع الاضافت ہی یعنی اضافت کا کسرہ اسپر نہین آتا

اور اگر آتا ہے تو تاد ہو جیسا کہ صاحب دل و صاحب غرض وغیرہ
نظامی ۔ خبر برد و صاحب خبر پیش شاہ ۔ کہ مشتے ستم دیدہ داد خواہ
تظلم زنانند بر شاہ روم ۔ کہ بر مصریان تنگ شد مرز بوم ۔
صائب ۔ رسا و رسندہ پہونچنے والا چنانچہ فکر رسا اور فکر صائب
اور تخلص ایک شاعر ایرانی کا جسکا نام محمد علی تھا صائب ۔ صائب
بفکر صائب خود گوے بردہ ۔ ز اہل سخن بجز کہ نکتہ پروری ۔
صاب ۔ ہر ایک سبزہ جس سے وقت توڑنے کے سفید پانی
یعنی دودھ نکلے اور اصفہانی زبان میں سیب جو مشہور میوہ ہے ۔
صامت ۔ خاموش چپ چاپ و رمال صامت سونا چاندی
مکان حویلی اور مال ناطق کنیز غلام گھوڑا گائے بھینس وغیرہ ۔
صاروج ۔ معرب سارو ر وہ چونہ جسمین مٹی ملی ہوئی ہو ۔
صالح ۔ نیکوکار اور نام ایک پیغمبر کا جسکی دعا سے پہاڑ شق ہوکر
اونٹنی نکلی تھی فرید الدین عطار ۔ صحبت صالح ترا صالح کند ۔
صحبت طالح ترا طالح کند ۔
صارخ ۔ چیخنے والا ۔ چلانے والا ۔
صاعد ۔ پستی سے بلندی کو چڑھنے والا ۔ صعود کرنے والا ۔
صابر ۔ صبر کرنے والا ۔ ٹھہرنے والا پیغمبروں میں سے یہ خطاب
حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا اور اولیاء اللہ میں سے خاندان چشتیہ میں
حضرت علاء الدین علی احمد کو جو خلیفہ اور بھانجے خواجہ فرید الدین
گنج شکر کے تھے ۔ شعر ۔ مرد عاقل صابر و شاکر بود ۔ در بلا
بر نفس خود قادر بود ۔
صادر ۔ کسی جگہ سے نکلنے والا ۔ شعر ۔ چون ز دست تو گنہ صادر شود ۔
شو پشیمان توبہ کن لیل و نہار ۔
صاع ۔ زمین پست اور نام ایک پیمانہ کا جسمین دو سو چونتیس تولہ
جنس پڑ جائے ۔
صانع ۔ صاحب صنعت کاریگر فرید الدین عطار ۔ صانعے
کر طین سلاطین میکند ۔ ہم ز رحم شیاطین میکند ۔
صائغ ۔ اخیر میں غین معجمہ زرگر جو سونے کا کام کرتا ہو زیور بناتا ہو
ضالغ ۔ بکسر لام و سکون غین گائے اور بکری جو چھ سال کی عمر کی ہو
صاف ۔ بتشدید فا صف کھینچنے والا اور مخفف صافی ماخوذ صفا سے
فارسی میں صاف کے معنی شراب صاف مستعمل ہیں اور ہر چیز
لطیف و پاکیزہ مولف ۔ چہرہ دلدار صاف آید نظر ۔ از کدورت
باشد اگر آئینہ صاف ۔

صادق ۔ صاحب صدق ۔ بہت گو ۔ سچا آدمی سعدی ۔ اے عاشقان
صادقت اے دلستان منم ۔ اول کسی کہ بر تو فدا شد ز جان منم ۔
صارم ۔ کاٹنے والی تلوار ۔ تیز تلوار ۔
صائم ۔ روزہ دار ۔ روزہ رکھنے والا ۔ فاقہ کش ۔
صافن ۔ ایک رگ کا نام ہے جو گٹے میں ہے جسکے بدن کا خون
لینا منظور ہو تو اسکی فصد کرتے ہیں ۔
صابون ۔ مشہور چیز ہے جس سے کپڑے دھو کر سپید کیے جاتے ہیں
میرزا بیدل ۔ نیست صابون پلید بہائے دل تیرہ زنگ ۔ چون
شود خاکستر از آتش سیاہی تیرہ ۔
صائبہ ۔ رسا و رسندہ مطلب تک پہونچنے والا ۔
صاعقہ ۔ بجلی جو ابر سے زمین پر گرے ۔
صاجی ۔ ایک قسم انگور کا ہے اور نام ایک کپڑے ابریشمی
مخطط کا عبد الغنی قبول ۔ بندہ پرور ہیچ بیگم نیست چون معقول
صاجی ز بنگونہ گر انگور را خوانم رواست ۔ مخمس تا شیر دلبستگی
نماندہ چیست کہ بعد ازین ۔ ننگ آیدم کہ جامۂ تن صاجی کنم ۔
صافی ۔ صاف و بے غش بے کدورت سعدی ۔ الا یا ایہا الساقی کرم کن
مے صافی بدہ صافی دلان را ۔
صابری ۔ تخلص ایک شاعر کا اور نام ایک خاندان فقرائے سلسلۂ
چشت کا جو خواجہ علی احمد صابر کے ساتھ منسوب ہے ۔
صابونی ۔ ایک قسم کی شیرینی کا نام ہے جو کھانڈ کی بنائی جاتی ہے
کمال اسمٰعیل ۔ صابونی ست صحن زمین لب بلب زبس ۔ کا ورد خند
مصری بازارگان برشت ۔

صاد با بائے

صبا ۔ مشرق کے سمت کی ہوا اور نام ایک نغمہ کا موسیقی سے بعض کے
نزدیک مطلق ہوا بعض کے نزدیک باد خزان نظامی ۔ صبا بلبلان را
دریدہ دہل ۔ ز نامحرمان روے پوشیدہ گل ۔
صبب ۔ پانی کا گرنا اور گرایا جانا اور عاشق ۔
صبیب ۔ زمین نشیب اور عاشق ہونا ۔
صباحت ۔ خوبروئی و سفیدی رنگ انسان کے مقابل ملاحت کی سے
زہے ملاحت حسنش تجلی شور انگیز ۔ مہے صباحت چہرہ چو صبح
نور افشان ۔
صبوح ۔ بفتح اول وہ پیالہ شراب کا جو علی الصباح پیا جائے توحید
ور امید مفتاح لطف تو مفتوح ۔ کشادہ از تو بروے زمانہ باب فتوح

جہان بشغل تو مشغول ہمیشہ ای قدوس ✽ زمانہ ذاکر تسبیح تست یا سبوح ✽ تو چو بارہ تا بقیامت نیاید اندر ہوش ✽ بہر انگشت بعشق تو مست جام صبوح ✽
صبیح - خوبرو سفید چہرہ مقابل ملیح جسکے معنی سبزہ رنگ کے ہین توحید - ز نور ذات تو ظاہر ظہور سایۂ ولوزم ✽ نمود قدرت تو ملیح و صبیح -
صَباح - صبح کا وقت - فجر کا وقت توحید - طالب دیدار زانقلاب روز و شب ✽ بینا ید چہرہ آن دلدار ہر شام و صباح ✽
صَبّاح بتشدید بائے موحدہ صاحب حسن و خوبی اور شعلہ قندیل کا اور نام ایک ملحد مکار کا جسکو حسن صباح کہتے تھے ملحدیہ مذہب کا بانی مبانی وہی تھا جسکا حال تاریخ مین درج ہے -
صبح - صبح کا وقت - فجر کا وقت محمد علی سلیم از امیدے کہ شب بوصلم بود ✽ دست شستم با فتابہ صبح ✽
صبر - شکیب اور تحمل وقت مصیبت کے ایک امر پر ٹھہرے رہنا بیقراری نکرنا حافظ - ہاتف آنروز بمن مژدہ این دولت داد ✽ کہ بران جور و جفا صبر و ثباتم دادند ✽
صَبِر - بفتح اول و کسر ثانی ایک تلخ دوا کا نام ہے اور وہ عصارہ ایک درخت کا ہے جسکو ہندی مین ایلوا کہتے ہین - یہ لفظ بکسر اول و سکون ثانی مشہور ہے سعدی درد اگر طبیب صبر میفرماید این نفس حبیث را شکر ہے باید ✽
صَبّار - بہت سا صبر کرنے والا - ٹھہرنے والا - صفت خدا آسان کند ہر کار مشکل ✽ اگر باشد بسختی بندہ صبار ✽
صبور - صبر کرنے والا - ٹھہرنے والا حافظ - ایدل صبور باش کہ درراہ عاشقی ✽ ہر کس کہ جان نداد بجانان نمیرسد ✽
صَبّاغ - رنگ کرنے والا - رنگریز توحید - بہر زمان و بہر موقع و بہر موسم ✽ برنگ تازہ دہد رنگ باغ را صباغ ✽
صِبغ - رنگ سرخ زرد وغیرہ -
صبیان - بچے اور خرد سال لڑکے سعدی کجا زیبد کہ ہر پیر نود سال بود سر گرم بازی مثل صبیان ✽
صبیہ - دختر لڑکی -
صبغۃ اللہ - خدا کا رنگ - قدرتی رنگ - آیت شریف صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ
صُبرَہ - انبار غلہ کا جو ابھی وزن نکیا ہو -
صبوری - صبر کرنا - ٹھہرے رہنا مؤلف بہر کار واجب صبوری بود ✽ کہ این کار رکار ضروری بود ✽
صبوحی - صبح کی شراب -
صبی - وہ بچہ جو دودھ چھوڑ چکا ہو -

صاد با حاے حطی

صِحنا - نام ایک قسم کی نان خورش کا ہے جو مصر مین مچھلی کے گوشت سے بناتے ہین صحنات بھی اسکو کہتے ہین -
صِحاب - بکسر اول جمع صاحب کی بہت سے صاحب و مالک -
صَحب بفتح اول جمع صاحب کی اور اصحاب جمع الجمع ہے -
صَحابت - یار ہونا - یاری کرنا - مدد کرنا -
صِحّت - بتشدید حاے صحیح ہونا - سالم ہونا - تندرست ہونا - کامل ہونا نظیری نیشاپوری - تا سایۂ خامہ ات بحرفم افتاد ✽ وچ اللہم از صحیفہ برداشت سواد ✽ مجموعۂ دوستان زمین بود مقیم ✽ اعجاز سر کلک تو ام صحت داد ✽
صحبت - دوست ہونا - ہمنشین ہونا صائب درعالم خیال ترا یار کردہ ایم ✽ صحبت اگر برار نشود کار کردہ ایم ✽
صَحّ - صحیح و کامل و تندرست -
صَحاح - بفتح اول تندرستی و بے عیبی -
صِحاح - بکسر اول جمع صحیح بہت سے تندرست و کامل و بے عیب -
صحیح - کامل اور بے عیب تندرست توحید - بذکر خیر تو جاری ہست ہر زبان فصیح ✽ بہر لب ست ز اوصاف خوبیت تشریح ✽ بے بذکر تو تہلیل ہر زبان وارد ✽ دگر بشوق تو خواند ز لوح دل تسبیح ✽ کند چہ چارۂ دل دردمند عشقت را ✽ کہ خود بدرد محبت مریض ہست صحیح ✽ زبان اہل دلان مدحت ذکر و فکر کنند ✽ بیان شمۂ اوصاف تو صحیح صحیح ✽
صَحّاف - جلدگر اور کتاب فروش -
صِحاف - بکسر اول و فتح ثانی کاسہ ہائے بزرگ یعنی بڑے پیالے چوڑے پیالے اور جس جگہ پر پانی جمع رہے -
صُحُف و صُحُف - جمع صحیفہ بہت سی کتابین اور صحیفے مگر فارسی مین بسکون حاے مستعمل ہے نظامی کہ از صحف پیشینیان درس گیر ✽
صَحائف - بہت سی کتابین -
صحنک - بفتح اول رکابی اور چھوٹا طبق جو مشہور ہے تشبیہ لیے بدخشانی بے مغز قشریان کہ ہمہ مقتدا شدند ✽ چون صحنک خلائی چینی تماشا شدند ✽

صحن - گھر کا آنگن اور ہموار زمین اور بڑا طشت جسمین طرح طرح کے کھانے رکھے جاتین نظام دست غیب ہجوین - تاتو کردی بخور نقش آہنگ ٭ رنگ برروے صحن آتش شکست ٭

صحو ہشیار ہونا - ہوش مین آنا مستی کے عالم سے نکلنا - دور ہونا آسمان سے ابر و گرد و غبار کا مطلع صاف ہونا -

صحیفہ - کتاب و رسالہ -

صحابۃ - دوست لوگ اور دوستی کرنا -

صحاری - جمع صحرا ہت سے جنگل حافظ جنونی کو از قید خرد بیرون کشم یارا ٭ کنم زنجیر پائے خویشتن دامان صحرا را ٭

صاد با خاے

صخرہ صما - یہ ایک پتھر کا نام ہی جو ہوا مین معلق ہی بیت المقدس مین ایک بار ایک حاملہ عورت نے اسکو دیکھا اور خوف سے حمل اسکا گر گیا اسواسطے مجاوران بیت المقدس نے اُسکے نیچے دیوار قایم کردی مگر وہ دیوار پتھر تک نہین پہونچائی گئی -

صخب - شور و غوغا و فریاد اور زجر کرنا -

صخرہ - یہ ایک دیو کا نام ہی جو نہایت بد صورت ہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری اُسنے چُرائی تھی -

صخریہ - سنگستان پتھریلی زمین -

صاد با دال

صدا - وہ آواز جو گنبد اور پہاڑ اور کنوین مین اپنی آواز کے مطابق نکلتی ہی اور مطلق آواز مخلص کاشی - بلبل برای وصال گل دماغ نغمہ نیست ٭ یار تا برخاست از مجلس صدا ئی نشکست ٭

صدارت - بالانشینی اور نام ایک منصب کا ہی جو وزارت کے قریب ہی اور شروع کرنا ابتدا کرنا سیتن پہونچنا - چڑھانا - بلند کرنا -

صدی ذات - نام ایک منصب کا ہی کہ صاحب منصب کے دو لکھ دام مقرر ہوتے ہین چونکہ ایک روپیہ کے چالیس دام ہوتے ہین پس دو لکھ دام کے پانچہزار روپیہ ہوتے ہین -

صداقت - راستی - سچائی - صدق و یقین -

صدقت - صدقہ جو درویش فقیر کو دیا جاے - خیرات میر نجات اصفہانی من نہ آنم کہ تلافی نکنم باز ترا ٭ صدقت بلشوم و گرد سرت میگردم ٭

صدد - بفتحتین نزدیکی و مقابلہ و برابری اور ارادہ کرنا اور درپے ہونا کسی چیز کے

صدر خجند - ایک ولی کا نام ہی جو شہر خجند مین قیام پذیر تھا اور اُسکا نام صدرالدین المشہور صدر تھا -

صدید - زرد آب اور ریم جو کسی زخم اور دل سے نکلے -

صد - مشہور عدد ہی جسکو عربی مین مائۃ اور ہندی مین سَو کہتے ہین توحید نہ نیک ماند سلامت ز دست مرگ نہ بد ٭ نہ جن نہ آدمی و وحش و طیر و دام نہ دد ٭ نہ والیان ولایت نہ مالکان مکان ٭ نہ اہل دولت و حشمت نہ صاحب مسند ٭ بغیر ذات جناب احد بوقت حساب ٭ بود بہ صد بقایا نہ صد ہزار نہ صد ٭

صدر - سینہ اور دل اور درجہ اوپر کا اور بلندی و بالانشین و امید صاحب منصب پھرنا اور نکلنا کسی جگہ سے -

صدور - جمع صدر بہت سے سینے اور بالانشین اور نکلنا کسی جگہ سے -

صدع - دردسر جو مشہور بیماری ہی ماخوذ صدع سے جسکے معنی شگافتن یعنی پھاڑنے کے ہین باقر کاشی - صداعم میدہد ناصح خمارم میکشد ساقی ٭ بگو بہر خدا زین خانہ دردسر برد بیرون -

صدغ - وہ جگہ جو گوشۂ ابرو اور کان کے درمیان ہی شقیقہ بھی اسکو کہتے اور پیچیدہ بال لٹکتے ہوے -

صدف - نام ایک قسم کے چھوٹے پیالے کا جسمین شراب پیتے ہین اور نام اُن تین ستارون کا جو بشکل مثلث قطب شمالی کے دور پر ہین اور سیپ جس سے موتی نکلتے ہین میرزا بیدل بیابست بسکہ درست آمدہ پیمان صدف ٭ شور در بحر فگندہ است نمکدان صدف ٭

صدق - راستی و راست گوئی سچ بولنا مقابل کذب کے ٭ حیدر از لطف جامع صدق و صفا صدیق بود ٭ رہنماے منزل تحقیق بود ٭

صداق - کابین یعنی عورت کا حق مہر جو نکاح کے وقت مقرر ہو -

صدیق - بتشدید دال نہایت راستگو سچ بولنے والا اور لقب حضرت ابوبکر پہلے جانشین رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کا اسواسطے کہ اُنھون نے سب سے اول حضرت کی نبوت کی تصدیق کی اور معراج کو مان لیا ٭ حیدر از لطف راستگو صدیق یار غار بود ٭ مرد میدان قاتل کفار بود ٭

صدیق - بہ تخفیف دال دوست - یار - یارا -

صد برگ - نام ایک پھول کا ہی جسکو ہندی مین گیندا کہتے ہین زرد رنگ ہوتا ہی محسن تاثیر چون شد شگوفہ صد برگ دیگر ثمر نہ بخشد ٭ آنزا کہ زر بود بیش داد و دہش نیا شد ٭

صدرہ - سینہ پوش و سینہ بند و نیم تنہ جسکو صدری کہتے ہین -

صدغہ - نرم جگہ درمیان گوشۂ ابرو اور کان کے دونون کو صدغین کہتے ہین

صد و چاردہ - ایکسو چودہ سورتین قرآن کی -

صدمہ - ایک دفعہ کھڑکانا - ٹھوکنا ضرب دینا - آسیب پہونچانا -

صبح خیسرو - آفتاب شش صد مہ بعالم نور چو مشرق ز فروغ بس مہ بہم شد

صدقہ - جو خدا کے واسطے فقیر کو دینا اور خیرات جو محتاج لیتے ہیں -

صدقہ جاریہ - وہ خیرات جو ہمیشہ جاری رہے مثلاً تعمیر مسجد و تالاب و پل و سرائے و تصنیف کتب وغیرہ -

صاد با راے

صرافت - پرکھنا - خالص ہونا اور پھیرنا -

صرامت - دلاوری و چالاکی اور قطع کرنا - کاٹنا اور بزرگی -

صرح - بفتح اول بلند عمارت و محل عالیشان اور ظاہر کرنا -

صرح - بفتحتین خلاصہ ہر چیز کا اور ہر چیز جو خالص ہو -

صریح - ظاہر و آشکار اسکے روبرو تو چید ز دیدہ دور اگر پردہ دوئی گردد * نظر تو آئی ز ہر جلوہ حجاب صریح *

صُراح - ہر چیز خالص اور خلاصہ اور نام ایک کتاب کا لغت میں -

صُرَد - نام ایک مرغ کا ہے جسکا سر بڑا ہوتا ہے اور چڑیا کا شکار کرتا ہے فارسی میں اُسکو کاک اور ہندی میں لٹورا کہتے ہیں -

صریر - قلم کی آواز جو لکھنے کے وقت نکلتی ہے اور ملخ کی آواز اور جوتے کی آواز جو چلنے میں نکلتی ہے اور دروازے کی جو کھولنے یا بند ہونے میں نکلتی ہے - آرزو - گل رسوائی اپنی بوئے یوسف و بغل دارد * صریر چاک جیب ما نسیم پیرہن دارد *

صرصر - تند ہوا اور اندھیری جو چلتی ہے -

صراط - سیدھا رستہ اور نام اس پل کا جو بہشت و دوزخ کے درمیان ہوگی تلوار سے تیز اور باریک بال سے -

صرع - زمین پر ڈالنا اور نام ایک بیماری کا جسکو ہندی میں مرگی کہتے ہیں چونکہ مرگی کا بیمار جوشش بیماری میں زمین پر گر کر تڑپتا ہے اسواسطے اس بیماری کا نام صرع رکھا گیا -

صِرف - بکسر اول ہر چیز خالص و شراب خالص و شیر خالص جسمین پانی نہ ملا ہو صائب - مئے ممزوج را از صرف بہتر میتوان خوردن * زیاد از چشم باشد فیض لعل آبدار او *

صَرف - پرکھنا چاندی سونے کا اور گردان دینا - چکر دینا - گردش دینا - خرچ دینا اور حیلہ و حادثہ و گردش زمانہ اور اٹھانا کسی چیز کا اور نام ایک علم کا جسکو علم صرف کہتے ہیں -

صروف - حوادث یعنی ناگہانی مصیبتیں -

صراف - پرکھنے والا روپیہ پیسے کا -

صرم - معرب چرم یعنی چمڑا اور کاٹنا قطع کرنا -

صرمیہ - ارادہ کرنا قطع کرنا کسی کام کا -

صرخہ - بہ خاے معجمہ فریاد و فغان اور بلند آواز -

صُرّہ - ہمیان جسمین روپیہ رکھتے ہیں تھیلی روپیہ کی -

صَرفہ - بہ فاے معجمہ نام ایک روشن ستارے کا ہے اور وہ بارھوین منزل آخر منازل قمر سے و بمعنی بخل و تنگی خرچ ضروری میں و فائدہ و نفع و مکر و حیلہ و افزونی -

صرعی - مرگی کا بیمار -

صراحی - مشہور برتن ہے جسمین شراب رکھتے ہیں کیونکہ صراح شراب خالص کو کہتے ہیں حافظ - درین زمانہ رفیقے کہ خالی از خلل است * صراحی مئے ناب و سفینۂ غزل است *

صاد با عین

صَعب - سخت و دشوار و سرکش -

صِعاب - بکسر اول جمع صعب دشوارہا -

صُعوبت - دشواری و سختی -

صعید - خاک و روے زمین اور نام ایک شہر کا -

صُعُود - بفتحتین اوپر چڑھنا - بلندی پر جانا -

صَعُود - بفتح اول اوپر کو چلنے والا - بلندی پر چڑھنے والا اور بلندی مقابل ہبوط -

صعلوک - فقیر و درویش - سیاح سعدی - من و چند صعلوک صحرا نورد * بر فتیم قاصد بدیدار مرد *

صعقہ - بیہوشی و بیخبری -

صعوہ - نام ایک مرغ کا جو چڑیا کے برابر ہوتا ہے سینہ اسکا سرخ ہندی میں اُسکو ممولا کہتے ہیں -

صعدہ - گورخر جو مشہور جانور ہے -

صاد با غین

صَغیر - کوچک و خرد یعنی چھوٹا توحید - صغیر باند سلامت درین جہان نہ کبیر * نہ تنگدست نہ مفلس نہ بادشاہ نہ وزیر * بغیر حسرت و افسوس و رنج و درد و الم * امیر برد ز دنیاے بے بقا نہ فقیر *

صِغَر - خردی و کوچکی - چھوٹاپن -

صَغار - خواری و ظلم - چھوٹاپن اور خردسالی جمع صغیر و صغرے چنانچہ کرام جمع کریم توحید - نمود چہرۂ روشن ز ہر طرف دلدار * شگفتے زخانہ گہ کوچہ و گہ از بازار * نہان ست لو ز ظہور شن چہرۂ مہ و خور * عیان ست جلوہ حسنش ز ہر صغار و کبار *

صغرسن - خردسال - بچہ لڑکا -

صُغریٰ - چھوٹی عورت چھوٹی عمر کی لڑکی -

صاد با فاے

صفا - پاک و بیغش و بے کدورت ہونا اور نام ایک پہاڑی کا مکۂ معظمہ مین اور ایک پہاڑی ہی جسکو مروہ کہتے ہین اور حاجی دونون پہاڑون کے فاصلہ مین جو قریب دو سو قدم کے ہی دوڑتے ہین شوکت

سیدہ از پردۂ دل جلوہ حسن رُوے تو ٭ طالب دیدار را باشد اگر آئینہ صفا ٭ صائب بصد خون جگر دل را صفا دادم ندانستم ٭

کہ چون آئینہ روشن شد بروشنگرنمے ماند ٭

صفرا - انسانی جسم کی چار خلطون مین سے ایک خلط زرد رنگ ہی فارسی مین اِسکو تلخہ ہندی مین پت کہتے ہین چارون اخلاط مین سے اول خون گرم تر سرخ دوسرے بلغم سرد تر سفید تیسرے صفرا گرم خشک زرد چوتھے سودا سرد خشک سیاہ اور صفرا ہر ایک چیز زرد کو کہتے ہین اور کمان جس سے تیر چلاتے ہین -

صفورا - نام دختر شعیب علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے نکاح مین تھی

صَفْوَت - برگزیدہ کرنا - خلاصہ کرنا - صاف ہونا - صفا ہونا - صوفی ہونا

صُفْرَت - زردی رنگ کی -

صِفت - بیان کرنا حال و علامت و نشان کسی چیز کا تعریف کرنا صفت اور وصف مین یہ فرق ہی کہ وصف مادح کے کلمات مدح کو کہتے ہین اور صفت وہ خصائل جو ممدوح کی ذات مین ہون نظامی ضمیرم نہ زن بلکہ آتش زن ست ٭ کہ مریم صفت بکر آبستن ست ٭

صفات - جمع صفت بہت سی صفتین فارسی مین کبھی یہ لفظ مفرد کے معنی بھی دیتا ہی سالک قزوینی یک صفات ست کہ موصوف بچندین صفت ست ٭ ہیچو راہی کہ جدا گشتہ ازو راہی چند ٭

صَفْح - گناہ معاف کرنا کسی کی خطا سے درگذرنا -

صفائح - جمع صفحہ تختی پتھر یا کاغذ کی جسپر کچھ لکھا جانا مقصود ہو -

صَفدر - بہادر پہلوان صفین پھاڑ دینے والا لقب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا اور فی زماننا دو شاعر خوش گو خوش کلام ایک رامپور مین دوسرا لاہور مین جسکا تخلص فوقانی ہی وکالت کے عہدہ پر سرفراز ہی -

صَفّار - وہ بادشاہ جو پہلے رویین برتن بناتا تھا -

صِفر - بکسر اول تہی یعنی خالی اور خالی ہونا -

صَفَر - بفتحتین نام دوسرے مہینے قمری کا -

صُفر - زردی رنگ کی -

صَفیر - جانورون کی آواز اور آواز بلبل کی حافظ ترا ز کنگرۂ عرش میزنند صفیر ٭ ندانمت کہ درین دامگہ چہ افتادست ٭

صَفْع - سیلی زدن - مُکّا مارنا -

صَفصَاف - بید کا درخت -

صَفصَف - میدان اور ہموار زمین -

صف - قطار و حلقہ سعدی - بگذار کہ بندۂ کمینم ٭ تا در صف بندگان نشینم ٭

صفوف - صف کی جمع ہی بہت سی صفین -

صفیق - سخت چمڑا اور کپڑا جو موٹا اور تنگ بنا ہوا ہو اور بے حیا اور بے شرم چہرہ -

صِفاق - وہ پوست جو گردون اور رودون اور احشا پر ہو -

صف نعال - جوتیون کی جگہ بے عزت مکان -

صفاہان - مشہور شہر ہی جسکو اصفہان و سپاہان و اسپہان کہتے ہین اور نام پردہ کا علم موسیقی مین سعدی مراد رسپاہان یکے یار بود ٭ کہ جنگ آور و شوخ و عیار بود ٭

صفوان - پتھر جو ہموار ہو اور نام ایک شخص کا جسکو منافقون نے ام المومنین عائیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ بدی منسوب کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسبب بشریت مکدر خاطر ہوے آخر جبرئیل آئے اور قرآن اُترا اور عائشہ صدیقہ کی عصمت کی گواہی خدا وند جل و علا نے دی اور یہ بھی تصدیق ہو گیا کہ صفوان مادرزاد حیز ہی -

صُفّہ - بضم اول تشدید دوم گھر کا ایوان اور دالان -

صفوہ - بہر سہ حرکات حرف اول خلاصہ -

صَفقہ - ایکبار کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا واسطے بیعت و استحکام عہد کے یا کسی بیع و شرا کے -

صَفیہ - نام ایک پاکدامن بی بی کا ازواج مطہرات رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم سے -

صفویہ - شاہان پارس و ایران کے پادشاہون کے خاندان کا نام ہی منسوب بشاہ صفی جو سید تھا اور فقیر اُسکی اولاد کو خدا نے پادشاہی بخشی اور شاہ اسماعیل اُسکا پوتا بڑا بادشاہ ہوا مذہب شیعہ رکھتا تھا -

صفی - برگزیدہ اور دوست خالص اور لقب حضرت آدم علیہ السلام کا -

صفوی - خاندان صفویہ کے لوگ -

صفراوی - جو بیماری صفرا سے پیدا ہو -

صاد با قاف

صِقالت - بکسر اول صیقل کرنا - چمکانا -

صَقَر- ہر ایک مرغ جو شکاری ہو اور چرغ جو ایک شکاری مرغ ہی-
صَقّال- صیقل کرنے والا صفائی دینے والا- اور مُہرہ کش جو کاغذ کو گھوٹتا ہی-
صِقَال- بروزن صال صفائی تلوار اور آئینہ کی-
صَقِیل- ہر ایک چیز جو صفا ہو چکی ہو زنگار اُسکا اُتر چکا ہو-

صاد با کاف

صَک- معرب چاک ٹھوکنا- مارنا- اور کاغذ قبالہ کا و نالہ و فریاد-
صَکّاک- قبالہ نویس جو قبالجات بیع و رہن و تمسکات کے لکھنے کے واسطے قضا خانہ مین مقرر ہوتا تھا-

صاد با لام

صلا- بفتح اول وہ آواز جسکے ذریعہ سے کسی کو بلایا جائے حافظ
صلاح از من چہ میپرسی کہ زندان را صلا گفتم ﷺ بدور نرگس مست سلامت را دعا گفتم ﷺ مولانا جامی شد از سبوحیان گردون صلا دہ کہ سبحان الذی اسری بعبدہٖ ﷺ
صُلحا- صالح لوگ- نیکو کار لوگ- اچھے لوگ-
صِلا- بکسر اول بریان- بھونا ہوا-
صَلب- بفتح اول سولی پر چڑھانا- پھانسی دینا-
صُلب- بضم اول پشت اور پشت کے مُہرے جو گردن سے کمر تک قادر قدرت نے بنائی ہی-
صَلِیب- دار یعنی سولی جسکی یہ شکل † ہی اور عیسائی اس بات کے خیال پر کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے تھے اس شکل کی بڑی تعظیم کرتے ہین ہر ایک عیسائی لکڑی یا لوہے یا چاندی یا سونے کی صلیب بنا کر گلے مین لٹکاتا ہی ہر ایک عبادت گاہ کے گنبد و مینار کے سر پر صلیب کی شکل قائم کی جاتی ہی یہ عیسائیون کا خیال ہی ورنہ عیسیٰ زندہ آسمان پر گئے اور طرطوس ہمشکل عیسیٰ کا سولی دیا گیا تھا
توحید خدا است آنکہ مراد را فدای خود خوانند یہود و مسلم دانش ست وال صلیب ﷺ
صَلّت- بفتح وضم اول و تشدید لام کشادہ پیشانی اور ہر ایک چیز ظاہر اور سخاوت و انعام و عطا-
صِلات- بکسر اول عطایات و انعامات-
صلاحیت- نیکی و خوبی و نیکو کاری-
صلوات- بہرسہ حرکات فتح اور فارسی مین بسکون جمع صلوٰۃ درود اور رحمت امتیاز خان خالص تفسیر ہر صدا کہ بگوشت رسد بغیب ﷺ صلوات بر محمد و آل محمد ست ﷺ

صلابت- سخت ہونا اور سختی-
صلوٰۃ- دعا و آمرزش و رحمت و نماز بندہ کی طرف سے دعا اور خدا کی طرف سے رحمت و آمرزش اور درود پیغمبر خدا پر اور فرشتون پر موقوف بوقت اے مسلمان ادا کن صلوٰۃ ﷺ کہ بر تو کند رحمت حق نزول ﷺ
صلاح- آشتی و صلح و نیکی و خوبی و مصالحہ حافظ صلاح کار کجا و من خراب کجا ﷺ ببین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا ﷺ
صُلح- مشہور لفظ ہی مقابل فساد کے ملا اوجی صفای روے عرفناک یار را نازم ﷺ کہ صلح داد بہم آفتاب شبنم را ﷺ
صَلد- سخت اور صاف-
صلع- نام بیماری جو سر پر ہوتی ہی فارسی مین کل اور ہندی مین اسکا نام گنج ہی اور بیمار کو گنجا بولتے ہین اور عربی مین اصلع-
صلیغ- اخیر مین غین معجمہ داغ اور بکری چھ برس کی عمر کی ملا طغرا خدا گفت پیغمبری کن بہ تیغ ﷺ کہ دشمن خورد بر تن خود صلیغ ﷺ
صَلَف- لاف مارنا- بڑائی کرنا-
صُلصُل- بروزن بلبل فاختہ جو ایک پرندہ مشہور ہی-
صَلصال- مٹی باریک آمیختہ اور خشک خام مٹی جسپر انگلی لگائین تو آواز دیوے-
صَلیل- تلوار کی ضرب کی آواز-
صلاصل- جمع صلصل کی بہت سی فاختہ اور بال گھوڑے کی پیشانی کے اور قدح-
صلصلۃ- بفتح ہر دو صاد آواز زنجیر اور لوہے اور گھڑیال کی-
صُلبیۃ- نام ایک پردے کا آنکھون کے سات پردون سے جو سب پردون کے اندر رہی-
صلائیہ- پتھر کا کھرل جسمین دارو پیسیین-
صلۃ- انعام و عطا و بخشش و پیوند و خویشی و رشتہ داری-
صلادہ- چکی کے دونون پتھرون مین سے نیچے کا پتھر-
صلیبی- عیسائی قوم صلیب پرست-

صاد با میم

صَما- عورت بدخو ٹیڑھی لکڑی بدخو عورت اور خاموشی یعنی چپ-
صُموت- خاموش ہونا چپ ہونا-
صَمدیت- بزرگی اور بے نیازی اور پاک ہونا عادات و حاجات حیوانی سے شفیع ذکر اللہ الصمد کن از زبان ﷺ تا ترا بر اوج صمدیت بر ندبہ ﷺ
صِماخ- بکسر اول سوراخ گوش کان کا سوراخ-

صمد - ہر حاجت سے بے نیاز و بلند۔ و دائم اور وہ شخص جو کبھی تشنہ و گرسنہ نہ ہو سب کا حاجت روا تو حبیب خدا ہست احد و یکتا و بی مثال
و احد و صمد ہست ذات حضرت لم یلد و لم یولد ٭ ز رنگ احمر و اخضر عیان
شد آن رنگین ٭ نمود جلوہ گہ از ابیض و گہ از اسود ٭
صِماد - بکسر اول بلند مقام اور زمین سخت جمع صمد بسکون میم -
صَماد - بفتح اول جو چیز اندر سے پولی ہو -
صمغ بفتح اول جو گوند درختون سے نکلتا ہی فارسی مین اسکو زد کہتے ہین
صمیم - خالص اور مغز ہر چیز کا اور ہڈیان بدن کی اور شدت سردی اور گرمی کی اور خشک چمڑا جو انڈے کے اوپر ہوتا ہی اور وہ شخص جو
بہرا ہو عرفی نواے مرثیہ شام و شادیانۂ عید ٭ کشادی از اثر
انبساط گوش صمیم ٭
صمصام - شمشیر یعنی تلوار بعینہ از مؤلف - نوش کرد از غصہ
خون دشمنان ٭ ور غزاے بدر صمصام نبی ٭
صمم - کر ہونا - بہرا ہونا -
صُمٌّ بُکم - بہرے اور گونگے جنمین سننے اور بولنے کی طاقت نہو -

صاد با نون

صنعا - یمن کے ملک مین ایک قصبے کا نام ہی -
صِناعت - پیشہ اور کسب اور کام -
صنعت - پیشہ اور ہنر اور کسب اور کام توحید تو جلوہ ہیہ ہی
اے صانع اکبر ز ہر صنعت ٭ تو ظاہر شوی اے کاتب قدرت ز ہر صورت
توئی اول توئی آخر توئی ظاہر توئی باطن ٭ توئی ناظر بہر جلوت توئی حاضر
بہر خلوت ٭ حافظ حدیث عشق ز حافظ شنو نہ از واعظ ٭ اگرچہ
صنعت بسیار در عبارت کرد ٭
صَنج - معرب جنگ ایک ساز کا نام ہی -
صنادید - جمع صندید مہتران و بزرگان -
صَنوبر - ایک درخت کا نام ہی جسکو ہندی مین چیڑ کہتے ہین - مؤلف
گل خجل از جلوۂ حسن رخت ٭ از قامت سرو و صنوبر شرمسار ٭
صُنع - کام کرنا - پیدا کرنا - نیکی کرنا -
صِنف - ایک قسم اقسام اور ایک نوع انواع سے و اقسام نوع
انسان چنانچہ چینی و ہندی و رومی و روسی و حبشی و فرنگی اور گھوڑے ترکی
و تازی وغیرہ -
صُنوف - جمع صنف -
صَندوق - اشیا رکھنے کا ظرف -

صناديق - جمع صندوق -
صندل - مشہور خوشبو لکڑی ہی رضی دانش معبد ما ہی پرستان
گوشۂ میخانہ است ٭ چیدن صندل ز چوب تاک مالیدن خوش است ٭
صنم - بت مٹی کا ہو یا پتھر کا ٭ اور کنایۃ خوبصورت معشوق عبد اللطیف خان
تنہا - ز رشک طوطی خط صنم ہند و نژاد من ٭ خزان رنگ بہار
گلشن کشمیر میریزد ٭
صَنعاف - بفتح اول نام ایک بزرگ کا جسکا سات سو مرید تھا
خواجہ فرید الدین عطار بھی اسی کا مرید تھا اُسنے غرور مین آکر حضرت
غوث الاعظم کی نسبت بے ادبی کی غیرت الٰہی اسکے دامنگیر حال
ہوئی اور ایک فرنگی لڑکی پر عاشق ہوگیا چندماہ اُسکے خوک چرائے
تب عورت کے ماباپ شادی پر راضی ہوے شادی کے روز جب
خوک کے گوشت کے کباب روبرو آئے اور شیخ کھانے پر مستعد ہوے
تو شیخ فرید بہت گھبرائے اور بعالم باطن غوث الاعظم کی جناب مین
فریاد کی حضرت اُسوقت عشا کا وضو کر رہے تھے چند چلو پانی کے دیوار پر
پھینکے وہ جا کر شیخ کے منہ پر پڑے اور آنکھ کھل گئی فی الفور توبہ کی ملا اسالک یزدی
بگسلانم سبحہ و زنار بندم بر میان ٭ عشق ترسا بچہ خواہم کہ صنعانم کند ٭
صُنان - بضم اول گندہ بغل و بدبوئی بغل -
صِنوان - کھجور کے چند درخت جو ایک بیخ سے نکلے ہون اور وہ نہرین
جو ایک چشمے سے جاری ہوئی ہون اور چند برادر جو ایک ماباپ سے
پیدا ہوے ہون -
صندلی - امرا کے بیٹھنے کی چوکی جو صندل کی لکڑی سے بنائی جاتی ہی -
عبد اللہ ہاتفی - سپہبد پیلان مرصع کمر ٭ نشستند بر صندلیہاے زر ٭
ظہوری - براے نشست صغار و کبار ٭ ہمہ صندلیہا ز صندل قطار ٭

صاد با واو

صَوب - جانب طرف اور برستی اور سیدھا راستہ -
صواب - نیکی اور نیک کام جو کیا جاے سید حسن اشرفی
صواب ست با او شدن سوی گل ٭ اگر خند گوید بسینے نا صواب ٭
صَوت - آواز - اصوات اسکی جمع ہی حافظ از ان زمان کہ بحافظ رسید
صوت حبیب ٭ فضاے سینۂ شوقم ہنوز پر ز صداست ٭
صورت - شکل و نقش و پیکر اور ظاہر مقابل معنی کے میر نجات
بینمائید چو آب در گوہر ٭ معنی دلبری ز صورت تو ٭ جسرو من چو
دیدم صورتت رفتم ز دست ٭ دیگران را آنچہ صورت داد دست ٭
صَولت - رعب و ہیبت و تکبر و غرور انوری آنچہ بکلک افگند خنجر از ان ہاجرہ

از وزر آتش کلک صولت خنجر شکست۔

صور- شاخ حیوان کی جسکو پھونکتے ہین تو وہ بڑی آواز دیتی ہے اور اسی کو اسرافیل قیامت کے روز پہلے پھونکیگا تو عالم موجودات فنا ہو جائیگا دوسری بار پھونکیگا تو سب کچھ موجود ہو جائیگا اور ان دونون نفخون مین چالیس سال کا فاصلہ ہوگا ؎ چو آن ہر دو لشکر بمیدان رسید＊ سرافیل صور قیامت دمید＊

صوامع- جمع صومعہ بہت سے عبادت گاہ-

صوارف- زمانے کی گردشین اور حادثے-

صواف- گائے اور گھوڑے اور اونٹ-

صوف- پشم حیوانون کی اور ایک قسم کپڑے کی جو پشم سے بنا جاتا ہے-

صواعق- جمع صاعقہ بجلی کی آگ جو ابر سے زمین پر گرے-

صوارم- تیز تلوارین-

صوم مریم- روزہ بی بی مریم کا یعنی تمام دن خاموش رہنا اور کسی سے کلام نکرنا-

صولجان- چوگان ہاتھ کی چھڑی جسکا سر ٹیڑھا ہو یہ لفظ معرب چوگان ہے

صون- نگہبانی وحفاظت-

صومعہ- عبادت گاہ-

صوفیچہ- نام ایک کپڑے کا جسکو صوفی پہنتے ہین-

صوری- ظاہری مقابل معنوی کے-

صوفی- پشمینہ پوش درویش خدا پرست جاہلیت کے وقت یعنی قبل از اسلام اہل فرقہ مکہ مین صوفہ کہلاتا تھا جو مجرد رہتے تھے کعبہ کی جاروب کشی اُنکے متعلق تھی اور جو شخص کعبہ مین آتا اُسکی خدمت وہ بلا اجرت کرتے کسی سے کچھ نہ لیتے اور وہ شخص جو صاحب صفائی ہو حافظ صوفی بیا کہ آئینہ صاف است جام را＊ تا بنگری صفائی مئی لعل فام را＊

صاد باہاے ہوز

صہبا- شراب خالص سید حسین خالص در باغ چون بیاد تو صہبا زدیم ما＊ گل را چو پنبہ بر سر مینا زدیم ما＊

صہیب- رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کے ایک اصحاب کا نام ہے جو روم سے آکر مسلمان ہوئے نہایت فصیح و شیرین کلام تھے

صہوبت- ایک رنگ ہے جو سرخ رنگ سرب یا دھات سا بنا یا جاتا ہے

صہریج- پانی کی آواز جو بوقت داخل ہونے حوض کے نکلتی ہے-

صہر- خسر عورت کے واسطے خاوند کا باپ اور مرد کے واسطے عورت کا باپ اور بہن کا شوہر جسکو بہنوئی کہتے ہین-

صہیل- گھوڑے کی آواز-

صہوہ- گھوڑے کا پٹھا-

صہصہ- اسم فعل ہے خاموش باش چپ کرہ-

صاد بایاے

صیت- آواز نیک اور ذکر خیر سعدی چو صیتش در افواہ دنیا فتاد＊ تزلزل در ایوان کسرے فتاد＊

صیانت- نگہ رکھنا نگہبانی کرنا-

صیرورت- ہونا-

صیاح- نوحہ اور فریاد کی آواز-

صید- مشہور لفظ ہے وہ جانور جسکو شکار کرین اور شکار کرنا حافظ بلطف وخلق توان کرد صید اہل نظر＊ بدام ودانہ نگیرند مرغ دانا را＊ سعدی چو ہر گوشہ تیر نیاز افگنی＊ امید است ناگہ کہ صیدے زنی＊

صیاد- شکار کرنے والا میر زا صائب- چشم او بے مدد زلف مرا کرد اسیر＊ صید بے دام گرفتن ہنر صیاد است＊

صائغ- زرگر یعنی سنار جو سونے چاندی کے زیور بناتا ہے-

صیف- گرمی کا موسم- تابستان سعدی عمر گران مایہ درین صرف شد＊ تا چہ خورم صیف وچہ پوشم شتا＊

صیقل- دور کرنے والا زنگ کا آئینہ اور تلوار وغیرہ سے اور وہ آلہ جس سے زنگ دور کیا جاے صائب- شد زنگ سینہ ناخن صیقل کبود＊ ستی ہا گستر چہ با آئینہ تا رم کنی＊

صیام- بہت سے روزے جمع صوم کی حافظ ساقی بیار بادہ کہ ماہ صیام رفت＊ در دہ قدح کہ موسم ناموس نام رفت＊

صیغہ- سونا بوتہ مین ڈالنا اور خلقت اور طریقہ اور اصل اور اصطلاح صرف مین ہیئت حاصلہ واسطے کسی کلمہ کے باعتبار تقدیم وتاخیر حروف وحرکات وسکنات کے اور بمعنی نکاح یعنی ایجاب وقبول درمیان مرد اور عورت کے واسطے حلالیت وزوجیت کے شفیع اثر بادشاہ کی مدح مین چنان رسم بد در جہان تو نہفت＊ کہ بے صیغہ مرغان نگردند جفت＊

صیحہ- سخت آواز- بلند آواز- شور وفریاد-

صیرفی- صراف. روپیہ پرکھنے والا-

صیقلی- وہ پتھر جس پر ہتھیار تیز کرین-

فصل دوسری

اردو لغات کے بیان مین

واضح ہو کہ اس فصل کے متعلق جسقدر اردو لغات جو نفائس اللغات

وغیرہ کتب مین درج ہین سب فارسی کی فصل مین زیب اندراج پاچکے ہین کوئی ایسا لغت نہین ملا جو قابل اندراج اس فصل کے ہو

تیسری فصل

فارسی محاورات و اصطلاحات کے ذکر مین

صاد با الف

صاحب امضا - وزیر و نویسندہ یعنی حضور نویس قطعہ از مولف
بندۂ خاکی ہمان ماندے کہ بودے در نخست ٭ گر وزیر ملک گشتے صاحب امضا شدے ٭ جمع کردی مال و زر ہیچاپ نکردی در جہان + از خدا غافل شدی و طالب دنیا شدی ٭

صاحب جوزا - ستارہ عطارد کیونکہ جوزا عطارد کا گھر ہی -

صافی کشاد - وہ تیر جو کمان سے صاف اور سیدھا نکلکر جائے اور نشانے پر درست پڑے

صاحب نواز - وہ شخص جسپر اُسکے مالک کی مہربانی و عنایت ہو یا وہ شخص جو اپنے مالک کو ہر وقت اپنے خدمات سے خوش رکھے کبھی رنجیدہ ہونے نہ دے اور اپنے مالک کو سراہے اور صفت کرتا رہے نظامی
پرستندۂ خوب صاحب نواز ٭ پرستش کنان بر د شہ را نماز ٭

صادق نفس - راست گو - سچ بولنے والا سعدی چنین گفت درویش صادق نفس ٭ ندیدم ز تو بخت برگشتہ کس ٭

صاحب فراش - بیمار و علیل جو بستر پر پڑا رہے اُٹھ نہ سکتا ہو -

صاف دل - صافی دل - جسکا دل صاف ہو منافق نہو مولف
ہمیشہ از کدورت صاف دل دار ٭ مصفا از نجاست آب و گل دار ٭

صابون کسے بکسے رسیدن کسی سے کسی کو صدمہ پہونچنا طاہر وحید
مال کی تعریف مین سے نہ پوشم ہست مد نون او ٭ بہر کس رسید ست صابون او ٭

صاحب دیوان - صدر سند کچہری کا افسر شفیع اثر - صاحب دیوان علی ابن ابی طالب کہ ہست ٭ خلق عالم را زنامش اسم اعظم بر زبان ٭

صاحبقران - وہ بچہ جسکے تولد کے وقت ستارون کا قران سعدین ہوا ہو یعنی زحل و مشتری ایک برج مین ہون یہ لقب تیمور کا تھا جسنے چھ ولایتون کی بادشاہی کی زہرہ اور مشتری کا قران بھی نہایت نیک ہی ملا طغرا - داد ہ یصاحب قران نرگس شہلا قلم ٭ تا کند مشق دربنا نشو و نما قلم ٭

صاد کردن - کسی لفظ کو صحیح مان کر اُسپر صحیح کا صاد لکھ دینا استاد نرگس یار بحالم چہ نظرہا کہ نہ کرد ٭ مستی و نسخہ بر سر من صاد کنید ٭

صاف گذشتن - کسی تنگ موقع سے جلدی کے ساتھ نکل جانا **نظام دست غیب** - از دل بیکینۂ ما تیغ او بگذشت صاف ٭ موج ہر گز اینچنین از روے دریا نگذرد ٭

صاحب الزمان - لقب حضرت امام مہدی کا قبل از قیامت جسکا ظہور ہوگا

صاع ستان - زکوۃ کھانے والا - خیرات لینے والا فقیر مفلس محتاج

صاحب مردہ - جسکا مالک مرگیا ہو طاہر وحید ہر کہ می میرد بحکم او قسمت من میشود ٭ وارثم گو یا من ہمہاے صاحب مردہ را ٭

صاد با یاے

صبح جزا - قیامت کا دن میرزا صائب نفسے کز جگر سوخت آید بیرون ٭ تا دم صبح جزا گرم بود باز ارش ٭

صبح کاذب - پہلی صبح جو اپنا نمود دکھلا کر گم ہو جاتی ہی اور صادق شروع ہوتی ہی سے صبح کاذب از دروغ بے فروغ ٭ ہست پیش صبح صادق شرمسار ٭

صبح قیامت - قیامت کا دن صائب صبح قیامتش بود پردہ خواب در نظر ٭ ہر کہ بخواب بیند آن نرگس فتنہ زاے را ٭

صبح نخست - صبح نخستین صبح کاذب جو پہلی صبح ہی درویش والہ ہروی شبے نرفت بسوی سحر کہ دیدۂ او ٭ ندا شت بر در صبح نخست دربانی صائب
دل آگاہ ہر صبح نخستین ببر د عبرت ٭ کہ دارد در بساط عمر امید دم دیگر

صبر مفتاح الفرج - صبر کلید خوشی کی ہی سے چون کشود کار بر صبر ست و بس ٭ صبر کن الصبر مفتاح الفرج ٭

صبح امید - صبح مراد - خوشی کی صبح عیش کی صبح حسین ہروی صبح امید گشتہ ساقی بزم ٭ قدح آفتاب مے باید ٭ حسن ہروی سوئے چمن شگفتہ جو صبح مراد رفت ٭ ناموس سروران قد طوبی نثراد رفت ٭

صبح خند معشوق کی تعریف مین بولتے ہین کبھی تلوار کی صفت مین لا دخان واضح - الٰہی گریہ شام شہیدان را شفق جوشی ٭ بخوشم آشنا کن باز تیغ صبح خندش را ٭

صبح چہر - محبوب کی تعریف مین بولا جاتا ہی سے جلوہ گر بر بام شد چون وقت شام آن صبح چہر ٭ از خجالت سوی مغرب سرنگون شد آفتاب ٭

صبح حشر - صبح محشر - روز قیامت ذوقی اگر ببیند بشب بے پردہ آن خورشید طلعت را ٭ ز خجالت ماہ و خورتا صبح محشر دیدہ نکشاید ٭

صبح رخسار - معشوق کی تعریف مین بولتے ہین صائب صبح رخساری گزو شد دیدہ ام انجم فشان ٭ آفتابے میشود رنگش ز مہتاب نظر ٭

صبح سیم عذار - صبح روشن اور پر نور میر خسرو دہلوی نمود صبح سیم عذار ٭

ساقی صبح روے بادہ بیار ؎

صبح خیز- صبح کو اُٹھنے والا۔ عبادت کرنے والا **میرزا صائب** خط سبز از دعاے صبح خیزان ست گیراتر ؎ لب میگون ز خون بیگناہان ست گیراتر ؎

صبح رستخیز- قیامت کی صبح **قاسم مشہدی** تا صبح رستخیز نخواہد شمیم او ؎ بیدار غنچہ کز باد سحر شود ؎

صباغ الارض- زمین کا رنگریز آفتاب عالمتاب-

صبح دروغ- صبح کاذب جو مشہور ہی- **عبداللہ ہاتفی** بود آنزمان تاب صبح دروغ ؎ کہ از صبح صادق نباشد فروغ ؎

صبح صادق- صبح صداقت کیش- دوسری صبح جس سے زمانہ روشن ہو جاتا ہی- ؎ صبح صادق مرہم کافور دارد در بغل ؎ گر علاج زخم عصیان میکنی بیدار باش ؎ **صائب** از صفائی دل نباشد حاصلی درویش را ؎ نان بجون تر نمیشود صبح صداقت کیش را ؎

صبح اول- پہلی صبح یعنی صبح کاذب **جلالا طباطبا** شاہجہان بادشاہ کی مدح مین فروغ جبہہ صاحبقران است + گواہ صبح اول صبح ثانی ست ؎

صبحدم- علے الصباح- صبح کا وقت **حافظ** صبحدم باد صبا باگل نوخاستہ گفت ؎ ناز کم کن کہ درین باغ بسے چون تو شگفت ؎

صبح دوم- صبح صادق یعنی دوسری صبح **صائب**- پنبہ از گوش برون کن کہ بناگوش سفید ؎ دم ہی ست کہ صبح دوم آن کفن ست ؎

صبح محرم- عاشورہ کے دن کی صبح جو غم و الم کی صبح ہی **محسن تاثیر** آنکہ ہجر تو اسیر ست عجب نیست + گر صبح محرم بدمد از شب عیدش ؎

صبح یکم- صبح کاذب جو پہلی صبح ہی **باقر کاشی** گردی چو صبح یکم روے شان ؎ ہمہ آتش و دود شان روی شان ؎

صبح بخیر گفتن- صباح الخیر زدن- یہ دعائیہ کلمے ہین جو صبح کو اُٹھکر آپسمین صبح بخیر و صباح بخیر کہتے ہین **ملا طغرا** سحر چون بمنجیا شد آید زدیر ؎ خضر گویدش باد صبحت بخیر ؎ **حافظ** صباح الخیر زد بلبل کجائی ساقیا برخیز ؎ کہ غوغا میکند در سر نواے چنگ دوشینم ؎

صبح آخرین- صبح پسین- صبح صادق **جمال الدین سلمان** بر خلاف صدق ہرگز در ہوایت دم نزد ؎ کاوش آنم چو صبح آخرین بود دانکہ شد صبح اثر ؎ بابی زری چو لالہ عباسی از چہ رو ؎ باید مرا ہر ازم تو صبح پسین شگفت ؎

صبحگاہان- صبحگاہ- علے الصباح صبح کا وقت **نظامی** ستارہ چگونہ بود صبحگاہ ؎ چنان بود چون صبح باشد پگاہ ؎ **زلالی** ور آید در سواد دم صبحگاہان ؎ چو چشم سرمہ آلود صفاہان ؎

صبح پیشانی- گھوڑے کی تعریف مین بولتے ہین **میر معزی** بر آوری رشب رزم صبح سیر فوزی ؎ بدان تگاور شبرنگ صبح پیشانی ؎

صاد با حاے

صحراگرد- جنگل مین پھرنے والا وحشی دیوانہ **صائب**- شعلہ کز یک شرارش طور صحرا گرد شد ؎ سالہا شد تا نہان در زیر سرپوش من ست ؎

صحبت یساول- بادشاہی عصا بردار جنکے ہاتھ مین چاندی سونے کے عصا ہوتے ہین- انکے افسر کو میر توزک کہتے ہین- **میرزا قدسی** ندیم در مجلسے کہ یار تو صحبت یساول ست ؎ مہر منیر لبتہ تیر تغافل ست ؎

صحت خانہ- طہارتخانہ بیت الخلا- پاخانہ- آبخانہ وضروری-

صحت نامہ- علم موسیقی مین ایک قول کا نام ہی **تاثیر** صد دل بیمار کرد احیا ز تصنیف سخن ؎ ہر صریر خامۂ تاثیر صحت نامہ ست ؎

صحراے خوابیدہ- بہت لمبا چوڑا جنگل بہت بڑا جنگل **میرزا بیدل** غبارم بر نمیخیزد ازان صحراے خوابیدہ + اسیرم ہمچو مجنون در طلسم پای خوابیدہ ؎

صحراے قدسی- مقام لاہوت خدا قابلی- دریاے معنی درویش صحراے قدسی منزلش ؎ از نفس گل آب گلشن صنعت در اجرا داشتہ ؎

صد کلاغ و یک کلوخ- مشہور مثال ہی- ؎ بہر صد دشمن یکے شمشیر برانت بس ست ؎ یک کلوخ ست بیگمان کافی ست بہر صد کلاغ ؎

صد کوزہ اگر سازد یکی دستہ ندارد- سو بات کہی نگر کام کی ایک نہی **محمد قلی سلیم**- صد کوزہ اگر چرخ فسون ساز بسازد ؎ چون کوزۂ دولاب یکی دستہ ندارد ؎

صداقت کیش- سچا دوست- راست گو **مے** کے شود حاصلت درین دنیا ؎ راست گو دوست صداقت کیش ؎

صد چراغ- روشنی کا چوبی یا خشتی ستون جسمین چراغ جلائے جاتے ہین **نظامی** گل سرخ چون کلہ نہد در بیاغ ؎ فروزد زہر خیمہ صد چراغ ؎

صدف رنگ- رنگ گھولنے کا پیالہ جو رنگساز رکھتے ہین **محسن تاثیر** پیمانۂ حسن رنگین تیرہ می آمیز از رنگ ؎ نگار رنگ ست ساغر عشق صدف ساز رنگ آ

صاد با راے

صراحی قد- صراحی گردن معشوق کی تعریف مین بولتے ہین **صائب** از صراحی گردنان دارد کسے راد نظر ؎ شاخ گل دستی کہ در گلزار بالا میکند ؎ **ابوطالب کلیم** نمیکشد صراحی قدان سر از قد او ؎ بسے کہ چون لب پیمانہ بے سوال بود ؎

صرف بیجادہ رنگ- شراب ارغوانی **نظامی** بیا ساقی آن صرف بیجادہ رنگ

صرافِ خزان - فصلِ خزان سردی کا موسم ملا منیر - گردہ صرافِ خزان کیسہ خشان شد در باغ ❖ چون تہی نا زد بالش ہمہ یکسر دست ست ❖

صرفہ کاری - کفایت شعاری کم خرچی ظہوری شہ غزنوی گرچہ تقصیر کرد تلافی خدیو جہانگیر کرد ❖ ازان صرفہ کاری شد این سود او ❖ کہ مذموم شد نام محمود او ❖

صاد با فاے

صفیر خواب - وہ آواز جو سوتے ہوے آدمی کے گلے سے نکلے طاہر وحید چشم ما از بینش خود در نقاب حیرت ست ❖ گفتگوے ما صفیر خوابہاے غفلت ست ❖

صفیرِ تیغِ سحر - صبح کاذب کی روشنی خاقانی شد گہر اندر گہر صفحۂ تیغ سحر ❖ شد گرہ اندر گرہ حلقۂ مہ در سحاب -

صفا در دیدن - آڑ ایجانا کسی چیز کا کسی سے ملا قاسم مشہدی بس کہ تماشایش ز رخسارش صفا در دید ❖ چو گرد سرمہ بود از مژگ باشد نور در عالم ❖

صفرا بر سر کسی افگندن - کسی پر مصیبت ڈالنا محمد سعید اشرف ؔ این ہمین از شفقت افتادست سودا بر سرم ❖ روزہ ہجرت ہم افگندست صفرا بر سرم ❖

صفرا شکستن - صفرا و حرارت دور کرنا آرام دنیا باقر کاشی تا سبکی سودا مزد تا چند خونِ دل خورد ❖ تلخکامی کو بیاب لیموش صفرا شکند ❖

صفرا کردن - غضبناک کرنا - اعراض کرنا استفراغ کرنا - ابو الفرج رونی گر عاشق دل سوختہ بے تدبیر ❖ پیغام دہد کہ از تو ام نیست گزیر ❖ صفرا چہ کنی رحم کن اسے پدر منیر ❖ پاے تو گرفت ست رہے دستش گیر ❖

صف ماہیان - صف نعال جوتیوں کی جگہ لوگوں میں یہ معانی مشہور ہیں اور اصل صف ماچان کے معنی بوسہ کی جگہ ہیں اور ماچان کے معنی بوسہ مطیعای اصفہانی - آستانہ نشینان بچشم کم منگر ❖ کہ رہ بصدر تو سے آید از صف ماچان -

صفر ازدہ - دیوانہ - بیکار - یاوہ گرد ❖ میر حسن دہلوی بخوبی او کی رسد آفتاب ❖ کہ یاوہ گرد بست صفر ازدہ ❖

صفای قلندری - چار ضرب چہار ابرو ذکر سلسلۂ قلندریہ کا ہے شانی تکلو مے بر دز نگ از دل شانی ❖ این صفای قلندری کہ تراست ❖

صاد با نون

صندوق سر - رازدار محرم حالات کا واقف عبد الغنی قبول ؔ ستم صندوق ستن کہ میگویم عیان ❖ گوہر حقیقت را صدف بود البست ❖

صنعت گر - پیشہ ور سکام کرنے والا - درویش والہ ہروی شاخ منصب بین صنعت گر کہ در یک کارگاہ ❖ از بہان جلیسے کہ ساز دینہ خار اساختہ ❖

صنم گر - بت بنانے والا صورت قائم کرنے والا ذوقی رسد لقب حقیقت ز صورت صورت ❖ صنم پرست بہ استاد اگر صنم گر را ❖

صندوق ساز - صندوق بنانے والا طاہر وحید - دلم را ز صندوق سازیست غم ❖ کہ صندوق مہرش بود سینہ ام ❖

صندوق پیل - ہاتھی کا ہودج مشہور ہے میر خسرو بلخی کہ بر فتح گشتش دلیل ❖ شد از خانہ زین بصندوق پیل ❖

صنوبر خرام - صنوبر قامت - صنوبر قد - محبوب کی تعریف میں بولتے ہیں حافظ - چندان بود کرشمہ و ناز سہی قدان ❖ کاید بجلوہ سرو صنوبر خرام ما ❖ صائب میکند از طوق قمری حلقہ نام سرو را ❖ از صنوبر قامتان ہر جا بر آید نام او ❖ ❖ ز جلوہ ہاے صنوبر قدان زراہ مرو ❖ نگاہدار دل کن پی نگاہ مرو ❖

صنم خانہ - صنم کدہ - بتخانہ جس گھر میں بت رکھے ہوں محمد اسحاق شوکت از جوشش کفر من شد دکنحان صنم کدہ ❖ از بسکہ ما عبادت فرزند میکنیم ❖

صاد با واو

صورت بند - صورت نگار مصور او نقاش میر خسرو سبطری بود بس کشید و بلند چشم بدہ ہزار صورت بند ❖ سعدی چنان فتنہ بر حسن صورت نگار ❖ کہ با حسن صورت ندارند کار ❖

صورت ساز - مصور تصویر بنانے والا اسالک یزدی از نسیم نفسم در چمن صورت ساز ❖ بشگفد غنچۂ تصویر بصد شادابی -

صورت باز - پتلیان نکالنے والا تصویرین دکھلانے والا - کھیل کھیلنے والا صائب حسن معنی ہر کہ دارد مردم چشم من ست ❖ چشم من چون خانۂ آئینہ صورت باز نیست ❖

صوت مسدس - ایک قسم کے سماع کا نام ہے علی خراسانی در اربعین عشق تو مستان شوق را ❖ گاہی سماع صوت مسدس غنیمت ست ❖

صورت کش - صورت گر - مصور صورت بنانے والا - تصویر کھینچنے والا ملا طغرا سے بود گر خامہ از موی او ❖ چہ میکرد صورت کش روی او ❖ نظامی نشستند صورت گران در نہفت ❖ دران صفہ طاق چون طاق جفت ❖

صورت احوال - محضر نامہ اور صورت حال جو ایک قسم کا کاغذ ہے اور سائل اپنے حال کی تصدیق اور شہادت کے لیے لکھ کر اُس پر لوگوں کی گواہیاں لکھاتا ہے محسن تاثیر آنجا کہ جلوۂ تو زرخ پردہ افگند ❖ رنگ از عذار صورت احوال مے پرد ❖

صورت بستن - صورت باندھنا شکل قائم کرنا کم و زیادہ نگردد ز صفحۂ ہستی ❖ بر مصور کامل ہر آنچہ صورت بست ❖

صورت بستن۔ راگ مین سُر قائم کرنا علی خراسانی دستان تو آموخت بمرغان بہاری ٭ ہر صوت کہ مرغ دل من فصل خزان بست +

صورت برداشتن۔ نقل اُٹھانا کسی صورت کا محمد خان قدسی قضا ز پایۂ قدر تو صورتی برداشت + زمانہ نام نہادش سپہر کیوانی ٭

صورت نشستن۔ صورت قائم ہونا۔ رضی دانش بی کلک قضا صورت کاری نہ نشیند ٭ نقشے بمدد گاری یاری نہ نشیند ٭

صورت گرفتن۔ صورت پکڑنا صورت قائم ہونا۔ محمد سعید اشرف از پریشان حالی آخر کار من صورت گرفت ٭ بسکہ آمد مو بکلکم خامۂ تصویر شد ٭

صورت پیدا کردن۔ صورت پیدا کرنا۔ رضی دانش قلم سنبل شود گر وصف گیسوے تو بنویسم ٭ خطم صورت کند پیدا چو از روی تو بنویسم +

صورت نشین۔ قائم و مجسم صورت درویش واله ہروی عشق را در عالم اجسام مجنون نام کرد ٭ حسن را صورت نشین کرد ست و لیلی ساختہ +

صورت درپردہ۔ جو صورت پردہ مین ہو تاثیر معلوم شود سر نہان از رخ زاہد ٭ چون صورت درپردہ کہ بے پردہ نماید ٭

صورت مانی۔ مانی نقاش کی لکھی ہوئی تصویر تاثیر ہر رنگ صورت مانی کہ پامال شود ٭ نگر دخواری دشمن زخواب بیدار شش ٭

صورت نویسی۔ نقل اُتار لینا کسی صورت کا علی ماز ندرانی ہو الہوس نقش خطت بست گر در دل چہ شد + ما ہمن صورت نویسی بی سواد ان میکنند +

صوفی گری۔ صوفی ہونا۔ صاحب صفائی ہونا ملا طغرا کند حق صوفی گری را ادا ٭ بیاب چشم بیند شاہ و گدا ٭

صاد بایاے

صید بند۔ صید پیشہ۔ شکار کرنے والا صائب اگر در سخن سید است صائب صید بند ما ٭ زگوہر چون صدف میکرد آب و دانہ مارا + ابوطالب کلیم۔ آن صید پیشہ فکر مدار انکرده است + گر سر بریده رشتہ زیاد انکرده است +

صید گر۔ صید گیر۔ شکاری شکار کرنے والا امیر خسرو صید گر سے در دام بصد اکشید ٭ بر سر رہ رخت تمنا کشید + میر مغزی چو سلجق صید گیر آمد چو بہمنی جنگ جو آمد ٭ چو طغرل شیر بند آمد چو چغری حقہ باز آمد ٭

صید افگن۔ صید انداز۔ شکار کرنے والا قاسم مشہدی عکس شوخ تو چو صید افگنی آغاز کند ٭ جوہر آئینہ را چنگل شہباز کند + رضی دانش تسمن خود را از شغالان دشت خالی میکند + گر نگیرد خون عنان صید انداز مرا ٭

صید گاہ۔ شکار گاہ۔ شکار کھیلنے کی جگہ رضی دانش ناتوان مرغے چو من در صید گاہ حشر نیست ٭ می پر م چون رنگ نتوان دید پرواز مرا +

صیقلی۔ صیقل کرنے والا۔ جلا دینے والا ملا طغرا عشق دنیا فکر شکست رنگ و ما را رنگ نیست ٭ صیقلے آمادہ کار و نشان از زنگ نیست ٭

٭ چوتھی فصل ٭

اُردو اصطلاحات و محاورات کے ذکر مین

صاد بالف

صاحب ذوق ہونا۔ شوقین ہونا۔ عاشق مزاج ہونا صفدر رامپوری۔ صاحب ذوق بھلا رہتے ہین پابند کہین ٭ جی اگر ہی تو جہان ہی مثل جھوٹ نہین ٭ قطعہ از مولف خاک سے پہونچے اوج گردون پر آدمی سکے اگر ہو دل مین شوق ٭ پائے موسے کی یاد مین قدرت ٭ جو کہ ہو اہل شوق صاحب ذوق ٭

صاد کرنا۔ صاد نشان صحیح کا ہے جیسا و ردست تحریر پر حکام صاد لکھ دیتے ہین منظور کرنا۔ دستخط کرنا۔ پسند کرنا قطعہ از مولف ایسی کر تحریر اور تقریر نیک ٭ جسپہ کردین صاد سب اہل قلم ٭ جتنے خوشخط لوگ ہون اور خوش بیان ٭ کرلین اسکو صفحۂ دل پر رقم ٭

صاد ہونا۔ منظور و قبول ہونا پسندیدہ ہونا مہذب لکھنوی مصحف رخ پہ یہ ابرو کیسے خوشخطی کے ساتھ ٭ کاتب تقدیر کے لکھے ہوئے ٭ صاد ہین

صاف اُڑا لانا۔ کسی چیز یا کسی آدمی کو اسطرح اُڑا لانا کہ کسی کو خبر تک نہو۔ صفدر رامپوری اس پریرو کو ہوا سے مین بٹھا کر لائے ٭ نکہت گل کی طرح صاف اُڑا کر لائے ٭

صاف انکار کرنا۔ بالکل مکر جانا قطعی انکار کرنا حکیم اللہ رلا ہوری یہ غضب کرتے ہو کیا دلدار رتم ٭ لیکے دل کرتے ہو صاف انکار تم ٭

صاف جواب دینا۔ دو ٹوک جواب دینا بالکل انکار کرنا کچھ لحاظ نکرنا مولانا اکبر لاہوری۔ آئے جو رد بر و اُسکے وہ شوخ بیجا ایسا بے جواب دیتے ہین ٭ خط غرض جب تلک نہین آتا ٭ صاف سب کو جواب دیتے ہین ٭

صاف رہنا۔ دیانت دار رہنا۔ ایمان دار رہنا۔ بچ کے رہنا۔ فاقہ کرنا۔ سفید پوش رہنا۔ مولانا اکبر لاہوری ہمیشہ دوست اور دشمن سے اکبر ٭ نہ رکھنا بغض و کینہ صاف رہنا ٭ بشکل آئینہ ہر نیک و بد سے ٭ بہ روے و پشت سینہ صاف رہنا ٭

صاف کرنا۔ دھونا۔ میل اُتارنا۔ جلا دینا۔ درخت کاٹ کر میدان نکالنا۔ جھاڑ دینا قطعہ از مولف وہ صوفی صاحب صدق و صفا ہی ٭ کرے جو دل صفا بغض و حسد سے ٭ وہ دھو ڈالے کدورت جسقدر ہو ٭ رہے سینہ صفا ہر نیک و بد سے ٭

صاف نکل جانا - کسی آفت یا مصیبت سے نکل جانا - بری ہونا -
صاحب نسبت - کسی سلسلے کا مرید خدا رسیدہ قطعہ از مؤلف
ہین وہی لاکھون مین قائل ایک کے ۔۔ اہل وحدت صاحب نسبت
جو ہین ۔۔ حق پہ کرتے ہین فدا وہ جان و دل ۔۔ اہل ملک و مال
اور دولت جو ہین ۔۔
صاحب سلامت - ملاقات - روشناسی - جان پہچان جرأت
میرے اور اُس شوخ کے صاحب سلامت جو ہوئی ۔۔ صبر و طاقت نے
کہا لو ہمنے تو مجرا کیا -
صاحبزادہ - کسی امیر یا شریف کا لڑکا پیرزادہ کسی بزرگ کی اولاد
روشن - جد فروشی پر گزارہ بس اُنکا صبح و شام ۔۔ آجکل ہین جتنے
صاحبزادگان جد فروش ۔۔

صاد با بائے

صبح و شام کرنا - آجکل کرنا - ٹالنا - بہانہ کرنا - قطعہ از مؤلف
شب کا اقرار دن کا وعدہ ہی ۔۔ صبح کرتے ہین شام کرتے ہین ۔۔ عہد
پختہ نہین کسی سے بھی ۔۔ جس سے کرتے ہین خام کرتے ہین ۔۔
صبح و شام بتانا - حیلہ بہانہ کرنا - ٹالنا - میر برسون محکولون ہی
گذرے صبح و شام بتاتے ہو ۔۔ بکھر رہی ہین تمہاری زلفین آنکھ ۔۔ ابھی سکتی ہے
صبح کرنا - رات کاٹنا - تڑکا کر دینا قطعہ از مؤلف روز و شب ہی
ہمین غم دلدار ۔۔ کس مصیبت کے دن گذرتے ہین ۔۔ شام کرتے ہین
فکر گیسو مین ۔۔ اور غم رخ مین صبح کرتے ہین ۔۔
صبر آنا - تسکین آنا - تسلی ہونا - ٹھنڈک پڑنا میر مار ازمین مین
گاڑا تب اسکو صبر آیا ۔۔ اس دل نے ہمکو آخر یون خاک مین ملایا +
صبر پڑنا - مظلوم کے صبر کا اثر ظالم کو ہونا ظالم کو سزا ملنا جرأت
گیا اُس گھر مین جیر چاشتنے میری آہ و زاری کا ۔۔ پڑیگا صبر
اُسکی جان پر اس بیقراری کا ۔۔
صبر کرنا - تحمل و برداشت کرنا - سہارنا کسی کا ظلم اُٹھا کر
چپ ہو رہنا - ٹھہرے رہنا - انتظار کرنا - منتظر رہنا - قطعہ از مؤلف
کچھ نہین بولتے زبان سے ہم ۔۔ ظلم سہتے ہین صبر کرتے ہین ۔۔ تندخوئی سے
اُسکی کانپتے ہین ۔۔ اُسکی ناراضگی سے ڈرتے ہین ۔۔
صبر لینا - صبر سمیٹنا - بددعا سُننا - کوسنے کھانا - تہمت دھرنا
الزام لگانا داغ صبر لے زاہد نا فہم نہ مجبوروں کا ۔۔ بخشنے والا
بھی دیکھا ہی گنہگاروں کا -
صبح خیز - صبح کو اُٹھنے والا - بہت سویرے نیند سے جاگنے والا -
خدا کی عبادت کرنے والا -

صاد با حای حطی

صحبت اُٹھانا - کسی کی صحبت مین رہ کر تعلیم پانا - شائستگی حاصل
کرنا - تعلیم پانا -
صحبت کرنا - ہم بستر ہونا - مباشرت کرنا - جماع کرنا - ساتھ ہونا
صحبت گرم ہونا - جلسے ہونا - مزے اُڑنا -
صحبت نہ رہنا - جلسے مین شریک نہونا ہم مجلس نہ بننا - آرزو پیدا
کہان ہین ایسے پراگندہ طبع لوگ ۔۔ افسوس تمکو میر سے صحبت نہین رہی
صحت ہونا - بیمار کا اچھا ہو جانا - بھلا چنگا ہونا صحیح الجسم ہونا مؤلف
نکلا دم اور سو گیا آرام سے ۔۔ لے ترے بیمار کو صحت ہوئی ۔۔
صحنک سے اُٹھ جانا - بی بی عائشہ صدیقہ کی نیاز کی صحنک کے کھانے
کے قابل نہ رہنا عصمت مین فرق آنا - ناپاک ہو جانا - خراب
تصور ہونا - شوق ڈھہی ہم صورتون کی چشمک سے ۔۔ اری اُٹھ جاؤگی
مین صحنک سے ۔۔
صحیح کرنا - ٹھیک کرنا - درست کرنا - غلطی نکالنا - اصلاح دینا -
دستخط کرنا - درج حساب کرنا -

صاد با دال

صدا دینا - آواز دینا - بلانا - موقع شادی یا غمی پر -
صدقے جانا - قربان ہونا - نثار ہونا -
صدقے کی گڑیا - وہ بت جو بنا سنوار کر صدقے مین دیا جائے
اور عورت دُبلی پتلی خوش پوشاک -

صاد با رائے

صرفہ کرنا - کفایت شعاری کرنا خرچ کم کرنا -
صرافی کرنا - شناخت کرنا - پرکھنا -

صاد با فای

صفاچٹ کرنا - بالکل مونڈ ڈالنا - صفا کرنا -
صفائی کر دینا - کچھ باقی نہ رکھنا سب کچھ خرچ کر دینا - برباد کر دینا -
اُجاڑ دینا - تصفیہ کرنا فیصلہ کر دینا - کوئی جھگڑا باقی نہ رکھنا -
حکیم انور لاہوری - مال و زر سے نہین رکھتے ہین باقی اک دام +
صوفی کر دیتے ہین دم بھر مین صفائی پوری ۔۔
صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دینا - مارنا - قتل کرنا - نیست
نابود کر دینا قطعہ از مؤلف کوئی جسکی باقی نہین یادگار ۔۔ نہ مسجد
نہ حوض اور نہ جاری کنوان ۔۔ گیا گذرا دنیا سے وہ بدنصیب ۔۔ مٹا

صفحہ ہستی سے نام و نشان۔

صفو دینا - بازی جیت لینا کچھ باقی نہ چھوڑنا۔

صاد با لام

صلاحیت لکھنا - سراؤن مین پولس کا مسافرون کے نام اور آمد و رفت کا حال لکھنا - رپورٹ لکھنا -

صل علی کہنا - تعریف کرنا - آفرین کہنا - درود بھیجنا - ذوق
ہین دہن غنچون کے وا کیا جانے کیا کہنے کو ہین ٭ شاید اسکو دیکھ کر صل علے کہنے کو ہین ٭

صلواتین سنانا - گالیان دینا - برا بولنا - نا ملائم باتین کرنا ۵
ہم دعا کہتے ہین اور صل علی ٭ آپ صلواتین سناتے ہو ہین ٭

صاد با نون

صندل کے چھاپے منھ پر لگنا - سرخروئی حاصل ہونا سرخرو ہونا۔

صندل گھسنا - دو عورتون کا آپس مین بلکہ شہوت رانی کرنا چپٹی کھیلنا۔

صنم آمد کا کھیل - یہ ایک لڑکون کا کھیل ہے جسمین ایک کہتا ہے صنم آمد دوسرا پوچھتا ہے از کجا آمد جرأت پیری ہی مین کچھ داغ جوانی
نہین جسکا ٭ طفلی مین بھی ہم کھیل جو کھیلے تو صنم کا -

صندل کی سی تختی - خوبصورت صاف اور ملائم -

صاد با واو

صورت آشنا ہونا - روشناس ہونا - کسی شخص کی شکل پہچان سکنا کم واقف ہونا -

صورت بنانا - بھیس بدلنا - روپ بدلنا - دھوکا دینا - ناک بھون چڑھانا
صفدر رفو قانی - وہ گل ہر وقت ہنستے کھیلتے رہتے ہین غیرون سے ٭
ہمین جب دیکھتے ہین او بہی صورت بناتے ہین ٭

صورت پکڑنا - شکل بننا - ڈھنگ بندھنا - ظاہر ہونا - وقوع مین آنا -

صورت کرنا - صورت نکالنا - تدبیر کرنا - بند و بست کرنا - وسیلہ پیدا کرنا - ڈھنگ بنانا مؤلف بظاہر گو کوئی صورت نہین اپنی بھلائی کی
مگر آخر وہ صورت گر کوئی صورت نکالینگے ٭

صوفیانہ وضع - سیدھی سادی وضع -

صورت حرام - بظاہر خوبصورت اور باطن مین خراب -

صاد با یاے

صیغہ گردانتا - تعریف کرنا - نکاح کرنا - مباشرت کرنا -

پانچوین فصل

ادویات یعنی لغات متعلق بعلم طب کے بیان مین

صاد با الف

صامریوما - ہندی مین اسکو لجالو کہتے ہین - یہ گھاس دو قسم کبیر اور صغیر ہے کبیر ایک جڑ سے پانچ چار شاخین جمتی ہین سیب کی سی پتی پھول سرخ اور لاجوردی اور سخت مانند دم بچھوکے صغیر کی پتی چھوٹی گول پھول لاجوردی طبیعت گرم خشک مگر گرمی خشکی سے زیادہ محلل اور جالی اور مسہل بلغم مدر حیض مخرج جنین بچھو اور رتیلا کے زہر کا علاج ہے -

صاصفراس - یہ ایک بڑے درخت کی چھال ہے بو اور مزہ اسکا سولف کا سا حدت اور عطریت کے ساتھ درخت اسکا مشابہ درخت صنوبر کے دہنیت مین پتی گول دندانے دار خشک پتی زیادہ خوشبودار طبیعت اسکی گرم اور خشک منضج اخلاط غلیظہ مقوی اعضاے رئیسہ روح کو راحت پہونچانے والی ہے -

صابون - مشہور چیز پہلے بھی یہ لفظ پہلی فصل باب ہذا مین درج ہوچکا ہے سجی چونا تیل پانی سے یہ بنایا جاتا ہے بڑا صرف اسکا کپڑے دھونے اور سپید کرنے مین ہے طبیعت اسکی گرم و خشک مقطع اور معفن منضج و ملین اور ادام کھانا اسکا مانع حمل اور حمول مخرج جنین زندہ و مردہ و مدر حیض و ضماد دافع درد زانو و عرق النسا ہے -

صاصلی - یہ ایک بوٹی دو شاخین اسکی پتلی اور نرم اور نازک پھول سفید اور تخم شونیز یعنی کلونجی کی طرح طبیعت گرم تر دافع درد دل و فم معدہ و محرک باہ ہے -

صاد با باے

صبر - یہ لغت اس باب کی پہلی فصل مین تحریر ہوچکا ہے ہندی مین اسکو ایلوا اور مصبر کہتے ہین اسکے درخت کو صبارا اور ہندی مین گھیکوار بولتے ہین یہ دوا بہت قسم کی ہوتی ہے قسم اول سقوطری یہ جزیرہ سقوطرہ مین پیدا ہوتی ہے وہ جزیرہ دریاے قلزم کے دہانے سرحد حبشہ اور یمن مین واقع ہے یہ صبر زعفرانی تیرہ رنگ اشقر صاف چمکتی ہوئی جلد ٹوٹنے والی خوشبو ہے ہر ایک قسم سے اعلے قابل استعمال ہے دوسری قسم ہندی زرد کم رنگ مگر یہ سقوطری سے عمل مین دوسرے درجہ پر ہے تیسری سمنجانی اور صبر فارسی سیاہ رنگ زبون ترین اقسام ہے طبیعت اسکی گرم و خشک مفتح سدہ کبد محلل ریاح مسہل قوی ہر خلط کا منقی معدہ دافع یرقان و مقوی باصرہ و مالیخولیا ہے -

صبیتی ستار کی کا عصارہ کہ اس سے قرص بناتے ہین اور وہ قرص دفع ادرام کے لیے نہایت مفید ہے -

صاد با حای

صحنات - فارسی مین اسکو ماہیابہ کہتے ہین اور یہ ایک نانخورش مچھلی کے گوشت سے بناتے ہین طبیعت اسکی گرم وخشک مجفف رطوبات معدی قاطع بلغم دافع بدبو وفالج وامراض سرہی-

صاد با دال

صدف سیپ مشہور چیز ہی عمدہ وہ ہی جو میٹھے پانی سے نکالی جائے طبیعت بعض کی گرم اور بعض کی سرد ہی جلائی ہوئی سیپ مین خشکی زیادہ ہو جاتی ہی ملطف جالی اور حابس اسہال و دافع جراحات لثہ و آکلہ ہی اور فائدے اسکے کتب طبیہ مین بہت سے درج ہین صدف البواسیر ایک قسم سیپ کا ہی جو خاص بواسیر کا علاج ہی اور صدف الفرفیر علاج اختناق رحم کا-

صاد با رای

صُرَد - بضم اول ایک پرندہ ہی جسکو فارسی مین کاک اور عربی مین سوام کہتے ہین ابلق اسکا رنگ ہی چونچ بہت بڑی پانون ہتیلی اور انگلیان ہین کوئی اسکو پکڑ نہین سکتا کہ بہت شریر اور بھاگنے والا ہی چڑیا کی بولی بولکر انکو جمع کر لیتا اور انھین شکار کرکے کھاتا ہی حضرت رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم نے اسکا گوشت حرام فرمایا ہی-

صُرصُر - بضم ہر دو صاد ایک مشہور جانور ہی جسکو ہندی مین جھینگر کہتے ہین رات کو بہت چلاتا ہی گرمیون اور برسات مین بکثرت ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم وخشک بریان کرکے کھانا اسکا مثانہ کے درد کو دفع کرتا ہی قولنج کا علاج ہی-

صریمۃ الجُدی - اسکو سلطان الجبل بھی کہتے ہین اس بوٹی کی شاخین موٹی گرہ دار ہین جو درخت پاس ہو اُسپر لپٹ جاتی ہین لبلاب کی سی پتی پھول سپید اور خوشبو پھل لبلاب کے پھل جیسا طبیعت اسکی گرم اور خشک مدر بول ملین بطن منقی رحم دافع عسر النفس ہی-

صاد با عین

صعتر - یہ گھاس بری اور باغی ہوتی ہی بستانی کی پتی گول اور جنگلی لمبی مزہ تیز اور خوشبو ہی ہندی مین اسکو ساتر بولتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک مفتح ومقطع ومجفف ومحلل ریاح دافع بلغم مسکن درد دندان مدر بول وحیض-

صاد با فای

صفراغون - ایک پرند کا نام ہی جسکو ہندی مین ممولا کہتے ہین طبیعت اسکی گرم وخشک گوشت اسکا تلخ ہی ساتھ قوت تریاقیت کے سنگ گردہ کا علاج ہی

صاد با لام

صل - یہ ایک قسم کے سانپ کا نام ہی جسکا گول ہوتا ہی بخلاف اور سانپون کے چپٹا ہی زہر کا یہ حال ہی کہ اگر اُسکی آواز کسی آدمی کے کان مین پڑ جائے تو فوراً مر جائے-

صاد با میم

صمغ - گوند جو اکثر درختون مین قدرتی طور پر نکلتا ہی اور مراد مطلق گوند سے کیکر کا گوند ہی عمدہ وہ ہی جو زرد اور چمکتا ہوا شفاف ہو اور پانی مین پھول جائے طبیعت اسکی گرمی مین معتدل اور دوسرے درجے مین خشک ملین اور قابض مقوی معدہ وامعا دافع سرفہ ودرد سینہ اور صمغ البلاط ایک ساختہ گوند ہی-

صاد با نون

صنوبر - مشہور درخت ہی طبیعت اسکی گرم خشک پوست اسکا گرم زیادہ ہی خسانیدہ اسکی پتی اور پوست کا حلقے کے درد کو دور کرتا ہی رعاف کے خون کو بند کرتا ہی جگر کی بیماری کا علاج ہی-

صندل - مشہور درخت ہی جسکی لکڑی نہایت خوشبو ہوتی ہی سفید اور زرد اور سرخ ہوتا ہی طبیعت سفید اور زردکی تیسرے درجے مین سرد اور دوسرے درجے مین خشک اور سرخ کی دوسرے درجے مین سرد اور تیسرے درجے مین خشک ہی مفرح ومقوی دل ومعدہ اور قابض ساتھ قوت تریاقی کے محلل اورام گرم دافع درد سر وحشت دیوانگی وخفقان ہی-

صاد با واو

صوف ریشم جو مشہور چیز ہی طبیعت سیاہ ریشم کی سرخ وسپید سے گرم زیادہ ہی اور ہر ایک ریشم دوسرے درجہ مین گرم اور خشک ہی کھانسی ونزلے کے دفع کے واسطے اسکی ٹکور شراب مین ڈالکر گلے پر کرین تو فائدہ ہوتا ہی اور روغن گل کے ساتھ ٹکور کرنا ہر ایک ورم کا علاج ہی-

اٹھارھوان باب

ضاد معجمہ کے لغات کے ذکر مین اسمین بدستور پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات فارسی وعربی وغیرہ کے بیان مین

ضاد با الف

ضاب - وہ درخت جسکا مزہ تلخ ہو مثل حنظل وزقوم وغیرہ-

ضارب - ضرب دینے والا- مارنے والا-

ضارّ - بتشدید رائے ضرر پہونچانے والا- یہ لفظ حق جل شانہ کی

اسامی گرامی سے ہی اور تو دونہ نام مین درج ہو۔

ضاجر - دلتنگ وبے آرام غم واندیشہ کی حالت مین۔

ضاغط - ایک قسم کے درد کا نام ہی جس سے بیمار جانتا ہی کہ میرے عضو کو کوئی زور سے پچوڑ رہا ہی۔

ضاغوط - یہ ایک حالت ہی کہ سویا ہوا آدمی جانتا ہی کہ میرا گلا کسی نے زور سے دبایا ہی۔

ضابط - ضبط کرنے والا ضبط مین لانے والا۔

ضائع - تلف شدہ - تباہ ہوا ہوا - کام سے گیا گذرا سعدی
لیکن عمر ضائع بہ تحصیل مال ✤ کہ بہ نرخ گوہر نباشد سفال ✤

ضاحک - ہنسنے والا خندہ کرنے والا - ذوقی بود دہر کہ ضاحک نگار کسے ✤ یقین دان کہ مضحک گردد بسے ✤

ضال - گمراہ - راستے سے بھولا ہوا مؤلف براہ حق محمد ہمہ گشت ✤ بہ خیل گمرہان وفرقہ ضال ✤

ضالین گمراہان بہت سے گمراہ۔

ضان - بیشش یعنی بھیڑی اور بدبو جو آدمی کے جسم سے آئے۔

ضامن - کفیل ذمہ دار شریک کار مددگار ذوقی محمد چو شد ضامن مغفرت ✤ مرا از قیامت چہ خوف وچہ بیم ✤

ضابطہ - قاعدہ دستور وطریق۔

ضاری - شکار کے پیچھے دوڑنے والا۔

ضامنی - ضامن وکفیل کار ہونا۔

ضاد با بای

ضب - بفتح اول وتشدید ثانی سوسمار جو مشہور جانور ہی اور ہندی مین اسکو گوہ کہتے ہین۔

ضباح - روباہ یعنی لومڑی کی آواز

ضبط - قائم اور نگاہ رکھنا ہر چیز کا اُسکی حد واندازے پر۔

ضبع - بفتح اول وضم ثانی وہ جانور درندہ جسکو کفتار کہتے ہین ہندی مین اسکو ہنڈار اور ترک بولتے ہین۔

ضبع - بفتح اول وسکون ثانی بغل وبازو۔

ضاد با جیم

ضجرت - بضم اول تنگدلی وبے آرامی وغمگینی۔

ضجاج - بکسر اول ایک قسم کا گوند ہی جو صابون کی طرح کپڑون کو سفید کر دیتا ہی اور بدی کرنا وبفتح اول بانگ وفریاد

ضجور - تنگدل بیقرار - بے آرام - غمگین۔

ضجر - تنگدل واندوہگین۔

ضجیع - بروزن فعیل ہمخوابہ وہم بستر۔

ضاد با حای

ضحاک - بفتح اول وحاے مشدد بہت ہنسنے والا اور نام ایک ظالم بادشاہ کا جسکے شانے مین زخم ہوکر سانپ پیدا ہو گیا تھا اور وہ سانپ آدمی کے سر کا مغز کھایا کرتا تو آرام سے رہتا نہین تو ضحاک کو تکلیف دیتا اپنے آرام کے واسطے ضحاک نے ہزارون آدمی بیگناہ قتل کیے آخر کار کاوہ لوہار نے اسپر خروج کیا اور ضحاک کو قتل کرکے فریدون کو سلطنت دی ضحاک معرب دہ آک کا ہی اور دہ آک کے معنی دس عیب کے ہین جو اُسمین موجود تھے اول زشت روے دوسرے کوتاہی قد تیسرے ظلم چوتھے دروغگوئی پانچوین بددلی چھٹے بے دینی ساتوین بسیارخواری آٹھوین بے شرمی نوین بے عقلی دسوین بدزبانی بعض کا قول ہی کہ ضحاک کا باپ عرب تھا جب یہ پیدا ہوا تو اسکے دانت اُسکے موجود تھے اسلیے اسکا نام ضحاک رکھا گیا یعنی ہنسنے والا۔

ضحک - بکسر اول ہنسی جو آواز سے ہوے۔

ضحل - بفتح اول تھوڑا پانی۔

ضحیم - وہ کجی جو منھ مین ہو یا گردن مین یا زنخدان مین۔

ضحو - روشن اور ظاہر اور وقت چاشت اور چاشت کا کھانا۔

ضحکہ - مسخرہ جسکے افعال وعادات واقوال پر لوگ ہنسین۔

ضحوکہ - ہنسا دینے والا - اور بفتح اول عورت بہت ہنسنے والی۔

ضاد با خای

ضخامت - بزرگ وسطبر ہونا - بڑا اور موٹا ہونا۔

ضخیم - بزرگ جسم اور سطبر۔

ضاد با دال

ضد - جو چیز کہ مقابلے پر اور اُسکے برخلاف ہو جیسا کہ پانی کے مقابلے آگ مٹی کے مقابلے پر ہوا دن کے مقابلے پر رات سیاہ کے مقابلے پر سپید سعدی بری دانش از نعمت ضد وجنس ✤ غنی ملکش از ذلعت جن وانس

ضاد با رای

ضرا - سختی وگزند وہمتیخ وتکلیف وتوحید - قوی اول توی آخر قوی ظاہر قوی باطن ✤ نباشد صورت خالی ز نوبت در جہان اصلا ✤ قوی حاضر بہر محضر قوی ناظر بہر منظر ✤ قوی ساکن بہر مکن قوی قائم بہر یاد ✤ تو سلطانی تو رحمانی تو سبحانی ✤ تمبیر گسیر

شیر بپائی چہ در سر آید در ضرا۔

ضرب - چوٹ تلوار کی ہو یا پتھر وغیرہ کی اور بیان کرنا اور ملانا کسی چیز کا دوسری چیز مین اور تیز چلنا اور مانند اور مثل اور نوع اور ظاہر کرنا ؎ بیک ضرب شمشیر پہلو شگاف ؛ در یدش ز پہلو شکم تا بناف

ضُرُوب - انواع و اقسام بہت سے نوع اور قسم۔

ضِراب - بکسر اول چڑھ جانا نر کا مادہ پر اور تلوار مارنا۔

ضَرّاب - بفتح اول و رائے مشدد سکوک کرنے والا روپیہ پیسے کا ضرب لگانے والا۔ مارنے والا۔

ضربت - چوٹ۔ ضرب۔ عرفی ہر کہ را ضربت گذر تو در آمد بضمیر ؛ دور بدنہا شود از سایۂ او عظیم بیم ؛

ضَرِیبَت - خوے و طبیعت و عادت۔

ضراعت - تضرع و زاری و عجز و خوشامد۔

ضَرارت - تکلیف پہونچانا - رنج دینا - نابینا ہونا - اندھا ہونا۔

ضَرُورَت - ضَارُورَت - حاجتمند ہونا - محتاج ہونا ساتھ کسی چیز کے حاجی بیکشد بار غم محبوب و میداند بہا ؛ ہر کہ عاشق شد ضرورت بار غم خواہد کشید ؛

ضرب و قسمت - ضرب و تقسیم قاعدہ حساب کا ہے جیسا پچیس دس میں دس کو ضرب کیا تو دس ڈھائی سو ہو گیا اور سو کو دس پر تقسیم کیا تو ایک ایک کو دس دس مل گئے۔

ضرائح - قبر جمع اسکی ضرائح ہے۔

ضرب کسور - کسرون کے ضرب قاعدہ حساب کا ہے۔

ضریر - نابینا - اندھا - جسکو نظر نہ آئے۔

ضِرار - ایک دوسرے کو ضرر پہونچانا - رنج دینا - اور مسجد ضرار ایک مسجد تھی جو رسول مقبول کے وقت منافقون نے تعمیر کی تھی حق تعالے نے اسکے گرا دینے کے واسطے حکم نازل فرمایا۔

ضَر - ضُر - بفتح اول و ضم دوم سختی و بدحالی و لاغری و زیان و نقصان۔

ضِر - بکسر اول باوجود موجود ہونے ایک عورت کے دوسری عورت سے نکاح کرنا

ضَرَر - زیان اور نقصان صائب ؎ نرمی خوردن باشور دشتی برخیزد ؛ نہ زیم سختی با ضرر سے برخیزد ؛

ضرور - ناگزیر وہ چیز جسکے بغیر کام نہ چلے لابد ہو شفیع اثر - الطاف تو آنم چہ ضرورت عیاست ؛ چیزی کہ من امروز ندارم غم فردا ست ؛

ضِرس - بکسر اول کھانے کے بڑے دانت جنکو ڈاڑھ کہتے ہین۔

ضُراط - بضم اول تیز اور گوز یعنی وہ ہوا جو آواز کے ساتھ مقعد سے نکلے۔

ضَرع - بفتح اول و سکون دوم پستان گاے بکری وغیرہ چارپایوں کے

ضَرَع - بفتحتین عاجزی و فروتنی

ضریع - ایک بدمزہ گھاس کا نام ہے کہ بسبب اُسکی سمیت کے کوئی جانور اسکو نہین کھاتا مگر اونٹ کھا جاتا ہے۔

ضرزیاب - ایک قسم کی توپ کا نام ہے۔

ضِرغام - بکسر اول شیر درندہ۔

ضِرام - باریک اور پتلی لکڑیان جو جلانے کے کام آئین۔

ضروان - ایک بستی کا نام ہے۔

ضَرّتان - دو عورتین جو ایک مرد کے نکاح مین ہون۔

ضربان - دھڑکنا دل کا جس سے شرائین تیزی کے ساتھ حرکت کرین ہندی مین اس بیماری کو دھڑکا کہتے ہین۔

ضَرِیک - پانسہ جس سے جوا کھیلتے ہین۔

ضَرّہ - وہ دوسری عورت جو پہلی عورت پر گھر مین لائی جاے فارسی مین اسکو انباغ اور ہندی مین سوت و سوکن کہتے ہین۔

ضروری - ہونے والا امر - اور وہ چیز جسکی ضرورت ہو مولف سفر کردن ز دنیا ناگزیر ست ؛ سپردن جان بجانان ضروری ست ؛

ضاد با عین

ضُعَفا - ضعیف لوگ بہت سے عاجز و ناتوان۔

ضِعف - بکسر اول دوچند دگنا۔

ضَعف - بفتح اول بیہوشی اور عقل کا نقصان۔

ضُعف - بضم اول عاجزی کمزوری سستی ناتوانی بڑھاپا لاغری سعدی - کرشمہ گرچہ در عرصہ نام آورست ؛ چو ضعف آمد از بیدقی کمتر ست ؛

ضعیف - لاغر - کمزور - ناتوان - بوڑھا - لوحی ؎ عیان خلق کن ای دوست زندگانی ظلم ؛ بخلق حسن طبع خوش و مزاج لطیف ؛ بزور و شور جوانی و قوت بازو ؛ مپیچ پنجہ بر زیردست و پیر ضعیف ؛

ضِعاف - ضعیف کی جمع ہے۔

ضاد با غین

ضُغبوس - چیز جو ہنوز خام ہو پختہ نہوا ہو اور ضعیف و لاغر۔

ضغط - نچوڑنا - تنگ کرنا - دبانا۔

ضَیغم - درندہ و گزندہ - کاٹنے والا - پھاڑنے والا

ضِغن - کینہ جو دل مین رکھا جائے۔

ضغاین - جمع ضغن بہت سے کینے و غصے

ضغطہ - بفتح اول ایکبار نچوڑنا۔

ضغطہ - بضم اول سختی و مشقت و تنگی -
ضغینہ - بروزن نگینہ وہ کینہ جو سینہ میں ہو -

ضاد با فای

ضفیر - سر کے بال جو گوندھے ہوئے ہوں -
ضفائر - بہت سے بال سر کے گوندھے ہوئے -
ضفدع - بفتح و بکسر اول غوک یعنی مینڈک اور نام ایک ورم کا ہے جو آدمی کے گلے میں پیدا ہوتا ہے اور صورت اسکی مینڈک کی سی ہوتی ہے -
ضفادع - بہت سے غوک یعنی مینڈک -
ضفیرہ - پیچیدہ اور گوندھے ہوئے بال -
ضفہ - کنارہ -

ضاد با لام

ضلالت - ضلّت - گمراہی و خرابی سعدی این بلا ای مبتلا از شامت
اعمال تست ❊ خود مقید چون تو در چاہ ضلالت گشتۂ ❊
ضلع - استخوان پہلو یعنی پہلو کی ہڈیاں اور ایک حصہ کسی ملک یا زمین کا
ضلال - گمراہی و خرابی -
ضِلّ - گمراہ و گمنام و نامعلوم -
ضلیل - گمراہ بھولا ہوا - بھٹکا ہوا -

ضاد با میم

ضماد - وہ خشک دوا جو پانی یا تیل میں ملا کر بیمار کے کسی عضو پر لگائیں ہندی میں اسکو لیپ کہتے ہیں -
ضمور - بضم اول و دوم ضعف اور لاغری -
ضمور - بفتح اول و ضم دوم ضعیف و لاغر -
ضمیر - بفتح اول خیال اندیشہ دل کی بات ارادہ جو دل میں ہو اور پوشیدہ راز اور دل سعدی جوان و جوان بخت و روشن ضمیر +
بدولت جوان و بتدبیر پیر ❊
ضمائر - جمع ضمیر کی بہت سے دل -
ضمیر - بضم اول و فتح ثانی نام غلام رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم
ضم - ملنا اور ملانا ایک چیز کو دوسری کے ساتھ اور نام ایک حرکت کا جسکو پیش کہتے ہیں اور ضم اُس حرکت کا نام اسواسطے رکھا گیا کہ اسکے ادا کرنے کے وقت دونوں لب مل جاتے ہیں -
ضمیمہ - ملا ہوا - شامل کیا ہوا - چپکایا ہوا -
ضمیران - ریحان جسکو نازبو کہتے ہیں خوشبو ہوتی ہے سپرغم بھی اسکا نام ہے
ضمین - ضامن - کفیل - شریک - مددگار -

ضمن - بکسر اول اندرون اور پوشیدہ
ضمان - ضامنی - کفالت - ذمہ داری - سعدی بدار ید چندے
کف از دانش ❊ وگر میگریزد ضمان برمنش ❊
ضمیمہ - پیوند لگا یا ہوا - کچھ حصہ بڑھایا ہوا -
ضمہ - حرکت پیش کی -

ضاد با نون

ضنت - بکسر اول و تشدید نون بخل اور بخیلی ممسکی تنگ حوصلگی -
ضنک - تنگ اور تنگی -
ضنین - بروزن حسین بخیل و ممسک تنگ حوصلہ کنجوس -
ضنی - لاغر و کم گوشت - دبلا پتلا -

ضاد با واو

ضواحک - اگلے چار دانت جو ہنسنے کے وقت نظر آتے ہیں -
ضو - روشنی آفتاب کی -

ضاد با یای

ضیا - روشنی آفتاب کی سورج کی دھوپ طاہر وحید گر نشد
خاک رہ مست تو تیا ❊ دیدۂ خواہش نگرفت ضیا ❊
ضیافت - کھانا جو کسی مہمان کی کیجائے - ظفر ایک خبار کی تعریف
میں - ضیافت چو از بہر بلبل کند ❊ بنان روغن از شبنم گل کند ❊
ضیاعات - مزرعہ زمینیں -
ضیر - زیان و گزند و نقصان -
ضیق النفس - نام ایک بیماری کا ہے جس سے سانس تنگی سے آتی ہے ہندی میں اسکو دمہ کہتے ہیں - صفدر نوقانی لاہوری
در بہار باغ بلبل در قفس ❊ ہست اندر حالت ضیق النفس ❊
ضیاع - مزرعہ زمینیں -
ضیف - بفتح اول ایک مہمان اور بہت سے مہمان سعدی نکودار
ضیف و مسافر عزیز ❊ وز آسیب شان برحذر باش نیز ❊
ضیوف - ضیف کی جمع ہے بہت سے مہمان -
ضِیق - بکسر اول و تشدید و سکون ثانی تنگی -
ضَیِّق - بفتح اول و تشدید ثانی تنگ -
ضیغم - بفتح اول ہر ایک جانور گزندہ اور شیر درندہ -
ضیم - بفتح اول نقصان کردن کسی کا اور رنج پہنچانا ظلم کرنا - اسکی مضرت کو خیال میں نہ لانا -

دوسری فصل

اردو لغات کے ذکر مین

واضح ہو کہ اس فصل مین کوئی اردو لغت قابل اندراج اس فصل کے منتخب اللغات وغیرہ کتب زیر ملاحظہ سے نہین ملا سب عربی ہین جو انمین درج ہین اور وہ جو پہلی فصل مین زیب اندراج پا چکے ہین-

تیسری فصل

محاورات اور اصطلاحات فارسی کے بیان مین

ضاد با الف

ضامن وجہ - مال ضامن جسکو بحالت غیر حاضری و افلاس اصل مدیون کے مدعی کا زر واجبی دینا آجائے شفیع اثر جز سحاب آئینہ روے تراز یور نیست ✤ حسن را ضامن وجہ زحیا بہتر نیست ✤

ضاد با رای

ضرب الازب - بکسر زاے منقوطہ وہ سخت ضرب جسکا زخم اچھا بھی ہوجائے مگر نشان باقی رہے-

ضراب خانہ - دار الضرب جس جگہ درہم و دینار روپیہ و پیسہ پہ سکہ جمایا جائے ہندی مین اسکو ٹکسال کہتے ہین-

ضرب الفتح - نقارہ خوشی کا جو فتح کے مبارک موقع پر بجایا جائے-

ضرب اصول - دستک و انگشتک سعدی بدوستی کہ ز دست تو ضربت شمشیر ✤ چنان موافق طبع آیدم کہ ضرب اصول ✤

ضرب المثل - وہ مثال جو کسی گفتگو مین دیجائے عرفی در مقامیکہ ز روے کنایہ بعود ✤ ضرب قمشیر ندارد اثر ضرب مثل ✤

ضرابی - سکہ لگانے والا - ضرب لگانے والا - ظہوری بتاب کوزۂ دل در عیار گیری غم ✤ بیار چہرۂ زرین کہ در ضرابی ست ✤

ضاد با لام

ضلالت گاہ - گمراہی کا مقام - درویش والہ ہروی راہ گرائی کہ این پیشروان مے سپرند ✤ نقش پا فرش ضلالت گہ ✤ غولان کن ✤

ضاد با میم

ضماندار - ضامنی رکھنے والا - ضامن - ملا حی ضمان دار عالم سیہ تا سپید ✤ شفاعت کن روز بیم امید ✤

ضمن اللفظ - یہ ایک صنعت شعر کے علم مین ہے کہ ایک لفظ مین سے دوسرا لفظ نکالکر شعر مین باندھین چنانچہ اس شعر مین یہ صنعت ہے تو بے نظیر جہان وس نظر نکنم ✤ بجا نبے کہ ندارد رخ تو تاب نظر ✤

ضمیر آگاہ ضمیر دان - دل کے حال کا واقف پوشیدہ راز کا جاننے والا ظہوری اگر سر آید اہل فراستش خوانند ✤ بجاست خدمت ضمیر دان کردست قیم خبردار ز احوال دل ما ✤ ضمیر آگاہ دلدار نصیر دارد ✤

ضیافت آب حمام - تواضع خشک جسمین کھانے پینے کا ذکر نہو مسیح کاشی بیا کہ گر نکنم تر دماغت از جامی ✤ کنم ضیافت خشکت بآب حمامی ✤

ضیافت خانہ - مہمانداری کا مقام کمال خجند از ضیافت خانہ در دلتو دل نومید نیست ✤ ہر نصیبی زان سرخوان با جگر خواران رسد ✤

چوتھی فصل

اردو محاورات و اصطلاحات مین

ضاد با الف

ضائع کرنا - تلف کرنا - برباد کرنا - کھو دینا - قطعہ از مؤلف ایکدم بیٹھنا نہ تم بیکار ✤ عمر ضائع کہین نکر لینا ✤ وقت رحلت جب آن پہونچا ہی ✤ توشہ رستے کا ساتھ کچھ لینا-

ضائع ہونا - تلف ہونا - برباد ہونا - رایگان جانا ✤ کھو جانا - قطعہ از مؤلف - عمر گر غفلت مین ضائع ہوگئی ✤ وقت گذرے پہ بہت پچھتاوگے ✤ ہاتھ خالی آئے تھے جس طرح تم ✤ اسطرح کیا ہاتھ خالی جاوگے ✤

ضاد با بے

ضبط کرنا - جوش کو روکنا - کسی کی جائداد اپنے قابو مین کر لینا ✤ آہ کرنے مین شان جاتی ہے ✤ ضبط کرنے مین جان جاتی ہے ✤

ضبطی مین آنا - جائداد کا قرق ہوجانا - اپنے قبضے سے نکل جانا - قطعہ از مؤلف - محبت مین - ہا کچھ بھی نہ باقی ✤ لٹا بازار گھر ضبطی مین آیا ✤ ہوا غارت سب اپنا عقل و ہوش ✤ دل و جان و جگر ضبطی مین آیا ✤

ضاد با دال

ضد باندھنا - ہٹ کرنا - اڑجانا - ایک ہی بات پر اصرار کرتے جانا مؤلف کبھی کے لے چکے ہین دل تو اب جان مانگتے کیون ہین ✤ یہ کیسے ہم سے ناحق دلربا ضد باندھ بیٹھے ہین-

ضد ابدی ہونا - بحث ہونا - جھگڑا ہونا - تکرار ہونا - دوھا بٹیا جھگڑے باپ سے کر تریا سے نیہہ ✤ ضد ابدی ہونے لگی مجھے جدا کر دے ✤

ضد پوری کرنا - اپنا کہنا کرنا اور کسی کا کہنا نہ ماننا-

ضد چڑھنا - ہٹ پڑنا - اپنا کہا کرنا-

ضد رکھنا - دشمنی رکھنا - عداوت رکھنا - صفدر نوقانی ملاقات آپ سے کی ترک ہمنے دیکھنا چھوڑا ✤ پھر اسپر ضد رقیب روسیاہ کیون ہم سے رکھتا ہے-

ضد کرنا - ہٹ کرنا - تکرار کرنا - حجت کرنا - بحث کرنا - اصرار کرنا-

ضاد بارای

ضرب المثل ہونا - مشہور ہونا - شہرت پانا - مثال و مانند بننا -
ضرب لگانا - چوٹ لگانا - مارنا - کوٹنا - اسم ذات بالنفی اثبات کی
ضرب دل پر دینا - ذکر الٰہی کرنا -

ضاد بالام

ضلع بولنا - جگت بولنا - ملتے ہوے الفاظ مین تقریر کرنا - تجنیس مین بولنا

پانچوین فصل

الفاظ و لغات متعلق بعلم طب کے بیان مین

واضح ہو - کہ لغات مندرجہ فصل ہذا مین بعض لغات ایسے بھی ہین جو
پہلی فصل باب ہذا مین درج ہو چکے ہین مگر بسبب اسکے کہ اس فصل
مین پوری کیفیت انکی طبیعت و تاثیر وغیرہ امور ضروری کا لکھنا منظور
ہے مکرر لکھنے مین حرج متصور نہین ہوا -

ضاد باالف

ضان - فارسی مین اسکو ناد میش ہندی مین بھیڑی کہتے ہین مصطلاح
اطبا مین اسکا نام گوسپند ہے گوشت اسکا حلال ہے اور کھانے مین اتاکر
بہترین اسمین ایکسالہ دو سالہ ہے طبیعت اسکی گرم تر گوشت اسکا سریع الہضم
کثیر الغذا مولد خون مسمن بدن دل اور جگر اور گردون کو طاقت دیتا ہے
پگھلی ہوئی چربی اسکی نیم گرم واسطے کھانسی اور درد سینہ اور
ضیق النفس کے بہت مفید ہے سوزش پیشاب کو دفع کرتا ہے ضماد اسکے
جلے ہوے گوشت کا سانپ اور بچھو اور دیوانہ کتے کے زخمون کو اچھا
کرتا ہے سرمہ اسکی راکھ کا واسطے دفع ہونے سفیدی آنکھ کے مجرب ہے -

ضاد باہا

ضبع عرجا - یہ درندہ جانور نہایت مشہور ہے فارسی مین اسکو کفتار
ہندی مین چرکھ اور بجو اور ترس اور ترکھ کہتے ہین بھیڑیے کی طرح یہ بھی
نر اور مادہ ہوتا ہے چلنے اور دوڑنے مین لنگڑاتا ہے نر کو اعرج اور مادہ کو
عرجا کہتے ہین مادہ ہر مہینے خرگوش کی طرح حیض لاتی ہے خرگوش
کی طرح ایکسال کے بعد نر مادہ اور مادہ نر ہو جاتا ہے جفتی ہونے کا بڑا
شائق ہے دن کو بسبب گرمی ہوا کے بہت کم دیکھتا ہے اور رات کو قوی طبیعت
اسکی گرم اور خشک اسکے گوشت کو جوش دیکر آبزن کرین تو وجع المفاصل
و تمدد و استرخا کو مفید ہے گوشت اسکا معدہ کی سردی و حمیات بلغمی
و سوداوی اور خون اسکا جنون کو دفع کرتا ہے -

ضاد بالجیم

ضباج - یہ ایک خاردار درخت کا گوند ہے مشابہ لبان مائل بسرخی
چمکتا ہوا عمان کے پہاڑون سے لاتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک
ضماد اسکا زخمون کے زائد گوشت کو اتارتا ہے زخمون کو اچھا کرتا ہے
سستی اعضا کو نافع ہے کپڑے اس سے دھوئین تو سپید ہو جاتے ہین
اور بکسر اول بعض کتب مین لکھا ہے -

ضاد بارے

ضرع - پستان گاے بکری وغیرہ کا یہ عضو عصبانی قلیل اللحم ہے
کہ اسمین دودھ پیدا ہوتا ہے بچون کے کھانے کے واسطے بہتر ہے مگر جانور
فربہ اور پرگوشت ہو طبیعت اسکی سرد اور خشک بالذات ضالع الغذا ہے
اگر ہضم ہو جاوے -
ضرو - بکسر اول نام ایک گوند کا ہے جسکو ہندی مین لبان کہتے ہین
اس درخت کو کمکام کہتے ہین جسکا یہ گوند ہے مشابہ درخت بلوط کے
ابتدا مین گوند اسکا گیہون کے دانہ کی مقدار پر نکلتا ہے بڑھتا بڑھتا
خربزہ جتنا ہو جاتا ہے اس سے دودھ لزج سیاہ مشابہ قیر کے نکلتا ہے
آگ مین ڈالنے سے خوشبو دیتا ہے اکثر بخورات مین مستعمل ہے طبیعت
اسکی گرم و خشک جذب اسمین قوی ہے دافع رطوبت و کھانسی و خشونت
حلق و درد دندان و سپیدی چشم مین -

ضاد بافاے

ضفدع - مینڈک جو مشہور جانور ہے تین قسم کا ہوتا ہے ایک نہری
دوسرا تالابی تیسرا جنگلی جو خشکی نمناک زمین مین رہا کرتا ہے جنگلی کا گوشت
زہر قاتل ہے طبیعت اسکی سرد و خشک مع قلیل گرمی کے ہے نہری زہر کا
دافع ہے اور دانتون کی درد کے واسطے نافع قاطع سیلان خون العیام
دینے والا زخمون کا اور اگر کسی نے الماس کے ٹکڑے کھائے ہون
تو اسکی ران رسی مین باندھ لکل جائے رسی منھ کے باہر رہے
آدھی ساعت کے بعد باہر کھینچ لے ٹکڑے الماس کے گوشت کے
ساتھ چپکے ہوے ہونگے اور جنگلی مینڈک سبز رنگ کہ جو بہت چھوٹا قسم ہے
جلا کر اور روغن زیتون ملا کر راکھ اسکے ساتھ ملا کر آنکھون مین لگائین تو نزول الماء
کی بیماری کو نافع ہے -

ضاد بامیم

ضمران - اکثر لوگ شاہ سفرم شیرازی اسکو جانتے ہین
اصل مین یہ ایک گھاس ہے جو میدان مین جمتی ہے جب زمین بہت
ہوتی ہے خوشبو تیز رائحہ طبیعت اسکی گرم اور خشک ہے کثیر المنفعت
واسطے امراض بارہ اور زکام کے اور سونگھنا اسکا مقوی دماغ
محرور المزاج کا ہے -

اُنیسوان باب

طاے مہملہ کے ذکر مین اسمین پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات فارسی و عربی وغیرہ کے بیان مین

طاے با الف

طاطا - سر نیچے کرنا - گردن جھکانا - کوزپشت ہونا - رکوع کرنا جھکنا کسی کی تعظیم مین -

طاہا - نام ایک سورۂ قرآن مجید کا اور نام رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کا جسمین اشارہ لفظ یا طاہر کا ہے سعدی ترا عز لولاک تمکین بس است ؞ ثناے تو طاہا و یاسین بس است ؞

طالب - طلب کرنے والا خواہش مند ذوقی عاشق دل دادہ محبوب شو ؞ از دل و جان طالب مطلوب باش ؞

طاب - خوشبو ہر ایک قسم کی صفدر رقوقانی دیدہ روشن کن آب و تاب گل ؞ تا رسد اندر دماغت طاب گل ؞

طامات - لاف و گزاف جو ریاکار صوفی اپنی کرامت کے اظہار مین لوگون کو سناتے ہین یعنی اقوال لغو و سخنان بے اصل جو کاذب صوفی زمانہ مین اپنی گرمی بازار کے لیے مشہور کرین حافظ کے از عقل مے لاف د کر طامات می بافد ؞ بیا کاین داوریہا را بپیش داور اندازیم سعدی بطامات مجلس نیاراستم ؞ زجان آفرین تو بہ اشش خواستم ؞

طاغوت - نام ایک بت کا اور نام ایک دیو کا -

طالوت - نام ایک سردار کا بنی اسرائیل سے جسنے جالوت نام کافر کے جنگ کیا اور حضرت داؤد پیغمبر جو طالوت کے لشکر کے امیر تھے انکے ہاتھ سے جالوت مارا گیا طالوت نے جو اقرار داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس فتح کے حاصل ہونے کی حالت مین کیے تھے اسپر قائم نرہا بلکہ دشمن ہوگیا جب طالوت مر گیا تو بادشاہت کے مسند پر داؤد بیٹھے -

طاعت - مطیع ہونا - فرمان بردار ہونا حافظ سعی نابردہ درین راہ بجاے نرسی ؞ مزد گر میطلبی طاعت استاد ببر ؞

طاقت - زور اور قوت و توانائی سے توانائی دہد ہر ناتوان را ؞ بہ کمزوران بہ بخشد زور و طاقت -

طاعات - جمع طاعت کی فرمان برداریان -

طالح - بدکار و بدکردار مقابل صالح عطار صحبت صالح ترا صالح کند ؞ ہمنشین طالح ترا طالح کند ؞

طامح - سرکش اور بلند مزاج -

طافح - بکسر فاے بدست جسکا معدہ شراب کے ساتھ بھرا ہوا ہو -

طاس - بڑا طشت معرب تاس اور نام ایک کپڑے زرتار کا پانی اور شراب پینے کا برتن -

طاؤس - مشہور جانور ہے جسکو ہندی مین مور کہتے ہین سعدی تو گوئی زشادی بخواہد پرید ؞ چو طاؤس کو رشتہ در پا ندید ؞

طاقدیس - خسرو پرویز بادشاہ کے تخت کا نام ہے جو طول مین ایک سو ستر گز اور عرض مین ایک سو بیس گز تھا لاکھون روپیہ کا جواہرات اسپر لگا تھا شعر نہ تاج خسروی ماند و نہ خسرو ؞ نہ تخت طاقدیسش برقرار است ؞

طائر قدس - جبرئیل علیہ السلام -

طائر - اڑنے والا جانور پرندہ ناصح عظمت بدادہ عرش را بر و زبالیش طائرے ؞ چون برق سال چہار صد انکہ رسد پاے دگر ؞

طاہر - پاک و صاف بے عیب بے لگاو -

طالع - بخت و نصیب قسمت اور طلوع کرنے چمکنے والا سے بخت دار اے تو داری درجہان اے شہریار ؞ دولت کیخسروی و طالع اسکندری

طائع - صاحب اطاعت فرمان بردار -

طامع - صاحب طمع و حرص و آز - تو چہ پرنشگفد در دہر گلزار طمع گل نگردد در چمن خار طمع ؞ درمیان دوستان رسوا شود ؞ دود دار مطلب و یار طمع ؞ بہر طامع زندگی مشکل بود ؞ شد چو دامنگیر آزار طمع ؞

طائف - طواف کرنے والا گرد پھرنے والا -

طارف - وہ مال جو تازہ اور نیا اور عمدہ ہو -

طائف - طواف کرنے والا اور وہ خیال جو خواب مین نظر آئے اور نام ایک علاقہ کا قریب مکہ معظمہ کے ملک حجاز مین مولانا جامی ادیم طائفی نعلین پاکن ؞ دوال از رشتہ جانہاے ماکن ؞

طابق - معرب تابہ روٹی پکانے کا توا جو لوہے کا بنا یا جاتا ہے -

طارق - ہر حادثہ جو شدید ہو اور وہ ستارہ جو صبح کے وقت نظر آئے اور مسافر جو رات کو چلے اور چور اور جادوگر -

طالق - صاحب رہائی - رہا کرنے والا - طلاق دینے والا -

طاق - جھکی ہوئی عمارت دور سے دار محراب اور نام ایک قسم کے کپڑے کا اور نام ایک درخت کا - اور یکتا یعنی اکیلا مقابل جفت کے میرزا صائب طاق ابروے ترا تابست معا قضا ؞ من ز قبلہ اسلام برگردیدہ ماند سعدی بر آورد از طاق دستار خویش ؞ باکرام و لطفش فرستاد پیش ؞

قزاقی - بزبر زبان را درآرم بزیر ہد زنم طاق خرشتہ بر پشت شیر ؂

طائل - فائدہ نفع سود-

طال - دراز ہوا - بڑھ گیا - طوالت مین آیا-

طارم - معرب تادم خانہ چوبین لکڑی کا بنگلہ جو کسی اُونچے مکان پر بنایا جائے اور چوبی جنگلہ جو باغ کی چاردیواری کی جگہ بنا دیا جائے تاکہ کوئی شخص باغ مین نہ آسکے اور چوب بندی جو انگور کی بیل چڑھانے کے لیے کیجائے جسکو داربست بھی کہتے ہین عرفی بعون نعمت عشق تو فارغم زنعیم ؂ نہ چوی شیر شناسم نہ طارم انگور ؂ سہ چہ خواہی از این طارم افراستن ؂ بگردون دون ہمسرش ساختن ؂

طالیقان - نام ایک شہر کا ہے-

طاعون - یہ ایک بیماری وبائی کا نام ہے جس سے ورم خصیہ یا پستان یا بغل یا ران پر نمودار ہو کر تمام جسم پر پھیل جاتا ہے اور آدمی کا ایک ہی روز مین کام تمام ہوجاتا ہے مگر یہ وبا زمانہ گذشتہ مین اکثر ہوجاتی تھی حال کے زمانہ مین ہیضہ اسکے قائمقام ہے جو اس سے بھی بہت جلد انسان کو عالم ارواح مین پہونچا دیتا ہے-

طاعن - تیر مارنے والا طعنہ دینے والا-

طاجن - لوہے کی کڑاہی اور توا لوہے کا جسمین کوئی چیز بھون لی جائے-

طاحون - طاحونہ - چکی جسکو فارسی مین آسیا کہتے ہین-

طابہ - طیبہ - مدینہ منورہ کے نام ہین-

طاقہ - ایک کپڑا یہ لفظ ہر ایک کپڑے کے ساتھ بولا جاتا ہے چنانچہ آدمی کے ساتھ نفر اور گھوڑے کے ساتھ راس اونٹ کے ساتھ مہار اور ہاتھی کے ساتھ زنجیر علے ہذا القیاس اور قوت و طاقت اور اکہری رسی اور گھوڑا سبزہ-

طائفہ - گروہ - جماعت - اجتماع لوگون کا کسی کام کے کرنے کے لیے-

طاقیہ - طاقی - ایک قسم کی ٹوپی دو ور دار کا نام ہے جو محراب کی طرح بنائی جاتی ہے-

طاقچہ - چھوٹا طاق جو دیوار مین ہو-

طاریقہ - یونانی زبان مین ایک تخم کا نام ہے جسکو عربی مین حب السلاطین وحب الخطائی کہتے ہین اور ہندی مین جمال گوٹہ یہ دواسہل ہے دست بہت لاتی ہے حب الملوک بھی اسی کا نام ہے-

طاری - ظاہر ہونے والا - اُترنے والا -

طاغی - اطاعت سے روگردان ہونے والا - مالک کا نافرمان قطعہ از مولف اگرچہ خارجے خارج زملت ؂ منافق روسیہ باغی وطاغی ؂ بہ یکجا عملی آمد شتابان ؂ معلق در ہوا سے بد دماغی ؂

طامہ کبرے - قیامت کا دن-

طاہر تالی - بہرو تاے مثناۃ نام ایک شخص کا جو کاف کی جگہ تا اسکی زبان سے نکلتا تھا اور میرزا مہدی میر نجات معشوق کا ملازم تھا ؂

طافی - بکسر فا جو سبزی ایستادہ پانی پر آجاتی ہے ہندی مین اسکو کائی بولتے ہین-

طاس بازی - یہ ایک کھیل ہے کہ طشت کو لکڑی پر چرخ دیکر ہوا مین پھینکتے ہین اور آتے ہوے کو اسی لکڑی پر لے لیتے ہین-

طائی - طی عرب مین ایک قبیلہ کا نام ہے جسمین حاتم تھا جو مشہور سخی ہے سہ از عدالت منفعل نوشیروان ؂ از سخاوت حاتم طائی خجل ؂

طاے با باے

طبا طبا - لقب حضرت اسمٰعیل بن ابراہیم بن حسن بن علی علیہ السلام اسواسطے کہ انکی زبان مین لکنت تھی اور قاف کی جگہ طا انکی زبان سے نکلتا تھا ایک روز عید کے روز انکے باپ نے انسے پوچھا کہ آپ کیا پہنینگے اُنھون نے جواب دیا طبا طبا یعنی قبا قبا اُسی روز سے وہ طبا طبا مشہور ہوگئے اب تک انکی اولاد سادات طبا طبا مشہور ہین-

طبابت - ابدان کے علم کا نام ہے جسکے ذریعے سے بیماریون کا علاج ہوتا ہے حدیث شریف ؂ العلم علمان علم الابدان علم الادیان سعدی گر نبی رفرزانگان رستی قوت ؂ کہ طبیب ندیدہ داروے موت ؂

طبیب - جو شخص طب کا علم پڑھا ہوا ہو اور بیمارون کا علاج کرے تو جیہ ہر دو در دجستجو سے طبیب ؂ کہ نشست از دل وجان مقاش قریب ؂ چو دیوانہ در صحن گلشن گرد ؂ بیک گل کفایت کن اے عندلیب ؂ مشو غرہ بر آب و تاب چمن ؂ کہ فانی ست این بوستان عجیب ؂ بشکرانہ کن نوش اسے دردمند ؂ اگر دارو سے تلخ بخشد طبیب ؂ اردو طبیب عشق سے پوچھا زلیخا نے علاج اپنا ؂ کہا تجکو بھلا ہے سورہ یوسف کا دم کرنا ؂

طبطاب - نام چوگان جسکا چوڑا ہوتا ہے اور اُس سے گیند کھیلتے ہین علی خراسانی چو گویش بہر جا کہ خواہد دواند ؂ دلم را بود زلف چو طبطاب ؂

طبیعت - مشہور لفظ ہے سعدی خوی بد در طبیعتی کہ نشست ؂ نرود جز بوقت مرگ از دست ؂ حکیم انور لاہوری کند گرم از محبت نیک دہد را ؂ اگر انسان طبیعت نرم دارد ؂

طبابت - طبیب ہونا - معالجہ بیمارون کا کرنا سہ تجے یا مسیحا در طبابت ؂ جیسے بیمار عشقت ہیچ دارو ؂

طبقات - بہت سے طبقے -
طباخ - کھانا پکانے والا یا باورچی مولانا اکبر لاہوری بہ فصل حلوائی
بپزد دو اکبر بہ کند پختہ بہر تو طباخ قدرت ٭
طبخ - پختن یعنی پکانا - کھانا وغیرہ کا -
طبیخ - وہ چیز جسکو پانی مین جوش دیا گیا ہو -
طبرزد - معرب تبرزد مصری جو مشہور چیز ہی باعتبار اُسکی سختی کے
تبرزد اسکا نام رکھا گیا -
طباشیر - معرب تباشیر مشہور دوا سپید رنگ کبودی مائل ہی ہندی مین
اسکو بنسلوچن کہتے ہین پوری کیفیت اسکی ادویات کی فصل مین لکھی جائیگی
انشاء اللہ تعالے راضی پہلے بالکی تاب و تب ہر کہ دارد بہ طباشیر
پالسی ہست راضی علاجش ٭
طبع - سرشت آدمی کی اور مہر کرنا خط پر اور سکہ قائم کرنا درہم و دینار پہ
اور نقش کرنا چھاپنا -
طباع - بتشدید با صاحب طبیعت ذکی و کوزہ گر توحید ایزدی کے غفلت
ار کند رہرو ٭ رود از دست جملہ مال و متاع ٭ طالب ذات صلح کل
باشد ٭ نہ خصومت کند بکس نہ نزاع ٭ ہست باریک نکتہ وحدت
سکند فہم فاضل طباع ٭
طباع - بکسر اول و تخفیف با آدمی کی سرشت اور خو جو زائل نہو جمع
طبع و جمع طبیعت -
طبائع - بہت سی طبیعتین
طباق - موافق و مطابق کرنا دو چیزون کا آپس مین -
طبق - بفتحتین موافق و برابر اور ہر چیز جو مطابق اسکے دوسری چیز اور
نام ایک بیماری کا ہی جو گھوڑے کو ہوتی ہی اور گھوڑے کی ناف کے
گرد ورم ہو جاتا ہی -
طبق - بکسر اول و سکون ثانی طریق و دستور اور چپٹی جو عورتین
آپس مین کھیلتی ہین اور شہوت کو دفع کرتی ہین صاحب بہار عجم اس لفظ کو
بفتحتین لکھ کر معنی اسکے دفع خارش زنان لکھتا ہی زلالی ہروی کی تعریف مین
طبق سیر دہیم فرج دو بالش ٭ دو انگشت حیرانی زبالش قدسی زمین
تا تو را قدرش کرد ختم ٭ طبق زن شدہ فرج و بینی بہم ٭
طبل - چھوٹا نقارہ جو بجایا جاتا ہی سعدی بد انجام کرد دست شکوہ نہی ست ٭
دگر و کند بانگ طبل تہی ست ٭
طبال - نقارہ بجانے والا طبلچی و روش الامر ذی مخاطب ہو اسے
تا ساکن حلقہ در ہانے ٭ طبال صماخ انس و جانی ٭ ہر نیک و بد زمانہ

حافظ ٭ کس چون تو نباشد از عناصر ٭
طبرخون - ایک لکڑی سرخ رنگ تلخ ہی جسکو سرخ صندل کہتے ہین -
طبطوی - ایک قسم مرغابی کی ہی -
طپانچہ - مشہور لفظ ہی نظامی چو مقبل کمر بست پیش از کفش ٭
طپانچہ فشا یاز زون بر درفش ٭
طبلہ - بازون کی بنی ہوئی ایک چیز ہوتی ہی جو شکاری ہاتھ مین
رکھتے ہین جب باز کو شکار پر چھوڑتے ہین اور اُسکو واپس بلانا
مقصود ہوتا ہی تو طبلہ کو جسمین طعمہ باز کا ہوتا ہی حرکت دیتے ہین
باز واپس آجاتا ہی نیز بمعنی ڈبہ جو عطارون کا ہوتا ہی سید علی شیرازی
آخر آن مہر شوخ شکار افگن بدام افتد بطبلہ از بال پری چیم وارم ماند سعدی
نا سا یہ مشام از طبلہ عود ٭ بر آتش نہ کہ چون عنبر ببوید ٭
طباہچہ - خاگینہ اور ہر چیز نرم و نازک -
طبریہ - ایک شہر کا نام ہی -
طبقہ - مشہور لفظ ہی -
طبعی - بفتح اول و دوم ہر چیز منسوب بطبیعت اور نام ایک
فن کا فنون حکمت سے اور عمر دراز ایکسو بیس برس کی یہ لفظ بسکون
ثانی بھی درست و صحیح تصور کیا گیا ہی -
طبقری - نام ایک مقام کا ہی -
طبی - بالکسر و بالضم چارپایون کے پستان جس سے دودھ دیتے ہین -

طا با حاے

طحلب - بالضم اول و لام مفتوح وہ سبزی جو حوض کے پانی پر آجاتی ہی -
طحال - بکسر اول سپرز یعنی تلی جو ایک عضو اندرونی احشا مین سے ہی -
طحال - بضم اول نام بیماری کا جس سے تلی ورم کر جاتی ہی -
طحن - آٹا پیسنا چکی کا - آٹا بنانا -

طاے با راے

طرفا - درخت کہ جسکو ہندی مین جھاؤ کہتے ہین اور پنجاب مین پلچھی
طرب - خوش ہونا خوشی کرنا اور خوشی [illegible] طرب کردن [illegible]
طروب - بضم اول و ضم ثانی شادمان یعنی خوش و خرم -
طروب - بضم اول و دوم جمع طرب بہت سی خوشیان -
طریقت - رستہ چلنے کا اور طے کرنا منازل سلوک کا اور تزکیہ
باطن توحید بسا بندگان سالکان طریقت ٭ بسا رہروان و اقفان
حقیقت ٭ بسا اہل حشمت بسا اہل شوکت ٭ بسا اہل دولت بسا اہل
عظمت ٭ شہان جہان و الیان ولایت ٭ امیران ذی جاہ و ارکان دولت

گذشتند و رفتند آخر ز دنیا ٭ ببردند با خود بجز داغ حسرت ٭

طراوت - تازگی - تری - رونق - آب و تاب کمال آور اسمٰعیل
خداری داد بملک زمانہ دیگر بار ٭ چنان طراوتی باندازہ حساب و شمار ٭

طرشت - ری کے ملک مین ایک علاقہ کا نام ہی جسکی آب وہوا
مطبوع ہی محمد قلی سلیم نازد با شک زآو دلم گوے لو سلیم ٭ چون
ملک ری آب وہوا سے طرشت نامہ ٭

طراثیث - بہرد ویا سے مثلثہ نام ایک میوے کا -

طرح - ڈالنا - دور کرنا - قائم کرنا کسی بنا کا اور نمونہ نئی عمارت کا
نقش کرنا - کنارہ پکڑنا - فروخت کرنا کسی جنس کا زبردستی سے یعنی
بادشاہ کی طرف سے کوئی ناقص جنس رعایا کو دینا اور قیمت اچھی
جنس کی وصول کرنا اور نام ایک فوج کا جو سوا ے میمنہ و میسرہ کے
امداد کے واسطے الگ کھڑی ہو اور ضرورت کے وقت امداد کو جا پہنچے
ظہوری - بہار انقدر بوستان طرح کرد ٭ کہ نتوان چو اقسام گل شرح کرد ٭

طراح - نقاش نمونہ اور ڈھانچ بنانے والا -

طرد - بروزن مرد - چلانا - دور کرنا - بھگانا - ہٹانا - کھیدن - زنبوروں
بھروں چوہوں وغیرہ کو -

طرید - وہ ہیبتناک آواز جس سے جانور وغیرہ بھاگ جاتے ہین
نظامی - طرید ے برآورد یارو سگفت ٭ کہ خواہی ہمین لحظہ
در خاک خفت ٭

طرفدار - بادشاہ - حاکم - سرحد کا محافظ طالب آملی صفت درد
بستارہ صفدارت ٭ باج شاہان خورد طرفدارت ٭

طرار - طرارہ - تیز زبان - چور - گیسہ بر - چالاک - مکار - حیلہ گر
فریبی - صفدر - فوقانی بر دل ز اہل دل آن شوخ عیار ٭ بطراری
و مکاری کند کار ٭ علی خراسانی - کسے نتوان کرد بطراری چشمش
گر دلبر ما دلبر طرارہ نباشد ٭

طریر - بروزن فقیر - خوبصورت و خوش لقا -

طرار - خوبصورت لوگ اور وہ چیزین جو تیز اور روان ہون -

طر - بفتح اول تیز کرنا - کاٹنا - پھاڑنا -

طر - بضم اول ہمہ و جمیع سب کا سب پورا -

طرہ - بضم اول و ہر دو را ے مہملہ پیشانی کے بال اور کنارہ ہر چیز کا
اور کھڑکی شستہ میرے -

طراز - بکسر اول نقش و نگار و علم جامہ اور کپڑے کی سنجاف اور نام ایک
شہر حسن خیز کا ترکستان مین معرب ترازکہ زیب و زینت و آرایش فغانی

فلک نیست یکسان ہم آغوش تو ٭ طرازش دو رنگ ست بر دوش تو ٭ لہ
طرازی نوا انگیزم اندر جہان ٭ کہ خواہد زہر کشوری نوزبان ٭

طرز - شکل - ہیئت - طور - طریقہ - طالب کلیم - چشمت بفسون بستہ
غزالان ختن را ٭ آموختہ نطق از نگہت طرز سخن را ٭

طرابلس - نام ایک شہر کا شام مین ٭

طرطوس - نام ایک پہلوان کا اور نام ایک گانون کا -

طرسیقوس - نام ایک نصارا بادشاہ کا -

طریف - غریب و نادر و نوزادہ

طرائف - لطیف چیزین نئے مال تازہ جنسین -

طرف - بفتحتین کنارہ اور جانب اور ٹکڑا اور حصہ کسی چیز کا اور گوشہ
میر خسرو - در چار سوی کوے خود افتادہ ہمی بندہ را ٭ سر یکطرف
تن یک طرف جان یک طرف پا یک طرف ٭

طرف - بفتح اول و سکون را ے آنکھ کی حرکت اور پلک کی جنبش اور
دیکھنا گوشہ چشم سے اور کمربند سنہرا اور گھوڑے کا ساز اور حریف
اور وقت و فائدہ خان خالص زبس دامن ازین گلشن برنگ غنچہ
برچیدم ٭ رسانیدم بمعراج گریبان طرف دامن را ٭

طرق - طرق - بضم اول و ضمتین جمع طریق بہت سے راستے جن پر چلین
طریق - راستہ جس پر چلین ماخوذ طرق سے جو بفتح اول ہی اسکے معنی وہ
آواز ہی جو چلنے کے وقت آدمی کے پانون سے آتی ہی اور نام ایک
شکل شانزدہ اشکال علم رمل سے اور طرز اور طور صائب گرد باد ازین
طریق دشت پیماے گرفت ٭ وحشت از مجنون با آہوے صحرا ے گرفت ٭

طراق - تازیانہ مارنے کی آواز - لکڑی ٹوٹنے کی آواز - ہڈی ٹوٹنے کی
آواز - ہیبتناک آواز - خوفناک آواز سے ز دل شیر و پلنگ آید آگاہ
طراق ٭ کہ بشست تو بر آید ز کمان تو ترنگ ٭

طرافل - اطریفل - ہندی معرب اصل اسکا تری پھل یعنی تین پھل
ہلیلہ بلیلہ آملہ ہین میر معزی اگر ز علت کین تو دل ضعیف شود ٭
نہ از طرافل سود کش بود نہ از جلاب ٭

طربال - بلند عمارت - بلند منار - محل عالیشان سے چو زیر خاک
مقام ست آخر انسان را ٭ چرا باوج فلک بر کشد سر طربال ٭

طرم - بکسر اول گاڑھا شہد جو جم جائے

طرفۃ العین - بہت تھوڑا وقت مقدار پلک ہلانے کی یہ لفظ بفتح
اول ہی جو لوگ بضم اول پڑھتے ہین غلطی پر ہین فرید الدین عطار طرفۃ العین
جہان برہم زند ٭ کس نے آرد کہ آنجا دم زند ٭

طرخان۔ ترکستان کے بادشاہ کا نام اور وہ شخص جسکو بادشاہ نے خدمات مفوضہ سے معافی دی ہو اور نام ایک سبزے کا جو کھانے مین آتا ہے۔
طرخون۔ نام ایک درخت کا جسکی جڑ کا نام عاقرقرحا ہے۔
طریان۔ حادث ہونا اور وارد ہونا کسی چیز کا۔
طرق۔ نقیبون کی آواز اسکے معنی رستہ چھوڑ و پوش پوش پیش پیش۔
طرفہ۔ بفتح اول ایکبار حرکت دینا آنکھ کا۔ اور سرخ نقطہ جو آنکھ مین پیدا ہو جاتا ہے اور نام نوین منزل کا منازل قمر سے اور وہ دو ستارے ہین بمنزلہ دو آنکھون برج اسد کے۔
طرفہ۔ بضم اول جو نئی چیز اور خوش ہو اور معشوق خوبصورت توحید آمدی ونقش ہر صورت نظرا سے ذات پاک ٭ قطرہ دیدیم گہر دیدیم و دریا دیدہ ایم ٭ گل بخندہ بلبل اندر نالہ قمری در فغان ٭ در چمن سامان عیش و نغمہ مہیا دیدہ ایم ٭ از انقلاب گردش گردون دون اندر جہان ٭ روز و شب شام و سحر طرفہ تماشا دیدہ ایم ٭
طرّہ۔ بالضم وتشدید راے زلف اور پیشانی کے بال اور کنارہ ہر چیز کا اور چھجہ مکان کا جسکو باران گیر کہتے ہین۔ ملا طغرا۔ کم ز دل شانہ نیست خاطر با دصبا ٭ طرہ چوگردید جمع زلف پریشان خوش ست ٭ ولہ ٭ گردد شب سپید از شر سیاری ٭ زمشکین طرہ روز من سیاہ ست ٭
طراوہ۔ بفتح اول وفتح واو رنگین کپڑا جو علم کے سر پر باندھتے ہین۔
طریدہ۔ حملہ کرنا۔ بھگا دینا اور چور و رہزن۔
طریقہ۔ روش۔ چال چلن۔ مذہب اور نام ایک ساعت نحس کا جو وقت ہونے قمر کے عقرب مین واقع ہوتی ہے آقا حسن وحدت آنرا۔ کہ بجز عشق و جنون مشرب نیست ٭ غیر از رہ بے تکلفی مذہب نیست ٭ بر سیکردم طریقہ اہل جہان ٭ آری از ری طریقہ بے عقرب نیست ٭
طرقی۔ بہت تھوڑا اور کم۔
طری۔ نیا اور تازہ۔
طراحی۔ نقاشی۔

طا با سین مہملہ

طسوج۔ کنارہ اور گرد و نواح اور نام ایک مقدار کا یعنی ہر ایک چیز کا چوبیسوان حصہ ایک گز کے چوبیس طسوج اور چوتھا حصہ دانگ کا وزن جو دو حصہ کا مقدار ہوا۔

طا با شین معجمہ

طشت۔ معرب تشت مشہور برتن ہے جسکو لگن ہندی مین کہتے ہین۔

طا با عین

طعم۔ بفتح اول لذت اور مزا جو کسی کھانے والی چیز سے حاصل ہو۔ میرزا طاہر وحید۔ ور مذاقم یاد طعم زہر قاتل میدہد ٭ ساقی غم جام مارا از تہ دل میدہد ٭
طعم۔ بضم کھانا اور کھانے کے لائق جو چیز ہو۔
طعان۔ بکسر اول وفتح ثانی نیزہ مارنا طعنہ دینا اور نیزہ مارنے والے لوگ جمع طعن کی۔
طعن۔ نیزہ مارنا۔ عیب لگانا کسی کے کام مین۔ ابو نصر نصیرا ای چنین کہ تازہ غزل سے زند طبع نصیر ٭ شگفت نیست اگر طعن بر ہزار کند ٭
طعمہ۔ بضم اول خورش و روزی یعنی کھانا۔
طعمہ۔ بفتح اول ایکبار چکھنا کسی چیز کا لذت اور مزا معلوم کرنا۔
طعنہ۔ بفتح اول نیزہ مارنا بدگوئی کرنا طالب آملی۔ زند طعنہ بر آتش سوز دردم ٭ برافتی نکتہ گیر دیچ و تابم

طاے با غین معجمہ

طغرا۔ بضم اول ترکی مین ایک پیچیدہ خط کا نام ہے جس سے فرامین بادشاہی پر بادشاہ کا نام لکھتے ہین درویش والہ ہروی در کشور صفحہ کلک یکتا ٭ بر نام سخن کشیدہ طغرا ٭ جمال الدین سلمان ٭ مثال عزل عقل از ملک دین برخواندہ ایم ٭ کشید ستند بر منشور ما طغرای عشق ٭
طغماج۔ نام ایک ولایت کا ہے ترکستان مین بعض کے نزدیک صحیح طمغاج ہے۔
طغرل۔ بضم اول کسر راے سلجوقی خاندان مین ایک بادشاہ کا نام ہے اور نام ایک شکاری جانور کا جسکو بہری کہتے ہین یہ لفظ ترکی ہے۔
طغان۔ بالضم نام ایک بادشاہ کا۔
طغیان۔ زیادتی کرنا حد سے گذر جانا۔ ظہوری۔ حرف زہرش گفتہ ام شکر لبم پر امیگرد ٭ درد طغیان میکند گر نام افیون می برم ٭
طغان شاہ۔ نام ایک عظیم الشان بادشاہ کا جو افراسیاب کی اولاد سے تھا
طغیانی۔ زیادتی یہ لفظ یعنی طغیان بذات خود مصدر رکھتا یاے تحتانی کا اسپر زیادہ کرنا درست نہین مگر اہل فارس نے یہ امر جائز رکھا ہے جیسے فضول کا فضولی اور خلاص کا خلاصی بنا لیتے ہین۔

طاے با فا

طفولیت۔ بروزن رجولیت۔ لڑکا ہونا۔ کم عمر ہونا۔
طفل۔ بکسر اول کودک کم عمر لڑکا یہ لفظ عام ہے کم عمر انسان اور حیوان کے واسطے اطفال اسکی جمع ہے اور وہ لڑکا جو یتیم ہو یعنی بے مادر و پدر۔ سعدی۔ گنہ بود مرد ستمگارہ را ٭ چہ تاوان زن و طفل بیچارہ را ٭

طُفَیل - نام ایک شخص کا جو نا خواندہ مہمان ہو جاتا اور کھانے کی مجلسون مین بغیر بلائے اور لوگون کے ساتھ چلا جاتا اور محاورہ فارسی مین ذریعہ اور وسیلہ جو کسی کام مین ہو - **خسرو** - بطفیل ہمہ قبولم کن ❊ اے آنکہ من و آنکہ ہمہ ❊ **سعدی** - چہ کم گردد ای صدر فرخندہ پے ❊ ز قدر رفیعت بدرگاہ حی ❊ کہ باشند نشستہ گدایان خیل ❊ بمہمان دار السلام از طفیل ❊

طَفْرَۃ - پھل جانا - کود جانا - فرصت ڈالنا کسی کام مین اور وہ فاصلہ جو کسی کام مین پڑ جائے -

طَفَاوَہ - وہ دائرہ جو آفتاب کے گرد واقع ہوتا ہی جیسا کہ چاند کے گرد ہالہ پڑھتا ہی سورج کے دائرے کو طفاوہ کہتے ہین -

طُفیلی - وہ شخص جو کسی کے گھر نا خواندہ مہمان کسی اور شخص کے ہمراہ چلا جائے - **مولانا بنای ہروی** ❊ چو ذکر غیر کنی در صحیفہ ما را نیز ❊ طفیلے دگران یاد میتوان کردن ❊

طای با قاف

طَقطَق - وہ آواز جو دو چیزون سخت کے آپس مین ٹکرانے سے نکلے فارسی مین تک تاک اور ہندی مین ٹھک ٹھک اسکو کہتے ہین اور نام ایک قسم کی روٹی کا - **کمال اسمٰعیل** - استخوانہا زلرزہ بر تن من ❊ ہمہ طق طق کنان چو دندان اندر سیر ز طاہر وحید نان تری تعریف مین رخش کرد در دلبری چون شتاب ❊ دل از طقطق ہاے او گشت آب + کاغذ گر کی تعریف مین - چو طقطق بود کاغذ نان او ❊ برین نان جہانے نسست مہمان او ❊

طاے با لام

طِلا - بکسر اول رقیق دوا جو بیمار کسی عضو پر لگائے ہندی مین اسکو لیپ کہتے ہین اور زر خالص یعنی سونا اور سونے کے ورق **سعدی** - وجود مردم دانا مثال زر طلاست ❊ کہ ہر کجا کہ رود قدر قیمتش دانند ❊ **نظامی** - بقربان او زر گر چیرہ ست ❊ طلاہای زر بر سر نقرہ بست ❊

طَلُوب - طالب طلب کرنے والا - خواہشمند -

طُلّاب - بضم اول و تشدید لام بروزن جلاب جمع طالب کی بہت سے طلب گار

طَلَب - بفتحتین خواہش جو دل مین ہو اور تلاش **شعر** - دست از طلب ندارم تا کام من بر آید ❊ یا تن رسد بجانان یا جان ز تن بر آید ❊

طُلبَت - بضم اول معرب تلب آدمیون کا گروہ اور جماعت -

طَلعَت - صورت - شکل - روشنی - دیدار اور دیکھنا **توحید** - نظر آید طلوع جلوہ داشتن ز ہر طلعت ❊ نمای چہرہ روشن ز ہر شکل و ز ہر صورت ❊

طَلاقَت - کھل جانا زبان کا اور تیز ہونا -

طَلْح - ایک بڑے خاردار درخت کا نام ہی جو ریگستان مین ہوتا ہی اور شگوفہ درخت خرما اور درخت موز یعنی کیلا -

طَلع - درخت خرما کا شگوفہ ❊

طُلُوع - بلند ہونا اور نکلنا آفتاب یا چاند یا کسی اور ستارے کا زلالی - کہ گرد مطلع دود چراغم ❊ طلوع مصرعہ دیوان داغم ❊

طَلاق - چھوٹ جانا عورت کا نکاح کے قید سے و بمعنی کشادگی و روانی و آزادگی **حافظ** - از سر مستی دگر با شاہد عہد شباب ❊ رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتادہ است ❊

طَلَق - بفتح اول وہ درد جو عورتون کو بچہ جننے کے وقت ہوتا ہی اور نام ایک کانی جوہر کا جسکو ابرک کہتے ہین **راضی** - در نظر ہا از صفائی طلعت او تہ نماست ❊ گرچہ طلق از فرط محجولی نقابش نو ہست ❊

طَلّ - باریک قطرے بارش کے اور شبنم جو رات کو پڑتی ہی -

طَلَل - جسم کالبد و تن و جثہ اور نشان اُجڑے ہوئے شہرون اور گرے ہوئے گھرون کے -

طِلِسم - بکسرتین موہوم خیال عجیب شکل مین دکھلانا اور مہیب شکلین جو حکمائے دفائن بنانے مین یہ صورتین اجزای ارضی و سماوی سے بنائی جاتی ہین **محمد قلی سلیم** - ہیچکس مہر کہ شہرت مجنون شکست ❊ این طلسمی ست کہ بر نام سلیمان بستند +

طَلْجَن - تابہ آہنی یعنی توا جسپر روٹی پکائی جاتی ہی ❊

طَلِیعَہ - وہ فوج جو رات کو لشکر اور شہر کی حفاظت کرے اور جو فوج لشکر کے پیش رو ہو -

طَلایہ - حفاظتی گشت کرنے والی فوج **مسیح کاشی** - اول بن رسید درین دشت پر خطر ❊ گوئی کہ بہر لشکر ہستی طلایہ ام ❊

طَلَبہ - جمع طلبا خواہشمند لوگ -

طَلحہ - رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دس اصحاب سے جنکو بشارت بہشت کی ہو چکی تھی اور عشرہ مبشرین انکا خطاب ہی ایک اصحاب کا نام ہی

طِلائی - سنہرے رنگ - زرد رنگ **محسن تاثیر** - آن رنگ طلائی خط مشکین خواہد ❊ ہر جا گل جعفری ست با ریحان ست ❊

طاے با میم

طُمَانِینَت - بضم اول و ہر دو نون تسلی و آرام اور جو لوگ ایک نون و تشدید یاے تحتانی پڑھتے ہین غلطی پر ہین -

طَمث - خون حیض کا اور حایض ہونا اور جماع -

طَمغاج - ترکستان مین ایک ملک کا نام ہی -

طلسس - پوشیدہ ہونا - دور ہونا - جدا ہونا -
طماع - بفتح اول صاحب طمع حریص بہت طمع کرنا سعدی بروے
خود وطماع باز نتوان کرد * چو بازشد بدرشتی فراز نتوان کرد *
طماع - بضم اول بہت سے طمع کرنے والے طامع کی جمع ہو
طمع - امید اور حرص اور آز - توحید - بہار
طمع زندگی مشکل شود * شد چو دامنگیر آزا طمع * مخلصی یابد نہ
بار رنج سر * بندہ نادان گرفتار طمع *
طمطراق - بضم ہر دو طای کر و فر - شان - شوکت - فخر - بڑائی -
طمع درم - مال و دولت - نقد و جنس - عزت - آبرو - ناموری -
طمانینت - تسلی - آرام - آسایش -
طماقہ - طماغہ - وہ ٹوپی جو باز کے سر پر دیتے ہین تاکہ اسکی آنکھین بند ہون -

طاے با نون

طناب - وہ رسی جو خیمہ کے ساتھ باندھی جاتی ہی قسم زمان راسخ
طناب شش جہت ہر سو کشید ند * عناصر در طبایع آرمید ند *
طنب - جمع طناب بہت سی رسیان خیمون کی -
طنجیر - بروزن دلگیر پتیلہ جو ایک برتن مشہور ہی کھلے منہ کا دیگچہ -
طنز - ناز و ادا ہنسی - مسخرا پن -
طناز - ناز کرنے والا ہنسی کرنے والا - رمز سے باتین کرنے والا -
طنبک - چھوٹا نقارہ معرب تنبک -
طنک - صدا و آواز -
طنین - مکھی اور زنبور اور مچھر کی آواز -
طنبورہ - مشہور ساز ہی معرب تونبرہ جو ہندی لفظ ہی اور بڑے کدو
سے بنایا جاتا ہی جسکو کدو تلخ کہتے ہین میرزا بیدل - بہوشم زستی
پیامے رسان * زمینا ے طنبورہ جامی رسان -
طنطنہ - آواز طنبورہ بربط وغیرہ اور کروفر اور آواز زیر و بم طبلے کی *

طاے با واو

طور سینا - نام اس پہاڑ کا جسپر حضرت موسیٰ کو جلوہ ربانی نظر آیا تھا -
طویت - پیچیدگی و نیت و اندیشہ -
طوارح - حادثے اور آفتین و مرگ -
طود - بڑا پہاڑ پشتہ بلند -
طور - بضم اول پہاڑ اور وہ پہاڑ جسپر موسیٰ علیہ السلام کو تجلی
ہوئی توحید - چو کرد ذات احد در وجود خاک ظہور * شد چو نور مطلع ایجاد
گشت روشن نور * گہے بدام ظہور شکار خود گردد * گہے شکار خود اند

نگہ در ہمہ شد گہی بر ہوس کنعان بچاہ کرد اعراد * نمود گاہ موسیٰ جمال خود بر طور *
طور - بفتح اول طرز طریق عادت -
طوس - ایک شہر کا نام ہی مسکن فردوسی علیہ الرحمۃ کا -
طوسیقوس - نام ایک نصرانی بادشاہ کا -
طوالع - جمع طالع اور نام ایک کتاب کا -
طوع - بفتح اول رغبت و رضامندی و خوشنودی خاطر -
طوغ - فوج کا نشان ترکی ہین -
طواف - کسی کے گرد پھرنا - طواف کرنا - نظامی طوافے زد بران
سبزہ گلشن * میان گلشن آبے دید روشن *
طوف - طواف کرنا - گرد پھرنا -
طواف - بہ تشدید واو طواف کرنے والا -
طوق - وسع و طاقت و گردن بند و حلقہ و گلو و گلوبند اور ہر چیز
جو مدور ہو نظامی - سر زلف معشوق را طوق ساز * دو رافگن بآین
گردن طوق باز * سعدی - ہابشت اطاعت پشت ای سرو سہی دارم +
مگر قمری صفت ہستم کہ طوق بندگی دارم *
طوارق - وہ حوادث جورات کو آسمان سے اترین جمع طارقہ زمانہ کی سختیان
طوطک - نام ایک ساز کا جسکو لغوزہ کہتے ہین میر نجات ارغنون و
دو قانون برد از دل شک را * کوک کن طوطک و طنبور و دف و تنبک را +
طویل - دراز اور نام ایک بحر کا بحور نظم سے -
طول - دراز ہونا - لمبا ہونا - ملا نظیری - کجا بودی کہ امشب سوختی
آزردہ جانی را * بقدر روز محشر طول دادی ہر زبانی را *
طوفان - کثرت سے برسنا پانی کا یا دریا کا چڑھ جانا آندھی کا
چلنا سخت ہوا کا چلنا - آگ کا لگ جانا میر خسرو - کدام خصم سر از
خط طاعت تو کشید * کہ از سپہر نبارید بر سرش طوفان *
طوطلہ - بروزن تزکیہ آراستہ کرنا - تمہید اٹھانا - سنوارنا -
طویلہ - لمبا مکان جسمین گھوڑے اور مویشی باندھے جائین سعدی قیاس
کن کہ چہ حالت بود دران ساعت * کہ در طویلۂ نامحرم بباید ساخت *
طوئی - معرب توے کہ ترکی مین شادی کدخدائی کو کہتے ہین -
طوبیٰ - نام ایک درخت کا جو بہشت مین ہی اور ہر ایک قصر مین اسکے
سایہ فگن ہی منتخبہ از مولف - قلم نے لوح پر نام محمد جب لکھا ہوگا +
خوشی سے بڑھ کے فوراً شاخ طوبیٰ جھک گیا ہوگا *
طوطی - معرب توتی مشہور پرندہ ہی چونکہ یہ جانور توت کا پھل بہت
شوق سے کھاتا ہی اسواسطے اسکا نام توتی رکھا گیا -

طولانی - دراز و درازی - لمبا - لمبائی - محمد قلی سلیم - باچنین کوتہی
عمر بیان نتوان کرد ﴿ قصۂ طول امل را کہ سخن طولانی ست ﴿

طای با ہای ہوز

طہماسپ - ایران کے ایک بادشاہ کا نام ہے جو بیٹا شاہ اسمٰعیل صفوی کا تھا
طہارت - پاک ہونا وضو اور استنجا کرنا علی قلی بیگ ترکمان
تقوای ما برای طواف پیالہ ست ﴿ جائیکہ بادہ نیست طہارت نمی کنم ﴿
شرف الدین بخاری - ای مصلا بیا طہارت کن ﴿ خانۂ دین خود عمارت کن
طہمورث - ہوشنگ کے بیٹوں سے ایک بادشاہ کا نام -
طہر - پاک ہونا حیض سے -
طہور - پاک کرنے والا -
طہیر - پاک کرنے والا -
طہران - دار الخلافہ ایران مشہور شہر ہے -

طای با یای

طیب - بکسر اول خوشبو اور خوشی و خوش طبعی -
طیب - بفتح اول و تشدید یای مکسور حلال لذیذ و پاک خوشبودار مطبوع -
طیب و مطیب - نام ہر دو پسران رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو
طیب و طاہر مشہور ہیں -
طیبات - بکسر اول ظرافتیں خوش طبعیاں -
طیبات - بتشدید یاے پاک عورتیں -
طیبت - بکسر اول مزاج و خوش طبعی -
طینت - بکسر اول سرشت اور اصلیت -
طیہوج - نام ایک پرندے کا ہے جسکو ہندی میں لوا کہتے ہیں
طیر - اُڑنے والا جانور - سے کند عبدہ بدرگاہ خداوند ﴿ ہمہ
وحش و طیر و جن و انسان -
طیارہ - بیاے مشدد اڑتا ہوا جانور و مہیا و آمادہ جمال الدین سلمان
چنان بعہد تو میزان عدل شد طیار ﴿ کہ میل سوی کبوتر نمے کند شاہین ﴿
طیور - بہت سے پرندے جانور وحید - سخن و دیو پری داد حصۂ مقسوم ﴿
رساند رزق بدام و دد و وحوش و طیور ﴿
طیش - سبک ہونا خطا ہونا کم عقل ہونا - تیر پر نشانہ نہ لگنا و غصہ
و غضب و بیدماغی -
طیف - وہ خیال جو خواب میں نظر آئے -
طیران - اُڑنا - پرواز کرنا -
طیلسان - قسم کپڑے کا ہے جو قاضی اور خطیب دوش پر رکھتے ہیں -

طین - نمناک مٹی - گیلی مٹی -
طیان - مٹی کا کام بنانے والا - کمہار اور پیچیدہ اور گرسنہ یعنی بھوکا -
طیرہ - بفتح اول غضب و غصہ -
طیرہ - بکسر اول خفت اور سبکی و خجالت و عیب و غمناک و شرمندہ سعدی
دو چیز طیرۂ عقل است دم فرو بستن ﴿ بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی ﴿
طیارہ - تیز رفتار گھوڑا اُڑجانے والا اور ہر چیز تیز رو مثل کشتی وغیرہ -
طیبہ - لقب شہر مدینہ کا -
طی - بروزن می نام ایک قبیلہ کا عرب میں جس سے نامور سخی حاتم پیدا ہوا
حافظ - سخن نماند سخن طی کنم بیا ساقی ﴿ بیار بادہ بشادی بیاد حاتم طی ﴿
طی - بتشدید یاے لپیٹنا اور لپیٹ کسی چیز کی اور نام ایک بیماری کا
جس سے بال تمام بدن کے حلقہ دار ہو جاتے ہیں -

دوسری فصل

اردو لغات کے بیان میں

واضح ہو کہ اس فصل میں جو لغت درج کتب اردو میں سب فارسی ہیں
اور اس باب کی پہلی فصل میں تحریر ہو چکے اسلیے دوبارہ نہیں لکھے گئے -

تیسری فصل

فارسی محاورات و اصطلاحات میں

طای با الف

طاق خضرا - سبز رنگ طاق کنایہ آسمان -
طائر قبلہ نما - وہ جانور کی شکل جو قبلہ نما میں بنائی جاتی ہے اور قبلہ کی سمت
اس سے معلوم ہوتی ہے - صفدر فوقانی گردن تسلیم دارد خم بسوے
کوے تو ﴿ دل بہ پہلو ہیزمان چون طائر قبلہ نما -
طالع چپ - نحس طالع اور شوم نور الدین ظہوری برای آنکہ شود
کار دشمن ما راست ﴿ چہ بہتر است کہ در طالع چپ ما نیست ﴿
طاس ساعت - گھڑی کا پیمانہ اور وہ ایک کٹورا سی ہوتا ہے جسکے نیچے
بہت باریک سوراخ ہوتا ہے پانی میں وہ تیرتا رہتا ہے ایک گھنٹہ میں
وہ پانی سے بھر کر ڈوب جاتا ہے نظیری نیشاپوری - خوار دیدم نرخم طاقت نیست ﴿ آرید
بنالہ ام شفاعت نیست ﴿ در ہر گریہ ام تر و گہی گرد و چشم ﴿ کہ زبان زنید طاس ساعت نیست ﴿
طاقت مہمان نداشت خانہ بمہمان گذاشت - یہ ایک مثل ہے کہ مہمان
کی مدارات نہ کرسکے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ذوقی آمد غم و دست رفت جانم
از جسم ﴿ طاقت مہمان نداشت خانہ بمہمان گذاشت ﴿
طاق و جفت - بازی قمار جو مشہور ہے میرزا طاہر وحید طاق و جفتی
باخصم با ابر کشیش کہ لا ابرہ ﴿ طاق بود ابروی و دہن جفت قسم باز برد ﴿

طاس چہل کلید - ایک طشت سی ہوتا ہے جسمین چالیس دعائین کندہ کی ہوتی ہوتی ہین اور چالیس آہنی تالیان اُسمین لگی جاتی ہین تالیون پر بھی چالیس ادعیہ کھدی ہوئی ہوتی ہین اُسمین پانی ڈالکر تالیون اور طاس کو دھوکر بیمار کو دیتے ہین اس امید پر کہ دعاؤن کی برکت سے بیمار اچھا ہوجائے - طاہر وحید دردہن باشد گرم در وصل او چندین زبان ٭ گفتگو از من نمی آید چو طاس چل کلید ٭ محمد قلی سلیم - زبرگ بید کہ درآب ریخت باد خزان ٭ حباب یاد ز طاس چہل کلید دہد ٭

طالع سکندری دارد - ایک مثل ہے کہ فلان شخص سکندری طالع رکھتا ہے ذہنی اورنگ زیب عالمگیر کی تعریف مین - درشہان زمانہ عالمگیر پیشیوۂ بندہ پروری دارد ٭ بر سر خویش سران جہان ٭ تاج اقبال و سروری دارد ٭ صد چو دارا ست بر در ش دربان ٭ زانکہ طالع سکندری دارد ٭

طارم اخضر - آسمان باعتبار رنگت کے صائب - نیست جائے پر فشانی چار دیوار قفس ٭ ماندۂ در تنگنائے طارم اخضر چرا ٭

طاعت ور - فرمان بردار - بندگی کرنے والا عرفی - بدست ہمت طاعت وران ریا کردم ٭ در اولین قدم اسباب خلد وحور وقصور ٭

طاق مزار - وہ طاق جو قبر کے سر کی طرف بناتے ہین اسکو چراغدان بھی کہتے ہین قاسم مشہدی - برو اے نوجوان داد جوانی دہ کہ پیران را ٭ جمید نہائے قد طاق مزار آرزو باشد ٭

طائر قیاس - قوت دراکہ عقلمندی عرفی - منقار بند کردہ رستی ہزار جا ٭ تا اولین دریچہ او طائر قیاس ٭

طائر قدس - جبریل علیہ السلام -

طاقت فروش - طاقت گداز - طاقت گسل - ناتوان و ناطاقت کمزور میرزا بیدل - شبنم طاقت فروش گلشن شوقم ٭ آب در آئینہ ام قرار ندارد ٭ طاہر وحید - جوانان گلبا ز طاقت گسل ٭ ولیکن بگلدستۂ داغ دل ٭

طاق فراموش - طاق فراموشی - جس جگہ کوئی چیز رکھ کر بھول جائین - ابو النصر نصیرائی بدخشانی - زنہار دل ببند نصیرا بوعدہ اش ٭ کین شیشہ را بطاق فراموش می نہند ٭ صائب خندہ چون مینائے می کم کن کہ چون خالی شدی ٭ میگذارد چرخ برطاق فراموشی ترا ٭

طاق پل - پل کی محراب جنسے پانی گذرتا یعنی پل کے چشمے ٭ محمد قلی سلیم در طریق عشق بازی از کسے کم نیستم ٭ موج سیلاب غمم پہلو بطاق پل زند ٭

طابق النعل بالنعل - قدم بقدم پانون پر پانون پوری پوری پیروی

طاق ابرو نمودن - ناز اور کرشمہ کرنا - ذوقی نمودم بر دگردن عجب خم ٭ چو جانان مرا طاق ابرو نمود ٭

طاق افتادن جدا ہونا الگ ہونا حافظ نقش مے بستم کہ گیرم گوشۂ زان چشم مست ٭ طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتادہ بود ٭

طاق ایوان - بادشاہی محل کا بیرونی محراب خواجہ سلمان شہے کہ بانی کیوان ز طاق ایوانش ٭ فراز بارگہ خویش طاق دیگر زد ٭

طاق برنہادن - کسی چیز کو طاق پر رکھکر بھول جانا مولانا رومی امروز منم ملول و شادم ٭ غم را ہمہ طاق برنہادم ٭

طاق زدن جست مارنا - کودنا جو یا گھوڑے کی تعریف مین - زند طاق از دم خودگاہ رفتار ٭ برنگ ابروے خوبان گرہ دار ٭

طاق شدن - طاق کردن - جدا ہونا اور جدا کرنا - الگ ہونا اور کرنا - صائب چشم دارم کہ مرا از دو جہان طاق کند ٭

طاق مردانہ ابروے دل آزار اے کسے -

طاق شکستن - گرانا - توڑنا طاق کا میرزا بیدل امروز دست از موج ہستی شستہ میگوید ٭ کہ طاق عمر چون بشکست نتوان کرد تعمیرش ٭

طاق نسیان جس طاق پر کوئی چیز رکھکر بھول جائین صائب نشد مکرر می پرستی گردش چشمی کجاست ٭ تا نہد بر طاق نسیان شیشہ و پیمانہ را ٭

طاوس علوی آشیان - کرۂ ناری جو سب سے بلند ہے -

طاعت گاہ - عبادت گاہ مسجد وغیرہ نظامی - کے دیر سنگین برافراختند ٭ بجمہور طاعت گہش ساختند ٭

طاق بنی شیبہ - یہ ایک طاق کعبہ مین ہے - محسن تاثیر کعبۂ روے جوانی کہ مرا در نظر ست ٭ جلوہ طاق بنی شیبہ کند ابروئش ٭

طاوس جلوہ - طاوس رفتار معشوق کی تعریف مین بولتے ہین میرزا رضی دانش - گل بچین از عشوۂ طاوس رفتاران ہند ٭ جا بجا پا در گل آن جلوۂ مستانہ باش ٭

طاس گدائی - گدائی کا کشکول حسین ثنائی - صحن فلک پر نجوم نیست کہ بر در گہت ٭ طاس گدائی سپہر در گہ دوران شکست ٭

طاق بندی - وہ نقش جو دیوارون پر زیب و زینت کے لیے کرتے ہین حکیم زلالی - بہر روزنے قبلہ یکسو شدہ ٭ ہمہ طاق بندی ابرو شدہ ٭

طاق مدنی - ایک قسم طاق کا ہے جو عمارت مین بناتے ہین واغظ قزوینی - نمی گر سفر گہ و شیر بچہ عمر ست ٭ طاق درگاہ مروت

کہ باشد مدنی ٭

طاق نمامی - طاق بندی -

طای یا تا ی

طب النسا - وہ کتاب جسمین عورتون کی بیماریون کے علاج لکھے ہوے ہون **اشرف** - دردم از طب النسا دختر رز شد علاج ٭ آب ناری پرستان آب انگورست وبس ٭

طبیعت دُزد - طبیعت کا چور وہ شخص جسکی طبیعت مین دوسرے شخص کی صحبت کا جلد اثر ہوجائے **سعید اشرف** - تا آنکہ تو صاحب طبیعت شدہ ٭ این حرف مثل شد کہ طبیعت دزدست ٭

طبل کوچ - کوچ کا نقارہ جو لشکر اور کاروان کے وقت بجایا جاتا ہے **ملوف** رخت بربند اے مسافر پا بنہ اندر رکاب ٭ میرسد ہر دم چو در گوش صداے طبل کوچ ٭

طباشیر صبح - صبح کی سپیدی فجر کا وقت **سہ** اگر صد مرض داری اے بوالہوس ٭ علاجش طباشیر صبح ست وبس ٭

طبخ حضور - طبخ نظر - وہ کھانا جو مالک اپنے روبرو اپنی آنکھ کے سامنے پکوائے **شفیع اثر** - یار را پختہ بنظارہ اثر میکردم ٭ دوشش طبخ نظرے بود دل شیدا را ٭ **راضی** - بگریہاے ہندستان صبورم ٭ گوارا نیست جز طبخ حضورم ٭

طبلۂ عطار - وہ ڈبا جسمین عطار عطر رکھ کر فروخت کرتا ہے **میر معزی** - طبل عطارست گوئی درمیان گلستان ٭ تخت بزازست گوئی درمیان لالہ زار ٭

طبل باز - وہ طبل جو باز کے شکار پر چھوڑنے کے وقت بجاتے ہین تاکہ اُسکی آواز سے درختون پر بیٹھے ہوے جانور اُڑین اور باز بہت آسانی سے شکار کرے **مغز فطرت** - بصحرا لے کہ ترک من شکار انداز میگردد ٭ دل قالب تہی گردیدہ طبل باز میگردد ٭

طبیعت شناس - طبیب حاذق و معالج کامل **سعدی** - امید عافیت آنگہ بود موافق طبع ٭ کہ نبض را بطبیعت شناس بنمائی -

طبل سوم زدن عسس - کوتوال جب آدھی رات کو تیسری نوبت بجاتا تو چلنا پھرنا شہر مین منع ہوجاتا - **نظیری نیشاپوری** - ملک خفتہ و عسس طبل سوم زد ٭ شدیم از زحمت اغیار فارغ ٭

طبل جنگ - وہ نقارہ جو جنگ مین بجایا جاتا ہے **میرزا جلال اسیر** - آسمان روزی کہ از خورشید طبل جنگ زد ٭ صلح کل آمد بدامان دل با جنگ زد ٭

طبل جدال - وہی جنگ کا نقارہ **نور الدین ظہوری** - مرا ستارہ بخت کہ نیست بیداری ٭ زدہ ست بافق این دیار طبل جدال ٭

طبل امان زدن - دشمن سے امان چاہنا - جنگ سے باز آنا **شفیع اثر** - روز میدان چون گذارد جرأت پا درمیان ٭ میزند خصم از طپیدنہاے دل طبل امان ٭

طبل بر زین بستن - طبل بر اسپ بستن - جنگ یا شکار پر آمادہ ہونا **عبد اللہ ہاتفی** - ببستند بر زین زر طبل باز ٭ پے شاہبازان کین کردہ ساز ٭ **زلالی** - بستہ بر گلگون اشک بیدلان طبل جہات ٭ زلف را باز سینہ بر طبل جان انداختہ ٭

طبل بگلیم کشیدن - کسی امر کو جو سب کو معلوم ہو پوشیدہ کرنے کی کوشش کرنا - **نور الدین ظہوری** - طبلے بگلیم فقر کش ٭ کاقبال کلاہ زین نمد کرد ٭

طبل خوردن - بھاگ جانا جسطرح پر جانور نقارے کی آواز سُنکر بھاگتا ہے **صائب** - طبل از ہجوم سنگ ملامت نمے خورم ٭ چون کبک مست خندہ بکہسار کردہ ایم ٭

طبل در زیر گلیم بودن - چھپانا ایسے امر کا جو سب کو معلوم ہو **صائب** - عشق در پیران بود چون طبل در زیر گلیم ٭ در جوانان عشق شور انگیز عید روستاست ٭

طبل زیر گلیم ماندن - بے نام ونشان رہنا - اور رسم ہے کہ جب کوئی امیر مرجاتا ہے تو طبل اور نقارہ اُلٹا کر اُسپر لحاف ڈالکر تابوت کے ہمراہ لیجاتے ہین **اوحد الدین انوری** - موافقان تو بر بام چرخ بردہ علم ٭ مخالفان ترا طبل ماندہ زیر گلیم ٭

طبل در گلیم زدن - کسی امر کو آہستہ آہستہ ظاہر کرنا - **کمال اسمٰعیل** - صیت صدایش مشرق و مغرب فرو گرفت ٭ دست نبوت تو چو زد طبل در گلیم ٭

طبل رسوا زدن - طبل رسوائی زدن - اپنے آپ کو ظاہر کرنا - مشہور کرنا - **صائب** - رمزے از بوالعجبیہاے نظربازان بس ست ٭ طبل رسوا زدن و شیوۂ پنہان دیدن ٭

طبل زدن - طبل فرو کوفتن - نقارہ بجانا - مشہور کرنا - **رضی دانش** - شد بہار و ابر در فکر سرانجام گل ست ٭ طبل شادی زدن کہ فتح نوبہ بنام گل ست ٭ **سعدی** - حسن تو ہر جا کہ طبل عشق فرو کوفت ٭ بانگ بر آمد کہ غارت دل و دین ست ٭

طپیدن - تپنا - گرم ہونا - بیقرار ہونا یہ لفظ تپیدن کا بدل ہے -

طبائع اربعہ - چار اخلاط جسم کی صفرا سودا بلغم اور خون -

طبل تہی - خالی نقارہ - آدمی بے علم و ہنر **سہ** - ز فریاد و فغان طبل تہی سیری منید ارد ٭ ندارد گوش پند آنکس کہ در بند شکم باشد ٭

طبل حیدر رازی - حیدر رازی ایک شخص تھا کہ اپنے آپ کو شجاع و بہادر کہتا ایک نقارہ اُسکے پاس تھا وہ اُٹھا کر شہر سے نکل جاتا اور کہتا کہ مین شیر کے ساتھ لڑنے کو جاتا ہون جنگل مین اگر کوئی گیدڑ بھی اسکو نظر آجاتا تو نقارے کو زمین پر رکھ کر ایک ہاتھ سے بجاتا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پیٹ کو اُس سے لوگون نے حال دریافت کیا تو کہا کہ نقارہ اسواسطے بجاتا ہون کہ شیر ڈرے اور پیٹ اسلیے بجاتا ہون کہ مین خود ڈرتا ہون اوحد الدین انوری - تیغ تو تیغ حیدر عربی + طبل تو طبل حیدر رازی ؁

طبل سلیمانی - طبل سکندری مشہور لفظ مین ورمعانی عام فہم میرزا جلال اسیر شکوہ وحدلتش بوزی کہ زد طبل سلیمانی + دل ہو رہی طپید ز اضطراب بحر پیدا شد + وله گر صدا ے سیکنی گوش از تہی مغزی سپست + شوکت آوازہ طبل سکند رہیچ نیست +

طاے با زاے

طرۂ طلا - طرۂ منقش - وہ طرہ جو منقش اور بادلے کا بنا کریگری مین رکھتے ہین میرزا صادق گویا - بزم تیرہ بختان را بہ ز شمع فانوسی است + طرۂ طلا بر سر جامہ یک تہی پوشی ؁

طرب سنج - خوشی کرنے والا ملا طغرا شراب خانہ والون کی تعریف مین میخانہ از شام تا سحر دم ؁ طرب سنج احیا چو اہل حرم ؁

طرہ فروش - محبوب خوبصورت خوش پیکر سیلفی برد سوداے ہمہ طرح فروشی بازم ؁ عشق او ورم وطرح دگرے انداز ؁

طرح کش - مغلوب و زبون و مصور و نقاش سالک قزوینی سالک ہمیشہ طرح کش عشق ظالم ؁ آن جان ودل کہ میدہیم امروز باج نیست +

طرفہا داشتن حرف - ایک کلمے کے چند معانی اور کنایہ ہونا اسماعیل کاشف - آو یختہ زلف مشکبو از جیب در است ؁ این مصرعہ پیچیدہ طرفہا دارد ؁

طرف شام - قریب شام کے صائب - پیران تلاش رزق فزون از جوان کنند ؁ حرص گدا شود طرف شام بیشتر ؁

طرۂ بام - گھر کی منڈیر اور اوپر کا حصہ نظامی - کشیدند بر طرۂ کوی بام شقائق نمطہاے فیروزہ فام ؁

طرفدار انجم - بادشاہ ترکستان و ستارۂ مریخ - نظامی جہان خسرو از زیر ہفت آسمان + طرفدار انجم توئی بیگمان ؁

طرح برداشتن - نقل اٹھانا کسی کے مکان کی وضع قطع پر مکان بنانا سالک یزدی - صنم خانۂ عشقم خلیل باید + کہ ز بتخانۂ ما طرح حرم بردارد +

طرح دادن - روگردان ہونا - اعراض کرنا محسن تاثیر - گر نگلش کند آن سرو پریچہرہ خرام ؁ سنبلستان چمن طرح دہد گیسویش ؁

طرح فروچیدن - بس کردینا عرفی - چو عرفی با خیال آن صنم خوش عشرتے دارد ؁ بروجاے دگر ای غم فروچین طرح صحبت را +

طرح کردن - زور و تکلف سے دینا انوری - در غنا نیست جہان از کرم او کہ زکوۃ + عاملِ از عجز ہمین طرح کند بر ایتام ؁

طرف ابرو بلند کردن - تعظیم و تکریم کرنا طالب آملی - مریض عشق چو آید اجل ببالینش + کند بلند بہ تعظیم طرف ابروے ؁

طرف برداشتن - فائدہ اٹھانا محسن تاثیر - با اہل سخن نشین و طرفی بردار ؁ از کیسۂ عمر نقد صرفے بردار ؁ در معرکۂ ہنر بہ نیروی سخن ؁ با تیغ زبانی سر حرفے بردار ؁

طرف بستن - ایک طرف ہونا - رستہ روکنا - فائدہ پانا سنجر کاشی کہ پیش راہ تو گیرد کہ طرف بندد + چو بر سپاہ مخالف روان کنی نگران - حافظ کس بدو ز نگست طرفی نبست ز عافیت + بہ کہ لفر وشند مستوری مستان شما +

طرف شدن - مقابل ہونا - روبرو ہونا - طاہر غنی - باد انداخت سپر تا طرف روے تو شد ؁ کاست از غیرت و ہمچشم با بروے تو شد ؁

طرف داشتن - طرف گرفتن - ضمانت کرنا - مدد کرنا - گوشہ پکڑنا - جمال الدین سلمان - دو دشت ہمہ قصد طرف خاطر با بود ؁ امشب سر زلف تو طرف دوش تو دارد ؁ علی قلی بیگ خراسانی - در تہ سایہ زلفی نہ نشینم ہرگز ؁ ہیچ طرفے دلم از طرف کلاہے نگرفت ؁

طرقوزدن - ایک طرف ہونا - رستہ چھوڑ دو کہنا میر خسرو چون بہ نجم سپہر کرد آرام ؁ طرقو زد چو چاوشان بہرام ؁

طرۂ ایوان - طرۂ دالان - مکان چھجا جسکو فارسی مین باران گیر اور عربی مین منطقہ کہتے ہین تاثیر - چشم او با طاق ابرو لیلی ایوان او طرۂ ایوان لیلی جز کہ مژگان او ؁

طرۂ پریشان - معشوق کی تعریف مین بولتے ہین شیخ ناز ہم آشفتگی عشق کہ خوش مے آید ؁ بخت شوریدہ ہم طرہ پریشانی زرا ؁

طربگاہ - خوشی کا مقام عیش کی جگہ عرفی خویشتن را ز تنگنای دلم ؁ بطربگاہ دلبر اندازد ؁

طرفگی - بازیگری - مکر و فریب بدیعی سمرقندی - کنند خال و خطت از براے بردن دل ؁ ہزار طرفگی و صد ہزار بوالعجبی ؁

طاے با سین

طسق اسیا - یہ بادشاہی خراج کا نام ہے جو چکی پیسنے والون پر ایران مین مقرر ہے شفیع اثر نجف قلی خان صدر ایران کی ہجو مین تا رستہ تخم گشت ہنوز از زمین قفت ؁ برزار عان حوالہ کنند طسق اسیا ؁

طای باشین

طشت وآب خواستن - پانی اور چلمچی مانگنا - ہاتھ دھونا - پاک ہونا اور کرنا **انوری** - دنیا خراب و ہمین بخلق بود عدل تو + آوازکرد ہردو کنون طشت وآب خواست +

طشت آتش بسر دارد - قدیم زمانہ مین رسم تھی کہ جو شخص کسی اپنے بزرگ یا مالک سے قصور معاف کرانا چاہتا تھا تو طشت آگ کا سر پر رکھ کر روبرو حاضر ہوتا اور یہ علامت کمال عجز و انکسار کی تصور کیجاتی تھی **جامی** بہر عفو جرم خود در بارگاہ ذوالجلال + آب اندر دیدہ و آتش بسر داریم ما +

طای باعین

طعنہ تراش - طعنہ زن - طعنہ گر - طعنہ دینے والا بدر چپا چی صحن تو باد جلوہ گر روضہ بہشت باب را + خلق تو باد طعنہ گر بوی خوش گلاب را + **نورالدین ظہوری** - زبان تیشۂ فرہاد ہمچنان تیز ست + ہنوز طعنہ تراش از برای شیرین ست +

طای باغین

طغرا کش و طغرا نویس - وہ خوش نویس جو بادشاہ کا نام فرامین پر بخط خوش لکھتا ہے شنجرف یا آب طلا سے ملا طغرا - بطغرا نویس گل سرخ رنگ + رسانیدہ شنجرف می بیدرنگ +

طای بافای

طفل مکتب - مکتب کا طالب علم مبتدی **مؤلف** - بہرہ از علم عرفان نیست گر + فاضلان دہر طفل مکتب اند +

طفل مزاج - طفل مشرب - جسکے مزاج مین لڑکپن ہو **ابوطالب کلیم** بر طفل مزاجان جہان چون گذرد حال + امروز کہ پستان امل شیر ندارد + **صائب** - از طفل مشربیست کہ در کام جہان + این میوہ ہای خام تمنا شود لذیذ +

طفل شیر - طفل شیر خوارہ - دودھ پیتا لاابچہ - **طاہر وحید** میدان نقش جہان اصفہان کی تعریف مین - ازین سرروان گشتہ گر طفل شیر + ازان سرچو برگشتہ برگشتہ پیر +

طفل شش ماہہ رز - شراب جو چھ ماہ کے بعد لائق پینے کے ہوتی ہے **طغرا** - طفل شش ماہہ رز یک نفس آرام نیافت + تا نگر دید بگہوارۂ مینا در خواب +

طفلان آتش - آگ کے شرارے **امیر خسرو** دو دیدند فوجے دلیران روم + چو طفلان آتش بتاراج موم +

طفلان چمن - سبزہ اور شگوفہ باغ کا **سلیم** - طفلان چمن را چو شرر نیست بقا سے + در باغ خزان ہست کہ ہمزاد بہار ست +

طفل خونین - آفتاب عالمتاب **خاقانی** بر شگافد فلک مشیمہ شب + طفل خونین بشجاورا نداز د +

طفل دبستان - طفل مکتب کم علم و کم رتبہ و کم قدر آدمی - **ذوقی** - پا مست در محفل علم و ادب + ذوقیا طفل دبستانی ہنوز +

طفل در گریبان انداختن - متبنے بنانا غیر لڑکے کو اپنا بیٹا بنانا **طاہر وحید** ز دل دانسته طفل اشک را خویش میداند + چو فرزندی که اندازند مردم در گریبانش +

طفل را از پستان بریدن - از شیر باز کردن + از شیر بریدن از شیر وا کردن - بچہ کا دودھ چھڑانا - **نورالدین ظہوری** رسید نوبت بیدار بختیم وقت ست + کہ طفل خواب ز شیر فسانہ وا کردم + **بیانی** چو رفت ایام شیر عہد نازش + بیادت دایہ کرد از شیر بازش **ابوطالب کلیم** ز شیر و خشت زنند تا برید طفل عادت را + بحکم دایہ مشرب بجون توبہ خو کردم **ولہ کلیم** پیر شدی وقت آن ہنوز نشد + کہ طفل طبع ز شیر ہوس بریدہ شود +

طفل رزان - شراب انگوری **والہ ہروی** مینا زمی ناب تہی ملعوب از حرف + خاموشی مامرتبہ طفل رزان ست +

طفل ہندو - خال رخسارۂ محبوب اور آنکھ کی پتلی -

طفل چہل روزہ - حضرت علیہ السلام آپکا خمیر بوقت درستی کالبد کے چالیس دن تک گوندھا گیا تھا -

طفل شش روزہ - تمام عالم موجودات جو چھ روز مین وجود مین آیا تھا -

طاے بالام

طلا کوب - زرکوب جو لوگ سونے کے ورق بناتے ہین **طاہر وحید** دل شیوہ یار را پیشہ کرد + کہ گشتم طلاکوب این رنگ زرد +

طلایہ دار - دیدبان سردار فوج طلایہ **شفیع اثر** غم بر سر حواس شب خون نیاورد + در حلقہ کہ ذکر تو باشد طلایہ دار +

طلبگار - صاحب طلب خواہشمند **سعدی** طلبگار خیر ست و امیدوار + خدایا امیدے کہ دارد برار +

طلاساز - سونا بنانے والا - کیمیاگر **فغانی** - شود شوشہ زر از ین بادہ مس + طلاساز را درکشش اکسیر بس +

طلادوز - جس چیز پر طلائی کام ہو - **فغانی** - از رنگ دگر سوخت دل از دور چو دیدست + نقش کمر و تاج طلادوز نہ ارست +

طلا باف - طلاکار - جس چیز پر سونے کا کام ہو یا جس مین طلا ڈالا گیا ہو **عرفی** - لباس صورت اگر و آزگون کنم بپسند + کہ خرقۂ خشم جامہ طلا باف ست + **محسن تاثیر** - منزل مردان ز نقش عاریت عاری خوش ست + خانہ چون فانوس از سامان طلاکاری خوش ست +

طلا کردن - لیپ کرنا کسی تر دوا کا بیمار کے جسم پر ضماد بھی اسکو کہتے ہین

نور الدین ظہوری قصد ابرو اجل را دو الگ کرده اند ٭ که بر جبهه ازرمی
طلا کرده اند ٭ سعید اشرف تفاخر بزرین قبا مکنی ٭ طلائے
بر آہن طلا میکنی ٭
طلبیدن - طلب کرنا - بلانا - پکارنا -
طلائے کشتہ - وہ سونا جو خاک کیا ہوا ہو علی رضا تجلی بے تو برمن
مہتاب ہر شب شب دیگر شدہ ست ٭ نو شیتم چون طلای کشتہ خاکستر شدہ ست ٭
طلای جعفری - طلای دست افشار - نہایت عمدہ اور نرم سونا -
فوقی یزدی - ای خوشا ساعت کہ بہ بزم حضرت ممدوح را ٭ گر کف خشم کند
لک لک طلائے جعفری منفر فطرت عیار حسن سرکش را محبت میکند
کامل ٭ طلای شعلہ پروانہ دست افشار میسازد ٭
طلای دو تیی - وہ اشرفی جسکے دونوں طرف بت مسکوک ہوتے ہیں اعوظ قزوینی
قبلہ طاعت این قوم طلای دو تیی ست + طاق در ہای خسان نائب محراب بود +

طای با میم

طمع کار - صاحب طمع جسکا شیوہ طمع ہو - صائب پیش راہ حرص پیری
چوب نتواند گذاشت ٭ بیشتر دست طمع کار ز عصا گردد بلند ٭
طمع خام - بے حاصل ہوس وہ امید جسکا حاصل ہونا ممکن نہو طالب کلیم
خاک دارد فلک از کاسہ اسد دریغ + طمع خام از او آب لقا میخواہد ٭
طمع راسہ حرف ست ہر سہ تہی - مشہور مثل ہے کہ طمع کے تینوں حرف
خالی ہیں نقطہ کسی پر نہیں ہے سعدی طمع راسہ حرف ست ہر سہ تہی ٭
ازان نیست مر طامعان را بہی ٭

طای با نون

طناب صبح - صبح کے خطوط شعاعی سے مراد ہے انوری باش تا صبح دولتت
پس ازین ٭ تیغ خورشید برکشد زنیام ٭ تا کنی از طناب صبح طناب ٭
تا کنی از خیام چرخ خیام ٭
طنبور نواز - وہ شخص جو طنبورہ بجاتا ہو - طاہر غنی - نمی بیست چو در کاسہ
سرا رعشہ پیراعضا ست ٭ دستم بنظر پنجہ طنبور نواز ست ٭
طناب قورق - وہ طناب جو بادشاہوں کے خیموں کے گرد باندھتے ہیں
تا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند رہے شفیع اثر زچین جبہہ فرو مایگان بنیاد آن
کشیدہ اند طناب قورق برای فقیر ٭
طناب خوردن - پیمائش ہونا - ناپا جانا - ظہوری بمباحثہ چو تخم
کار دو داغ ٭ سینہ از آہ غم طناب خورد ٭
طناب زدن - طناب نہادن - پیمائش کرنا - ناپنا کسی چیز کو میر معزی
برین حدیث شہا شہر تو دلیل بس ست + کہ از عمارت او ملک یافت رونق و آب +

بدولت تو نجم بر و کشیدہ رقم + بہمت تو مہندس بر و نہادہ طناب ٭
میرم سیاہ - در موج خیز کس کہ جہان را گرفتہ آب ٭ نہ قبہ سپہر نماید
چو یک حباب ٭ راہ دراز کس بہ نہایت نمیرسد ٭ گر صد ہزار سال
زند ایرما طناب ٭
طنبورہ از غلاف بیرون آوردن طنبورہ از غلاف بیرون کردن -
راز کھل جانا - بھید ظاہر ہونا - اوحد الدین انوری - آدم با سخن کہ
نتوان کرد ٭ از حوال شرہ برون طنبور -

طای با واو

طوطی صحرا - جنگل کی طوطی یعنی سبزہ جنگل کا -
طوق نقرہ و طلا - یہ ایک زیور کا نام ہے اور گلے میں پہنتے ہیں ہندی
میں اسکو ہنسلی کہتے ہیں - تاثیر - گر چنین نور فزاید رخ تابان ترا ٭ میکشد
طوق طلا طوق گریبان ترا ٭
طوبی قامت - طوبی قد - محبوب کی تعریف میں بولے جاتے ہیں اور اُسکے
قد کی تعریف میں - آصفی - زطوبی قامتان بس باشدم سرو خرامانی +
چرا قمری صفت ہر لحظہ بر شاخ دگر باشم ٭ ولہ آصفی طوبی قدان را
تماشائے شد بلند ٭ التماس چرخ زان مجلس عالی کنیم ٭
طوفان نژاد - جس سے طوفان پیدا ہو شرف الدین شفائی - گریہ
طوفان نژاد من سر بر خاشاک شست ٭ زور دہ گردم و گریہ کار طوفان کردہ بود +
طوق دار - غلام فرمان بردار اور قمری و فاختہ و طوطی و مقید با زنجیر
تابعت مہرست دو حلقہ بگوش ٭ گنبد گردان غلام طوق دار ٭
طوق باز - جسکی گردن میں طوق ہو - نظامی - سر زلف معشوق را طوق ساز
ورا فگن تان گردن طوق باز ٭
طوفان خروش - طوفان خیز - طوفان دیدہ - طوفان رسیدہ - طوفان رسے
طوفان زدہ - طوفان طراز - طوفان کدہ انکے معانی مشہور و معروف ہیں
میرزا بیدل - کیفیت طوفان کدہ گریہ مپرسید ٭ از بیم اشکم بنظر
عالم آب ست ٭ میرزا صائب - طاقت کجاست روی عرقناک دیدہ را +
آرام نیست کشتی طوفان رسیدہ را ٭ ولہ از ما حدیث زلف و رخ دوستان
مپرس ٭ طوفان رسیدہ را ز کنارہ میان مپرس ٭ ولہ شہم آن سیل
کہ دریا نکند خاموشم ٭ کوہ در کشتی طوفان زدہ سازد جوشم ولہ ز ابراہیم
ادہم مپرس قدر ملک درویشی ٭ کہ طوفان دیدہ از آسایش ساحل خبردارد ولہ
داغ ناسور نقش ماہی دریای عشق ٭ تیغ سیراب ست موج بحر طوفان زای
عشق ٭ ابوطالب کلیم - دیدہ اسامان یک شبنم کلیم اول نبود + این
زمانش موج حسن یار طوفان خیز کرد + طالب آملی - یک لحظہ نیست کین شد

طوفان طراز نیست ∴ واین دل چو شمع طعمہ سوز و گداز نیست ∴

طوطی خط۔ جوان سبز خط سالک قزوینی۔ طوطی خطے کہ طعنہ زند
برخط لبش ∴ دارم سرے چو فاختہ بر طوق غبغبش ∴

طومار تصرف۔ جاگیر و عطیہ کی سند جو بادشاہ سے رعایا وغیرہ کو
ملت ہو طومار و اصلات بھی اسی کو کہتے ہین۔

طوطی مقال۔ شیرین زبان و شیرین کلام صفدر فوقانی۔ وخطے مہ چہرہ
شکر دہان ∴ دلبر شیرین زبان طوطی مقال ∴

طوفان کردن۔ کوئی بڑا کام کرنا۔ صائب فیض مردان در زبان بیخودی
افزون ترست ∴ تیغ جوگرد ید عریان بیشتر طوفان کند ∴ ولہ نتوان دیدن
زکشتی اضطراب بحر را ∴ حسن طوفان بیشتر در رخانہ زین میکند

طوق بردن۔ یہ ایک ہنر نشانہ بازی کا ہے کہ ایک حلقہ طلائی کسی بلند
موقع پر نصب کرکے کہتے ہین کہ جسکا تیر اسمین سے گذر جائے طوق لے جائے
پس جسکا تیر حلقہ کے اندر سے گذر جاتا ہے طوق لیجاتا ہے اور یہی کام نشانہ کا
بذریعہ نیزہ کے کیا جاتا ہے یعنی جو سوار گھوڑا دوڑائے ہوئے آئے اور
طوق کو اپنے نیزے کی نوک سے لیجائے طوق اسی کا ہو نظامی زسیمین
ترنج گوے انگیختہ ∴ بر و طوقی از غبغب آو یختہ ∴ بران طوق و گوئے آن
مہر جوے ∴ زمہ طوق بردہ زخورشید گوے

طوطی صاحب سلامت گو۔ وہ طوطی جسکو صاحب سلامت کے
الفاظ پڑھائے جاوین ملا قاسم مشہدی۔ درمیان نوخطان باقی
ہمہ نیرنگ تست ∴ طوطی صاحب سلامت گو خط شبرنگ تست ∴

طوطی پس آئینہ۔ طوطی کی تعلیم دینے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ آئینہ
طوطی کے مقابل رکھکر الفاظ بولے جاتے ہین طوطی کو جو
اپنی شکل آئینہ سے نظر آتی ہے سمجھتا ہے کہ طوطی میرے روبرو ہی یہ لفظ
بول رہا ہے حافظ در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند ∴ آنچہ استاد
ازل گفت ہمان میگویم ∴

طوق عنبرینہ۔ نیا خط جو معشوق کے رخسار پر نکلے۔

طوق ماہ۔ چاند کا ہالہ۔

طای با ہای ہوز

طہارت جای۔ طہارت خانہ۔ نہانے اور وضو کرنے کی جگہ حکیم سنائی
علم در دست جاہل خود رای ∴ چون چراغی ست در طہارت جاے ∴

طا با یاے

طی شدن۔ ختم ہونا۔ بس ہو جانا۔ میرزا بیدل۔ زخود گر بگذری
ہو گیرہ و منزل نمے باشد ∴ رہ ہر کشش طی شد بیک گام پریشانی ∴

چوتھی فصل

اردو اصطلاحات و محاورات مین

طای با الف

طاق پر رکھا رہنا۔ نکما و ناکارہ ہو جانا۔ الگ و جدا ہو جانا کیفی
عشق نے ایسا کیا بیخود ہمین ∴ شیشہ سی طاق پر رکھا رہا ∴

طاق ہونا۔ اکیلا ہونا۔ بے مثال ہونا۔ طاقت ہونا قطعہ صفدر فوقانی
اٹھنا اور بیٹھنا ہوا موقوف ∴ ایسا طاقت سے ہو گیا ہون طاق ∴
گھڑیان گنتا ہون اپنی زندگی کی ∴ کوئی دم مین حساب ہے بے باق ∴
حکیم انور لاہوری۔ عاشقون مین شہرۂ آفاق ہون ∴ عاشقی اور
دل لگی مین طاق ہون ∴

طالع چمکنا۔ قسمت یا بھاگ جاگنا۔ نصیبہ کھلنا صفدر رامپوری
ظلمت ہجر گئی ماہ منور چمکا ∴ بخت بیدار ہوے طالع صفدر چمکا ∴

طاق بھرنا۔ مسجد یا کسی بزرگ کے مزار پر چراغ جلانا۔

طا سے با باے

طباقی کتا۔ ٹکڑے کا دوست۔ مطلب کا یار۔ مفت خور۔ گھر گھر پھرنے والا۔

طبق چھوڑنا۔ نذر نیاز کرنا۔ صحنک دینا۔ جان صاحب۔ پریون کا طبق
چھوڑونگی دیوانی نہ ہو جاؤن ∴ کچھ کھوٹ ہے جو خواب مین دریا نظر آیا ∴

طبقہ الٹ جانا۔ زمانہ گردش مین آنا۔ وقت بدل جانا اور یہی
رنگت نظر آنا۔ قطعہ از مؤلف۔ اچھے لوگون کا دار عالم سے ∴
نیست و نابود ہو گیا طبقہ ∴ اب وہ انسان رہے نہ وہ حیوان ∴
یک قلم کیا الٹ گیا طبقہ ∴

طبلہ کھڑکنا۔ طبلہ بجنا۔ ناچ رنگ ہونا۔ مؤلف۔ اُدھر غم ہین
جدائی کے ہمیشہ دل دھڑکتا ہے ∴ اِدھر عیش و خوشی سے رات دن طبلہ کھڑکتا ہے

طبیعت الجھنا۔ جی پریشان ہونا۔ پراگندہ خاطر ہونا۔

طبیعت آنا۔ عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ جی آنا۔ دل آنا۔ شوق جب
طبیعت کسی پہ آئیگی ∴ جتنی حکمت ہے بھول جائیگی ∴

طبیعت بگڑنا۔ ناراض ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔ بردا شتہ خاطر ہونا۔ گھبرانا۔
جی متلانا۔ مولانا اکبر لاہوری۔ اچانک بے سبب انکی طبیعت جب
بگڑتی ہے ∴ بلا ہولی ہے نازل تازہ آفت ہم پہ پڑتی ہے ∴

طبیعت بھر جانا۔ جی بھر جانا۔ سیر ہو جانا۔

طبیعت لڑانا۔ طبیعت کو لڑانا کسی تدبیر کی درستی کے لیے طبیعت پر
زور ڈالنا۔

طبیعت لڑنا۔ کسی بات کے حل کرنے مین طبیعت کا پہونچ جانا۔ مائل و با رغبت ہونا

ذوق - واہ کیا کیا طبیعت اپنی بھی عشق مین ابتدا سے لڑتی ہے -

طبیعت لگنا - دل کا مشغول ہونا - جی لگنا - مفتی حیدر - محبت کے سبب سے صبح ہین الفت کے سختے ہین ٭ اُکھڑتی پھر نہین ہرگز طبیعت جس سے لگتی ہے ٭

طبیعت ہونا - جی چاہنا - رغبت ہونا - شوق - ستیاناس جاے غارت ہو ٭ اور پر جسکی کچھ طبیعت ہو ٭

طبعزاد - اپنی طبیعت سے نکلی ہوئی بات شعر ہون یا مضمون یا کوئی تجویز و اختراع

طبیعت دار - ہوشیار - زود فہم -

طباق سا منھ - چوڑا چپٹا بھدا منھ - بے حیا - بے شرم یہ لفظ اکثر عورت کی نسبت بولی جاتی ہین -

طای باراے

طراری بھرنا - سرپٹ دوڑنا - فرفر کسی تحریر کو پڑھ لینا - بے توقف کام کرنا -

طرح اڑانا - کسی کی وضع سیکھ لینا - انداز حاصل کرنا

طرح دینا - بے پروائی کرنا - چشم پوشی کرنا - ٹال دینا - روگردانی کرنا - صفدر رفو قانی - دے کے آوازین بلا لیتے ہین پاس ٭ دوسرے اغیار کو پہچان کے ٭ پر سر رہ دیکھتے جب ہمکو ہین ٭ طرح دے جاتے ہین جانان جان کے ٭

طرح ڈالنا - بنیاد ڈالنا - تدبیر کرنا - نیو رکھنا کسی عمارت کی - چراغ دین روشن - خود گراتے ہین اس عمارت کو ٭ جسکی ہم پہلے طرح ڈالتے ہین -

طرح اڑانا - دوسرے شخص کی طرز و روش اختیار کر لینا - ڈھنگ سیکھ لینا - ناسخ - ہر نالے مین سو ٹکڑے جگر ہوتا ہے بلبل ٭ آسان نہین طرز اڑانے میرے دل کے ٭

طرحدار ہونا - اچھی وضع کا ہونا - اچھے ڈھنگ کا ہونا - صفدر رامپوری ایک ہو لاکھ جوانون مین طرحدار بھی ہو ٭ رشک یوسف بھی ہو عاشق بھی ہو زردار بھی ہو -

طرفدار ہونا - طرفداری کرنا - پاس کرنا - حمایت کرنا - امداد پر ہونا - نثار - سنیگا کون بھلا حشر مین مری فریاد ٭ وہان بھی تیری طرف ہونگے سب یہان کی طرح ٭ مولانا اکبر - اگر ہو باغبان ہی دشمن جان ٭ تو پھر کون بلبل کا طرفدار ٭

طرحدار - خوبصورت - وضعدار - چھبیلا - رنگیلا جوان ؎ وہ دل کو ہر طرح سے چھین لیگا ٭ حسین جو دلربا ہو اور طرحدار ٭

طرفۃ العین مین - بہت جلد اور شتاب ٭ مؤلف - جو چاہے کرے طرفۃ العین مین ٭ وہ خلاق و رزاق و پروردگار ٭ کرے کسکی طاقت ہے

چون و چرا ٭ بحکم خداوند لیل و نہار ٭

طرفہ معجون - انوکھا - عجیب - نادر -

طرفہ یہ ہے - تعجب یہ ہے - انوکھی بات ہے -

طای باشین

طشت از بام - ظاہر ہونا - مشہور ہونا - شہرت پانا - راز کھل جانا - ؎ چھپ سکے کیونکر بھلا اغیار سے ٭ دوستو عشق اپنا طشت از بام ہے ٭

طشت چوکی - طشت اور چوکی جو پاخانہ پھرنے کے لیے پاخانہ مین رکھا رہتا ہے

طای باعین

طعن توڑنا - آوازہ کشی کرنا - طعنہ مارنا - رمز سے کلام کرنا - بولی مارنا -

طای بافای

طفیلیا - خوشامدی - پیچھے لگو اور وہ جس سے بذات خود کوئی کام نہو سکے دوسرے کی امداد کا محتاج ہو - قطعہ از مؤلف - اپنا مرنا ہے گوارا ہے غم فرقت مین تیرے اے دلبر ٭ پر نہ جائینگے تیری محفل مین ٭ غیر کے ہم طفیلیا بنکر ٭

طفل مکتب ہونا - نادان ہونا - بیوقوف - ناتجربہ کار ہونا - مبتدی ہونا - طالب علم ہونا -

طاے بالام

طلب بجھانا - خواہش کو رفع کرنا -

طلب بانٹنا - تنخواہ تقسیم کرنا -

طلسم باندھنا - انوکھی بات کرنا - عجیب و غریب تماشا دکھلانا -

طای بانون

طنطنہ دکھانا - دبدبہ دکھلانا - شان و شوکت دکھلانا -

طاے باواو

طور بے طور ہونا - حال بگڑ جانا - قریب مرگ ہونا - غیر حالت ہونا - مؤلف - مسیحا کیجیے میرے حال پر غور ٭ کہ اس بیمار کے ہین طور بے طور ٭

طوطی بلوانا - نام پانا - شہرت حاصل کرنا - نظیر - بولے جو شوم بھڑوا مار اسکے سر پہ جوتی ٭ دو دن تو دوستون مین بلوا لے اپنی طوطی ٭

طوطی بولنا - مشہوری ہونا - شہرت پانا - زمانے کا موافق ہونا - معقول آمدنی ہونا - قطعہ از مؤلف - جہان مین ہین شرارت پیشہ جتنے ٭ انھین کا آج طوطی بولتا ہے ٭ بڑی عزت ہے انکی اور بڑا نام ٭ بڑا درجہ ہے اور رتبہ بڑا ہے ٭

طوفان اٹھانا - طوفان مچانا - بہت سا غل شور مچانا - قیامت برپا کرنا - قطعہ از مؤلف - نہ پہونچے کان تک ایک اسکی آواز ٭

نہ رحم اسکے دل سنگین میں آیا ❊ قیامت ہمنے برپا کی بہت سی ❊

طوفان آنا - سخت بارش ہونا یا سخت آندھی چلنا سیلاب آنا مؤلف - آہ کا اٹھا دھواں ہر چار سو ❊ آنسوؤں کا ایک طوفان آگیا ❊

طوفان کھڑا کرنا - طوفان اٹھانا - طوفان لگانا - طوفان باندھنا طوفان جوڑنا - کسی پر ناحق الزام قائم کرنا - جھوٹی تہمت دھرنا - بہتان بنانا - مومن - میں تو بولا ہی نہیں کسنے کیا ہی شکوہ ❊ جھوٹ طوفان نہ اٹھا خیر ہی برہم ست ہو ❊

طول پکڑنا - طول کھینچنا - بات کا بڑھ جانا - کسی بیماری کا بڑھ جانا مؤلف - طول دیتا ہیں قصہ زلفوں کا ❊ کیا کروں قصہ کھینچتا ہی طول ❊

طومار باندھنا - طول طویل کہانی لکھنا جھوٹ کے پل باندھ دینا -

طویلے کی بلا بندر کے سر پڑنا - ایک کام کا جرم یا الزام دوسرے شخص پر قائم ہوجانا - **قطعہ از مؤلف** - رقیب روسیہ پر ہی جو الزام ❊ ہمیں ناحق لگا دیتے ہیں دلبر ❊ اسی پر یہ مثل آتی ہی صادق ❊ طویلے کی بلا بندر کے سر پر ❊

طای باہای ہوز

طہارت کرنا - استنجا لینا - استنجا کرنا - وضو کرنا - منہ ہاتھ دھونا - نہانا -

طای بایای

طیش میں آنا - خفا ہونا - جھنجھلانا - جوش میں آنا - غصہ کرنا - قطعہ از مؤلف - ہم جتنے نرم ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں ❊ آتے ہیں طیش میں ہیں ہر ایک بات پر ❊ پوری ہوئی نہ ایک بھی اس چند سال میں ❊ جتنی امیدیں ہمکو تھیں دلبر کی ذات پر ❊

پانچویں فصل

لغات متعلق علم طب کے بیان میں

طای باالف

طالیسفر - ایک درخت کا پوست ہی دارچینی سے ذرا موٹا تیز اور کم خوشبو اشقر مائل سیاہی زعفران کی بو طبیعت اسکی معتدل گرمی اور سردی میں دافع لقوہ و فالج ولفث الدم و بواسیر و قروح الامعا و درد دندان ہی

طاؤس - مشہور پرندہ ہی جسکو ہندی میں مور کہتے ہیں دم اسکی بہت بڑی ہوتی ہی جب ناچتا ہی تو دم کو چتر کرلیتا ہی بلی کی سی اسکی آواز ہی برس میں ایکبار انڈے دیتا ہی گوشت اسکا گرم اور خشک سخت غلیظ اور دیر ہضم مگر شوربا اسکا درد پہلو اور ذات الجنب کو مفید ہی اور مقوی باہ -

طالیقون - یہ ایک قسم کا تانبا زرد رنگ پیتل کے رنگ پر ہوتا ہی تانبے کی کان میں ملتا ہی آگ میں گرم کرنے اور تھوڑے کوٹنے سے سیاہ نہیں ہوتا طبیعت اسکی گرم و خشک سمیت اسمیں غالب ہی اگر موچنہ اس سے بنا دین اور بال اکھاڑیں تو پھر نہ نکلینگے اور اگر مچھلی کا کانٹا بنائیں تو مچھلیاں بہت پکڑی جائینگی اور اگر گرم کرکے کسی پانی میں ڈبوئیں تو وہ پانی کوئی جانور نہ پیگا

طای بابای

طباشیر - مشہور دوا ہی جو بانس کی لکڑی سے نکلتی ہی اسلیے اسکو ہندی میں بنسلوچن کہتے ہیں طبیعت اسکی سرد اور خشک مفرح و مقوی دل و معدہ و جگر ہی پیاس کو بجھاتی ہی اور دافع اسہال صفراوی و دموی ہی -

طباق - اس نہال کو فارسی میں بسپر غم کہتے ہیں صغیر اور کبیر دو قسم پر منقسم ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک پھول صغیر کا مقوی کبد اور درد سے جگر کے مفید ہی اور واسطے دفع سموم حیوانی تریاق کبیر کا پھول دافع مرض لقوہ اور جھول پتوں کے عصارے کا دافع جنین -

طحلب - وہ سبزی جو استادہ پانی پر آجاتی ہی ہندی میں اسکو کائی کہتے ہیں طبیعت اسکی سرد تر ضماد اسکا واسطے بند کرنے خون اور دفع مرض باد و تحلیل اورام کے مفید ہی اگر خشک کرکے کھائیں تو صفراوی دست بند ہوجائیں

طحال - یہ ایک عضو کا نام ہی جو انسان کے اندرونی اعضا میں سے بائیں طرف دل کے نیچے برنگ سیاہ موجود ہی نہایت نرم و سخت طبیعت اسکی سرد و خشک دیر ہضم ردی الکیموس مولد خون سودا وی قاطع نزف الدم اور ادرار بال دینے والا زخموں کا ہی -

طای باراے

طرفا - ایک درخت کا نام ہی جسکو ہندی میں جھاؤ کہتے ہیں طبیعت اسکی سرد خشک قابض و رادع و محلل و دافع جذام و یرقان ہی مسوڑھوں کو طاقت دیتا ہی دستوں کو بند کرتا ہی -

طراثیث - یہ ایک بوٹی کا نام ہی جسکی پتی چنے کی پتیوں کی طرح ہوتی ہی ذائقہ ذرا میٹھا طبیعت اسکی سرد خشک قابض حابس اسہال مقوی کبد و معدہ و دافع سیلان خون و استسقا ہی -

طرخ - فارسی میں اسکو تارخ کہتے ہیں یہ ایک مچھلی بقدر ایک بالشت کے سفید رنگ دریائے فارس میں کثرت سے ملتی ہی بڑی کم جسم پر گوشت اور لذیذ طبیعت اسکی گرم اور خشک مشتہی اور بہی جالی قاطع بلغم دافع تپ بیج کھانا اسکا روغن بادام میں بریان کرکے بدن کو موٹا کرتا ہی -

طرفیدوس - ایک گھانس ہی بہت سی اسکی شاخیں ہوتی ہیں اور پتی بایک شاہ پتی چنے کے حیوانی زہر دفع کرنے میں استعمال کی جاتی ہی -

طراغشون - یہ ایک گھاس ہے کہ گیہون کے کھیت مین پیدا ہوتی ہے پتی نازک اور باریک اسکا پانی نکالکر سرمہ آنکھین پیسا جاتا ہے اور آنکھون مین لگایا جاے تو دمعہ کی بیماری کو اچھا کرتا ہے-

طراغین - یہ ایک گھاس ہے بقدر ایک بالشت کے زمین سے اونچی ہوتی ہے بغیر پتی کے اور سر پر ایک پھل بقدر دانہ گیہون یا چھوٹی قسم کی انگور کے طبیعت اسکی گرم وخشک اسکا پانی اگر شراب کے ساتھ پیا جائے تو رحمی رطوبات کو دفع کرتا ہے کھانسی کے دفع کرنے لیے اسکو استعمال کرتے ہین

طرانغیون - یہ گھاس دو قسم کی ہوتی ہے ایک بڑی جسکی پتی ہوتی ہے گوند بھی اسکی ببول کے گوند کی طرح حاصل ہوتا ہے دوسری چھوٹی جسکی پتی نہین ہوتی اسکا پھل سرخ بقدر دانہ گیہون کے طبیعت ان دونون اقسام کی گرم وخشک ہے مدر حیض ہین اور مسقط جنین-

طرخون - یہ سبزہ فارس کے ملک مین بکثرت ہوتا ہے اور سبزیون کیطرح لوگ اسکو کھاتے ہین جنگلی اور باغی دونون قسم کا ہوتا ہے جنگلی کی جڑ کا عاقرقرحا ہے جو مشہور دوا ہے اور بستانی کھانے مین آتا ہے طبیعت اسکی گرم وخشک محلل ریاح و اخلاط لزجہ مفتح سدہ مقوی معدہ ہے منھ مین رکھین تو منھ کی بدبو جاتی رہتی ہے-

طرفلین - یہ ایک بوٹی ہے جو ایک بالشت کے قریب زمین سے بلند ہوتی ہے شاخین باریک اور سیاہ اذخر کی طرح پھول بنفشی جڑ لمبی اور سخت طبیعت گرم اور خشک مقوی جگر اور مدر بول دافع صرع و استسقا درد رحم وعسر البول ہے-

طرلقولیکون - یہ سبزہ بقدر ایک بالشت کے زمین سے اونچا ہوتا ہے پتی اسکی مانند پتی نیل کے پھول اسکا صبح کو سپید دوپہر کو بنفشی رنگ اور سرخ ہوجاتا ہے جڑ اسکی خوشبو اور سپید بو سونٹھ کی سی طبیعت اسکی گرم وخشک مقوی معدہ وجگر قاطع اخلاط سرد دافع خفقان و سموم ہے-

طراشنہ - یہ گھاس دو قسم کی ہوتی ہے ایک قسم وہ پتی جسکی جنگلی شلغم کی سی پھول زرد جڑ سفید ہوتی ہے دوسری قسم کی سبزی مائل بزردی قد چھوٹا پتی باریک ہین طبیعت انکی گرم وخشک ہے اسکا عصارہ اگر سرمہ مین ملا کر آنکھون مین لگائین آنکھ کی سپیدی کو دفع کرتا ہے ضعف کبد وطحال و استسقا کا علاج ہے-

طای بافا

طفشیل - اغذیہ قدیمہ سے ایک غذا کا نام ہے جو عدس مقشر سرکہ مین پکائی جاتی ہے قلیل الغذا مقوی معدہ مسکن تیزی خون تپ محرقہ کا علاج ہے-

طاے بالام

طلع - فارسی مین اسکو موز کہتے ہین اور ہندی مین کیلا مشہور پھل ہے اسکے فوائد اور خواص موز کے لفظ مین تحریر ہونگے انشاء اللہ تعالی

طلع - درخت خرما کا شگوفہ طبیعت اسکی سرد اور خشک مقوی معدہ قابض طبع مسکن گرمی و تیزی خون دافع تشنگی و اسہال ہے-

طلق - معرب تلک عربی مین اسکو کوکب الارض اور عرق العروس کہتے ہین فارسی اور ہندی مین ابرک مشہور ہے یہ ایک جسم معدنی پارہ خالص اور تھوڑی گندھک سے پیدا ہوتا ہے ارضیت اور یبس اسپر غالب ہے فاعل اسکی لسگی کا برودت ہے یمانی اندلسی ہندی تین قسم کا ہوتا ہے بہتر سب مین یمانی ہے آگ مین یہ کبھی نہین جلتا نوسادر وغیرہ ملا کر اسکا کشتہ کرتے ہین طبیعت اسکی سرد وخشک اسکا کشتہ بہ اندرون بیماریون کا علاج ہے خصوصا اور جگر کی حرارت کو بہت جلد دفع کرتا ہے

طلای - انگور کے شیرہ کو آگ پر جوش دین نصف تک جل جائے تو اسکو طلا کہتے ہین طبیعت اور خواص و تاثیر مین یہ انگوری شراب کے برابر ہے

طای بایای

طین قیمولیا - یہ وہ مٹی ہے جسکو کمہار مٹی کہتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک مجفف ومحلل و قابض و ہاضم وحابس اسہال صفراوی و مسکن سوزش معدہ ہے

طین جلود - یہ ایک خاک سرخ تیرہ رنگ چکنی ہوتی ہے جس سے جانورون کے چمڑے رنگتے ہین طبیعت اسکی گرم وخشک ساتھ قوت قابضہ کے لیپ اسکا محلل اورام ہے اور ریاحی و دافع اسہال-

طین صوفی حمید - یہ ایک مٹی سفید خوشبو بلاد شروان لقبہ صوفی حمید لاتے ہین یہ ادنی سموم کے دفع کے واسطے یہ مٹی تریاق اعظم ہے-

طین احمر - سرخ مٹی ہندی مین اسکو گیرو کہتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک ادویات مین مستعمل ہے-

طین اخضر - سبز رنگ مٹی شیراز سے لاتے ہین طبیعت اسکی سرد اور خشک ایران کی عورتین اسکو آگ مین بھون کر کھاتی ہین دل کے دھڑکنے کو تسکین دیتی ہے اور بدن پر ملکر نہانے سے بدن نرم وصفا رہتا ہے

طین اصفر - یہ زرد مٹی مائل بہ تیزی حوالی شہر قسطنطنیہ سے لاتے ہین طبیعت اسکی سرد اور خشک قابض وحابس ہے نفث الدم ونزف الدم کی بیماریون کو دفع کرتی ہے اکثر لوگ اس سے زرد کپڑے رنگ لیتے ہین-

طین حر - یہ ایک مٹی ڈھیلی سی خالص بہت سبز مشابہ ریحان کے ہے اگر اسکو دھوان دین تو خوشبو اور خوش مزہ ہوجاتی ہے اکثر لوگ اسکو کھاتے ہین جنکو عادت مٹی کھانے کی ہوتی ہے کہ مضرت

اسکی اور مٹیون سے کم ہی۔

طین مصر - یہ مٹی بہت سپید خط دار اور خاکستری رنگ مصر سے لاتے ہین اور جلا کر کھاتے ہین طبیعت اسکی گرم وخشک دافع اسہال الدم واستسقا وورم طحال ودیگر اورام کہنہ ہی۔

طین افریطس - یہ خاک خاکستری رنگ کی ہی انگلی لگانے سے ٹوٹ جاتی ہی مشابہ پھٹکری کے اسکا ذائقہ ہی مگر اس سے کم طبیعت اسکی گرم وخشک دافع قرحہ چشم مانع اسقاط حمل وحافظ جنین و دافع اورام خبیثہ ہی۔

طین ساموش - یہ مٹی کئی قسم کی ہوتی ہی ایک سفید صفا بھی تھوڑی براق کھرنڈ ملتی ہوئی دوسری خاکستہ صفا بھی نرم تیسری بہت سفید نرم ہلکی جو زبان پر رکھین تو چپک جائے طبیعت انکی سرد اور خشک قاطع خون حیض دافع سموم گرم و اورام خبیثہ ہی۔

طین ابیض - یہ ایک سپید مٹی لیسدار جھاڑ مین ملتی ہی طبیعت اسکی سرد وخشک اکثر ادویات مین مستعمل ہی۔

طین المختوم یہ ایک مٹی سرخ رنگ جزیرہ ملیون جو ایک جزیرہ جزائر مغرب سے ہی لاتے ہین وہان ایک عبادت گاہ ارطامس عابد کی بنی ہوئی ہی اور خادم مسجد کی ایک عورت رہتی تھی وہ مٹی کی ٹکیہ بنا کر اور اسپر مہر لگا کر رکھ چھوڑتی ہی اور بطور تبرک لوگون کو دیتی ہی اور نقد جسقدر کوئی دیوے لے لیتی ہی بادشاہان روم ویونان وغیرہ کے پاس بھی وہ قرص جاتے ہین طبیعت اسکی سرد وخشک مفرح و مقوی دل ومعدہ دافع سموم ہی۔

طین - خاک ہندی مین مٹی سریانی مین جشما کہتے ہین عمدہ مٹی وہ ہوتی ہی جو حر ہو یعنی خالص ہو شور وگندھک وغیرہ اسمین ملا ہوا نہو میٹھا پانی اسمین ہو یا وہ میٹھے پانی سے نکالی گئی ہو طبیعت مٹی کی عموما سرد وخشک ہی مگر مٹی دریاے شور اور کڑوے پانی اور کان نمک کی گرم وخشک مجفف جالی سدہ حابس اسہال محلل اورام مسکن سوزش وگرمی معدہ ہی۔

طرانہ - یہ ایک بوٹی قطر کے مشابہ ہی بلکہ اس سے بڑی رات کو چراغ کی طرح چمکتی ہی زیتون یا بلوط کے درخت کے نیچے پیدا ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک یہ گھاس سموم قتالہ سے ہی اسکے سونگھنے سے بھی انسان بیہوش ہوجاتا ہی کھاتے ہی فی الفور مرجاتا ہی۔

طین مدینہ - رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مٹی اور حضرت سید الشہدا امیر حمزہ کے مزار پرانوار کی مٹی حصول صحت کے لیے لوگ کھاتے اور شفا پاتے ہین کربلاے معلی کی مٹی وہی تاثیر رکھتی ہی

طین ارمنی - یہ مٹی کلیجی کے رنگ یعنی سرخ وسیاہ نرم اور چکنی اور شیرین اور خوشبو ہوتی ہی ارمینہ اور ایران سے لاتے ہین طبیعت اسکی سرد وخشک قابض مقوی دل اور رحم وامعا ومقعد کے امراض کا علاج ہی

طین اندلسی - یہ ایک قسم کی مٹی سیاہ رنگ کثیف اندلس سے لاتے ہین واسطے تحلیل ورام کے ضماد اور طلا نافع ہی۔

طین خراسانی - یہ مٹی بہت خوشبودار خوش مزہ ساتھ تھوڑی شیرینی کے بعض کبھی بعض بھون کر اسکو کھاتے ہین اور کستوری بھی اسمین ملا لیتے ہین طبیعت اسکی سرد وخشک مقوی معدہ مانع قی ہی اور دافع جوع کلبی وہیضہ ہی۔

طین داغستانی - یہ مٹی داغستان در بند سروان ملک آذربائیجان سے لاتے ہین کئی رنگ کی ہوتی ہی عمدہ قسم خاکی رنگ کی [illegible] اسکی سرد اور خشک مفرح قوی دافع خفقان [illegible]

طین قوقی - یہ ایک مٹی ناحیہ قوقی بلاد حلب سے لاتے ہین سیاہ اور سپید رنگ طبیعت سرد وخشک مجفف وقابض وحابس اسہال و ناشف رطوبات معدہ ہی۔

طین رومی - یہ خاک گلابی رنگ بعض سپید مائل بکبودی وخوشبو طبیعت اسکی سرد وخشک مجفف وقابض اگر یہ مٹی کاسنی کے پانی کے ساتھ پلکون کے ورم پر طلا کرین مفید ہو۔

طین فارسی - گل شیرازی اور گل سرشو بھی اسکو کہتے ہین یہ مٹی سپید زردی مائل ہی طبیعت اسکی سرد وخشک واسطے درد پیچ کے نافع ہی۔

طین قبرسی - یہ مٹی سرخ چکنے والی خوشبو ہی اگر توڑین تو اندر سے رنگین زرد رنگ نکلتی ہی ہاتھ مین ملین تو ہاتھ رنگین ہوجاتا ہی طبیعت اسکی سرد وخشک معدہ اور امعا کے کرمون کے مارنے کے لیے بہتر اس سے کوئی علاج نہین ہی اگر حقنہ کے ذریعہ سے دوا اندر پہونچائی جاوے [illegible] کو دور کرتی ہی اورام کو تحلیل کرتی ہی۔

طین الکرمی - یہ مٹی کالی بدبو کوئلہ کی طرح بلاد سودیا سے لاتے ہین صنوبر کی لکڑی سے یہ نکلتی ہی طبیعت اسکی سرد وخشک سرمہ مین پیس کر آنکھون مین لگائی جاوے تو پلکون کے گرے ہوے بال نکل آتے ہین پرانے زخمون کا یہ علاج ہی۔

طین ملتانی - یہ مٹی ریت دار درمیان سرخی اور زردی اور سفیدی کے ہی طبیعت اسکی گرم وخشک جالی ومحلل اورام ہی۔

طین الجزیرہ المصطکی - یہ مٹی ریت دار شگفتہ جزیرہ مصطکی سے لاتے ہین

ہمیشہ مائل بسیاہی ہے کستری پانی مین ڈوب جاتی ہے طبیعت اسکی گرم اور خشک جالی و مفتح و جاذب خون ہے رخسارون کے رنگ کو روشن کرتی ہے جو زخم آگ سے جلکر بدن پر پڑجائے اسکو جلد اچھا کرتی ہے۔

بیسوان باب

ظاے معجمہ کے ذکر مین اسمین پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات فارسی و عربی وغیرہ مین

ظاے با الف

ظاہر ۔ سب کے سامنے ۔ سب کے روبرو ۔ برملا ۔ باہر شہر کے جو میدان ہو یعنی حوالی شہر و قصبہ مقابل باطن کے صفدر رفوقانی ۔ ہو الاول ہو الآخر ہو الظاہر ہو الباطن ٭ ہو الخالق ہو الرازق ہو الماتت ہو المولیٰ ٭

ظاے با باے

ظبی ۔ بفتح اول و سکون ثانی آہو یعنی ہرن جو مشہور جنگلی جانور ہے۔
ظباء بکسر اول اسکی جمع ہے۔

ظاے با راے

ظرافت ۔ خوش طبعی ہنسی خوش مزاجی ظہوری بشکر لبان ظہوری ظرافت دارد ٭ خوشم کہ بادہ قابل لب ظریف شوم ٭
ظریف ۔ صاحب ظرافت ۔ خوش طبع ۔ خوش مزاج ۔ زیرک آدمی ہے بد مزاج ہست و دیگر ظریف ٭ یکے صاحب زور و دیگر نشینند ٭
ظرف ۔ زیرکی و خوش طبعی و خوش مزاجی اور برتن جسمین کوئی چیز رکھی جائے اور انسان کا حوصلہ ۔ ملا وحشی ۔ این ظرف بین کہ تشنہ لبان را بقطرہ ٭ صد احتیاج ہست و تمنا نمے کنند ٭ مؤلف اگر فراخی از خدا خواہی مباش ٭ تنگ ۔ ظرف و تنگ چشم و تنگ دل ٭

ظاے با عین مہملہ

ظعن ۔ کوچ کرنا ۔ چلنا ۔ رحلت کرنا ۔
ظعین ۔ چلنے والا ۔ کوچ کرنے والا ۔
ظعینہ ۔ وہ نوعروس جو ابھی ہودج یعنی محملہ مین ہو ۔

ظاے با فاے

ظفر ۔ بفتحتین فتح و فیروزی ٭ حق میان تاجداران تاج زر بخشد ترا ٭ وقت میدان بر عدو فتح و ظفر بخشد ترا ٭
ظُفر ۔ بضم اول انگلیون کے ناخن ۔

ظاے با لام

ظلمت ۔ بفتحتین و بضم اول تاریکی ۔ اندھیرا ۔ امیر خسرو ۔ در خیال روے و مویت ہر شبے ٭ ظلمت شب پیکشم مہتاب ہم ٭
ظلمات ۔ بفتحتین و بضم اول جمع ظلمت تاریکی اور وہ تاریکی جسمین آب حیات ہے مؤلف بوقت عسر مخور غم کہ در میان جہان ٭ مقام چشمۂ آب حیات ظلمات ست ٭
ظلیت ۔ سایہ ہونا ۔
ظلف ۔ بکسر اول وہ جانور چوپایہ جسکا سم پھٹا ہوا ہو جیسے گاے اور بکری اور ہرن وغیرہ اور جن چوپایون مین گھوڑا اور گدھا اور خچر اور گورخر وغیرہ کے سم پھٹے ہوے نہین ہین انکو حافرہ کہتے ہین ۔
ظل ۔ بکسر اول و تشدید لام سایہ و خیال و نمونہ اور سایہ ابتداء روز کا جو مشرق سے مغرب کی سمت پڑتا ہے ؎ شہنشاہ ذیجاہ ظل اللہ ٭ چو خورشید سایہ گستردہ شام و پگاہ ٭
ظل ظلیل ۔ سایہ دراز اور وہ سایہ جو ہمیشہ رہے تمام و کامل سایہ ہے ۔ ذات والاش بشکل آفتاب ٭ در جہان ظل ظلیل ایزدی ست ٭
ظلال ۔ بفتح اول ابر کا سایہ اور وہ جگہ جو سایہ دار ہو ۔
ظلال ۔ بکسر اول جمع ظل بہت سے سائے ۔
ظلم ۔ بضم اول و سکون ثانی ستم و تعدی ؎ عجب دارم خدا ابرار ابن ظلم نمایان را ٭ کہ بیش چشم من آئینہ زان رخسار گل چیند ٭
ظلم ۔ بفتحتین تاریکی اور تاریک ہونا ۔
ظلم ۔ بضم اول و فتح ثانی جمع ظلمت بہت سی تاریکیان ٭
ظلوم ۔ بفتح اول و ضم ثانی نہایت ظلم کرنے والا ۔ بڑا ظالم ۔
ظلام ۔ بفتح اول تاریکی اول شب یعنی پہلی رات کی تاریکی ۔
ظلام ۔ بکسر اول جمع ظلمت بہت سی تاریکیان ۔
ظلام ۔ بفتح اول و تشدید لام بہت ظلم کرنے والا ۔
ظل اللہ ۔ خدا کا سایہ بادشاہ اولی الامر ۔
ظلمۃ ۔ بفتح اول و ثانی و ثالث بہت سے ظالم جمع ظالم کی ۔
ظلہ ۔ سائبان و خیمہ و ابر اور ہر چیز جو سایہ کرے ۔
ظلمانی ۔ بفتحات تاریک ۔

ظاے با میم

ظما ۔ بفتحتین پیاسا ہونا ۔
ظماء ۔ بکسر اول بہت سے پیاسے لوگ ۔

ظائے با نون

ظِنَّت - بکسر اول و تشدید ثانی کسی پر تہمت باندھنا۔ بہتان جوڑنا۔
ظَنُون - بفتح اول بدگمان -
ظَنّ - بفتح اول و تشدید ثانی گمان جو کسی کی نسبت ہو اور تہمت مسیر معزی
قبول بود ہمہ ظن من با دل کار ہے کنون معاینہ دیدم ہر انچہ ہر دم ظن +
سعدی - بخاطر درم ہرگز این ظن نرفت + ندانم کہ گفت آنچہ بر من نرفت +

ظائے با ہائے

ظِہَار - بکسر اول ہم پشت ہونا -
ظُہر - بضم اول زوال کا وقت اور وہ نماز جو مسلمان بعد زوال کے پڑھتے ہین -
ظَہر - بفتح اول پشت یعنی پیٹھ -
ظَہَر - بفتحتین وہ درد جو پشت مین ہو -
ظُہُور - بضم پیدا ہونا - غالب ہونا نورالدین ظہوری ترا چہ رتبہ
کہ اندیشۂ وصال کنی + ادب خوش ست ظہوری چنین ظہور مکن +
ظَہِیر - یاری دینے والا - مددگار پشت پناہ اور وہ شخص جسکی پشت مین
درد ہو اور نام ایک شاعر کا جو فاریاب مین رہتا تھا ۔ دیوان ظہیر
فاریابی بدزد گر بیابی +
ظِہَارَہ - بکسر اول قبا کا ابرہ -

ظائے با یائے

ظِئْر - بکسر اول و سکون ہمزہ جو بصورت یا ہے دایہ جو دوسرے شخص کے
بچے کو دودھ دیوے +

دوسری فصل

اردو لغات کے بیان مین

واضح ہو کہ اس فصل مین کوئی اردو لغت لائق اندراج دستیاب نہین ہوا
سب لغت عربی ہین جو پہلی فصل مین تحریر ہوے -

تیسری فصل

محاورات و اصطلاحات فارسی کے بیان مین

ظائے با رائے

ظرف زرحل - وہ برتن جسمین سونا حل کیا جائے ملا صفی بلخی نقاش
من کہ ہر دو جہان زو شکل ست + مہ و رنگار خانہ او ظرف زر حل ست +
ظرفیت نداشتن - حوصلہ نرکھنا محسن تاثیر مغلوب گشت دلبر غالب
حریف من + ظرفیتے نداشت نگار ظریف من +
ظرفش لبریز شدہ - برتن اسکا بھر گیا عمر اسکی تمام ہوئی سے ظاہر نہ زکر
دخل حرص و ہوا + جو لبریز شد ظرف این خاکدان +

ظائے با فائے

ظفر پیکر - ظفر توز - ظفر آیہ - یہ سب کلمات تلوار کی صفت مین
بولے جاتے ہین سے چو شمشیر ظفر پیکر بر آورد + شد و زامغزش مغز از سر آورد
ظفرستان - فتح مندی کا مقام ظہوری - واے بر حال ہوس گشتہ
امید گریز + عشق بر خاستہ میدان ظفرستان گشتست +

ظائے با لام

ظالم پاے دیوار خود میکند - مثل ہے یعنی ظالم اپنی دیوار کی بنیاد
کھودتا ہے سے کند ظالم ز ظلم از دست خود + بدار جہان پاے دیوار خویش +
ظلمت آباد - عالم عدم و دنیاے فانی -
ظل زمین - رات -
ظلمتکدہ - عالم دنیا و مقام تاریک شوکت بخاری - یا ز ظلمتکدہ
بیرون نگذارم شوکت + کہ ابر پردہ مہتاب تماش سخن ست +
ظلمات ثلاثہ تین تاریکیان جو یونس علیہ السلام کو پیش آئین
ایک رات کی تاریکی دوسری مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تیسرے قعر دریا کی
تاریکی بعض کے نزدیک تین تاریکیان کدورت طبعی ہواے نفسانی صفات
حیوانی ہین -

چوتھی فصل

اردو محاورات کے ذکر مین

ظائے با الف

ظاہر داری برتنا - دکھاوے کی باتین کرنا - نفاق کرنا -
ظاہر پرست - ظاہری حالت پر نظر کرنے والا - باطن سے بے خبر و نیادار جو در حقیقت
فی الحقیقت بے خبر باطن سے ہے مثہ جو کہ ہو ظاہر نما ظاہر پرست +

ظائے با لام

ظلم دوست ہونا - ظالم ہونا - ظلم کو اچھا جاننا -

پانچوین فصل

لغات متعلق بعلم طب کے بیان مین

ظائے با فائے

ظفر قطورا - یہ ایک گھاس جنگلی اور بستانی دونون قسم کی ہوتی ہے بستانی
کی شاخین باریک بال کے برابر زمین پر پھیلی ہوئی جنگلی کی شاخین بھی
باریک ہین مگر اوس سے خشبی اور رنگ ساق کا سرخ ڈیڑھ بالشت مین سے
اونچی ہوتی طبیعت دونون کی سرد خشک ہے اسکو خشک کر کے کوٹین
اور شہد کے ساتھ کھائین تو امعا کا زخم مندمل ہوتا ہے جیسے بول کی بیماری کو
دفع کرتی ہے باریک پیسی ہوئی اگر کسی زخم پر ڈالین خون فی الفور بند ہو جائے -

ظفر الفقط - اس سبزے کی ڈالی مربع مشابہ ڈنڈی یا قلم کے بارتنگ جیسی پتی پھول سوسن کا سا جڑ لمبی جسکو ایرسا کہتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک ہے قابض قاطع رعاف دافع اسہال نافع بواسیر مصفی رحم ہے -

ظُفرہ - یہ ایک گھاس ہے جو زمین پر بچھی ہوئی ہوتی ہے شاخین اسکی باریک نرم پتی گول پھول زرد جڑ سیاہ طبیعت گرم خشک کھانا اسکا منع ہے کیونکہ یہ اپنی تیزی اور تندی کے سبب سے گوشت کو گلا دیتی ہے ضماد اسکا اُس جگہ پر کیا جاتا ہے جہان سے زائد گوشت اتارنا منظور ہوتا ہے

ظاے بالام

ظِلف - سم گھوڑے کا ہو یا کسی اور چارپاے کا ہندی مین اُسکو کھر کہتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک اُسکی راکھ کو شراب مین ملا کر زخم پر لگایا جاے تو مندمل کرتا ہے شہد کے ساتھ ضماد کرنا وجع المفاصل کو دفع کرتا ہے بکری کے سُم کی راکھ سرکے مین طلا کرنا داء الثعلب کو مفید ہے

ظاے بایا

ظیان - یاسمین بری جنگلی چنبیلی سفید ہندی مین اُسکو جوہی جاہی بھی کہتے ہین پھول اسکا نہایت خوشبو اور خاردار ہے اور بانجھی چنبیلی سے چھوٹا جڑ اسکی کالی اور باریک طبیعت اسکی جڑ کی چوتھے درجے مین گرم اور خشک اور باقی اجزا تیسرے درجے مین گرم ہین محلل و ملطف ہے اور اعصاب اور صندرا ورریہ کے امراض کا یہ علاج ہے سونگھنا اسکے پھول کا سر درد شقیقہ کو دور کرتا ہے فالج و لقوہ و استرخا اور پرانی کھانسی و ضیق النفس کو دفع

اکیسوان باب

عین مہملہ کے ذکر مین اس مین بدستور پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات فارسی و عربی وغیرہ مین

عین باالف

عاقرقرحا - ایک دوا کا نام ہے جسکی تشریح پانچوین فصل مین ہوگی -

عاشورا - دسوان روز ماہ محرم کا جس روز سید الشہدا امام حسین علیہ السلام کربلا مین شہید ہوے تھے جو لوگ عاشورہ بھاے ہو لکھتے ہین غلطی پر ہین ~~ کند قربان بروز عید قاتل کشتۂ خود را ~~ براے خلق عید ست ولی این یک عاشورا ~~

عاریت - بتشدید و تخفیف یاے تحتانی مانگی ہوئی چیز چند روزہ چیز جسکا واپس دینا ضرور ہوے ~~ نتو باز گیرد انجام کار چونکہ ہست این تن جامۂ عاریت ~~

عاہت - آفت و بلا و تکلیف -

عاہات - بہت سی آفتین و تکلیفین -

عاطفت - مہربانی کرنا سعدی ~~ عاطفت سیرت خویش کرد ~~ درم داد و تیمار درویش کرد ~~

عادت - خو جو کسی کام کے باربار کرنے کے لیے پڑجاے حافظ ~~ ساقیا تا زہر ما و بگردان عادت ~~ چون سرسیدن ارباب نیاز آمدہ ~~

عافیت - آرام آسایش - راحت و خوشی حافظ ~~ جریدہ رو کہ گذرگاہ عافیت تنگ ست ~~ پیالہ گیر کہ عمر عزیز بے بدل ست ~~

عاقبت - اخیر اور انتہا اور انجام مؤلف ~~ خلق را راحت درین دنیا رسان ~~ عافیت خواہی اگر در عاقبت ~~

عاقب - پیچھا کرنے والا - پیروی کرنے والا -

عادات - عادت کی جمع ہے بہت سی عادتین -

عابث - بہ ثاے مثلثہ بازی کھیلنے والا - بازی گر - کھیلو

عارج - بلندی پر چڑھنے والا - صاحب معراج -

عاج - ہاتھی دانت جو ایک مشہور چیز ہے سعدی ~~ بیدم از عاج و ریسمنات ~~ مرصع چو در جاہلیت منات ~~

عاد - ایک قوم کا نام ہے جسپر ہود پیغمبر ہدایت کے لیے خدا نے بھیجا اور اونٹنی کا معجزہ ظاہر کیا مگر اُنھون نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوے مؤلف ~~ حضرت حق عاد را جو برباد کرد ~~ ہود را از بند غم آزاد کرد ~~

عاقد - گرہ دینے والا - عہد کرنے والا -

عائد - پھرنے والا - عود کرنے والا -

عابد - عبادت کرنے والا - بندگی کرنے والا -

عاند - دشمنی کرنے والا - عناد کرنے والا -

عاذر - بفتح ذال معجمہ نام ایک شخص کا کہ بے ایمان مرگیا تھا اور حضرت عیسے نے چالیس سال کے بعد زندہ کرکے اُسکو مسلمان کیا -

عاطر - عطر فروش - خوشبو رکھنے والا -

عاقر - بانجھ عورت جو بے اولاد ہو کبھی اُسکے پیٹ سے بچہ پیدا نہوا ہو اِس لفظ مین مذکر مؤنث برابر ہے -

عامر - عمارت کرنے والا - آباد کرنے والا - اور نام ایک مرد کا -

عار - ننگ و عیب و شرم - مؤلف ~~ جو انسان خاک زاد و خاکسار ست ~~ کجا از خاکساری عار دارد ~~ زبیل النساء مخفی ~~ بیش ازین اے عقل بر من طعن رسوائی مزن ~~ زانکہ مستان محبت را ملامت عار نیست ~~

عابر - عبور کرنے والا گذرجانے والا - دریا سے اُتر جانے والا -

عاشر - دسواں شمار میں دسواں حصہ۔
عاجز - عجز کرنے والا - منت وزاری کرنے والا - مؤلف ۔ مکن دو دست
دعا پیش کارساز نیاز ✽ کہ حق بہ بندۂ عاجز کند عطا اعزاز ✽
عارض - بکسر رائے حاضری دینے والا لشکر کا اور شمار دینے والا اور
فوج کا بخشی - فوج کا افسر اور جو چیز کسی دوسری چیز کو لاحق ہو جائے
اور بادل جو پراگندہ ہو جائے -
عارِض - بفتح رائے رخسارہ اور چہرہ میر معزی عارضش در زیر خط
دندانش اندر زیر لب ✽ چشمش اندر زیر مژگان و دل اندر بر نہان ✽
سوسن اندر سنبل ست و لولو اندر لالہ برگ ✽ نرگس اندر سوزن ست و آتش اندر پرنیان ✽
عاطف - مہربانی کرنے والا - پھیر دینے والا اور چھٹا گھوڑا دس
گھوڑوں میں سے -
عاکف - گوشے میں بیٹھنے والا - ایک جگہ پر قیام رکھنے والا -
عارف - پہچاننے والا - صاحب معرفت اور خدا شناس آدمی - خدا کا ولی -
عافی - عفو کر دینے والا - معاف کرنے والا - گنہ بخشنے والا -
عاق - جو بیٹا باپ اور ماں کا نافرمان ہو -
عائق - منع کرنے والا - باز رکھنے والا -
عاشق - صاحب عشق و محبت مؤلف ۔ میکند زندہ بشکل آب حیوان
جام عشق ✽ نام عاشق میکند روشن بعالم نام عشق ✽ ذرہ ذرہ گردد
از فور محبت جلوہ گر ✽ چون برآید شکل خورشید عاشق با وجِ بام عشق ✽
عاجل - جلدی کرنے والا - شتابی کرنے والا -
عاطل - بیکار اور برہنہ اور خالی -
عائل - درویش مفلس - بے دولت -
عادل - عدل کرنے والا - برابر کرنے والا - پورا تولنے والا - توحید
ہست مقسم دو ز بخشش و بندہ نواز ✽ خدا ہست دادگر و شاہ و حاکم و عادل ✽
عاذل - بذال معجمہ ملامت کرنے والا -
عازل - بزائے معجمہ دور کرنے والا - ایک طرف ہٹانے والا - معزول کرنے والا
عاقل - صاحب عقل دانا ہوشیار مؤلف ۔ ہست بصورت زیبا سے جہان
مائل ✽ کرد دل بعالم فانی نمید ہد عاقل ✽
عامل - عمل کرنے والا - کام کرنے والا - مؤلف ۔ بی عبادت حق مستعد
بود ہر دم ✽ بود ہر آنکہ خدا دوست عالم و عامل ✽
عاصم - باز رکھنے والا - نگاہ رکھنے والا اپنے نفس کو بدخواہشوں سے -
عالِم - بکسر لام صاحب علم و فضل جاننے والا صفدر رفوقانی کند بد دولت
خود ناز صاحب دولت ✽ بعلم و فضل کند فخر عالم و فاضل ✽ سخا کند ...

عجز و نیاز سے بالد ✽ خداپرست خدادوست عارف و کامل ✽
عالَم - بفتح لام جہان زمانہ موجودات و مخلوقات - توحید کردہ میر کبیر
اے خالق کریم ✽ او نا اردو در زمانہ رنج و غم ✽ چارہ ساز دردمندان
توئی ✽ در تقسیم السعالی و رنج و الم ✽ تو خبر گیر جہانے روز و شب ✽
ہمدم و دمساز عالم دمبدم ✽
عام - مقابل خاص مشہور لفظ ہے اسیری لاہجی باز اہد بے ذوق مگو
سر انا الحق ✽ اسرار سلاطین چو بعامان نتوان گفت ✽
عازم - قصد کرنے والا - ارادہ کرنے والا -
عادیان - وہ لوگ جو عاد کی قوم میں سے تھے -
عافین - معاف کرنے والے جمع عافی -
عامرہ - آباد کرنے والا اور آباد -
عارفہ - شناسا عورت -
عاصفہ - ہوا تند اور سخت -
عانہ - ناف سے نیچے کا جسم جسکو ہندی میں پیڑو کہتے ہیں -
عامہ - عام لوگ -
عارضی - جو چیز کسی چیز کے ساتھ لاحق ہوئی ہو اصلی نہو -
عادی - وہ شخص جسکو کسی کام کے کرنے کی عادت ہو جائے اور کرنے
مجبور ہو اور منسوب عاد کی قوم کے ساتھ اور دشمن عداوت کرنے والا -
عامری - جو شخص منسوب بنی عامر سے ہو جو عرب میں ایک قبیلہ ہے -
عاری - برہنہ یعنی ننگا اور مجبور -
عامی - عام لوگ -
عاصی - نافرمان گنہگار جمع اسکی عصاۃ ہے جیسے قاضی کی قضات نظامی
ازان ابر عاصی چنان ریزم آب ✽ کہ نار د دگر حملہ بر آفتاب ✽
عائلی - درویشی و مفلسی و تنگدستی -
عالی - بلند اور اونچا نصیحیہ از مؤلف - در سیادت یافتی قدر بلند
در رسالت شان عالی یافتی ✽

عین با بائے

عِبا - بکسر اول صوفیوں کی پوشش فقیروں کی گودڑی اور خرقہ
یکے در قبا و یکے در عبا ✽ یکے در بقا و یکے در فنا ✽
عبد المطلب - حضرت رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے جد
بزرگوار کا نام ہے -
عَبّ - پے در پے پینا پانی کا -
عُباب - پانی کا بہاؤ اور چڑھاؤ -

عبوست - ترش روئی و ترش خوئی -

عبرت - عبور کرنا نکل جانا ایک امر سے اور نصیحت پکڑنا درویش والہ ہروی
ہیچکس عبرت نمیگیرد ز حال دیگرے ٭ ہر کہ آمد در جہان کور آمد و بینا گذشت ٭

عبودیت - بندہ ہونا - فرمان بردار ہونا ٭ بندگان را بندگی زینت
بود ٭ عبد را فخر از عبودیت بود ٭

عبارت - تعبیر کرنا - بیان کرنا - تشریح کرنا ایک مخفی امر کو لفظوں میں لانا -

عبادت - بندگی کرنا - فرمان برداری کرنا مؤلف - عبادت کن عبادت
کن عبادت ٭ کہ حق بخشد ترا نور سعادت ٭

عبث - بیہودہ - بیفائدہ - بے سود درویش والہ ہروی عثمان فکر
چرا امید ہی بفہم بیست ٭ نقسمت ارچہ کنی ذکر بیش و کم عبث ٭

عبد - وہ شخص جو بندہ ہو اور خدا کا بندہ مؤلف - ترا کہ عبد خدا
آفرید و عابد باش ٭ کہ کار عبد عبادت بود بہر حالت ٭

عبید - بفتح اول و کسر با - بہت سے بندے یہ لفظ عبد کی جمع نہیں ہے
بلکہ اسم جمع ہے کہ جمع کے معنی رکھتا ہے -

عبید - بضم اول و فتح با - تصغیر عبد کی -

عباد - بکسر اول جمع عبد کی بہت سے بندے مؤلف زہے چہ اعلیٰ
رتبہ است بخشد خدا ٭ عبید گر شوی باشی در عباد ٭

عبید اللہ بن زیاد - یزید لعین کے امرا و مصاحبوں سے ایک شخص کا
نام ہے -

عبّاد - بضم اول و تشدید ثانی عبادت کرنے والا -

عبیر - ایک قسم کی خوشبو کا نام ہے جو صندل و رگلاب اور کستوری سے بناتے ہیں

عبہر - وہ نرگس جسکا پھول زرد ہو اور شہلا وہ نرگس ہے جسکا پھول اندر سیاہ ہو

عبور - گذر جانا کسی راستے سے یا دریا سے اتر جانا -

عبر - بفتح اول خواب کی تعبیر بتلانا -

عبر - بضم اول بسیار یعنی بہت اور گروہ و جماعت آدمیوں کی -

عبر - بکسر اول وہ اجرت جو کشتیبان دریا سے اتار کر لیتا ہے یا محصول
سیڑھی کا جو حاکم کی طرف سے دریا کے گذر پر وصول کیا جاتا ہے

عبر - بکسر اول و فتح ثانی عبرت پکڑنا نصیحت پکڑنا - آنسو بہانا -

عبد القادر - نام نامی حضرت غوث الاعظم محی الدین گیلانی جو امام و شیخ
و پیر طریقت تھے اور سلسلۂ قادریہ انسے منسوب ہے یہ بزرگ سنہ ہجری میں
پیدا ہوئے اور ۵۶۱ھ میں وفات پاکر بغداد میں مدفون ہوئے اور
نام ایک شخص کا جو موسیقی علم میں استاد تھا -

عبس - بفتح اول و فتحتین ترش روئی و تند خوئی - ز من گریزان [illegible] گر بعبر

عبّاس - حضرت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حقیقی چچا کا
نام ہے جنکی اولاد خلفاے عباسیہ تھی اور نام فرزند دلبند مرتضیٰ علی
علیہ السلام کا جسنے معرکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت پائی

عبوس - بفتحتین ترش روئی و تند خوئی اور نام ایک بیماری کا جس سے
بدن پر شکن پڑجاتی ہے -

عبوش - بفتح اول و ضم ثانی جو شخص ترش رو اور تند خو ہو -

عبد المناف - رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کے جد کا نام ہے -

عبق - بفتح اول و کسر با - خوشبو دار -

عبد الملک - بنی امیہ میں سے یہ خلیفہ مروان کا بیٹا سخت ظالم اور خونریز تھا

عبد اللہ - رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کا نام ہے مؤلف
ذرہ را خورشید کرد و داغ دل را ماہ کرد ٭ این غنا تنہا محمد ابن عبد اللہ کرد ٭

عبد الجنۃ - کابوس جس سے آدمی سوتا ڈر اٹھتا ہے اور یہ ایک بیماری ہے -

عبرہ - بکسر اول وہ محصول جو دریا پر مسافروں سے لیا جائے -

عبدۃ - بفتحات اول و ثانی و ثالث عابد کی جمع بہت سے عبادت کرنے والے -

عبدہ - بفتح اول و ضم دال اسکا بندہ نظامی ستارہ کہ بر چرخ
سایہ سرکشش ٭ زدہ سکہ عبدہ بر درش ٭

عبقری - لطیف اور عمدہ کپڑا اور ہر ایک چیز جو نفیس اور قیمتی ہو منسوب
بعبقر اور عبقر ایک موضع ہے عرب میں -

عباسی - نام ایک پھول کا ہے جسکو گل عباسی کہتے ہیں اور اسکے پھولوں کا
رنگ سرخ مائل بکبودی ہوتا ہے - اور خاندان خلفاے عباسی کا -

عبری - عبرانی - اہل کنعان کی زبان کا -

عین با تاے

عتیب - امالہ عتاب کا جیسے کتاب کا امالہ کتیب اور رکاب کا امالہ رکیب ہے

عتب - بفتح اول غصہ پکڑنا - جھڑکنا -

عتب - بفتح اول و ثانی فرجہ جو دو انگلیوں سبابہ و وسطیٰ یا وسطیٰ
اور بنصر میں ہے -

عتاب - بکسر اول ملامت کرنا غصہ پکڑنا جھڑکنا - ناز کرنا -
سخرہ کرنا - نور الدین ظہوری شیرینی و تلخی برگ و ریشہ فرو ریختہ ٭
نازم نگاہ تلخی زہر عتابت آقا علی - نخواہد کسے آگہ شود از لطف
پنہانش ٭ بزیر لب کند باس عتاب آہستہ آہستہ ٭

عتبات - بفتحات بہت سی دہلیزیں اور آستانے اور سختیاں اور
امور ناپسندیدہ -

عترت - بکسر اول خویش لوگ اور نزدیکی رشتہ دار لوگ -

عَتاد - وہ اسباب جو مسافر کو راستے کے آرام کے واسطے ضروری ہو۔
عَتِید - جو چیز حاضر و مہیا ہو۔
عَتِیق - بروزن فعیل دیرینہ و کہنہ و آزاد و گرامی و برگزیدہ۔ سعدی
قطولی بباب کعبۃ العتیق ٭ حوالیہ من کل فج عمیق ٭
عِتق - بکسر اول آزاد ہونا۔
عَتاق - بفتح آزاد ہونا غلاموں اور کنیزوں کا۔
عَتِیل - بروزن فعیل تشنہ یعنی پیاسا۔
عُتُلّ - بضم اول و ثانی و تشدید لام سخت آواز اور ظالم اور نیزہ موٹا۔
عُتُوّ - بضم اول و ثانی و تشدید واو سرکشی و روگردانی۔
عُتَیبہ - بضم اول نام ایک شخص کا۔
عَتَبَہ - بفتحات دروازے کے دہلیز کی نیچی لکڑی جس پر پانوں رکھ کر گھر میں داخل ہوں اور سختی و تکلیف و درشتی اور نام ایک شکل کا اشکال علم رمل سے
عُتِیّ - بالضم و با لکسر و تشدید یا سے حد سے گزرنا۔ تکبر کرنا۔ غرور کرنا۔ نہایت ضعیف ہونا۔ بڑی عمر کو پہونچنا۔

عین با ثاۓ مثلثہ

عَثرَت - لغزش کھانا سر کے بل گرنا۔
عَثَرات - بہت سی لغزشیں۔
عَثر - گرنا۔ پھسلنا۔
عِثار - عَثارہ - سر کے بل گرنا۔

عین با جیم

عُجب - بضم اول و سکون ثانی تکبر و خود بینی و غرور و فخر۔ مولف
کے روا باشد ترا ای خاکسار ٭ عجب و خود بینی و فخر و افتخار ٭
عَجَب - بفتح اول و ثانی حیرت کی حالت جو کسی انوکھی چیز کو دیکھ کر طبیعت میں پیدا ہو جسکو فارسی میں شگفت کہتے ہیں۔ حافظ ز انقلاب زمانہ عجب مدار کہ چرخ ٭ ازین فسانہ ہزاران ہزار دارد یاد ٭
عُجاب - تعجب کی حالت حیرت کا موقع۔
عَجائب - جمع عجب کی اور فارسی میں اسکو مفرد بھی استعمال کرتے ہیں۔ نظیری نیشاپوری - یافت گر دیوانہ جامی کعجب بہر جلیست ٭ از عجائبہاۓ دوران دیو را خاتم رسد ٭
عَجِیب - نہایت عمدہ چیز جسکو دیکھ کر تعجب ہو۔ فوحید۔ ہر دو در دل جستجوۓ حبیب ٭ کہ ہست از دل و جان مقاصد قریب ٭ چو دیوانہ در صحن گلشن مگرد ٭ بہیک گل کفایت کن اے عندلیب ٭ مشو غرہ بر آب و تاب چمن ٭ کہ فانی ست این بوستان عجیب ٭

عَجَلَت - جلدی شتابی۔
عُجالَت - جلدی کرنا اور جو چیز جلد حاضر کی جاۓ۔
عُجارات - انگور کے دانے۔
عَجاج - بہر دو جیم گرد و غبار۔
عَجز - بفتح اول و بکسر اول عاجز ہونا۔ ناتوان ہونا۔ کمزور ہونا۔ مولف
جبین عجز بخاک نیاز بسا یند ٭ ببارگاہ خدا جملہ پیر و پیغمبر۔
عَجُوز - بفتح اول بوڑھی عورت۔
عَجائز - بوڑھی عورتیں جمع عجوز۔
عَجَف - بفتح و کسر اول لاغری و ناتوانی۔
عِجاف - وہ لوگ جو لاغر ہوں۔
عَجُول - بفتح اول دوڑنے والا اور حیران۔
عِجل - بکسر اول گاۓ کا بچہ بچھڑا۔
عَجِیل - شتابی کرنے والا اور دوڑنے والا۔
عَجم - بفتح اول نقطہ دینا حروف پر اور اعراب دینا۔
عُجم - بضم اول کند زبان اور رہنے والے ملک عجم کے۔
عَجَم - بفتح اول و ثانی وہ ملک جو سواۓ عرب کے ہے ایران و توران وغیرہ اور دانے خرما و انگور کے۔ نعتیہ از مولف۔ توئی کار فرماۓ ملک عرب ٭ شہنشاہ فرمان رواۓ عجم ٭ بذات تو شد ختم یا مصطفیٰ ٭ بہر دو جہان لطف و جود و کرم ٭
عَجن - خمیر کرنا آرد وغیرہ کا۔
عَجِین - خمیر کیا ہوا آٹا وغیرہ۔
عُجالہ - بضم اول جو چیز جلدی سے حاضر کی جاۓ۔
عُجّہ - بضم اول و تشدید جیم خاگینہ جو مرغی کے انڈوں سے بنایا جاتا ہے۔
عَجوہ - ایک قسم خرمے کا مدینہ میں ہے نہایت عمدہ اسکی تاثیر یہ ہے کہ جو شخص سات کھجوریں ہر روز کھاۓ کوئی زہر اسکو موثر نہو۔
اُعجوبہ - اعجوبہ کا مخفف وہ چیز جسکے دیکھنے سے تعجب پیدا ہو۔ محسن تاثیر
ای شیخ شہر با کہ توان این عجوبہ گفت ٭ بے پردہ گشت شید نہان از رداۓ تو ٭

عین با دال

عِدا - بکسر اول جمع عدو جسکے معنی دشمن کے ہیں بہت سے دشمن۔
عُدّا - تیاری و آمادگی و ساخت و ساز۔
عِدّت - شمار کرنا گنتی کرنا اور وہ میعاد جو مطلقہ عورتوں اور بیوہ عورتوں کو واسطے دوسرے خاوند کرنے کے شرع نے دی گئی ہے چنانچہ مطلقہ کے واسطے تین ماہ اور بیوہ کے واسطے چار مہینے دس روز اور حاملہ عورت کے

واسطے تا وضع حمل۔

عُداۃ جمع عادی جسکے معنی دشمن اور ظالم اور حد سے بڑھنے والے کے ہین

عَدّ۔ شمار کرنا۔ گننا۔

اِعداد۔ بکسر اول حساب شمار۔

عدید۔ گنتی اور گِنا گیا اور بہت و فراوان۔

عُدُول بضمتین نافرمانی کرنا۔ برگشتہ ہونا۔ رستے سے ہٹ جانا۔

عَدل بفتح اول ضم ثانی گواہ مقبول و مرد راست گو و عادل جو یا اقوال

عَدِیل۔ ہمسنگ اور وزن مین برابر۔ ہمقدر و ہمرتبہ۔

عِدل۔ ایک طرف کا بار جو اونٹ یا خچر پر لادا جائے۔

عَدل۔ داد دینا اور داد دینے والا اور مرد نیک بخت جو لائق گواہی دینے کے ہو سعدی جہان را بہ از عدل معمار نیست * کہ بالاتر از سعدلت کار نیست *

عدم نیستی مقابل وجود مؤلف بتو موجودی اندر وجود و عدم *
توہستی عیان در ہمیش و کم *

عُدوان۔ دشمنی کرنا۔ ظلم و زیادتی کرنا اور جمع عادی کی بہت سے دشمن

عَدن بفتح اول و سکون ثانی کسی جگہ مین ہمیشہ رہنا اور نام بہشت کا اور نام ایک جزیرے کا حدود یمن مین اور اقامت کرنا۔

عَدنان۔ بفتح اول نام ایک شخص کا اجداد قریش سے۔

عَدُو۔ دشمن بدادوئی۔

عِدّۃ۔ گروہ و شمار اس مدت کا جو اسمین مطلقہ و بیوہ عورت کا نکاح اور شخص کے ساتھ جائز نہین۔

عُدوَہ۔ کنارہ رود یعنی دریا کا کنارہ۔

عین با ذال معجمہ

عَذرا۔ آشکار یعنی ظاہر و دختر دوشیزہ اور بکر عورت جو شوہر کے ساتھ ہمبستر نہوئی ہو اور نام ایک معشوقہ کا جسپر وامق عاشق تھا اور نام برج سنبلہ کا کہ وہ بھی ایک لڑکی کی صورت پر ہے جسکے ہاتھ مین گیہون کا خوشہ ہے

عَذب شیرین یعنی میٹھا اور میٹھا پانی و خوشگوار۔

عَذاب سزا جو گنہگار کو دیجاوے اور وہ تکلیف جو جسم کو پہونچائی جاوے عرفی عرفی خمار عشق خماری ست بس الیم * جامی کش عذاب کشیدن زبہر چیست *

عُذوبت۔ لذت شیرینی خوش مزگی پانی کی جو اسمین ہو۔

عِذار۔ رخسارہ مقام پیدا ہونے خط کے بالون کا ذوقی یہ عذار نیست
شکنا مشک سا ابرسہ ماہیر * ابر بر خورشید تابندہ نجوم اور دہ ہست *

عُذر۔ حیلہ و بہانہ جو مجرم و ملزم اپنی رہائی کے واسطے کرتا ہے سعدی گر صورتے چنین بقیامت در آورند * عاشق ہزار عذر بگوید گناہ را *

عِذیوط۔ بکسر اول و سکون دال و فتح یاے و سکون واو و طاے مہملہ وہ شخص جسکا انزال کے وقت پاخانہ نکل جائے۔

عین با راے مہملہ

عِرق النسا۔ ایک بیماری کا نام ہے اور یہ ایک درد کمر لات کی ایک رگ مین ہوتا ہے اس رگ کا نام بھی عرق النسا ہے ہندی مین اسکو رانگھن باؤ کہتے ہین۔

عَرا بفتح اول بغیر مد کے درگاہ اور صحن گھر کا اور مد کے ساتھ کشادگی اور ویرانہ بے درخت و بے گیاہ جنگل۔

عِراک۔ بکسر اول وہ مہرہ شطرنج کا جو شاہ اور رخ درمیان شاہ کے حفاظت کے لیے حائل ہو۔

عُرفا۔ عارف لوگ۔ خداپرست لوگ۔

عَرُوب۔ وہ عورت جو شوہر کو دوست رکھے اور وہ شوہر جو عورت کو دوست رکھے اور عورت خندہ خوش مزاج۔

عَرَب۔ مشہور ملک ہے سہ دیدہ کن بینا بہ دیدار عرب * سینہ کن روشن با نوار عرب *

عرفات۔ یہ ایک مقام مشہور مکہ معظمہ سے نوکوس پر جہان روز حاجی لوگ حاضر ہوتے ہین اور یہی جگہ منا سے حج ادا کیے جاتے ہین۔

عَرَصات۔ بفتحات جمع عرصہ اور قیامت۔

عُرات۔ برہنہ لوگ۔ ننگے لوگ جنکے بدن پر کپڑا نہو۔

عُروج۔ بلندی۔ عزت مرتبہ۔ چڑھنا۔ بڑھنا۔ بلند ہونا صفدر رفو قانی
آید اندر کنج تاریک لحد * گرچہ انسان تا فلک یابد عروج *

عَرعَر۔ بفتح ہر دو عین نام ایک درخت کا جو سرو کی قسم سے ہے پہاڑی سرو بھی اسکو بولتے ہین چیڑ بھی اسکا نام ہے فارسی مین مطلق آزاد کے معنی ہین صحیفۂ قلی سلیم۔ عرعر آزاد نیست باغ جہان * مغز سرکش باحضر خواجگان *

عَروس۔ بفتح اول عورت یا مرد جو نو کدخدا ہو گو عرف مین عورت نوکدخدا کو کہتے ہین اور یہ لفظ جو بضم اول مشہور ہے محض غلط ہے قطعہ از مؤلف۔ زال دنیا ست سالخوردا اے دوست * گر تو مائل شوی خوری افسوس * گو بظاہر بچشم دنیادار * ہست آراستہ بشکل عروس *

عرائس۔ جمع عروس بہت سے نو کدخدا مرد اور عورتین۔

عِرس۔ بکسر عین خاوند والی عورت۔

عُرس - عُرُس - بضم اول و بضمتین شادی کا کھانا اور کھانے کی مجلس اور مجلس بزرگون کے فاتحہ کی اور سالینہ بزرگون کا -
عرش - تخت اور سقف یعنی چھت سعدی - گہ بیان بیتیے کہ عرش عظیم
بلرزد ہمی چون بگرید یتیم ٭
عَریش - ہودج اور نے بست جسپر انگور کی بیل چڑھاتے ہین -
عَرض - بفتح اول ظاہر کرنا کسی چیز یا امر کا دوسرے شخص پر اور گھر کا اسباب و ملامت و دیوانگی صائب - دہم چہ عرض سخن بر سیہ دلان
صائب ٭ بخاک تیرہ چہ ریزم شراب بیغش را ٭
عُروض - بضم اول و دوم ظاہر ہونا - عارض ہونا -
عَروض - بفتح اول نام ایک علم کا ہے کہ اسکے ذریعے سے نظم کے بحور دریافت کیے جاتے ہین -
عَرَض - بفتح اول و دوم وہ چیز جو قائم دوسرے کی ذات کے ساتھ ہو جیسا کہ رنگ کپڑے پر اور حروف کاغذ پر قائم ہین -
عِرض - بکسر اول ناموس اور عزت و آبرو -
عُرض - بضم اول کنارہ اور سمت و طرف و جانب -
عَرف - بفتح اول و سکون ثانی خوشبو -
عُرف - پہچان نکوئی اور احسان کی -
عَرَق - بفتح اول و دوم پسینہ بدن کا اور وہ پانی جو بذریعہ بھبکے ادویات سے حاصل کرتے ہین سعدی - برانداخت بیچارہ چندان عرق
کہ شبنم بر اردبہشتی ورق ٭
عَرق - بفتح اول و سکون ثانی گوشت ہڈی سے جدا کرنا اور وہ ہڈی جس سے گوشت جدا کیا جائے -
عِرق - بکسر اول و سکون ثانی رگ بدن کی اور جڑ باریک درخت کی -
عِراق - دو ملکون کے نام ہین ایک عراق عرب دوسرا عراق عجم لغت مین عراق اوس ملک سے مراد ہے جو کسی دریا کے کنارے پر ہو چنانچہ عراق عجم رود جیحون کے کنارے پر واقع ہے خراسان و اصفہان اسمین ہین اور عراق عرب دجلہ اور فرات کے کنارے ہے اور بغداد وغیرہ اسمین ہین اور نام ایک راگ کا جو چاشت کے وقت گایا جاتا ہے سعدی
سپہرم مدد کرد و نصرت وفاق ٭ گرفتم بباز و سے دولت عراق ٭
عِراک - انبوہ کرنا - ہجوم لانا -
عَرّاک - بتشدید راے سخت مالش کرنے والا اور گوشمال دینے والا - لڑنے والا طالب آملی ہست شرم بلند پے دعوی ٭ شاعرم بذلہ سنج نے عراک -

عَروسک - گڑیا جس سے لڑکیان کھیلتی ہین اور نام ایک میوہ قسم زرد آلو سے اور چھوٹا منجنیق جو ایک آلہ آلات جنگ قلعہ گیرنے سے ہے شرف الدین علی یزدی - وصف زرد آلو ارکتم بنیاد ٭ ساز ملولی دل از عروسک شاد ٭ میر خسرو - بران شد کہ رو در حصارش زند ٭
عروسک زنان زیر خاکش کند ٭
عَرِم - بفتح اول و کسر ثانی نہر پانی کی اور وہ دیوار کہ روان پانی کے آگے واسطے بند کرنے پانی کے بنائین -
عِرَم - بکسر عین و فتح ہر دو راے ترکی ہین لشکر و فوج -
عُرجون - لکڑی خرما کے خوشہ کی جو درانتی کی طرح خم کھائی ہوئی ہوتی ہے -
عِرفان - پہچاننا صوفیہ عالیہ کے نزدیک پہچاننا ذات الہی کا و بمعنی شرم و حیا توحید - خداے جہان کردہ بر حال زارت ٭
کرم بے نہایت عنایت فراوان ٭ ربود از درونت غبار کدورت ٭
دلت کرد روشن بانوار عرفان ٭ بعقل و خرد ساختت رہنما سے بہود ٭
عطا دولت دین و ایمان ٭ بشکرانہ کن سجدہ گر بندہ او ٭ ادا کن
ادا کن ادا حق احسان ٭
عَرِین - بروزن قرین وہ جنگل جسمین بہت سے درخت ہون اکثر شیر کو اسکے ساتھ نسبت ہے اور شیر عرین کہا جاتا ہے یعنی شیر جنگل کا -
عَرّخو - بتشدید راے آواز بلی اور کتے کی جو لڑنے کے وقت نکالتے ہین -
عَرّابہ - ارابہ یعنی گاڑی جو مشہور چیز ہے -
عَرّادہ - براے مشدد و دال مہملہ چھوٹا منجنیق جس سے پتھر قلعہ پر پھینکین نظامی ٭ عرادہ بر گرد اورہ شناس ٭ نہ از گردش منجنیقش ہراس ٭
عَربدہ - بروزن سرزدہ بدخوئی و جنگجوئی ابوطالب کلیم - ایکہ گفتی کہ مکن عربدہ زین پیش کلیم ٭ ستم از گردش آن چشم مکن تا نکنم ٭
عَرصہ - گھر کا صحن اور بساط شطرنج اور میدان سعدی - دران عرصہ بر اسپ دیدند شاہ ٭ پیادہ ندیدند اکثر سپاہ ٭
عَرضہ - بفتح اول عریضہ جو محکوم حاکم کی خدمت مین اپنا حال لکھ کر گزارش کرتا ہے ہند مین اسکو عرضی کہتے ہین ملا شانی تکلو - آستان وصالش مباش غمزدہ شانی ٭ بود کہ عرضہ شوق ترا جواب آید ٭
عَرَقیہ - رومال جس سے عرق پونچھتے ہین -
عُروہ - بضم اول و واو مفتوح گوشہ ہر چیز کا اور ہر چیز کا دستہ جیسا کہ کوزے کا دستہ جس سے پکڑ کر اسکو اٹھالین اور جو لوگ عروہ کے معنی رسن کرتے ہین خطا پر ہین -

عزبکیہ - بردزن طریقہ طبیعت اور کوہان اونٹ کا -
عراضہ - وہ تحفہ جو مسافر سفر سے اپنے دوستوں کے واسطے لائے -
عرضہ - بضم اول ہمت و حیلہ اور بچاؤ و سپر یعنی ڈھال اور وہ شے جو خودداری کے واسطے پیش کی جائے -
عرفہ - بفتحات نوتاریخ ماہ ذی الحج کی جس روز حاجی عرفات مین جاکر حج کرتے ہین -
عروسی - شادی کدخدائی - بیاہ شادی سعدی عروسی بود نوبت ماتمت ✤ اگر نیک روزی بود خاتمت
عراقی - تخلص ایک شاعر کا ہے -
عرشی - تخلص ایک شاعر کا ہے -
عرائی - ویرانہ بے درخت جنگل -
عربی - عرب کا رہنے والا - ہادی ہر دو جہان ذات رسول عربی ✤ والی کون و مکان ذات رسول عربی ✤

عین با زاے

عزا - صبر کرنا مصیبت پر یعنی کسی کے ماتم مین ہونا آقا حسین برلب کوثر بود بامر تشنہ ✤ ہر عزا دار حسین ابن علی ✤ سنجر کاشی نے ہمدمی کہ پرسد ورشتنم خبر ✤ نے دوستی کہ گیرد و ہر دم عزا ✤
عزب - بفتحتین مجرد آدمی جسکے عورت نہو اور عورت جسکا خاوند نہو درویش واله ہروی - نسبتہ سفتہ قریب است خدا خیر کنا دن ✤ دختر رز عزب است و پسر حرص عزب ✤
عزلت - جدا ہونا تعلق دنیا سے گوشہ نشین ہونا مؤلف - ز زندان حرص و تعلق برست ✤ ہر آنکس کہ در کنج عزلت نشست ✤
عزیمت - ارادہ و قصد جو کسی کام کے لیے کیا جائے -
عزمات - بہت سے ارادے جمع عزم کی -
عزہات - بکسر اول سست جسکی قوت باہ زائل ہو چکی ہو -
عزت - قدر - توقیر - آبرو - عزیز ہونا - غالب ہونا - غلبہ پانا ملا طغرا پس از فوت گرمیکنی عزتم ✤ مئی لالہ گون ریز بر تربتم ✤
عز - بکسر اول عزت و ارجمندی مقابل ذل کے مؤلف چرا محتاج باشد ہر وحق دوست ✤ کہ عز و ذل دنیا را نخواہد ✤
عز - بفتح اول غلبہ جو کسی پر حاصل ہو -
عزیز - پیارا دوست ارجمند و مرغوب و کمیاب و غالب و لقب وزیر مصر سعدی اگر بندہ چابک نیاید بکار ✤ عزیزش ندارد خداوندگار ✤ والہ کہ در مصر چون من عزیزی نبود ✤ چو حاصل ہمین بود چیزے نبود ✤

عزوجل - غالب ہوا اور بزرگ ہوا ذات پاک الہی روشن شود ز ذرہ عیان آفتاب عالمتاب ✤ کند چو لطف و عنایت خدائے عزوجل ✤
عزرائیل - نام فرشتہ کا جو سب کی جانین قبض کرتا ہے -
عزازیل - نام شیطان کا اسوقت پکارا جاتا تھا جب یہ معلم الملکوت تھا جب مردود ہوا تو اسکا نام ابلیس مقرر ہوا -
عزال - نام ایک پردہ موسیقی کا -
عزل - بفتح اول بیکاری و گوشہ نشینی ظہوری - مروت عزل گردید در دیوان نازاو ✤ عجب گر انقدر بے مہری از صد بیوفا آید ✤
عزم - ارادہ و قصد جو کسی کام کے لیے کرین حافظ - عزم دیدار تو دارد جان برلب آمدہ ✤ بازگردد یا برآید چیست فرمان شما ✤
عزائم - جمع عزیمت وہ دعائین اور منتر جو جن و پری کی حاضری کے واسطے پڑھتے ہین اور قرآن کی آیتین جو بیمارون کی شفا کے واسطے پڑھکر دم کرتے ہین صفدر فوقانی - نگاہش سحر چشمش عین جادو ✤ عزائم خوان اسیر بند گیسو ✤
عزو - نسبت کرنا کسی چیز کے ساتھ اور صبر کرنا کسی کے ماتم مین -
عزی - نام ایک درخت کا تھا عرب مین جسکی پرستش اہل عرب بڑے اعتقاد سے کرتے تھے اور بتون کی طرح اسکو بھی پوجتے تھے اور خالد بن ولید پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گئے اور اس درخت کو جلا دیا لغتیہ از مؤلف - اوڑ ڈالے آپ نے لات و منات ✤ کردیا عزی کو حضرت نے ذلیل ✤

عین با سین مہملہ

عسرت - بضم اول دشواری سختی اور تنگی و تنگدستی درویش واله ہروی ہر چند کشتی ز فاقہ عسرت ✤ از خلق نگیر غیر عزلت ✤
عسجد - زر و طلا و جواہرات موتی یاقوت سبزہ و نگا وغیرہ -
عسر - بضم اول سختی تنگی و تنگدستی و دشواری مؤلف چیرانی تنگدل در تنگ دستی ✤ خدا فرمود بعد از عسر یسر است ✤
عسر - بفتح عین و کسر سین دشوار و مشکل -
عسیر - دشوار و مشکل و تنگ -
عسکر - لشکر اور ہر چیز جو بہت ہو اور تاریکی رات کی اور نام ایک محلہ کا نیشاپور مین اور نام ایک گانون کا شوستر مین جس جگہ گنا بکثرت پیدا ہوتا ہے خاقانی - طبع کافی کہ عسکر شکرست ✤ چون ز عسکر ہمہ شکر ست ✤
عساکر - جمع عسکر بہت سے لشکر -

عسار ۔ درویشی وتنگدستی۔

عسعس ۔ اندھیرا ہو جانا۔ رات پڑ جانا۔

عس ۔ بضم اول وتشدید ثانی قدح بزرگ یعنی بڑا پیالہ۔

عسس ۔ محافظ شہر کا کوتوال۔ طالب کلیم۔ گر عسس گرد رہا عسسم میگیرد ٭ تا ز کیفیت چشم تو خبر یافتہ ام ٭

عسل ۔ شہد جو مشہور چیز ہے۔

عسر ۔ بضمتین بُرائی چیدلی۔

عسقلان ۔ نام ایک شہر کا شام مین اور نام ایک نہر کا۔

عسلی ۔ وہ زرد رنگ کپڑا جو قوم یہود دوش پر رکھتی ہے اسلیے کہ اور اقوام مین انکو امتیاز ہو۔ سعدی۔ آن حلاوت کہ تو داری نہ عجب گر دست ٭ عسلی پوشد وزنار بہ بندد زنبور ٭

عین باشین

عشا ۔ بکسر اول تاریکی رات کی اور خفتن کے نماز کا وقت۔

عشا ۔ بفتح اول و دوم وہ کھانا جو رات کو کھائین اور شبکوری جو ایک بیماری ہے اور بیمار رات کو اندھا ہو جاتا ہے۔

عشب ۔ بضم اول سبزگھاس۔

عشرت ۔ بکسر اول خوشی و خوشدلی تو حید۔ شبان جہان و ایلان ولایت ٭ امیران دیبا و ارکان دولت ٭ کہ بودند در دار دنیای فانی ٭ شب و روز سرگرم در بزم عشرت ٭ گزشتند و رفتند آخر ز دنیا ٭ بہ زندیا خود بجز داغ حسرت ٭ مولوی معنوی خیز تا عشر برانگیزیم ٭ یک زمان از زمانہ بگریزیم ٭

عشرات ۔ بفتحات جمع عشرہ دہایان جو دس سے نوے تک ہوتے ہین۔

عشیت ۔ رات کا وقت۔

عشیر ۔ بروزن فقیر ہم حصہ و ہمسایہ پاس رہنے والا۔ ایک جگہ زندگانی کرنے والا۔

عشائر ۔ خویش وقبائل ورشتہ دار جمع عشیرہ۔

عشر عشیر ۔ بروزن شکر فقیر دسوان حصہ سو مین سے ایک دہائی یا سو دہائی۔

عشر ۔ کسی چیز سے دسوان حصہ لینا اور ہر ایک سبزہ جس سے دودھ نکلے چنانچہ درخت آک کا۔

عشق ۔ بضم اول آشیانہ مرغ کا گھونسلا جسمین وہ رہتا ہو۔

عشاق ۔ بضم اول و شین مشدد جمع عاشق اور نام ایک مقام کا بارہ مقامات موسیقی سے جسکو دو گھڑی دن رہے گاتے ہین۔

عشوق ۔ بہت عشق کرنے والا۔

عشق ۔ بہت دوست رکھنا۔ نہایت پیار کرنا۔ مولانا جامی نہ تنہا عشق از دیدار خیزد ٭ بسا کین دولت از گفتار خیزد ٭

عشیران ۔ موسیقی مین ایک شعبہ کا نام ہے۔

عشق پیچان ۔ یہ ایک بیل ہے جو درختون پر چڑھ جاتی ہے [illegible] صید نخچیر بیابان تا کند در دام لف ٭ شاخ آہو بر سر [illegible] عشق پیچان بستہ [illegible]

عشوہ ۔ بضم اول وہ آگ جو دور سے دکھی جاے۔

عشوہ ۔ بکسر اول ناز و ادا و کرشمہ میرزا بیدل یقاق [illegible] عشوہ مستقبل و ماضی ٭ لوگرا مر ز بیرون آئی از خود نیست فردائی ٭

عشیرہ ۔ ایک خاندان کے آدمی۔

عشقہ ۔ عشق پیچان۔

عشاری ۔ ایک صنعت شعری کا نام ہے۔

عین باصاد

عصا ۔ چوب دستی ہاتھ کی لکڑی میرزا صائب ۔ گذشتہ از [illegible] بے عصا سبک پایان ٭ تو پیر دی بہ تو جیا و بے عصا کہ [illegible] ٭

عصب ۔ پٹھہ سفید رنگ جو بدن مین ہوتا ہے فارسی مین اسکو پے کہتے ہین۔

عصبیت ۔ طرفداری و ستواری و رشتہ داری و قرابت و خویشی۔

عصمت ۔ باز رکھنا اپنے آپ کو گناہ سے پاک و پاکدامن رہنا۔

عصبات ۔ جمع عصبہ خویش اور قرابتی لوگ۔

عصات ۔ بضم اول و تخفیف صاد جمع عاصی گنہگار لوگ۔

عصفر ۔ بضم عین و ضم فا ایک گل کا زیرہ جسکو ہندی مین کسم کہتے ہین اور اس سے کپڑے سرخ رنگتے ہین۔

عصار ۔ بفتح اول و تشدید صاد دتیلی جو تلون کا تیل نکالتا ہے۔ سعدی چو کار ے کہ عصار شمیش لیست ٭ دوان تا بشب ہمانجا کہ بست ٭ منعقد رفوقانی خشک نان فوقانیا کی مینورد ٭ ہر کہ از عصار پاستہ دوستدار ٭

عصفور ۔ بضم اول چڑیا جو مشہور جانور ہے فارسی کنجشک۔

عصافیر ۔ جمع عصفور بہت سی چڑیان۔

عصر ۔ روزگار زمانہ جہان اور دن کا آخری حصہ اور نچوڑنا جسکا فاعل عصار ہے۔

عصیر ۔ نچوڑا ہوا شیرہ شراب انگور اور شراب اور سرکہ انگوری۔

عصعص ۔ بضم ہر دو عین بروزن بلبل دونون چوتڑون کے درمیانی ہڈی قریب مقعد۔

عصمداء ... پانی کی مشک کی ڈوال یعنی تسمہ ... اسکو کھونٹا بناتے ہیں
اور نام ایک شخص کا جو نعمان بن منذر کا حاجب تھا۔
عِصیان۔ عاصی ہونا گناہ کرنا۔ نافرمان ہونا ۔ گر شود لطف و کرم
در شان من ہ جلوۂ طاعت دہد عصیان من ۔
عَصوَ۔ عصا زدن۔ لاٹھی مارنا۔
عَصَابہ۔ عورتوں کا سربند استاد فرخی۔ سوسن سیمین و تابہ
برگرفت از پیش رو ۔ نرگس شکین عصابہ برگرفت از پیش رو ۔
عَصَبہ۔ بفتحات بدن کے پٹھے جنکے متعلق بدن کی حس و حرکت ہے اور
پیوستگی مفاصل کی انکے ساتھ ہے فارسی میں اسکو پے کہتے ہیں اور
اولاد اور قریبی ہم جدی رشتہ دار۔
عُصبَہ۔ بضم اول گروہ آدمیوں کا دس سے چالیس تک۔
عَصیدَہ۔ بروزن قصیدہ ایک قسم کے حلوے کا نام ہے۔
عُصَارَہ۔ کھلی جو تیل نکالنے کے بعد نکلتی ہے اور ثفل انگور کا جو شیرہ
نکالنے کے بعد باقی رہجاتا ہے۔

عین با ضاد معجمہ

عَضب۔ تلوار اور ہر چیز جو تیز ہو۔
عَضبیَت۔ تیز زبانی و تیزی۔
عَضُد۔ بازو اور امداد دینا اور نام ایک بادشاہ کا شاہان شیراز سے
سعدی۔ عضد را پسر سخت رنجور بود ۔ شکیب از نہاد پدر دور بود ۔
عَضّ۔ بفتح اول و تشدید ثانی کسی چیز کو دانتوں سے کاٹنا۔
عَضرَفوط۔ ایک جانور سفید اور نرم کا نام ہے۔
عَضَل۔ گوشت کا ٹکڑا
عُضو۔ بالضم و بالکسر بدن کا ایک حصہ اور جوڑ اور آنکھ کا پردہ اعضا
اسکی جمع ہے بفتح اول پڑھنا اس لفظ کو خطا ہے جمال الدین سلمان
عضو عضو دیدہ را ... بیندر ... طالب دیدار ... شدن ۔
عِضَادَہ۔ بضم اول دہلیز کی لکڑی جسکو بازو کہتے ہیں۔
عِضَادَہ۔ بکسر اول ایک مستطیل پرزہ جو اصطرلاب کی پشت پر
لگا ہوا ہوتا ہے اخذ احکام کے وقت اسکو گردش دیتے ہیں۔

عین با طائے مہملہ

عَطا۔ مہربانی بخشش داد و دہش تو ... تا نباشد در نظر نور خدا ۔
سجدہ پیش بت کجا باشد روا ۔ محرم ہر راز ذات خالق ست ۔
واقف ہر مطلب و ہر مدعا ۔ میکند در پردہ کار آن پردہ دار ۔ می برد
پوشیدہ دل آن دلربا ۔ جرم بخشش بندگان پر گناہ ۔ پردہ پوش

خاطر ... آشنا ۔
عَطَب۔ ہلاکت۔ موت۔ مرگ۔
عُطلَت۔ بضم اول بیکار رہنا۔ معطل ہونا۔
عُطَارِد۔ نام ستارے کا جو دوسرے فلک پر چمکتا ہے علم و عقل اسی سے
متعلق ہے دبیر فلک اسکا خطاب ہے۔
عِطر۔ بکسر اول خوشبو اور بفتح اول خوشبودار ہونا۔ نظامی درود
شہنشہ بران غار خواندہ برون رفت و عطری برآتش فشاند ۔
عَطّار۔ عطر فروش اور تخلص خواجہ فرید الدین عطار کا جنکی تصانیف
مشہور ہیں عطار کفر کا فرا و دین دیندار را ۔ ذرۂ از درد دل عطار را ۔
عَطَاس۔ وہ دوائی یا بیماری جس سے عطسہ یعنی چھینکیں آویں۔
عِطَاش۔ بکسر اول تشنگان بہت سے پیاسے۔
عُطَاش۔ بضم اول پیاس کی بیماری۔
عَطَش۔ بفتح اول و دوم تشنگی یعنی پیاس آلودگی۔ ہر کرا از تعب
کینش عطشے داد قضا ۔ جگرش تر نکند چرخ جز از آب حسام ۔
عَطف۔ پھیرنا۔ الٹنا پیچ دینا۔ میل کرنا۔ مہربانی کرنا۔ اور منعطف
دامن جامہ کا نظامی۔ سوے عطف گاہ زمین تاختند ۔ دران
سایہ بان رایت افراختند ۔
عَطَل۔ بفتحتین عورت جو بے پیرایہ اور بے زیور ہو اور حرف بے نقطہ ہو۔
عَطَن۔ اونٹوں کے پانی پینے کا مقام اور بکریوں کی آرامگاہ۔
عَطشَان۔ پیاسا اور پیاس آلودی۔ جز تشنگی ... گیتی
ہم کاسہ کجا دید فناے عطشان را ۔
عَطُوفَہ۔ عورت جو مہربان ہو۔
عَطسَہ۔ چھینک جو دماغ کی حرکت سے انسان کو آتی ہے میر خسرو
یافت تخت آدم ازان نور تاب ۔ عطسہ زد از دیدن آن آفتاب ۔

عین با ظائے معجمہ

عُظَمَا۔ بضم اول جمع عظیم کی بزرگ لوگ۔
عَظَمَت۔ بفتحات ہر سہ حروف بزرگی بڑائی توحید توجلوہ ... ہی
اے صانع ... صنعت ۔ تو ... کاتب قدرت زہر صورت
تو جمانی تو سلطانی تو سبحانی تو منانی ۔ تو ... تو ہستی لائق عظمت ۔
عَظم۔ بفتح اول ہڈی اور بزرگی۔
عِظَم۔ بکسر اول کلانی ضد صغری۔
عَظِیم۔ بزرگ بڑا صاحب رتبہ اور نام خداوند کریم کا توحید ہست در دست
دوائی ہر سقیم ۔ اے طبیب خلق و دردہا ... صاحب عزت تو ہستی با عزیز

عفت دوست تو داری یا حلیم ٭

عِظَام - بکسر اول بزرگان جمع عظیم اور ہڈیاں جمع عظم ٭ لفظ بضم عین و تشدید ظا پڑھنا خطا اور غلط ہے -

عین با فاے

عَفرا - نام ایک معشوقہ کا جسپر عروا عاشق تھا -

عَفرنا - بفتح اول و دوم شیر درندہ -

عُفُونت - بضمتین بدبو ہونا - گندہ ہونا -

عِفرِیت - دیو اور نام ایک دیو کا -

عَفَارِیت - جمع عفریت بہت سے دیو -

عِفّت - پرہیزگاری و پارسائی اور بچنا زنا اور حرام سے -

عَفص - مازو جو ایک دوا ہے تشریح اسکی پانچوین فصل مین تحریر ہوگی

عَفَاف - پارسائی و پرہیزگاری -

عَفِیف - مرد پارسا و پرہیزگار شعر ہرچہ نازان ست انسان عفیف ٭ ہرچہ طاقت ہست سرکش این نحیف ٭ نیست امید بقا در زندگی ٭ چون بسر مرگ ست استادہ حریف ٭ کن ہمیشہ عصمت معصوم پاس ٭ پیشہ عفت کن اے مرد عفیف ٭

عَفعَف - آواز سگ - کتے کی آواز اور اونٹ کی آواز جو مستی کی حالت مین نکالتا ہے فوقی یزدی عفعف تا سگ زنی چون شتر در رگ عقل ٭ چند سازی خویش الزتیغ ہشیاری نگار ٭ روشن بود در بازئہ عشق کہ اندہ شادی ست ٭ درد و غم آن غزال رعنا شادی ست ٭ از عفعف جد برنگردی زنہار ٭ کاوازسگان نشانہ آبادی ست ٭

عف عَفعَف - آواز سگ - کتے کی آواز ابو نصیری بدخشانی مژدہ وصل برائے دل خود خواہ یافت ٭ عاشقت را چو سگ کوے تو عف خواہد کرد ٭ مفر ابیدل زمعاملات جہان کہ تو برآ گرین ہمہ دام و دد ٭ عفعف سگ بسگے خوردلکل خری بخری رسد ٭

عَفَن - بدبو ہو جانا ہوا اور گوشت کا عفونت پیدا ہونا - بدبو پھیلنا -

عَفو - بروزن سرو قصور معاف کرنا باوجود طاقت انتقام کے شعر سعدی ازو عفو کردم عملہاے زشت ٭ بفضل خودش آورم در بہشت ٭

عَفِیفہ - وہ عورت جو زنا کار نہو - پارسا ہو -

عین با قاف

عَقِب - پاشنہ یعنی ایڑی و فرزند و فرزند زادہ -

عُقب - بضم اول و ضمتین انجام و پایان ہر ایک کام کے اخیر -

عَقَب - بفتح اول و دوم وہ پٹھا جس سے کمان بناتے ہین -

عَقب - بفتح اول و سکون ثانی کسی کے پیچھے پڑنا -

عِقَاب - بکسر اول عذاب کرنا اور شکنجہ کرنا -

عُقَاب - جو ایک جانور شکاری ہے اور ہر چیز بلند اور بڑا پتھر اور وہ شے جو کمان کے سوراخ مین ڈالین اور کیمیا گرون کی لغت مین نوشادر -

عَقرَب - کژدم جو ایک موذی جانور ہے اور نام آٹھوین برج کا برج آسمانی ہے

عَقَارِب - جمع عقرب بہت سے کژدم -

عَقِیب - پیرو اور جو پیچھے رہگیا ہو -

عَقَبَات - بفتحات رستے دشوار اور تنگ رستی جمع عقبہ کی -

عُقُوبت - عذاب تکلیف و سزا میر مفری شعر شست مکر دکس بالالحق عقوبت مکر دکس را الاحق ٭ بامعدی دمی باشی برین سیاست نراند ٭ عقوبت بروقیاست بماند ٭

عَقد - بفتح اول گرہ دینا گانٹھ باندھنا قول و اقرار کرنا نکاح باندھنا پیچ کرنا

عَقَد - بفتحتین گرفتگی زبان کی بات کرنے مین -

عِقد - بکسر اول موتیون کی لڑی اور گلوبند جسکو ہندی مین ہار کہتے ہین -

عُقَد - بضم اول و فتح ثانی جمع عقدہ جسکے معنی گرہ کے ہین ظہوری بچہ بگسلد بہ نثار تو عقد گریہ من ٭ سرشک شکن چشم گہر بگرد انم ٭ کمال خجند ز ابروت چو روآرم بمحراب ٭ سر زلفت برد عقد نمازم ٭

عُقُود - جمع عقد بہت سے عہد و پیمان صفدر نوقانی کن وفا عہد کہ برخود بستہ ٭ حق چو فرمودست اوفوا بالعقود ٭

عَقَائد - جمع عقیدہ یعنی کسی بات کو حق تصور کرکے اپنے دل مین رکھنا گرہ باندھ لینا -

عَقَاقِیر - جمع عقار وہ دوائین جو قسم بیخ نباتات کی ہون -

عُقر - بفتح اول بانجھ ہونا بے اولاد ہونا عورت کا اور لنگ کرنا چارپایہ کا اور پیٹنے ندینا -

عَقیم - بانجھ ہونا نا امید ہونا عورت کا -

عَقَار - بفتح اول و دوم زمین زراعت وارضی و ملک و قریہ و متاع و اسباب -

عُقَار - بضم اول شراب اور نام ایک جانور کا جسکے پرون سے جیغہ و کلگی بناتے ہین اور وہ پر اکثر سیاہ ہوتے ہین طاہر وحید بسکہ وگردانی از من لے نگار حذار ٭ پیش چشم کاکلت زلفت ست مانند عقار ٭

عَقُور - کاٹنے والا کتا -

عُقُوق - عاق ہونا - ماباپ کی نافرمانی کرنا -

عَقعَق - زاغ دشتی - جنگلی کوا -

عَقِیق - ایک سرخ پتھر کا نام ہے جو مشہور جوہر ہے ٥ زبرگ پان

لب جانان عقیق پیا شد ٭ حنائی عید ہی از بہر بوسہ پیدا شد ٭

عَقِیل - مرد زیرک و عقلمند و دانا اور اونٹ جسکا زانو بندھا ہوا اور نام ابی طالب کے بیٹے کا جو بڑا دانا تھا -

عقل - خرد اور دانش اور یہ ایک قوت ہی قواے انسانی سے کہ انسان اس سے تمیز دقائق اشیا کرتا ہی اسکو نفس ناطقہ کہتے ہین لغت مین اسکے معنی پانون بند یا باندھنے کے ہین کہ اس سے انسان افعال ذمیمہ کے کرنے سے رک جاتا ہی میر حسن دہلوی عقل من بگسست از عشقت بلے ٭ ہر چہ با محکم زنجیر بگسلد ٭

عُقُول - بہت سی عقلین اور عقلمند -

عِقَال - وہ رسی جس سے اونٹ کا زانو باندھتے ہین جلال الدین سلمان گر تو مرکبان زمین را کند روان ٭ نہی تو بختیان فلک را ہند عقال ٭

عَقِیم - بانجھ عورت جسکو حمل نہوتا ہو -

عقابین - وہ دو لکڑیان جس سے مجرم کو باندھتے ہین اور یہ سزا اختراع نوشیروان کے وزیر کی ہی اور اُسنے سب سے اول یہ لکڑیان قائم کرکے حمزہ نام مجرم کو سزا دی -

عِقیان - بالکسر و یاے تحتانی سونا یعنی زر و طلا -

عِقبان - بکسر اول و بای موحدہ جمع عقاب جسکے معنی عذاب و شکنجہ کے ہین -

عَقَبَہ - بفتحات مقام دشوار اور کوئی امر جو سخت اور عظیم ہو -

عُقدَہ - بضم اول گرہ یعنی گانٹھ -

عُقلَہ - نام ایک شکل منحوس کا ہی اشکال رمل سے -

عَقِیلہ - سردار قوم و برگزیدہ اور رسن و پاے بند -

عقیقہ - وہ ضیافت جو بتقریب پیدا ہونے مولود کے ساتوین روز کیجاتی ہی -

عقعوہ - گھر کا صحن اور میدان -

عبقری - ایک قسم جواہر کا ہی جو سرخ رنگ ہوتا ہی لعل عبقری اسکا نام ہی -

عین با کاف

عکس - وہ پرتوہ جو اصل کے مطابق آئینہ یا پانی یا اور کسی شفاف چیز سے دکھائی دیوے نظامی بشکلین زکال آتش لالہ رنگ ٭ دو افتادہ چون عکس گوہر بسنگ ٭

عکاظ - ایک بازار کا نام ہی جو ما بین نخلہ اور طائف کے ہی -

عکہ - جنگلی کوا - یا بانی زاغ -

عکاشہ - عنکبوت جو مشہور جانور ہی -

عین با لام

عُلا - بفتح و ضم اول بلندی اور بزرگی -

عُلیا - ہر چیز جو اورون سے بلند تر ہو -

علالا - شور و غوغا -

عِلّت - بکسر اول و تشدید لام وجہ و سبب و باعث اور بیماری حکیم انوری لاہوری او دو انجشد بہر یک لا دوا ٭ بہر ہر علت و ہر حسب شفا ٭

علات - لوہارون کے اہرن جسکو فارسی مین سندان کہتے ہین -

علالت - بیمار ہونا - علیل ہونا -

علامت - نشان جو قائم ہو - میر خسرو - کہ کند فرق ز رخسارہ تو با خورشید ٭ خط شبگون اگر از مشک علامت نکند ٭

علاج - درمان - دارو - چارہ - میرزا صائب پیمانہ چارہ سر شوریدہ میکند ٭ آتش علاج خانہ زنبور میکند ٭

عَلَف - بفتح اول و ثانی چارہ چارپایون کا گھاس وغیرہ سعدی - خران زیر بارگران بے علف ٭ بروزی دو مسکین شدندی تلف ٭

علاف - گھاس فروخت کرنے والا کہ بخشندکاہ و دانہ با خبر بجز ذات جناب پاک علاف ٭

عَلَق - آبی جانور ہی جسکو فارسی مین زلو ہندی مین جونک کہتے ہین اور بدن پر جس جگہ لگائین خون چوس لیتا ہی اور ہر ایک چیز جو دوسری چیز کو چمٹ جائے اور خون بستہ ہو -

علوق - بستہ ہونا نطفہ مرد اور عورت کا عورت کے رحم مین ابتدا حمل مین اور گوشت کی صورت پکڑنا - اور دوست رکھنا اور پیوستہ ہو جانا -

علل - جمع علت بہت سے سبب و باعث و بیماریان -

علیل - مریض بیمار - صاحب علت مفتی حیدر لاہوری فیض طبیب از تو تندرست و علیل ٭ ذات پاک تو دوائی ہر علیل ٭

عَلَم - بفتح اول لشکر کا نشان اور مشہور و معروف اور نقش کپڑے کا اور خاص کر وہ نام جو کسی کا مقرر ہوا اور وہ اُس نام سے پکارا جاے نظامی علم برکش اے آفتاب بلند ٭ خرامان شو ای ابر مشکین پرند ٭

عِلْم - بکسر اول جاننا - آگاہ ہونا سعدی - کس نیاموخت علم تیر از من ٭ کہ مرا عاقبت نشانہ نکرد ٭

علوم - علم کی جمع بہت سے علم مثلاً علم صرف و علم نحو و علم منطق و معانی و علم بیان و علم عروض و قافیہ و علم انشا و علم رسم الخط و علم معما و علم مناظرہ و علم قرات و علم تفسیر و علم حدیث و علم فقہ و علم فرائض و علم اصول و علم کلام و علم لغت و علم حکمت و علم ہیئت و علم ہندسہ و علم تجوید و علم طب و علم قیافت و علم کیمیا و علم نجوم و علم موسیقی و علم جبر و مقابلہ و علم جر اثقال و علم رمل و علم جفر و علم طلسم و علم قیافہ و علم مساحت و علم اصطرلاب و علم محاضرات و علم تعبیر و علم تقویم

وعلم تصوف وعلم اخلاق وعلم تواریخ وغیرہ سعدی چہ حاجت کہ باسفلہ گوئی
علوم ٭ کہ ضائع شود تخم درشورہ بوم ٭
عَلّام - نہایت دانا اور صاحب علم -
عِلّان - نام ایک شخص کا جو دستکار وصناع صاحب کمال تھا اور
نام ایک قلعہ کا صنعا کے نزدیک -
عَلَن - بفتحتین ظاہر او آشکارا ہونا -
عِلِّیّین - عرف بہشت کے اور اونچے محل اور اعمال نامے نیک بندون کے
عُلُوّ - بلندی - اونچائی - بڑائی -
عِلاوہ - بکسر اول وہ چھوٹی گٹھری جو بڑے بوجھ کے اوپر رکھی ہو یعنی اوپر
عَلانیہ - ظاہر وآشکارا -
عَلیقہ - توبرہ جسمین دانہ گھوڑون کو کھلایا جاتا ہے -
عَلاقہ - بفتح اول ودوم آویزش اور تعلق اور رابطہ جو دو چیزون یا دو شخصون
مین ظاہری یا باطنی دوستی یا دشمنی سے ہو یا نوکری یا ملازمت جس سے معاش حاصل ہو
عِلاقہ - بکسر اول وہ چیز جو کسی کے ساتھ بندھی ہوئی اور آویزان ہو جیسے
دوال تازیانے کا اور تلوار جو کمر سے بندھی ہو اور زیور جو پہنا ہو
ابو طالب کلیم - علاقہ ام ز تو بگسست وز حیات برید ٭ تو یا کش
ز سر رگ طبیب دست کشید ٭
عَلیّہ - وہ چیز جو بلند اور اونچی ہو -
عُلُوقہ - بضم اول ودوم کھانے کی چیز -
عُلالہ - بقیہ شیر کی خوراک کا اور ہر شئی قلیل جو بعد تصرف کثیر کے بچ رہی ہو -
عَلی - بلند اور نام خدا تعالے کا اور نام خلیفہ چہارم رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم کا جو حضرت کے ابن عم اور زوج فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تھے
رباعی از مؤلف - علی جانشین رسول خدا ٭ علی حامی دین و مشکلکشا ٭
دو قالب یکی جان علی ونبی ٭ دو بادام یک مغز صل علی ٭
عَلَوی - بفتح اول ودوم حضرت علی کی اولاد جنکا نسب نامہ سوا سے امام حسن
وحسین رضی اللہ عنہم کے حضرت علی کے ساتھ ملتا ہو -
عُلوی - پیدائش عالم بالا کے فرشتے اور ستارے وغیرہ -
عَلّامی - علّامہ - نہایت دانا اور صاحب علم -

عین با میم

عَمیٰ - گمراہی اور نابینائی یعنی اندھاپن -
عَمیا - نابینا عورت جسکو کچھ نظر نہ آئے اور پوشیدگی اور چیز پوشیدہ -
عَمداً - جان بوجھ کر کوئی کام کرنا جان بوجھ کر زہر کھا لینا نور الدین ظہوری
درو نداری رسد اوا چہ خطا ٭ دم بکش از نالہ عمداً چہ خطا ٭

عِمارت - آباد کرنا - بنانا - تعمیر کرنا - اور آباد ہونا و آبادی سعدی
ہر کہ آمد عمارت نو ساخت ٭ رفت منزل بدیگرے پرداخت ٭
عِمادات - بہ دال مہملہ عمارت کے ستون -
عِمرانات - بکسر اول آبادیان عمارتین جمع لفظ عمران کی -
عمرو لیث - اخیر مین ثاے مثلثہ نام ایک بادشاہ کا جسنے شہر شیراز آباد کیا تھا
عَمید - قوم کا پیشوا بڑا آدمی -
عَمُود - گھر کا ستون اور خیمے کی چوب ترازو کا شاہین اور قوم کا افسر اور آلہ تناسل
عِماد - ستون اور اونچے مکان - یہ لفظ مفرد وجمع دونون پر آتا ہے -
عَمد - بفتح اول ارادہ اور قصد اور جان بوجھ کر کام کرنا -
عَمَد - بفتح اول وثانی جمع عمود بہت سے ستون -
عُمر - بضم اول وبفتح اول انسان کی زندگی کی میعاد یعنی جب تک کہ
بدن کی عمارت قائم رہے توحید - میرود چون باد اندر دست دیگر بار عمر
تا جران وقت لفروشند در بازار عمر ٭ میشود ہر روز یکیک وز کم عمر عزیز
فی الحقیقت ہست یا بیوفا ای یار عمر ٭ وقت راہر گز نباشد بیا کمر گرو ز
میرود از جا بشکل سایہ دیوار عمر ٭ کہ خزان آیا بگلزار زمانہ گہ بہار
بگذرانند در فصل عندلیب زار عمر ٭ ختم شد شاہ و گدارا اندرین ارفنا
در شمار روز و ماہ و سال آخر کار عمر ٭ ہمچو نادان کے کند دانا تلف
وقت عزیز ٭ بگذراند کے بحال بیہشی ہشیار عمر ٭
عُمَر - جانشین ثانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر ودلاور
تھے انکے باپ کا نام خطاب تھا سعدی تحسین ابوبکر پیر و مرید ٭
عمر پنجہ بر پیچ دیو مرید ٭
عُمُور - وہ گوشت جو دانتون کے درمیان اور بیچ مین ہے -
عَمّارہ - نام اُس شخص کا جسنے عماری ایجاد کی اور مخفف عماری فردوسی
ہمہ جامہ و گوہر شاہوار ٭ ہمہ تازی اسپان بزرین و عمار ٭
عَمَش - ضعف بصر اور دمعہ یعنی اجراے اشک جو ایک بیماری ہے -
عمرو عاص - رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اصحاب کا نام ہے -
عُمُق - بضم اول وثانی مقدار گنوئین اور حوض اور دریا کا -
عُمق - بضم اول وسکون ثانی گہراپن چاہ وحوض ودریا کا -
عمیق - گہرا کنوان یا حوض وغیرہ ٭ بغیر خضر ہدایت کہ آرد ش
برون ٭ کہ ہست طالب دنیا غریق بحر عمیق ٭
عُمّال - جمع عامل کام کرنے والے -
عمل - کام نیک ہو یا بد ہو سعدی چو شرف دو دست از امانت بیدا
بباید بر او ناظری کس گماشت ٭ ور او نیز در ساخت با خاطرش ٭

ز شرف عمل برکن و ناظر ش ❊ وله در عمل کوش هرچه خواهی پوش ❊
تاج بر سر نه و علم بر دوش ❊
عمر خیام - نام ایک شاعر کا ہے جسکی رباعیاں مشہور ہیں -
عَم - باپ کا بھائی جسکو چچا کہتے ہیں علی مرتضی ابن عم رسول شہنشاہ
ذوی جاه زوج بتول ❊
عُمُوم - عام طور پر سب کو لے لینا -
عمیم - سب کو حاصل کر لینے والا - عام بے انتہا و بے حساب توحید
بهر خاصان بست لطف خاص حق ❊ بهر عامان بست الطاف عمیم ❊
عَمَایم - دستارہا - پگڑیاں جمع عمامہ -
عمان - بضم اول نام ایک شہر کا ہے جو سمندر کے کنارے آباد ہے نیز ایک
بستی شام میں اور جمع عم جسکے معنی چچا کے ہیں سعدی ز دریای عمان
بر آمد کسے ❊ سفر کرده دریا و ہامون بسے ❊
عِمران - بکسر اول آبادی اور نام موسی علیہ السلام کے والد کا اور
بی بی مریم علیہا السلام کے باپ کا اسیری لاہجی بندگی اینجا ز سلطانی
دین خرابی بہتر از عمرانی ست ❊ وله عشق گوید خانہ ویران میکنم ❊
عقل گوید شہر عمران میکنم ❊
عَمَه - بفتح اول و سکون ثانی گمراہی اور خواری و فروتنی -
عَمُو - بفتح عین و ضم میم چچا باپ کا بھائی -
عِمامہ - بکسر اول دستار یعنی پگڑی سعدی بسر بربستہ کافوری عمامہ ❊
سر پوشیده از تر لیفت جامہ ❊ خیالی باین عمامہ کہ من دارم از سلمانی ❊
بحل گشتم اگر از دیر و کعبہ ام برانی ❊
عِمْلَه - بکسر اول کام اور عمل -
عَمْلَه - بفتح اول نیکی و خوبی -
عَمَلَه - بفتحات کام کرنے والے جمع لفظ عامل کی -
عمہ - باپ کی بہن پھوپھی اور رشام لوگ -
عُمده - بہت اچھا جانے اعتماد -
عُمره - بضم اول عمرہ کے یہ معنی ہیں کہ حاجی احرام باندھ کے چلتے ہیں
مکہ معظمہ سے بمقام تنعیم جا کر چند رکعات نماز پڑھتے ہیں پھر مکہ آجاتے ہیں
اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں -
عمادی - تخلص ایک شاعر -
عماری - وہ مہد جو ہاتھی کی پشت پر باندھ کر اسپر بیٹھتے ہیں اور جو اونٹ پر
باندھتے ہیں اسکا نام کجاوہ ہے میر خسرو ز جا برخاست با صد بیقراری ❊
چو مہ بنشست در شبگون عماری ❊

عُمی - بضم اول جمع اعمی بہت سے نابینے یعنی اندھے -

عین با نون

عَنا - رنج و مشقت و محنت و تکلیف سعدی یکے در عنا و یکے در غنا ❊
یکے در بقا و یکے در فنا -
عَنقا - ایک جانور دراز گردن کا نام ہے بعض کے نزدیک یہ فرضی نام ہے
اور عنقا کوئی جانور پیدا نہیں ہوا اور نام ایک ساز اور ایک راگ کا
بعض عنقا کو سیمرغ کہتے ہیں -
عَندلیب - بلبل جو ایک مشہور جانور ہے جو لوگ اس لفظ کو بکسر عین پڑھتے
ہیں غلطی پر ہیں صحیح بفتح عین ہے توحید منتقل شد از گلستان چون مکان
عندلیب ❊ بر زبانہا ماند باقی داستان عندلیب ❊ شد بہار آخر شد
آخر شور بلبل از چمن ❊ موسم گل رفت رفت از جسم جان عندلیب ❊ کس
نمید اند درین گلشن بغیر از باغبان ❊ حالت سوز دل و راز نہان عندلیب ❊
عِنَب - بکسر اول انگور جو مشہور میوه ہے -
عَنقریب - بہت نزدیک چند روز ہیں محمد قلی سلیم نہیں پرده بر انداز
کہ او را دیدم ❊ عنقریب ست کہ رسوای جہانم دارد ❊
عِنایت - بفتح و کسر اول رنج کھینچنا تکلیف اٹھانا کسی دوسرے شخص کیلیے
مہربانی کرنا سحق دوست و دشمن صلح کل باش ❊ بکن با خویش و بیگانہ
عنایت ❊ حافظ حافظا لطف حق ار با تو عنایت دارد ❊ باش فارغ
ز غم دوزخ و شادی بہشت ❊
عَنکبوت - مکڑی جو جالا تنتی ہے اور نام ایک طبقہ کا طبقات اصطرلاب سے
عَنَت - بفتح اول و دوم گناه و فساد و ہلاکت -
عُنُود - بضم اول و دوم حق کے برخلاف کام کرنا اور لڑنا -
عَنُود - بفتح اول لڑنے والا اور گمراه -
عنید - لڑنے والا - جنگ کرنے والا -
عناقید - انگور کے خوشے جمع عنقود -
عُنصُر - بضم اول و ثالث اصل و بنیاد اور چار عنصر باد خاک آتش
آب سے ایک عنصر -
عَنبر - ایک مشہور خوشبو ہے اور وه دریائی گاے کے گوبر کا نام ہے بعض
کہتے ہیں کہ عنبر ایک قسم کے شہد کا موم ہے سعدی شاہد نخوان و شمع
بر افروزه می بنه ❊ عنبر بسای و عود بسوزان و گل بریز ❊
عُنف - تندی و تیزی و درشتی کرنا - لڑائی کرنا -
عنیف - سختی کرنے والا - لڑنے والا - درشتی کرنے والا -
عُنُق - بضمتین گردن -

عناق - مادہ بزغالہ جو چار ماہ کا ہو -
عنادل - بفتح اول و کسر دال بلبلین ۔ بیا اے نوگل گلزار خوبی * کہ در گلشن عنادل انتظارانند *
عنوان - دیباچہ و سرنامہ اور ابتدا ہر چیز کا صائب ز سنگ کودکان برخود نہ لرزد نخل بار آور * بعنوان کہ من زین خلق ناہموار بیتر سم *
عنفوان - اول ہر چیز و آغاز جوانی -
عنین - وہ مرد جو جماع پر قادر نہو یعنی نامرد ہو -
عنان - باگ ۔ لگام ۔ اونٹ کی مہار صائب ناز آتش عنانم رخنہ در گردون کند * گریہ ہا در رکابم شہر در ہامون کند *
عو - فارسی مین از - اردو مین سے -
عنبیہ - نام تیسرے طبقے کا آنکھون کے سات طبقات سے رنگ آنکھ کے مختلف ہوتے ہین سیاہ و اشہل و ازرق وغیرہ -
عنکبوتیہ - چوتھا طبقہ آنکھون کا -
عنصری - تخلص ایک شاعر کا -

عین با واو

عوا - بتشدید واو وہ کتا جو بہت بھونکتا ہو اور نام تیرھوین منزل کا منازل قمر سے اور وہ پانچ ستارے ہین سنبلہ کے سینے پر و بضم اول و تخفیف واو بھیڑیے اور کتے اور گیدڑ کی آواز -
عوجا - کمان جس سے تیر چلاتے ہین -
عواقب - انجامہاے کار انتہا کامون کی اور ہر چیز پیچھے آنے والی -
عورت - شرم کا مقام اور ہر ایک چیز جسکے دیکھنے سے شرم کرے اور زن یعنی استری اور رخنہ جو صف لشکر یا حصار مین ہو -
عوارات - بہت سے عیب -
عوج - بضم اول و واو معروف نام ایک شخص طویل القامت کا جو آدم علیہ السلام کے وقت پیدا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک تین ہزار پانسو سال زندہ رہا طوفان نوح علیہ السلام اسکی کمر تک آیا اسکے باپ کا نام عوق تھا موسیٰ علیہ السلام نے اسکو عصا مارا ٹخنے پر لگا اور گر کر مر گیا -
عواد - عود نواز - بربط بجانے والا -
عوائد - بہت سے سود اور نفع اور مہربانیان پھر موڑنے والی یہ لفظ جمع عائدہ کی ہے -
عود - بفتح اول واپس آنا پھر مڑنا - بازگشت کرنا اور نر اونٹ جو ضعیف ہو
عود - بضم اول و واو معروف مشہور لکڑی سیاہ رنگ جب آگ مین ڈالین تو خوشبو دیتی ہے ہندی مین اسکو اگر کہتے ہین اور نام ایک ساز کا جسکو مطرب بجاتے ہین

سعدی - بیا سایہ مشام از طبلہ عود * بر آتش نہ کہ چون عنبر ببوید *
عوذ - بفتح اول و ذال معجمہ پناہ لے جانا -
عور - بضم اول برہنہ یعنی ننگا -
عور - بفتح اول و بفتحتین ایک آنکھ سے کور ہونا اور نام ایک بیماری کا کہ ہاتھ کے ناخن مین پیدا ہوتی ہے اور ناخن خراب ہوتے ہین - اور آدمی بد باطن
عوز - بفتح اول و زاے معجمہ تنگدست و مفلس و نادار ہونا -
عوص - بفتح اول دشواری و سختی -
عویص - جو چیز دشواری سے حاصل ہو اور وہ امر جو مشکل ہے -
عوض - بکسر عین و فتح واو و ضاد ساکن بدلا کسی چیز کا جو لیا جاوے صائب محبت تو ز دل داد و ہیچ و تاب عوض * گرفت خاک سیاہ در داشت تاب عوض * نور عقل درین انجمن کسے بیناست * کہ کرد دولت بیدار را بخواب عوض * بہشت نقد شود رزق خوش معاملہ را * کہ سیر و شد و گیر تر کباب عوض * اگر بعشق دل خویش خوش کنم صائب * و گر نہ عمر ندارد بہیچ باب عوض *
عوارض - عارضے کی جمع ہے بیماریان - رنج تکلیفین مصیبتین -
عواصف - بادہاے سخت و تند - تند ہوائین -
عواطف - مہربانیان عنایتین -
عوارف - شناسندگان - پہچاننے والے بصیر کرنیوالے جہان کے
عوائق - مانع - سختیان جمع عائقہ -
عول - غلبہ کرنا ظلم کرنا عیال کو نفقہ دینا - آواز نکالنا - روزی تنگی وقوع
عویل - بروزن فعیل رونے کی آواز -
عوالم - جمع عالم بہت سے جہان -
عوام - جمع عامہ عام لوگ -
عوان - کدبانو عورت میانہ سال اور وہ عورت جسکا خاوند ہو -
عوان - بتشدید واو سخت پکڑنے والا - ظالم - پادشاہی پیادہ -
عون - یاری و حمایت و مددگاری -
عوعو - آواز سگ - کتے کی آواز فیاض از براے جیفہ عوعو تا بکے * ہمچون کلاب * بر سر مردار تا کے چو کلاغان غار غار *
عوارد - بددل آدمی - بے حوصلہ -
عویصہ - مشکل و دشوار -
عوالی - جمع عالیہ بلند چیزین -
عودی - ایک رنگ عود کی لکڑی کے رنگ پر ہوتا ہے یعنی سیاہ مائل بسرخی و سفیدی -

عین با ہاے ہوز

عہد - زمانہ و روزگار و قول و اقرار سعدی بعہد تو می بینم آرام خلق
پس از تو ندانم سرانجام خلق
عہود - جمع عہد بہت سے زمانے -
عہر - زنا کرنا - بدکاری کرنا -
عہش - ریشم یا پشم رنگین -

عین بایاے

عیشا - قرارگاہ بچے کا ماں کے رحم میں اور وہ اسباب جس سے بچہ رحم میں موجود ہوتا ہی -
عیب - وہ نقص جو کسی کی ذات میں ہوں نظامی - رہ من ہمہ زہر نوشیدن ست ہنر جستن و عیب پوشیدن ست
عیادت - بیمار پرسی -
عید - خوشی کا دن جو مسلمانوں میں تمام سال میں دو عیدین ہوتی ہیں ایک یکم شوال کو بعد گذرنے ماہ رمضان کے دوسری دسوین ذی الحجہ کو بعد حج کے کہ نوین ذی الحجہ کو ہوتا ہی شیعا یا سنیکے یہان عید خم غدیر و نوروزکی بھی ہوتی ہی ملا شیفتی - شد شام و ندیدم رخ او آہ ندیدم
فریاد کہ من عید کہ شب ماہ ندیدم
عیاذ - بکسر اول آخر مین ذال معجمہ پناہ اور پناہ لینا -
عیر - بفتح اول گورخر جنگلی اور شہری گدھا اور جانا گھوڑون کا واسطے جولان کے -
عیر - بکسر اول قافلہ اور وہ مرکب جس پر غلہ لادا جائے -
عیار - بکسر اول چاشنی سونے کی یعنی بانگی جو سنار سے لیکر اپنے پاس رکھ لی جاتی ہی جب زیور تیار ہو جاتا ہی تو زیور کے سونے کی رنگت بانگی کی رنگت کے ساتھ ملائی جاتی ہی اور سونا تولنے کا کانٹا یعنی ترازو نظامی - زسر تا قدم دید در شہریار زر پختہ را بر محک زد عیار
عیس - بکسر اول سپید اونٹ جسکی سپیدی سرخی کے ساتھ ملی ہو اور قافلہ جسمین اونٹ ہوں -
عیش - زندگی خوش اور خوش وقت -
عیاش - خوش زندگی کرنے والا صائب - سخن چین سکندر تاریک عیش صاف طبعان را مدہ در خلوت آئینہ رہ زنہار طوطی را
عیص - بکسر اول درخت آپسمین ملے ہوئے ہوں یعنی سایہ دار درخت اور نام اسحاق نبی کے بیٹے کا جسکی اولاد سب رومی ہیں -
عیوق - نام ایک ستارے کا جو سرخ رنگ اور روشن دہنی طرف کہکشان کے ہی سعدی - چو شبنم بیفتاد مسکین و خورد فلک از
زمینش بعیوق برد
عینک - جو آنکھون پر لگائی جاتی ہی ملا طغرا - تراشیدہ خراط ناہید چہر ز سہر فلک عینک ماہ و مہر
عیال - بکسر اول گھر کے لوگ عورت لڑکی لڑکیاں وغیرہ سعدی - آے گرفتار پاے بند عیال دگر آزادگی مبند خیال
عیون - بضم اول و دوم جمع عین کی آنکھین اور بہت سے پانی کے چشمے اور نام ایک حکمت کی کتاب کا شیخ ابو علی سینا -
عیون - بفتح اول وضم ثانی شور چشم جسکی نظر بد ہو فورًا اثر کرے -
عیان - بکسر اول دیکھنا آنکھون سے اور ظاہر جو چیز نظر کے سامنے ہو یوسفی جرباذقانی - غمش عیان نکنم ترسم از زبان خلائق
چو مفلسی کہ بود گنج شایگانش دلرزد
عین - بکسر اول وہ عورتین جنکی آنکھین خوبصورت ہوں -
عین - بفتح اول چشمہ پانی کا اور سورج اور دینار زر سرخ اور بارش اور بادل جو قبلہ کے سمت سے آوے اور آنکھ جس سے انسان دیکھتا ہی اور بہتر اور برگزیدہ اور ذات اور اصل ہر ایک چیز کی اور حقیقت ہر ایک چیز کی اور دیدبان اور وہ جگہ جس سے پانی نکلے یعنی چشمہ دیدار کرنا دیکھنا اور بھی اسکے بہت سے معنی ہیں -
عیلہ - درویشی - تنگدستی - فقیری -
عیبہ - جامہ دان کپڑون کا صندوق جو چمڑے کا بنا ہوا ہو -
عیقہ - بہ قاف معجمہ نہر کا کنارہ -
عیسی - مشہور پیغمبر ہیں جنکی امت عیسائی کہلاتے ہیں اور زندہ آسمان پر موجود ہیں -
عی - بکسر اول و تشدید ثانی درماندہ ہونا بات کرنے میں بول نہ سکنا -
عیدی - عید کا انعام جو دیا جاتا ہی رباعی - عید شد کس یاران عیدی ز دروا دیر است عید با عیدی دیدار دہی تو بس عید مرد دم بدن نہ عید یا دیدار تو ہمچو عید مبارک نیست عید بکس

دوسری فصل

اُردو لغات کے ذکر میں

واضح ہو کہ اس فصل کے متعلق کوئی اُردو لغت قابل تحریر نہین ملا اور جو نفائس اللغات وغیرہ میں درج ہیں سب فارسی مروج اُردو ہیں اور وہ سب کے سب پہلی فصل میں زیب اندراج پا چکے ہیں مکرر لکھنے کی ضرورت نہین -

تیسری فصل

محاورات و اصطلاحات فارسی کے بیان میں

عین با الف

عالم بالا - ملاء اعلی آسمانی سلطنت - درویش والہروی سر راجہ

ز رعنائے قامت چمن آراست ﴿ رعنائی بالائی تو از عالم بالا است ﴿

عاشق با - ایک کھانے کا نام ہے جسکو سرکہ یا پانی کے ساتھ کھاتے ہین -

عالم آب - مستی و میکشی کی حالت - **محمد قلی سلیم** - ساقی چہ دہی پند من

این بزم شراب ست ﴿ از گریہ مرا منع مکن عالم آب ست ﴿

عاشق آفت - جو ناحق مصیبت اپنے اوپر لے - **ابو طالب** میر ساند

خوشہ اش خود را بابر از شوق برق ﴿ مزرع امید ما از بسکہ عاشق آفت ست ﴿

عاشق صحبت - جو شخص صحبت کا عاشق ہو **صائب** - عالم روشن چشمش

زود یگر دد سیاہ ﴿ ہر کہ چون پروانہ بید رد عاشق صحبت ست ﴿

عاشق مصیبت - جو ہمیشہ مصیبت مین رہے - **طالب آملی** - چہ پیش آمد

خدا یا کین دل عاشق مصیبت را ﴿ بساط شادمانی غیرت اسباب ماتم شد ﴿

عالی بخت - عالی جناب - عالی درگاہ - عالی رتبہ - عالی محل - عالی مرتبت -

عالی جاہ - بادشاہون اور امراؤن کی تعریف مین یہ الفاظ بولے جاتے ہین **میر معزی** - بیش

بادیزدان تا بکا ندبخت او عالی اکہ عالی بخت باشد ہر کہ یزدان را معین آمد ﴿ **وله**

از من بنود مہر مخلص تر و خادم تر ﴿ ہر کس کہ بدین عالی درگاہ گذر دارد ﴿

وله - عجب گر بفر دولت شاہ ﴿ این مبارک وزیر عالی رائے ﴿ بکشاید

بقصد خانہ خان ﴿ بستاند بقہر رایت رائے ﴿ **سعدی** - نگہ و سلطان

عالی محل ﴿ خودش در بلا دیدہ خر در وحل ﴿ **صائب** - **صائب** بر آستان

قناعت نشستہ ایم ﴿ گردون غلام ہمت عالی جناب ماست ﴿ **ذوقی** -

بادشاہ دہر عالی مرتبت ﴿ مالک الملک والامنزلت ﴿ **وله** - خاک بوس

آستانش در جہان ہر آدمی ﴿ بندہ بندہ بندہ درگاہ عالی جاہ او ﴿

عالم ارواح - روحون کا عالم مقابل عالم اجسام کے - **توحید** - ز نور

روز نماید خدا ز شب تاریک ﴿ کند ز شام ہویدا ظہور نور صباح ﴿ خدا

بہر دل تاریک میکند روشن ﴿ ز نور روشن ایمان و معرفت مصباح ﴿

مطیع حکم خداوند مالک الملک ست ﴿ ہمہ ولایت اجسام و عالم ارواح ﴿

عالم برزخ - وہ عالم جو دو عالم کے درمیان ہو چنانچہ وہ عالم جو بعد

مرنے کے قیامت تک ہے -

عاشق پسند - وہ حالت جو معشوق عاشق پر پسند رکھے - **نور الدین ظہوری**

بہر خوبی جور عاشق پسند ﴿ بدل کو بے لطف ارباب پند ﴿

عالم کون و فساد - جہان دنیا - **مؤلف** - گردش تا نمایید چرخ دون

ہر زمان در عالم کون و فساد ﴿

عاشق آزار - معشوق کی تعریف مین بولتے ہین **ظہوری** - عاشق آزاران

ہمہ خط دادہ اند ﴿ بیشتر آزار کمتر کار نیست ﴿

عاشق شکار - معشوق کی تعریف ہے **میرزا صائب** - این ظالم دیگر آ

مدہ عاشق شکار من ﴿ چون مرغ پر شکستہ شد آزاد میکند ﴿

عاشق صغیر - عاشق قمار - جو شخص تقریر و تحریر ذکاوت عاشقانہ رکھتا ہو

طالب آملی - من آن تو بلبل عاشق صغیرم ﴿ کہ بر شاخ فغانم آشیان ست ﴿

میرزا صائب - نیست صائب سبب بے سرانجامی مرا مانع ز عشق ﴿ گرچہ

بد نقشم ولے عاشق قمار افتادہ ام ﴿

عالم دگر - ایک حالت سے دوسری حالت ہوش سے بیہوشی خواب سے

بیداری - **صائب** - خاطر از وضع مکرر زود برہم میشود ﴿ یکدو ساغر

نوش کن تا عالم دیگر شوی ﴿

عالم امر - عالم ارواح و عالم ملائکہ -

عالم سوز - عالم کش - عالم کشای - عالم نورد - تعریفی الفاظ ہین **صائب**

صائب بغیر نامہ عالم نوردمن ﴿ ہر نامہ کہ ہست و بال کبوتر ست ﴿ [illegible]

را با تیغ عالم سوز او وصلی ہوس باشد ﴿ کہ عمر خضر و عیسیٰ در شمار [illegible]

نظامی - بعالم کشائی فرشتہ وشی ﴿ نہ عالم کشائے [illegible]

عاشق نواز - معشوق کی تعریف ہے [illegible] با صواب ﴿

کند لطف گر یار عاشق نواز ﴿

عاشق و معشوق - دو نگینے جو انگشتری کے ایک خانہ مین ہون [illegible]

با وجود اتحاد از یکدگر بیگانہ ایم ﴿ چون نگین عاشق و معشوق یک خانہ ایم ﴿

عالم خاک - عالم دنیا - عالم بشریت [illegible] **مؤلف** - ہر ذرہ ز لطف

شاہ لولاک ﴿ از عالم خاک [illegible] بر افلاک ﴿

عالم مثال - عالم اجسام سے لطیف تر ہے جو چیز اس عالم مین نظر آتی ہے

اُسمین موجود ہے -

عاشق نیام - تلوار کی تعریف ہے جو کبھی میان سے نکلی ہو - **ابو طالب کلیم**

ز دستش ہیچ نایداز انتقام ست ﴿ کہ تیغ کینہ اش عاشق نیام ست ﴿

عارض افروختن - غضبناک ہونا - غصہ ہونا -

عارضین - دونون رخسارے -

عاشق دشمن - معشوق کی تعریف ہے - **مغز قطرت** - قاصد آن ماہ ہر بلی

بسیار عاشق دشمن ست ﴿ نامہ را گر می بری باری مبر نام مرا ﴿

عاشق سخن - جو سخن کا عاشق ہو - **صائب** - سر نپیچید تیر کس سر

ز تیغ آبدار ﴿ اینقدر کس چون قلم عاشق سخن باشد چرا ﴿

عاشق فغان - جو رونے کی عادت رکھتا ہو - **ظہوری** - بنازکی ہا

خواری کشان ﴿ بلبہا خاموش عاشق فغان ﴿

عالی مکان - بڑے رتبے آدمی - **صائب** - بکشا زبان ہمت عالی

مکان گرہ ﴿ تا کے شوی چو غنچہ درین آشیان گرہ ﴿

عاشق بادہ - شراب خوار شراب کا عاشق - صائب - چون سبو
تا ہست تم از زندگی درپیکرت ❊ دستگیری کن بی آشنایان عاشق بادہ را ❊
عاشق نالہ - جو رونے کی عادت رکھتا ہو - شفائی - گلبن مہر وفا را
مرغ عاشق نالہ ام ❊ لب بمی بندم ز افغان تا گلی بر شاخ ہست ❊
عاشق نگاہ - جسکی نظر عاشقانہ ہو - باقر کاشی - بتقریب حیا عاشق
نگاہے میبرد ہوشم ❊ کہ صد مینا نہ میگردد بگرد چشم مخمورش ❊
عاشق یک فصلہ - دولت کے وقت کا دوست - شیا پور ❊ چو مرغ عاشق
یک فصلہ نیستم شیا پور ❊ سر خزان بسلامت اگر بہار گذشت ❊
عافیت کدہ - آرام کا مقام - صائب - تا چشم را بہم زدہ از سپاہ ناز ❊
تاراج عافیت کدہ ہوش کردہ ❊
عاجز نالی - زار زار رونا - صائب - دل سنگ از شکست دانہ من
آب میگردد ❊ ز عاجز نالی من آسیا گرداب میگردد ❊
عاشق پیرانی - ہر روز نیا عاشق بہم پہونچانا - سالک قزوینی - از گل عاشق
پیرانی جلوہ مے بالید بخود ❊ سرو از بالاے قمری بر سر ناز ایستد ❊
عالم آرای ❊ عالم آشوب - عالم آہنج - عالم آہنگ - عالم افروز - سب
توصیفی جملے ہیں - صائب - ز روے عالم افروز تو دلہا آب میگردد ❊ گر از
خورشید گرد آب در چشم تماشائی ❊ عرفی - گر در قیامت ہست این ناز عالم
آشوب ❊ خوش آفتی ست در پیش نگاہ محشر آرا ❊ انوری - انکہ با بینائی
او دیدہ گر حاضر شود ❊ در جبین عالم آرا بہ بہ بند بہتری ❊ نظامی -
شہ عالم آہنگ گیتی نورد ❊ دران خاک بدہ گرداب خورد ❊
عالم صغری - انسان کا جسم کہ اسمین عالم کبرے کی طرح ہر ایک چیز
موجود ہے چنانچہ روح بادشاہ عقل وزیر حسد و بغض و رحم و حیا و حلم
پراد رینک ارکان ہین ارادے اسمین لشکر د ماغ آسمان کسی کسان
ناک منہ زبان و دہان سات ستارے ہڈیان پہاڑ بال نبا تات رگین
نہرین وعلیٰ ہذا القیاس -
عالم ہیولانی - عالم اجسام -

عین با بائے

عبادت گر - عیادت کرنے والا - پوچھنے والا - میر خسرو - زندہ مقمر چو
بود با کبار ❊ بہ ز عیادت گر با حرص و آز ❊
عبادتکدہ - عبادت خانہ جس جگہ عبادت کرین - میرزا بیدل -
در عبادتکدۂ دل کہ ادب بہرہ اوست ❊ ہر دعا ئیکہ نکردم با اثر نزدیک ست ❊
عبیدہ - اسکا بندہ یعنی انا عبدہ مین اسکا بندہ ہون - نظامی -
ستارہ کہ بر چرخ سایہ سرش ❊ زدہ سکہ عبدہ بر درش ❊

عین با جیم

عجب رود - نام ایک ساز کا - میر خسرو - چو ہندو نواز د عجب
رود خویش ❊ بجنبد عجب رود بر دست او ❊
عجز پیشہ - عاجزی کرنے والا -

عین با دال

عدل پرور - حاکم عادل - صاحب انصاف ❊ عدل پرور باش
چون نوشیروان ❊ تا بماند نام نیکت در جہان ❊
عدل بودن ترازو - برابر ہونا ترازو کا - تولنے مین پورا تولا جانا - ظاہر وحید
در زبان و دل من نیست تفاوت موئی ❊ میکشم بار جہانی کہ ترازو عدل ست ❊
عدم گاہ - عدم خانہ - عدم آباد - عدم زار - عالم فانی دنیا - میر خسرو
ہستی او تا بعدم خانہ بود ❊ نقش وجود از ہمہ بیگانہ بود ❊ بدر چاچی
چہرۂ زیبائے انسان را بپیکار قدر ❊ در شبستان عدم گاہ از ازل صورت
گرست ❊ طالب آملی - بدل چندین ہزاران مطلب نابودمی بینم ❊
عدم زاری نصیب بخت یک موجود می بینم ❊ ولہ - کس نیامد بجہان
کز غم ابنائے زمان ❊ کف زنان رقص کنان تا عدم آباد نرفت ❊

عین با ذال معجمہ

عذر آور - عذر لانے والا - عذر کرنے والا - معافی مانگنے والا -
عذر پذیر - عذر قبول کرنے والا - معافی دینے والا -
عذر نیوش - عذر سننے والا - انوری - عفو نپی جرم بود عذر نیوش شان
علمش بلکہ عفو چنان عذر پذیر ست ❊
عذر لنگ - بیجا عذر جو لائق پذیرائی نہو - محسن تاثیر - بخویش رنج
پسندیم بہر راحت خلق ❊ چو عذر لنگ کہ در راہ دیگران لنگ ست ❊ محمد قلی سلیم
برای وعدہ خلافی عبث مخور سوگند ❊ کہ احتیاج عصا نیست عذر لنگ ترا ❊
عذر مقبول - عذر جو لائق پذیرائی کے ہو -
عذر بدتر از گناہ - مثل مشہور ہے یعنی لائق سزا مجرم کا عذر اسکے
گناہ سے بدتر ہے - آرزو - از زلف دل گرفتہ بخط بستہ ایم ما ❊ این عذر
بدترست بسے از گناہ ما ❊ محتشم کاشی - عذر خواہی کنندم بعد از قتل ❊
عذر بدتر گناہش نگرید ❊
عذر خواہ - عذر ساز - عذر سنج - جو شخص اپنے قصور پر عذر کرے
نظامی - دگر چہ اقبال باز آمدی ❊ کجا عذر گر عذر ساز آمدی ❊
میر خسرو - اگر چند عذر بود عذر سنج ❊ بدان کز فزون خوردن آید
برنج ❊ سعد گنہ کردہ ام گرچہ ز اندازہ بیش ❊ معصر بدرگاہ تو
عذر خواہ آمدہ ❊

عین با راے

عرق حیا - وہ پسینہ جو شرم و حیا کے سبب سے آجائے
صائب - مردای نگہ بگلشن کہ بردی ہر گل اینجا ٭ زہجوم چشم شبنم عرق حیا نشستہ ٭

عرضداشت - عریضہ جسکے ذریعہ سے اپنا حال مالک کے حضور میں
ظاہر کیا جاے - کمال خجند - بعرضداشت نوشتم کہ خون ہنادہ بریز یخطش
نمونہ بقتل لبش ستانہ لفس ٭

عرض حیات - عرض عمر - زندگی کی لذت صائب - ز آب زندگی
بشراب التفات کن ٭ از طول عمر صلح بعرض حیات کن ٭

عرق خجلت - وہ عرق جو شرمندگی سے آجاتا ہے - صائب
حاصل دل شکنی غیر پشیمانی نیست ٭ مومیائی عرق خجلت شکست ز حیا

عرق صحت - تپ اُترنے کے وقت جو عرق جسم پر آجاتا ہے رضی دانش
دیدۂ ہجران زدہ را روز وصل ٭ گریہ شادی عرق صحت ست ٭

عرق آلود - عرقناک جسکو عرق آیا ہوا ہو - صائب - نقصان نکرد خضر
ز سرچشمۂ حیات ٭ جان را بہ لجۂ عرق آلود یار بخش ٭

عرق بار - عرق آلود یعنی جسکو عرق آیا ہو - شیخ العارفین حیدر
دیدار مبارک بجگر سوختگان ٭ کہ عجب لقشی ازان روی عرقبار زدند ٭

عرق بہار - ایک قسم کا عرق جو نارنج کے پھولوں اور
ترنج کا کھینچتے ہیں نہایت خوشبودار ہوتا ہے - فیضی - ریحان ترا
انگار بستند ٭ گل از عرق بہار بستند ٭

عرق شکر قندی شراب جو ہندوستان میں کھینچتے ہیں - ریخت
ز رشک لعل و اشک از چشم تر مرا ٭ پست ٭ نمود و بلی خبر این عرق شکر مرا

عرق ریز - جسکو عرق آیا ہوا ہو - عرق نکالا ہوا کسی چیز کا عطر کھینچا ہوا
نظامی - ازان گل کہ او تازہ دارد نفس ٭ عرق ریز او در عراق ست و بس

عروسک باز - وہ لڑکی خرد سال جو گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہو -
زلالی دختر زال کی حکایت میں - عروسک باز با طفل خیالش
ہراسان مردم دیدہ ز خالش ٭

عروگوز بفتح عین و تشدید را ے و کاف فارسی زدہ او مجہول و زاے
تازی شور و غوغا جو بے محل ہو - قوقی یزدی عشوہ با آن عروگوز
از خویش نفرت میکند ٭ بر دماغ حسن چون با دختران ریش خورد ٭

عرق پوش پسینے میں ڈوبا ہوا علی خراسانی شبنم غصہ تراود
ز رگ و ریشہ گل ٭ صبح از نشہ می چہرہ عرق پوش مکن ٭

عرق ننگ شرمندگی کا پسینہ میرزا بیدل بے تو کہ ہستی من صورت
تمنائی داشت ٭ چہرۂ آئینہ ہا از عرق ننگ شدم ٭ ولہ شود نہند
انجم زیب افلاک ٭ عرق ریزد چو زان روی عرقناک ٭

عرق انفعال شرمندگی کا پسینہ - صائب - در روز حشر شستہ
شود پاک نامہ ہا ٭ گر نم برون دہا عرق انفعال من ٭

عرق افشان عرق افشاندن - پسینہ کیا ہوا اور پسینہ کرنا -
صائب - عرق افشاندی از رخ آب شد دنیا ست تا قان ٭
قیامت میشود چون انجم از افلاک میریزد ٭ ولہ در پردہ ہر آن جرعہ
کہ چون ابر کشیدی ٭ یکباک ز عذار عرق افشان تو گل کرد ٭

عرق چکیدن - رفتن - دویدن نشستن - خوردن - کشیدن
ستردن - پاک کردن - ان کے معنی مشہور و معروف ہیں - حافظ
آمد از پردہ بمجلس عرقش پاک کنید ٭ کہ چرا دختر رز توبہ ز مستوری کرد
امیر شاہی سبزواری - بارویِ آتشین چو گذشتی بہ بستان ٭
گل را ز انفعال عرق بر جبین نشست ٭ مقیم بلخی - بوصال او خوان
دم کہ چو میرسیدہ باشم ٭ چو حیا ازان گل رو عرقی کشیدہ باشم ٭

عرق چین - وہ ٹوپی جو پگڑی کے نیچے رکھی جاتی ہے - خواجہ حافظ
ز تاب آتش دوری شدم عرق عرق چون گل ٭ اے باد شبگیری
نسیمے زان عرق چینم ٭

عرق بر روی کسی ریختن - پانی چھڑکنا - سوتے کو جگانا - میرزا ابراہیم
غضب - آلود چون خواہند کہ خیزد از خواب ٭ ملعذاران عرق فتنہ
بر رویش ریزند ٭

عرق ریختن و راندن - کسی کام میں سخت کوشش کرنا - طالب آملی
بحیرتم کہ قدم سودگان دشت حجاز ٭ براہ کعبہ چہ گرم اند در عرق رانی ٭
ناظم ہروی - عشق میریزد عرق چون دل شود چسپیدہ ہوس ٭ ہر کہ
می میرد طبیبش میکشد شرمندگی ٭

عرق کردن - پسینے پسینے ہونا شرمندہ ہونا پچھتانا کسی امر کے کرنے پر
صائب - نہ چہرہ آتش عرق از گرمی ہوا کرد ست ٭ نگاہ را رخ او
آب از حیا گردست ٭

عرق گرفتن - عرق کرنا پسینا آنا - میر معزی گھوڑے کی تعریف میں
چون عرق گیرد تو گوئی سیل در وادی ستی ٭ چون سبق جوید تو گوئی
باد در صحرا ستی ٭

عرض گاہ - وہ جگہ جس جگہ عرض ہوئے کچہری - دربار شاہ دیوان
عام - نظامی - ز بس تحفت آوردن از بہر شاہ ٭
غنیمت نہ گنجید در عرض گاہ ٭

عرق خانہ - جس جگہ عرق نکالا جائے - زلالی - مغز عشقے کہ می شود
در پوست ✤ در عرق خانۂ محبت او ست ✤
عرق شعلہ - مرادف عرق آفتاب - طالب آملی - ز جام دل
عرق شعلہ خوردہ ام طالب ✤ از ان دماغ ز بوے شراب سیر ترم +
عرق فتنہ - وہ عرق جو سنبد کے پھولون سے نکالتے ہین
میرزا جلال اسیر - چون عرقناک شود در وے تو از گرمی مل +
شیشہ ہا از عرق فتنہ توان پر کردن ✤
عروۂ وثقے - کوزے کا دستہ جو مضبوط ہو جسکو پکڑکر کوزہ
اٹھالین اور ہر ایک مضبوط سند جسپر کسی امر کا مدار ہو اور
استحکام دعوے کا مدعی کو اسپر ہو -

عین با طاے

عطر گلاب - عطر جہانگیری - گلاب کا عطر یعنی گل ورد کا پہلے نہ تھا
نور جہان بیگم محل خاص شاہ جہانگیر نے اس عطر کو ایجاد کیا اور نام اسکا
عطر جہانگیری رکھا - سالک یزدی - رنگ خامی را بدل گردم ہوسے
پختگی ✤ تا جہانگیری کنیم عطر گلابم کردہ اند ✤
عطسۂ شب - صبح صادق جس سے دن کا آغاز ہو خاقانی - جبہ
زرین نمود طرۂ صبح از نقاب ✤ عطسۂ شب گشت صبح خندۂ صبح آفتاب +
عطسۂ صبح - آفتاب جہان تاب -
عطر سرور - عطر سہامی - نہایت خوشبودار - مولانا جامی - بخندان
از لب آن غنچہ با نظم ✤ وزان گل عطر پرور کن دماغم ✤ علی خراسانی
بیا ز نسیم عطرہ پیماست ✤ بر تارک گل بگر سوار است ✤
عطر ریز - نہایت خوشبودار - نور الدین ظہوری - نباشد صراحی چرا
عطر ریز ✤ کہ کام و زبان گشت خمیازہ خیز ✤
عطسۂ گرز - گرز کی آواز جو مارنے کے وقت نکلے - مسیح کاشی - چو عطسہ
باعث صحت بود چرا گردد ✤ بہ نیم عطسہ گرزت دماغ خصم سقیم ✤
عطارد منش - نہایت تیز طبع و ذکی -
عطر فروش - عطر بیچنے والا - گندھی - صفدر لاہوری - بوسے
گیسوے تو ہر بازار ✤ کرد غارت متاع عطر فروش ✤
عطسۂ تیغ - تلوار کی آواز جو مارنے کے وقت نکلتی ہے - نظامی - ز بس
عطسۂ تیغ بر خون و خاک ✤ دماغ ہوا پر شد از جان پاک ✤
عطر افشان - نہایت خوشبو اور خوشبودار کرنا - امیر خسرو - ز عطر
افشان این باکورۂ غیب ✤ معنبر شد جہان را دامن و جیب ✤
عطر چشیدن - گلاب چھڑکنا -

عطسۂ عنبرین - خوشبو -
عطسۂ کمان - تیر جو چلایا جاتا ہے - سید محمد عرفی - آن روز کہ ایثار
شجاعت نگذارد ✤ بے بہرہ نتیجت نگر آہوے حرم را ✤ ہر عطسہ کہ
از مغز کمان تو بر آید ✤ ریزد بگریبان بقا خون عدم را ✤
عطف دامن - دامن جھاڑ - نظامی - ز سر زلف در عطف دامن
کشان ✤ ز چہرہ گل از خندہ شکر فشان ✤
عطسۂ چاہ - کنوین کی آواز جو آواز دینے پر نکلتی ہے -
عطسۂ شیشہ - شراب نکالنے کے وقت جو آواز شیشہ سے نکلتی ہے -
عطر سامی - معطر اور خوشبودار - نظامی - ز بس صاف پالودہ عطر سامی
لب مغز پالودہ کا مدبحاے ✤
عطر مثلثی - خوشبو جو مشک و عنبر و صندل ملاکر بنائی جاے -
عطاے کبرے - عمر طبعی ایکسو بیس برس کی -

عین با فاے

عفوگاہ - معافی کا مکان - عفو کی جگہ - درویش والہ ہروی - چون
فیض ازل دران مکان ماند ✤ مجرم گنہم بعفوگہ خواند ✤

عین با قاف

عقدہ کشا - گانٹھ کھولنے والا - مشکل آسان کرنے والا - طالب آملی
در عقدۂ بکار دل افتد ز روزگار ✤ از ابروے تو عقدہ کشا میتوان گرفت +
صائب - خار یکہ درین بادیہ بیکار نماید + از آبلہ پائی ہلے عقدہ کشائی ست
عقیق لب - محبوب کی صفات مین سے ہے - میر معزی - کنار من ز عقیق
آن زبان تہی گردد ✤ کہ آن عقیق لبم در بر و کنار بود ✤
عقیق مذاب - عقیق ناب - سرخ آنسو عاشقان صادق کے - ادیب صابر
عقیق لبت ما جدا ایم از بر تو + ہمی چکد بر از رشک من عقیق مذاب +
عقرب ساعت - وہ عقرب کی صورت جو وقت اور ساعت پر بتاتے ہین - محسن تاثیر
از دو گل زیبدان نیستم ایم گزند ✤ ساعت عقرب من عقرب ساعت باشد +
عقیق مجرد - عقول عشرہ مین سے ایک کا نام ہے -
عقیق ابلق - عقیق دو رنگ - شفیع اثر - کم شد از گریہ بسکہ خون جگر
شد عقیق سرشک من ابلق ✤
عقل اول - پہلا فرشتہ اور پہلا جوہر عالم موجودات جس سے نو فرشتے
اور پیدا ہوے اور عالم ایجاد کا ظہور اسکے ہوا یعنی نور محمدی صلی اللہ
علیہ وسلم و جبرئیل علیہ السلام -
عقل کل - نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و جبرئیل علیہ السلام -
عقل فعال - دسوان فرشتہ اور حکما کے نزدیک افراد عالم کو اسی نے

پیدا کیا ہی اور جبرئیل اسی کا نام ہی۔
عقد انامل۔ شمار جو انگلیون پر کیا جاتا ہی۔
عقد شدن۔ طلبگار ہونا۔
عقد روان۔ متعہ یعنی میعادی نکاح جو شیعہ کے نزدیک جائز ہی اور اہل سنت کے نزدیک ناجائز۔ صائب۔ ای شیشۂ می عقد دہن بستہ نشینی * باجام کن عقد روان دختر رز را *
عقد تمکین۔ متعہ یعنی میعادی نکاح جسکو شیعہ حلال جانتے ہین۔ طغرا۔ دختر رز کہ بود چون زن بی مہر حرام * من بعقد تمکین از چہ حلالش نکنم *
عقدہ برداشتن۔ گرہ کھول دینا۔ سنجر کاشی۔ دوشم از خاک لب او بہ تبسم برخاست * یاب سیاب عقدہ ام از دل بتکلم برداشت *
عقدہ در کار شدن۔ افتادن۔ گرہ پڑجانا۔ حرج ہوجانا کام مین۔ مفید بلخی۔ چنین گر عقدہ در کارم از افلاک خواہد شد * سراپا رشتۂ عمرم گرہ چون تاک خواہد شد *
عقدہ در کار زدن۔ بند کردینا کسی کام کو۔ گرہ لگادینا۔ صائب۔ این عقدۂ مشکل کہ زد ابروی او در کار من * بسیار خواہد کرد نی در ناخن تدبیرہا *
عقدہ کشادن۔ گرہ کھولنا۔ کام جاری کرنا۔ حکیم زلالی۔ براق برق تک را زین نہادند * زہر پایش عقدۂ پروین کشادند *
عقدہ گردون۔ راس و ذنب جنکو عقدتین کہتے ہین یہ اصطلاح اہل نجوم کی ہی۔ آرزو۔ بر رخ فگندہ زلف مجعد چو شاک تاب * یعنی قمرین عقدہ و راس ست آفتاب *
عقدہ واکردن۔ گرہ کھول دینا۔ مشکل حل کرنا۔ محمد زمان راسخ۔ زہی جانب دل محفل صدا کرد * شکست جام عقدہ نالہ واکرد *
عقل گزین۔ جس چیز کو عقل پسند کرے۔ میر معزی۔ خدایگان صفتی کش خدای داد بہم * سہ چیز روح فزا و سہ چیز عقل گزین * یدموید و عقل تمام و بخت بلند * دل منور و عزم درست و رای رزین *
عقول عشرہ۔ دس عقل یعنی دس فرشتے جنکو خلاق حقیقی نے پیدا کیے اور انسے عالم موجودات ظہور مین آیا۔
عقرب سلیمانی۔ ایک قسم عقرب کا ہی جو نہایت زہریلا ہی۔ طالب آملی تلوار کی تعریف مین۔ نعوذ باللہ از ان فعی زہر آشام * کہ طعنہ زدہ بر عقرب سلیمانی۔
عقرب نیلوفری۔ برج عقرب جو مریخ کا گھر ہی۔
عقیق جگری۔ ایک قسم کا گران بہا عقیق ہی۔ ارادت خان واضح۔ نشان آتش لعل تو مید بہ نظر * گران بہاست عقیق سرشک ما جگری *

عین با کاف تازی

عکس طرد۔ صنائع شعری سے ایک صنعت کا نام ہی کہ آدھے مصرع کو اگر الٹا کر پڑھین تو مصرع موزون ہوجاتا ہی چنانچہ مصرع۔ بادہ چہ کنی پنہان پنہان چہ کنی بادہ *

عین با لام

علم تربت۔ وہ نشان جو کسی بزرگ کی قبر پر قائم کرین۔ خواجہ آصفی۔ بر خاک عاشقان نشگفت ست شاخ گل * این گل ز خون کشتہ علمہای تربت ست *
علت سرخ۔ سرخ بادہ جو ایک بیماری ہی۔ محسن تاثیر۔ تقسم ازین بی صفا آن حسن روز افزون شود * علت سرخ آفت رخسار گندم گون شود *
علت مشائخ۔ یہ بیماری بوڑھے آدمی کو ہوجاتی ہی اور اس عمر مین وہ انزال کراتا ہی۔ نعمت خان عالی۔ مشہور بعلت مشائخ * معروف بخود سری و لاف اند *
علاج واقعہ قبل از وقوع باید کرد۔ مثل ہی یعنی کسی آفت کے نازل ہونے سے پہلے اسکے دفع کا علاج سوچنا چاہیے۔ مولف۔ بحفظ صحت خود کوش قبل بیماری * علاج واقعہ پیش از وقوع باید کرد *
علاقہ بند۔ وہ کاریگر جو زیورون مین ریشمی ڈورے ڈالتا ہی۔ آرزو۔ از بس بود بزلف بتانم علاقہ * چشم بود تمام دکان علاقہ بند *
علمدار۔ صاحب علم معرکہ جنگ مین جسکے ہاتھ مین علم ہو۔ ملا طغرا۔ بزیر سکہ بینا علمدار او ست * الغو جیکہ قتل سرع کار او ست * ارادت خان واضح۔ ای سرور دو کون و علمدار روز حشر * بخشایش کریم ز تو وارد افتخار *
علم نظر۔ مناظرے کا علم۔
علاقہ دستار۔ پگڑی کا طرہ یا شملہ۔
علی قلیچاق۔ ایک شخص فاسق فاجر کا نام ہی اور ترکی مین گھوڑے کا سائیس۔
علم سر خاک۔ قبر پر جو علم قائم کیا جائے۔ سالک یزدی۔ بیان کشتگی نشمن شہید غمزہ ام * بر سر خاکم علم سازید چوب تیر را *
علم ماتم۔ وہ علم جو مردہ کے تابوت کے آگے آگے جاتے ہین۔ محسن تاثیر۔ گذشتن از جہان گر خسروی نیست * علم پس پیش مردگان چیست *
علت عالم۔ عقل اول جبرئیل علیہ السلام۔
علم کلام۔ ایک علم کا نام ہی جسکے ذریعہ سے مقدمات نقلی کو بدلائل عقلی ثابت کرتے ہین۔

علی الرغم - برخلاف و برعکس -
علم آستین - طراز زر آستین میں - میر خسرو - پیر دگلو بود از دست دو
تیغ + وان خون کز وچکد علم آستین بود ؛
علم افگندن - علم انداختن - عاجز ہونا لڑائی میں ہزیمت اٹھانا -
علم بخون تازہ کردن - علم بخون چرب کردن - معرکہ آرائی سے پہلے
ایک فریق سبقت کرکے دشمن کی فوج کے ایک دو آدمی پکڑ لاتے ہیں اور
فوج کے علم کے نیچے گردن مار کر انکے خون سے علم کو سرخ کرتے ہیں یہ
شگون اپنے حق میں فتح کی فال تصور کرتے ہیں محمد قلی بیگ سلیم - بخون
خویش علم چرب کردہ ایم چو شمع + کہ خود نخست ز خصمان بخود اسیر شدیم +
میرزا صائب - علم بخون مسیحا و خضر تازہ کند ؛ چو از نیام
کشد تیغ حسن بیباکش -
علم بستن - علم نصب کرنا - میر خسرو - زرین چتر سیاہ آید آفتاب برون +
علم بنگر نیلی حصار بر بندد ؛
علم برداشتن - نشان اٹھانا - سالک یزدی - بعیش زنده ام کہ بسوز
زوفاداری ما ؛ شمع در ماتم پروانہ علم بردارد ؛
علم خوابانیدن - خوابیدن - علم گرا دینا - جنگ موقوف کر دینا -
علم گر جانا - صائب - خط عیان شد تا بساط زلف او برچیدہ شد +
فتنہا بیدار گردد چون علم خوابیدہ شد ؛ ولہ امید فتح و ظفر ہست
تا علم برپاست ؛ فروغ صبح نخواباندہ تا علم برخیز ؛
علم زدن - علم نصب کرنا - قائم کرنا - نظامی - علم بر فلک زن کہ
عالم تراست ؛ بدولت در آ دیر کان ہم تراست -
علم شدن - مشہور ہونا - شہرت پانا اور علم ہونا تلوار کا - ظہوری -
زرین ایمنم کہ تیغ جدائی علم کنی + ہر قطرہ خونم از تو جدا گانہ پرسش است +
سعدی - ہر کہ علم شد بسخا و کرم ؛ بند نشاید کہ نہد بر درم +
علم کشیدن - نصب کرنا اور قائم کرنا علم کو - میر خسرو - آنکہ علم
بر سر مغرب کشید ؛ پایش از زین پایہ بمنصب رسید ؛
علت آپیتہ - علت مشائخ جسکا ذکر ہو چکا ہی -
علی اللہ - مخفف توکلت علی اللہ یعنی خدا پر بھروسا ہی شور و فریاد
نظامی - ز فریاد خرمہرہ گاو دم + علی اللہ بر آمد ز رویینہ خم ؛
علی قاپی - بلند دروازہ کیونکہ قاپی ترکی میں دروازہ کو کہتے ہیں اور
قاپچی دربان کو - سالک یزدی - عشق سالک بر در آل نبی بردم
پناہ ؛ جز علی قاپی درین آفاق ملجاے کجاست ؛
علم ریاضی - اس علم میں بحث ان امور کی ہی جو وجود خارجی میں
محتاج مادہ کی طرف ہوں چنانچہ مقدار و عدد اصول اسکے چار ہیں
علم ہندسہ و علم عدد و علم نجوم و علم موسیقی اور فروع علم مناظرہ
و مرایا و جبر و مقابلہ و جر اثقال -
علم لدنی - وہ علم جو کسی انسان سے حاصل نہو محض خدا کے کمال
کرم و فضل سے بذریعہ الہام حاصل ہو -
علت غائی - چار علتیں مادی و صوری و فاعلی کے بعد چوتھی علت
کا نام غائی ہی یعنی آخری علت مثلاً لکڑی تخت کے واسطے علت مادی
ہی اور صورت تخت کی آیا مربع ہی یا مسدس یا مثمن علت صوری ہی
اور نجار بنانے والا علت فاعلی اور جلوس کرنا اسپر علت غائی ہی -

عین با میم

عملدار - عامل متصدی و کارپرداز بادشاہ - نظامی - عملخانہ دل
بفرمان تست ؛ زبان خود عملدار دیوان تست ؛ ذوقی - در امید
برروی تو باز ست ؛ و چندان دولت و عمرت دراز ست ؛
عمر برداز - ضعیف و بوڑھا جو اپنی عمر خالی کر چکا ہو - نظامی - از آن
کہ او عمر بردار گشت ؛ چو نومید شد عاقبت باز گشت ؛
عماری کش - ساربان جو کجاوہ اونٹ پر باندھ کر لیجاتا ہی - نظامی -
عماری و شتر بہراے زر ؛ عماری کشان جملہ زرین کمر ؛
عمل طراز فلک - عقل عاشر جسکو عقل فعال کہتے ہیں - عرفی - عمل طراز
فلک در صلاح کون و فساد ؛ اگر نہد بخلاف مصالح تو مدار ؛
عمر از سر کردن - نئے سر سے عمر حاصل کرنا - میر خسرو - عمرم شدہ
گر رخصت بہ بینیم ؛ عمرے ہم ازان زسر توان کرد ؛
عمر خود را بکسی دادن - اپنی عمر کسی کو دے دینا - طاہر وحید -
بشود دل عاقبت از لعل میگون خراب ؛ شیشہ عمر خویش را آخر
بساغر میدہد ؛
عمامہ آرائی - دستار بند علما و فضلا - صائب - یکی صد گشت
ثقل زاہد از عمامہ آرائی ؛ کہ بر دلہا ز لفظ پوچ میگردد گران معنی ؛

عین با نون

عنان تاب - جو گھوڑا اشارے پر چلتا ہو - نظامی - روان کرد
رخش عنان تاب را ؛ برانگیخت چون آتش آن آب را ؛
عنبر آلود - عنبر بار - خوشبودار - صائب - اجابتہا ست در مطلع
دعاے دامن شب را ؛ یکی صد شد امید من ز خط عنبر آلودش ؛ ولہ -
عکس خط و خال عنبر بار آن مشکین غزال ؛ میکند بر نافہ چون آہوی چین آئینہ را ؛
عنان گیر - باگ پکڑنے والا - چلنے سے روک دینے والا - گھوڑا

کر لینے والا - ملا وحشی - جان عنان گیر سواری ست کہ تا دیگری
ز در دیدہ درون آید و تا دل بر ود ؂
عنکبوت زرین تار - آفتاب عالمتاب باعتبار خطوط شعاعی
حسین ثنائی - دام این عنکبوت زرین تار ؂ پارہ شہپر ذباب من ست ؂
عنبر پوش - نہایت خوشبودار - صائب - عطسہ مغز نافہ را خالی کند
از بوے مشک ؂ آستین چون برفشاند زلف عنبر پوش او ؂
عنبرین خال - عنبرین خط - عنبرین موی - محبوب کے اوصاف میں
بولے جاتے ہیں - ؎ واقف از غم وا لم لالہ ؂ گلستان ز عنبرین خالش ؂
صائب - پریشان میکند مغز نسیم صبح را صائب ؂ ز شوخیہای نکہت عنبرین موی کہ من دارم ؂
عنان از دست بیرون کردن - عنان از دست بیرون کشیدن -
عنان از دست رہا شدن - عنان از دست ہشتہ شدن - معانی
انکے معلوم ہیں - صائب - نیست چون موج بجے از طوفان ؂ تا عنانم
ز دست ہشتہ شدہ ست ؂ ولہ - تا زلف او بباد صبا آشنا شدہ ست ؂
از دست من عنان صبوری رہا شدہ ست ؂ ولہ - زلف انچنین ز دست تو
گر میکشد عنان ؂ خواہد گرفت روی زمین را سیاہ تو ؂ ظہوری - از پیش
رخش تمنا بران ؂ بیرون کن ز دست طبیعت عنان ؂
عنان بر چیزے افگندن - کسی کے طرف حملہ کرنا - میل کرنا - توجہ کرنا -
نظامی - عنان بر شہ افگند چالش کنان ؂ بصد خواہش سخت نالش کنان ؂
عنان امل سبک شدن - عنان امل سبک کردن - امید سے ناامید
ہونا - انوری - ہم عنان امل سبک گردد ؂ ہم رکاب اجل گران باشد ؂
جمال الدین سلمان - دست اجل عنان امل ہا سبک کند ؂ چون
استوار گشت رکاب گران تو ؂
عنان باز کشیدن - آہستہ چلنا - سوچ کر کام کرنا - بابا فغانی - خوش
آن کرشمہ و جولان کہ بر سر م از ناز ؂ عنان توسن سرکش فگندہ باز کشید ؂
عنان با سپردن - آہستہ چلانا گھوڑے کا -
عنان با عنان نہادن - ساتھ ساتھ چلنا - برابر برابر چلنا - جمال الدین سلمان
خرد و دیدہ بسر در رکاب تدبیرش ؂ قضا نہادہ عنان با عنان فرمانش ؂
عنان بر ستارہ سودن - بلند رتبہ پر پہونچنا - صاحب ارتفاع و اعتلا ہونا -
جمال الدین سلمان - ایا بجاہ و شرف سودہ بر ستارہ عنان ؂ و یا بجود و سخا بودہ در زمانہ سمر ؂
عنان بر سر اسپ کردن - سواری پر مستعد ہونا - نظامی - از ان می کہ
چون طبع را خوش کند ؂ عنان بر سر کام سرکش کند ؂
عنان بر عنان رفتن - برابر برابر چلنا - ہمرکاب ہونا دو شخصوں کا - حافظ
ترسم برو ز حشر عنان بر عنان رود ؂ تسبیح ما و خرقہ رند شراب خوار ؂

عنان پیچیدن - کھڑے ہو جانا یا کرنا - صائب - بدر و دیوار نتواند
عنان سیل پیچیدن ؂ کہ منع از کوچہ گردی میکند دیوانہ ما را ؂
عنان تاب شدن - سوار ہونا - چل دینا - نظامی - عنان تاب شد
شاہ فیروز جنگ ؂ میان بست بر خون بدخواہ تنگ ؂
عنان تاز کردن - سوار ہونا - سواری کرنا - نظامی - جریدہ
بہر سو عنان تاز کن ؂ بہشت یار مغزی نظر باز کن ؂
عنان تافتن - باگ موڑنا - واپس ہونا نیز کسی کے طرف متوجہ ہونا -
نظامی - نشاید ترا جز بتو یافتن ؂ عنان باید از ہر دری تافتن ؂ ولہ
ملک را بوقت عنان تافتن ؂ نشاید بدزدی ظفر یافتن ؂
عنان تیز شدن - جلد و شتاب چلنا - بڑھ جانا - ترقی کرنا - نظامی
شکوہیدہ دار از منزل جنان ؂ حسد را برو تیز تر شد عنان ؂
عنان خوش کردن - گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لے لینا - سوار ہونا - نظامی
بہر منزلے کو عنان کرد خوش ؂ ہمیش نزل بردند و ہم پیشکش ؂
عنان دادن - گھوڑا چلانا - ظہیر فاریابی - کنون چو سروی
ہر کجا کہ آزادی ؂ عنان لہو و طرب سوے جویبار دہد ؂ نظامی -
عنان داد خسرو سوے خیل زنگ ؂ برو خواست بدخواہ خود را بجنگ ؂
عنان در عنان آسمان سائیدن - بڑے رتبہ پر پہونچنا - میر معزی - بر
زمین ست ولیکن توسن اقبال او ؂ ہر زمان اندر عنان آسمان ساید عنان ؂
عنان در عنان آوردن - پاس پاس کھڑے ہو جانا - نظامی - دو خسرو
عنان در عنان آورند ؂ رہ دوستی در میان آورند ؂
عنان در زدن - چلتے چلتے ٹھہر جانا -
عنان دادن - گھوڑے کو دوڑانا -
عنان کردن - کسی کی طرف متوجہ ہونا - طالب آملی - ز شاہدان
حقیقت نظر بگردانیم ؂ عنان دیدہ سوی دلبر حجاز کنیم ؂
عنان گرم کردن - تیز کرنا باگ کو - نظامی - ہنوز چنین گرم
بر بستہ زبان ؂ رہ انجام را گرم تر کن عنان ؂
عنان یکرکابی بر انگیختن - ایک ہی دفعہ دشمن پر حملہ کرنا - نظامی
عنان یکرکابی بر انگیختند ؂ دو دستی بہ تیغ اندر آویختند ؂
عنبر بمشک آمیختن - زیادہ خوشبودار کرنا - نظامی - دگربار سر سبز
شد شاخ مشک ؂ بنفشہ بر آمیخت عنبر بمشک ؂
عنبردان - عنبرستان - سب کے معنی مشہور ہیں محسن تاثیر
ز عنبردان کہ بودش گوہر آگین ؂ بہ بیاض سینہ اش را لوح زرین ؂ نورالدین ظہوری
از توقیت صبحدم کاکل فشان ساختن ؂ از صبا مغز جہانی عنبرستان ساختن ؂

عنبر لرزان - زلف پریشان - نظامی - بوسہ کزان عنبر لرزان دہی ٭ گر بدو عالم دہی ارزان دہی ٭

عنان افگندہ - دوڑتا ہوا گھوڑا - عرفی - نہ تازیانہ جو دوش سمند صبر من ست ٭ عنان فگندہ چو فرمان شہریار امام ٭

عنان گسستہ - شتاب چلنے والا نہایت مضطرب - صائب - بدست من اختیار جذبہ بحر ٭ عنان گسستہ تر از رشتہ ای بار انم ٭

عنبر بوی - ایک پھول ایران مین ہے - محسن تاثیر - در لطافت تو گلے دارم کہ زلف خویش را ٭ شانہ از دندانہ گلہاے عنبر بو کند ٭

عنبری - ایک قسم کا خربزہ اور ایک قسم کا سیب ٭ محسن تاثیر خربزہ کی تعریف مین - ہر عنبر یش بطعم شکر ٭ بگرفتہ خراج بوز عنبر ٭

عین با واو

عود الصلیب - ایک لکڑی کا نام ہے جس سے نصرانی صلیب بناتے ہین -

عود سوز - وہ برتن جسمین عود جلاتے ہین - ابوالب کلیم - بشری کہ شاہد مجلس فروز ٭ فلک از شور بیدہ نمید عود سوز ٭

عود خام - خالص عود جو پانی مین بسبب بھاری پن کے ڈوب جاتا ہے -

عود زیر دامن - ایران مین عود جلا کر کپڑون کو اسکا دھوان دیتے ہین تاکہ خوشبو ہو جائین - صائب - اگر مردی ہو در خانۂ ناموس چون زنہا ٭ وہ دو عود از خامی گریز د زیر دامنہا ٭

عود شکر سوختن - عود و شکر کو ملا کر اور بتیان بنا کر جلاتے ہین نظامی - شکر ریز آن عود افروختہ ٭ عدو را چو عود و شکر سوختہ ٭

عود گرہ - عود کی لکڑی کی گانٹھ جو نہایت سنگین ہوتی ہے یہی عود پانی مین غرق ہو جاتا ہے اگر ڈوبا اسکو ہندی مین کہتے ہین - نظامی - زعود گرہ بارہا بستہ تنگ ٭ کہ ہر بار زو بود صد من بسنگ ٭

عود قماری - قمار نام ایک مقام کا ہے جس جگہ عود گرہ پیدا ہوتا ہے طالب آملی - عود قماری از جگرم گرگی بخورد ٭ خونابہ از مشک مجمر فرو چکد ٭

عین با ہاے ہوز

عہد درست - وہ وعدہ جو مستحکم ہو - نور الدین ظہوری - ہمت از عہد درستان خواہم ٭ کار با دلبر پیمان شکن ست ٭

عہد گسل - عہد شکن - جو اپنا عہد توڑ دیتا ہو - ظہوری - چہ غم کہ عہد گسل دارد ست کش نازش ٭ کہ بر گسیختنی عہد ہزار پیوند ست - حافظ - مرا تو عہد شکن خواندہ دمی ترسم ٭ کہ با تو روز قیامت ہمین خطاب رود ٭

عہد نامہ - وہ عہد نامہ جو لکھا جائے - شفیع اثر - نامہ سود عہد نامہ یار ہے ٭ روز دیگر چو نسخہاے طبیب ٭

عین با یاے

عینک دور نما - دوربین - مشہور چیز ہے صائب - بہ پیش آگہان کہ زمین دور توانی گردید ٭ عینک صاف دلان دور نما پیاست ٭

عینک ہزار شہا - ایک قسم کا شیشہ ہے - آرزو - دل خراب بہ دوست بکثرت انجامید ٭ شکستہ آئینہ ام عینک ہزار نماست ٭

عین الحیات - آب حیات -

عیش پہلو دار - طرح طرح کا عیش - ظہوری - غم ٭ بسے را کرد صاحب دستگاہ ٭ پیشت کس بر عیش پہلو دار نیست ٭

عین الہر - بکسر ہاے و تشدید راے مشہور جوہر جو بلی کی آنکھ کی طرح ہوتا ہے ہندی مین اسکو لہسنیا کہتے ہین فارسی مین بجنبہ رائے استعمال کرتے ہین محمد سعید اشرف - عین الہر سپہر در روشب چراغ ماہ ٭ حکم تر از نگین یاد استوار ٭

عین حجیر - عین لعلی - حجیر بفتح میم و فتح جا و یاے مشدد ایک قسم کا حرف عین ہے جو خوشنویس لکھتے ہین - محمد سعید اشرف - طغرا کشان قطعۂ یاقوت حسن او ٭ عشق ہر الف عین حجیر نوشتہ اند ٭

عین الدیک - چشم خروس ایک تخم ہے سرخ جسکو ہندی مین گھنگچی اور رتی کہتے ہین

عین الکمال - چشم زخم بد نظر جسکی نظر دوسرے شخص کو ضرر پہونچائے -

عیب بدرون عیب بردن - کسی کا عیب ظاہر کرنا نقص بیان کرنا - فرزا صائب - پردہ مردم دریدن بردن عیب خود ست ٭ عیب خود مے پوشد از چشم خلائق عیب پوش ٭ سعدی - ہر کہ عیب دگران پیش تو آورد و شمرد ٭ بیگمان عیب تو پیش دگران خواہد برد ٭

عیب بین عیب پوش عیب تراش - عیب جوی عیب شوی عیب کوش - عیب ناک - ظہوری - بر دگر عیب بین چشمی کشاید ٭ چشمش جز ہنر جستن نیاید ٭ نظامی - نہ جوشم کہ خامست جوشش ہمہ ٭ زنم دست در عیب پوش ہمہ ٭ ولہ - چو در باشدم دشمن عیب شوی ٭ چون آئینہ دوست عیب جوے ٭ میر خسرو - برمن رسوا شدہ عیب کوش ٭ عیب تو پوشی کہ توئی عیب پوش ٭ صفہ زوفانی بدنیا اگر ہستی از عیب پاک ٭ مزن طعنہ بر بندہ عیب ناک ٭ عرفی - چہ بلا عیب تراشم کہ حسد گم باد ٭ نشنود عیب زرہ دہی از نسیم دغل ٭

عیشستان - عیش خانہ - عیش کی جگہ - عیش کا گھر عیش کا مکان - صائب - دنیا براے بیخبران عیش خانہ ایست ٭ مرغ حریص را گرہ دام دانہ ایست ٭ ظہوری - اگر رزم ست رنگین از حسامش ٭ اگر بزم ست عیشستان ز جامش ٭

عیش کاہ - عیش کم کرنے والا عیش گھٹانے والا - طالب آملی - بمن و عشق تو شاخ و برگ یک بالحنیتم درمعنی + بلے خویشی بود باغم فزایان عیش کاہان را +
عیش گاہ - عیش کی جگہ - عیش کا مکان - نعمت خان عالی - سرور تیرہ دلان عیش گاہ سلطان ہست + چراکہ در دشت تا ریشو محفوظ +
عینہ مخفف بعینہ جو تشبیہات میں مستعمل ہے - آقا شاپور طہرانی گل بچشم عینہ پیراہن یوسف نمود + گلستان بیت الحزن گردید یعقوب مرا +
عید روشی - سکنا یتاً محبوب و مرغوب - ظہوری - از درد لہا ہمہ دریوزہ جان بیکنم + عید رویان زہر زبان خواہند قربان توئی +
عید گلابی - یہ عید اکبر بادشاہ کے وقت آغاز بہار مین ہوتی تھی اُس روز گلاب کے شیشے امراء دربار پیش کرتے تھے اور نگ زیب عالمگیر کے وقت تک یہ رسم جاری رہی پھر بند ہوگئی میرزا خلیل منعی ہست می مطرب شرابی ہست + بگو امشب شب عید گلابی ست +

چوتھی فصل

اردو محاورات اور اصطلات کے بیان مین

عین با الف

عارض ہونا - ظاہر ہونا - پیدا ہونا - لاحق ہونا - مانع ہونا - روک ہونا - مؤلف - غربت کی امید عاشق کو کہان + عارضہ جب عشق کا عارض ہوا
عاری ہوجانا - عاری آجانا - تنگ آجانا - تھک جانا - مجبور ہونا - قطعہ از مؤلف - دن جوانی کے گئے جس دن گذر پہلے اور پھرنے سے عاری ہوگئے + بیٹھنا اور اُٹھنا مشکل ہوگیا + جسم لاغر پاؤن بھاری ہوگئے +
عاقبت تنگ کرنا - آرام مین خلل ڈالنا عیش منغص کرنا - قطعہ از مؤلف - تعلق مت بڑھا دنیا کی اتنی + کہ ہو تجھ پر مقام عاقبت تنگ - رہے حیران و سرگردان شب و روز + اسی گردش مین مثل آسیا سنگ +
عاقبت بگاڑنا - گناہ کرنا - گناہ کا عذاب اپنی گردن پر لینا - مؤلف - بغیر سوچ کے اول نہین جو کرتے کام + وہ احمق عاقبت اپنی بگاڑ لیتے ہین +
عاقبت بھاری کرنا - اپنے واسطے خرابی کرنا - وہ کام کرنا جس سے عذاب مین پڑے - قطعہ از مؤلف - تنگدستی مین یہ انسان کیلیے + کھائے غم اور فکر نا داری کرے + غیر کی راحت کے خاطر دوستو + عاقبت یہ اپنی کیون بھاری کرے +
عاقبت کے اور لیے سمیٹنا - نہایت ضعیف ہوجانا مصیبت اُٹھانا بڑی عمر کو پہونچنا - جان صاحب - بی عاقبت کے کون سمیٹیگا بوریے

جو آج آ کے کل گئے اس جا یونہین رہے -
عالم پھرنا - ایک جہان کا ناراض ہوجانا - زمانے کا برگشتہ ہوجانا عام و خاص کا دشمن بنجانا - صفدر رضوقانی - پھر گئے دلدار جب مسے قیامت آگئی + ہوگیا دشمن زمانہ سارا عالم پھر گیا +
عاشق مزاج - زندہ دل - خوش طبع - رنگیلا -
عاقبت اندیش - دور اندیش - انجام کار سوچنے والا - مولانا اکبر الہ آبادی سوچتا ہی مال کار اپنا + ابتدا ہی مین عاقبت اندیش + مرد دانا قدم نہ رکھیگا + دیکھ لیگا نہ جب تلک پس و پیش +
عاشق و معشوق - فاعل و مفعول عورت و مرد پتنگی کا نر و مادہ قطعہ از مؤلف رہو عاشق ہمیشہ اُس خدا کے + اگر چاہو حیات جاودانی + نہ رکھنا عشق اس دنیا سے دون کا + کہ ہین یہ عاشق و معشوق فانی +
عاقبت کا توشہ - وہ چیز جو عاقبت مین کام آئے - قطعہ از مؤلف - عزیزو ہر مسافر کے لیے ہے + سفر درپیش راہ آخرت کا + ضروری ہے کہ اس مشکل سفر مین + وہ رکھے پاس توشہ عاقبت کا +

عین با با

عبور دریا سے شور کرنا - کالے پانی بھیجنا - سمندر پار اُتار دینا -

عین با تے

عتاب و خطاب مین آنا - خفگی مین آنا - باز خواست مین آنا - جھڑکین کھانا - مولانا اکبر - صلح غیرون سے ہوگئی اکبر + ہم عتاب و خطاب مین آئے +

عین با جیم

عجیب حال ہونا - کیفیت دگرگون ہونا - برا حال ہونا - میر قاسم خمیدہ رنگ شکستہ بدن نزار + تیرا تو میر غم مین عجب حال ہوگیا -

عین با دال

عدت مین بیٹھنا - بیوہ عورت کا بعد مرنے خاوند چار ماہ تک سوگ رکھنا
عدالت کے کتے - کچہری کے رشوت خوار ملازم -

عین با ذال معجمہ

عذاب مول لینا - جان بوجھ کر کسی آفت مین پھنسنا - اپنے سر تکلیف لینا - قطعہ از مؤلف - مبتلا دام بلا مین ہین مدام + عاشقان گیسوے پیچ و تاب + مفت مین برباد کر دیتے ہین جان + مول لیتے ہین وہ ناحق یہ عذاب +
عذاب مین پھنسنا - مصیبت مین گرفتار ہونا بلا مین مبتلا ہونا - مؤلف دام مین آ کے زلف پیچان کے + دیکھنا ہے عذاب مین پھنسنا +

نرالی ہی اگر تمہیں منظور رہے اسلیے مت پیچ و تاب مین پھنسنا ٭٭

عین با راے

عرش پر جھولنا - بڑے درجے پر پہونچنا - صاحب اعزاز و مراتب ہونا
قطعہ نعتیہ از مؤلف - خاکساران جناب مصطفے ٭ گرچہ رکھتے ہین سکونت
فرش پر ٭ رتبہ انکا ہی مگر اتنا بلند ٭ جھولتی انکی عـلم ہین عرش پر ٭
عرش پر چڑھانا - قدر و منزلت کرنا - بڑائی دینا - عزت بڑھانا - قطعہ رہو
نئے چلکیہ چرخ کھاتا ہی - نئی گردش فلک دکھاتا ہی ٭ پھینک دیتا ہی
فرش پر فی الفور ٭ جسکو وہ عرش پر چڑھاتا ہی -
عرش پر دماغ ہونا - مغرور ہونا - متکبر ہونا - گھمنڈ مین ہونا - حکیم محمد الوت
یہ خاکی خاک کا پتلا ہی جسکا آدم نام ہی ٭ ہی عجیب کہ اسکا دماغ عرش پہ ہو
عرش سے لے تا بفرش - آسمان سے لیکر زمین تک اوپر سے
نیچے تک - نعتیہ از مؤلف - جلوۂ نور احمدی کا عرش سے
تا فرش ہی ٭ حکم جاری زیر و بالا عرش سے تا فرش ہی ٭
عرش کے تارے توڑنا - کوئی بڑا کام کرنا - بڑھ کے ہاتھ مارنا -
بلند ہمتی کرنا - آتش - آبلے پاؤن کے کیا تو نے ہمارے توڑے +
خار صحرا سے جنون عرش کے تارے توڑے -
عرصہ تنگ ہونا - وقت کم ہونا - میدان تنگ ہونا - وسعت
نہونا - قطعہ مؤلف - کوئی دن مین آنے والی ہی خزان + اور ہی رنگت
یہ گل کا رنگ ہی ٭ سیر کر لو آجکل اس باغ کی ٭ وقت تھوڑا
اور عرصہ تنگ ہی ٭٭
عرضی کرنا - حاکم کے روبرو استغاثہ دائر کرنا - اپنا حال لکھکر گزارش کرنا -
عرق آجانا - پسینہ آجانا - بسبب شرم یا خوف کے - مفتی حیدر -
حق کی طاعت مین وہ سرگرمی کرو ٭ سب بدن جس سے آجائے عرق +
عرق ریزی کرنا - سخت محنت کرنا - سخت کام کرنا - پسینہ گرانا - قطعہ مولف
عشق بازی کھیل لڑکون کا نہین ٭ کھیل کر بہلائین دل جس سے عوام +
جانتے ہین عاشقان حق اسے ٭ جانفشانی اور عرق ریزی کا کام +
عرق عرق ہونا - پسینے مین غرق ہونا - پانی پانی ہونا - شرمسار
ہونا - قطعہ - چہرہ دکھلائے جب وہ مہر منیر ٭ چاند غیرت کے مارے
غش ہوجائے + بزم مین آئے جب وہ غیرت ماہ + شمع تابان عرق عرق ہوجائے +

غین با راے معجمہ

عزت بگاڑنا - بے آبرو کرنا - آبرو لینا - مؤلف - عشق بتان مین
خاک بھی حاصل نہین ہوئی ٭ برباد کر لی آبرو عزت بگاڑ لی ٭
عزت بنانا - عزت حاصل کرنا - آبرو پانا -

عزت گنوانا کو ہونا - کسی کی بے عزت کرنے کے درپے ہونا - اسکی فکر مین رہنا -
عزل و نصب کرنا - بحالی برطرفی کرنا -
عزیز رکھنا - کسی کی قدر و عزت کرنا - پیار اسمجھنا - دوست جاننا -

عین با شین

عشق اللہ - یہ کلمہ فقرا بجاے سلام آپسمین کہتے ہین -
عشق ہی - آفرین ہی - شاباش ہی - یہ کلمہ بھی فقرا آپسمین بولتے ہین -
مؤلف - پہلے سب سے خالق ارض و سما کو عشق ہی ٭ اسکے پیچھے
حضرت خیر الورا کو عشق ہی ٭ بعد ازان حضرت علی المرتضے کو عشق ہی ٭
غوث اعظم ہادی راہ ہدا کو عشق ہی -

عین با طاے مہملہ

عطر کھینچنا - تیل نکالنا - ست نکالنا - کسی کی طاقت نکال لینا -
عطر و پان کی تواضع کرنا - مدارات کرنا - مہمان کو عطر لگانا - پان کھلانا -

عین با فاے

عفت مین خلل ڈالنا - کسی عفیفہ کے ساتھ زنا کرنا - آبرو لینا - بے عزت کرنا -

عین با قاف

عقدہ کشائی کرنا - گرہ کھولنا - مشکل حل کرنا - ذوق - ہمیشہ کو
دیتا ہی فلک ناخن ٭ جاتا ہی کہ یہی عقدہ کشائی کرنا -
عقدہ کھل جانا - گرہ کھل جانا - معما حل ہونا - بھید کھل جانا -
افشاے راز ہونا - شعر - کھل گیا عقدہ جو زلف یار کا ٭ مشکل
حق دل کی رہائی ہوگئی ٭٭
عقل پر پردہ پڑجانا - بیوقوف ہو جانا - بے سمجھ بن جانا -
عقل پکڑنا - ہوش مین آنا - شایستہ بنجانا -
عقل جانا - ہوش جانا - حواس باختہ ہونا - شوق - دیکھکر
میری عقل جاتی ہی ٭ جب مجھے کاٹ پھانس آرہی ہی -
عقل چکر مین آنا - عقل کی طوطی اڑنا - گھبرا جانا - ہوش باختہ
ہونا - حیران و ششدر رہ جانا -
عقل چرنے جانا - بے عقل ہوجانا - مخبوط الحواس ہوجانا - ہوش ٹھکانے نرہنا -
عقل دینا - لکھانا پڑھانا - تہذیب سکھانا - عقلمند بنانا -
عقل خرچ کرنا - راے دینا - تدبیر سوچنا -
عقل سٹھیانا - ساٹھ برس کے سے آدمی کی عقل ہوجانا - عقل کی تیزی جاتی رہنا -
عقل کا پتلا - نہایت عقلمند - دانا -
عقل کا پورا - صاحب عقل - ہشیار -
عقل کا چراغ گل ہوجانا - بے عقل بنجانا - ہوش قائم نرہنا -

عقل کے گھوڑے دوڑانا۔ کسی کام میں غور کرنا۔ خیال دوڑانا۔ خوض کرنا۔ تدبیریں سوچنا۔

عقل ماری جانا۔ عقل جاتی رہنا۔ عقل کا ٹھکانے نہ رہنا۔ بیوقوف ہوجانا ؎ عقل جاتی رہی نگاہ کے ساتھ ٭ اڑ گئے ہوش ایک آہ کے ساتھ ٭ مؤلف۔ کاکل پیچاں نظر آئیگی جب ٭ عاشقوں کی عقل ماری جائیگی۔

عقل میں آنا۔ سمجھ میں آنا۔ خیال میں آنا۔

عقل کی مار۔ بیوقوفی۔ بے عقلی۔

عقل کل۔ خاص صلاح کار۔ خاص مشیر۔

عقل کا دشمن۔ احمق۔ بیوقوف۔

عقل کے ناخون لو۔ عقل درست کرو۔ ہوش میں آؤ۔ سمجھ کے بات کرو۔

عقل کام نہیں کرتی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تدبیر نہیں آتی۔

عین با لام

علت لگا لینا۔ کسی چیز کا عادی ہوجانا۔ افیون و پوست وغیرہ کھانے لگنا۔

علت لگانا۔ الزام لگانا۔ تہمت دھرنا۔

علی الحساب دینا۔ پیشگی دیدینا۔ حساب کے وقت مجرا لینا۔ حساب میں دینا۔

عین با میم

عمر بھر کی روٹیاں سیدھی کر لینا۔ اتنا روپیہ کمانا کہ تمام عمر کے واسطے کافی ہو۔ بہت سا مال مار لینا۔

عمر پٹہ لکھوانا۔ تمام عمر کا ٹھیکہ لینا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کا سامان کرنا۔ نظیر ؎ لائے تھے ہم تو عمر پٹہ یہاں لکھوا لیے ٭ جب سیاہی پر سپیدی پڑی تو خبر پڑی ٭

عمر تیر کرنا۔ عمر کاٹنا۔ بسر کرنا۔ عمر کے دن بھرنا۔ دن پورے کرنا۔ ایام گذاری کرنا۔ تنگی ترشی میں جینا۔ نظیر ؎ مرتا ہوں تڑپتا ہوں ٭ ہر ہجر میں اس بن ٭ دن عمر کے بھرتا ہوں شب و روز میں گن گن ٭

عمر کا پیمانہ بھرنا۔ مرنے کے دن قریب آنا۔ نہایت ضعیف ہوجانا۔ لکھنوٹ ؎ پھر کہاں ساقی کہاں جام شراب ٭ عمر کا پیمانہ جس دم بھر گیا ٭

عمل بیٹھ جانا۔ عمل و دخل ہوجانا۔ قبض و تصرف میں آجانا۔ حکومت قائم ہوجانا۔ سکہ بیٹھ جانا۔ برق ؎ کشور عشق میں جرات سے عمل بیٹھ گیا ٭ اٹھ گئے غیر تو میں بزم میں کل بیٹھ گیا ٭

عمل ہوجانا۔ دخل ہوجانا۔ قبضہ ہوجانا۔ نشہ ہوجانا۔ جادو کا اثر ہوجانا۔

عمر نوح۔ بہت لمبی عمر۔ بہت عرصہ۔ ایک زمانہ۔

عمر دراز۔ دعائیہ کلمہ ہے۔ تمہاری عمر بڑی۔ اسیر ؎ دل اسیر چھوٹنے نہ چھوٹے بند کاکل سے اسیر ٭ عمر اس کے گیسوے پیچاں کی ہو یارب دراز ٭

عمر رسیدہ۔ بہت بوڑھا۔ ضعیف العمر۔

عملہ فعلہ۔ نوکر چاکر۔ اہالی موالی۔

عین با نون

عنایت کرنا۔ مہربانی کرنا۔ احسان کرنا۔ مرحمت کرنا۔ کچھ دینا۔

عندیہ لینا۔ معلوم کر لینا۔ بھانپ لینا۔ مافی الضمیر دریافت کرنا۔ بھید لینا۔

عندیہ پایا نہیں جاتا۔ مطلب معلوم نہیں ہوتا۔ بھید نہیں کھلتا۔

عنقا ہوتا۔ کمیاب ہونا۔ نادر و نایاب ہونا۔ قطعہ مؤلف ؎ عدالت بنگئی شکل عداوت ٭ جو تھا انصاف بے نام و نشان ہے ٭ محبت کا پتہ ملتا نہیں ہے ٭ مروت ہوگئی عنقا جہان سے۔

عین با ہائے ہوز

عہد کر لینا۔ اقرار کر لینا۔ وعدہ کر لینا۔

عین با یائے

عیادت کرنا۔ عیادت کو جانا۔ مزاج پرسی کرنا۔ بیمار کی خبر پوچھنا۔

عیال داری میں پھنسنا۔ عیال داری کے جھمیلے میں پھنسنا۔ خانہ داری کے جھگڑے میں گرفتار ہونا۔

عیب جوئی کرنا۔ عیب گیری کرنا۔ کسی کے عیب نکالنا۔ خوردہ گیری کرنا۔

عیب لگانا۔ الزام دھرنا۔ بہتان لگانا۔ داغ لگانا۔ بے ابرو کرنا۔ بدنام کرنا۔

عید کے چاند ہوجانا۔ کبھی کبھی ملنا جیسے کہ عید کا چاند برس میں دو بار نظر آتا ہے ٭

عید منانا۔ خوشی منانا۔ عید کرنا۔ داغ ؎ گرمیکدے میں عید منائی تو کیا ہوا ٭ ایسا ہی شیخ بتر اد و گانہ قضا ہوا۔

عید ہونا۔ خوشی ہونا۔ شادی ہونا۔ دل باغ باغ ہونا۔ یار علی ؎ ہوئی تھی مجکو عید سمندر میں اس گھڑی ٭ ٹھہرا جہاز اور کوئی ٹاپو نظر پڑا ٭

عیش اڑانا۔ حظ نفسانی حاصل کرنا۔ خوشی میں زمانہ گذارنا۔ قطعہ از لکھنو ؎ بدلتا ہے نئے رنگ اور نئے ڈھنگ ٭ ہمیشہ انقلاب دور دوار ٭ اڑاتا ہے کوئی شام و سحر عیش ٭ کوئی ہے تنگ بست و زار و ناچار ٭

پانچویں فصل

لغات متعلق بعلم طب کے بیان میں

عین با الف

عاقر قرحا۔ یہ ایک گھاس زمین پر بچھی ہوئی روئے دار تنا چھوٹا ہے گول بابونہ کی طرح پھول زرد جڑ لمبی بقدر ایک بالشت کے ایک انگلی موٹی تند اور تیز طبیعت اسکی خشک بعض کے نزدیک سرد و تر دانتوں کو کھولتی ہے دماغی فضلوں کو نکالتی ہے لقوہ و فالج و رعشہ و استرخا و لکنت ...

و درد سینہ و درد دندان و وجع المفاصل و عرق النسا و استسقا کا علاج ہی باہ کو بڑھاتی ہی

عاج - ہاتھی دانت پوری تشریح اسکا فیل کی بحث مین لکھی جائیگی اسکا ادنے خاصہ یہ ہی کہ اسکا برادہ آدھا مثقال شکر کے ساتھ طہر کے بعد اگر عورت کھائے حاملہ ہو جائے -

عاقول - شوکۃ الجمال بھی اسکو کہتے ہین اس گھاس کے کانٹے بہت اور بہت تیز ہوتے ہین پھول سفید اور زرد اور پھولون کے اندر بال سے باریک تار پھل گول ہر ایک زہر کو اسکا پینا دفع کرتا ہی لو اسیر کا علاج اسکی راکھ ہی اسنے زخمون کو اچھا کرتی ہی -

عین با بائے موحدہ

عبہر - نام ایک مرکب خوشبو اور نام ایک نہال کا جسکو نرجس کہتے ہین شجرۃ النبی بھی اسکا نام ہی اصطرک بھی اسکو کہتے ہین اس درخت کا گوند نہین مگر تیل ہی جو دوا مین مستعمل ہی اور خوشبو ہین -

عبیثران - بضم اول و فتح ثانی و سکون ثالث و فتح رابع ایک گھاس ہی پتی اسکی گول باریک شاخین پھل زرد اور خوشبو مشابہ سنبل الطیب کے طبیعت گرم اور خشک مفتح و محلل و مقوی دماغ و قلب و معدہ مدر حیض محرک جماع ہی -

عین با ثائے مثلثہ

عثق - یہ ایک گھاس ہی جو قد آدم بلند ہوتی ہی پتی اسکی مطابق پتی گیہون کے بہت موٹی طبیعت اسکی گرم اور خشک محلل قوی اور محرق ہی عصارہ خشک اسکا اگر ضماد کرین بالون کو نورے کی طرح گرا دیتا ہی -

عین با جیم

عجمہ - عرب مین نام ایک قسم کے خرمے کا ہی جسکو کوبھی کہتے ہین - لوگ اسکو کھاتے ہین جو نہایت لذیذ ہوتا ہی -

عجینہ - عجین گیہون کا میدہ جسکو مائدہ اور آرد کہتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک لطیف جالی محلل و مفتح ہی پھوڑون کے مادے کو پکا دیتا ہی دانتون کے درد کو دور کرتا ہی باہ کو بڑھاتا ہی

عین با دال

عدس - فارسی مین اسکو نشک اور مرجو بک ہندی مین مسور اسکا نام ہی یہ غلہ کھانے مین آتا ہی بستانی اور جنگلی ہوتا ہی جنگلی کے دانے گول اور سرخ و سیاہ اور بستانی کے چوڑے اور بڑے دانے خاکستری رنگ ہوتے ہین طبیعت اسکی سرد اور خشک بعض کے نزدیک پوست اسکا گرم اور مغز اسکا سرد و خشک ہی ضماد اسکا نزلات اور اورام حارہ آنکھ کے مفید ہی غرغرہ اسکے پانی کا خناق کو فائدہ دیتا ہی جوشاندہ اسکا چیچک کے آبلون کو خشک کرتا ہی اسکا آٹا اگر انڈے کی سپیدی کے ساتھ ملا کر خنازیر پر لگائین تو بہت فائدہ کرتا ہی سخت اورام اسکے ساتھ تحلیل ہو جاتے ہین

عین با رائے مہملہ

عرعر - یہ ایک درخت ہی جسکو فارسی مین سرو کہتے ہین یہ دو قسم ہی ایک بڑا دوسرا چھوٹا بڑے کا پھل بقدر فندق سا تھوڑی مٹھاس لئے اور چھوٹے کا پھل بقدر باقلا کے طبیعت گرم اور خشک کھانسی و درد سینہ و طحال کے امراض کو نافع ہی ضعف معدہ و بواسیر کو دفع کرتا ہی

عروق الصفر - فارسی مین اسکو زردچوبہ ہندی مین ہلدی کہتے ہین دو قسم پر منقسم ہی ایک صغیر اسکو مامیران بولتے ہین جو حرف میم مین مذکور ہو چکا دوسرے کبیر جسکو ہلدی کہتے ہین یہ جڑ ایک گھاس کی ڈنڈی اسکی بقدر دو گز کے پتی مشابہ پتی کیلے کے جو بہت چھوٹا ہو پھول زرد اور خوشے بقدر ایک بالشت کے بیج سیاہ رنگ جڑ اسکی نکالکر کام مین لاتے ہین اور دور ملکون مین اسکی تجارت ہوتی ہی یہ جڑ زمین سے نکالکر جوش دیجاتی ہی بعد جوش دینے کے اسکا استعمال ہوتا ہی اسمین بعض گرہین سخت و تیرہ ہوتی ہین وہ مسموم ہین جو پہچان کر نکال دیتے ہین اسکو ہلدیا بولتے ہین چین ہند دکن بنگال وغیرہ ملکون مین بکثرت ہی جالی مفتح سدہ جگر دافع استسقا و یرقان و درد دندان و جرب و سفیدی چشم و ربو ہی -

عرق - دو قسم پر منقسم ہی ایک وہ عرق جو بدن پر ظاہر ہوتا ہی جسکو ہندی مین پسینہ کہتے ہین اور آدمی اور حیوانون کے جسم کے مسامات سے ٹپکتا ہی اکثر گرمی کے موسم مین پسینہ ظاہر ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم تر محلل اور جالی ہی - دوسری قسم وہ جو ادویات کا عرق بذریعہ قرع انبیق کھینچتے ہین طبیعت ہر ایک عرق کی مطابق طبیعت اس چیز کے ہی جس سے وہ مقطر کیا گیا ہی افعال اور خواص اسکے بھی راجع طرف اسی چیز کے ہوتے ہین مگر نہایت لطیف اور سریع النفوذ ہوتا ہی -

عین با سین

عسل النحل - فارسی مین اسکو انگبین اور شہد اور ہندی مین ماکھون کہتے ہین مراد اس سے مکھی کا شہد ہی بہتر اس سے سرخ رنگ شفاف اور خوشبو غلیظ خوش ذائقہ موم سے صفا کیا ہوا انگلی اسمین ڈالکر اٹھائین تو تار بندھ جائے - اسکے بعد سپید مصری کا رنگ یہ دونون اقسام عمدہ ہین اول قسم دوا کے واسطے اور دوسرا غذا کے بہتر ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک سددون کے کھولنے والا مقطع منقی بلغم لزج اور دماغی فضلون کا دافع استرخا و استسقا و لقوہ و فالج و یرقان و عسر البول ہی سموم باردہ کے لیے تریاق ہی اسکے فائدے ہزارون بڑی کتابون مین درج ہین قرآن شریف مین بھی خداوند جل شانہ

اسکے حق مین فیہا شفاء للناس فرمایا ہی۔

عین با شین معجمہ

عُشر - یہ ایک درخت ہی فارسی مین اسکو خرک اور ہندی مین آک کہتے ہین زہریلی نباتات مین سے یہ بھی ہی اسکا پتا توڑین یا شاخ کاٹین تو دودھ نکلتا ہی چونکہ یہ مشہور درخت ہی زیادہ تشریح کی حاجت نہین تین قسم کا یہ درخت پہلی قسم کا بڑا پھول سفید جوڑی تیی دودھ بکثرت دوسری قسم کا پھول سفید چھوٹا اندر سے پھول بنفشئی تی چھوٹی دودھ کم تیسری قسم کا بہت چھوٹا پھول پستئی رنگ مائل بسفیدی اور بعض زرد پتی بہت چھوٹی دودھ بہت کم طبیعت اسکی گرم اور خشک ساتھ سمیت کے مقرح جلد یعنی زخم کردینے والا جلد کا قاطع بلغم ساتھ قوت مسہلہ قویہ کے اتار دینے والا بالون کا کھجلی کا دور کرنے والا بواسیر کا نکال دینے والا قامع فالج وتشنج کا ہی۔

عَشرَق - یہ ایک نبات ہی اسکے پتے سنا مکی کے پتون سے چوڑے سبز زیادہ پھول مائل بسرخی طبیعت گرم خشک ہی رحم کا منقیہ اس سے بخوبی ہوتا ہی اور ادرار بول کرتا ہی اسکا پھل نواسیر کو دفع کرتا ہی بالون کو سیاہ کرتا ہی

عَشقَہ - یہ ایک گھاس مشابہ لبلاب کے ہی اسکی بیل جس درخت پر چڑھ جاتی ہی اسکو خشک کردیتی ہی اسی سبب سے اسکا نام عشقہ رکھا گیا کہ عشق عاشق کے جسم کو سکھا دیتا ہی۔

عَشنَجہ - یہ ایک گھاس لبلاب کی طرح ہی پھول اسکا نہایت خوشبودار شاخین گلاب کے پھول کی طرح جڑ سیاہ اور باریک چنبیلی کا سا پھول طبیعت اسکی گرم اور خشک محلل و مرقق و ملطف و معرق و مدر ہی سونگھنا اسکے پھول کا درد سر اور شقیقہ کا علاج ہی جوشاندہ مضمضہ دانتون کو قوی کرتا ہی۔

عین با صاد مہملہ

عَصَب - پٹھہ جو حیوانات کے جسم مین ہوتا ہی چکنا اور سپید اور سخت بدن حیوانات اس سے مرکب ہی اور حس وحرکت بدون اسکے نہین ہوسکتی فارسی مین اسکو پی کہتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک ہی ہضم ردی الغذا اکثر اس سے سریش واسطے چپکانے بال تقلب وغیرہ کے بناتے ہین۔

عُصفُور - چڑیا جسکو فارسی مین گنجشک کہتے ہین جنگلی اور خانگی ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم خشک جنگلی خانگی سے خشک زیادہ مسمن و مسمن بدن محرک باہ ہی منی کو بڑھاتی ہی فالج اور لقوہ واسترخا و ضعف کبد واسترخاء استسقا وضعف گردے کا علاج ہی۔

عصی الراعی - فارسی مین اسکو گشتہ ہندی مین لال ساگ کہتے ہین

طبیعت اسکی سرد اور خشک قابض ورادع وحابس مسکن حرارت اندرونی وغیرہ وفی ہی صفراوی اسہال اس سے بند ہوجاتے ہین ضماد اسکا اورام اور قروح کو اچھا کرتا ہی خسانده اسکا زہر کی اذیت کو دور کرتا ہی۔

عین با ضاد معجمہ

عَضَل - جو سواے رگ وپے کے ذیجان کے اجسام مین ہوتا ہی قریب مفاصل اور اعضا حرکت کرنے والون کے گوشت ورباط واعصاب وعروق وغشا سے مرکب ہی طبیعت اسکی گرم ترجید الغذا صالح الکیموس ہی تھوڑے کھانے سے لذت حاصل ہوتی ہی زیادہ کھانے سے قی ہوجاتی ہی اعالی جسم کے عضلات اچھے ہین انسے جو اسفل مین ہین۔

عین با طاے معجمہ

عَظم - بفتح اول استخوان یعنی ہڈی جو انسان اور حیوان کے جسم مین ہی طبیعت اسکی سرد اور خشک قابض وحابس ومجفف ہی پیس کر پینا اسکا صرع کو فائدہ دیتا ہی اور ہڈی کا جوشاندہ پانی اگر سر پر ڈالا جائے تو ناک کے خون کو بند کرتا ہی۔

عَظَایَہ - یہ ایک جانور سمندر کی طرح سبز رنگ بطی الحرکت ہی آگ مین ڈالین تو نہین جلتا ساتھ قوت سمیت کے اسکو ذراریح کی طرح ہاتھ پاؤن کاٹ کر اور پیٹ چیر کر شہد مین ڈال رکھے تاکہ سڑ نہ جائے اسکا گوشت افعی کے نیش پہ باندھین تو زہر کو نکال دیتا ہی پتہ اور پیٹ اسکے دونون زہر قاتل ہین۔

عین با فاے

عَفص - یہ ایک مشہور پھل ہی جسکو فارسی مین مازو کہتے ہین اور ہندی مین مازو پھل اسکا نام ہی طبیعت اسکی سرد خشک حابس مانع سیلان رطوبت قاطع رعاف جلی چشم ہی منجن اسکا دانتون کو مضبوط کرتا ہی پیس کر پیا جائے تو امعا کے قروح کو اچھا کرتا ہی۔

عین با قاف

عُقاب - یہ ایک جانور سیاہ رنگ شکاری ہی پرند مین ہین تیز پرواز اس سے زیادہ کوئی نہین بازشت بدن مین بڑا ہی طبیعت اسکا گرم وخشک گوشت اسکا سخت ردی الکیموس منفعت مین قریب گدھے کے گوشت کے ہی اسکے پتے کا پانی ابتدا سے نزول الماء مین دافع نزول ہی اکتحال اسکا بینائی کو تیز کرتا ہی جھلی کو اتارتا ہی زخم کو اچھا کرتا ہی اسکا خون ورم کو تحلیل کرتا ہی اسکی بیٹھ خساروں پر ملین تو چہرہ کا رنگ صاف اور روشن ہوجاتا ہی

عَقرَب - مشہور موذی جانور ہی فارسی مین اسکو کژدم ہندی مین بچھو کہتے ہین اسکے بہت سے اقسام ہین جو دم اٹھا کر چلتا ہی اسکو سیاہ

کہتے ہین اور جو پیٹ زمین سے رگڑ کر چلے اُسکو جرارہ کہتے ہین مگر جرارہ
مین زہر سیاہ سے زیادہ ہی اُسکے مادہ مین سمیت نر سے زیادہ ہوتی ہی
سیاہ بچھو تمام اقسام سے بدہوتا ہی اور ایک قسم سیاہ کا پردار ہی اگر وہ حیوان
کے برہنہ جسم پر بیٹھ جائے تو ذی جان ہلاک ہو جائے اور ایک قسم کا
بچھو ایسا ہی کہ اگر وہ پتھر کو نیش مارے تو پتھر ٹکڑے ہو جائے طبیعت اسکی
سرد خشک ہی طلا اسکے روغن کا فالج ولقوہ و استرخا و وجع مفاصل کو
نہایت مفید ہی اکتحال اسکی راکھ کا امراض چشم کی دوا ہی سنگ مثانہ
وعسر البول و سنگ گردہ و قولنج کا علاج ہی بچھو کے خشک جسم کو پیس کر
اور سرکہ مین ملا کر مالش کرین تو برص کی بیماری دور ہو جائے مفلوج اگر
بچھو کا نیش بیماری سخت پر کھائے تو فوراً اچھا ہو جائے۔
عَقعَق - یہ ایک جانور پرند ابلق رنگ کوتے سے چھوٹا خوبصورت
ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم و خشک کھانا اسکا جائز ہی اور نفع اسکے گوشت کا
قریب کوتے کے اسکے پتے کا پانی آنکھون کو روشن کرتا ہی۔
عقیق - یہ مشہور قیمتی پتھر ہی عمدہ قسم وہ ہی جو یمن سے آتا ہی سرخ رنگ کا
یہ پتھر ہوتا ہی جو کم رنگ کان سے نکلتا ہی اسکو آگ پر پکا کر رنگین
کر لیتے ہین اکثر اسکے نگینے بنائے جاتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک اور
جلا ہوا زیادہ لطیف دو دانگ اسکے پسے ہوئے کا پینا دل کو تقویت
دیتا ہی خفقان کو دور کرتا ہی حیض کے خون کو بند کرتا ہی سرمہ اسکا مقوی
بصر ہی منجن اسکی راکھ کا دانتون کو قوی کرتا ہی
عقرب بحری - یہ ایک دریائی جانور ہی ہندی مین اسکو سینگی مچھلی
کہتے ہین اسکا سر بڑا ہوتا ہی اور پیشانی پر ایک سپید سینگ وہی
اسکا نیش ہی جسکو وہ سینگ مارتی ہی زخمی کر دیتی ہی درد شدید پیدا
ہوتا ہی۔ اسکے پتے کا پانی آنکھون مین ڈالین تو نزول الماء کو دفع
کرتا ہی طلا اسکے گوشت کا داء الثعلب کا علاج ہی

عین با کاف

عکرب - اس گھاس کو جو شف بری کہتے ہین پتی مائل بسپیدی اور
بیج سپید لمبا جو بریان کرکے کھاتے ہین لذیذ ہوتے ہین قہوہ مین
ملا کر پکاتے ہین نہایت مقوی باہ ہی۔
عکبر - فارسی مین اسکو بر موم کہتے ہین یہ ایک چیز ہی مشابہ موم کے
تھوڑے شہد سے ملی ہوئی مکھیان اپنے چھتے کے سوراخون کو اسی سے
بند کرتی ہین طبیعت اسکی گرم و خشک جاذب قوی ہی ضماد اسکا ٹوٹی ہوئی
ہڈی کو درست کرتا ہی خون کو بند کرتا ہی قائم مقام موم میائی کے ہی اسکو موم میائی
نقلی بھی کہتے ہین بخور اسکا کھانسی کو دور کرتا ہی جنین کو رحم سے اخراج کرتا ہی۔

عکر - روغنون کا دُرد یعنی میل جو برتن کی تہ مین بیٹھ جاتا ہی عکر ہر ایک
روغن کا تاثیر مین اسی روغن کے مطابق ہوتا ہی اسکو کھاتے ہین ضماد اور طلا مین عمل ہی

عین با لام

علیق الکلب - اسکو علیق القدس اور درخت سگ گل بھی کہتے ہین
درخت علیق سے اسکے پتے بڑے ہوتے ہین کانٹے اسکے زیادہ سخت
علیق کے کانٹون سے پھول سپید پھل زیتون کے پھل کے ساتھ ملتا ہوا
مگر اسکے پھل کے اندر سے ایک چیز ریشم کی طرح ہوتی ہی اسکو نکال کر
پھینک دیتے ہین کہ وہ زہر ہی پھل اسکا نہایت قابض حابس بول
اسہال دموی کو روکتا ہی ضعف معدہ کو دفع کرتا ہی۔
علس - یہ ایک قسم گیہون کا ہی جسکو گندم تک کہتے ہین روٹی اسکی
گیہون سے شیرین ہوتی ہی طبیعت اسکی سرد و تر گیہون سے اور گرم تر
جو سے اسکو پانی مین جوش دیکر اُس پانی مین بواسیر کے بیمار کو بٹھلائین
تو درد فوراً ساکن ہو۔
علک الانباط - پستہ کے درخت کا گوند ادویات مین مستعمل ہی
بہتر وہ ہی جو سپید مائل بزردی ہو۔
عَلَق - آبی سیاہ رنگ جانور کا نام ہی جسکو زلو اور دیوچا کہتے ہین
ہندی مین جونک بولتے ہین خون فاسد جسم سے یہ کیڑا چوس لیتا ہی
طبیعت اسکی سرد خشک عروق خشک اسکا شہد کے ساتھ محلل خناق ہی
ضماد اسکے پسے ہوئے کا صبر کے ساتھ بواسیر کو دفع کرتا ہی اسکا طلا
روغن زیتون کے ساتھ عضو تناسل کو بڑھاتا اور طاقت دیتا ہی
اور بھی فائدے اسکے کتابون مین بہت لکھے ہین۔
عُلَّیق - یہ نبات کوہی و بستانی ہوتی ہی بستانی کو سارساہورہ کہتے ہین
وہ خاردار ہی پھول اور پتی گلاب کے پھول کی شکل اور لذت مین
مانند کالے توت کے طبیعت مرکب القوی سردی خشکی غالب سبب جز ارضی کے
مجفف و مبرد و حابس عصارہ اسکی ڈنڈی اور پتون کا آنکھون کی ہر ایک
بیماری کو صحت دیتا ہی چبانا اسکے پتون کا دانتون کی بیماریان دور
کرتا ہی جوشاندہ پانی معدہ کو قوت دیتا ہی دست بند کرتا ہی نافع حمل ہی۔
علک البطم - بطم کے درخت کا گوند قند رون بھی اسکو کہتے ہین
اور خشک کو فافقون بولتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک محلل و ملطف
و مقوی ہاضمہ مدر بول منقی اوساخ ہر ایک فعل مین مصطگی سے بہتر ہی۔

عین با نون

عُنّاب - یہ ایک درخت کا پھل ہی جسکی لکڑی اور پوست بھی سرخ ہی
طبیعت اسکی گرمی اور سردی مین معتدل منضج اخلاط غلیظ ملین صدر

مسہل اخلاط رقیقہ رافع خشونت سینہ وحلق دافع سدہ مصفی خون
مولد خون صالح مسکن سوزش وتشنگی ہے۔
عنب۔ یہ لغت عربی ہے فارسی مین اسکو انگور ہندی مین داکھ کہتے ہین
تاک اور رز بھی اسکا نام ہے اسکی ہزارون قسم ہین جنکا شمار نہین
شراب نفیس اسکی نکالی جاتی ہے عموما اسکی طبیعت گرم تر ہے جالی
منضج وسریع الانحدار کثیر الغذا مولد خون صالح مصفی خون
مسمن بدن ہے گوشت اور چربی کو بڑھاتا ہے۔
عنب الثعلب۔ مشہور سبزہ ہے جسکو ہندی مین مکو کہتے ہین بستانی
اور جنگلی دو قسم کا ہوتا ہے اور دونون نر اور مادہ بستانی کے نر کو
کاکنج کہتے ہین اور مادہ کو عنب الثعلب اور جنگلی دو قسم کا ہوتا ہے جبلی
اور سہلی جبلی کے نر کو اہل مغرب کاکنج عالیہ اور مادہ کو عنب الثعلب
مجنون بولتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک ساتھ حرارت فاعلہ کے مسکن
گرمی وتشنگی دافع دردسر ودرد گوش وورم معدہ مسہل اخلاط صفراوی ہے۔
عنب الدب۔ یہ پہاڑی درخت نر اور مادہ ہوتا ہے پتی اسکی مانند
پتی انار کے نرم پھل خوشہ دار پھول زرد مائل بسبزی بقدر چھوٹے
بیر کے طبیعت سرد خشک دافع نفث الدم حابس اسہال محلل اورام ہے۔
عندلیب۔ مشہور جانور پرندہ ہے جسکو ہزار داستان اور بلبل بھی
کہتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک محرک باہ ہے سرگین اسکا جالی
قوابض مصفی رنگ خسار ضماد اور مزیل کلف حمول اسکا مسقط جنین۔
عنکبوت۔ مکڑی جو مشہور جانور ہے طبیعت اسکی سرد خشک قطور
اسکے روغن کا کان کے درد کو دفع کرتا ہے اسکے تار کو اگر زخم پر باندھین
تو خون بند ہو جائے مکڑی کا جالا اکثر مرہمون مین بھی داخل
ہوتا ہے تپ غب کے دفع کرنے مین بھی مؤثر ہے۔
عنقود۔ نام ایک خوشے کا جو گرہ دار بقدر ایک بالشت کے ہوتا ہے
پتے اسکے سداب کے پتون کی طرح خوشے رطوبت سے بھرے ہوئے
تخم بھی مشابہ سداب اور بو بھی سداب سے ملتی ہوئی طبیعت اسکی
سرد خشک اعضا کو قوت دیتا ہے مواد ردیہ اعضا پر گرنے نہین دیتا ضماد
اسکا دافع اورام گرم وسوزش اور مسکن تیزی خون وصفرا ہے۔
عنبر۔ مشہور خوشبو ہے سمندر کے کنارے پر پایا جاتا ہے اسکی اصلیت
مین بہت سے اقوال کتابون مین درج ہین مگر آخر اللہ اعلم لکھدیا ہے
یعنی اسکا حال خدا کو معلوم ہے عنبر کئی قسم کا ہے انمین سے جو صاف
اور مائل بزردی ہو اسکو عنبر اشہب اور انمین سے جو گول شکل ہے
اسکو شمامہ کہتے ہین اور جسکے ٹکڑے مائل بسپیدی ہین اور نقطے سپید
بہت چھوٹے اسپر ہوتے ہین اسکو عنبر خشخاش بولتے ہین اور ان
نقطون کو بہار عنبر سب سے بہتر عنبر وہ ہے جو تازہ اور چکنا اور خوشبودار
اشہب کی بعد اشہب کے مائل بکبودی ومائل بسبزی ومائل بسیاہی
عنبر ہے زبون سب سے وہ ہے جو کم رنگ اور کم بو پرانا ہو مصنوعی اور
جعلی عنبر بھی بنایا جاتا ہے اور اصلی اور جعلی کی شناخت کئی طرح سے
ہو سکتی ہے آگ مین ذرا سا اسمین سے ڈالین اگر دھوان خوشبودار ہو
تو خالص ہے ورنہ جعلی طبیعت اسکی دوسرے درجے مین گرم پہلے
درجے مین خشک بعض کے نزدیک پہلے درجہ مین گرم دوسرے
درجے مین خشک ہے ارواح کا حافظ حیوانی ونفسانی وطبعی قوتون کا
مددگار نہایت مفرح مقوی حواس خمسہ ظاہری وباطنی وقوت باہ
وطعام ہے اور بھی بیشمار فائدے اس نادر خوشبو کے درج کتب طبیہ ہین۔

عین یا واو

عود الصلیب۔ ایک درخت ہے جسکو فاوانیا کہتے ہین اور فاوانیا
کی تشریح فاے معجمہ کے باب مین تحریر ہوگی۔
عوسج۔ یہ ایک درخت انار کے درخت کی مشابہت رکھتا ہے کانٹے
بکثرت پتی لمبی ساتھ لیسدار رطوبت کے پھل بقدر چنے کے گول مائل
بدرازی طبیعت سرد خشک ہے قطور اسکا آنکھون کی سپیدی کو دفع
کرتا ہے مدکا علاج ہے نملہ وجمرہ وحکہ وجرب وجذام وغیرہ
جلدی بیماریون کو اچھا کرتا ہے۔
عود القرح۔ بعض عاقرقرحا کو عود القرح جانتے ہین بعض کے
نزدیک وہ ایک جڑ ہے اور گھاس اسکی مشابہ سولف کے طبیعت اسکی
گرم وخشک تاثیر مین سبب افعال اسکے عاقرقرحا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہین
عود۔ یہ ایک خوشبودار وزن دار لکڑی ایک درخت کی ہے جو بہت
بڑا درخت ہے عمدہ عود وہ ہے جو پانی مین ڈوب جائے طبیعت اسکی
گرم اور خشک ملطف مفرح ومفتح مقوی اعصاب حواس وقوائے
دماغی ودل وکبد ومعدہ ہے ہاضم ہے منھ کی بو کو دور کرتا ہے مثانہ
اور رحم کی طاقت کو بڑھاتا ہے اسکی راکھ کا منجن دانتون کو جلا
دیتا ہے کھانسی اور ضیق النفس کا علاج ہے۔
عود الیسر۔ نامہ عورس کی لکڑی ہے بڑی تاثیر اسکی یہ ہے کہ جس
عورت کو وضع حمل مین سختی واقع ہو وہ اسکو ہاتھ مین رکھے فی الفور
بچہ باہر آجائے اسی اعتبار سے اسکا نام عود الیسر رکھا گیا ہے۔
عود العطاس۔ یہ ایک جڑ بقدر ایک انگلی کے لمبی سر اسکا موٹا
دوسری طرف سے باریک تیرہ رنگ سفید گھاس اسکی باریک

مشابہ ہر تجاسعت سکے قبہ چھوٹا مشابہ بابونہ کے پتی زیتون کی سی سندی مین اسکو ناک چھکنی کہتے ہین طبیعت اسکی گرم وخشک ہے اسکے سونگھنے سے چھینکین بہت آتی ہین اسی اعتبار سے اسکا نام عود العطاس رکھا گیا ہے
عود البلسان - شاخین درخت بلسان کی ہین بہترین اسمین گندم رنگ خوشبودار ہین طبیعت اسکی گرم وخشک مفتح ومقوی قوی ساتھ تریاقیت کے ہے واسطے دوار اور صرع وتنقیہ رطوبات دماغی وتاریکی چشم نافع ہے
عود الحیہ - یہ ایک بوٹی بلاد بربر اور سودان مین ملتی ہے سوسن سکے ساتھ بہت مشابہت رکھتی ہے جڑ اسکی بھی سوسن کی سی جڑ ہے سختی اور خشونت اور تلخی وتندی بو مین عاقرقرحا کی طرح ہے طبیعت اسکی گرم وخشک مفرح ومقوی حواس ومحلل ریاح ودافع زہر ہے -

عین بایاے

عین البقر - ایک قسم انگور کا ہے جو دانے اسکے بڑے پوست موٹا رنگ سیاہ ہوتا ہے نیز ایک قسم آلو کا جسکے بڑے دانے ہوتے ہین یہ دونون بطی الہضم اور ثقیل ہوتے ہین -
عین الدیک - چشم خروس یہ پھل لیم کے درخت کا ہے بعض کے نزدیک عین الدیک گھنگچی یعنی رتی کا نام ہے جو سرخ اور چاندی سونے کے وزن مین مستعمل ہے طبیعت اسکی گرم وخشک مفرح ومقوی وحافظ قوی ومانع پیری ہے منی کو بڑھاتا ہے باہ کو قوی کرتا ہے -
عینون - دو نوع کی گھاس کو عینون کہتے ہین ایک کچلا بولتے ہین وہ باریک بوٹی بہت گڑھی پھول اسکا سرخی پیچ گول درم کی طرح دوسری قسم کی پتی خوشبو لمبی لقد ایک گز کے پھول زرد طبیعت اسکی گرم وخشک مثل سنا مکی کے دفع دریشت ووجع المفاصل وعرق النسا ہے
عیوان - ایک بوٹی ہے محلل اور امراض باردہ دماغ کو مفید مالخ کر کام قطو [illegible] پانی واسطے تیری نظر کے فائدہ بخش ہے -
عیون - جمع عین جسکے معنی آنکھ کے ہین یہ عضو اعضاے مشہورہ سے ہے طبیعت اسکی گرم تر ساتھ کثرت زیادہ رطوبت کے ہر ایک جانور چارپایہ کی آنکھون سے بہترین آنکھ بکری کی ہے اور آنکھ پرندون کی مائل بیبوست -

بائیسوان باب

عین معجمہ کے ذکر مین اسمین بھی بدستور پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات عربی وفارسی وغیرہ کے بیان مین

غین باالف

غانما - بافائدہ غنیمت کا مال لاتے ہوے فائدہ کی حالت مین

بامراد سفر زین سفر اندر وطن گردید فائز بامراد ہر کہ فرستاد زدار دنیا سالما فانما
غاب - بہت سے جنگل ویرانے جسمین شیر رہتا ہو یہ غابہ کی جمع ہے اور فارسی مین بقیہ کھانا جو کھانے سے رہ جاتے و درماندہ اور خراب شدہ اور بیہودہ باتین لغو تقریرین -
غائب - جو شخص روبرو نہو پیٹھ پیچھے مولانا اکبر - توئی اول توئی آخر توئی ظاہر توئی باطن ٭ توئی حاضر توئی غائب توئی پنہان توئی پیدا ٭
غاصب - کسی کا حق چھین لینے والا - ناحق شناس -
غالب - زبردست صاحب غلبہ - مدحیہ از مولف - علی المرتضی شیر خدا ابن ابی طالب ٭ ہر یک معرکہ حاکم ہر یک معرکہ غالب ٭
غابات - بہ باے موحدہ بہت سے جنگل -
غارت - تاخت وتاراج یعنی لوٹ - نظامی - بغارت مبر گنج غاری چنین ٭ در اندیش لختے زکارے چنین ٭ حافظ بیا کہ ترک فلک خوان روزہ غارت کرد ٭ ہلال عید بدور قدح اشارت کرد ٭
غافث - ایک لاجوردی پھول کا نام ہے جو شیراز کے علاقہ مین ہوتا ہے اسکے نہال کو حشیش الغافث کہتے ہین آدھا مثقال اگر عورت کو کھلاوین بند حیض اسی وقت جاری ہو جائے -
غایت - حاصل کلام - انتہا - اخیر - سعدی - درین غایتم رشتہ با پد کفن ٭ کہ موئیم چو پنبہ ست ودوکم بدن ٭
غارج - وہ شراب جو صبح کو پئین اور مطلق شراب بلا قید کسی وقت کے -
غائر - نیچے اترنے والا نشیب مین جانے والا اور پست زمین -
غاتفر - سمرقند مین ایک محلہ ہے اور نام ایک شہر کا ترکستان مین اور غاتفر حرف نون کے ساتھ بھی ایک شہر کا نام ہے -
غافر - بخشنے والا یہ نام خداوند جل وعلا کا ہے اور کسی کی نسبت غافر نہین کہہ سکتے - مولف - غافر الذنب قابل التوب ٭ ہست خلاق آسمان وزمین ٭
غابر - بسنے والا اور ہلاک ہونے والا - آنے جانے والا -
غار - پست زمین اور شگاف جو پہاڑ مین ہو گڑھا - فرید الدین عطار - آن یکے او را رفیق غار بود ٭ وآن دگر کشتی کش ابرار بود ٭ اور فارسی مین نام ایک گھاس کا جو اسکو آگ پر رکھین تو خوشبو دیتی ہے اسکے تخم کو حب الغار اور درخت کو شجرۃ الغار کہتے ہین -
غادر - غدر کرنے والا فساد برپا کرنے والا -
غاز - نام ایک پرندے کا ہے قسم مرغابی سے جسکو ترکی مین قاز کہتے ہین اور کلنگاف اور گدھا اور سکرا اور جاک اور پیوند وصلہ اور آدمی مفلس وفقیر ومحتاج وحاجت واحتیاج اور کھانا طعام کا اور حلاجی

ارزنا و قحط و گران سالی اور غلہ ہر قسم کا-
غاثر- وہ آدمی جسکا منھ فراخ ہو اور کانٹا جو درخت کے ساتھ ہو-
غارغار- پارہ پارہ- ٹکڑے ٹکڑے-
غارس- نخلبند باغبان- درخت لگانے والا-
غابش- ایک پہاڑی درخت کا نام ہے جسکے میوہ کو عنب الدب کہتے ہیں
غاشش- شور و غوغا اور آدمی جو احمق ہو اور وہ غبار جو تخم کے دانے چھوڑ جائے اور کچا خوشہ انگور کا اور وہ عاشق جسنے اپنا عشق کمال تک پہونچایا ہو
غاوشش- پختہ خوشہ انگور کا-
غائص- پانی میں غوطہ لگانے والا غواص-
غامض- گہرا عمیق- ڈوہنگا-
غائط- آدمی اور حیوانات کا پاخانہ-
غاق- کوے کی آواز-
غاپانک- بہ بائے موحدہ نام ایک دوا کا جسکو بشیع الکلاب کہتے ہیں
غالوک- غلولہ مٹی یا پتھر کا جو غلیل میں رکھکر چلاتے ہیں-
غاک- فتنہ و آشوب اور آوازہ کوے کا-
غاوشنگ- بیل اور بیل ہانکنے کی لکڑی جسکے سر پر لوہے کی میخ لگائی ہوئی ہو اس مراد سے کہ اگر وہ نہ چلے تو اسکو وہ میخ چبھوئی جاوے-
غاسول- ایک گھاس کا نام ہے جسکو فارسی میں اشنان بھی کہتے ہیں اور اسی سے سجی بناتے ہیں-
غال- بکریوں کے رات کے رکھنے کے لیے جو مکان گانون کے باہر بناتے ہیں
غافل- بے خبر سست- کام چور- توحید- مباش بیخبر و سست و جاہل و کاہل ❊ کہ ہست بندہ بے علم از خدا غافل ❊ بغیر ذات خداوند مگذران یک دم ❊ بذکر و فکر خدا باش ہر زمان شاغل ❊ چو ابر رحمت حق باش در میان جہان ❊ سخی و فیض رسان فیض بخش و دریا دل ❊
غارلقون- ایک دوا کا نام ہے جسکی پوری تشریح پانچویں فصل میں لکھی جائیگی
غاو- گاو یعنی گائے بیل-
غاوشو- انگور کا خوشہ اور عاشق-
غائلہ- شر و بدی و آفت اور وہ چیز جو اچانک آکر پکڑ لے ماخوذ غول سے جسکے معنی اچانک پکڑنا اور ہلاک کرنے کے ہیں-
غاشیہ- قیامت اور بیماری اور زین پوش جو گھوڑے کے زین پر ڈالتے ہیں- نعتیہ سواعت- حلقہ بگوشش تو سپہر برین ❊ غاشیہ بردار تو روح الامین ❊
غالیہ- ایک خوشبو کا نام ہے جو کستوری و عنبر و کافور و دہن البان سے بناتے ہیں- خواجہ آصفی- ور زلف او چو باد بہاری در آمدم ❊ شب تا سحر بغالیہ باری در آمدم ❊
غازہ- وہ سرخی جو عورتیں اپنے چہرے پر ملتی ہیں گلگونہ بھی اسکو کہتے ہیں- فیضی- تو غازہ کش بچہرۂ گل ❊ تو شانہ زنی بزلف سنبل ❊
غادیہ- بدال مہملہ یائے وہ بادل جو صبح کو نمودار ہو-
غاذیہ- جسمانی قوتون سے ایک قوت کا نام ہے جو غذا میں تصرف کرتی ہے اور غذا کو ساتھ جو ہر بدن کرتی ہے ہر ایک عضو میں لیجاکر غذا کو عضو کی صورت بنا دیتی ہے-
غارہ- برائے مہملہ غارت اور غارت کرنے والی اور پیچ و تاب جو رسی میں ہو-
غاغ- پودینہ جو ایک مشہور چیز ہے-
غادہ- بدال مہملہ ایک پہاڑ کا نام ہے-
غالی- گران قیمت قیمتی چیز اور نام ایک قوم کا جو مرتضی علی کرم اللہ وجہہ کو خدا جانتے ہیں
غانی- نون کے ساتھ بے نیاز تونگر مالدار غنی و سرود کرنے والا-
غازی- لڑنے والا جنگ کرنے والا- کافرون کو مارنے والا فارسی میں بازیگر- قطعہ مؤلف- گروہ بت پرستان بت پرستاست ہو گئے اندر مسلمانان غازی ہو گئے بند دیگردن بار زنار ہو گئے گردیدہ آن شیر غازی ❊
غائی- نہایت ہر چیز کی یعنی علت غائی-
غامی- تیسرا حرف میم ضعیف و ناتوان-

غین با باے

غبرا- بفتح اول زمین مؤنث غبر کا-
غبیرا- باجرے کی شراب اور باجرا ایک غلہ ہے جسکو فارسی میں گاورس کہتے ہیں اور نام ایک میوے کا جسکا سنجد بھی نام ہے-
غب- نوبتی تپ جو ایک روز آئے اور ایک روز نہ آئے اور وہ شخص جو ہفتہ میں ایک دفعہ ملاقات کرے-
غبغب- گوشت ٹھوڑی کے نیچے لٹکا ہوا جو ایک طلا ز جیسا بعضی کا اسکو طوق گلو بھی کہتے ہیں- صائب- سیب غبغب اگر بدست افتد ❊ بہتر از صد انار پاسبین ست ❊ حسن تاثیر کشائی زلف و رنگ خطا و ختن بریزد ❊ تا سہیل غبغب و خون یمن بریزد ❊
غبب- مخفف غبغب کا- حکیم رودکی- از پی آخت ہر چیز پدید سبب ❊ سیب آخت من فرقت آن سیم غبب ❊
غباوت- چوتھا حرف واو غبی ہونا- کند ذہن ہونا-
غبار- گرد مشہور لفظ ہے- ابوطالب کلیم- از من غبار ایسکہ بدلہا نشستہ است ❊ بر روی عکس من در آئینہ بستہ است ❊

غبار – خمیر سے زرا سے چھوٹی داڑھی جو قلندر رکھتے ہیں –
غبوق – وہ شراب جو شام یا رات کو پئیں –
غبن – بفتح اول و دوم – شمار واقع ہونا راستے اور گھر پر ہیں –
غبن – بفتح اول و سکون ثانی نقصان پانا اور زیان ہونا مال میں – نظیری نیشاپوری – شادی کہ غبن میکشی غم تحیری + در شہر این معاملہ با ہر کہ راوردہ +
غبین – کم عقل و ضعیف رائے –
غبطہ – بکسر اول کسی کے مال لینے کی خواہش کرنا بغیر مانگے زوال اس مال کے
غبی – کم عقل و کند ذہن

غین با ثائے مثلثہ

غثث – لاغر ہونا سبز ہونا گوشت کا بدبو ہونا گوشت وغیرہ کا –
غثیان – اچھلنا معدے کا واسطے قے کے بغیر تقاضا کے –
غث و سمین – لاغر و موٹا تھوڑا اور بہت ضعیف و قوی درویش و تونگر – ملا غنیمت – وجود رحمت یزدان محمد عربی پناہ و مالک تقسیم غث و سمین

غین با جیم پارسی

غچک غژک – نام ایک ساز کا جسکو ہندی میں سارنگی کہتے ہیں –

غین با دال

غدا – فردا کل کا دن جو آنے والا ہے –
غدد – بضم اول و فتح ثانی جمع غدہ غدہ وہ جو گوشت یا چربی میں ہوتا ہے –
غدہ – جو ورم کی طرح سفید یا سیاہ جو گوشت یا چربی میں ہو – ابو النصر ہروی خدنگ غمزہ کشائی تو با یدم کہ نشست درون سینہ گرہ گشتہ چون غدہ درا +
غدر – بیوفائی – شور و فساد – سرکشی – نافرمانی –
غدار – بیوفا – مفسد – سرکش – فسادی – مؤلف – کند ورا انقلاب دور دوار + ہمیشہ غدار زمانہ ز چپ سرخ غدار +
غدق – بہت سا پانی
غدرک – ایک ہتھیار کا نام ہے جسکو ہندی میں چھمر کہتے ہیں انجمن آرا کو غدرک بھی
غدنک – جاہل و احمق و زال و ملیدہ جس و جسے آرام –
غدغن – بفتح ہر دو غین جلد شتاب و تاکید اس لفظ کو قدغن بھی کہتے ہیں –
غدو – بفتحتین و تشدید واو صبح کا وقت –
غدو – بفتح اول و سکون ثانی فردا و کل کا دن جو آنے والا ہے –
غدوہ – صبح اور طلوع آفتاب تک جو وقت ہے –
غدفرہ غنقفرہ – نالائق خراب آدمی –
غدائرہ – تیر کا پھل اور جھنڈا –

غین با ذال

غذا – وہ کھانے کی چیز جس سے انسان کا پیٹ بھرے اور زندگی قائم رہے – درویش والہ ہروی – غم تو کردہ بدل خوردن جہان خوبے + ندیدہ ام کہ آتش غذا کند آتش +

غین با رائے

غرا – بکسر و بفتح اول و تخفیف رائے وہ سریش جو مچھلی سے نکالتے ہیں –
غرا – ہر چیز مؤنث جو سفید اور روشن ہو – دین بدنیا عزیز و گردید گشت روشن شریعت غرا +
غرسا – نام ایک دوا کا ہے جسکو تخم شاہی بھی کہتے ہیں اور فارسی میں گوش بری اسکا نام
غریب – نادر و عجیب و مسافر مقابل مقیم کے – دانش – غریب ملک بہار و شہر سیر چمن ہو نہ گلفروش شناسد نہ باغبان مارا + سعدی – غریب از ورت بے نصیب چو صبا دا کہ گردی بدر با غریبا +
غروب – چھپ جانا چاند اور سورج کا زمین میں – درویش والہ ہروی – غروب کردہ سپہر کمال را خورشید چو لباس نیلی اثر ان ہمچو آسمان دارم +
غرقاب – پانی جو بہت عمیق ہو گہرا پانی –
غرب – بفتح اول و سکون ثانی زمین میں آفتاب کا اور مغرب یعنی زمین میں آفتاب کے اترجانے کا مقام اور ڈول جسکو چرسا کہتے ہیں اور اس سے چاہ سے پانی کھینچتے ہیں اور نام اس ناسور کا جو آنکھ کے گوشے پر ناک کی سمت پیدا ہوتا ہے اور ہمیشہ اس سے پانی بہتا رہتا ہے – توحید – تمام خلق ہوا غائب و تو ہر خوبیوں میں تو یکتا و ذات مبارک مطلوب ہو فروغ نور تو آید نظر زہر پردہ تو ہی حاجب تو ہی محجوب ہے کہ بہر نظر آئی و گئے بالا و گئے بشرق و بغرب و گہے شمال و جنوب +
غرب – بفتح اول و دوم وہ درخت جو کبود رنگ ہوتا ہے اور نہروں کے کنارے پیدا ہوتا ہے فارسی میں اسکو پد کہتے ہیں –
غرب – بضم اول و دوم بہت غریب و نادر –
غرچہ – فارسی میں ایک آبی کو آبچہ پرندہ ہے – سعدی غزالی ہماکبک و دیگوش کردہ ہاتک خوشتن ہم فراموش کردہ +
غرامت – تاوان دینا و جرمانہ جو ناحق دینا پڑ جائے اور پشیمانی و عذاب الیم – سعدی – آنکہ بے گنہ گشتی نیست و منہ غرامتش ہے بیگنہ دل و گشتہ میں بکشم غرامتش +
غربت – مسافری – بے وطنی – بے مکانی – سعدی – چو وقت رسد زیر جہان غربتش + ترحم فرستند بر تربتش +

غریزت۔ بروزن فضیلت سرشت و طبیعت۔

غرشت۔ آواز اور جیسے صدا حیوانات کی مثل شیر وغیرہ کی آواز خصوص گھوڑے کی آواز۔

غرث۔ بفتحتین مثلثہ گرسنگی یعنی بھوک۔

غرفج۔ بفتح غین وسکون راے و فتح خاے وسکون جیم نیلاپن اور خشک لکڑی جس سے آگ جلاتے ہیں اور ہر ایک چیز جسکو آگ بہت جلد اثر کرے مثل روئی وغیرہ اشیا۔

غرفج۔ وہ بیمار جسکے خصیے بڑہ گئے ہوں جسکو عربی میں بقتوق کہتے ہیں۔

غریچ۔ سیاہ شاید کو فارسی میں گنجد ہندی میں تل کہتے ہیں [illegible] اسکا تیل نکالا جاتا ہے بعض کے نزدیک غریچ سیاہ دانہ یعنی کلونجی کا نام ہندی زبان میں ہے۔

غرچ۔ بفتح کیچڑ جسکو فارسی میں گل و لاے کہتے ہیں ہندی میں گارا [illegible]

غرفہ۔ بفتح اول خانہ تابستانی گرمی میں بیٹھنے کے لائق مکان فلاں مکان۔

غرد۔ بفتح اول و دوم گانے کی آواز سرود کی الاپ۔

غرد۔ بفتح اول وکسر ثانی ایک قسم کی جوتی ہے جو گھاس کی بنا کر پہاڑ کے لوگ پہنتے ہیں

غرغشہ۔ نام ایک قسم کے چمڑے کا سواے کیمخت کے اور نام ایک قسم کے پیالے کا۔

غرقد۔ ایک درخت کا نام ہے جسکے پتے اور پھل خضاب میں کار آمد ہیں۔

غرود۔ غریدہ۔ وہ لڑکی جو باکرہ ظاہر کرکے شوہر کو دیجاوے اور حقیقت میں وہ باکرہ نہو۔

غرر۔ بفتح اول و دوم روشنائی اور دھوکا شرط جو بیع کے وقت بائع اور مشتری میں ہو اور بیع غائب چیز کی جو بائع کے قبضے میں نہو یا چڑیا مچھلی کی پانی میں اور بیع درختوں کے میوہ کی قبل میوہ لگنے کے وغیرہ وغیرہ۔

غرر۔ بضم اول و فتح ثانی سپیدیاں اور پیشانیاں اور خوبیاں ہر چیز کی اور قوم کے سردار اور جمع غرہ یعنی عمدہ اور روشن ہوئی۔

غرغرہ۔ بفتح ہر دو غین و دو را حلق میں پانی پہنچانا یا کلی۔

غرار۔ بکسر اول کمی اور نقصان و نادانی تیزی تلوار کی و طریقہ و طور اور کم ہو جانا قیمت کسی چیز کا سست ہو جانا بازار کا۔

غرور۔ بضم اول و ثانی فریب دینا اور فریب میر خسرو۔ سنجر اگر خود [illegible] نوبت غرور [illegible] نوبت او بانگ دہل [illegible]

غرور۔ بفتح اول و ضم ثانی فریب دینے والا۔

غر۔ بکسر غین و تشدید را۔ وہ آدمی جو غافل و ناآزمودہ کار ہو۔

غر۔ بضم غین و تشدید را۔ بزرگ لوگ سردار و سفیدیاں پیشانی کی جمع غرہ کی۔

غمر۔ بفتح اول و سکون ثانی مرد بیدل و نامرد اور عورت فاحشہ بدکار۔

غدہ۔ بضم اول ایک بیماری کا نام جس سے ایک حصہ گوشت کا بڑا ہو جاتا ہے یا حلق میں گرہ پیدا ہوتی ہے۔

غرانیق۔ نیک سفید اور جوان لوگ جو نا آزمودہ کار ہوں جمع غرنیق اور جمع غرار بہت سے جوال یعنی گون جسمیں غلہ بھرتے ہیں اور بہت نقصان اور روشن اور طرزین اور تلوار کی تیزیاں اور تیزی اور تیر اور دھاریں اور سیاہ دین ہر چیز کی جمع غرار کی۔

غرس۔ بکسر سین مہملہ درخت لگانا اور لگایا ہوا درخت۔

غرش۔ [illegible]

غراش۔ [illegible]

غرماش۔ [illegible]

غرزا۔ [illegible] ایک [illegible] چولا ہون کا اوزار جس سے [illegible]

غرض۔ [illegible] دوست [illegible] رشک سپہران [illegible] غرض [illegible] گفتہ مدبران [illegible] غرض۔

غرفت۔ بضم اول و فتح ثانی جمع غرفہ بہت سے دریچے جو دیوار میں ہوں۔

غرق۔ بفتح اول و دوم مصدر پانی میں چلا جانا سر سے گذر جانا پانی کا نا مشہور و مستعمل بسکون راے ہے۔ کمال اسمٰعیل۔ تولی کہ چشمہ خورشید بار آگشت است ۔ ز شرم خاطر بایست غرق میان عرق۔

غرق۔ بفتح اول وکسر دوم غرق ہوا پانی میں ڈوبا ہوا۔

غریق۔ ڈوبا ہوا غرق ہوا۔ سعدی۔ کہ مرد ار چہ بر ساحل ست اے رفیق ۔ نیاساید و دوستانش غریق۔

غرقی۔ جمع غراق [illegible]

غرقاب۔ [illegible]

غرک۔ بروزن [illegible] شور و غوغا [illegible] سبب [illegible] میر نراقی [illegible] غرک [illegible]

غرواشنگ۔ رحائی [illegible]

غرپال۔ [illegible] چھلنی جس سے [illegible]

غرول۔ بزدل کم ہمت۔ [illegible] بزدل آدمی۔

غرم - بضم شین پہاڑی اور پہاڑی بکری اور میش جنگلی جو اپس مین
لڑا کرتے ہین اور عربی مین تاوان و جرمانہ - سعدی - پس از
غرم و آہو گرفتن نہ پنہ کلہ خوردی از گوسپندان حی ؂
غرم - بفتح اول قہر و خشم و غضب و غصہ -
غرام - حرص و عشق و شیفتگی و ہلاکت و عذاب -
غریم - تاوان زدہ -
غراب البین - جنگلی کوّا جو نہایت شوم و نامبارک گنا جاتا ہے
جس مکان پر بیٹھتا ہے اُس مکان والون مین تفرقہ پڑ جاتا ہے -
غرّان - گرجتا ہوا شور کرتا ہوا - نورالدین ظہوری - چو ہیبت
کند کار بر حرکہ تنگ ؂ در آید بدم لابہ غران پلنگ ؂
غرتان - [illegible] یعنی بھوکا -
غریوان - شور کرنے والا گرجنے والا - نظامی - بسا آسیا کو
غریوان بود ؂ چو بشنید گردد در دیوان بود ؂
غرو - واو کے ساتھ وہ نے جس سے قلم بناتے ہین -
غریو - بکسر تین شور و غوغا - ملا عبد اللہ ہاتفی - وزان بین جیلے
سیہ آن خدیو ؂ کہ از بیم شان دیو کرد ی غریو ؂
غرفہ - بفتح اول ایک دفعہ اٹھانا پانی کا دونون ہاتھون سے -
غرفہ - بضم اول ایک ہاتھ سے پانی اٹھانا -
غرفہ - مقدار ایک مٹھی کا اور بالاخانہ جو گھر کے ایک گوشہ پر ہو
اور دریچہ یعنی کھڑکی جو ہوا کے واسطے رکھی ہو -
غرقہ - غرق شدہ ڈوبا ہوا - عبد الغنی قبول - رہ نبردم نہان خانہ
معنی از لفظ ؂ غرقہ جہل مرکب ؂ قادر چون قلم ؂
غرچہ - [illegible] احمق نادان و زبون -
غراتیدن - نا آزمودہ کار ہونا - فریب کھانا -
غرغرہ - غرارہ - کلی کرنا منہ مین پانی بھرنا - ابو النصیر النصیر بدخشانی
لیے انکہ چو چشم شراب عشق تراہہ ؂ باب زمزم کوثر دو صد غرارہ کنم - حافظ
اگر بہ گیسے بر بانم حدیث توبہ رود ؂ زبیم طاعتی آنرا ہی غرارہ کنم ؂
غرہ - گھوڑے کی پیشانی کی سپیدی درم سے زیادہ قوم کا سردار سب سے
اچھا اور پہلا دن ہر ایک مہینے کا - ظہوری - خریدہ در سپہر کام
فصل فیروزان ؂ [illegible] وار سپہر شام غرہ شوال ؂
غرہ - بفتح اول و تشدید را لے فریفتہ ہونا غرور کرنا - مغرور ہونا -
فردوسی - مشو غرہ زاب سیرای خویش ؂ کہ گھوارہ بر جا نگہ پاے خویش ؂
غرہ - بکسر اول فریفتگی و جنون -

غرزہ - بدال مہملہ بروزن گردون یعنی گاڑھی لکڑی کی -
غرشندہ - غضبناک غصہ کی حالت مین -
غرشنگ - وہ لکڑی جو قلندر ہاتھ مین رکھتے ہین -
غرواشہ - قہر و غضب و خشم -
غروبہ - بہ باے موحدہ شور و فریاد -
غریزی - طبعی اصلی -
غریبی - مسافری - جلا وطنی -

غین با زاے معجمہ

غزا - دین کے دشمن کے ساتھ جنگ کرنا - مؤلف - غزا بالنفس
کن اے مرد غازی ؂ بکش این دشمن دنیا و دین را ؂
غزغا - ایک قسم گاے کی ہے جو خطا و ختن کے جنگلون مین پیدا ہوتی ہے
رومی زبان مین اسکو قطاس کہتے ہین بعض کے نزدیک یہ نام دریائی گاے کا ہے
غزب - انگور کے دانے جو خوشے سے نکلکر گر جائین اور تخم جو انگور کے
اندر سے نکلتا ہے اور خوشہ کھجور کا -
غزات - جمع غازی بہت سے لڑنے والے -
غزوات - جمع غزوہ بہت سی لڑائیان -
غزارہ - زیادہ ہونا شیرے کا میوہ مین -
غزار - دیوار جو کسی مکان کے گرداگرد ہو -
غز - تاتار ترکون کی ایک قوم کا نام ہے جو کہ کابج اور کات مین
رہتے تھے سلطان سنجر سلجوقی کے وقت اس قوم نے وہ غلبہ حاصل
کیا کہ تمام خراسان پر قابض ہو گئے شہرون کے شہر لوٹ لیے سلطان سنجر کو
پکڑ کر انھون نے پنجرے مین ڈالدیا آخر دستور اعظم خواجہ ضیاء الدین
بہت سے لشکر کے ساتھ انکے مقابل ہوا انکو شکست دیکر کابج اور
کات دونون شہر غارت کیے اور انکو نیست و نابود کیا - انوری - آخر
ای خاک خراسان داد یزدت نجات ؂ از بلای غز و غزو لشکر کابج و کات ؂
غزش - بیٹھ بیٹھ کر چلنا جسطرح شل چلتے ہین -
غزنک - وہ گھانس جس سے سینکی بناتے ہین -
غزک - سارنگی بجانے کا کمانچہ -
غزال - آہو یعنی ہرن اور نام ایک گانون کا توابع طوس سے جسمین امام
محمد بن محمد غزالی سکونت پذیر تھے حجۃ الاسلام انکا خطاب تھا -
غزل - عورتون سے عشق کی باتین کرنا اور شعرا کے نزدیک کلام
موزون با قافیہ و ردیف جو بارہ بیت سے زیادہ نہو - حافظ - غزل گفتی و در
سفتی بیا و خوش بخوان حافظ ؂ کہ بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را ؂

غژم - دانہ انگور کا جو پختہ اور تازہ ہو-
غزنین - مشہور شہر تختگاہ سلطان محمود بن سبکتگین انار اللہ برہانہ-
غزغان - بڑی دیگ کھانا پکانے کی-
غژگاو - وہ گائے جسکے دم کا چتر چم علم اور چنور بناتے ہین خطا و ختن کے جنگلون مین ہوتی ہے ہند مین اسکو سری گائے کہتے ہین-
غزالہ - بفتح اول ہرن کا بچہ جو مادہ ہو- محمود - اے داغ بر دل از غم خال تو لالہ را نہ شرمندہ ساخت آہوے چشمت غزالہ را ؎
غزوہ - مومنون کی لڑائی کفار کے ساتھ اسلام کے واسطے-
غزالی - منسوب بغزال غزال کا رہنے والا چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
غزنوی - غزنین کا رہنے والا چنانچہ سلطان محمد غزنوی-

غین با سین

غسلج - ایک جڑی جسکو شیراز مین چوبک اشنان کہتے ہین-
غسق - تاریکی پہلی رات کی-
غساق - لوہو ریم و زرد آب جو زخم سے نکلتا ہے-
غسکش - ایک جانور کو چاک بے استخوان ہے جو اکثر چارپایون پر ہوتا ہے مین پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی کا خون چوستا ہے ہندی مین اسکو کٹھل کہتے ہین
غساک - عشقہ اور عشق پیچہ جو ایک مشہور بیل ہے جس درخت پر چڑھ جاتی ہے اسکو خشک کر دیتی ہے-
غسل - بفتح اول نام ایک پھول کا ہے جسکو خطمی کہتے ہین سرخ اسکی و سرخ نیم رنگ اور سفید اسکا پھول ہوتا ہے ادویات مین مستعمل ہے-
غسل - بضم اول و دوم نہانا تمام بدن کو دھونا مگر نظم مین بسکون دوم بھی مستعمل ہے بفتح اول بھی صحیح ہے- میر خسرو - غسل داد ندش از گلاب و عبیر ؎ تازہ کردند کسوتے چو حریر ؎
غسل - بفتح اول دھونا ہر ایک چیز کا-
غسل - بکسر اول وہ پانی جس سے کوئی چیز دھوئین-
غسلین - وہ پانی جس سے کوئی زخم دھوئین اور نام ایک حوض کا دوزخ مین جو ریم و خون و آلودگیان اور کثافتین دوزخیون کی زمین جمع ہوتی رہینگی-
غسالہ - بضم اول و فتح ثانی وہ پانی جس سے ہاتھ منہ دھو یا جائے اور بعد دھونے کے اسکو پھینک دیا جائے-
غسالہ - مرد و شوعورت غسال - مرد و شو مرد-
غسلخانہ - حمام جسمین لوگ نہاتے ہین-

غین با شین

غشا - بکسر اول پوشش و پردہ و غلاف اور باریک جھلی جو جلد کے نیچے ہوتی ہے
غش - بکسر اول و تشدید شین کدورت اور میلا پن-
غش - بفتح اول ظاہر کرنا خلاف اس ارادہ کے جو دل مین ہو- خیانت کرنا - ملا دینا مس وغیرہ کم قیمت دھات کا سونا اور چاندی مین اور آمیزش کرنا کستوری اور شراب وغیرہ قیمتی چیزون مین کم قیمت اشیا بالطبع انفعالی اور بیہوشی و تشویش۔ شفیع اثر - شب ز دنیا و از آسمان شورش میکند ؎ تا ز ری پی غش بہ تش سید یہی غش میکنا ؎ نہ اچہ سلطان زان شراب بیغش وہ کہ از روے صوفی صافی ہوئے چہرہ غش میکند ؎
غشاک - بفتح اول و دوم گندہ اور ناخوش بو جو کسی کے منہ سے آئے-
غشیان - بکسر اول جماع کرنا - مباشرت کرنا -
غشیان - بفتحتین بیہوش ہونا-
غشاوہ - بکسر اول پردہ جو چہرہ یا آنکھون پر پڑا ہو-
غشغشہ - بکسر اول جنگلی بانس کی پتی-
غشتہ - مخفف آغشتہ ملا ہوا-
غشی - بیہوش ہونا اور بیہوش کرنا اور جماع کرنا -

غین با صاد مہملہ

غصب - بفتح اول زبردستی چھین لینا کسی چیز کا کسی سے ناحق دبا لینا یوسف - غصب مال دیگران تا کے کنی ؎ این ستم بر بیکسان تا کے کنی -
غصص - بضم اول و فتح ثانی جمع غصہ کی-
غصن - بضم اول درخت کی شاخ-
غصون - درخت کی شاخین-
غصہ - غضب و قہر و غم و الم - صدر فوقانی - بست ہیچ و سا ولیل و نہار ؎ در غم و غصہ مرد دنیادار ؎

غین با ضاد معجمہ

غضوب - نہایت غضبناک اور غصہ کی حالت مین-
غضب - خشم و قہر و غصہ - سعدی - غضب بستہ در خون درویش داشت ؎ ولیکن سکون دست در پیش داشت ؎
غضات - بروزن حیات جنگلی درخت ہیر اور جھنڈ وغیرہ جسکی لکڑی کی آگ دیر تک رہے جمع غضا کی-
غضنفر - شیر درندہ جنگل کا شیر شعر حرف فا مجملہ سی حرفی مدحیہ علی المرتضی - ف فقیہہ و فاضل و فلاح و فیاض و فقیر ؎ فارق و فضال و فتاح و غضنفر فسر علی ست ؎

غضروف - نرم ہڈی جسکو آدمی چاب سکتا ہو جیسے کہ شانہ مین ہے -
غضاریف - بہت سی نرم ہڈیان -
غضن - آنکھ نیچی کرنا - آواز کم کرنا - تحمل کرنا - ظلم اُٹھانا - نقصان اپنے سر پر لینا -
غضبان و غضبناک - صاحب غضب قہر آلود - منجنیق - نظامی -
بخ سنگ و غضبان خرابش کنند ✤ ز سیلاب خون غرق آتش کنند ✤ مؤلف
چرا از عقل خود بیگانہ گردد ✤ بہنگام غضب مرد غضبناک ✤
غضائری - تخلص ایک شاعر کا جو مداح سلطان محمود غزنوی کا تھا -

غین با طاء مہملہ

غطا - پردہ و پوشش -
غطیط - خر خر کی آواز جو آدمیون کے گلے سے بحالت خواب نکلتی ہے -
غطریف - مہتر و شریف وجوانمرد - بہادر - دلاور -

غین با فاے

غفلت - غافل ہونا بے خبر ہونا - توحید - نہ عزت در جہان ماند نہ ذلت ✤ نہ این کثرت بود باقی نہ قلت ✤ نہ این جہل و نہ این جاہل بماند درین دنیا نہ این غافل نہ غفلت ✤ بیا لا خانۂ دولت مکن تا ز ✤ کہ گردد غارت آخر این عمارت ✤
غفج - عمیق گڈھا مثل قبر و آبگیر یا لاب و تلوار اور لوہا رون کی اہرن اور ہر ایک چیز جو سیدھی اور سطبر ہو -
غفر - عیب چھپانا - گناہ بخشنا اور نام پندرھوین منزل کا منازل قمر سے اور جماعت و گروہ -
غفیر - بروزن فقیر بہت و جماعت و گروہ لو چھپانے والا و بخشنے والا -
غفار - بخشنے والا عیب چھپانے والا یہ نام حضرت باری تعالے کا ہے سواے خداے تعالے کے اور کسی کو غفار نہین کہہ سکتے - توحید - نمود چہرۂ روشن بہر طرف دلدار ✤ گہے زخانہ گہ از کوچہ گہ از بازار ✤ زہے رحیم و زہے راحم و زہے غفار ✤ زہے شفیق و زہے مشفق و زہے ستار ✤ چسان ز دیدہ بود حسن صورتش پنہان ✤ کہ نقش دست نوشتہ بہر در و دیوار ✤
غفور - بخشنے والا یہ نام اسماے گرامی ذات باری تعالی سے ہے - توحید - ظہور کرد چو در خاک ذات رب غفور ✤ چو خور بمطلع اینجا گشت روشن نور ✤ گہے بدام ظہورش نمود گہ در دور ✤ گہے بکار نمود ار شد گہی در مور ✤ شناخت ذات خداوند پاک را عارف ✤ گہے ز جن و گہے از بشر گہے از حور ✤
غفص - فربہ و سطبر یعنی لک اور موٹا -
غفران - آمرزش و بخشش -
غفقر - برہ کی پوستین نہایت نرم -

غفدودہ - زندی زبان مین ہفتہ سات روز شنبہ سے جمعہ تک -
غفجی - جھیل یا لاب - گہری جگہ - تیز تلوار -

غین با لام

غلباء - بفتح اول وہ جگہ جسکے درخت آپس مین ملے ہوے ہون -
غلاء - قحط ہونا - گران ہونا غلہ کا -
غلوفیریا - بیخ مہک جسکو اصل السوس کہتے ہین ہندی مین ملہٹی -
غلقا - ایک زہریلی گھاس ہے اسکے پتون سے دودھ نکلتا ہے اسکے پانی سے اگر تلوار کو آب دین تو اسکا زخمی کبھی اچھا نہین ہوتا -
غلات - حد سے گذرنے والے لوگ -
غلبات - بفتحات جمع غلبہ -
غلنج - بکسر اول دوہری گانٹھ اور وہ سخت گرہ جو ہاتھ سے نہ کھل سکے -
غلغلیچ - بکسر اول گدگدی کرنا بغلون مین - انگلیان ہلا کر کسی کو ہنسانا -
غلغلاج - کسی چیز کو نہایت زور اور قوت سے ہوا مین پھینکنا -
غلیچ - زندی زبان مین زلو یعنی جونک جو ایک آبی کیڑا سیاہ ہوتا ہے اور آدمی کا خون چوستا ہے -
غلبیر - بکسر و فتح اول غربال یعنی چھلنی جس سے آٹا چھانتے ہین -
غلیغر - غلیگر - معمار و نقاش و گلکار -
غلیواز - غلیواج - چیل جو مشہور پرندہ ہے ایک سال مادہ اور ایک سال نر رہتا ہے زغن بھی اسکو کہتے ہین -
غلس - تاریکی آخر شب - اندھیرا پچھلی رات کا -
غلط - خطا کرنا - بھول جانا - چوک جانا - سعدی - کرم خواندہ ام سیرت سروران ✤ غلط گردم اخلاق پیغمبران ✤ میر خسرو - بروت خواہم الحمدی بخواہم ✤ غلط ترسم کہ در بسم اللہ افتد -
غلاظ - بضم اول سطبر و درشت سخت اور گاڑھا -
غلاظ - بکسر اول غلیظ -
غلیظ - سطبر اور درشت مقابلے رقیق کے -
غلظ - موٹاپن اور سختی - گاڑھاپن -
غلاف - اوپر کا پردہ خول - سعدی - چو در لشکر دشمن افتد خلاف ✤ تو بگذار شمشیر خود در غلاف ✤
غلق - بفتح اول دروازہ بند کرنا -
غلق - بفتح اول و دوم وہ لکڑی جو دروازے کے پیچھے لگی ہوتی ہے اور اُس سے دروازہ بند کرتے ہین -
غلطاک - لڑھکنا ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر پھرنا اور جوڑی

گاڑی کی بھینکے ذریعہ سے گاڑی چلتی ہے۔ ظہوری۔ در جہانگیر ہیت
بتو پیکشی ٭ ماہ و خورشید غلاک گردون۔

غلاث ۔ ایک کوزہ ہوتا ہے مٹی کا یا برنجی اُسکے منہ پر چمڑا باندھا ہوا ہوتا ہے اُسمین سوراخ ہوتا ہے محصولیون کے پاس وہ رکھا رہتا ہے جو روپیہ پیسہ محصول کا آتا ہے اُسمین ڈال دیتے ہین بعض مجاور مزارات پر وہ غلاک سا رکھتے ہین اور نذر کی آمدنی اُسمین ڈال دیتے ہین۔ قمارخانہ مین بھی غلاک رکھا جاتا ہے۔

غلول ۔ خیانت کرنا غنیمت کے مال مین اور پانی چلتا ہوا درختون کے بیچ اور وہ کھانا جو ضعیف اور ناتوان آدمی کے پیٹ مین جلدی ہضم ہو جائے۔

غُل ۔ بضم اول وہ لوہے کا طوق جو مجرم کے گلے مین ڈالتے ہین اور تشنگی یعنی پیاس۔

غِل ۔ بکسر اول کینہ و خیانت و کدورت۔

غلیل ۔ تشنگی و تشنہ ۔ پیاس اور پیاسا اور کینہ جو دل مین ہے۔

غَلَل ۔ بفتح ہر دو تشنگی و سوزش۔

غُلُل ۔ بضم ہر دو بہت سے پیاسے جمع غلیل۔

غُلغُل ۔ غلغلہ بضم ہر دو غین شور و غوغا ۔ ملا طغرا بہارست از شوق ہر بلبلے ٭ بشاخ طرب بسمیزند تلقلے ٭ میر خسرو ۔ و لولہ در عالم بالا فتاد ٭ غلغلہ در گنبد والا فتاد ٭

غلام ۔ لڑکا بچہ اور خدمتگار ۔ زرخرید یا بردہ ۔ خواجہ حسن محمود غزنوی کہ ہزاران غلام داشت ٭ عشقش چنان گرفت غلام غلام شد در واشقی بمیر حسن ناشوی تمام ٭ شنیدہ ہر انکہ بمیر دتمام مشد۔

غلیان ۔ جوش مارنا اور جوش دیگ وغیرہ ۔ حقہ جسپر چلم رکھ کر تمباکو پیتے ہین ۔ محسن پر زدست خویش چون غلیان کدورت میکشم ٭ ہمدمی کو تا زخود دود دے در خالی کنم ٭ طاہر وحید ۔ چہ گویم ز قلیان و غلیان و جوش ٭ کز و ہیچو غلیان دلم رست جوش۔

غِلمان ۔ بکسر اول جمع غلام مگر اہل فارس اسکو مفرد استعمال کرتے ہین ۔ صائب ۔ آنجاکہ ساعد تو برآید ز آستین ٭ غلمان رود ز دست گزد حور پشت دست ٭

غلتبان ۔ نام ایک پتھر کا ہے جو گول اور لمبا ہوتا ہے اور مردے حمیت و بے غیرت دیوث جسکو اپنی عورت کی غیرت نہو اور عین کو قاف کے ساتھ بدلکر قلتبان بھی کہتے ہین ۔ سعدی ۔ خور از کوہ یک روز سر برنزد ٭ کہ آن قلتبان حلقہ بر در نزد ٭

غلبکن ۔ پنجرہ اور جالی جو دریچہ مین بنتے ہین اور اُسکے سوراخ سے باہر نظر جا سکتی ہو۔

غَلیَجن ۔ پودینہ جو ایک خوشبودار سبزہ ہے اور عربی مین اسکو نعناع کہتے ہین۔

غلیزق ۔ وہ کیچڑ اور میل جو حوضون اور تالابون کی تہ مین بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔

غلیوک ۔ نام ایک کوشک کا چین مین۔

غلطان ۔ لڑھکتا ہوا گول یہ لفظ اکثر مروارید کی تعریف مین بولتے ہین۔

غُلو ۔ بضم اول و دوم اصرار و ضد اور حد سے گذرنا کسی امر کی تلاش مین اور مبالغہ جو حد سے زیادہ ہو ۔ مسیح کاشی ۔ ہر صباح از غلو گریہ شوق ٭ مردہ بر روے آب مے آیم ٭ مردہ ام از ہجوم غصہ ولے ٭ زندگان را بخواب مے آیم ٭

غلیو ۔ حماقت و نادانی۔

غِلالہ ۔ بکسر اول نیم تنہ یا صدری جو قبا کے نیچے پہنیں۔

غُلالہ ۔ بضم اول معشوق کی زلف۔

غلابہ ۔ زبردستی و زور آوری۔

غلولہ ۔ جوش و ہجوم۔

غَلمہ ۔ بفتح اول شہوت کی تیزی۔

غلمہ ۔ جمع غلام بہت سے غلام۔

غلیچہ ۔ روشنائی یعنی جاٹ اور رند و اوباش۔

غلغونہ ۔ بضم ہر دو غین گلگونہ جو خوبصورت لوگ چہرے پر ملتے ہین۔

غَلّہ ۔ بفتح ہر قسم کا اناج گیہون چنا وغیرہ۔

غُلّہ ۔ بضم اول چھوٹا کوزہ اور آفتابہ کی ٹوٹی اور تشنگی یعنی پیاس۔

غین با میم

غمرات ۔ بہت سی سختیان اور انبوہ ہین۔

غِمد ۔ بکسر اول تلوار اور چھری کا میان۔

غَمر ۔ بفتح اول بہت سا پانی اور کینہ کرنا اور پیاسا ہونا و جوانمرد و سخی۔

غِمر ۔ بکسر اول کینہ اور تشنگی۔

غُمر ۔ نادان و ناآزمودہ کار و احمق بیوقوف۔

غمار ۔ بضم اول و فتح اول انبوہ و کثرت۔

غمگسار ۔ غمخوار ۔ دوست غم کھانے والا۔

غمز ۔ بفتح اول اشارہ کرنا آنکھ سے سخت نچوڑنا تہمت کرنا سخن چینی کرنا۔

غماز ۔ سخن چین آنکھ سے اشارے کرنے والا ۔ طعنہ مارنے والا ۔ عیب ظاہر کرنے والا ۔ مولف ۔ نبخشد خداوند جل و علا ٭ سخن چین و نمام و غماز را ٭

غمص ۔ بفتح اول و دوم وہ میل سفید جو آنکھ سے نکلتا ہے۔

غموص ۔ نام ایک قلعہ کا خیبر کے قلعون سے۔

غمض - بفتح اول وضاد معجمہ زمین پست اور مغاک یعنی گڑھا اور پوشیدہ اور وہ بات جو کسی کی سمجھ مین نہ آسکے -
غموض - بضم اول سونا - غنودگی مین آنا -
غموض - باریکیان اور دقائق و نکات مشکل جو ہر ایک علم و فن مین ہون اور پوشیدہ باتین -
غمام - ابر یعنی بادل -
غمائم - بہت سے بادل -
غم - عربی مین بتشدید میم اور فارسی مین بتخفیف میم فکر اندیشہ اندوہ - سعدی - اگر گوئی غم دل باکسے گوے + کز اندیشش بنقد آسودہ گردی + صائب - غم دل میزداید چون صباح عید رخسارت ٭ غبار عید واجب میکند بر خلق دیدارت ٭
غمدان - غم کا مکان -
غمان - غمناک و اندوہگین اور غم و فکر - فرید الدین عطار - گفتم کہ از غمان تو آہے برآورم ٭ آن آہ در درون دہانم بسوختی ٭
غمزہ - ابرو اور آنکھ سے اشارہ کرنا معشوق کا - فیضی - چشم تو چون غمزہ نہانی کند ٭ سرمہ در ان چشم گرانی کند ٭
غمیہ - پانی کا پس خوردہ یعنی جرعہ جو باقی رہے -
غمکدہ - غم خانہ غم کا گھر -
غمی - اندوہ و غمناکی مقابل شادی کے - مؤلف - چو از ہر حال فارغبال باشی ٭ بشادی و غمی خوشحال باشی ٭

	عین با نون	

غنا - بکسر اول تونگری و دولتمندی و بے نیازی اور غنی ہونا - سعدی - یکے در غنا و یکے در غنا ٭ یکے در بقا و یکے در فنا ٭
غناء - بکسر اول اور اخیر ہمزہ نغمہ کرنا گانا - سرود کرنا -
غناء - بفتح اول و اخیر ہمزہ سود اور نفع اور فائدہ -
غناء - بفتح اول و نون مشدد اور آخر ہمزہ انبوہ کا مقام چنانچہ قریہ غناء وہ گانون جسمین بہت سے آدمی ہون اور روضہ غناء وہ باغ جسمین بہت سے درخت ہون - ع - زاندرون دیتا ہے درون ویرانہ ایست ٭ گو بظاہر روضہ غناست این ٭
غنیت - بضم اول و فتح یائے غنی ہونا - دولتمند ہونا - بے نیاز ہونا -
غنیمت - وہ مال جو کفار سے بعد جنگ حاصل ہو وہ مال جو مفت مل جائے - حافظ - غنیمت دان و می اخور در گلستان ٭ کہ گل تا ہفتہ دیگر نماند ٭

غنج - کرشمہ و ناز جو معشوق کرتے ہین -
غنجد - بضم اول پیچیدہ لپٹا ہوا - جمع ہوا ہو - اکٹھا ہوا ہو -
غنجار - غنجرہ - وہ گلگونہ جو خوبصورت لوگ چہرے پر ملتے ہین مولوی معنوی - چشش تو افتادہ بار بر رہ سودائی عشق ٭ ریختہ گلگونہ اش یادہ شدہ غنجرہ ٭ استاد فرخی - دود خمر و دود زلش را فروشید از بیل ٭ بچون لشکرا و داد خاک رہ غنجار بہ ٭
غنجرش - فرنگی زبان مین مینڈک جسکو فارسی مین غوک اور عربی مین ضفدع کہتے ہین -
غندباش - نام ایک غلے کا ہی جسکو لوبیا کہتے ہین -
غندش - روئی کا گالہ -
غنجاب - نام ایک ساز کا ہی جو گانے کے وقت بجایا جاتا ہے -
غنچال - ہر ایک میوہ جو ترش ہو -
غنم - بز و گوسپند یعنی بکری -
غنائم - جمع غنیمت بہت سے لوٹ کے مال -
غنیم - لوٹنے والا - لٹیرا - دشمن -
غنج - وہ لکڑی جو تیلی کے کولھو کے اندر رکھی ہوتی ہی اور تل وغیرہ اُسکے نیچے پستے اور تیل نکلتا ہے -
غنود - خواب یعنی نیند -
غنچہ - کلی یعنی وہ پھول جو ابھی کھلا ہوا نہو - میرزا بیدل - صبا تکمہ غنچہ وا می کند ٭ گریبان صبر ہم قبا میکند ٭
غنہ - وہ آواز جو ناک سے نکلے یعنی گانے کے وقت وہ آواز ناک سے نکالی جاوے -
غنبہ - غصہ اور خفگی کی آواز -
غندہ - روئی کا گالہ -
غنیشہ - شہد کی مکھی -
غنقیلی - رومی زبان مین شلغم جو مشہور ترکاری ہے -
غنی - دولتمند - مالدار - بے نیاز - سعدی - غنی گر نباشی مکن اضطراب ٭ کہ سلطان نخواہد خراج از خراب ٭

	غین با واو	

غوغا - جمعیت و ہجوم و انبوہ و بانگ و فریاد - سعدی - بشہرے در از شام غوغا فتاد ٭ گرفتند پیری مبارک نہاد ٭
غوریا - کچا انگور -
غوشا - ایک جانور جو پالون کے گوبر کی تھاپ کرخشک

کر لیتے ہین اور آگ مین جلاتے ہین
غوت - فلاخن جو چروا ہے لوگ اپنے پاس رکھتے ہین اور اس سے پتھر چلاتے ہین
غوشت - برہنہ مادرزاد بالکل ننگا جسکو عربی مین عورہ کہتے ہین -
غوایت - گمراہی -
غوث - فریاد رس اور فریاد اور ولی کامل جو صاحب تصرف ہو
مولف - غوث اعظم قطب عالم دستگیر + شاہ محی الدین ولی روشن ضمیر +
غوچ - میش نر بھیڈ وشا خدار جنگی -
غوشاد - ویرانہ جہان جن اور دیو رہتے ہون اور وہ میدان
جسمین قافلہ اترتا ہو اور وہ جگہ جسمین رات کو بکریان بٹھلائی جائین
غور - بفتح اول عربی مین عمق اور قعر اور گہراپن اور پست زمین اور
نیچے اترنا اور گھس جانا کسی جگہ مین -
غور - بضم اول اور واو مجہول نام ایک ملک کا عجم کے ملکون سے سعدی
شنیدستم از پادشاہان غور + یکے پادشہ خر گرفتی بزور + صائب -
در مقامیکہ غور باید کرد + قطرۂ بحر بیکرانے ست +
غوش - بضم اول اور واو مجہول برہنہ جسکے بدن پر کوئی کپڑا نہو
اور گوبر حیوانات کا اور وہ لکڑی جس سے خدنگ تیر بناتے ہین
اور کوتل گھوڑا جو سواری کے ساتھ جاتا ہے اور گوش یعنی کان -
غولتاش - خود یعنی لوہے کی ٹوپی جو سپاہی جنگ کے وقت
سر پر پہنتا ہے ترکی مین اسکو دولغہ کہتے ہین -
غوص - پانی مین غوطہ لگانا -
غواص - پانی مین غوطہ لگانے والا - توحید - محمد حضرت باری
بحر فکرت خویش + ہر اک گوہر مضمون بصورت غواص -
غوک - مینڈک مشہور آبی جانور ہے جسکو عربی مین ضفدع کہتے ہین -
غوک - معرب گوک گندہ و عمیق -
غوناک - وہ گھاس جس سے سجی بناتے ہین -
غوشاک - گوبر خشک چارپایون کا اور احاطہ بکریون کے رہنے کا -
غولک - چھوٹی قلھیا یعنی کوزہ -
غوائل - سختیان اور برائیان -
غول - بواو معروف ایک قسم دیو کا ہے جو ہر ایک صورت مین
اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے اور نام ایک ستارہ کا -
غول - بواو مجہول بہت سی سپاہ اور وہ سپاہ جسکا افسر میان ہو اور
گوش یعنی کان -
غوام - سر کے بال جو پیشانی پر پڑے ہوے ہون -

غولین - وہ گھڑا جسکا منھ چوڑا ہو -
غو - رعد کی گرج اور نقارے کی آواز اور ہر ایک آواز جو بلند اور مہیب ہو
غورہ - انگور جو خام یعنی کچا ہو -
غورہ - وہ غنچہ جو ابھی غلاف مین ہو - طغرا - دانہ پنبہ اگر
داغ مرا یاد کند + دشت پر از غنچہ جرس غورہ شود +
غوط - مشہور لفظ پانی مین جانا - طاہر وحید - شہد وصالش
چو بود در نظر + غوطہ زند مگس جان در شکر +
غوانی - جمع غانیہ وہ عورت جو اپنے خاوند سے خوش ہو اور بسبب
خوبصورتی زیور پہننے کی حاجت نرکھے -
غواشی - بہت سے زین پوش اور خیمہ کے پردے اور بیہوش کرنے والی
اور اندرونی بیماریان -
غوادی - وہ بادل جو صبح کو نمودار ہون جمع غادیہ -
غوچی - مغاک خرد چھوٹا سا گڑھا -
غوی - گمراہ - فاسق - فاجر -

غین با یا ے

غیب - جو چیز آنکھ کے روبرو نہو پوشیدہ امر چھپی بات - سعدی -
نیست کس واقف ز علم غیب جز پروردگار + آنکہ او گوید کہ من دانم
ازو باور مدار + سعدی - ہرگز نگفتی تا نگفتی جبرئیل + جبرئیل
ہرگز نگفتی تا نگفتی کردگار +
غیبت - پیٹھ پیچھے کسی کے حق مین برا بولنا اور وہ تقریر سچ ہو یا جھوٹ
فرید الدین عطار - روز بان از غیبت مردم ببند + تا از غیبت تہی گردی بکار +
غیرت - رشک لیجانا - دیکھ نہ سکنا کسی مکروہ امر کو - شاہ شرف -
غیرت از چشم برم روے تو دیدن ندہم + گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندہم +
غیابت - غائب ہونا اور وہ چیز کسی کو چھپالے عمق یعنی گہراپن -
غیبوبت - غائب ہونا - ناپدید ہونا -
غیث - بادل اور باران جو برستا ہے -
غیاث - فریاد رسی اور فریاد رس - سعدی - بندہ ام یا بند حرص و آز
غفلت الغیاث + بیکسم درماندہ در زندان حیرت الغیاث + وقت لطف است
اندرین موقع بحال ما الٰہی لطیف + موقع امداد و افضال و اعانت الغیاث +
غیار - زرد کپڑا جو یہودی بطور نشان کے اپنے پاس رکھتے ہین -
غیور - بروزن غفور صاحب غیرت بہت غیرت والا -
غیر - بکسر اول ایک قسم کی پھنسیان ہین جو بدن پر نکلتی ہین -
غیر - بفتح اول وہ شخص جو اپنا نہو - مؤلف - جو حق روبرو حاضر

ناظرست ٭ چہ حاجت کہ مشغول گردی بغیر ٭
غِشِیش ـ بکسر اول ہر ایک چیز جو کثرت سے ہو۔
غَیض ـ بفتح اول تھوڑا پانی اور تھوڑی بخشش و جنگل و ویرانہ بکسر اول شگوفہ۔
غَیظ ـ بفتح اول خشم و غضب و قہر اور وہ غصہ جو دل میں ہو۔
غَیناق ـ نام ایک بستی کا ترکستان میں۔
غَیلاق ـ نام ایک موضع کا دشت قبچاق میں۔
غِیل ـ بکسر اول جنگل اور ویرانے۔
غَیل ـ بفتح اول وہ دودھ جو عورت بعد جماع کے بچے کو دیوے یا بحالت حمل کے کہ وہ بچے کے واسطے مقرر ہوتا ہے۔
غَیم ـ بفتح اول وہ بادل جو آسمان کو چھپالے
غُیوم جمع غیم بہت سے بادل اور ابر مردہ جسکو اسفنج کہتے ہیں۔
غَیلان ـ تخلص ایک شاعر کا اور جمع غول کی۔
غَین ـ بادل جو محیط آسمان ہو اور تشنگی اور تیرگی و بلبل جو ایک جانور ہے باعتبار اس بات کے کہ اسکو ہزار داستان کہتے ہیں اور حرف غین کے عدد ہزار ہیں اور نام ایک حرف کا حروف تہجی سے۔
غَیضَہ ـ بیشہ جنگل۔
غَیبَہ ـ ترکش تیروں کا اور روئی دھنی ہوئی۔
غَیثَہ ـ فریاد و صدا و آواز بلند۔
غیداقی ـ ایک قسم تیر کا ہے نہایت سخت جو پتھر کو توڑ دیتا ہے غیداق جو ایک شہر ترکستان میں اسمیں بنتا ہے۔

دوسری فصل

اردو لغات کے بیان میں

واضح ہو کہ اردو لغات میں سے کوئی لغت لائق تحریر اس فصل کے نہیں ملا اور جو دستج نفائس اللغات وغیرہ ہیں وہ عربی و فارسی مستعمل باردو ہیں جو اس کتاب کے پہلی فصل میں تحریر ہو چکے اب دوبارہ انکا لکھنا فضول متصور ہو کر ترک ہوا۔

تیسری فصل

فارسی اصطلاحات و محاورات کے بیان میں

غین با الف

غارتگر ـ لوٹنے والا ـ قزاق ـ رہزن ـ چور ـ ظالم ـ ستمگار ـ سالک یزدی ـ صبا و گلفروش و غارتگر چمن ٭ این یک [illegible] نفس بدوش ٭
غاشیہ بافان ریش ـ ڈاڑھی بڑھا کر رکھنے والے [illegible] لوگ۔
غازہ کردن ـ روئی سے دانہ نکالنا کاتنے کے لائق کرنا ـ پشم کو درست کرنا جس سے وہ کاتنے کے لائق ہو جائے۔
غاشیہ در زیر بغل کشیدن ـ غاشیہ بر دوش کشیدن ـ اطاعت و فرمانبرداری کرنا ـ میر معزی ـ حاتش لعد اگر زندہ شود حاتم طی ٭ پیش اسپ تو کشد غاشیہ در زیر بغل ٭ انوری ـ ہر کجا غاشیہ شہی امر تو بر بندد ٭ باز بر دوش کشد غاشیہ کبک و حمام ٭
غارتیدن ـ لوٹنا ـ غارت کرنا ـ نظامی ـ جہودے کسی را ز راز ندو کرد ٭ و زکان غارتیدن بدان سود کرد ٭
غالیدن ـ غلطیدن و غلطانیدن ـ لڑھکنا اور لڑھکانا۔
غارتخوردہ ـ غارت کا مال کھائے ہوئے یا لٹا ہوا ـ طاہر وحید ـ چیست دانی عقل نادان آتش افسردہ ٭ چیست دانی فہم جاہل دزد غارتخوردہ ٭
غارت زدہ ـ جو لٹ چکا ہو ـ میرزا صائب ـ یوسف از قافلۂ حسن تو غارت زدہ ایست ٭ کیسۂ مرد ز خوبان بسر انجام تو نیست ٭
غارتگاہ ـ لوٹ کا مقام ـ میرزا محمد زمان راسخ ـ رو بیم از خویش تا غارت گہ داد ٭ بدر گاہش بے فریاد فریاد ٭

غین با بے

غبن فاحش ـ صریح خسارہ اور بہت نقصان۔
غبار آوردن چشم ـ خیرہ ہونا آنکھوں کا ـ کم نظر ہونا ـ تاریک ہونا ـ محمد سعید اشرف ـ دیدۂ آئینہ پنداری غبار آلودہ است ٭ بسکہ در کوہ خجالت در حجاب روے اوست ٭
غبار یتیمی ـ وہ کدورت جو بسبب یتیمی کے یتیم کے چہرے پر آجاتی ہے ـ صائب ـ از گوہرش غبار یتیمی نمیرود ٭ آنرا کہ چون صدف لب خواہش فراز شد ٭

غین با رے

غرضمند ـ حاجتمند ـ خواہشمند ـ باقر کاشی ـ عاشق نکند بالحتی ٭ کس عقل نجوید از غرضمند ٭
غریدن کوس ـ نقارہ بجنا ـ نظامی ـ بغول سیہ بانگ بر زد خروس ٭ درآمد بغریدن آواز کوس ٭
غربال کردن ـ کسی امر میں بہت سی جستجو اور تلاش کرنا ـ میرزا صائب ـ گر کند غربال صد رہ دور گردون خاک را ٭ نیست ممکن ہیچ من بیجا اصلی پیدا شود ٭
غریدن ـ گرجنا بادل یا شیر درندہ و پلنگ و نقارہ وغیرہ کا۔
غرپیدن ـ شور و فریاد کرنا۔
غربت زدہ ـ غربت دیدہ ـ مسافر وطن سے نکلا ہوا ـ صائب ـ رنگ و پردۂ بینائی بلبل شدہ است ٭ یک نفس شبنم غربت زدہ مہمان گل ست ٭

ورنہ جامی عنبر راکفن لی عزت تو اندگرفت ٭ شام غربت دیدہ را صبح وطن خمیازہ ایست ٭

غریب زادہ - لولی زادہ حرام زادہ - کسی مسافر رستے چلتے کا تخم - کسبن عورت کا لڑکا - شفیع اثر - ترانہ کہ زشوخی ندیم محفلہاست ٭ غریب زادۂ ہند و نژاد خامۂ ماست ٭ علی قلی اعظم - ہمچون بیاض چشم سیاہان خوش نگاہ ٭ ہندار غریب زادۂ ایران سفید دست ٭

غرہ بودن بر چیزے - کسی چیز پر مغرور رہونا - ۵ - اہی مباش غرہ فسان و فسوس را ٭ ہر گزندان تو زہر گیا اصل سوس را ٭

غین با زاے معجمہ

غزل پرداز - شاعر - غزل لکھنے والا - عرفی - غزل پردازم انیک از دو بیت جو دو مصرع را ٭ کنم مطلع کہ حسن آفتاب از فرقدان بینی -

غزل باف - شاعر غزل لکھنے والا - شفیع اثر - کمال تازہ خیالی ست غزل بافی ٭ کہ شاعرست بہر دہ زیادہ از نساج ٭

غزلخوان - غزل پڑھنے والا - گانے والا - حافظ - زلف آشفتہ و خوے کردہ و خندان لب و مست ٭ پیرہن چاک و غزلخوان و صراحی در دست ٭

غژیدن - بیٹھ بیٹھ کر چلنا تنگ ہوکر بیٹھنا - ایک دوسرے پر چڑھ کر بیٹھنا ٭ بمعنی خزیدن یعنی گھس جانا -

غزل گوئی - غزل لکھنے والا شاعر اور گانے والا - میر معزی - گرنہ بیدل گشت بلبل چون کند چندین خروش ٭ ورنہ عاشق گشت قمری چون کند چندین فغان ٭ بوستان اکنون چو بزم خسروان آراستہ ٭ زنار را و بلبل غزل گوئی ست و قمری مدح خوان ٭

غزل سرائی - نغمہ وسرود یعنی گانا ٭ مؤلف - گل ست جلوہ نما تا بکے در مین گلزار ٭ غزل سرائی بلبل بوستان تا کے ٭

غین با فاے

غفلت کار - غافل و بے خبر اور زنجان - حجی بیگم - حذر امی فلان جاہل وار ٭ حذر رای جاہلان غفلت کار ٭

غفلت زدہ - نہایت غافل و بے خبر - شانی تکلو - اشک حسرت کماں انباشتہ در چشم امید ٭ بخت غفلت زدہ در خواب گران ست ہنوز ٭

غین با لام

غلطیدن آسیا - پھرنا اور چلنا چکی کا - محسن تاثیر - یا کام ترزہ چشمہ بستہ نکردہ ایم ٭ غلطیدہ آب خود چو گہر آسیاست ٭

غلطیدن دیوار - گرجانا مسمار ہونا دیوار کا - صائب - نہ خون واختہ دیوار بوستان غلطید ٭ زجای خویشتن آن سرو پایدار نرفت ٭

غلط انداز - جو شخص نشانہ پر تیر نہ لگائے چپ انداز بھی اسکو کہتے ہین - درویش والہ ہروی - وز باغ سوے خانۂ بلبل شمعہ بار انداختت زپا این ہمہ حرکات غلط انداز ٭ میرزا جلال اسیر - ناز دنیا ہر دو کماندار حیرت اند ٭ تیر نظارہ پر غلط انداز میشود ٭

غلام گردش - وہ جگہ جہان شاہی محل کے باہر چوکیدار پہرہ دیتے ہین نوکرون کے پھرنے کا مقام - محمد سعید اشرف - کیوان غلام بارگہ کبریائی تست ٭ گردون غلام گردش دولت سرائی تست ٭

غلام فلکم - یعنی مین آسمان کا محکوم ہون جو میرے ستارے کی گردش وقوع مین آئیگا ہو جائیگا - نورالدین ظہوری - ہست می خون دل و جام فلکم ٭ سر تسلیم نگر بکام فلکم ٭ در ساختہ ام بخواجہ تاشی غیرہ تا سازی او ببین غلام فلکم ٭

غلاف نشین - جو چیز غلاف یعنی پردے مین ہو - ناصر علی - بے نور شد چراغ دل از ظلمت وجود ٭ این خنجر غلاف نشین زرق رنگ بود ٭

غلط بین - جسکو صحت کی طرف خیال نہو - صائب - جامی رحم ست بران چشم غلط بین کہ جہل ٭ خوابہا بیند و بیدار نماید خود را ٭

غلط دادن - کسی شخص کو مغالطہ مین ڈالنا - دھوکا دینا - حافظ - چو گل گر خوردہ داری خدا را صرف عشرت کن ٭ کہ قارون را غلطہا داد سودائی زر اندوزی ٭

غلطیدن - لپٹ جانا پھیل جانا - گرجانا - طاہر وحید - نہان در غبار دل گشت دریا ٭ چو اشکے کہ بر خاک غلطیدہ باشد ٭

غلط و واغلط زدن - غلطیدن دو غلطیدن - بیقراری کی حالت مین لوٹنا - ادھر کا ادھر پہلو بدلنا - محمد اسلم سالم - شب جہاد بزم مے غلطیدہ و غلطیدہ شیخ ٭ زورد مسجد چہ با تمکین نشستہ و نشست ٭ طاہر وحید کبابی کی تعریف مین - بر آتش گذارم چو پہلو بخواب ٭ زنم غلط و واغلط ہمچون کباب ٭

غلولہ کمان - وہ کمان جسکو ہندی مین غلیل کہتے ہین -

غلام بارہ - امرد پرست - لونڈے باز - محمد سعید اشرف - بر دور او زخیل غلامان بود حصار ٭ زین رو غلام بارہ قرآن گفت خواجہ را ٭

غلط کاری - دھوکا دینا - مغالطہ مین ڈالنا - فریب دینا - نظامی - بترس از غلط کاری روزگار ٭ کہ چون بابسے را غلط کرد کار ٭

غین با میم

غم پرست - جو ہمیشہ غمگین رہتا ہو - علی قلی خان اعظم - غم ستان ترا با عیش و عشرت کار نیست ٭ در شراب اعظم با سید خیابہ افتادہ است ٭

غم پرور - جو شخص ہمیشہ غمناک رہتا ہو - سپہری لاہجی - عشق نمود اہل دل آزادہ را ٭ جان غم پرور دگار افتادہ را ٭

غم‌کشی - غمناک واندوہگین و دلگیر - نظامی - بیا ساقی آن کی
که فرخ پی ست * بمن ده که اروی دردم می ست * می کوست
جلوه ای هر غم‌کشی * ندیده بجز آفتاب آتشی *
غم‌گسل - محبوب جسکے دیکھنے سے غم دور ہو - ملا طغرا - کند تشقه چون
آن ابت غم‌گسل * چراغی گذارد بمحراب دل *
غم آشام - ہمیشہ غمگین رہنے والا - ظہوری - غم آشامان ہم چون جام
تشنہ * دو عالم را بہ تشنہ کام بخشند *
غم آلوده - غمناک ہر وقت غم میں رہنے والا - ملا قاسم مشہدی - قطرۂ
اشکے کہ از مژگان غم آلود ریخت * عنکبوت گشت و برجا کر بیا تم تنید *
غم‌خانه - غم کا گھر - ماتم خانہ غمکده طالب آملی - تیرگی میجوشد از غمخانهٔ
افلاک ها * شمع بزم خویش را در تحت صرصر سوختم * ابوطالب کلیم - خاک
پای سیل سرشت ازلی شگون * روز یک دیر غمکده ام را بنا نهاد *
غمزۂ لاجوردی - رنگین غمزه اور ناز نخنک و غمزہ بے محل بے موقع ناز
ظہوری - افتاد اگر بود چشم توجه باک * از غمزهٔ لاجوردی ام ذوقی هست *

غین با نون

غنچهٔ آب - حباب جو پانی پر نمودار ہوتے ہیں - مولف - رنگ و بوی
بوستان ہر گز ندارد اعتبار * این گل غنچه سراپا غنچهٔ آب ست و بس *
غنچه‌خسپ - اپنے ہاتھ پاؤن کو جمع کرکے سونا - محسن تاثیر - سر کوی تو
چه حاجت بگلستان دارد * غنچه خسپان تو در سایه دیوار تو بس *
غنچه‌لب - یہ جملہ معشوق کی تعریف میں بولا جاتا ہے - محمد اسحاق شوکت -
بنای غنچه بر شراب تبسم ست * شب کردم غنچه‌لب از گلستان گذشت *
غنچهٔ خاطر - تنگ دلی کی حالت میں - سنجر کاشی - غیر نشگفد از شعر
تر من سنجر * غنچهٔ خاطر نشوم کان گل باغ حسد ست *
غنچه زار - گلزار - باغ جہان بہت سے پھول ہوں - درویش واله ہروی
غنچه‌زاری شده از لخت جگر گاه نم * تا چو آن نخل قد از آن گل رو آرد بار *
غنچهٔ تریاک - کوکنار جس سے افیون نکالتے ہیں -
غنچهٔ دل - تنگ دل ممسک - حالی - جان ز تن بیرون شدن
پیش بخیل غنچه دل * نیست مشکل آنقدر کز مشت زر آید برون خلیفه شاه محمد
از سموم غم بباغ وجود * سر گز این غنچهٔ دلم نگشود *
غنچهٔ کار نخوان - شرارہ آگ کا -
غنچه بستن - غنچه باندھنا یعنی بنانا - حافظ - جان فدای دهنت باد
که در باغ وجود * چمن آرای جهان خوشتر ازین غنچه نبست *
غنچهٔ پیکان - غنچهٔ تیر - تیر کا پھل - صائب - در دل ما غنچهٔ پیکان او

گلگل شگفت * شاد گردد میهمان باشد چو صاحب خانه گرم * زلالی
من کیستم آن ذرهٔ خورشید نظیرم * هر طرف گله فتنه کند غنچه تبرم *
غنچه خسپیدن - غنچه خوابیدن - ہاتھ پاؤن جمع کرکے سونا - صائب -
آه می زند و نفس در سینه افگار من * غنچه می خسپد نسیم صبح در گلزار من *
صائب - رحمت دنیا حجاب دیدهٔ بیدار نیست * در بساط گل چو شبنم غنچه میخوابیم ما *
غنچه دہان - محبوب کی تعریف میں بولا جاتا ہے - میر خسرو - غنچه دهان
من بیا تنگدلی من ببین * بی تو چگونه زنده ام سنگدلی من ببین *
غنچه رستن و غنچه روئیدن و غنچه دمیدن - انکے معانی مشہور ہیں
عبد القادر بیدل - بستم کہ بوست کشد که بسیر سرو سمن در آ *
تو ز غنچه کم نه دمیده در دل کشا بچمن در آ *
غنچه شدن - غنچه بودن - اپنے آپ کو فراہم کرنا متامل ہونا - صائب -
غنچه لیبی که در خیال گل ست * هر کجا غنچه میشود چمن ست * شفیع اثر
نقد با چون زر گل در طبق اخلاص ست * کف ما غنچه نگردد چو شود صاحب مال *
غنچه شکستن - کلی توڑنا - دل رنجیده کرنا - سالک یزدی - بیا که
اهل محبت چرا خلد خاری * نه غنچه بشکستند و نه گلی خستند *
غنچه شگفتن - کلی کا کھلنا - خوشی حاصل ہونا - ذوقی - موسم گل
گذشت و رفت بهار * یک این غنچهٔ دلم نشگفت *
غنچه کشادن و کشودن - کلی کھلنا اور کھلنا - طاہر وحید - پس از
یکسال همچو غنچه که بر شاخ بکشاید * شد از لب خنده پیدا آن دهن آهسته آهسته *
غنچه نشستن - تنگ ہوکر بیٹھنا - غمگین بیٹھنا - صائب - فصل گل
مگذر دلی قدح و جام مباش * غنچه منشین گره خاطر ایام مباش *
غنچه کندن - کلی شاخ سے توڑنا - زلالی - دلے کو بے غم عشق ست
زنده * بود چون غنچهٔ از شاخ کنده *
غنودن - بفتح اول آسوده ہونا اور دراز کھینچنا - طالب آملی - گردیده
بخواب که مژه آیم بخواب * عمر ست چو دیده بر سر نشتر غنوده *
غنودن - بضم اول و دوم آرام کرنا اور ماندہ ہونا - نظامی - غنوده
تن مردم از رنج و تاب * نظر هر زمانی در آمد بخواب *
غنیمت کشان - لوٹ کا مال اٹھانے والے - نظامی - در آن پیش
بینی خرد پیشه کرد * که لختی ز چشم بد اندیشه کرد * بفرمود تا غنیمت
کشان * دهند از شمار غنیمت نشان *
غنچه پیشانی - بد دماغی و غضب کی حالت میں - سنجر پیشانی مقابل شگفته
پیشانی - صائب - تازه رویان گلستان غنچه پیشانی شدند * دلربا
لاله و گل را و سه خنده ای شاند *

غنچہ خندی - فرحت و مسرت و خندیدگی - ظہوری - زہر برگ گل غنچہ خندی کنم * بہ تحسینش گلدستہ بندی کنم *

غنچۂ قالی - وہ نقش و نگار پھولوں کے جو قالین پر بنے ہیں خان آرزو یکسر قماش ہستی یا رنگ غفلت ست * خوب ست ہیچو غنچۂ قالین بہار را *

غین با واو

غوک چوب - یہ ایک بچوں کا کھیل ہے جسکو گلی ڈنڈا کہتے ہیں ایک لمبی لکڑی ہاتھ میں اور چھوٹی جو بیچ میں سے موٹی اور دو طرف پتلی ہوتی ہے زمین پر رکھتے ہیں لمبی لکڑی سے چھوٹی لکڑی کے ایک سرے کو مارتے ہیں تو وہ اُڑتی ہے اُڑتی ہوئی کو پھر دوسری ضرب دیتے ہیں اس کھیل کو چالیک اور چلاک بھی کہتے ہیں -

غورۂ ما مویز شد - یعنی ہمارا بچہ کمسنی میں بوڑھا ہو گیا اور حرکات پیرانہ اُس سے ظاہر ہونے لگے - باقر کاشی - از زندگی ؤ دوروزہ دگیر شدیم * شد غورۂ ما مویز و پیر شدیم * طفلیم چو پیر کبودیم دودد افسوس کہ بالغ نشدہ پیر شدیم *

غورہ زار - انگوری باغ - زلالی - ایاز تو شنفت او را پسر بود * کہ وزد غورہ زار او شکر بود *

غوطہ خوار - پانی میں غوطہ لگانے والا - ملا طغرا در انگشتری لبتلزم اگر غوطہ خوار * نبودی ز طوفان بدین اشتہار *

غورہ در چشم کسے کردن - طیش کسی کا منغص کرنا - سالک یزدی - از چشم کبود چرخ بیدار م حذر * کاین ترش رو غورہ در چشم ایام سکند *

غوطہ گاہ - غوطہ لگانے کا مقام - زلالی - کشید از غوطہ گاہ اژدہا تیغ * چو برق نافت سوز از سینۂ میغ *

غین با یاے

غیز یدن - لغزش کھانا پھسلنا دونوں ہاتھ اور پاؤں کے زور بیٹھ کر رستہ چلنا جسطرح بچے چلتے ہیں -

غیب خانہ - نہان خانہ پوشیدہ مکان - طاہر وحید - بود لو شمع ز فانوس در تجلی بود * فروغ حسن تو از غیب خانہ تقدیر *

چوتھی فصل

اردو محاورات و مصطلحات کے ذکر میں

غین با الف

غارت غول ہونا - تباہ ہونا - برباد ہونا - تلف و ضائع ہونا ناپیدا ہونا - جاتا رہنا - گم ہونا - قطعہ از مؤلف بخشا حق نے جو گنج قارون کو * وہ ڈال سکتا نہ کوئی جسکا مول * جبکہ آسکا اخیر وقت آیا * ہو گیا ایک دم میں غارت غول *

غارت گیا - جاتا رہا - برباد ہوا - او ربد دعا کا کلمہ - شوق - چھوڑ غارت گئی میرا پیچھا * کب تلک تو مجھے ستائیگا - مؤلف - ال و ملک و دولت و اسباب و رخت * تم گئے جسوقت سب غارت گیا *

غائب غلہ کر دینا - گم کر دینا - اُڑا دینا - خرچ کر دینا - باقی نہ رکھنا -

غین با پاے

غبار ہونا - آسمان پر گرد ہونا دو شخصوں کے آپس میں رنجیدگی ہونا آنکھوں سے کم نظر آنا - صفدر رفوقانی - صورت جانان نہ آئیگی نظر * ہو گیا گر آئینۂ دل پر غبار *

غپ شپ - بازاری باتیں جنپر یقین نہو -

غین با تاے

غٹ غٹ کرکے پی جانا - جلدی پی جانا سانس نہ لینا اور غٹ غٹ اُس آواز کا نام ہے جو پانی پینے کے وقت گلے سے نکلتی ہو - قطعۂ مؤلف - آگے زاہد شراب خانے میں * دیا ساقی نے جام جھٹ پٹ * پہونچی جب ہم دماغ میں خوشبو * ہو کے مسرور پی گئے غٹ غٹ *

غٹ بٹ ہو جانا - دو چیزوں کا اُلٹے اُلٹے آپس میں مل جانا -

غین با دال

غدر مچانا - بد انتظامی کر دینا - لوٹ مچا دینا - فساد برپا کر دینا - شور مچانا - قطعۂ مؤلف - ہند کے ملک ستاون بھی * کس مصیبت کا سال آیا تھا * سیکڑوں خاندان ہوے برباد * نہایت بدیر و بال چھایا تھا * گردش آسمان نے ایسا وقت * ساری مخلوق کو دکھایا تھا * کس بلا و غم و مصیبت میں * مبتلا اپنا او پرایا تھا * نہ بچی جان اور نہ مال بچا * صدمہ دونوں نے یہ اُٹھایا تھا * جسکا بدلہ دیا رعیت نے * غدر جو فوج نے مچایا تھا * اسمیں ماری گئی رعیت بھی * فتنہ جو فوج نے جگایا تھا *

غین با راے

غرض کا باؤلا - غرض کا دیوانہ مطلب کا یار ہے - ہے دیوانہ مطالب کا زمانہ * غرض کا باؤلا سارا جہان ہے *

غرض کرنا - غرض نکالنا - مطلب حاصل کرنا - قطعہ مؤلف - شکر کر تو اگر کوئی طالب * اپنے مطلب کو تیرے پاس آئے * ملے مقصود اہل مقصد کو * کوئی اہل غرض غرض کر جائے *

غرض نکالنا - مطلب لینا - خواہش پوری کرنا - کام لینا - قطعہ مؤلف - اس زمانے کے دوست بن کر دوست * صرف اپنی غرض نکالتے ہیں * آنے

جب کوئی کام پڑ جاسے * آپ باتوں مین اسکو ٹالتے ہین یا *

غرق ہونا - ڈوب جانا کسی کام مین - نہایت مصروف ہونا قطعہ لطیف غرق کیا دنیا مین دنیا دار ہے * نیکی بدی کی کچھ خبر رکھتا نہین * ایسا دام حرص مین پابند ہے * اپنی حالت پر نظر رکھتا نہین *

غرّہ بتانا - آج کل کرنا جب کوئی تقاضے کو آئے تو یہ کہہ دینا کہ پہلی تاریخ کو آنا - قطعہ مؤلف - جھوٹے وعدون مین وہ رشک مہر و ماہ * روز سرگردان پھراتا ہے مجھے * آج کل مین جب گذر جاتا ہے طلبِ * پھر نیا غرہ بتاتا ہے مجھے *

غرّہ کرنا - غرور کرنا - تکبر کرنا - گھمنڈ کرنا - فخر کرنا - اترانا - احسن نازک بدن پہ اپنے کرتے ہو تم جو غرہ * موسیٰ کرنے مجھکو فرعون سا بنایا *

غرّہ کرنا - فاقہ کرنا - کھانا نہ کھانا - ناغہ کرنا - کام نہ کرنا سحبہ وہ ماہ آج جو آیا تو کل کیا غرہ * نشاط و عیش مین گذرا کبھی نہ سارا چاند *

غریبی آنا - مفلس و محتاج ہو جانا - کنگال ہو جانا -

غرفہ کی بات - پوشیدہ بات -

غرض کا یار - مطلب کا یار - غرض کا دوست - قطعہ مؤلف - اپنے مطلب کا سب زمانہ ہے * لوگ ہین دوستدار مطلب کے * کوئی واقف نہین ہے بے مطلب * اہل مطلب ہین یار مطلب کے *

غریب الوطن - پردیسی - دوسرے دیس کا - قطعہ مؤلف - جس نے دیا ہے تمہین ملک و مکان * سیم و زر و دولت و فرزند و زن * رحم کرو اسپہ خدا کے لیے * آئے مسافر جو غریب الوطن *

غریب خانہ - بطور انکسار کے اپنے گھر کو غریب خانہ کہتے ہین میر کیسا تو سویا تھا میرے گھر آکر * جاگے طالع غریب خانے کے *

غین با زائے معجمہ

غزل کہنا - غزل تصنیف کرنا - شعر بنانا -

غین با سین

غسل کی حاجت ہونا - بدن کا ناپاک ہو جانا - نہانے کی حاجت ہونا -

غین با شین

غش ہونا - عاشق یا شیفتہ ہونا کسی کے خیال مین فلطان پیچان رہنا برق بند جلوے سے تری چشم تماشائی ہو * غش کرے موسیٰ عمران جو تماشائی ہو -

غین با صاد

غصہ پینا - جوش دل کو ضبط کرنا - خفگی کو روکنا - ظفر - ہم تو پی جاتے لہو دشمن کا پر کچھ سوچ کر * دل مین اپنے غصہ اپنا اے ستمگر پی گئے *

غصہ تھوک دینا - غصہ دور کرنا - غصہ کم کرنا - جانے دینا - معاف کرنا -

غصہ دلانا - افروختہ کرنا - خفا کرنا - ناراض کرنا - مؤلف - محبت اپنی سے روبرو میرے جتاتا ہے * رقیب روسیہ ناحق مجھے غصہ دلاتا ہے -

غصہ مین بھوت ہو جانا - نہایت غضبناک ہونا - مجنونانہ حرکات کرنا -

غصہ مین بھر جانا - غضبناک ہو جانا - مولانا اکبر لاہوری خیالی محفل مین بچھڑون سے ہمیشہ اختلاط * بندہ آتا ہے تو کیون غصہ مین بھر جاتے ہو تم *

غصہ ناک بات بات پر ہونا - بات بات پر خفا ہونا ذرا ذراسی بات پر بگڑ جانا

غین با ضاد

غضب آنا - غضب ٹوٹنا - کسی ناگہانی آفت یا بلا کا نازل ہونا -

غضب توڑنا - غضب ڈھانا - فساد برپا کرنا شور و شر مچانا - غصہ آنا - غصہ کرنا

غضب کرنا - تعجب انگیز بات کرنا - انوکھی بات کرنا - کوئی عجیب بات کرنا - ظلم کرنا - ظفر - بولے تم تو کیا غضب کرتے ہو * ستم کرتے ہو تو چپ چپ *

غضب مین پڑنا - غضب مین گرفتار ہونا - کسی بلا یا مصیبت مین گرفتار ہونا - ناک مین دم آنا - آفت مین پڑنا -

غضب ہونا - خفا ہو جانا - آگ ہو جانا - برا کام ہونا - کام بگڑ جانا

غین با لام

غلام کرنا - غلام بنانا - تابع کر لینا - عاشق کر لینا - شیفتہ و مفتون کرنا - ولی - خوبرو خوب کام کرتے ہین * اک نگاہ سے غلام کرتے ہین *

غلام ہونا - تابع ہونا - فرمان بردار ہونا - یارعلی - یکون لونڈی اسکی ہون نہ زلیخا کی طرح * یوسف غلام ہے مرا بے دام ہو گیا -

غلامی اختیار کرنا - غلام ہونا - خادم بننا -

غلامی کا خط لکھنا - غلامی کی سند لکھنا -

غلط ٹھہرانا - تردید کرنا کسی کی بات کو جھوٹھا کرنا -

غلطی کھانا - خطا کھانا - بھول جانا -

غلک مین دھرنا - جمع کر لینا -

غین با میم

غمخوار ہونا - دکھ درد کا ساتھی رنج و راحت کا شریک ہونا - مفتی حیدر دل زار اپنا ہے ہر وقت دلدار * غم دلدار ہے ہر لحظہ غمخوار *

غمخواری کرنا - ہمدردی کرنا - دکھ یا درد بٹانا - مولانا اکبر کون ہے کہ بغیر اس دل کی دلداری کرے * جان غمگین کی بجز غم کون غمخواری کرے *

غم خور ہونا - غم کھانے والا صابر متحمل بردبار ہونا - حکیم الور لاہوری انسان وہی ہے دنیا مین جو دیندار ہو * غمخوار ہو حلیم ہو اور بردبار ہو -

غمخوری کرنا - غم کھانا برداشت کرنا جھیلنا متحمل و بردبار ہونا -

غم غلط کرنا - کوئی ایسا کام کرنا جس سے غم جاتا رہے یعنی خیال دل جاتا رہے

قطعہ مؤلف - کچھ غرض رکھتے نہیں ہم یا نہ اور اشیا رستے ٭ غم ہین تجکو
یاد اے ساقی فقط کرتے ہین ہم ٭ جام مے پیتے جو ہین ہم گاہ گاہ
تیرے بغیر ٭ اپنا بہلاتے ہین دل اور غم غلط کرتے ہین ہم -
غم کھانا - رنج کرنا - افسوس کرنا - صبر کرنا - ہمدردی کرنا مؤلف -
ہجر کی فکر دل مین مت رکھو ٭ تم بہرحال اپنا غم کھاؤ
غمی ہو جانا - ماتم ہو جانا - کسی کا مر جانا -

غین با نون

غنیمت جاننا - قدر پہچاننا - سا رجاننا - عزت کرنا - مؤلف
خیر خوبی سے جو گذر جائے ٭ وہی دنیا مین دم غنیمت ہی ٭ عیش و
شادی اگر نصیب نہو ٭ غم و رنج و الم غنیمت ہی ٭
غنچہ دہن - معشوق جسکا منہ تنگ اور نہایت خوبصورت ہو - مؤلف
اگر گلشن مین وہ غنچہ دہن آئے ٭ اسی دم رنگ گل بوبن کے اڑ جائے ٭
غنیمت ہی - بہرحال شکر کا مقام ہی جو ہو جائے سو بہتر ہی قطعہ مؤلف
قرب جانان اگر نصیب نہو ٭ دور سے دیکھنا غنیمت ہی ٭ گر نہ حاصل
ہو مسند شاہی ٭ فقر کا بوریا غنیمت ہی -

غین با واو

غوغین لڑانا - ڈینگین ہانکنا - لغو اور بیہودہ بک بک کرنا -
غوطہ مارنا - غوطہ لگانا - غائب رہنا - روبرو نہ آنا - کسی امر
مین نہایت سوچنا - بہت فکر کرنا - غور اور توجہ کرنا -
غوطہ مین آنا - بیہوش ہو جانا - غش آنا - سکتے مین آنا -
غوطہ دینا - پانی مین ڈبا دینا - غرق کر دینا -
غوطہ کھانا - رستہ بھول جانا - فریب مین آنا - دھوکا کھا جانا -
غوطہ مارنا - ڈبکی لگانا - غور کرنا - سوچنا - ناغہ کرنا - حاضر ہونا -

غین با یاے

غیرت سے مرنا - نہایت شرم کرنا - خجل و منفعل ہونا -
پانی پانی ہو جانا -
غیرت کھاکے ڈوب مرنا - شرم کے مارے ڈوب کر مر جانا -
حیا کے مارے جان دے دینا -
غیر حالت ہو جانا - مرنے کے قریب پہونچنا - جان کنی کی حالت مین
ہونا - سعہ - اے مسیحا لیجیے جلدی خبر ٭ غیر حالت ہی ترے بیمار کی ٭
غین مین لانا - تکرار کرنا - جھگڑا کرنا -

پانچوین فصل

لغات متعلق علم طب کے بیان مین

غین با الف

غافث - بروزن آفت ایک خاردار گھاس ہی پتی اسکی لمبی پھول
بنفشئی ذائقہ نہایت تلخ طبیعت اسکی گرم خشک ملطف و مقطع
و جاذب و جالی و مفتح سدہ جگر ہی -
غار - بہ راے مہملہ شام کی ولایت مین یہ عالیشان درخت ہی اور
عمر اسکی ہزار برس سے کم نہین اہل یونان اسکی بڑی عزت کرتے مین
اسکی لکڑی ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہین یونانی متقدمین حکما اسکی لکڑی
کی ٹوپی بنا کر پہنتے تھے پتی اسکی نرم اور ذائقہ مین تلخ اور خوشبودار
پھل اسکا بقدر فندق کے ہوتا ہی پوست اسکا نازک سیاہ رنگ
مغز کے دو ٹکڑے زرد رنگ چکنا خوشبودار طبیعت اسکی گرم خشک
مغز اسکا گرم تر روغن بھی گرم تر محلل و مفرح و مقوی و مدر و تریاق
سموم ہی دافع صداع بلغمی و صرع و وسواس ہی ذہن کو بڑھاتا ہی -
غاریقون - یہ دوا ایک جڑ کی صورت پر ہی جو سڑی ہوئی ہو جو بعض
درختون پرانون سالخوردہ کے پیٹ سے نکلتی ہین یا انکے ریشے
جو سڑ گئے ہون مختلف رنگون مین مزہ میٹھا اور تیزی کے ساتھ اور
تلخی بھی نر اور مادہ دونون قسم کا ہوتا ہی نر سخت زیادہ مادہ سے
اور گول اور حلقہ دار بہتر اور مستعمل مادہ سفید ہی جو تھوڑی رگڑنے
رگڑی جاتی ہی سرخ اور سیاہ رنگ غیر مستعمل اور سمی ہین یعنی زہر
مین طریق اسکے استعمال کا یہ ہی کہ بالون کی چھلنی پر اسکو رگڑتے ہین
تو لطیف اسکا نیچے آجاتا ہی زہریلے اجزا اوپر رہ جاتے ہین اسکو
کوٹنا بالکل منع ہی طبیعت نر مادہ دونون اول درجے مین خشک اور
گرم تیسرے درجے مین مسہل بلغم و سودا و صفرا و ملطف اخلاط غلیظہ
و ادرار سخت دافع قولنج مقوی اعصاب و دل و دماغ ہی -
غار - بزاے معجمہ ایک قسم مرغابی کی ہی جسکو فارسی کہتے ہین طبیعت
اسکی گرم تر محلل و مفتح ریاح دافع استسقا و درد مفاصل ہی -
غاغالس - یہ ایک گھاس ہی پتی اسکی نرم اور تلخ پھول اسکا بنفشئی
طبیعت گرم و خشک ہی ضماد اسکا کان کے ورم کو دور کرتا ہی کھانا
اسکا کھانسی کو رفع کرتا ہی ضیق النفس کا علاج ہی -
غالیون - یہ ایک سبزہ ہی عربی مین اسکو عاقد اللبن کہتے ہین اس واسطے
کہ دودھ اسکی پتی ڈالنے سے فی الفور جم جاتا ہی پتی اسکی لمبی پھول زرد
اور باریک بہت خوشبو طبیعت گرم و خشک پھول اسکا جلے ہوے عضو پر
لگانا مین فوراً اچھا کرتا ہی -
غالمون - غالیون اور اسکی ایک طبیعت اور ایک خواص ہی -

غالیہ - یہ دوا ادویات مرکبۂ قدیمہ سے ہی مخترعات جالینوس سے عنبر اور خصی الیان ور وغن بان وغیرہ عرقیات خوشبو سے بنائی جاتی ہی طبیعت اسکی گرم وخشک مقوی دل ودماغ وحرارت بخش روح دافع دردسر فالج ولقوہ

غین با باے

غبیرا - فارسی مین اسکو سنجد کہتے ہین یہ ایک درخت کا پھل ہی جو عناب کے درخت کی مقدار پر ہوتا ہی یعنی اسکی خاکستری نر اور مادہ دو قسم کا غبیرا ہوتا ہی نر پھل نہین دیتا مادہ کو پھل لگتا ہی طبیعت اسکی سرد خشک مقوی ومفرح دافع درد سر وکھانسی معدہ کو طاقت دیتا ہی-

غبار الرحی - فارسی مین گرد آسیا یعنی آسیا خانہ کے گرد مجفف ہی سعوط اسکا آنکھون کو صفا کرتا اعصاب کو تقویت دیتا ہی-

غین با دال

غداف - یہ ایک جانور کلاغ یعنی کوے کی قسم سے ہی طبیعت اسکی گرم وخشک گوشت اسکا سخت مولد خلط فاسد ہی اور دافع درد زانو ومقوی بصر-

غین با راے

غراب - اسکو فارسی مین زاغ عربی مین کلاغ کہتے ہین غراب بھی انہین کے اقسام مین سے ہی واضح ہو کہ اسکی تین قسم ہین ایک ابلق اسکو غراب البقع کہتے ہین دوسرا سیاہ بڑا اسکو غراب اسود بولتے ہین تیسرے سیاہ چھوٹا اسکا غراب الزرع نام رکھا گیا ہی کیونکہ وہ کھیتون مین رہتا ہی اور ایک قسم جو غراب الزرع سے بھی چھوٹا ہی اسکو زغن اور زاغچہ کہتے ہین وہ مردار نہین کھاتا لوگ اور بالون اسکے سرخ ہین طبیعت ان اقسام کی اکثر گرم وخشک ہی اور سب کا گوشت ردی الغذا دیر ہضم مگر فائدے کئی ہین جو کتب طبیہ مین درج ہین-

غرب - نام ایک درخت کا ہی یعنی سفیدی مائل پوست سفید اسکی شاخ کو وقت نکلنے شگوفہ کے چیر کر گوند نکالتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک قطور اسکے عصارے کا کان کے درد کو بند کرتا ہی پھولون کا پانی آنکھون کی سفیدی کا علاج ہی اسکے پوست کے جوشاندے سے غرغرہ کرین تو جونک جو حلق مین چمٹی ہوئی ہو بلا تکلف نکل آتی ہی پینا جوشاندے کا قولنج کو کھولتا ہی-

غری جلود - چمڑے کے سریش جس سے لکڑی کو جوڑتے ہین بہتر وہ ہی جو چٹون سے بنائی جاے طبیعت اسکی گرم وخشک ہی پرانے زخمون کو اچھا کرتی ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی اور سوختہ چمڑے کو درست کرتی ہی-

غری السمک - وہ سریش جو مچھلی کے گوشت سے بناتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک دافع برص ونفث الدم ہی پرانے زخمون کو اچھا کرتی ہی-

جری الجبن - یہ بھی ایک قسم کا سریش ہی کہ پنیر اور چونہ اور انڈے کی سپیدی سے بناتے ہین پتھر اور شیشہ اور چینی کو اس سے جوڑ لیتے ہین اور وہ پیوند نہ پانی سے چھوٹتا ہی نہ آگ سے-

غری - مطلق سریش جسکے اقسام بیان ہو چکے ہین-

غین با زاے معجمہ

غزال - ہرن اور ہرن کا بچہ جسکو فارسی مین آہو اور آہو بچہ اور ہندی مین مرگ کہتے ہین طبیعت اسکی گرم وخشک گوشت اسکا سریع الہضم مجفف وقلیل الغذا اثر اسکا مادہ سے بہتر ہی فالج واسترخا وتمام امراض عصبانی وخفقان بارد کو دفع کرتا ہی-

غین با ضاد معجمہ

غضار الصینی - چینی کا برتن خوب پسا ہوا اجالی ہی دانتون کو روشن کرتا ہی مسوڑھون کے خون کو بند کرتا ہی-

غین با لام

غلقی - یہ ایک جڑ طمولی کی شکل پر ہوتی ہی یعنی اسکی مشابہ ناخن کے اور گول اور پھل کے اندر کوئی چیز مانند ردی کے بیج امرود کے دانون کی طرح اسمین جو دود ہر نکلتا ہی مسہل قوی ہی اگر زیادہ ہو تو مہلک ہو جاتا ہی اسکے پانی سے جس تلوار کو آب چڑھائی جاے اسکا زخمی زندہ نہین رہتا-

غین با واو

غوتا غبتا - عصارۂ ریوند اسکو کہتے ہین یہ عصارہ زرد تیرہ رنگ مائل بسرخی اسکا ٹکڑا چراغ پر رکھین تو جلنے لگتا ہی پانی مین حل کرین تو پانی دود کی طرح غلیظ اور زرد رنگ ہو جاتا ہی بعض کہتے ہین کہ سوا ریوند کے ایک اور نبات کا عصارہ ہی کا مشابہ گندنا کے ہی طبیعت اسکی گرم وخشک مسہل ومخرج اخلاط ہی جس خلط کو فاسد پاتا ہی نکال ڈالتا ہی معدہ مین دیر تک نہین رہتا بذریعہ قی اور دستون کے مواد فاسدہ کو لیکر نکل آتا ہی-

غوشنہ - نوع کماۃ یا قطر سے ہی ساتھ شوربت کے دھولی اس سے کپڑے دھوے جلد سپید ہو جاتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک اکثر ادویات کے ساتھ مستعمل ہی

تیئسوان باب

فاے معجمہ کے ذکر مین اسمین بھی بدستور پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات عربی و فارسی وغیرہ کے بیان مین

فاے با الف

فال طغرا - یہ ایک قسم کی فال ہی کہ قرآن شریف ہاتھ مین لیکر اوّل نیت اپنے کام کی قائم کر کے کھولتے ہین اگر بسم اللہ یا خدا کا نام آجاے تو مبتا

مبارک سمجھتے ہیں۔ سہ۔ خدا ز صفحۂ طغرا سے ماشود روشن * کہ فال مصحف روے بتان کشادستم *

فاستر۔ نگین و محبوب پردہ نشین۔

فاشرا۔ ایک جنگلی انگور کا نام ہے جسکی بیل عشقہ کی طرح درختون پر چڑھ جاتی ہے خوشہ اسکا بہت چھوٹا ہوتا ہے جسمین آٹھ دس دانون سے زیادہ نہین ہوتے چمڑے کو اس سے دباغت دیتے ہین کچے دانے اسکے سبز اور پختہ نہایت سرخ ہوتے ہین عربی مین اسکو عنب الحیہ کہتے ہین۔

فاوا۔ واو کے ساتھ شرمندہ اور رسوا شرمندگی اور رسوائی۔

فاوانیا۔ تیسرا حرف واو ۔۔۔ عود الصلیب تشریح مین ۔۔۔ باب مین لکھی گئی ہے۔

فاریاب۔ ملک خراسان حوالی بلخ مین ایک بستی ہے جسمین ظہیرالدین ظہیر فاریابی شاعر بے بدل سکونت رکھتا تھا۔

فاراب۔ یہ ایک شہر دریاے سیحون کے کنارے ترکستان کے ملک مین آباد ہے جسمین معلم ثانی شیخ ابو نصر فارابی سکونت پذیر تھے شہر سوا اسکے فاریاب کے ہے۔

فاسد۔ یکبارگی فوت ہونے نیست و نابود ہونے والا مرجانے والا۔

فاضلات۔ وہ بیکار پانی جو نہرون سے نکل جائے اور کوئی زمیندار اُسکو اپنے کام مین نہ لائے ظہوری۔ فاضل ز سرے گذرد آب تیغ او چہ من بارہا گذشتہ ام این آب تا گلوست *

فالج۔ ایک بلغمی بیماری کا نام ہے جس سے آدھا جسم آدمی کا بیکار ہوجاتا ہے اور ادمی فتیاب ۔۔۔ اور وہ اونٹ جسکا کوہان بڑا ہو

فادج۔ بہ دال مہملہ زہر مہرہ جو ایک مشہور پتھر ہے۔

فاتح۔ فتح کرنے والا۔ کھولنے والا مشکلکشا۔ سہ چہ یار غار شد صدیق دلدار * عمر با حیا و حلم عثمان فاتح خیبر علی ست *

فاسخ۔ فسخ کرنے والا تباہ کرنے والا ویران ہونے والا اوپر ٹینے دار کسی ارادے کا اور فسخ کردینے والا فتح کا مولف۔ ناسخ ادیان محمد مصطفیٰ ست * فاسخ ہر عزم بد خود بان دین *

فاقد۔ گم کرنے والا نیست و نابود کرنے والا۔

فواد۔ بروزن مراد باعتبار اسکے کہ واو مہموزہ ہے بالف مین لکھا گیا معنی اسکے دل جو ایک عضو اندرونی اعضا مین سے ہے۔

فارد۔ فرد اور یگانہ اور جدا اور اکیلا و تنہا۔ فارسی مین ایک بازی نرد کا نام ہے اور بہاڑی گا۔

فاژہ۔ خمیازہ کھینچنا۔

فالوذ۔ معرب پالودہ حلواے نمل عسل۔

فاسد۔ فساد ڈالنے والا خرابی کرنے والا۔

فانید۔ فانیذ۔ اخیر مین دال مہملہ و ذال معجمہ شکر سفید قند اور قسم ایک حلوے کا سعدی۔ زبنگاہ حاتم یکے نیک مرد * طلب دہ درم سنگ فانید کرد *

فاتر۔ سست و زبون اور نیم گرم پانی۔

فاجر۔ مرد بدکردار و زانی۔ سہ۔ بود مغرور بر زہد و عبارت گرچہ ہر عابد * نہ حق ہر فاسق و فاجر امید مغفرت دارد *

فاکر۔ فکر کرنے والا اندیشہ کرنے والا۔

فادزہر۔ زہرمہرہ جو مشہور پتھر ہے جسکو عربی مین حجر التیس کہتے ہین۔

فاژر۔ خمیازہ اور سائبان خیمہ وغیرہ۔

فاغر۔ ایک پھول کا نام ہے جسکو ہندی مین راے چنبا کہتے ہین۔

فامر۔ ایک شہر چین کے ملک مین جسکے متصل ایک جنگل ہے اور اس جنگل مین ہرن کستوری والے ہوتے ہین۔

فارسنگ۔ چپ چنگ فارسی مین جو شان کو کہتے ہین واحد اسکا فارم ہے

فاخر۔ فخر کرنے والا۔ بڑائی کرنے والا چراغ الدین روشن۔ چو خاکسار خاک ست طینت انسان * پہ چہ حاجت ست کہ باشی تو فاخر و فخار *

فاطر۔ پیدا کرنے والا۔ ظاہر کرنے والا۔ ولہ۔ خدا خالق ملک کون و مکان * خدا فاطر آسمان و زمین *

فائز۔ پہنچنے والا مقصد حاصل کرنے والا۔ رہائی اور فتحمندی پانے والا۔

فازہ۔ فاژہ۔ وہ حرکت طبعی جس سے انسان کا منہ کھل جاتا ہے ہندی مین اُسکو جنبھائی کہتے ہین۔ میر خسرو۔ خواب گر عبہر کند میل از چہ معنی غنچہ را * فازہ می آید مگر خاصیت عبہر گرفت * ولہ۔ میکند چون زسیار ماغی فازہ * دہانش نما دیا پار ازہ *

فارس۔ گھوڑے کا سوار اور گھوڑے کا مالک اور نام ایک ولایت کا ایران سے جسکے متعلق شیراز اصفہان کرمان یزد چار شہر ہین۔ سعدی۔ اقلیم فارس را غم از آسیب دہر نیست * تا بر سرش بود چو توئی سایۂ خدا *

فاس۔ تبر جس سے لکڑیان چیرتے ہین۔

فانوس۔ مشہور چیز ہے جسمین چراغ جلاتے ہین اور ہوا نہین لگتی اور وہ شخص جو مخزن چین ہو۔ لوحیہ۔ کجاست حکمت لقمان و فضل بطلیموس * کجاست علم فلاطون و طب جالینوس * خدا ست مالک ملک خدا ست خالق خلق * خدا ست قادر و قیوم و قائم و قدوس * وجود ذات وے جلوہ از ظہور صفات * چو جان بپردۂ جسم چو چراغ در فانوس *

فالیس - یونانی میں باقلا جو ایک مشہور چیز ہی -
فانیوس - یونانی میں نام ایک دوا کا جسکو شیطرج کہتے ہیں -
فالوغس - نام ایک مرغ کا جسکو لک لک کہتے ہیں -
فالی نوس - ایک دوا کا نام ہی جسکو ہندی میں شاہترہ کہتے ہیں نہایت تلخ ہوتی ہی خون صفا کرتی ہی -
فاش - ظاہر و آشکار سب کے روبرو - ؎ - زلفش ز روے نماید چو حضرت لقاش ٭ شود وہم وگمان دور در از گرد و فاش ٭
فاپیش - اختصار فراپیش -
فاحش - حد سے گذرنے والا بدی میں اور ہر ایک بدی جو حد سے گذر جائے -
فائض - فیض پہونچانے والا -
فاقع - نہایت زرد رنگ -
فارغ - خلاصی پائی ہوئی نجات پائی ہوئی بے تردد و بے فکر و بے اندیشہ -
فافا - وہ جسکی زبان لکنت کرتی ہو اچھی طرح بول نہ سکتا ہو -
فائق - بڑھا ہوا چڑھا ہوا بہتر و برگزیدہ - مؤلف - ہر کہ در علم و ہنر شائق بود ٭ در زمانہ لائق و فائق بود ٭
فالق - شگافت دینے والا چیرنے والا - نکالنے والا - ؎ - خالق الارض و السما یزدان ٭ فالق الحب و النوا رحمان ٭
فاتق - شگافت دینے والا -
فاق - تیر کا سوفار اصل میں فاق اس گچے تاگے کا نام ہی کہ کمان کے چلّے کے وسط میں بغرض ایک انگشت کے پیٹتے ہیں تا سوفار کو اُسپر بند کرکے زہ کھینچیں - طاہر وحید بہار کی تعریف میں - شاخ گلبن ہی بہ بلبل ٭ بر سر شاخ شکل غنچہ و گل ٭ بود آن گاہ تیر و گاہ کمان ٭ بود آن گاہ فاق و گہ پیکان ٭
فاروق - فرق کرنے والا حق اور باطل میں اور لقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۂ ثانی جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور نام ایک تریاق کا کہ درمیان صحت اور مرض فرق کر دیتا ہی - ؎ - آنکہ اندر حق و باطل فرق کرد ٭ پیشواے دین عمر فاروق بود ٭ مسیح کاشی - خوردہ فاروق فقر پینہ من ٭ زاہم از آسمان گزند نیست
فاسق - گنہگار - بدکار -
فاتک - دلیر و شجاع و بہادر - لڑویا -
فال - شگون لینا - اور دریافت کرنا آیندہ حال بذریعہ کسی کتاب یا آلہ رمل وغیرہ کے - نظامی - یکی را نشان کرد بر نام خویش ٭ برو بست فال سرانجام خویش ٭ ولہ - مزن فال بد کارد حال بد ٭ مبادا کسے کو زند فال بد ٭

فاصل - جدا کرنے والا فیصل دینے والا - حد قائم کرنے والا - شرف الدین شرف - سعی کن اندر رضا زخود کہ از حق قائم است حد فاصل درمیان مسلم و کافر ہمین ٭
فاضل - صاحب فضل و علم و ہنر - ؎ - ہر آنکہ ہست ہنرمند عالم و فاضل ٭ بذکر و فکر خدا ہر زمان بود شاغل ٭
فاعل - کام کرنے والا - صاحب کار و بار - سلوچید - خدا است مالک و پروردگار رازق خلق ٭ خدا است قادر صناع و خالق و فاعل ٭ خدا است منتقم و دادبخش بندہ نواز ٭ خدا است داد گر و شاہ و حاکم و عادل ٭
فام - رنگ و لون و قرض و دام - ؎ - زہر شد بر ما شراب لالہ گون ٭ چون زبزم آن ساقی گلفام رفت ٭
فاجام - لقیۂ میوہ جو بعد اتار لینے میوہ کے درخت پر رہ جائے -
فاطن - زیرک و دانا و عقلمند -
فئتین - دو گروہ - دو جماعت - دو فریق -
فان - فنا ہونے والا - نابود ہونے والا - قطعہ از مؤلف - آہ بر رنگ و بوے این گلزار ٭ دل چہ بست بلبل نادان ٭ کہ بانجام کار این گلشن ٭ گفت حق کل من علیہا فان ٭
فاترسین - اسپند یعنی ہرمل جو دفع نظر بد کے لیے آگ پر جلاتے ہیں بعض کے نزدیک یہ نام یونانی میں خردل یعنی رائی کا ہی جو مشہور تخم ہی -
فاسطا ریون - یونانی زبان میں یہ ایک تخم کا نام ہی جسکو عربی میں رعی الحمام فارسی میں کرسنہ کہتے ہیں کبوتر اسکو خوش ہوکر اکثر کھاتے ہیں -
فاسقون - روم میں ایک جنگل کا نام ہی -
فانجیقن - یونانی میں ایک نبات کا نام ہی جسکا پھول سوسن کی طرح ہوتا ہی اور تخم سیاہ مسور کے دانے کی طرح -
فاتن - فریفتہ کرنے والا - فتنہ برپا کرنے والا -
فاخرہ - گرانمایہ اور عمدہ اور اچھا یعنی عمدہ مال جواہرات وغیرہ -
فارہ - بفتح راے موش مادہ چوہیا اور نافہ کستوری کا -
فارہ - بکسر راے تیز رفتار و زیرک و دانا -
فئہ - گروہ و جماعت و اجتماع -
فائحہ - فائح - خوشبو دینے والا -
فاکہ - میوہ مانند انگور و خرما وغیرہ -
فاطمہ - وہ عورت جسنے دو برس کا بچہ دودھ سے لیا ہو اور نام نامی

فاختر نیک اختر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر وجہ محمد مرتضی علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام - سعدی - خدایا بحق بنی فاطمہ * کہ برقول ایمان کنی خاتمہ *

فاتحہ - نام سورۃ الحمد کا جو قرآن کے اول ہے اور آغاز ہر چیز کا اور وہ عورت جو کھولنے والی ہو اور درود کیوی کی روح کو پہونچایا جائے -

فاختہ - مشہور پرندہ ہے -

فاضلہ - بزرگ اور افزون اور وہ رقم جو اصلی رقم سے عند الخرچ بڑھ جائے یعنی کسی کے پاس دس روپیہ امانت تھے خرچ مین ہندرہ خرچ ہوگئے تو پانچ روپیہ فاضلہ ہوے -

فاصلہ - وہ مسافت جو دو چیزون کے درمیان ہو جیسا کہ لاہور امرتسر مین پچیس کوس فاصلہ ہے اور وہ حد جو دو چیزون کو الگ الگ کر دیوے -

فاغیہ - دہن دریعنی جمہائی - ابو نصیر بدخشانی - ساقی ز شیشہ بساغر شراب ناب * خصم نشاط فاغیہ و خمیازہ شد مرا *

فائدہ - سود و نفع جو کسی تجارت وغیرہ سے حاصل ہو -

فالودہ - مشہور خوراک ہے -

فاجشتہ - یونانی مین جند بیدستر جو ایک مشہور دوا ہے -

فاعیہ - نیلوفر کی جڑ جو دوا مین مستعمل ہے -

فاغیہ - چنبے کے پھول جو خوشبودار ہوتے ہین -

فانہ - وہ لکڑی جو کشادہ سوراخ مین اصلی لکڑی کے علاوہ ترکھان ٹھوک دیتا ہے تاکہ پہلی لکڑی مضبوط ہو جائے نکلنے نہ پائے -

فاحشہ - بدکار عورت زناکار -

فاقہ - بھوکا رہنا - کھانا نہ ملنا - افلاس و تنگدستی -

فارسی - مشہور زبان ہے جو پارس بن پہلو بن سام بن نوح کے ساتھ منسوب ہے

فانی - فنا ہونے والا نیست و نابود ہونے والا - مؤلف - چہ بندی دل درین دنیائے فانی * کہ در وے چند روزہ میہمانی *

فا با تائے فوقانی

فتا - جوانمرد شجاع و بہادر - شعر - چون یلا پیش آیدت ہر روز خوان بفتا دیار * لافتا الا علی لاسیف الا ذوالفقار *

فتوت - جوانمردی - مروت - احسان - مؤلف - بسا پہلوانان اہل شجاعت * دلیر و جوانمرد اہل فتوت * گذشتند و رفتند آخر ز دنیا * نبردند باخود بجز داغ حسرت *

فترت - سستی اور ضعف اور وہ زمانہ جو درمیان دو پیغمبرون کے ہو -

فتات - جوان عورت - بالغہ عورت -

فترات - جمع فترت کی ضعیفان و سستیان -

فتح - کشائش - کھلنا - اور کھولنا - میر نجات - شکست زلحتہ بہ فولاد زندجا دارد * فتح بر قسائیکہ بید ادزندجا دارد *

فتوح - بہت سی کشائشین اور آمدنیان اور خوشیان - توحید - در امید بمفتاح لطف تو مفتوح * کشادہ از تو بروی زمانہ باب فتوح * شود بفضل تو گلزار نار ابراہیم * نجات یافت ز گرداب آب کشتی نوح * بود ز لطف فزدنت زیادہ رتبۂ خاک * کہ شد ز نور تو در روی ظہور جلوہ روح *

فتور - سستی و خرابی و بدانتظامی - توحید - نماند راجہ نہ خاقان نہ قیصر و فغفور * نہ بابر و نہ ہمایون نہ اکبر و تیمور * چو وقت مملکت شان گذشت آخر کار * برفت دولت و آمد ہلاک و مال فتور *

فتر - فرجہ جو درمیان سبابہ اور ابہام دو انگلیون کے ہوتا ہے

فتش - کھودنا اور ڈھونڈھنا - جستجو کرنا -

فتق - کھولنا شگاف دینا اور نام ایک بیماری کا جس سے ایک خصیہ بڑا ہو جاتا ہے

فتراک - وہ دوال جو پشت زین گھوڑے کے بندھا ہوتا ہے اور سوار جو شکار مارتا ہے اس دوال سے باندھ لیتا ہے - سعدی - بگفتش بیا تا چہ داری خبر * چرا سر نہ بستی بفتراک بر *

فتن - جمع فتنہ بہت فتنے و جھگڑے -

فتن - بفتح اول و دوم بروزن چمن نام ایک شہر کا دکن ملک ہند مین جو پٹن مشہور اور نام ایک قصبہ کا پنجاب مین جسکو پاک پٹن بولتے ہین

فتیان - بہت سے جوانمرد -

فتان - بفتح اول تشدید تا سے فتنہ انگیز - مفتی حیدر لاہوری - ہزار بار بکند تازہ قیامت قامتش * فتنہ انگیز ہمیشہ نرگس فتان او *

فتنہ - آزمائش و بلا و شر و ہنگامہ و فساد و عذاب و دیوانگی و عاشق و فریفتہ و معشوق - رضی دانش - فتنہ از بزم میخوار ان نشد امشب بلند * سر گذشت کاکلی را درمیان می افگنم * سعدی - فتنے افتاد فتنہ در شام * ہر کس از گوشۂ فرا رفتند *

فتحہ - حرکت زبر کی جو حرف پر ڈالی جاتی ہے اور کسرہ حرکت زیر کی اور ضمہ حرکت پیش کی اور سکون حرکت جزم کی اور تشدید حرکت شد کی -

فتیلہ - روئی یا سوت کی بتی جو چراغ مین ڈالی جاتی ہے یا کسی اور جگہ استعمال کی جاوے - ملا لطفی مفید - تا بد فتیلہ زلف تو از بہر داغ ماہ روئیت ز تاب مہر فروزد چراغ ما * شفیع اثر - داغ غمت ز سینۂ اندوہگین شگفت * از غنچۂ فتیلہ گل آتشین شگفت *

فتانہ - ریزہ سر سبز کا -

فتوی - شرع کا حکم جو مفتی دیوے - سعدی - اگر شرع فتوے

دہد بربادکسے ✤ الا امانداری زرشتہ منش پاک ✤

فتی - جوانمرد - بہادر شجاع -

فتوحی - نیم تنہ صدری جو گلے مین پہنتے ہین -

فا با جیم

فجا - بکسر اول اچانک پکڑ لینے والی چیز امر کہ مفاجات -

فجئت - بروزن حقیقت مصیبت وآفت -

فجعفت - بروزن حرکت دردمندی ومصیبت -

فجاجت - بکسر اول خامی وناپختگی -

فج - بفتح اول وتشدید ثانی کھلا ہوا راستہ - سعدی - فطوبی لباب کبیت العتیق ✤ حوالیہ من کل فج عمیق ✤

فجور - بدکاری - زناکاری - شراب خواری - توحید - خدا از بندہ تائب کند معاف قصور ✤ شود اگرچہ تلف عمر او بفسق وفجور ✤

فجار - بضم اول وتشدید ثانی بدکار -

فجار - بفتح اول وتشدید ثانی بہت بدکاری کرنے والا آدمی - مولف امید عفو زد گاہ کبریا دارد ✤ ہمیشہ بندہ بدکار فاسق وفجار ✤

فجر - صبح کا وقت آفتاب نکلنے سے پہلے - مولف - نور ازل پیدا کن ہر روز وہر شب ✤ بذکرش بگذران ہر سحر وہر شام ✤

فجل - بضم اول وفتحتین ترب یعنی مولی -

فجل - بفتح اول ودوم سست ہونا موٹا ہونا -

فجل - بکسر اول وفتح دوم سست ونامرد وبیکار نکما آدمی -

فجفج - فجفجہ - بطریق اخفا آہستہ باتین کرنا کانا پھوسی ہندی مین کچ پچ -

فجرہ - بدکار وزناکار لوگ فاجر کی جمع -

فاے با حاے

فحوا - فحوی - مضمون معانی اصل مطلب -

فحش - حد سے گذر جانا بدی مین بدی کرنا -

فحص - جستجو کرنا ڈھونڈھنا - کھودنا -

فحل - نر مقابل مادہ کے مرد مقابل عورت کے اور ستارہ سہیل -

فحول - بہت سے نر اور مرد جمع فحل کی -

فحم - بفتح اول ودوم انگشت یعنی کوئلا جسکو زکال بھی کہتے ہین -

فحاوی - جمع فحوی مضامین ومعانی ومطالب -

فا با خاے معجمہ

فخامت - بزرگی وعزت وتوقیر وستبری وبلندی -

فختہ - بفتح اول روشنی چاند کی چاندنی -

فخ - ایک قسم کا جال ہے جس سے مرغون کو شکار کرتے ہین -

فخذ - بفتح اول ران جو مشہور عضو ہے -

فخار - بفتح اول ودوم ناز کرنا -

فخار - بکسر اول ناز کرنے والا -

فخار - مٹی کا برتن جو آگ پر پکایا گیا ہو اور مٹی جو خشک ہو -

فخور - بفتح اول وضم دوم ناز کرنے والا ومتکبر وسرکش -

فخورہ - ناز کرنا -

فخر - بڑائی ناز قدر ومنزلت - میر معزی - فخر دارد برزبان چون نے او بنیہ لیصر جھل دارد برلب چون مدح او خواند زبان ✤

فخیم - بزرگ وبلند قدر وصاحب مرتبہ -

فخرالدین - اس نام کے ایک امام فخرالدین رازی عالم اجل وفاضل متبحر تھے اور دوسرے فخرالدین فخر جہان دہلوی چشتی ولی کامل گذرے ہین -

فخفرہ - بروزن مسخرہ وہ غلہ جسکو جوار کہتے ہین -

فخری - تخلص ایک شاعر کا جسکا نام شمس تھا صیا جیالی اسکے منسلوم کی ہے - محسن تاثیر - فخری بعسل صد افتخارش ✤ قند از شہر فخر جہان نثار ✤

فا با دال

فدا - سر بہا - سر خرید اور وہ چیز جو قربان کی جائے - میرزا صائب - چمن را اگر سید بدروی چون بہارش را ✤ بگل چینیان فدا میکرد خون لالہ زارش را ✤

فدافت - درشتی وسختی وجفاکاری -

فدفد - صحرا اور زمین ہموار کھلا میدان -

فدک - نام ایک گاؤن کا جسمین ایک باغ تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ کسی کو نہین دیا تھا جب اسکا میوہ آترتا اصحاب پر تقسیم کیا جاتا حضرت کی وفات کے بعد بی بی فاطمہ خاتون جنت حضرت کی دختر نیک اختر نے دعوی کیا کہ یہ باغ حضرت مجکو بخشش گئے ہین اور حسن حسین دو صاحبزادون کو گواہ پیش کیا چونکہ گواہ خردسال تھے بسبب شرعی شہادت نامنظور ہوئی اور حضرت ابابکر صدیق خلیفہ نے باغ نہ دیا اور وہی سنت جاری رکھی کہ جب میوہ اترکر آتا اصحاب پر تقسیم کیا جاتا نیز وہ طناب جو رنگ برنگے ہوتے کپڑے کے بنا کے کے باندھتے ہین - سہ - عدل تقدیری وتقدیر عدالت نالہ است ✤ زانکہ این مسئلہ تحقیق شد از باغ فدک ✤ طاہر وحید - رنگ برنگ کی طرفین ہین - قد کہا بدکان آن شوخ وشنگ ✤ کشیدہ چو قوس قزح نام رنگ ✤

فدان - جو اجود وبیلون کے گلے مین ڈالکر ہل چلاتے ہین یہ آلہ لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے -

فدیہ - خون بہا و سر بہا و صدقہ -

فدوی - فدا ہوا ہوا - قربان ہوا ہوا - نعتیہ از مؤلف - بیت
بر شاہنشہ عالی وقار ہے فدوی درگاہ ختم المرسلین ٭

فاے با راے

فرا - پیش یعنی آگے اور عربی میں قبل اور نزدیک اور دور اور بلند یہ کلمہ فارسی میں کبھی زائد بھی آتا ہے اور عربی میں بمعنی گورخر جو ایک مشہور جانور ہے - سعدی - فرا رفت گفتا عجب کاین توئی ٭ فرشتہ نباشد بدین نیکوئی ٭

فرّا - بفتح اول و تشدید ثانی پوستین اور لقب ایک نحوی کا -

فربا - فربہ - فربی - موٹا اور بڑا -

فرادا - فرادی - تنہا لوگ - اکیلے رہنے والے - یہ لفظ فرد کی جمع ہے -

فردا - کل کا دن جو آنے والا ہے مقابل دیروز کے - ؎ - مکن بہر روزی بدر تلاش ٭ بہ تشویش امروز فردا مباش ٭

فراخا - فراخی و کشادگی اور محل فراخی -

فراخنا - وہ رستہ یا جگہ جو فراخ ہو

فراشا - بدن کا ٹوٹنا جو تپ چڑھنے سے پہلے ظہور میں آتا ہے -

فرورا - ہوادار یا بالاخانہ جسکی چار طرف کھڑکیاں یا پنجرے لگے ہوئے ہوں -

فریب - بکسر ثانی و یاے مجہول عشوہ و مکر و دانو و دغا و طلسم - ؎ -
زال دنیا میفریبد خلق را ٭ در فریبش ہان نیفتی عاقل میاء - ملا وحشی -
فریب تاج مرصع مدہ بسر بازان ٭ کہ ترک سر برین جمع و ترک تاج یکی ست ٭

فراسیاب - حباب جو پانی پر ظاہر ہوتا ہے اور مخفف افراسیاب جو ترکستان کا بادشاہ تھا

فرسب - وہ چادر جو چھت پر واسطے زیب و زینت کے چڑھاتے ہیں اور شہتیر چھت کی جس پر چھت کا قیام ہے -

فراست - بکسر اول ظاہری نشان دیکھ کر باطنی کیفیت معلوم کر لینا صورت دیکھ کر معنی سمجھ جانا - اہل فراست کو قیافہ شناس بھی کہتے ہیں -
نظامی - چنین داد پاسخ فراست شناس ٭ کہ فرمان شہ را پذیرم سپاس ٭

فراست - بفتح اول گھوڑے پر سواری کرنا گھوڑے کو بخوبی پہچاننا -

فروسیت - فروسیت - گھوڑے پر سواری کرنا اور گھوڑے کی شناخت رکھنا -

فراہت - زیرکی و استادی اور نیک رفتار گھوڑے کی -

فراغت - فارغ ہونا بے فکر و بے تردد ہونا - محسن تاثیر - گر چرخ
پیرایۂ عدالت زند سجاست ٭ دولت بہر کہ داد فراغت نمیدہد ٭

فرصت - آرام پانا - مہلت دینا - موافق ہونا وقت کا اور نوبت کسی چیز کی - سالک قزوینی - فرصت بہ پیشدستی قاتل ندادہ ایم ٭

گلگون دواندہ بر دم شمشیر خون ما ٭

فرات - پانی میٹھا اور سرد اور نام ایک دریا کا جو کوفہ کے پاس جاری ہے
مؤلف - تشنہ نصیب حسین از فرات قطرۂ آب ٭ بغیر آب دم تیغ دشمنان پلید ٭

فرتوت - بہت ضعیف اور نکما -

فرت - بکسر اول شتابی و جلدی اور فی الفور بلا توقف -

فرت - مجاہدہ و صفائی باطن و تار و پود سوت کا جو کپڑا بننے کے لیے جولاہے کو دیا جائے اور نام ایک گھاس کا جو دواؤں میں مستعمل ہے اور درد شکم کا علاج ہے -

فرفت - بفتح ہر دو فا ایک پھول ریحان کی قسم سے ہے جسکو شاہسپرم بھی کہتے ہیں

فروخت - ژندی زبان میں کثیر یعنی بہت اور فارسی میں بسیار -

فرحت - خوشی و بے فکری و فارغ البالی - قطعہ از مؤلف - نہ فقر و فاقہ و افلاس ماند ٭ نہ جاہ و دولت و ملک و حکومت ٭ نہ غم ماند درین دنیا نہ شادی ٭ نہ این رنج و پریشانی نہ فرحت ٭

فرقت - جدا ہونا - الگ ہونا - علحدہ ہونا - رباعی از مؤلف ٭
بیرون قدم از بزم صحبت مہ کہ ہست این صحبت یاران غنیمت ٭ کجا صحبت کجا یاران ہمدم ٭ دمِ فرقت چو آید بالضرورت ٭

فرث - بفتح اول و ثاے مثلثہ وہ سرگین جو اوجھڑی میں ہو اور چیرنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا جگر کا -

فرج - بفتح اول اندام نہانی عورت کا درخنہ و شگاف و دریچہ اور کشادگی جو درمیان دو چیزوں کے ہو -

فرج - بفتح اول و دوم کشایش و آسایش و آرام و خوشی -

فرج - بضم اول و فتح ثانی بہت سے شگاف جمع فرجہ کی -

فروج - بہت سے شگاف اور اندام نہانی جمع فرج کی -

فرّوج - بضم اول و تشدید ثانی چوزہ مرغ کا اسکی جمع فراریج ہے -

فرخج - زشت و بدصورت و نازیبا -

فرستاج - امت و پیرو جس پیغمبر کی ہو گروہ و قوم -

فرقانج - مادہ گاؤ جو فربہ اور پر گوشت ہو -

فرنج - بضم اول وہ چھوٹی شاخیں جو درخت کی بڑی شاخ کاٹنے کے بعد درخت سے نکلیں -

فرنکنج - گرانی و سنگینی جو نیند میں انسان پر پڑ جاتی ہے کابوس بھی اسکو کہتے ہیں

فرح - بہ حاے حطی خوشی و خوشحالی - ملا مفید بلخی - گلگلت کہ فرح
در دل ناشاد دہد ٭ در عشوہ ز ابروے بتان یاد دہد ٭ بر طرف
چمن نسیم بہ اشارت ٭ گل دفتر حسن خویشتن بر باد دہد ٭

فرخ - بفتح اول وسکون ثانی مرغ خانگی کا چوزہ اور بچہ ہر ایک مرغ کا فراخ اسکی جمع ہی
فرخ - بفتح اول وتشدید ثانی مبارک وہمایون وخوبصورت یہ لفظ
فرخ تھا اجتماع دو حرف رے کے سبب ثقیل متصور ہو کر فرخ پڑھا گیا - حافظ
بجز بنفشہ زلفش پیچکس نیست * کہ برخوردار شد از روے فرخ * شود چون
بید لرزان سرو بستان * اگر بیند قد دلجوے فرخ *
فرفخ - خرفہ کا سبزہ یعنی ساگ -
فرسخ - معرب فرسنگ جسکے معنی تین میل کے ہین اور ایک میل
چار ہزار قدم یا ہزار اونٹ کا ہوتا ہی
فراخ - چوڑا اور وسیع اور بہت کشادہ تنگ کے مقابلہ پر - نظامی
گر انجیر خور مرغ بودے فرخ * نماندے یک انجیر بر ہیچ شاخ *
فراسخ - جمع فرسخ کی -
فرود - زیر وتحت یعنی نیچے اور نیچے کے درجے - نظامی - درود م
رسانی رسانم درود * تو آئی من آئیم زگردون فرود *
فرجد - دادا کا باپ پردادا
فرح آباد - ایران مین ایک بستی ہی نیز نام ایک سیرگاہ کا محسن تاثیر
فرح آباد گلستان لبا مینا طلب ست * موج می بال تدرو چمن آرائی می ہست *
فرشند - آکاس بیل جو ایک بیل خار دار درخت خصوصًا بیری کے درخت پر
پیدا ہو جاتی ہی اور بہت جلدی بڑھ کر درخت کو برباد کر دیتی ہی اسکی
کوئی جڑ نہین ہوتی گویا اس درخت کی جسمی بیماری ہی جب تک
وہ شاخ نہ کاٹ دی جائے جس سے اسکا آغاز ہوا ہی درخت بچ نہین سکتا
فرصاد - توت کا درخت جو مشہور ومعروف درخت ہی -
فرقد - گوسالہ گاے کا بچہ اور فرقدین وہ دو ستارے جو قطب کے نزدیک ہین
فرند - بکسرین معرب پرند تلوار اور تلوار کے جوہر اور نام ایک کپڑے کا
فرزد - بفتحتین نام ایک گھاس کا ہی جو نہایت سبز ہوتی ہی
فرزند - اولاد نرینہ ہو یا مادینہ لڑکا ہو یا لڑکی - مؤلف - بہ بند بندگی کے
بند باشی * جو در بند زن و فرزند باشی *
فراید - جمع فرید ومفرد تنہا لوگ -
فرد - تنہا - اکیلا - یگانہ مقابل زوج کے اور وہ بیت جو دو مصرع سے
زیادہ نہو اور وہ کاغذ جسپر حساب لکھا ہوا ہو - فرد از مؤلف - مرد
گیستی میدان ریاضت مرد باش * ترک دنیا کن با فراد زمانہ فرد باش *
فریاد - نالہ وزاری جو مظلوم کرتے ہین - صائب - بے تو اشب
ہر سر مویم صد افریاد داشت * ہر رگم در آستین صد نشتر فولاد داشت *
فریوند - نام ایک قصبے کا ہی جسمین فضل العلما میر محمود ابن یحیٰی فریوندی

سکونت رکھتے تھے ابن یحیٰی انکے باپ کا نام تھا -
فرید - تنہا - اکیلا - یگانۂ زمانہ وحید العصر فرید الدین گنج شکر چشتی
خاندان چشت مین بڑے عابد زاہد ولی کامل تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
دہلوی سے انھون نے نعمت حاصل کی تمام عمر ہدایت خلق مین مصروف
رہے سلطان المشائخ نظام الدین دہلوی انھین کے خلیفہ تھے سنہ ۶۶۴
ہجری مین یہ فوت ہوے اور پاک پٹن پنجاب مین انکا روضہ مقدس
زیارت گاہ خلق ہی ہر سال پانچوین محرم کو بڑا میلہ ہوتا ہی ہزارون
آدمی جمع ہوتے ہین اور بہشتی دروازہ کھلتا ہی جو انکے روضے کے ایک
دروازے کا نام ہی تمام سال وہ بند رہتا ہی - از مؤلف - رہنماے
طریق حق طلبی * پیشواے زمانہ فرد فرید * شیخ دنیا ودین
وحید العصر * مقتداے یگانہ فرد فرید *
فراوند - وہ لکڑی جو دروازے کے پیچھے واسطے بند کرنے دروازے
کے لگا دیتے ہین ہندی مین اسکو بیوڑا کہتے ہین -
فرہود - جو شخص اپنے مذہب مین راست ودرست ہو اعتقاد کامل رکھتا ہو
فرجاد - فاضل ودانشمند وبزرگ -
فرجود - کرامت ومعجزہ وخرق عادت -
فرخاد - غالب وزبردست -
فرکند - زمین سیلاب زدہ اور پانی کا راستہ اور نہر جو تازہ
کھودی گئی ہو اور ہر چیز خراب وبوسیدہ -
فرید - شہر طوس کے پاس ایک گانون ہی اسمین انگور عمدہ ہوتا ہی
مجوس یعنی آتش پرستون کا اعتقاد ہی کہ یہ انگور زردشت باغ
بہشت سے لایا تھا اور اس جگہ لگایا گیا وہ اب تک پھل دیتا ہی -
فرمند - صاحب شان وشوکت ودبدبہ -
فر - ہیبت وشکوہ ودبدبہ وشان وشوکت اور بھاگنا - معزی
فر جعفر دارد ولیکن ہمای ہمتش * زیر ہر ہفت آسمان مانندۂ جعفر
فرخار - فرخار ایک بستی ہی بدخشان مین اور دوسری ختلان مین
فرخاری شاعر فرخار مین رہتا تھا -
فراخور - لائق وسزاوار -
فرار - بکسر اول بھاگنا اور ڈرنا -
فرار - بفتح اول و رے مشدد بہت بھاگنے والا اور کیمیا گرون کی اصطلاح مین پارا
فرجار - معرب پرکار جو مشہور چیز ہی -
فرفیر - بروزن شبگیر بنفشے کا پھول -
فرفر - جلدی جلدی بہت جلدی -

فرغر - حوض - چھوٹا تالاب -

فرغور - ایک پرندے کا نام ہی جسکو تیہو کہتے ہین -

فرود - جدا ہونا - علیحدہ ہونا -

فرسسان الثور جو ایک گھاس ہی فارسی مین گاوزبان -

فراز - اس لغت کے بہت سے معانی ہین جو بعض اُنمین ایک دوسرے کی ضد ہین اول بالا و نشیب اور زیر و زبر دوسرے اندر آنا اور باہر جانا تیسرے عقب یعنی پیچھا چوتھے جوڑا ہوا ہوا - پانچوین قریب و نزدیک اور رو در رو و حضور چھٹے جمع ہوا ہوا فراہم شدہ ساتوین بندھا ہوا اور کھلا ہوا باندھنا اور کھولنا اور پوشیدہ کرنا اور ظاہر کرنا آٹھوین بعد ازین یعنی اس سے پیچھے نوین زمانہ یعنی وقت دسوین یعنی فرو یعنی ودشن کرنے والا - گیارھوین بلند و بلندی اور اوپر جانے والا بارھوین سرکش و نافرمان اور گھوڑا سرکش تیرھوان عضو تناسل چودھوان پیوند اور وصل وغیرہ - نظامی - دو سالار ہر دو بسان پلنگ + فراز آوریدند لشکر بجنگ + نہنگان شمشیر جوشن گداز + بگردن کشی کردہ گردن فراز +

فرز - مخفف فرزین جو ایک مہرہ شطرنج کا ہی -

فرادیز - کپڑے کے دامن کی سنجاف -

فرابرز - دارا کے لشکر کے ایک سپہدار کا نام ہی - نظامی - فرابرز نامی کہ از فربرز + تنش جوشنے بود بازوش گرز +

فرامرز - رستم کے بیٹے کا نام ہی -

فروز - روشنی کرنے والا - اور روشنی شعر - شب ہمہ شب در شنام منگر باش روشن ہمچو شمع دلفروز +

فریز - ایک خوشبو گھاس کا نام ہی جسکو سر پیا کہتے ہین -

فرفوز - ایک پرندے کا نام ہی -

فریس - لکڑی کا چھجہ جو کسی دوکان یا مکان کے آگے بنایا جاوے -

فرس - فارسی مین اسپ ہندی مین گھوڑا - سعدی - کہ پاکان درین رہ فرس راندہ اند + بلا احصی از تگ فرو ماندہ اند +

فراس - بفتح اول و دوم شیر درندہ -

فراس - بتشدید رائے گھوڑے کا خادم سائیس ٹہلیا -

فردوس - بہشت اور وہ باغ جسمین تمام جہان کے میوہ دار درخت ہون - قطعہ تاریخ وفات فردوسی طوسی ۴۱۱ و ۴۱۶ ہجری از مولف - شد ز دنیا بجنت فردوس + چون کرامت آب فردوسی + بلبل پارسی ست تاریخش + بار دیگر بخواب فردوسی +

فرادیس - جمع فردوس بہت سے باغ -

فرنگیس - افراسیاب کی دختر کا نام ہی جو سیاوش کے نکاح مین تھی کیخسرو اُسکا بیٹا تھا -

فروس - بہت سے گھوڑے جمع فرس -

فرسلوس - وہ پتھر جو سکندر کو ظلمات مین ملا تھا پارسے کے ساتھ طرح کرین تو چاندی بنجاتی ہی -

فرطوس - نام ایک پہلوان کا جو افراسیاب کے لشکر مین تھا -

فرفوس - نام ایک سرخ رنگ پتھر کا ہی جو زخم کو جلد اچھا کرتا ہی -

فرناس - غافل و نادان و غفلت و نادانی و نیم خواب و خواب آلودہ -

فرنکاس - بخیل و ممسک و کمینہ -

فریدیس - دریائی ٹڈی جسکو عرب مین جراد البحر کہتے ہین -

فریسوس - ایک بیماری ہی جس بیمار کو ہمیشہ نعوظ رہتا ہی شہوت کبھی کم نہین ہوتی -

فسوس - ظرافت و مسخری و دریغ و تاسف و حسرت اور نام ایک شہر کا جو پایہ تخت دقیانوس تھا -

فرلیش - تاخت و تاراج و غارت -

فرش - یہ لفظ مشہور لفظ ہی - نظامی - ہمہ بادیہ فرش اطلس کشیدہ + زمین زیر یاقوت شد ناپدید + وله - زد وازہ سدرہ تا ساق عرش + قدم بر قدم خدمت افگند فرش +

فراش - بکسر اول وہ فرش جسپر رات کو سوئین سونے کے کپڑے -

فراش - بفتح اول پروانہ جو ایک جانور ہی اور شمع پر جل جاتا ہی -

فراشی - فرش بچھانے والا - قطعہ از مولف - زوال دولت اہل کرم ہمی خواہد + گروہ اہل حسد تیرہ باطن و اوباش + اگرچہ مہرفشاند ز اوج گردون نور + کند غبار حسد کور دیدہ خفاش + بزم دہر شود تازہ ہمزبان ادلاس + ہمیشہ مسند تازہ بگسترد فراش +

فرص - بضم اول و فتح ثانی جمع فرصت -

فرض - خدا کا حکم جو بندہ کو ضرور کرنا چاہیے اگر تعمیل نہو تو سخت گنہگار ہو مقرر کرنا اور مشخص کرنا - اندازہ کرنا - عطا کرنا - توحید - بر بندہ ہست بندگی کردگار فرض + شام و سحر اطاعت پروردگار فرض + مردان حق بحکم الٰہی ادا کنند + شام و صباح واجب لیل و نہار فرض + میر معزی - ہر کہ مہر و عہد تو بر خویشتن + فرض دارد چون صلوة و چون صیام + از رہی ہرگز نیفتد در ضلال + در ضیا ہرگز نیفتد در ظلام +

فرائض - جو احکام خدا نے انسان پر فرض کیے ہین مثل نماز روزہ حج زکات وغیرہ اور نام علم تقسیم میراث -

فرط - زیادتی و غلبہ -

فرع - درخت کی شاخ-

فروع - فرع بہت سی شاخیں-

فروغ - بضم اول و دوم روشنی - ظہوری - در آتش فروغی فروچیدہ

اند چو کہ گرمی و سردی در و دیدہ اند ٭

فراغ - فراغت - مہلت - فرصت - میر خسرو - کسیکہ بوی تو اش

در دماغ می افتد ٭ ز زندگانی خویشتش فراغ می افتد ٭

فراق - جدائی جو دو دوستوں میں ہو - حافظ - قضا فگند مرا بازدر

بلاے فراق ٭ اسیر بند غمم کرد و مبتلاے فراق ٭

فرق - جدا کرنا رستہ کھولنا مانگ سنوارنا اور سر جسکو عربی میں راس کہتے ہیں -

فرق - بکسر اول و سکون ثانی بکریوں کے گلے-

فرق - بکسر اول و فتح ثانی جمع فرقہ بہت سے فریق - سعدی - فرقست

میان آنکہ یارش در برے ٭ با آنکہ دو چشم انتظارش بر درے ٭

فرزدق - عرب کا ایک مشہور شاعر تھا-

فریق - تمام قوم میں سے ایک گروہ جو قوم سے الگ ہو گیا ہو-

فروق - بفتحتین فرق کرنا-

فروق - بفتح اول و ضم ثانی فرق کرنے والا-

فرسنگ - تین میل اور ایک میل چار ہزار گز اور ہر ایک گز چوبیس انگشت - سعدی - گر بر رفیقان نباشی شفیق ٭ بفرسنگ بگریزد از تو رفیق ٭

فرنگ - بفتحتین نام ایک ملک کا جو مشہور ہے-

فرنگان - جسکے رہنے والے صبیح و سرخ و سپید ہوتے ہیں - ارادت خان واضح -

بردیم مردل نامہ باقلیم فرنگان ٭ بستند بزنار نگہ بال و پر ما ٭ محسن تاثیر -

و ارم تیے بچہرہ ز اطلس فرنگ تر ٭ از ہر پلنگ تندی خویش پلنگ تر ٭

فرنجاک - بفتحتین بیماری کابوس کی جس سے انسان خواب کی حالت میں

دبا لیتا ہے اور وہ ہل نہیں سکتا-

فرہنگ - عقل و ادب و اندازہ اور کتاب لغت کی - ؁ - آفریدنہان

نرا رب کریم ٭ عقل و علم و دانش و فرہنگ داد ٭

فراستوک - نام ایک پرندے کا جسکو خطاف بولتے ہیں-

فرک - ژندی زبان میں حقیقت یعنی سچائی-

فرانک - فریدون کی ماں کا نام تھا-

فرخاک - وہ بال جو پیچیدہ نہوں-

فرخاک - وہ سالن جو گوشت اور انڈوں سے بناتے ہیں خاگینہ بھی اسکو کہتے ہیں-

فرشاک - چھوٹے خوشے انگور کے-

فرغوک - خاموش و کم زبان اور سست و کاہل وجود آدمی-

فرفوک - لٹو جو لڑکے بذریعہ تاگے کے زمین پر پھراتے ہیں-

فروشاک - بلغور یعنی دلیا جو گیہوں وغیرہ غلوں سے بناتے ہیں-

فرلوک - خربزہ جو مشہور پھل ہے-

فرگل - ایک قسم کا سرمائی پیرہن ہے - ملا طغرا - زمین از ریاحین شدہ

جیب پوش ٭ ہوا از شفق گشتہ فرگل بدوش ٭

فربال - تابستانی مکان بالاخانہ-

فرغول - غفلت کرنا - غافل ہونا - تاخیر و درنگ کرنا-

فرجام - انجام و انتہا و آخر و عاقبت و لائق - سعدی - برش

تنگ دستی و دو حرفی نوشت ٭ کہ اے خوب فرجام فرخ سرشت ٭

فرزام - لائق و سزاوار-

فراہم - یکجا و جمع-

فرم - ایک مرکب دوا ہے جو عورتیں تنگی اندام نہانی کے لیے استعمال کرتی ہیں-

فرزان - عقل و علم و دانش-

فروردین - شمسی پہلا مہینہ مدت رہنے آفتاب کی برج حمل میں جو

اکتیس دن ہوتے ہیں ہندی میں یہ مہینہ تقریبا بیساکھ کا ہے اور

انیسویں دن ہر مہینے شمسی کا نام بھی فروردین ہے-

فرامین - بہت سے پادشاہی فرمان-

فراوان - بہت سا - حد سے زیادہ - سعدی - دریاے فراوان نشود

تیرہ بسنگ ٭ عارف کہ برنجد تنک آبست ہنوز ٭

فروزان - روشن چمکتا ہوا - پر نور - جامی - وجود او فروزان

آفتاب ست ٭ کہ ذرہ ذرہ از وے نوریاب ست ٭

فرزین - شطرنج کے پادشاہ کا وزیر - ملا تشبیہی - غافل مشو ز بازی

شطرنج حسن خویش ٭ کاین کمین پیادہ تو فرزین شاہ بردا

فرمان - حکم جو حاکم کی طرف سے محکوم کے نام جاری ہو - کمال اسمٰعیل -

یار آمد و دوش کرد لیش مہمانی ٭ ہر چیش گفتم نکرد نافرمانی ٭ مے خورد

تخفت ست و در وابستم ٭ دانگہ با او چہ کردہ باشم دانی ٭

فریدون - نام بادشاہ جو ضحاک کو قتل کرکے بادشاہ ہوا پانسو برس

بادشاہی کی - نظامی - ولایت ستان شاہ گیتی پناہ ٭ فریدون

کمر بلکہ خاقان کلاہ ٭

فرقان - جدا کرنے والا حق کو باطل سے قرآن مجید - منتخبہ از مولف -

جدا کر دیا حق کو باطل سے حق نے ٭ آثار احمد ہے جسوقت فرقان ٭

فرقدین - فرقدان - دو ستارے جو قطب شمالی کے گرد اگرد پھرا کرتے ہیں

اور شام سے صبح تک نظر آتے ہیں-

فراگن - وہ زمین جو بلند ہو اور نہر جو بارہ کھد کر پانی جاری ہو آبجو
فرسلون - نام ایک پتھر کا ہے جو شیشہ کی طرح صفا ہوتا ہے -
فرعون - متکبر و سرکش - خود مختار اور لقب ولید بن مصعب کا جسنے
مصر کی بادشاہت کی دماغ مین خدائی دعوے کیا اور انا
ربکم الاعلی کا کلمہ زبان پر لایا موسی پیغمبر اسپر بھیجے گئے اور اسنے اطاعت
نہ کی اور دریا مین غرق ہوا - از مؤلف - شعر فرعون بے سامان
کہ آید + بے سر کوبیت موسی زمین + جو فخر خاکساران خاک راہی
ست + بخاک عجز نہ در سجدہ گردن +
فرفین - خرفہ کا ساگ جسکو عربی مین بقلۃ الحمقا کہتے ہین -
فرفیون - ایک دوا ہے جسکی تشریح پانچوین فصل مین لکھی جائیگی
انشاء اللہ تعالے -
فرو - بروزن سرو - لومڑی کے چمڑے کی پوستین -
فرسودہ - پرانا - گھسا ہوا - گیا گذرا -
فرغانہ - ایک ملک کا نام ہے ماوراء النہر مین اندجان اور سمرقند کے
درمیان اور نام ایک شعبہ کا موسیقی مین -
فروزینہ - آگ جلانے کا سامان جس خس و خاشاک سوختہ و سنگ چقماق وغیرہ
فرہ - شان و شوکت و دبدبہ -
فرہ - بکسر اول و دوم تخفیف راے بروزن گرہ زیادتی و غلبہ و صفت -
فرہ - بفتحتین خوش مزاج و خوش طبیعت -
فرزانہ - حکیم و دانشمند صاحب علم و فضل - قطعہ از مؤلف - دل
بندد بعالم فانی + صاحب ہوش مرد فرزانہ + پاے در دام
رنج و غم نہ نہد + مرغ دانا براے یک دانہ +
فرزجہ - وہ ٹکڑا کپڑے کا جو دوا کے ساتھ تر کرکے دبر یا قبل مین
بسبب کسی بیماری کے رکھین -
فرومایہ - کم ذات کمینہ - نیچ بے ہنر سے - بقول اہل علم و
صاحب ہوش + کیا مرد فرومایہ کند گوش +
فرشتہ - یہ لفظ فرستہ بسین مہملہ تھا یعنی فرستادہ بھیجا ہوا اسین
سین معجمہ کے ساتھ مبدل ہوا فرشتہ بنگیا - مؤلف - فرشتہ بن کے
پرستان خاکی عرش پر پہونچے + اگر فرش مین سے پر لگا کر شوق کے اڑ جائے +
فروختہ - بیچ کیا گیا - بیچا گیا اور روشن -
فرجہ - کشادگی اور تھوڑا سا فرق جو دو چیزون مین ہو اور شگاف اور چھید -
فریسہ - وہ شکار جسکی گردن شیر یا پلنگ یا کتے نے توڑی ہو -
فربہ - موٹا پر گوشت مقابل لاغر کے - سعدی - آن شنیدی کہ
لاغر دانا + گفت روزی بابلہے فربہ + اسپ تازی اگر ضعیف
بود + ہمچنان از طویلہ خر بہ +
فریہ - جھوٹ اور افترا -
فراہ - نام ایک شہر کا ہے سیستان مین ابو نصر فراہی اسی جگہ کے
رہنے والے تھے جنھون نے نصاب صبیان تصنیف کی نیز ایک بستی ہرات کے پاس
فرضہ - وہ محصول جو سوداگرون اور بیاپاریون سے لیا جاتا ہے
نہر کا دہانہ اور دریا کا گذر جس موقع سے کشتی پر سوار ہون -
فریضہ - خدا کا حکم نماز روزہ حج زکوۃ -
فراشہ - جاروب جھاڑو جس سے مکان صفا کرتے ہین -
فرعودہ - سرشتہ یعنی گوندھا ہوا -
فریفتہ - فریب کھائے ہوے عاشق
فرخندہ - بفتح اول و ضم و فتح خاے مبارک و نیک - سعدی - جم از
بخت فرخندہ فرجام تست + کہ تاریخ سعدی در ایام تست +
فروجہ - مرغیون کے بچے - چوزے -
فرفرہ - پھرکی جو ایک کھیل لڑکون کا ہے -
فرازندہ - بلند کرنے والا - اوپر کھینچنے والا - سعدی - کہ اے
بر فرازندہ آسمان + بہ بخشش گرفتی بطلمش رمان +
فرستادہ - بھیجا ہوا رسول پیغمبر - نظامی - فرستادہ خاص
پروردگار + رسانندہ حجت استوار +
فرستافہ - نوروز کی رات -
فرمہ - بنفشہ کے پھول جو مشہور چیز ہے -
فرنجہ - نام ایک ولایت کا ہے جسکو فرانس کہتے ہین دریاے فرنگ کے کنارے -
فرنہ - لعنت و نفرین -
فرمی - باشان و شوکت -
فرجی - جیم کے ساتھ قباے بند کھلا قبا جو بند قبا کے اوپر پہنتے ہین -
فریادی - فریاد کرنے والا -
فریبی - فریب دینے والا -
فراوانی - زیادتی بہتاتیت - افزونی - ملا فوقی یزدی - جواب دوم
اگر جان بہت ندارد قدر + ترا دہم زر و سیم و گر فراوانی +

فا باز اے معجمہ

فزا - بڑھانے والا اور خمیازہ - توحید - بیشک و لاریب در
حسن و جمال جان فزا + دلربائی دلربائی دلربائی دلربا +
فزار - ہر ایک اہل حرفہ کے کام کرنے کے ہتھیار و اوزار جس سے وہ کام کرین -

فرز - بہ زائے معجمہ عضو تناسل جسکو عربی مین ذکر کہتے۔

فرز - ایک گھاس کا نام ہے جسکو ہندی مین دوب کہتے ہین۔

فزع - بفتح اول و دوم خوف و ترس و بیم - ؎ بیم تو نہادست
قدم بر سر جیپال ؛ عزم تو فگندست فزع در دل فغفور ؛

فزع - بفتح اول و کسر ثانی خائف و ہراسان - ڈرتا ہوا۔

فژاک - پلید و مردار و نجس و پلیدی و نجاست نیز آدمی کا سر اور کلاہ

فژم - ماندگی و دل تنگی و غم و اندوہ۔

فزون - بضم اول و دوم زیادہ - ؎ حسن تو ز مہر و مہ فزون باد ؛
روے تو ز لالہ گون باد ؛

فژہ - زشت و ناخوش و چرکین و متعفن بدبو سڑی ہوئی چیز ؎ کاشی -
ز کف برنخیزی آب از خضر بد استی ؛ کہ زر ماندہ با زندگی فژہ بودہ است ؛

فژودہ - وہ لکڑی جو دروازے کے پیچھے لگاتے کہ اسکے ذریعہ سے دروازہ
بند رہے باہر سے کوئی کھول نہ سکے ہندی مین اسکو بیوڑا کہتے ہین۔

فزونی - زیادتی - ترقی - ؎ یکی در تحکم یکی در زبونی ؛ یکی در زوال و یکی در فزونی

فاے با سین مہملہ

فسحت - فراخی و کشادگی مقابل تنگی کے - سعدی ؎ فسحت میدان
ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی گوی ؛

فسخ - بفتح اول توڑ دینا کسی منعقد امر کو کسی بیع یا نکاح وغیرہ کو
واپس کرنا اور فساد کرنا - سنجر کاشی - ؎ بجز زیان چہ رسید از تو ام ہزار
دریغ ؛ کہ فسخ بیع در آئین ما نکے باشد ؛

فسار - مخفف افسار گھوڑے کی باگ ڈور اور وہ چمڑا جو گھوڑے کے
سر پر ہوتا ہے فارسی مین اسکو تختہ بھی کہتے ہین۔

فسوس - بازی و ظرافت و مسخری و استہزا اور دریغ و تاسف و حسرت
اور نام اس شہر کا جو پایہ تخت دقیانوس تھا و بفتحتین مخفف افسوس

فسطاط - رومی زبان مین سراپردہ - تنبو خیمہ و نام ایک شہر کا مصر کے علاقہ مین

فستق - بضم اول معرب پستہ جو ایک مشہور میوہ ہے۔

فسوق - فسق و فجور و بدکاری۔

فسوق - بفتح اول و ضم ثانی وہ شخص جو ہمیشہ فسق کرے۔

فسق - بدکاری کرنا گناہ کرنا۔

فسکل - بکسر اول گھوڑون کی قطار مین سے دسوین گھوڑے کا نام ہے۔

فسان - فسن - وہ پتھر جسپر تلوار اور چھری وغیرہ تیز کرتے ہین صائب
تیغ فسان کشیدہ میدان جرأت اند ؛ ما کہ تن بسختی ایام دادہ ایم ؛

فسون - بفتحتین فسون اور فسون وہ ہے جسمین کفر کے کلمات نہون۔

فسیحہ - فراخ اور چوڑا کھلا ہوا۔

فسقہ - بفتحات بہت سے فاسق۔

فسدہ - بفتحات فساد کرنے والے لوگ۔

فسانہ - سرگذشت و ماجرا و حکایت۔

فسردہ - پریشان اور پشیمان اور منجمد ہوا ہوا - سرد ہوا ہوا۔

فسرنگ - لرزان یعنی کانپتا ہوا خواہ بسبب سردی خواہ بسبب خوف

فسفسہ - ایک قسم کی گھاس ہے جسکو اسپست فارسی مین عربی مین
رطبہ ترکی مین یونجہ کہتے ہین۔

فسیلہ - گلہ بکریون وغیرہ چوپایہ جانورون کا۔

فستقی - سبز رنگ مائل بزردی یعنی پستہ کی رنگت۔

فاے با شین معجمہ

فشست - بکسر اول و تشدید شین معجمہ و فتح سین مہملہ و سکون تای
سانپ کی آواز جو اسکی سانس لینے کے وقت نکلتی ہے - محمد سعید اشرف
ما چند ندگر بہ سر گنجی بنزاع ؛ کہ زنند اہل جہان این ہمہ فشست بہم ؛

فشار - فشارش - بفتح اول زور سے نچوڑنا پانی کا کسی میوے انگور
وغیرہ سے - طاہر وحید - تو گوئی از فشار شہاے افزون ؛
ز خاک افتادہ بیرون گنج قارون ؛ میرزا صائب - شد از فشار
گردون موی سفید سر زد ؛ شیری کہ خوردہ بودم در روزگار طفلی ؛

فشار - بضم اول ہذیان و بیہودہ گوئی بکبک کرنا۔

فشر - گالی دینا - برا بولنا۔

فش - دنبالہ ہر چیز کا اور دستار یعنی پگڑی کا شملہ - شانی تکلو
از ہمہ نومید تر شانی ست کز شاخ بلند ؛ دست او محروم تر باشد کہ
گو نہ فش تر ست ؛ آرزو - قماش روے کار از پشت میگردد عیان
لیکن ؛ توان از ریش زاہد یافتن اندازہ فش را ؛

فشافش - تلوارون اور تیرون کی آواز جو جنگ کے وقت نکلتی ہے۔

فشاغ - پہاڑی انگور۔

فشان - جھاڑنا اور جھاڑنے والا - صفدر قوالی - زمانہ احوال
کن شست شو بہر زمان با اشک چشم خون فشان ؛

فاے با صاد

فصاحت - خوش گوئی و خوش بیانی تیز زبانی اور خالی ہونا کلام کا
عیوب ظاہری و باطنی سے اور پاک ہونا ترکیب غیر مانوس الفاظ
درشت و ثقیل سے - بلفظتیہ گفتہ نعت محمد کار فرماے عرب ؛
در زبان پارسی داد فصاحت دادہ ؛

فصد - خون نکالنا - رگ کھولنا -
فص - نگینہ جو انگشتری پر نصب کریں -
فصوص - بہت سے نگینے اور نام ایک کتاب کا جسکو شیخ محی الدین ابن عربی نے
اسرار حقیقت الٰہیہ میں تصنیف کیا -
فِصال - بکسر اول باز رکھنا - الگ کرنا - جدا کرنا - دودھ چھڑانا شیرخوار بچے کا
فَصّال - جدا کرنے والا - الگ کرنے والا - توحید - توئی ناظر توئی
حاضر بہر حال - توئی لفظ و توئی معنی بہر فال ٭ بافر بانت شود ہر دم
نمایاں ٭ زیک پاک شکل بے تعداد اشکال ٭ یکی خوشحال و فا شبال
و خرسند ٭ دگر غمگین بفکر ماضی و حال ٭ یکی شل الف استادہ بر پا
دوم خم کردہ گردن صورت دال ٭ تو فصّالی بہر باب بہر فصل +
بہر وصل و بہر پیوند وصال ٭
فَصیل - وہ بچہ جسکا دودھ چھڑایا جائے اور وہ دیوار جو شہر کے چاروں طرف ہو
فصل - فاصلہ اور حصہ اور ایک موسم تمام سال کے چار موسموں سے
فصول - جمع فصل کی ہے -
فصلی - منسوب بفصل یعنی پیدائش بیج یا خریف یا سردی یا گرمی کی -

فاے با ضاد معجمہ

فضا - فراخ زمین اور صحن اور میدان -
فضلا - جمع فاضل کی بہت سے فاضل -
فضیحت - خرابی - رسوائی - بدنامی - سعدی - آدمی را زبان
فضیحت کردہ ٭ جوز بے مغز را سبکساری ٭
فضیلت - افزونی و زیادتی و علم و فضل - سعدی - نگویم فضیلت
بنہم بر کسے ٭ چنان باش با من کہ با ہر کسے ٭
فضح - رسوائی - بدنامی - خرابی - بے آبروئی -
فضوح - رسوائی -
فضل ربیع - ہارون رشید کے ایک مصاحب کا نام ہے جو سخی و نیکو کار تھا
فضل - افزونی - زیادتی - بخشش - غلبہ اور نام ایک شاعر کا
توحید - بدار و بہر آنکس کہ بیشود شب باش ٭ علی الصباح بہ بندد
زرین سرابستہ ٭ نہ غم بماند نہ راحت نہ مرد ماند نہ زن ٭ نہ طفل
ماند نہ پیر نا نہ اصغر و اکبر ٭ نہ عرض ماند نہ جوہر نہ جسم ماند نہ جان ٭
نہ نور ماند نہ ظلمت نہ خیر ماند نہ شر ٭ نہ اہل شرک نہ مسلم نہ اہل
ہوش نہ مست ٭ نہ اہل جہل و تغافل نہ اہل فضل و ہنر ٭
فضائل - زیادتیاں بزرگیاں - بلند درجے فضائل باطنی نعمتیں
اور فواضل ظاہری نعمتوں کو کہتے ہیں -

فضیل - نام ایک کامل ولی کا شجرۂ عالیہ چشتیہ اہل بہشت میں -
فُضول - بضم اول مصدر ہے زیادہ کرنا اور جمع فضل کی زیادتیاں بزرگیاں
فَضول - بفتح اول و ضم ثانی زیادہ گو اور وہ شخص جو غیر ضروری کام کرے
صائب - بقسمت ازلی باش از جہان خرسند ٭ کہ چون فضول شود میہمان گران گردد
فضلہ - پس ماندہ جھوٹھا اور وہ فضول شاخیں جو درخت سے کاٹی جائیں
فضالہ - ناکارہ شاخیں جو درخت سے اتاری جائیں اور پس ماندہ کھانا اور
فضہ - نقرہ یعنی چاندی -
فضولی - زیادہ و افزونی - مولانا ے روم - روز اول چون فضولی
کردہ ٭ وان فضولی از جہولی کردہ ٭ نظامی - گہر خر چہار ند گوہر
چہار ٭ فروشندہ را با فضولی چہ کار ٭

فاے با طاے مہملہ

فطرا - یونانی زبان میں ہر ایک قسم کا تخم یعنی بیج -
فطنت - زیرکی و دانائی -
فطانت - زیرکی و دانائی -
فطرت - پیدائش و دانائی و صدقۂ عید رمضان - شعر -
صدقۂ عید فطر نا دادہ ٭ روزۂ تو معلق استادہ ٭
فَطر - بفتح اول چیرنا اور پیدا کرنا اور روزہ کھولنا -
فِطر - بکسر اول روزہ کھولنا اور روزہ کھولنے والے -
فطیر - گوندھا ہوا آٹا مقابل خمیر کے -
فطس - ناک چپٹی ہونا اور چوڑی ناک -
فطّیس - بتشدید طا لوہاروں کا ہتھوڑا اور گھن یعنی اہرن -
فطام - چھڑانا دودھ بچہ شیرخوارہ کا بعد گذرنے عمر دو سال اور شکستگی
جو کسی کی جدائی کے سبب سے ہو -
فطن - زیرک ہونا - دانا ہونا -
فطراسالیون - یونانی زبان میں تخم کرفس جو ایک مشہور دوا ہے -
فطری - اصلی خلقی پیدائشی -

فاے با ظاے معجمہ

فظ - سخت دل و درشت سخن -
فظیع - شنیع و قبیح جو قباحت میں اندازہ سے گذر جاے -

فاے با عین

فعّال - بتشدید عین بسیار یعنی بہت کام کرنے والا -
فِعال - بکسر اول و تخفیف عین جمع فعل بہت سے کام کرنے والے -
فِعل - کام و کردار جو کسی سے سرزد ہو - شعر - توبہ از ہر فعل بد کن برملا

مغفرت ❊ وردکن شام و سحر استغفر اللہ العظیم ❊

فاے با غین معجمہ

فغند۔ ہرن کی طرح کلانچ بھرنا جست مارنا۔

فغفور۔ یہ خطاب چین کے بادشاہ کا ہی اور نام ایک بادشاہ کا جو چین مین آل شکان مین سے بادشاہ ہوا اور سکندر رومی کے بعد اُسنے باسٹھ برس بادشاہی کی اس لفظ کے معنی مین بت کا بیٹا کیونکہ چینی زبان مین فغ بت کو کہتے ہین اور فور کے معنی بیٹا اسکے ماں باپ نے بوقت پیدا ہونے اُسکے کے اُسکو بت کی نذر کر دیا اور فغفور نام رکھا اس خیال سے کہ اُسکی عمر دراز ہو چونکہ اُسکی عمر بھی دراز ہوئی اور بادشاہت بھی باسٹھ برس کی ہر ایک بادشاہ جو اُسکے بعد ہوا اپنا خطاب فغفور مقرر کر دیا۔

فغفور۔ چین کے ملک مین ایک شہر ہی اُسکے رہنے والے کمال خوبصورت ہین تمام بت تراشنے والے بھی اُسی شہر مین رہتے ہین۔

فغیاز۔ اخیر مین زاے معجمہ عطا و بخشش۔

فغ۔ بفتح اول بت جسکو عربی مین صنم کہتے ہین۔

فغاک۔ ابلہ و نادان و احمق و حرامزادہ جو اپنے باپ کے نطفے سے نہو

فغان۔ نالہ و فریاد مگر فغان کی آواز نالہ سے بلند ہوتی ہی اصل مین فغان ناقوس کو کہتے ہین جسکے معنی سنکھ کے ہین اور سنکھ بتخانون مین بجایا جاتا ہی اور فغ بت کو کہتے ہین اور فغان ناقوس معلا باجا بھی

فغان زین چرخ دولابی کہ ہر روز ❊ بجا ہی اگند ماہ دل افروز ❊

فغستان۔ خوبصورت لوگ و بتخانہ و حرم سراے بادشاہ او خوبصورت عورت

فغوارہ۔ خاموش بے جان بت کی طرح۔

فغانی۔ فریاد کرنے والا اور تخلص ایک شاعر کا۔ عبد الغنی قبول

نالہ ام چون دید در طفلی پدر ❊ گفت این بابا فغانی میشود ❊

فاے با فاے

ففہ۔ پھونک فارسی مین دم۔

فاے با قاف

فقہا۔ جمع فقیہ بہت سے فقیہ لوگ۔

فقاہت۔ دانشمندی و علم و فضل۔

فقاح۔ پھول اور شگوفہ ہر چیز کا۔

فقد۔ گم کرنا اور گم ہونا۔ اور نام ایک گھاس کا جسکو پنج انگشت بھی کہتے ہین اور صاحب استسقا کو کھلاتے ہین۔

فقر۔ مفلسی تنگدستی محتاجی اور خداپرستی زہد و ریاضت جیسے حدیث ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم الفقر فخری فرماتے ہین بزرگون کا قول ف سے مراد فاقہ ق سے مراد قناعت ر سے مراد ریاضت ہی

مؤلف چون نبی الفقر فخری گفتہ است ❊ رو شتابید از فقرای مرد فقیر ❊

فقیر۔ صاحب فقر خداپرست۔ عابد زاہد۔ مؤلف۔ گدست بادشہ ملک در تمام جہان ❊ فقیر صاحب فقر ست در زمانہ امیر ❊

فقار۔ گردن کی مُہری پشت سے کمر تک۔

فقاع۔ بوزہ جو چاولون کا بناتے ہین پینے کے بعد نشہ لاتا ہی اور وہ شراب جو غیر مسکر ہو شیشہ و حباب و پیالہ و کوزہ۔

فقّع۔ بضم اول و فتح ثانی ایک قسم کی شراب ہی۔

فق۔ حیران و سرگردان و متحیر۔ ع۔ چہ میدانی سست بیدان محبت

اگر رستم بہ بیند فق بماند ❊

فقدان۔ گم ہونا اور گم کرنا۔

فقہ۔ جاننا دریافت کرنا اور علم احکام شریعت محمدی کا۔

فقیہ۔ وہ جو شخص علم فقہ پڑھا ہوا ہو۔ ع۔ بیاموز احکام دین از فقیہ ❊ کہ بے علم باشد لئیم و سفیہ ❊

فقاہ۔ دانائی و دانشمندی و فہم و ادراک و عقل۔

فقاعی۔ جو شخص برف اور دوشاب فروخت کرتا ہو۔ سیفی۔ آن فقاعی کہ از جان جہان ستمرا ❊ برف و دوشاب از او رحتجان ستمرا

فاے با کاف

فکاہت۔ مزاح مسخری ہنسی خوش طبعی۔

فکرت۔ اندیشہ طبیعت کا لگاؤ۔ حکیم ازرقی۔ عنبرگین گردد از خلق تو فکرت در دماغ ❊ گوہرآگین گردد از مدح تو معنی در خیال ❊

فکر۔ بالکسر و بالفتح اندیشہ اور طبیعت کا لگاؤ۔ مؤلف۔ خداپرست گذار و ہمیشہ عمر عزیز ❊ گہے بذکر خدا و گہے بفکر خدا ❊ حافظ۔ غمزہ شوخ تو خونم بخطا میریزد ❊ فرصتش باد کہ خوش فکر صوابے دارد ❊

فگار۔ مجروح و زخمی اور جراحت یعنی زخم۔ صفدر رفوقانی ❊ ذکر مولی دار وے درد دل ہست ❊ ہست فکرش مرہم جان فگار ❊

فکز۔ بزاے معجمہ دود کش و بگدان و آتشدان حمام۔

فکّ۔ جدا کرنا دو چیزون کا جو آپس مین ملی ہوئی ہون۔ خلاص کرنا اور آزاد کرنا اور دونون جبڑے انسان کے منہ کے جسمین زبان رہتی ہی یعنی وہ دونون حصے جسمین نیچے کے دانت اور اوپر کے دانت ہین اوپر کے جبڑے کو فک اعلی اور نیچے کے جبڑے کو فک اسفل کہتے ہین۔

فگانہ۔ وہ بچہ جو قبل از ولادت ماں کے پیٹ مین مر جائے۔

فا ے با لام

فلا - بیابان جنگل ویرانہ -

فلونیا - ایک معجون کا نام ہے جسمین افیون پڑتی ہو مخدر ہوتی ہے

فلزات - وہ دھات جو آگ مین گل جاے مثلاً لوہا و کلی تانبا چاندی سونا سکہ جست پارہ انہین سے جو گران تر ہے سونا ہے اور سبک تر قلعی -

فلاحت - کشاورزی زمینداری کاشتکاری -

فلات - وہ ویرانہ جنگل جسمین پانی اور گھاس نہو اور بیابان کپڑے بننے کا -

فلاکت - فلاکت دگی ونا داری مفلسی و گردش زمانہ و نکبت عبد الغنی قبول

بخورشید بنگر کہ گرد عیانست ٭ فلاکت نان شب از فلاکت ندارد ٭

فلج - دروازے کی زنجیر اور نام بیماری کا جسکو فالج کہتے ہین اور بیکار ہوجانا

فلاح - فتح مندی خیر و خوبی و نیکی و آسایش -

فلاح - بتشدید لام کاشتکار اور نیک آدمی - توحید - ہر کرا صالح بود اندر جہان ٭ کوشش او ہست در صلح و صلاح ٭ سعی و اقبال سکندر روز و شب ٭ مرد حق فلاح از بہر فلاح ٭

فلنج - بخاے معجمہ پشیہ دانہ جسکو ہندی مین ہولے کہتے ہین اور پنجابی مین ڈرلون -

فلاد - عبث و بیہودہ و بے فائدہ -

فلمند - عمل نقطہ اور دیوار کہانٹون کی جو زراعت اور باغ کے چارطرف بناتے ہین اور دریا مین وہ موقع جہان کشتی غرق ہوتی ہو -

فلز - بکسرتین و تشدید جوہر کانی چاندی سونا وغیرہ -

فلازہ - وہ تبرک خورما و شیرینی وغیرہ جو بزرگون کے مزارات سے حاصل ہو

فلس - تانبے کا پیسا -

فلوس - جمع فلس تانبے کے پیسے -

فلاطوس - نام ایک حکیم کا جو عذرا معشوقہ وامق کا استاد تھا -

فلنج - تبر جس سے لکڑیان چیرتے ہین -

فلق - چیرنا اور سپیدی صبح صادق کی -

فلیق - کرم پیلہ جس سے ریشم نکلتا ہے اور لوگ اسکو پال کر ریشم لیتے ہین

فلک - بضم اول و سکون ثانی کشتی جسکے ذریعہ سے پانی کا سفر کرتے ہین -

فلک - آسمان جو شمار مین سات ہین اور نام ایک لکڑی کا جسکے دو طرف دو سوراخ ہوتا ہے سوراخون مین رسّی ڈالکر معلم شوخ لڑکے کے پانو مین باندھ دیتا ہے پھر اسکو سزا دیتا ہے - محمد سعید اشرف - چون زدہ لم بر جہد ما لیرچرخ بکشم ٭ چارہ بلی فلک بود طفل گریزپا ے را ٭

فلاسنگ - فلاخن جس سے پتھر پھینکتے ہین -

فلفل - مرچ کالی جو مشہور چیز ہے - سعدی - گل آورد سعدی سوی بوستان ٭ بشوخی چو فلفل بہندوستان ٭

فلیل - خوشبو روغن جو موتیا اور چنبیلی سے بناتے ہین - ملا طغرا کف مطرب از چرب نرمی چو تیل ٭ تن ہندوی عود را شد فلیل ٭

فل - نیلوفر اور بیخ نیلوفر -

فلج - زنجیر اور قفل جو دروازون کو لگایا جاوے اور کلید جس سے قفل کھولین

فلخم - دستہ دھنیون کا جو کمان کے تانت پر مار کر روئی کو دھنتے ہین -

فلیوان - احمق لوگ اور بیہودہ لوگ -

فلاخن - فلاسنگ پتھر پھینکنے کا آلہ ہندی مین اسکو گوپھن اور گوپھانی کہتے ہین

فلان - وہ شخص جو نا معلوم ہو - سعدی - خیرے کن ای فلان و غنیمت شمار عمر ٭ زان پیشتر کہ بانگ برآید فلان نماند ٭

فلسطین - شام مین ایک ملک کا نام ہے -

فلاخان - فلاسنگ جسکا ذکر تحریر ہو چکا -

فلاطون - فلاطن - مشہور حکیم کا نام ہے - نظامی - ارسطو لب خمر فلاطون بجام ٭ مے لعل ریزندہ چون خون خام ٭

فلاچہ - کرہ اسپ گھوڑے کا بچھیرا جو ایک برس کا ہوا اور دودھ سے چھوٹا ہوا

فلنگ - بیہودہ و بے فائدہ -

فلکہ - لکڑی کی ٹکیا گول جو خیمہ کی چوب کے سر پر لگائی جاتی ہے اور بہت چھوٹی ٹکیا سوراخ دار جو سوت کاتنے والے دوک پر چڑھا کر سوت کاتتے ہین -

فلذہ - جگر کا ٹکڑا -

فلسفہ - حکیم اور دانشمند ہونا -

فلاسفہ - بہت سے حکیم اور دانشمند -

فلا - نوزائیدہ گاے بھینس بکری کا دودھ جو پہلے روز دوہا جاتا ہے اور آگ پر رکھنے سے منجمد ہوجاتا ہے ہندی مین اسکو پیوسی اور کھیس کہتے ہین

فلاتہ - نام ایک قسم کے حلوے کا جو بکری کا دودھ ملا کر پکاتے ہین -

فلادہ - بدال مہملہ بیہودہ و بے فائدہ -

فلاوہ - بواو مہملہ سرگشتہ و حیران -

فلفل موبہ - درخت فلفل کی جڑ -

فلنجہ - نام ایک تخم کا ہے جب اسکو ہاتھ مین ملین خوشبو دیوے -

فلوزہ - لکڑی کا شہتیر جو چھت پر ڈالین -

فلیفا - میوہ درخت عود کا جسکو ناخوزہ بولتے ہین -

فلاطوسی - وزن ایک درم کا -

فلابی - ایک معجون مخدر کا نام ہے -

فلسفی - حکیم و دانشمند ہونا۔

فلونی و فلونیا - یہ بھی ایک معجون نشی ہی - ظہوری رباعی بر سر خوان
لقمہ ربائی نکنم * زینت کہ پشت دست خالی نکنم * ترسم نشوم صاحب
کیفیت اگر * از شاہ فلونیا گدائی نکنم *

فاے با میم

فم و فم - دہان یعنی منھ دات۔

فاے با نون

فنا - بکسر اول حوالی و نواحی و گرداگرد خانہ وصحن قرابخ۔

فنا - بفتح اول و دوم نیست و نابود ہونا غائب ہونا - اوحدی سیکھند -
در پردہ کار آن پردہ دار * بیبر دپوشیدہ دل آن دلربا * نیست دیکجا
قرار و سکنش * یار ہرجائی ست آن نا آشنا * راست وچپ زیر و بالا
جلوہ گر * پیش رو موجود و حاضر در فنا * ہست اند نیست و نیست ست *
در فنا فانی و باقی در بقا *

فنجا - وہ برف جو سردی کے موسم میں آسمان سے برستی ہی -
فنج - زخیر میں جیم ایک قسم کا سانپ ہی جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور
نام ایک شہر کا ولایت زنگبار سے۔
فنج - زخیر میں حاے حطی پیٹ بھر کر پانی نہ پینا گھوڑے کا اور پیاسا رہنا۔
فند - مکر و فریب و دروغ و خطا اور خال سیاہ جو کسی کے چہرے پر ہو۔
فنود - نالہ و زاری اور توقف چلنے اور بولنے میں۔
فنجر - وہ شخص جسکا عضو تناسل بڑا اور موٹا ہو۔
فنجیوش - لوہے کا میل۔
فندق - بضم فاے و دال ایک میوے کا نام ہی جو سبز رنگ بیر کی برابر۔
فنک - بفتحتین ایک جانور پشم دار سفید رنگ جسکے پوست سے
پوستین بناتے ہیں۔

فنجان - معرب پنگان چھوٹا پیالہ جسمین قہوہ پیا کرتے ہیں۔
سیحی کاشی باغ کی صفت میں - شعلہ صفت لالہ زجا جست تیز پشت
فنجان طلا قہوہ ریز *
فن و فنن - کسب ہنر مکر و فریب و شاخ درخت و عقل و دانش و نغمہ
نظامی - چہ دانی کہ من خود چہ فن میزنم * دہل بر در خویشتن میزنم *
فنو - فریب و غرور و مست و مغرور۔

فاے با واو

فوحات - بہت سی خوشبوئیں۔
فوات - نیست ہونا اور گذرنا۔

فوت - مرجانا نیست ہونا نابود ہونا - سعدی - گزیدند فرزانگان
دست فوت * کہ در طب نبیدند دارو ے موت *
فوہات - جمع فوہ جسکے معنی زبان کے ہیں۔
فوج - گروہ جماعت لشکر سپاہ - قدوست پیچکس یارب خراب جلوہ
حسنش مباد * فوج نازش تا حلب غارت گر آئینہ شد *
فودنج - معرب پودنہ جو مشہور خوشبودار سبزہ ہی -
فوشنج - معرب پوشنگ جو ایک شہر ہی -
فوائح - خوشبویان -
فواد - بروزن مراد آدمی کا دل -
فولاد - معرب پولاد مشہور چیز ہی - نظامی - کلاہے ز پولاد چینی بسر
بسرش * کہ گوہر بریشک آمد از گوہرش
فود - معرب پود مقابل تار کے جو کپڑا بننے میں جولاہا کپڑے میں ڈالتا ہی -
فور - بفتح اول وقت اور ساعت اور جلدی اور جوش دیگ اور ابر وغیرہ
فور - بروزن نور نام راجہ قنوج کا جو سکندر کے حملے کے وقت قنوج کا
بادشاہ تھا اصل میں اسکا نام پورن چند تھا۔
فوز - بفتح اول پہونچنا مقصود و فیروزی کے ساتھ منزل مقصود پر
اور مطلب حاصل کرنا -
فوز - بضم اول ہلاک ہونا اور مرجانا -
فواق - ہچک یعنی ہچکی - ملا فوقی یزدی - رود بیکدم و دم دیگرش
حیات مباد * چنین کہ در گلوے عشر تم فتاد فواق *
فواضل - بڑی بڑی بخششیں اور عطایات -
فواصل - کلمے آخر آیات قرآن مجید کے جو بمنزلہ قوافی کے شعر میں ہیں -
فوفل - معرب پوپل جسکو ہندی میں سپاری کہتے ہیں ہندوستان میں
پان کے ساتھ لونگ اسکو کھاتے ہیں -
فول - باقلا جو ایک قسم غلے کا ہی جسکو عربی میں حرجب کہتے ہیں -
فوفل - مشہور جس سے بارود بنائی جاتی ہی پانی بھی اس سے سرد کرتے ہیں
فوم - لسن جسکو فارسی میں سیر کہتے ہیں - صفدر فوقانی - ہر اسے
دل عالم از ازل جہل * کہ بر شاخ غالب بو دلبو سے فوم *
فوران - بفتح اول جوش دیگ اور پانی وغیرہ کا -
فوران - بضم اول نام شہر قنوج کا -
فورایون - عاقرقرحا جو ایک دوا مشہور ہی -
فوزان - بلند آواز و نالہ و فریاد -
فوکان - لوزہ جو اور چاولوں سے بناتے ہیں نشی و مخدر ہوتا ہی -

فوارہ - جوش کھانے والا - خصوصاً وہ فوارہ جس سے پانی جوش کھا کر نکلتا ہے اور حوضون مین بنایا جاتا ہے - ابوطالب کلیم
ز ہر فوارہ آتش ببے بر افلاک ٭ روان ہمچون دعا از سینۂ چاک ٭
ز بس تر دستی و صنعت نمائی ٭ ز آب انداختہ تیر ہوائی ٭

فوطہ - جامہ نا دوختہ مثل کمر بند و لنگ و دستار و رومال وغیرہ اور وہ لنگ جو حجام وغیرہ اپنے دوش پر رکھتے ہین - ملا طغرا مشہدی کی تعریف مین - بحوض شستشو ردی اگر غوطہ ٭ بدن بستی تا کے گردن فوطہ ٭

فوفہ - بضم و تشدید حبہ یعنی چیز جو ایک قسم کی لکڑی ہے اور سرخ رنگ کپڑوان کو اُس سے رنگتے ہین اور بدون تشدید ورق طلا و نقرہ جو نگینے کے نیچے رکھتے ہین تا صفائی اور رنگ نگینے کا بخوبی جلوہ دیوے ہندی مین اسکو ڈانک کہتے ہین - صائب - یاقوت بادہ را فوفہ غیر شعلہ نیست ٭ ساقی بپیش شمع مگہدار شیشہ را ٭

فوہ - بفتح اول بروزن نوع زبان جسکی جمع افواہ ہے -

فواکہ - بفتح فاے و کسر کاف بہت سے میوے جمع فاکہ کی -

فاے باہاے ہوز

فہرست - تفصیل ابواب و فصول و مقاصد کی جو سر ایک کتاب کے آغاز مین تحریر ہو

فہد - بفتح اول ایک جو شکاری جانور ہے اور ہندی مین اسکو چیتا بولتے ہین

فہمید - فہمیدگی - سمجھ - ادراک - عقل - مولوی روم - در بشر روپوش گشتہ آفتاب ٭ فہم کن واللہ اعلم بالصواب - سعدی - بندہ و غافل ز کار بندگی ٭ وائے برین فہم و این فہمیدگی -

فہار - ایک پتھر یاقوت اطلسی کے رنگ پر ہوتا ہے سونے کی کان سے ملتا ہے اسکے کھانے سے جنون جاتا رہتا ہے -

فہرس - عربی مین فہرست یعنی تفصیل ابواب و فصول و مطالب مندرجہ کتاب -

فہل - فراخ اور کشادہ اور کھلا ہوا -

فہم - سمجھنا اور جاننا - دریافت کرنا - صالح مشہدی - از گوشہ ابرو سخنی گفت بگوشم ٭ رفتم کہ کنم فہم سخن برد ز ہوشم ٭ سعدی - فہم سخن تا نکند مستمع ٭ قوت طبع از متکلم مجوے ٭

فہامہ - دانا صاحب فہم و ادراک -

فہانہ - موچیون کا چوبی قالب جس سے وہ تنگ جوتیون کو کشادہ کردیتے ہین

فاے بایاے

فیفا - بکسر اول و فتح فاے ثانی ہموار جنگل اور ویرانہ -

فیجا - بفتح اول و زنخ کا جوش -

فیشا - طاؤس یعنی مور جو مشہور پرندہ ہے -

فیلا - یونانی زبان مین دوست محبتی پیار -

فیوحات - خوشبوئین خوش ہوائین -

فیحدج - حالت مکروہ جو قبل چڑھنے تپ کے انسان پر طاری ہوتی ہے اعضا ٹوٹتے ہین انگڑائیان آتی ہین -

فیروزج - معرب فیروزہ ہے جو ایک قیمتی جواہر مشہور ہے -

فید - مکہ معظمہ کے راستے مین یہ ایک قلعہ ہے جسکو فید نام ایک عربی نے تعمیر کیا تھا اور بفتح اٹھانا فائدہ پانا زیادہ ہونا اور گھوڑے کے بال دم کے ہونا یا ایال

فیار - کام اور عمل و شغل و صنعت و پیشہ و حرفہ و کسب -

فیر - افسوس و تاسف -

فیصور - سمندر کے کنارے ایک شہر ہے اور کافور بہت عمدہ وہان سے آتا ہے

فیروز - معرب پیروز - کامیاب و فتح مند - سعدی - چو فیروز شد دزد تیرہ روان ٭ چہ غم دارد از گریہ کاروان ٭ نظامی - چو پیروز بود آن خجستہ فال ٭ درین ہم توان بود پیروز حال ٭

فیلقوس - اسکندر رومی کے باپ کا نام تھا - نظامی - کہ از جملۂ تاجداران روم ٭ جوان دولتے بود ز ان مرز و بوم ٭ شہنامور نام او فیلقوس ٭ پذیرائی فرمان او روم و روس -

فیلاقوس - نام ایک حکیم کا تھا یونان مین -

فیثاغورس - ایک یونانی حکیم تھا -

فیض - بڑھنا نہر کے پانی کا یہان تک کہ کنارے تک پہونچکر جابجا پہیل جاوے اور زیادتی خیرات اور خوبیون کی اور شہرت پانا نیکی کے ساتھ اور بخشش و مہربانی - صائب - فیضے کہ گوشہ گیر ز عزلت نیافت ست از گوشہ ہاے چشم سیاہ تو یافتم ٭

فیلسوف - حکیم اور وہ شخص جو حکمت کے علم کو دوست رکھتا ہو فیل کے معنی یونانی مین دوست اور سوف حکمت کا علم -

فیلاق - لشکر و فوج و سپاہ رومی زبان مین فیلق کے معنی بجاے لشکر اور فوج کے ہین -

فیلک - ایک قسم کا تیر جسکے آگے سے دو شاخین ہوتی ہین پیلک بھی اسکو کہتے ہین - سعدی - بپائین پنجہ در آرد بیل ٭ ہمی بگذرانید پیلک ز بیل ٭

فینک - یہ ایک قسم کا پتھر سفید سوراخ دار ہوتا ہے جو سمندر کے کنارے ملتا ہے اصل مین وہ پتھر نہین بلکہ سمندر کی جھاگ ہے جو پتھر کی صورت بنجاتی ہے -

فیصل - حاکم کا حکم جس سے حق اور باطل مین تمیز ہو جاوے سچ اور جھوٹ جدا جدا ہو جائین - درویش والہ ہروی - سحر فیاض گفت بہ ہر جگر تشنہ او ٭ ریخت زین در اشک کشاد ز نیا بہ فیصل ٭

فیل - معرب پیل مشہور چار پایہ ہے جسکو ہاتھی کہتے ہین - نظامی - چو در لشکر

دشمن آری رحیل ٭ بمرتمان کشتی فیل ٭ اصحاب فیل ٭
فیال - وہ زمین جسمین پہلی دفعہ کھیتی کی ہو -
فیفل - اندلسی زبان مین جنگلی زیرہ -
فیجن - یہ ایک گھاس ہے جسکو سداب بھی کہتے ہین پودینہ کی شکل پر ہوتا ہے -
فیضان - جاری ہونا پانی کا نہر کے کنارون سے اور شہرت پانا کوئی سے -
فیین - بہ یاے معروف کاشان مین ایک سیرگاہ کا نام ہے - باقر کاشی - سیر فین فصل بہاران یاد باد ٭ آب شاران آب باران یاد باد ٭
فیروزہ - مشہور جواہرات مین سے ہے -
قیلولہ - ضعف رے و تدبیر اور سونا عصر کے وقت جو ممنوع ہے اور اس سے جنون پیدا ہوتا ہے -
فیہ - گروہ و جماعت -
فی - بفتح اول سایہ ہر چیز کا بعد زوال آفتاب یعنی دوپہر کے بعد اور جو سایہ طلوع سے دوپہر تک ہے اسکو ظل کہتے ہین -
فی - بکسر اول فارسی مین اسکے معنی ورا و ہندی مین ہیچ -
فیافی - بہت سے جنگل اور بیابان -

دوسری فصل

اردو لغات کے بیان مین

واضح ہو کہ اس فصل مین کوئی لغت اردو قابل تحریر اس فصل کے نہین اور جو درج نفائس اللغات وغیرہ مین ہین سب فارسی ہین جو پہلی فصل مین درج ہو چکے ہین دوبارہ تحریر کی حاجت نہین -

تیسری فصل

فارسی محاورات و اصطلاحات مین

فاے با الف

فانوس نارنج - یہ ایک فانوس بنایا جاتا ہے کہ نارنج کو خالی کرکے چھید کیے جاتے ہین اور اسمین چراغ روشن کرتے ہین جیسے کہ ہندمین اطفال کدو اور ہندوانہ کو خالی کرکے فانوس بناتے ہین اور کھیلتے ہین - طاہر وحید - زنگ کی تعریف مین - عیان از خم سبیل آن عکس لب ٭ چو فانوس نارنج در تیرہ شب ٭
فالق الاصباح - نکالنے والا صبح کی سپیدی کا خداوند جل و علی عز شانہ -
فاختہ چہر - معشوق کی تعریف مین بولا جاتا ہے - میر معزی - تا فاختہ چہری و طاوس کرشمہ ٭ عشق تو چو باز ست دل من چو کبوتر ٭ بیچارہ کبوتر چو در چنگ نہد باز ٭ ہم سودہ شود بالش و ہم خستہ شود پر ٭
فاقد البصر - نابینا - اندھا جسکو نظر نہ آئے -
فال گوش - لوگون کی آواز پر کان رکھ کر اپنے مطلب کی فال لینا - شاکر - گلے دارم کہ بکدم گوشہ باہم سیر کوشش ٭ براہ ناکہ بلبل بفال گوش بنشیند ٭
فانوس خیال - فانوس گردان - اس فانوس مین طرح طرح کے نقش اور تصویرین لکھی جاتی ہین اور چراغ جلاکر اسکو گردش دی جاتی ہے تو سیر نظر آتی ہے - صائب - برتن باد صبا پیرہنش یوسف مصر ٭ از تب رشک تو فانوس خیال شدہ ست ٭ علی رضا تجلی - فلک را آہ گرم عشقبازان مضطرب دارد ٭ چو فانوس خیال این آسیا از دود میگردد ٭
فال شانہ - کنگھی کی فال جو دیکھی جاتی ہے - صائب - خواہد فتاد در این زلفش بدست ما ٭ این فال را ز شانہ شمشاد دیدہ ٭

فاے با تاے

فتح باب - کشایش و آسودگی -
فتنہ در خواب ست - مثل ہے یعنی ہنوز فساد برپا نہین ہوا ابھی وہ بات جس سے فتنہ برپا ہونے والا ہے کسی کے کان تک نہین پہونچی - سیف - فتنہ در خواب ست بیدارش مکن ٭ مست مدہوش ست ہشیارش مکن ٭
فتیلۂ عنبر - عنبر کی بتی جو بنا کر جلاتے ہین خوشبو دیتی ہے - محمد باقر - گر عطر تو بیسر شود مرا ٭ رگ در بدن فتیلۂ عنبر شود مرا ٭
فتنہ خیز - جس سے فتنہ پیدا ہو - ظہوری - بر سر راہ او نشانید ست ٭ جلوۂ قد فتنہ خیز مرا ٭
فتنہ در زیر سر بودن - فتنہ در سر بودن - فتنہ در زیر کلاہ داشتن - بلا کا سر کے نیچے رکھنا - فتنہ موجود رکھنا - صائب - گرچہ زلف سرکش او سرکشی از سر گذشت ٭ کاکل او فتنہ ہا در زیر سر دارد ہنوز ٭ عرفی - تاج زرگر بود ش فتنہ از بہر خود ست ٭ فتنہ این ست کہ در زیر کلاہ نمد ست ٭ رباعی - جانان ہمہ آئین جفا در سر تست ٭ آزار دل اہل وفا در سر تست ٭ ہر بار زکاکلت جدا فتنہ گرست ٭ حاصل کہ تمام فتنہ ہا در سر تست ٭
فتنہ را از جاے بجاے بردن - فتنہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانا - غمازی کرنا - سخن چینی کرنا - ع - مرد غماز و سخن چین بد شعار ٭ فتنہ را از جا بجاے می برد ٭
فتیلہ شدن مو - سر کے بالون کا بتی بنجانا بسبب کرنے شانہ کے - دانش - سید گل کہ زخون کہن بہار کند ٭ ز شوق داغ شود موفتیلہ بر سر ما ٭
فتنۂ خوابیدہ - فتنہ پوشیدہ و سربستہ ٭ صائب - ہزار فتنۂ خوابیدہ چون شراب کہن ٭ نہفتہ است در آغوش آرمیدہ ما ٭
فتنہ زاے - فتنہ گر - فتنہ بسیج - فتنہ سگال - فتنہ قد - سب کے معنی قریب الفہم ہین - صائب - چشم ست بخواب رفتہ گردون ٭

باشوخی چشم فتنہ زایش ٭ صائب۔ آنجا کہ زلف فتنہ گرت دام گسترد ٭ مرغان قدس راز پریدن برآورد ٭ آرزو صبحدم فتنہ قدے عربدہ فرما برخاست ٭ شور محشر سر راہش بتماشا برخاست ٭ امیر خسرو۔ چہ خسپی درین خانۂ فتنہ سنج ٭ کہ دزد آشکارا فرستد بگنج ٭ نوآمد۔ رفت درپیش جفت فتنہ سگال ٭ آگہی دادش از مجاری حال ٭

فاے با ذال معجمہ

فذالک۔ بروزن مسالک اہل حساب کی اصطلاح مین وہ جمع جو بعد تفصیل کے کی جائے۔ باقی اور بقیہ کسی چیز کا۔ کمال اسمٰعیل در نوبت بزرگی ہرچند چون فذالکت در آخر الزمانی تو در مرتبہ نخستین

فاے با راے

فراخا۔ مخفف فراخنا فراخ رستہ و کوچہ۔ سعدی۔ فارغ نشستہ بفراخاے کام دل ٭ یارے ز تنگنا ے لحد یاد ناوری ٭

فراخنا۔ جگہ فراخ رستہ فراخ میدان فراخ اور نام ایک ساز کا ہے سعدی۔ سود ندہد فراخناے بردش ٭ گر آدمی عقل و ہنر باید و ہوش ٭ گاو از من و تو فراختر دارد چشم ٭ این از من و تو بزرگ تر دارد گوش ٭

فرد نوا۔ اکیلا گانے بجانے والا۔ تنہا کام کرنے والا۔ طالب آملی۔ تو بلبل نطقم ہمہ جا فرد نوا بود ٭ زین شوخ زبان بر شاخ ہم آواز ندانست ٭

فرما۔ فرمانے والا حکم دینے والا۔ اور امر فرمودن سے۔ مدحیہ از مولف۔ در کون و مکان علی ست اہل ارشاد ٭ در ہر دو جہان نبی ست فرمان فرما ٭

فرمان روا۔ بادشاہ۔ حاکم۔ حکم دینے والا۔ صائب۔ یوسف از ترک ہواے نفس ملک مصر یافت ٭ ہر کہ فرمان پیر دفرمان روا خواہد شدن ٭

فراخ دست۔ دولتمند۔ مالدار۔ صاحب مروت۔ سخاوت کرنے والا۔

فراست۔ مزید علیہ فراموش سے۔

فرت فرت۔ جلدی اور شتابی اس لفظ کا ترجمہ ہندی مین ترت پھرت ہے۔ نوعی یزدی۔ وران محیط چنان غرق خوشدلی گشتم ٭ کہ موج میزدم از لب نواے وخ جانی ٭ چو فرت فرت ز حدم آب شہوت جست ٭ بجنبید ستد و چشم چنان زحیرانی ٭

فرزند کجاست۔ کہان کا رہنے والا ہے کس سرزمین کا ہے کہان کا ہے شوق بشاعر سلیم۔ فرزند خودم بشمرد مادر ایام ٭ ای کاش بپرسند کہ فرزند کجا ئیم ٭

فرمان عنایت۔ مہربانی کا خط اور تحریری حکم مولف۔ چہ قرآن گشت نازل بر محمد ٭ رسید از غیب فرمان عنایت ٭

فرود شت۔ آخیر اور انتہا اور انجام مجیر الدین بیلقانی۔ چون نواے سخن اینجا بفرود شت رسید ٭ ہرچہ خواہی کہ بود آن تو آن آن تو باد ٭

فرودست۔ فرومایہ حقیر مفلس درویش صائب۔ مور را از دست خود بخشند سلیمان پاےتخت ٭ با فرودستان طریق مہربانی یاد گیر ٭

فروگذاشت۔ فروگذار۔ کم توجہی و اغماض۔ میرخسرو۔ چاپلوسی فرو ماندہ ام خداوندا ٭ فروگذاشت مکن آفریدۂ خود را ٭

فرزند بستن در مہد۔ بچہ کو مہد مین بہلانا یا سلانا۔ محسن تاثیر۔ زود مہد این گردون اخضر ٭ نبستہ عشق فرزندی خلف تر ٭

فرزین بند۔ شطرنج کی چالون مین سے ایک چال ہے۔ ملا طغرا۔ سراج ہین زد شواری فرزین بند جہات ٭ حریفان روح الامین گشت مات ٭

فرصتت باد۔ تجکو فرصت ہو وقت ملے۔ حافظ۔ اے کہ با سلسلۂ زلف دراز آمدہ ٭ فرصتت باد کہ دیوانہ نواز آمدہ ٭

فراسر۔ سر پر سر کے اوپر۔ ابونصر نصیرائی۔ بسکہ از نرگس تو فتنہ فرود ست رواج ٭ دامن فتنہ چو دستار فراسر پیچیم ٭

فراف۔ نامے و نفیری کی آواز۔

فراموشکار۔ فراموشکاری۔ فرامشی۔ فرمشی۔ بھولنے والا اور بھولنا۔ میرخسرو۔ جوان دست و فراموشکار و نا پرواست ٭ زبان زبان زمن بید لش کہ یاد دہد ٭ ولہ۔ خداوندا درین فراموشکاری ٭ تو بخشی غافلان را ہوشیاری ٭ نظامی۔ مبادا بہشیاری و مستی ٭ کسے راز فرمان او فرمشی ٭ حکیم سنائی۔ ہمہ بر در گہ فرامشتی ٭ ہمہ از روے معرفت پشتی ٭

فرمان بر۔ و فرمان بردار۔ مطیع حکم ماننے والا۔ سعدی۔ ابر باد و مہ و خورشید و فلک در کار اند ٭ تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری ٭ ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار ٭ شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نبری ٭ درویش والہروی۔ جز خدا در عرصۂ ایجاد در کتم عدم ٭ ہر کہ آمد وانکہ خواہد آمدن فرمان برست ٭

فرمان پذیر۔ فرمان پرست۔ فرمان بردار حکم کی تعمیل کرنے والا نظامی۔ شدند آن دلیران فرمان پذیر ٭ گرفتند زان چند زنگی اسیر ٭ ہاتفی۔ بمجلس نشینان فرمان پرست ٭ رسانند فرمان کہ باید نشست ٭

فرمان گزار۔ حکم دینے والا حاکم۔ نظامی۔ چنان بود فرمان فرمان گزار ٭ کہ بر تخت جمشید آن تاجدار ٭

فرود آمدن خانہ و دیوار۔ گرجانا گھر یا دیوار کا مخلص کاشی۔ اگر از دیدن گل باغبان منعم کند مخلص ٭ چنان گریم کہ دیوار گلستانش فرود آمد ٭

فریاد صنوبر۔ فریاد سحر۔ اس درخت کے پتے تھوڑی ہوا چلنے پر بھی شور برپا کر دیتے ہین۔ ملا طغرا۔ ندانم کہ گفت ست عرعر خموشش ٭

که فریاد شوقش نیاید بگوش ٭
فرنی پز- فرنی پکانے والا- باورچی **سیفی**- بہ چشم فرنی پز من ہم فقیر
ستے آید چہ ہنوز از دہانش بوے شیر می آید ٭
فروشدن روز- **فروشدن مہر**- غروب ہونا سورج کا ختم ہونا زندگی کا
ـــ برعالم چاہ تو گرا ر دی گذر باند ٭ چون مہر فروشد چہ یقین اچہ گمان را ٭
فرح بخش- شاہجہان آباد دہلی کے قلعہ کے اندر یہ باغ ہے- **بہار**
حیات بخش و فرح بخش عاشقان ز ابرو ست ٭ کہ ہست خط
پشت لعل باغ طوطی باغ ٭
فروکش- اترنے والا استقامت کرنے والا اور صیغہ امر کا فروکشیدن سے- **حافظ**-
سر منزل وصالش نتوان ز دست دادن ٭ اے ساربان فروکش
این رہ کران ندارد ٭ **ابوطالب کلیم**- آن خال کہ در کنج لبت گشتہ
فروکش ٭ گر گوشہ نشین ست سیاہ دل و جان کیست ٭
فریاد گوش- کان میں سے آوازیں نکلنی یہ ایک بیماری ہے جسکو عربی
میں طنین کہتے ہیں- **خواجہ آصفی**- فریاد من رسید بگوشت و لے
چہ سود ٭ پنداشتی کہ گوش تو فریاد میکند ٭
فریاد چراغ- وہ آواز جو کبھی کبھی چراغ کی بتی سے نکلتی ہے- **صاحب**
بخل بہتر ز سخای کہ با آواز بود ٭ تیرگی بہ ز چراغی ست کہ فریاد کند ٭
فربہ انصاف- **فربہ عمل**- انصاف کرنے والا اور نیکوکار شخص- **صاحب**
از ضعیفان گوشہ چشم مروت وا مگیر ٭ فربہ انصافان شکار صید لاغر کردہ اند ٭
درویش والہ ہروی تلوار کی تعریف میں- چیست در دست توان لاغر
تن و فربہ عمل ٭ آنکہ فربہ تو جہا را افگند در لاغری ٭
فریب ناک- فریبی- مکار- دغا باز- **میر خسرو**- آمد آن خواہر
زبانی مار ٭ با زبانی فریب ناک و دراز ٭
فرد اول و **فرد اعلی**- ہر چیز بہت خوب اور بہت عمدہ- **شفیع اثر**
ندیدہ ایم بجز یکہ یتیمہاے وحید + اثر بہ فقر ایام فرد اعلائی ٭
فرشتہ خصال- **فرشتہ خوے**- **فرشتہ رخ**- **فرشتہ سرشت**- **فرشتہ نقش**-
فرشتہ نہاد- **فرشتہ وش**- یہ سب تعریفی جملے ہیں- **نظامی**- فرشتہ وشی
دیدہ چون آفتاب ٭ بر آوردہ اقبال سر ز خواب ٭ قوی راے و
روشندل و نغز گو ٭ فرشتہ نقش بلکہ فرزانہ خو ٭ **میر خسرو**- ناصر
دین شاہ فرشتہ سرشت ٭ خوی خوشش نسخہ باغ بہشت ٭ **سعدی**
فرشتہ خوی شود آدمی ز کم خوردن + وگر خورد چو بہائم بیوفتد چو جماد +
مولانا لسانی- دارد شب فرشتہ رخان را فرشتہ پاس ٭ ما پاس ذرد یدہ
شب زندہ دار خویش ٭ **ابوطالب کلیم**- زہے مربی کامل اثر کہ دریکماہ +
ز فیض تربیتش دیو شد فرشتہ نہاد ٭
فرخ قدم- **فرخ عزم**- **فرخ اختر**- **فرخ تبار**- **فرخ پی**- **فرخ سرشت**-
فرخ فال- **فرخ کیش**- **فرخ لقا**- **فرخ مآل**- **فرخ خبر**- **فرخندہ بوم**
فرخندہ پی- **فرخندہ خوے**- **فرخندہ راے**- **فرخندہ طالع**-
فرخندہ فال- **فرخندہ فرجام**- **فرخندہ کیش**- **فرخندہ نظر**-
فرخ نہاد- یہ جملے سب تعریفی ہیں **میر خسرو**- زہے دولت و فر
فرخندہ عزم ٭ کہ نصرت بود یار او روز رزم ٭ **صائب**- ہر دو عالم
یک قدم باشد بپاے بیخودی ٭ اے ہزاران خضر فرخ پی خدائی
بیخودی **میر معزی**- ہر روز نوبت ست یکے بزم ساختن ٭ و امروز
نوبت ملک فرخ اختر ست ٭ **ولہ**- آیا فرخ قدم شاہی کہ دولت
بر نگیرد سر ٭ ز خط حکم آن کو بر خط حکم تو سر دارد ٭ **ولہ**- نظر ہمت
تو دولت و دین را مدد ست ٭ کہ توئی شاہ نکو اختر و فرخندہ نظر ٭ **ولہ**
بسان زہرہ و برجیس ناظر باشش بر جانے ٭ کہ شادیہا و راحتہا
ازان سپہر نظر خیزد ٭ **محمد نصیر**- بکشاے دیدہ بر رخ فرخ لقاے
دل ٭ بنگر برون ز دنیا و عقبے فضاے دل ٭ **نظامی**- چہ پنداری
اے خضر فرخندہ پی ٭ کہ از می مراد ہست مقصود می ٭ **ولہ**- بفرخندگی
فال زن ماہ و سال ٭ کہ فرخ بود فال فرخندہ فال ٭ **ولہ**- بخردہ
جہان را کہ فرخ خبر دہ ٭ خبر دہ کہ با فور فوران چکردہ ٭ **ولہ**- بآبے کہ
بویا تر از مشک بود ٭ بماہی یافتہ ماہی خشک بود ٭ **ولہ** فرو بشست
نژادان یکدو فرخ مآل ٭ در افتاد ماہی بآب زلال ٭ **ملا طغرا**-
سپہر ہست این کاخ فرخندہ پے ٭ بر وشش مرتب ز خمہاے مے ٭ **سعدی**
شنیدم کہ داراے فرخ تبار ٭ ز لشکر جدا ماند روز شکار ٭ دوان آمدش
گلہ بانی بہ پیش ٭ بہ بلبل گفت داراے فرخندہ کیش ٭ اگر دشمن ست
اینکہ آید بجنگ ٭ ز دورش بدوزم بہ تیر خدنگ ٭ **ولہ** شنیدم کہ جمشید
فرخ سرشت ٭ بسر چشمہ سنگے نوشت ٭ **ولہ**- برو گفتم اے یار فرخندہ
خوے ٭ چہ درماندگی پیشت آمد بگوے ٭ **ولہ**- کہ اے پیر داناے
فرخندہ راے ٭ بگو این جوان را بترس از خداے ٭ **ولہ** سر افراز این
خاک فرخندہ بوم ٭ ز عدلت بر اقلیم یونان و روم ٭ **ولہ**- چو تو اے
خردمند فرخ نہاد ٭ ندارد جہان تا جہان ہست یاد ٭ **ولہ**- ہم از بخت
فرخندہ فرجام تست ٭ کہ تاریخ سعدی در ایام تست ٭ **ولہ**- خرم آن
فرخندہ طالع را کہ چشم ٭ افتدش بر روے تو ہر بامداد ٭
فراخ قدم- بہت چلنے والا- تیز رفتار- **امیر خسرو**- پیچیدہ بجا نرسد
مہر و فراخ قدم ٭ چیزان فراخ قدم کش بود عالم ست دو گام ٭

فراخ آستین - سخی بخشنے والا - جوانمرد - نظامی - فراخ آستین گران سنر شاخ * فتد میوہ در آستین فراخ *

فراخ بین - جو شخص سب کو برابر دیکھے - درویش والہ ہروی - عشق فراخ بین را نازم کہ بی تفاوت * از آب و خاک ختم ریخت گل در بنا سے سبحہ *

فراخ دہن - سخی - جوانمرد بخشنے والا - قاسم مشہدی - در جیب دل نگنجد خشق فراخ دامن * آئینہ سکندر آئینہ دان ندارد *

فراخ سخن - فراخ دہن - پرگو یعنی بہت سی باتیں کرنے والا - بے باک تقریر کرنے والا - سعدی - ندہد مرد ہوشمند جواب * مگر آنگہ کز و سوال کنند * گرچہ بر حق بود فراخ سخن * حمل دعویش بر محال کنند *

فراگرفتن - حاصل کرنا - کسب کرنا - سیکھنا - دیکھنا - مطالعہ کرنا - تحصیل علم - شیخ سینے دارم کہ بیرون آوردازدین فرنگی را * فراگیرند درچشمش غزالان شوخ دنیگی را *

فرزند کسے در گریبان انداختن - بیٹا بنانا - متبنی کرنا - بیٹا پکارنا - ظہیر - بهرخ آن روز کہ گہوارہ بچشم بر داشت * پدر عشق بفرزندی خویشم برداشت *

فرس افگندن - فرس نہادن - مغلوب و ناتوان کرنا - نظامی - فرس افگند جوش من نیل را * رخ من پیادہ کند پیل را * ولہ - گردون کہ فرس نہادہ تست * باہفت فرس پیادہ تست *

فرستادن - بھیجنا - پیدا کرنا - درویش والہ ہروی - درہفتہ اگر جمعہ نے بود نے شد * بر قدرت حق نقص کرا یام فرستاد *

فرمان بردن - اطاعت کرنا - فرمان برداری کرنا - متابعت کرنا - صائب - دل محالست زمن عشوہ دنیا ببرد * یوسف آن نیست کہ فرمان زلیخا ببرد *

فرمان دادن - حکم دینا - حکم چلانا - میر معزی - اگر پیمان کند با من منجم درخط پیمانش * وگر فرمان دہد بر این منم در بند فرمانش *

فرمان راندن - حکومت کرنا - حکم چلانا - فرخی - جہان کشا و ولایت فزاو ملک آرا سے * ہنر نما و بدولت گرا و فرمان ران *

فرمان رسیدن - حکم پہونچنا - وقت آجانا - دم برابر ہونا - میر حسن دہلوی دوست رضا بیدہد از سر جان خاستن * عذر بسیار ای حسن خیز کہ فرمان رسید *

فرمان کردن - حکم کرنا - حکم دینا - نظامی - بگو ہر چہ خواہی کہ فرمان کنم * بیچارہ گری با تو پیمان کنم *

فرمودن - حکم کرنا - فرمانا اور آنا - جلال آذری - تو مہمانی و ما را دیدہ و دل مہمان خانہ * اگر این خانہ دلگیرست فرما اندران خانہ *

فروختن و فروشیدن - بیچ کرنا - بیچنا اور ظاہر کرنا - علی خراسانی - مستان تو چون جامہ بہا زر فروشند * این دلق کہن در کف خمار فروشند * فلطم بدم تیغ علی با جگر ریش * جائیکہ نمک بر دل افگار فروشند *

فروخوردن - تحمل کرنا - بردباری کرنا - صبر کرنا - حلق سے اتارنا کھانا - صائب - چون صدف تا چند پیش ابر دست افراشتن * اشک حسرت را فرو خوردن گرسنہ داشتن *

فروکش کردن - کسی جگہ ٹھہر جانا - رہنی دانش - ححا گرگشت رہ گوشہ مینخانہ پیرسم * دین پیرانہ سر گم کردہ زہم جای فروکش را *

فریادخوان - فریادخوارہ - فریادی - فریاد کرنے والا - مظلوم و دادخواہ - سعدی - نہ باران ہمی آید از آسمان * نہ بر میرود دود فریادخوان *

نظامی - چو فریاد در تنگ گلو بستہ * چو شب گلو بستہ بہر فریاد خواہ *

باقر کاشی - از بس شنیدم از دل بیرون فگندمش * شرمندہ ہم زنالہ کہ فریاد سے من ست *

فراخ رو - تیز چلنے والا اور فضول خرچ بے وجہ خرچ کرنے والا - ظہوری رباعی - وقت ست کہ دریا سے ہوس سنذہی * در صرفہ وقت کوشش بر پند نہی * دیکھی زمان فراخ روچون تو کہ دید * با ہر سر سال رہ تا چند نہی * سعدی - کن فراخ روے عمل اگر خواہی * کہ وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ * تو پاک باش برادر مدار از کس باک * زنند جامہ ناپاک گاذران بر سنگ *

فرد رو - اکیلا چلنے والا وہ شخص جو بدرقہ کا محتاج نہو - صائب - دامن فرد روان گیر اگر حق طلبی * بہ صدا ے جرس قافلہ از راہ مرو *

فراخ حوصلہ - زیادہ حوصلہ والا صاحب ہمت - شعر - ترا چو رازق مطلق فراخ روزی داد * بوقت جود و سخاوت فراخ حوصلہ باش *

فراخی گاہ - وہ مقام جسمیں ہر مطلوب چیز مل سکے ماکول و مشروب کی تنگی نہو - نظامی - فراخی گہی دید نزدیک آب * فرود آمد آنجا بہنگام خواب *

فراغت خانہ - خلوت خانہ - الگ مکان - بیانی - بعشمیز ہوشمند از جا سے برخاست * فراغت خانۂ دیگر بیاراست *

فراموش پیشہ - بھول جانے والا - ندیم - ندیم یار فراموش پیشہ در بند * امید نیست کہ لفرستد از دلن کاغذ *

فردخانہ - مسافرون کے رہنے کی جگہ - حکیم سنائی - مہر بان آفتاب بربانی * ہر سخن فرد خانۂ جانی -

فرمان بالمشافہ - زبانی حکم جسکی فوراً تعمیل ہو تحریر اور نقل کی حاجت نہو - محسن تاثیر - خطے کہ میرسد از لب لعل آنکہ خان * حکم ست بالمشافہ در قتل عاشقان *

فرمان دہ - حکم دینے والا - حاکم و آمر - سعدی - بر سر ملک مباد آن ملک فرمان دہ * کہ خدا را نبود بندۂ فرمان بردار *

فرمود - فرمان اور فرمایش اور فرمایشی - وحدت - زندہ گردد
جان دہ ہر کار فرمائی کند ﴿ قدر وحدت را بدان کو عاشق فرمودہ است ﴾
فرنگ عشوہ - فرنگی جلوہ - فرنگی طلعت - محبوب کی تعریف میں
بولے جاتے ہیں صائب - فرنگی طلعتے کز دین مرا بیگانہ میسازد ﴿
اگر در کعبہ روی آورد ترسا تر میسازد ﴿ ہیجو دجامی - قدم شد طوق
قمری سرو قدمن نشد ہر ایم ﴿ فرنگی جلوہ ام رسم دلداری نمی باشد
فرنگ عشوہ قیامت خرام جلوہ کیشت ﴿ شد الہم ایں زعہد اینچہ حیا شدہ ﴾
فراخ ابروی - کشادہ پیشانی ہونا - نیک مزاج ہونا - تقفامی -
چو مہ مشو بشہ از سیہ سنگ روئی ﴿ بان تنگ چشمان فراخ ابروئی ﴾
فراغبالی - فارغبالی - بے غم رہنا - بے تشویش ہونا - شفائی - حسن
تا پا در میان دارد شفائی تا تقسیم ﴿ اسمان را عہد فارغبالی تا پائدنیست ﴾
فرمان نیوشی - حکم سننا - نورالدین ظہوری - ازان ترسم کہ طوق
گردم گرد و رگ گردن ﴿ نگردم حلقہ بہر گوش دل فرمان نیوشی را ﴾
فرمودگی - فرمایشی نہایت عجیب و غریب - میر حسن دہلوی - داری جامے
بے بدل روئی بے مثل مثل ﴿ خال و خطے بس بو العجب چشم و بے فرمودگی ﴾
فرو غمندی - روشنی زیب و زینت - فیضی فیاضی - پیشانیش از
فرو غمندی ﴿ صبح دو جہان بسر بلندی ﴾

فاے با ضاد معجمہ

فضلہ دار - وہ جگہ جس جگہ نجاست کا انبار لگا ہوا ہو اور تمام شہر کا
میلا اس جگہ جمع کیا جائے - فوقی یزدی - جہان رفضلہ زاری دیدہ ام
گویا گدا مالی ﴿ کہ حرف نفس بر صفحۂ خاطر رقم دارد ﴾
فضالہ چین - باغبان جو ناکارہ شاخوں کو درختوں سے کاٹ ڈالتا ہے
عرفی - زباغ لطف تو گلہا دمد کہ چیند ﴿ فضالہ چین گران سوسن از میان نرگس ﴾

فاے با کاف

فکر این و انہ - ہر ایک چیز کا فکر و تردد ﴿ میرزا طاہر وحید - یا رب
دل را ہمین ز فکر این و آنہ ساخت پیتواند شمع بس ز ہجوم صد ہزار دانہ ساخت
فکیف - یہ لفظ استفہاماً بیان وقت و حالت کے لیے بولا جاتا ہے - سعدی
خداوندگاری کہ عبد سے خرید ﴿ بدارد فکیف آنکہ عبد آفرید ﴾
فکر تیز تازہ کردن - تازہ اندیشہ اور تازہ منصوبہ میں ہونا - سلیم - لذت
زخم من را مرہم ایدل از تو بہ دہ ﴿ فکر تیز تازہ کن چون حریف باختہ ﴾

فاے با لام

فلک کوکب - فلک ثوابت - یعنی کرسی -
فلان چیز مہر ہست - فلان چیز بند ہے رائج نہیں - محسن تاثیر - سالہا شد
گزد یا ر عشق مردی بر نخاست ﴿ سنگ فتح بے ستون مہر ہست تا فرہاد رفت ﴾
فلان چیز نازل شدہ است - فلان چیز قیمت اور رتبہ میں کم ہو گئی ہے -
فلان کفش پیش پاے فلان نمی تواند گذاشت - فلان شخص ایسا
کم رتبہ ہے کہ فلان صاحب اقتدار کے روبرو جوتے چھا کر نہیں رکھ سکتا
اس ادنی خدمت کے لائق بھی نہیں ہے - محسن تاثیر - چون بقصد جلوہ
آید قیامت رعنای تو ﴿ سرو نتواند گذارد کفش پیش پاے تو ﴾
فلک در سیخ ما افتادہ است - آسمان ہمارے رنج کی فکر میں ہے - شعر
بر زمین نے را چشم گرد نصیب ﴿ چون فلک در سیخ ما افتادہ است ﴾
فلان دو کمان می کشد - یعنی نہایت پر زور ہے - رباعی شاپور -
جنبش بنمود خط قوی بازو شد ﴿ چشمش ہر سادہ بخت با نیرو شد ﴾
پیوستہ یکے کمان ز ابرو برداشت ﴿ اکنون دو کمان کش کہ چار ابرو شد ﴾
فلک نورد - فلک سیر - فلک پیما - فلک رو - فلک سیر - فلک پرواز
فلک جناب - فلک رفعت - فلک ہمت - فلک راے - فلک جاہ
فلک مرتبہ - فلک قدر - فلک مایہ - فلک سریر - فلک محل -
فلک مرکب - فلک صید - فلک ذب - یہ جملے سب تعریفی ہیں
جو بادشاہان ذی شان و اولیاے کرام کی تعریف میں بولے جاتے ہیں
شیخ العارفین - رنگ پر افشان من ہر شہر سہا ست ﴿ آہ
فلک سیر من تخت سلیمان عشق ﴿ قاسم مشہدی - ہیچکس نیست کہ کام
می وصل تو نیست ﴿ ماہ نو یک لب خشک است فلک سیران را ﴿ میرزا صائب
نخل از زمین پاک فلک سیر میشود ﴿ بال مسیح یکے دامان مریم ست ﴾ صائب
فلک پرواز ساز د آہ را درد گران ما ﴿ پر سیمرغ بخشد تیر را زور
کمان ما ﴿ ابوطالب کلیم - دادہ حق سایۂ خود را دگر از تو خلقے ﴾
کہ توان دید در و فر فلک جاہے را ﴿ ظہوری - ای نوشا کز چشم تر
دریا کشیم ﴿ گر کشیم آہ فلک پیما کشیم ﴾ ولہ - فلک ذب - و دامن طائران
زیر و بن دہند از زن طائران ﴿ میر خسرو - شیر فلک صید کہ شاہنشہ
نام ﴿ آنکہ سزد بازے سپہرش غلام ﴿ شاہ فلک مرتبہ جوز احتشام ﴾
ہم شہ و ہم شاہسوار انتظام - خواجہ سلمان - یعنی کہ حریم حرم
حضرت اسے ﴿ سلطان فلک رفعت خورشید علا را ﴿ ولہ فلک جناب
شہا با جناب حضرت شاہ ہر از گردش گردون دون تنگ تہاست ﴿ میر معزی
خواجہ ابو سعید محمد کہ ہست ﴿ صدر فلک ہمت خورشید ہست ﴾ ولہ
نصرت باور فلک طاعت ﴿ کہ شہریار فلک را رسے مشتری نظری ﴾ فیضی
گشتند ہمہ فلک نوردان ﴿ آہستہ روان و تیز گردان ﴾
فلفل فرکافور - چونکہ کافور اڑ جانے والی چیز ہے اسلیے کافور کے ڈبے میں

سیاہ مرچین رکھی جاتی ہین جس سے کافور اُڑنے نہین پاتا گویا ان دونون مین ازلی اور قدرتی پیوند ہے سلیم۔ کیمیائے بہ از فیون نبود پیران را چہ شاہد این سخنم فلفل و کافور بس است ٭ طالع قیت پیری بے مذاق تلخ نخواہد زیستن ہاں کے تواند داشت بے فلفل کسے کافور را ٭

فلک نواز۔ نودولت جو مفلسی کی حالت سے صاحب دولت ہوگیا ہو۔

فلک اطلس۔ فلک الافلاک جسکو عرش معلی کہتے ہین اور وہ تمام افلاک کو محیط ہے۔ فیضی۔ چون اوج ستارہ یک بیک ماند ٭ یا بر سر اطلس فلک راند ٭

فلفل در آتش افگندن۔ کسی کو بیقرار کرنا۔ جادوگر مرچون پر افسون پڑھ کر کسی کے نام پر آگ مین ڈالتے ہین تو وہ شخص بیقرار رہتا ہے۔

فلان چیز بیک انگشت اوبستہ۔ یعنی فلان چیز اُسکے قبض و تصرف مین ہے۔ محسن تاثیر۔ بقدرت خامۂ صاحب سخن دستی چنان دارد ٭ کہ چندین رستم دستان بیک انگشت او بستہ ٭

فلک زدہ۔ مفلس و تہیدست آدمی۔

فاے با نون

فندق بند۔ انگلیون کے ناخون جو حنا سے رنگین ہون۔

فن متراضک۔ فنون کشتی مین سے ایک فن کا نام ہے۔ شوقی یزدی۔ قدر تم چون پا بمیدان زبردستی نہد فن متراضک ہمی پرور دستان میرنجم ٭

فندق بستن۔ انگلیون پر مہندی لگانا۔ شیدا۔ از نگہ آتش حسرت بجوم خوشنما بہا ٭ کہ حنا جانانہ فندق بست بر عنا بہا ٭

فندق شکستن۔ بوسہ لینا اور دینا۔

فندق کردن۔ انگلیون کو مہندی لگانا۔ ناخون سرخ کرنا معشوق کا۔ فغانی تبریزی۔ تا کہ سر انگشت گل کردہ خزان فندقی ٭ کرد چمن پر نگار پنجۂ دست چنار ٭

فندق زدن۔ تالی بجانا دو انگلیان دہنے ہاتھ کی بائین کی ہتھیلی پر مار کر آواز نکالنا۔ شرف شفردہ۔ فلک فندق زنان در عہد پیری ٭ بہ چیتش رقص دوران مینماید ٭

فناکدہ۔ فنا کا مکان۔ عالم دنیا۔ محمد اسحاق شوکت۔ خانہ ماکم از فناکدہ نیست ٭ چشم عنقا چراغ خلوت ماست ٭

فاے با واو

فوجدار۔ شہر کے سپرد کسی حصہ کا حاکم جسکے کرد آوال اندر رہنے کے حاکم ہوتا ہے اور افسر فوج کا۔ ملا طغرا صدر کی ہجو مین۔ کہ بیرون کند صدر را زین دیار ٭ کہ از لشکر جہل شد فوجدار ٭

فوطہ دار۔ وہ شخص جسکے سپرد حمیرون کے پہننے کی پوشاکین ہون یا حمام کا نوکر جسکے تفویض نہانے والون کے کپڑے کیے جائین اور خزانچی جسکے حوالے روپیہ ہو۔

فوطہ باف۔ پوشاک بُننے اور بنانے والا۔ سیفی بدیعی۔ فوطہ بافی کہ مراہست زبان شیرین ترسے کہ شود با من و لسوختہ چون شیر و شکر ٭

فوطہ ربایان۔ لوگون کے کپڑے اُتارنے والے چور رہزن۔ صائب۔ نیست از فوطہ ربایان جہان پروائش ٭ موی ژولیدہ خود ہر کہ بسر مے بندد ٭

فواق شیشہ۔ شیشے کی ہچکی یعنی وہ آواز جو شراب نکالنے کے وقت شیشہ سے نکلتی ہے۔ سلیم۔ نہیم تہمت خندید نش درین محفل ٭ فواق شیشہ مے را چنین علاج کنیم ٭

فاے با یاے

فیروزبخت۔ فیروزبہر۔ فیروزجنگ۔ فیروزحال۔ فیروزرای۔ فیروزعزم۔ فیروزگشت۔ فیروزمند۔ پیروزگر۔ یہ جملے تو صفی بادشاہ کے حق مین بولے جاتے ہین۔ ملا عبد اللہ ہاتفی۔ خبرہا سے جنم و اثرہاے رزم ٭ فرستادہ سرخیل فیروزعزم ٭ نظامی۔ جو فیروز بود آن نمونش اقبال ٭ درین ہم توان بود فیروزحال ٭ ولہ۔ بہر جا کہ در آری از کوہ و دشت ٭ بہی یادت از چرخ فیروزگشت ٭ ولہ۔ کمر دیگر تاجداران دہر ٭ بہ پیش جہاندار فیروز بہر ٭ ولہ۔ وزیر خردمند پیروز رای ٭ بہ پیروزی شاہ شد رہنمای ٭ ولہ۔ اشارت کند تا رقیبان تخت ٭ بسازند با شاہ فیروزبخت ٭ ولہ۔ چو از تاج او شد فلک سربلند ٭ سرش بعد ازان تاج فیروزمند ٭ میرزا صائب۔ سجادۂ رحیل صیبت زن کہ آن چشم کبود ٭ چون بلاے آسمان فیروزجنگ افتادہ است ٭ فرخی۔ شہ فرخندہ پی ہستی شہ فیروزگر گردی ٭ بہر دی چون پدر گشتی بشاہی چون پدر گردی ٭

فیروزہ تاج۔ جسکے تاج کے ساتھ فتح مندی ہو۔ نظامی۔ شہ ارسبت کاؤس فیروزہ تاج ٭ زمانہ بش خواستن تخت عاج ٭

فیروزہ رگدار۔ ایک قسم قیمتی فیروزہ کی ہے بخلاف اور جواہرات کے کہ رگدار ہونے سے قیمت اُسکی کم ہو جاتی مگر فیروزہ کی بڑھ جاتی ہے۔ شفیع اثر۔ قدر بیخوابی زمردم چون فلک یافت باش ٭ ہست زان فیروزہ رگدار قیمت گران ٭

فیل زور۔ بہادر۔ توانا۔ صاحب زور و طاقت اور نام ایک فن کا فنون کشتی سے۔ شعر۔ اگر شیر مردی دگر پیل زور ٭ مکن زورمندی بکمزور و ...

فیروزہ چشم۔ کبود چشم جسکی آنکھین نیلی ہون۔ نظامی۔ ہمہ سرخ سفید ...

دفیروزہ خشم ؎ زشیران نترسند ہنگام خشم ؎

فی الجملہ - حاصل کلام مجمل سخن - خلاصۂ سخن - حافظ - حافظ شراب و شاہد و رندی نہ وضع تست ؎ فی الجملہ میکنی و فرو میگذارمت ؎

فیروزۂ بادامی - بو اسحاقی - فیروزہ حبابی - فیروزہ ہردہ - فیروزہ کے اقسام ہین - شیرین شوقی - درعشق ہر کجا کہ بلندی ست پست ہست فیروزۂ حبابی گردون بدست ماست ؎

چوتھی فصل

اردو محاورات و اصطلاحات کے بیان مین

فاے با الف

فاتحہ پڑھنا - درود بھیجنا - دعا مانگنا - کسی چیز کے حاصل ہونے کی امید نہ رکھنا - ترک کردینا - صفدر رفوقانی - غم کرو پھر کسی کے مرنے کا پہلے تم اپنا فاتحہ پڑھ لیجئے ؎

فاختہ اڑانا - کبوتر بازی کرنا - نکمے کام کرنا - عیش و عشرت مین مصروف رہنا - قطعۂ مؤلف - رشتۂ دنیا سے مرد دنیا دار ؎ باندھتا ہی کبھی چھترا ہی ؎ کبھی طوطی قفس مین ڈالتا ہی ؎ کبھی وہ فاختے اڑاتا ہی ؎

فارسی بگھارنا - فارسی بولنا - ایسی زبان بولنا جو دوسرے کی سمجھ مین نہ آئے - جرأت - کیا جانیے کہ سیکھ لینگے کیا وہان کی فارسی ؎ جرأت تری جو سفر کرے گی اصفہان کو ؎

فارسی کی ٹانگ توڑنا - ٹوٹی پھوٹی فارسی بولنا غلط فارسی بولنا -

فارغخطی لکھوانا - بعد حساب کے بیباقی کی سند تحریر کرانا -

فاش غلطی کرنا - بھول جانا - بڑی غلطی کرنا -

باقی فاضل نکالنا - آئی رقم حساب مین جمع کرکے باقی یا فاضل نکالنا - قطعۂ مؤلف - حساب بے حساب دفتر میں ؎ بہت کرتے گئے مردان کامل ؎ محاسب تھک گئے سارے جہان کے ؎ نہ باقی اسکی نکلی اور نہ فاضل ؎

فاعل و مفعول ہونا - اسکے معنی مشہور ہین مضمون میکدہ ہین گو سراسر فعل نامعقول ہی ؎ مدرسے دیکھا تو وہان بھی فاعل و مفعول ہی -

فاقون کا مارا - بہت بھوکا فاقے کرتا ہوا - قطعۂ مؤلف - دیا حق نے کسی کو دولت و مال ؎ کوئی محتاج اور مفلس بچارا ؎ کوئی جیتا ہی عیش و خرمی مین ؎ کوئی ہی مرگیا فاقون کا مارا ؎

فانوس خیال - ایک قسم کا کاغذی فانوس ہوتا ہی جسمین طرح طرح کی تصویرین لکھی ہوتی ہین وہ ہوا سے چکر کھاتا رہتا ہی تو چراغ کی روشنی سے وہ تصویرین بھی پھرتی ہوئی بہار دکھاتی ہین - نسیم - آنے لگے بیٹھے بیٹھے چکر ؎ فانوس خیال بن گیا گھر ؎

فاقہ مستی - مفلسی مین رنگ رلیان - بے دولتی مین دولت کی چاؤ - حباب - فاقہ مستی اسے کہتے ہین کہ غارت ہوکر ؎ پھر اسی رنگ مین ہی پیر و جوان دہلی - قطعۂ مؤلف - کبھی ہی صبح روشن اور کبھی شام ؎ بدور انقلاب ملک ہستی ؎ کوئی ہی سرخوش جام دولت و مال ؎ کوئی سرمست شراب فاقہ مستی ؎

فاے با تاے

فتوے دینا - شرع شریف کے مطابق قاضی یا مفتی کا حکم دینا - مولانا اکبر لاہوری - قتل کرنا روا ہی عاشق کا ؎ مفتی عشق فتوی دیتا ہی ؎

فتنہ اٹھانا - شور و شر پیدا کرنا ہنگامہ برپا کرنا فساد قائم کرنا - صفدر رفوقانی - غیر جب بیٹھتے ہین مجلس مین ؎ ہی دم تازہ فتنہ اٹھتا ہی ؎

فتح پیچ - دستار بندی کا ایک طریق پگڑی باندھنے کا ایک ڈھنگ عورتون کے سر کے بال گوندھنے کے ایک طرز - جرأت - پھر نہ نکلا وہ پڑگیا جسپر ؎ تیری چوٹی کے فتح پیچ کا پیچ ؎

فتنۂ عالم - تمام زمانے کا فتنہ - صفدر رامپوری - آئی اس فتنۂ عالم کی سواری آئی ؎ یا گلستان کی طرف باد بہاری آئی ؎

فتح خان - بہادر اور جوانمرد آدمی - شعر ہجویہ - کیا کرتے ہین ہیجڑون کا کام ؎ فتح خان اپنا رکھ لیا ہی نام ؎

فاے با خاے معجمہ

فخر سمجھنا - فخر جاننا - اپنی بزرگی اور بڑائی کا باعث تصور کرنا - حکیم انور لاہوری - ہین جو بندے نقیر مولی کے ؎ فقر کو اپنا فخر جانتے ہین ؎

فخر خاندان - وہ شخص جسکے باعث سے خاندان کی عزت ہو - از مؤلف مولانا فخر الدین چشتی دہلوی کی تعریف مین - فخر دنیا فخر دین فخر جہان فخر زمان ؎ شاہ فخر الدین ولی اللہ فخر خاندان ؎

فاے با راے مہملہ

فراٹے لینا - فراٹے بھرنا - جلد جلد چلنا - تیزی کے ساتھ دوڑنا -

فراغت جانا - جاے ضرور جانا - پاخانہ پھرنے جانا - بیت الخلا جانا -

فراغت لگنا - پاخانہ کی حاجت ہونا -

فراغت ہونا - فرصت پانا کام سے نجات حاصل ہونا -

فراغت پانا - فارغ ہونا - بے فکر ہونا - مولانا اکبر - کوچۂ جانان تک جو جا چکے ؎ زندگی سے وہ فراغت پا چکے -

فرشتے دکھائی دینا - قریب المرگ ہونا - مرگ دکھائی دینا -

فرشتے کے پر جلنا - ایسا مکان جسمین کسی کا دخل نہو کوئی نہ جاسکے - فغان - جلتے ہین اس گلی مین فرشتے کے پر فغان ؎ کیونکر پھر وہان سے ترا نامہ بر پھرے ؎

فرش کردینا - مارتے مارتے زمین پر بچھا دینا - خوب زدوکوب کرنا -

فرمایشی کھانا - سخت مار کھانا - جوتوں سے پٹنا - رحمت - خانگی
کبھی نہیں میں رکھ کا پردہ چھوڑ دو + کھاؤ گے فرمایشی سر پلپلا ہو جائیگا +
فرمایشی لگانا - جوتے لگانا - خوب مارنا -
فرنٹ ہونا - سرکش ہونا - باغی ہونا - نافرمان ہونا - پھر جانا سے -
پھرکی دیکھتے ہیں جب آنکھیں + جیسے فوراً فرنٹ ہوتے ہیں -
فروکش ہونا - اتر پڑنا - قیام کرنا - ٹھہرنا - صفدر رامپوری بیشین
جاگے فروکش ہوے دالانوں میں + مشورے نظم و نسق کے ہوے درباروں میں +
فروگذاشت کرنا - نظر انداز کرنا - چھوڑ دینا - قصور معاف کرنا -
فرزین بند - وہ مات جو شطرنج میں فرزین کے ذریعہ سے دی جائے -
فرزند خلف - اچھا بیٹا - فرمانبردار بیٹا - لائق بیٹا -
فرزند ناخلف - نالائق و نافرمان بیٹا -
فرش سے عرش تک - زمین سے آسمان تک - نعتیہ از مؤلف -
بادشاہی خدا نے قائم کی + فرش سے عرش تک محمدؐ کی +
فرشی سلام - جو سلام فرش تک جھک کر کیا جائے - تعظیمی سلام -
فرشتے خان - مغرور و متکبر آدمی -
فرعون بے سامان - مغرور گھمنڈی - شیطان - مفسد -
فرشی حقہ - چوڑے پیندے کا حقہ -
فراشخانہ - وہ مکان جس میں فرش کا سامان رکھا جاتا ہے -

فاے با سین مہملہ

فسادکی جڑ - مفسد - فساد برپا کر دینے والا - دو شخصوں کو آپس میں لڑا دینے والا -

فاے با صاد مہملہ

فصلی بھڑوا - موسمی مسخرا - ہولی کا بھڑوا -
فصد کھلواؤ - خون نکلواؤ تاکہ تمھاری دیوانگی رفع ہو ہوش میں آؤ
ہوش کی بنواؤ -

فاے با ضاد معجمہ

فضیحتی کرنا - رسوا کرنا - بے آبرو کرنا - بدنام کرنا - جھگڑا اٹھانا -

فاے با طاے مہملہ

فطرت اڑانا - فریب کرنا - فریب کی چال چلنا - دھوکا دینا -

فاے با عین مہملہ

فعل کرنا - حرکت کرنا - کام کرنا - جماع کرنا - سے - پائینگے آگی
قیامت کو سزا + بندے نادان فعل بد کرتے جو ہیں -
فعل لانا - لڑنا - جھگڑنا - شر اٹھانا - فساد پیدا کرنا -
مچانا - ڈھونڈنا - پھیلنا -

فاے با قاف

فق پڑ جانا - رنگ اڑ جانا - زرد ہو جانا -
فق شہہ ہو جانا - خوف سے چہرے کا رنگ بدل جانا - زرد پڑ جانا سے - کا تکا
بام پر نکلے اگر تم رات کو اے ماہرو + چاند کا غیرت کے مارے رنگ فق ہو جائیگا +
فقروں میں آجانا - خوشامد میں آجانا - چکنی چپڑی باتوں میں
آجانا - شوق - ہنس کے کہنے لگے وہ پھر تو + ایسے فقروں میں آگئے ہیں حضور +
فقرہ بتانا - فقرہ چلنا - فقرہ دینا - دم میں لانا - دھوکا یا فریب دینا -
فقرہ بتانا - گڑھنا - بہانہ کرنا - حیلہ سازی کرنا -
فقرے بازی کرنا - چال چلنا - دھوکا دینا - فریب عشق - کرتا ہے
فقرے باز یاں کیا خوب + جیسے او دغلسا زیاں کیا خوب +
فقیر کر دینا - محتاج بنا دینا - کنگال کر دینا -
فقیری لٹکا - سہل اور آسان سا نسخہ -

فاے با لام

فلک پر چڑھانا - عزت دینا - رتبہ بڑھانا - سے - اس شوخ نے
کل باتوں ہی باتوں میں فلک پر + سو بار چڑھایا مجھے سو بار اتارا +
فلک سیر - سبزی اور بھنگ جو پیکر مست ہو جاتے ہیں - شوق -
بیخودی ہے کہ بیچیائی ہے + یا فلک سیر تو نے کھائی ہے +

فاے با نون

فنا فی اللہ ہونا - روح میں روح مل جانا - بالکل محبت ہو جانا
غارت ہونا - مٹ جانا - برباد ہو جانا - مر جانا - داغ - فنا فی اللہ
ہو کر پاؤں عمر جاوداں ہی + مسیح و خضر کی ہستی سے بڑھ کر ہو عدم میرا +

فاے با واو

فوجداری کرنا - مجرمانہ حرکت کرنا - لڑنا - سزا کے لائق کام کرنا -
فوجداری سپرد کرنا - مقدمہ عدالت فوجداری کے حوالے کرنا -

فاے با یاے

فیر اڑانا - بندوق یا توپ چلانا - جماع کرنا - حرکت کرنا -
فی سبیل اللہ کر دینا - خیرات دینا - عام کر دینا -
فیلی فیلیا - مکار - فریبی - دھوکا دینے والا - سحر - یہ عاشق فیلیے
ہوتے ہیں کیا صورت بناتے ہیں + بہیمن و جھوٹ نہیں بنتا نہ کپڑے بدلے جاتے ہیں +
فی لگا لنا - عیب نکالنا - نقص نکالنا - نکتہ چینی کرنا -

پانچویں فصل

لغات متعلق علم طب کے بیان میں

فاے باالف

فاشرا - یہ ایک بیل مشابہ انگور خاردار ہی اپنے پاس کے درخت پر لپیٹ جاتی ہی پھل اسکا بقدر چنے کے سرخ رنگ خوشہ دار ہوتا ہی خوشہ مین دس دانہ سے زیادہ نہین ہوتے طبیعت اسکی گرم و خشک جالی و ملطف و مجفف و مسخن دافع صرع و فالج و استرخاے و نسیان و خناق بلغمی و سرفہ کہنہ ہی -

فاوانیا - تیسرا حرف واو بعض کے نزدیک یہ عود الصلیب ہی مگر ایسا نہین البتہ جڑ اور پتی اسکی مشابہ عود الصلیب کے ہین نر اور مادہ دو قسم پر منقسم ہی نر کے جوف مین خطوط صلیبی ہین اسلیے اسکو عود الصلیب کہتے ہین اور مادہ مین وہ خطوط نہین اسکو فاوانیا بولتے ہین اسکے پھل کا خساندہ کابوس کو دفع کرتا زخم کو صفائی دیتا ہی بول اور حیض کو جاری کرتا ہی وجع رحم و اختناق کا -

فالوذج - معرب فالودہ جو ایک مشہور خورک ہی اور گیہون کے نشاستہ سے بنائی جاتی ہی طبیعت اسکی گرم تر کثیر الغذا واسطے اکثر امراض صدر کے کھانا اسکا نافع ہی -

فادزہر - اخیر مین ہاے معجمہ ایک زرد پتھر مائل بسفیدی اور بعض مائل بسبزی پیدا ہوا پستئی رنگ ہوتا ہی یہ بہتر سب زہرون کا علاج ہی -

فار - چوہا مشہور جانور ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک کھانا اسکا مورث نسیان اور اخلاق بد کا ہی اور مفسد معدہ البتہ جسن بچے کے منھ سے رطوبت بہت جاتی ہو اسکے واسطے مفید ہی اسکے جوشاندے مین بیٹھنا عسر البول کو دفع کرتا ہی سرمہ اسکی مینگنی کا آنکھون کی گری ہوئی پلکون کو نکالتا ہی سفیدی کو دفع کرتا ہی اور اگر زندہ چوہے کو چیر کر سانپ یا بچھو کے نیش پر باندھین زہر کھینچ لیتا ہی -

فالبرنس - یہ ایک نبات بانس کی لمبی اور گرہ دار ہی بیج اسکا سپید بقدر باجرے کے جڑین باریک طبیعت اسکی گرم و خشک جوشاندہ اسکے بیج اور پتون کا درد مثانہ کے واسطے مفید ہی جڑین بالکل بیکار ہین -

فاط - یہ ایک پتھر ہی جو فارس سے لاتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک کھانا اسکا دمتوبہ کے زہر کو نافع ہی -

فارۃ المسک - یہ جانور چوہے کی قسم سے ہی جسکو ہندی مین چھچھوندر کہتے ہین سخت بدبو اس سے آتی ہی کوئی جانور بدبو کے سبب سے اسکا گوشت نہین کھاتا بلی بھی اس سے بھاگتی ہی طبیعت اسکی گرم و خشک ہی اور گوشت زہر قاتل -

فاشرشتین - اسکے معنی ہین دور کرنے والا اسا ٹھ بیماریون کا یہ ایک نبات ہی مشابہ فاشرا کے بیل اسکی پاس کے درخت پر لپیٹ جاتی ہی رنگ مخالف فاشرا کے طبیعت اسکی گرم اور خشک باعتدال صرع اور فالج کو زیادہ تر مفید ہی

فالنجیقون - ایک نبات ہی دو یا تین شاخین اسکی ہوتی ہین پھول سفید مشابہ سوسن کے دندانہ دار بیچ مین سیاہ جڑ باریک بچھو اور نیلا جانورون کا زہر خاص علاج ہی -

فاختہ - یہ ایک مشہور پرندہ ہی خاکستری رنگ گلے مین طوق طبیعت اسکی گرم اور خشک گوشت اسکا دافع رعشہ و فالج و خدر و امراض عصبانی بارد و ریاح غلیظ و بیاض چشم ہی -

فاغرہ - اسکو فارغہ بھی کہتے ہین فارسی مین فاخرہ او کبابہ و دہنہ کشا اور دہنہ کھلا کہتے ہین کبابہ سے مقدار مین بڑا ہی جوزی رنگ ذرے تک پھٹا ہوا جوف مین ایک دانہ چھوٹا گول اور سیاہ چمکتا ہوا او معطر طبیعت اسکی گرم اور خشک مقوی دماغ اور قلب معدہ و ہاضم منقی اخلاط بلغمی سوداوی ہی

فانیذہ - فانید - قند - گڑ - شکر - کھانڈ جو گنے کے پانی سے بنائی جاتی ہین طبیعت اسکی گرم اور تر کھانسی اور ضیق النفس اور درد سینہ کو نافع ہی بطن کو ملین کرتا ہی برودت امعا اور رحم کو نکالتا ہی -

فاسی - ایک قسم کے بیج سرخ رنگ اور ریزہ بھی اور کڑوے پتے چنے کے پتون کے سے جو اور گیہون مین ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم تر وجع المفاصل و عسر النفس و ورم طحال کو نافع ہی -

فاے باتاے

فتیت - ہر ایک چیز ریزہ کی ہوئی کو فتیت کہتے ہین خصوصاً گیہون کی روٹی ریزہ کی ہوئی جسکو چورما کہتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک قلیل الغذا مولد ریاح سوداوی مجفف رطوبات حارہ دیر ہضم ہی -

فتائل - جمع فتیلہ کی جسکے معنی ہین بتیان جو دوا لگا کر قبل یا دبر مین رکھین -

فتائل الرہبان - یہ ایک نبات ہی بقدر ایک گز کے سیاہ رنگ تیرہ مائل بسپیدی پتی حنا کی سی سنا کی سے چھوٹی پھول اسکا زرد اور خوشبو مزہ تیز اسکی جڑ اگر پتی لپیٹ کر چراغ مین رکھین اور تیل ڈالین تو بتی کی طرح جلتی ہی اسی لحاظ سے اسکو فتیلہ کہتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک زکام اور سر درد اور کھانسی و عسر النفس کو نافع ہی بادہ کو زیادہ کرتی ہی درد مفاصل و عرق النسا کا علاج ہی -

فاے باجیم

فجل - فارسی مین اسکو ترب اور تربزہ ہندی مین مولی کہتے ہین جنگلی اور بستانی دو قسم کی ہوتی ہی مشہور چیز ہی لوگ اسکو بکثرت کھاتے ہین طبیعت اسکے بیج کی گرم اور خشک در جہ دوم اور تر اور گرمی پوست اور

اتنی کی زیادہ جڑ سے ہی فائدے اسکے بے شمار کتابوں مین لکھے ہین محلل مولد ریاح محرک اردوغ بعض بدنون مین ہاضم طعام اور خود غیر ہضم مدر بول ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول ہی کہ فجل مین تین خاصیتین ہین پتی اسکی پراگندہ کرنے والی ریاح کی مغز اسکا مدر بول ہیوت قاطع بلغم ہی-

فجل با غنیق - یہ شامی مولی کا نام ہی مرکب القوی اور شلجم سے زیادہ گرم اور خواص مین اصل مولی سے ضعیف مدر بول محلل رطوبات-

فرخ - بکسر اول و فتح ثانی ہر ایک جانور کا بچہ خصوصاً چوجہ مرغ و کبوتر مدووست کھانے کباب بچہ کبوتر کے ساتھ لہسن اور پیاز کے مولد جذام ہی اور مطبوخ اسکا ساتھ چربی کے مقوی باہ ہی اور خروس کا بچہ بالخاصیت مضعف باہ ہی-

فرخار - یہ ایک درخت بقدر چنار کے ہی پتے اسکے بادام کے پتون کی طرح پھول گلاب کے سے نہایت خوش شکل طبیعت اور خواص اسکے لکھا دیکھے سے مگر اس ... ضعف ...

فرمیوس - یہ ایک پھل حنظل کی صورت پر ہی طبیعت اسکی بہت گرم اور خشک مدر عرق ہی اور دافع زہر افعی اگر نیش پر لگایا جاوے فائدہ دے

فرس - سپاہی گھوڑا جو مشہور چارپایہ ہی طبیعت اسکی دوسرے درجہ مین گرم و خشک کھانا اسکے گوشت کا مورث شجاعت اور سختی دل کا ہی-

فرنجمشک - ایک قسم ریحان کا جسکو ہندی مین تلسی کہتے ہین اور ہندو اسکی پرستش کرتے ہین اور اسکی شادی پر ہزارہا روپیہ خرچ کرتے ہین خوشبو اس سے لونگ کی سی آتی ہی طبیعت اسکی گرم خشک دماغی سدون کو کھولتی ہی درد سر کو دفع کرتا ہی منہ کی بو کو خوش کرتا ہی مقوی دل دافع خفقان و وسواس ہی ہاضم غذا ہی-

فرفیون - اس دوا کو بعض رقوم یعنی تھوہڑ کا دودھ جانتے ہین اصل یہ ہی کہ کوہ بربریہ مین ایک نبات مشابہ نبات کا پوسکے ہی اس سے یہ دودھ لیا جاتا ہی الیلس بالف ممدودہ اسکا نام ہی جسکا ذکر الف ممدودہ مین تحریر ہو چکا ہی

فراسیون - اسکی ماہیت مین اختلاف ہی دیسقوریدوس کہتا ہی کہ وہ نبات ہی بہت سی شاخین جسکی ہین رونگٹے دار پتی گول بقدر انگوٹھے کے پھول بنفشی - انطاکی نے لکھا ہی کہ وہ ایک جڑ مربع ہی ساتھ شاخون سفید رونگٹے دار کے پھول اسکا نیلا اور زرد کڑوا ہی - حکیم علی گیلانی کہتا ہی کہ فراسیون کو شیشۃ الکلب اور حرف الارض جب کتا اسکے پاس سے گذرتا ہی اسے موت دیتا ہی طبیعت اسکی گرم خشک ساتھ قوت تریاقیہ کے دافع یرقان سرفہ و درد گوش و جرب و دمع ہی چبانا اسکے پتون کا دانتون کو مضبوط کرتا ہی - ضیق النفس و فضلات غلیظہ کا قاطع ہی -

فاے با سین

فسافس - فارسی مین اسکو سر خاسک و رساس اور شب گزنده ہی مین کھٹمل کہتے ہین جو مشہور موذی جانور چارپائیون اور بوریا وغیرہ مین پیدا ہوتے ہین آدمی کا خون پیتے ہین انکو مارا جاوے تو صرف خون پھیل جاتا ہی جس سے سخت بدبو آتی ہی طبیعت اسکی گرم خشک ہی وغیرہ اسکے جو شاندے کا واسطے نکالنے جونک کے کہ حلق مین چمٹ گئی ہو فائدہ بخش ہی پیسکر ڈالنا اسکا عضو تناسل کے سوراخ مین حتباس بول کا علاج ہی کھ لینا ایک عدد کھٹمل کا واسطے دفع زہر سانپ شاخدار کے مجرب ہی

فستق - معرب پستہ مشہور پھل ہی طبیعت اسکی گرم و خشک مقوی باہ ہی اور منی زیادہ کرنے والا منی کا مقوی ذہن و حافظہ دماغ و دل دافع خفقان و قی منقی کبد قلیل الغذا مسمن بدن و معاون معدہ ہضم طعام میں ہی-

فاے با شین

فشاغ - یہ ایک بیل جنس فاشرا سے ہی پاس کے درخت لپٹ جاتی اور اسکو چھپا لیتی ہی ہندی مین اسکو سیم یا سے چھول کہتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک پھل اور پتی مفرح و مقوی حافظ حرارت غریزی دافع زہر ... ہی

فاے با ضاد معجمہ

فضہ - یہ مشہور دھات ہی فارسی مین اسکو سیم و لقرہ ہندی مین چاندی اور روپا کہتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک مفرح مانند یاقوت دافع مالیخولیا جنون و وسواس ہی چاندی کے سرمچوے سرمہ آنکھون مین ڈالنا موجب صفائی بصر ہی سرفہ و خفقان و توحش و تمام امراض قلبیہ کا علاج ہی-

فاے با طاے مہملہ

فطر - فارسی مین اسکو سماروغ کہتے ہین وہ ایک نبات ہی کہ بعد بارش کے نمناک زمینون مین پیدا ہوتی ہی آدھی انڈے کی شکل کہ دو آٹا رکھا ہوا ہندی مین اسکو کھمبی کہتے ہین پنجابی مین کھونب ساق اسکی بہت چھوٹی ہوتی ہی اسکی دو قسم ہین ایک ماکول جو کھانے مین آتی ہی دوم غیر ماکول جسمین سمیت ہی ماکول سفید سرخی مائل اسکو کماۃ کہتے ہین اور غیر ماکول سرخ و سیاہ و فطر ہی طبیعت ماکول کی سرد اور تر ہی مگر کھانے کی کثرت سے فالج اور سکتہ ہو جانے کا خوف ہی دیر ہضم مولد خلط غلیظ سرمہ اسکے تازے پانی کا دافع سفیدی چشم مقوی باصرہ ہی اگر اسکے پانی مین سرمہ پیسین اور آنکھون مین لگائین تو نزول الماء کا مجرب علاج ہی-

فطراسالیون - کرفس کوہی اور کرفس ماقدونی بھی اسکو کہتے ہین تخم اسکے مثل اجوائن کی طرح خوشبو طبیعت اسکی گرم و خشک قاطع لزوجات محلل نفخ و مفتح دافع درد پہلو و ادرار بول و حیض ہی-

فاے با قاف

فقاح - اغیر مین حاے حطی شگوفہ ہر ایک درخت کا۔
فقاح الملح - نمک کی کان پر ایک چیز مشابہ شورہ کے پیدا ہوتی ہر جو الطف اجزاے ملح ہر۔
فقع - یہ ایک نبات بطور قطر کے گول مائل بطوالت بقدر نارنج بعد بارش نمناک زمین سے نکلتی ہر ایک دانہ باہر ہوتا ہر تو ایک یا دو دانے زمین کے اندر ہوتے ہین بعض جگہ صرف زمین پھٹی ہوئی معلوم ہوتی ہر تو واقف کار زمین کھود کر اُسکو نکال لیتے ہین اور وہ شیرین اور لذیذ ہوتا ہر مگر دیر ہضم و ثقیل مولد قولنج۔
فقاع - بوزہ جو ایک قسم منشی چیز ہو اور چانولون سے بناتے ہین کنگنی اور جوار اور فطیری روٹی و مویز و خرما و شکر و شہد سے بھی بوزہ بنایا جاتا ہر طبیعت اسکی مختلف باعتبار اُن اشیا کے جنسے یہ بنایا جاے ہوتی ہر ردی الغذا مولد اخلاط غلیظ و ریاح ہر قوت نفخہ اسمین اس حد تک ہوتی ہر کہ اگر ہاتھی دانت کو اسمین بھگوئین تو ایسا نرم ہوجاتا ہر کہ جو چیز اس سے بنائین باسانی بنجاتی ہر۔
فقاح الکرم - شگوفہ انگور کا طبیعت اسکی سرد اور خشک مقوی دل و معدہ مسکن قواق اور وہی عرق کھینچا ہوا لطیف تر اور قوی تر۔

فاے با لام

فلفل الماء - اس مرچ کا درخت پانی مین ہوتا ہر بید کی سی پتی نرم نازک ڈنڈی گرہ دار شاخین مرچ کے قائم مقام ہین ملکہ کھانے کو خوش ذائقہ و خوشبو کردیتی ہر طبیعت اسکی گرم خشک مسخن معدہ و جگر و ہاضم طعام ہر۔
فلز - دھات ہر قسم کی خصوصا مس سفید جس سے ڈھالکر برتن بناتے ہین اور اجسام معدنی جو اٹھ ہین طلا نقرہ قلعی سرب توتیا مس روی طبیعتین اور افعال و خواص ہر ایک کے موقع موقع پر درج ہین۔
فل - نیلوفر اور چنبیلی کے پیوند سے یہ پھول حاصل ہوتا ہر پھول سفید ہے اسکے پھل کا پہلے رنگ زرد ہوتا ہر جب پکتا ہر تو سیاہ ہوجاتا ہر طبیعت اسکی گرم خشک مفتح سدد منقی دماغ مزیل درد سر و استرخاے عصب دافع خفقان و غشی و استسقا و لواسیر ہر۔
فلفل - معرب پلپل ہندی مین اسکو گول مرچ کہتے ہین مشہور چیز ہر ایک سیاہ اور دوسری خاکستری مائل بسیاہی طبیعت اسکی گرم خشک محلل اور جذاب و رجالی منقی بلغم مقوی حافظہ و اعصاب۔
فلفل السودان - یہ مرچ سودان علاقہ حبش مین پیدا ہوتی ہر۔

طبیعت اسکی گرم و خشک محلل ریاح غلیظ و بلغم لزج و مفتح سدد محرک باہ دافع درد دندان ہر۔
فلفل موبہ - ہندی مین اسکو پیپلا مور کہتے ہین اور یہ ایک گرہ دار جڑ ہر جو دار فلفل کی جڑ ہر اور دار فلفل کا بیان حرف دال کی پانچوین فصل مین تحریر ہوچکا ہر۔

فاے با نون

فنک - یہ پوست ایک جانور کا ہر سنجاب سے بڑا بلاد روس او ترک سے لاتے ہین سپید اور سرخ اور ابلق ہوتا ہر خوشبو بہت زیادہ طبیعت اسکی گرم اور خشک پہننا اسکا مسخن بدن و ملطف و محلل اخلاط دافع فالج و لقوہ و رعشہ و حمیات ہر اسکے بخور سے موذی جانور بھاگ جاتے ہین۔
فنجیوش - یہ ایک گھاس ہر پتی اسکی لبلاب کی سی زرد پھول جڑ باریک تیز مزہ اور کڑوی بعض کے نزدیک یہ گھاس تمباکو کی ایک قسم سے ہر طبیعت اسکی گرم خشک محلل ریاح ہر کھانسی مزمن کا علاج ہر ضیق النفس کو دفع کرتی ہر اور ورام کو تحلیل کرتی ہر زخمون کو اچھا کرتی ہر۔

فاے با واو

فودنج - پودینہ جو مشہور چیز ہر طبیعت اسکی گرم اور خشک نہایت ملطف ہر معدہ کو صفا کرتا ہر سینے کی سوزش و استسقا و یرقان کو دفع کرتا ہر مخرج جنین ہر اور ادرار عرق و بول و حیض کے واسطے فائدہ بخش فودنج جبلی یعنی پہاڑی پودینہ اور فودنج نہری یہ بھی پودینہ کے اقسام ہین۔
فوفج - بدن کی مالش اور صفائی کے واسطے گیہوں اور جو کے آٹے سے بنایا جاتا ہر خوشبو بھی اسمین داخل کرتے ہین جرب اور بدن کی خارش کے واسطے نہایت مفید ہر۔
فوفل - سپاری جو مشہور چیز ہر چھالیا اور چکنی دو قسم کی ہوتی ہین اسکو کتر کر اور پان مین رکھکر کھاتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک شیخ الرئیس کے نزدیک گرم خشک ہر مستحکم کرنے والی اعصاب کی دافع رطوبت دہان مضبوط کرنے والی دانتون کی مقوی دل مدر بول و حیض حابس اسہال و قاطع عرق ہر۔
فوہ - یہ ایک گھاس مشابہ کرفس کوہی کے ہر بڑی پتی ساق اسکی بقدر ایک گز کے پھول نرگس کے سے جڑ اسکی مستعمل ہر طبیعت گرم خشک دافع درد سینہ و درد پہلو و ورم الطحال ہر۔
فوہ - یہ ایک جڑ سرخ تکدر ہر رنگریز لوگ اس سے کپڑے رنگتے ہین بستانی اسکا پھل بعد پکنے کے سیاہ ہوتا ہر طبیعت اسکی گرم و خشک پینا

اسکے خصاندے کا ساتھ شہد کے فالج کو فائدہ دیتا ہے اور دوا تقوہ و سستی اعضا و تقویت معدہ کے مفید۔

فاے باہاے ہوز

فہد۔ یہ شکاری چارپایہ ہے جسکو فارسی مین یوز اور ہندی مین چیتا کہتے ہین مادہ اسکی نر سے زیادہ شکار کرتی ہے اور شکار کرنا جلد سیکھ جاتی ہے جب یہ بیمار ہوتا ہے لٹکتے کا گوشت کھا کر شفا پاتا ہے راگ اور باجے اور شراب کو یہ بہت چاہتا ہے سب سے پہلے جسنے اسکو شکار پر لگایا یزید پلید ابن معاویہ تھا جسنے سید الکونین امام حسین علیہ السلام کا خون اپنی گردن پر لیا طبیعت اسکی گرم و خشک خواص اسکے یوز کی لفظ کی تشریح مین تحریر ہونگے انشاءاللہ تعالی کہتے ہین کہ اسکا پیشاب اگر کسی چوہے کے سوراخ مین ڈالین تو سب چوہے گھر سے بھاگ جائین۔

فاے بایاے

فیروزج۔ فیروزہ مشہور جواہرات ہے کانین اسکی نیشاپور اور خجند اور کرمان اور آذربایجان و کوہ فارس نواح شیراز مین ہین نیشاپوری فیروزہ سب سے اچھا ہوتا ہے طبیعت اسکی سرد خشک سرمہ اسکا آنکھون کو روشن کرتا ہے دمعہ کو دور کرتا ہے باصرہ روح کو تقویت دیتا ہے شبکوری کا علاج ہے معجون مرکب اسکی تقویت دل و معدہ کو دیتا ہے خفقان کو دور کرتا ہے تریاق ہر ایک قسم کے زہر کا ہے۔

فیلزہرج۔ یہ لفظ معرب پیل زہر کا ہے یہ ایک نبات ہے جسکا عصارہ ریسوت ہے چونکہ وہ قاتل فیل ہے اسلیے اس نام سے موسوم ہوا ہے طبیعت اسکی گرمی و سردی مین معتدل ہے پینا اسکا درد سپرز اور یرقان و ادرار حیض و اسہال بلغمی کو بہت مفید ہے آنکھون کو اسکا طلا روشن کرتا ہے اور رمد کا دافع ہے۔

فیل۔ معرب پیل بڑا جانور چوپایہ جانورون مین ہے جسکو ہندی مین ہاتھی کہتے ہین دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جسکے دو دانت باہر کو بڑھے ہوے ہوتے ہین دوسرا وہ جسکے دانت باہر نکلے ہوے نہین ہوتے طبیعت اسکی سرد اور بہت خشک ہے ہاتھی کا پتہ اگر سرمہ مین حل کر کے آنکھون مین لگائین آنکھون کو روشن کرتا ہے ہاتھی دانت کا برادہ دو درم ہر روز شہد کے ساتھ کھانا حافظہ اور فہم کو بڑھاتا ہے دافع وجع المفاصل و حابس اسہال و نزف الدم ہے اور کھانا اسکا بعد طہر حیض کے ایک ہفتہ تک عورت کو حمل کا امیدوار کرتا ہے اگرچہ عورت عقیمہ ہو بطن مین شافہ رکھنا اسکا بھی یہی عمل کرتا ہے یہی مجرب ہے کہ بعد طہر کے تین رات تک ہر رات ایک مثقال برادہ اسکا ساتھ دو مثقال مصری کے عورت پھانکے اور چوتھی رات شوہر کے ساتھ جفت ہو تو حمل ضرور رہ جائیگا اور اگر اسکا سرگین عورت سات روز حمول کرے تو آیندہ کبھی حاملہ نہو اور بھی فائدہ اس فائدہ بخش جانور کے کتابون مین بہت لکھے ہین۔

چوبیسوان باب

قاف معجمہ کے ذکر مین اسمین بھی بدستور پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

عربی و فارسی وغیرہ لغات کے بیان مین

قاف باالف

قاضی بیضا۔ ایک بزرگ صاحب تفسیر بیضاوی جو شہر بیضا مین رہتا تھا اور وہ شہر فارس مین ہے۔

قاقا۔ آواز زاغ۔ کوے کی آواز۔

قاراسیا۔ وہ میوہ جسکو آلو بالو کہتے ہین۔

قاقیا۔ ایک گوند کا نام ہے جس سے چمڑے کو دباغت دیتے ہین

قاب۔ خوان طعام و آوند ظرف یعنی برتن ہر قسم کا اور خانہ ہر چیز کا چنانچہ آئینہ کا قاب عینک کا قاب کتاب کا قاب وغیرہ یہ لفظ ترکی ہے۔ ملا طغرا۔ شد آفتاب رو کشش ہم رنگ قاب مصحف ٭ تفسیر گشت بیتاب از پیچ و تاب مصحف ٭ تاثیر۔ سخت قاب عینک آئینہ دارد خانہ ام ٭ غیر روشندل ندارد راہ در کاشانہ ام ٭

قالب۔ بدن آدمی کا اور قالب کا قند و کفش و خشت و قالب پنیر و قالب قند وغیرہ جو چیز قالب مین پلٹ کر بنائی جائے اور چھاپہ جو کپڑے وغیرہ پر کیا جائے۔ سعدی۔ گر ببیند زرین چہار شد غالب ٭ جان شیرین برآید از قالب ٭

قاصب۔ توڑنے والا۔ بہت تیز۔

قابلیت۔ قابل ہونا۔ لائق ہونا۔

قامت۔ قد انسان کا اور وقت آغاز نماز کے قد قامت الصلوٰة کہنا۔ صائب۔ پیشتر زانکہ دہد خامہ بدستش استاد ٭ الف قامت او مشق قیامت میکرد ٭ شیخ العارفین۔ آمد آن شوخ بسیر چمن و سرو سہی ٭ جلوۂ قامت او دید و سر افگند بہ پیش ٭

قانت۔ فرمان بردار دعا مانگنے والا۔ نماز پڑھنے والا۔ خاموش۔

قاذورات۔ بہت سی پلیدیان۔

قاچ - پھانک خربزہ تربوز وغیرہ کی -

قاصد - قصد کرنے والا - ارادہ کرنے والا - سرعت چلنے والا - تیز رو - سعدی
من وچند صعلوک صحرا نورد ٭ برفتیم قاصد بدیدار مرد ٭

قاعد - بیٹھا ہوا اور بیٹھنے والا اور وہ عورت جو حیض اور جننے سے نا امید ہوچکی ہو -

قائد - پیشرو لشکر کا اور وہ شخص جو اندھے کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑکر اُسکو راستے پر لے جائے -

قادر - صاحب قدرت و زور و توانا و اختیار - میر معزی - بر گنہگار چو قادر شوی از کردہ او ٭ بکنی یاد کہ عفو ہمین ست کرم ٭

قاطر - استر یعنی خچر جو ایک مشہور چار پایہ ہی گدھے اور اسپ مادہ کے باہم جفت ہونے سے پیدا ہوتا ہی - سہ - بدنیا طالب دنیائے فانی ٭ ہمیشہ ہمچو قاطر زیر بار است ٭

قار - ترکی مین برف کو کہتے ہین اور عربی مین قیر جو ایک قسم کا سیاہ گوند ہی اور بتشدید راے عربی مین قرار پکڑنے والا -

قاصر - قصور کرنے والا - کوتاہی کرنے والا - مفتی حیدر - از دل و جان حاضرم اندر حضور ٭ گرچہ در ظاہر ز خدمت قاصرم ٭

قاسر - زبردستی کسی کام پر مقرر کرنے والا - زور سے کام لینے والا -

قاشغور - قطار مین سے کہا رھوان گھوڑا -

قاشر - چھلکا اُتارنے والا -

قاز - ایک جانور کا نام ترکی زبان مین ہی جسکو بط کہتے ہین -

قاموس - دریا اور دریا مین سے وہ موقع جہان عمیق پانی ہو اور نام ایک کتاب کا لغت مین جسکو مجدالدین بن یعقوب فیروزآبادی نے تالیف کیا ہی -

قابوس - معرب کاؤس جو ایک بادشاہ کا نام ہی اور نام ایک حکیم کا -

قاس - غوک یعنی مینڈک جو ایک آبی جانور ہی اور ابر یعنی بادل اور حاجب یعنی محافظ و چوکیدار -

قاقوس - بھرو و قاقوس نام ایک غلے کا ہی جسکو عربی مین عدس کہتے ہین اور ہندی مین مسور -

قانوس - موسیقی مین ایک راگ کا نام ہی -

قاشش - ابر یعنی بادل اور پھانک خربزہ وغیرہ کی جو میوہ کی طوالت کی جانب سے اُتاری گئی ہو -

قاص - قصہ خوان - قصہ کہنے والا اور وعظ نصیحت کرنے والا اور کسی کا پیچھا کرنے والا -

قابض - قبضہ کرنے والا اپنے تصرف مین لانے والا مال وغیرہ کو - سہ - سر چہ داری صرف کن در راہ حق ٭ تا شوئی قابض بمال و مملکت ٭

قامع - توڑنے والا - خوار کرنے والا - مدحیہ از مؤلف - قامع بنیاد کفار لعین ٭ حیدر کرار کا فرکش علی -

قائع - فال دیکھنے والا قرعہ کے ساتھ اور وہ شخص جسکے سر کے بال کسی بیماری کے سبب سے گرگئے ہون اور وہ شخص جو کسی کا مشورہ قبول کرلے اور جس امر سے کوئی اُسکو روکے رُک جائے -

قاع - زمین ہموار و فراخ میدان -

قاطع - کٹا ہوا اور کاٹنے والا - قطع کرنے والا اور مستحکم حجت و مضبوط دلیل جسمین کسی کو کلام نہو اور نہ شک و شبہہ کا دخل ہو - خواجہ آصفی - خطے کہ یار تراشید و نو برون آورد ٭ شد آصفی پے قطع تو حجت قاطع ٭

قانع - قناعت کرنے والا - زیادہ طمع نہ رکھنے والا - صائب - جائے رحم ست بر آن فاختہ کوتہ بین ٭ کہ بیک سرو شد از عالم بالا قانع ٭

قاف - نام ایک حرف کا حروف تہجی سے جسکے عدد ایکسو ہین اور نام ایک پہاڑ کا جسکو کوہ قاف کہتے ہین اور بمعنی کنارہ - سہ - بوصف ذات و احدیت وصاف ٭ ہمہ خلق خدا از قاف تا قاف ٭

قائف - جو قیافے کا علم جانتا ہو -

قالق - قتق وہ ترشی جو آش مین ڈالتے ہین -

قاشق - ترکی چمچہ جو مشہور چیز ہی -

قاق - گوشت خشک سوکھا ہوا گوشت یہ لفظ ترکی ہی لاغر و نزار اور آدمی جو بہت لمبا ہو اور ایک قسم کی روٹی جسکو کاک کہتے ہین اور آواز زاغ - کوّے کی آواز - نادم گیلانی - مجوس مردہ ام از بسکہ قاق گشتہ تنم ٭ کہ خانہ دخمہ نما گشت و من مجوس نما ٭

قائل - کہنے والا - بات کرنے والا - قبولہ کرنے والا - اور اقرار کرنے والا -

قابل - پیش کرنے والا اور قبول کرنے والا و سزاوار و پسندیدہ و صاحب ٭

قال - گفتگو کلام جو امر زبان اور قلم کے متعلق ہی مطابق حال کے - توحید - توئی ناظر توئی حاضر بہر حال ٭ توئی لفظ و توئی معنی بہر قال ٭ بہر بانت شود ہر دم نمایان ٭ مہ زیبک شکل بے تعداد اشکال ٭ سے خوشحال و نا عیال و خرسندم ٭ دگر غمگین بفکر ماضی و حال ٭

قال مقال - گفتگو مین تقریرین -

قاتل - قتل کرنے والا - مار ڈالنے والا - توحید - مباش ظالم و بیرحم و سنگدل قاتل ٭ شوی وگرنہ بانجام خوار و زار و خجل -

قابول - عمارت کا برآمدہ اور بڑھا ہوا چھجہ اور پرنالہ جس سے پانی بارش وغیرہ کا باہر گرتا ہو -

قاقم - ایک جانور کا نام ہی جسکا چمڑا نہایت سفید اور نرم پشم والا ہوتا ہی امرا اُسکے چمڑے کی پوستین بناتے ہین - مؤلف - حاجت خرقہ

ندارد اہل دل ٭ بندہ باش و قاقم و سنجاب پوش ٭

قائم - قیام کی حالت مین کھڑا ہوا محکم و مضبوط - ع - گاہ اندر رکوع و گہ بسجود ٭ گاہ اندر قیام قائم باش ٭

قاسم - تقسیم کرنے والا - بانٹنے والا - مولف - قاسم روزی خداوند کریم ٭ غافر و ستار و رحمان و رحیم ٭

قازغان - قازغان یعنی بڑی دیگ اور کڑاہی لوہے کی ترکی لفظ ہے -

قاآن - ترکی مین بادشاہ امیر سردار قان کا لفظ اسی لفظ کا بگاڑ ہے -

قاطن - مقیم یعنی جو شخص سفر مین نہو -

قاطنین - بہت سے مقیم مقابل مسافرین -

قانون - اصل ہر چیز کا اور کتاب کا مسطر اور مقیاس ہر چیز کا اور آلہ جس سے کسی چیز کا اندازہ معلوم ہو اور قاعدہ اور دستور و طرز و طریق اور نام کتاب ابوعلی سینا کا جو اُسنے طب مین لکھی اور نام ایک ساز کا موسیقی مین - خواجہ سلمان - احوال بہر دمہ را راے تو کردہ روشن ٭ اعمال ملک دین را کلک تو بستہ قانون - ظہوری - سلطان رسل کہ جملہ را تاج سرست ٭ قانون بقا طفیل او نغمہ درست ٭

قارن - نام ایک پہلوان کا جو رستم کا ہم عہد تھا -

قائن - عورت کے خاوند کا بھائی یا خاوند کی عورت کا بھائی -

قاقلتین - دونون الائچی جو چھوٹی اور بڑی مشہور ہین -

قاطنین - مسافر لوگ -

قانتین - فرمان بردار - نمازی - نیک بخت لوگ -

قالین - مشہور فرش قیمتی ہے - مولانا اکبر لاہوری - براے خاکساران محبت ٭ فقط خاک ست قالین و نہالین -

قاطون - نوسادر جو سنار چاندی مین ڈالکر گلاتے ہین -

قارون - نام ایک مالدار شخص کا ہے جو موسی علیہ السلام کے وقت مین تھا موسے نے اُس سے زکوۃ طلب کی وہ دشمن ہوگیا اور موسے پر زنا کی تہمت قائم کی اور ایک عورت کو سر مجلس حاضر لایا اور کہا کہ تم نے اسکے ساتھ زنا کیا عورت انتقام الہی سے ڈر گئی اور کہا کہ مجکو قارون نے زر کثیر دیا ہے اس عوض مین کہ مین زنا کا اقرار کرون اس تہمت کی سزا مین قارون مع خزائن زمین مین دہنس گیا - سعدی - اگر در کفش گنج قارون بود ٭ وگر تابعش ربع مسکون بود ٭ نیرزد بخیل آنکہ نامش بری ٭ وگر روزگارش کند چاکری ٭

قاپو - ترکی مین دروازہ اور فرصت و زور و قوت -

قاز - ایک پرند کا نام ہے جسکو راج ہنس کہتے ہین -

قارورہ - ہر ایک شیشہ خصوصا وہ شیشہ جسمین بیمار کا بول ڈالکر حکیم کے پاس لے جاتے ہین -

قاطبہ - تمام وہم و گمان - محسن تاثیر - دل بستہ ام بقاطبہ سرو قامتان ٭ نیشکر ست جاے قیام غضنفرم ٭

قاعدہ - دستور و بنیاد اور عورت جو بیٹھی ہوئی ہو - کمال اصفہانی - مہر و کین تو نہد قاعدہ کون و فساد ٭ کرد صد بار ازان منتہی حکمت نجم ٭

قافلہ - کاروان اور گروہ جو سفر سے واپس آیا یا گیا ہو - نقیبہ از مرشد محمد رہنمائی فرقہ گم گشتگان ٭ از عنایتہاش بر منزل رسید این قافلہ

قافیہ - پیچھے چلنے والا چونکہ غزل مین قافیہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتا ہے اسواسطے اُسکا نام قافیہ رکھا گیا -

قالیچہ - چھوٹا قالین -

قاب خانہ - قمار خانہ کیونکہ قاب اُس ہڈی کو کہتے ہین جس سے قمار کھیلتے ہین

قاقلہ - الائچی جو مشہور چیز ہے -

قاہ قاہ - وہ ہنسی جو آواز کے ساتھ ہو -

قابلہ - ذمہ دار و ضامن و دایہ جو بچہ کی پرورش کی کفیل و ضامن ہوتی ہے

قارعہ - زمانے کا حادثہ و سختی -

قاہرہ - غالب و زبردست اور نام ایک شہر کا مصر کے علاقہ مین

قائمہ - پورے درجے کا زاویہ -

قانی - بہت سرخ -

قاری - پڑھنے والا علم قرأت کا عالم -

قاسی - سخت و سیاہ دل -

قاصی - نہایت تک پہونچنے والا اور دور رہنے والا -

قاضی - حکم دینے والا - عدالت کرنے والا -

قاپی - ترکی مین دروازہ -

قالی - ایک قوم کا نام ہے -

قاپوچی - ترکی مین دربان اور چوکیدار -

قاف با باے موحدہ

قبا - اُمرا کے پہننے کا مکلف جامہ - مولف - گر دولت دارد تعلق با خدا ٭ ہست یکسان خرقہ پوشی یا قبا -

قباچہ - قباچہ - چھوٹا جامہ نیم تنہ - نظامی - چو گشت آن لمع قباچاے او ٭ برستے کم آمد ز بالاے او ٭

قباب - بکسر اول جمع قبہ اور قبہ کے معنی کلس بہت سے کلس - ع - شہنشاہ ذی جاہ عالی قباب ٭ زمین بوس او در جہان شیخ و شاب ٭

قبب - یہ لفظ بھی قبہ کی جمع ہے۔
قبقاب - بفتح اول کھڑانون یعنی نعلین چوبی و دروغ گوئی اور مست
اونٹ بولتا ہوا اور ستکیر گرجتا ہوا اور اندام فراخ عورت کا
اور وہ مہرہ جس سے کپڑے صفا کرین۔
قباحت - زشتی و برائی ونقص وعیب۔
قبج - بفتح اول وجیم معرب کبک چکور جو مشہور جانور ہے۔
قبح - بضم اول وحائے حطی زشتی و برائی۔
قبیح - زشت اور برا اور بد صورت۔
قبائح - زشتیان برائیان۔
قبوح - زشت وزبون۔
قباد - نام ایک بادشاہ کا جسکو کیقباد کہتے تھے اور نام نوشیروان
کے باپ کا جو آل ساسان سے تھا اور خطاب معزالدین دہلی کے
بادشاہ کا اور ہر ایک بادشاہ جو عظیم الشان ہوے۔ زحمت رحلت بست رستم از
جہان ﷺ در زمین رفت نہ کسرے و قباد ﷺ
قبر - گور مشہور لفظ جسمین مردہ دفن ہو۔
قبور - بہت سی قبرین۔
قبس - آتش بے دود - انگر اور آگ لگ جانا۔
قباس - آفتاب یعنی سورج اور آگ۔
قبرس - بضم اول جزائر یونان سے ایک جزیرے کا نام ہے۔
قبض - بفتحتین درد اور گرفتگی پیٹ کی۔
قبص - بفتح اول وصاد مہملہ انگلیون کے ساتھ پکڑنا کسی چیز کا۔
قبص - بفتحتین وضاد معجمہ درد وگرفتگی شکم۔
قبض - بفتح اول وسکون ثانی گرفتگی یعنی پکڑنا۔
قباق - وہ لکڑی بلند جو میدان مین تیر اندازی کے نشانہ کیلیے
قائم کی جاتی ہے۔ فوقی یزدی - نے ہوم زرد قت ارچہ بستہ شحنۂ
چرخ ﷺ زبہر تیر ملامت مرا چوب قباق ﷺ
قبچاق - نام ایک سرزمین کا درمیان توران و ترکستان کے
جو قوم ترک اسمین رہتی ہے انکو بھی قبچاق کہتے ہین وہ قوم بہادر بے باک
اور خونریز ہے قبچاق کے معنی بیباک ہین۔
قبق - اختصار قباق کا جسکا ذکر تحریر ہو چکا ہے۔ سیفی بدیعی۔ چون
تیر بصد ناز قبق انداز د ﷺ از ہیبت قدان دست من بالا ست ﷺ
قبول - بفتح اول پذیرا کرنا قبول کرنا۔
قبول - بضم اول ودوم پیش آنا۔ میر حسن دہلوی - اے کز کمال
حسن تو حیران شدہ عقول ﷺ در سینہ ہا عزیزی و در دیدہ ہا قبول ﷺ
قُبُل - بضم اول عورت کی شرمگاہ واندام نہانی وبضمتین مقابل دبر
قِبَل - بکسر اول وفتح دوم طرف وسمت۔
قبل - بفتح اول وثانی زمین کی بلندی۔
قبائل - جمع قبیلہ بہت سے گروہ۔
قبیل - بروزن فعیل طریق وطرز وجماعت وگروہ آدمیون کا۔
قبرستان - جس جگہ بہت سی قبرین ہون۔
قبضہ - بفتح اول جو چیز مٹھی مین پکڑین اور ہر ایک کا دستہ جیسے تلوار کا
قبضہ کمان کا قبضہ خنجر کا قبضۃ الوہی بر کمین کز قضا کشادہ ﷺ دہد فریب قبضۂ کمان شد با
قبضہ - بضم اول وہ مقدار جو مٹھی مین آجائے۔
قبلہ - بکسر اول وہ سمت جسطرف رخ کیا جائے نماز وغیرہ عبادات
کے وقت - مولف - کعبۂ مقصود ما درگاہ تو ﷺ آستانت قبلۂ حاجات ما
قبہ - وہ مکان جو گول گنبد دار ہو اور کلس - جامی - دو پستان
ہر یکے چون قبۂ لور ﷺ حبابی خاستہ از سیمین کافور ﷺ
قبیدہ - ایک قسم کے حلوے کا نام ہے جسکو قبیطہ بھی کہتے ہین۔
ملا فوقی یزدی - تا سرین از فرق نعمت خانۂ انگیز بین ﷺ لب قبیدہ
بوسہ شفتالوے وپستان ہمچو نار ﷺ
قبرغہ - پہلو اور پہلو کی ہڈیان۔
قبالہ - بفتح اول قبولیت کرنا اور ضامنی نامہ وخط شرعی جو کسی معاملہ
بیع و رہن وغیرہ مین لکھا جائے - محمود - آزردہ کی کند دل محمود را
آیا ز ﷺ نیکو کند مطالعہ گر این قبالہ را ﷺ
قبلہ - بضم اول بوسہ لینا اور دینا۔
قبیلہ - چند گروہ اور چند جماعتین جو ایک خاندان سے ہون۔
قبرہ - ایک جانور خوش آواز کا نام ہے جسکے سر پر ہدہد کی طرح
تاج ہے بعض کے نزدیک وہ جانور جو تاجدار ہو۔
قبولی - وہ پلاؤ جسمین چنے کی دال ملی ہوئی ہو - فوقی یزدی - آنم کہ
بچشم پختہ وخام جہان ﷺ دادست قبولیم خدا چون بریان ﷺ شیرین
بمذاق اختلاط یاران ﷺ چون ریشۂ طالقم بشام رمضان ﷺ
قبطی - فرعون کی قوم جو مصر مین رہتی تھی منسوب بقبط جو نوح علیہ السلام کا پوتا تھا
قبعثری - بڑا اونٹ جو بار بہت اٹھاتا ہے۔

قاف با تاے

قتلا قتلی - جمع قتیل کی بہت سے قتل کیے ہوے لوگ - مارے ہوے۔
قتق - بفتح اول وکسر ثانی وہ ترشی دہی چھاچھ وغیرہ جو آش مین

ڈالکر ناخورشش بناتے ہین یہ لفظ ترکی ہی۔
قتیل - قتل کیا ہوا عورت ہو یا مرد۔
قتال - بکسر اول باہم لڑنا مسلسل لڑائی کرنا۔
قتال - بتشدید یاے لڑنے والا - لڑائی کرنے والا۔
قتام - گرد و غبار۔
قتی - بضم اول و تشدید ترکی مین صندوقچہ جسمین میوہ وغیرہ ڈالتے ہین۔

قاف باثاے مثلثہ

قثا - بکسر اول و تشدید ثانی کھیار دراز یعنی ککڑی جو مشہور پھل ہی۔
قثد - بفتح اول کھانا ککڑی کا۔
قثد - بکسر اول بڑا اونٹ جو بارکش ہو اور اونٹ جسکا کوہان بڑا ہو۔
قثد بفتح اول وثانی بادرنگ یعنی کھیرا جو لمبا نہین ہوتا۔

قاف باجیم

قج - میش نر شاخدار جنگی جنکو اسپین لڑاتے ہین اُنکے سینگ بڑے بڑے اور مضبوط ہوتے ہین
قجباز - بھیڑ لڑانے والا - سیفی - چو دید جلوۂ کجباز خویش در میدان ✻ بہ پرستانده ہمی خورد عاشق قرآن ✻
قجماق - توانا و فربہ و پرگوشت - موٹا۔

قاف باحاے حطی

قح - بضم اول و تشدید ثانی سادہ و خالص و درشتی و جفاکار۔
قحط - کم ہونا کسی چیز کا - کم برسنا پانی کا - غلہ کم پیدا ہونا - گران ہونا ہر ایک شے کا - سعدی - چنان قحط سالی شد اندر دمشق ✻ کہ یاران فراموش کردند عشق ✻ میر معزی - باران ہمت تو گسست از زمانہ قحط ✻ باد سعادت تو ببرد از جہان شقا ✻
قحف - کاسۂ سر یعنی سر کی کھوپڑی جسکو فوق دماغ کہتے ہین۔
قحطان - حضرت نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام ہی جو سام کی اولاد مین سے تھا۔
قحبہ - عورت بدکار اور فاحشہ ماخوذ قحاب سے جسکے معنی کھانسی کے ہین چونکہ ایسی عورتین کھانسی کے اشارے سے مردون کو بلاتی ہین قحبہ انکو کہا گیا۔
قحطی - قحط کے لفظ کا مزید علیہ ہی - میر یحیی شیرازی - بر دے بکدم تیغ تو صد جون بیشو دبرہم ✻ درین کشور ز بخت قحطے است بیداری ✻

قاف بادال مہملہ

قدما - اگلے لوگ - گذشتہ زمانے کے لوگ۔
قدمیا - چاندی سونے کا میل جو گلانے کے بعد بوتہ مین رہ جاتا ہی۔
قدامت - قدامت - پرانا ہونا - دیرینہ ہونا - قدیمی ہونا۔

قدح - بفتح اول چیرنا - توڑنا - کرم کھا جانا - لکڑی اور دانتون کو اور اگ لگا دینا - عیب لگانا طعنہ مارنا - مدح کے مقابلے پر۔
قدح - بفتح اول و دوم بڑا پیالہ - ع - یارم چو قدح بدست گیرد ✻ بازار بتان شکست گیرد ✻
قدح - بکسر اول وہ تیر جسکا پھل ہوا اور بارہ تیر قمار بازی کے جس سے عرب قمار کھیلتے ہین
قد - بفتح اول و تشدید دال درازی کی طرف سے چیرنا و زخم سے نکالنا کوتاہ کرنا سخن کو اور جنگل کو کاٹنا اور طوالت انسان اور حیوان کے جسم کی و تقطیع و اعتدال اور پوست بزغالہ کا جس سے کپڑے وغیرہ بناتے ہین - محمود - باقد تو سرو برابر شد ✻ پیش رخت شد زخجالت گل آب ✻
قدید - بروزن شدید وہ گوشت جو دھوپ مین خشک کرکے رکھ چھوڑین
قدر - بکسر اول دیگ یعنی ہنڈیا جسمین کچھ پکایا جاوے وہ ہنڈیا مسی ہو یا مٹی کی چھوٹی ہو یا بڑی۔
قدر - بفتح اول و سکون ثانی عزت و آبرو و بزرگی و مرتبہ و اقتدار و اندازہ و قسمت و روزی و تونگری و بے نیازی و طاقت - سعدی - بہ قدر آور و بندہ حور دیس ✻ کہ زیر قبا دار د اندام پیس ✻
قدر - بفتح اول و دوم قضا و حکم و نہایت اور اندازہ کسی چیز کا جو روز ازل مین کسی کے واسطے ہو چکا ہی - ع - چو ہستی تو محکوم حکم خدا ✻ ز حکم قضا و قدر سر مپیچ ✻
قدیر - صاحب قدرت یہ نام خداوند جل و علا کا ہی انسان کا یہ رتبہ نہین کہ اُسکو قدیر کہا جائے - ع - کریم و رحیم و علیم و خبیر ✻ بقدرت علی کل شی قدیر ✻
قدس بضم اول و بضمتین پاکیزگی اور پاکی اور نام ایک پہاڑ کا بیت المقدس کی زمین
قدوس - بہت پاک اور ایک نام اسمائی گرامی حق سبحانہ تعالی سے - توحید - حدیث ما الاہ ملک و خدا است خالق خلق ✻ خدا است تا در و قیوم و قائم و قدوس ✻ وجود ذات وی جلوہ از شہود صفات ✻ چو جان بپردہ جسم و چراغ در فانوس ✻
قدع - بفتح اول یہ ایک برتن اور پیالہ کاسے کے سینگ کا بناتے ہین اور اُسمین شراب پیتے ہین۔
قدع - بضم اول و دوم گدھے کا بچہ جو لادنے کے لائق ہو۔
قدم - بکسر اول و فتح ثانی دیرینہ ہونا - پرانا ہونا - قدیمی ہونا - اور یہ وصف ایک صفت صفات الٰہی سے ہی۔
قدم - بفتح اول و دوم پانون اور ہر چیز جسکا سایہ لین اور مسافت جو درمیان دونون پانون کے ہو - سعدی - قدم باید اندر طریقت نہ دم

کہ اصلی ندار د دم بے قدم ✤ میرزا بیدل۔ خواہی برسی بعشرت آباد
قدم ✤ واقف شوی از جلوہ خورشید قدم ✤ چون صبح طلب بال وپری
از دم صدق ✤ کین رہ نشود قطع بمقراض قدم ✤

قُدُوم۔ بضمتین جانا اور واپس آنا سفر سے اور آنا۔

قَدُوم۔ بفتح اول تیشہ ترکھارون کا جس سے لکڑی بناتے ہین نعتیہ مولف
گشت روشن در جہان نور قدیم ✤ از قدوم حضرت خیر البشر ✤

قَدِیم۔ ہمیشہ سے زمانہ گذشتہ سے۔ توحید۔ تو قدیرے وغفورے
وشکور ✤ تو علیمے وحکیمے وقدیم ✤ بہر خاصان ہست لطف خاص تو
بہر عامان ہر زمان فضل عمیم ✤

قدرخان۔ ترکستان کے بادشاہ کا لقب ہے۔

قدغن۔ ترکی مین تاکید وتقید۔

قدسیان۔ فرشتے نوری پیدایش شعر۔ بندۂ خاکی رسد از بندگی
زود تر اندر مقام قدسیان ✤

قُدوہ۔ بالکسر وبالضم پیشوا مرشد شعر۔ قدوۂ مرحل شریعت
اوست ✤ سالک مسلک طریقت اوست ✤

قدوری۔ جمع قدر بکسر قاف جسکے معنی مٹی کی ہنڈیا کے ہین اور نام ایک کتاب کا

قدغنجی۔ تاکید کرنے والا۔

قاف باذال معجمہ

قذا۔ قذی۔ آنکھ مین تنکا پڑجانا اور وہ تنکا جو آنکھ مین پڑجائے۔

قِذا۔ بکسر اول باریک مٹی۔

قُذُر۔ بضم اول ودوم پلیدی وخباثت ونجاست۔

قَذِر۔ بفتح اول وکسر ذال پلید اور نجس۔

قذف۔ بفتح اول پتھر پھینکنا۔ گالی دینا۔ بدنامی دینا۔ متہم کرنا
زنا یا لواطت چوری وغیرہ کی تہمت کرنا۔ قے کرنا۔

قذف۔ بفتحتین جنگل ویرانہ بیابان۔

قُذعل۔ بضم اول اونٹ جو فربہ ہو۔

قذال۔ بفتح اول سر کا پچھلا حصہ دو طرف سے ودنبال گوش واسپ۔

قاف باراے

قرنا۔ کرنا۔ بڑی نا ہے جو جنگ کے موقع پر بجائی جاتی ہے اصل مین
نام خرنا ہے تھا آواز اسکی بھی گدھے کی سی آواز ہوتی ہے اور خر کے معنی
بزرگ کے بھی ہین۔ ✤ چو کرنا ے ترکان در آمد بجوش ✤ ببرد
از دماغ جہان عقل وہوش ✤

قربا۔ قربی۔ بضم اول نزدیکی لوگ رشتہ وارہم جدی۔ ✤ آشنا
با ہر یکے بیگانہ شو ✤ رشتۂ دل با ذوی القربا بہ بند ✤

قِرا۔ بکسر اول مہمانی وضیافت۔

قُرا۔ بضم اول جمع قریہ بہت سے گانون۔

قُرّا۔ بضم اول وتشدید رے جمع قاری بہت سے قرآن پڑھنے والے لوگ

قَرّا۔ بفتح اول وتشدید راے خوش خوان اچھا پڑھنے والا آرام سے پڑھنے والا

قَرا۔ بفتح اول وتخفیف راے ترکی مین سیاہ رنگ۔

قُرء۔ بضم اول وسکون راے اور اسکے پیچھے ہمزہ عورت کے ایام طہر
جو بعد غسل حیض کے ہون مقابل حیض کے

قِراء۔ بکسر اول وفتح راے وہمزہ منجنیق جسکے ذریعہ سے پتھر قلعہ پر
پھینکتے ہین۔

قراصیا۔ وہ میوہ جسکو آلو بالو کہتے ہین اور وہ تین قسم کا ہوتا ہے
ایک میٹھا دوسرا کھٹا تیسرا کھٹا میٹھا معرب اسکا جز اسیا ہے۔

قرانیا۔ ایک بڑے درخت کا نام ہے جو زیتون کی طرح مضبوط ہوتا ہے
اور پتی آزاد کی شکل پر لکڑی سرخ ہوتی ہے

قردمانا۔ بضم قاف وضم دال کردیا ہے صحرائی اسکو کردیا ہے جبلیہ
وکردیا ہے شامیہ وکردیا ہے فارسیہ بھی کہتے ہین بعض کے نزدیک
یہ تخم بدران ہے جو ایک بوٹی جنگلی نہایت بدبو ہوتی ہے جنگلی مولی بھی
اسکو کہتے ہین تخم ترخر بھی اسکا نام ہے۔

قرطبت۔ شے قلیل۔ تھوڑی چیز۔

قِراب۔ تلوار، خنجر۔ نزدیک ہونا۔ یکجا ہونا جریب مساحت کی
اور پانی کی مشکین اور تلوار کا میان۔ حیالی گیلانی۔ چون کسے
نیست مرد معرکہ ام ✤ تیغ آن بہ کہ در قراب کنم ✤

قِرَب۔ بکسر اول وفتح ثانی جمع قربہ پانی کی مشکین۔

قرب۔ نزدیک۔ پاس۔ مقابل بعد کے۔ عطار۔ جادہ ہر سفلہ را
در قرب خویش ✤ ورنہ روزی روز بد آید بپیش ✤

قریب۔ نزدیک مقابل بعید کے۔ ✤ داند آنکس کہ آدم دانا ست ✤
زندگی دور دو وقت مرگ قریب ✤

قُرت۔ بضم اول جغرات خشک۔ سوکھا ہوا دہی اور پانی کا
گھونٹ۔ محمد سعید اشرف۔ لب بر لب یار و دیدہ اش بر خون ست ✤
پیمانہ ہمان دو قرت ونیمش باقی نیست ✤

قروت۔ پنیر جو چیتے کو کھلاتے ہین یہ لفظ ترکی ہے۔

قراقروت۔ یہ بھی ایک قسم کا پنیر ہے جسکو سیاہ پنیر کہتے ہین جو چیتے کو
کھلایا جاتا ہے۔ مسیح کاشی۔ این چرخ بانیک خون من رو نکند ✤

یوزی سست کہ از قربت من خون نکند + پیراہن یوسفم سراپا لیکن +
گر پیش زلیخا فگنی بو نکند +
قرارات - خور اکین اور روزینے سپاہیون کے -
قرانات - جمع الجمع قرن کی ہی اور قرن تیس برس کے عرصہ کو کہتے ہین
قران قرن کی جمع ہی اور قران کی جمع قرانات ہی
قراءت - پڑھنا قرآن شریف کا اسطرح سے کہ ہر ایک حروف اپنے مخرج سے نکلے
قربت - نزدیکی -
قرابت - رشتہ داری - نزدیکی ہونا -
قرپت - بفتح اول آدمی قلتبان دیوث بے غیرت بے حمیت -
قرۃ - خنکی - سردی - ٹھنڈک -
قرح - بفتح اول زخم کرنا اور پرانا زخم -
قروح - بضم اول و دوم بہت سے زخم جمع قرحہ -
قراح - بفتح صاف پانی - خالص پانی -
قزح - بضم قاف و فتح زاے ہوز نام ایک شیطان کا ہی اور
قوس و قزح جو بادل مین مقابل آفتاب کے نمودار ہوتی ہی اسکو
شیطان کی کمان کہتے ہین -
قرد - بکسر اول بوزینہ یعنی بندر جو ایک مشہور چارپایہ جانور ہی -
قراد - بضم اول کنہ یعنی چچڑی جو اکثر کتے اور گاے بیل کے جسم کے
چمڑے پر رہتا ہی بہت چھوٹا جانور ہی بڑے جانورون کا خون چوستا ہی -
قریر - خنکی اور ٹھنڈک آنکھ کی جو جابات خوشی کہ ہو -
قرار - آرام اور آرامگاہ اور وعدہ - **حافظ** - قراری بستہ ام
با میفروشان مدکہ روز غم بجز ساغر نگیرم + **صائب** - اگرچہ
مسند عزت مین قرار گرفت + ہنوز یوسف خود را بچاہ مے بینم +
قراقر - پیٹ کی آواز اور شور و غوغا - **میر نجات** - بر در دل
می نشینم منع دنیا میکنم + این قراقر از براے حق تعالی میکنم +
قراسنقر - ترکی مین نام ایک مرغ شکاری سیاہ رنگ کا ہی
اور نام ایک بادشاہ کا اور نام اکثر غلامان ترک کا -
قراچور - شمشیر آبدار اور وہ تلوار جو سیدھی ہو ٹیڑھی نہو -
قرطوس - آذربائیجان مین ایک قلعہ کا نام ہی -
قرقار - ایک قسم کے کبوتر کا نام ہی جسکو بغدادی کبوتر کہتے ہین -
قرمز - اخیر مین زاے معجمہ ایک مشہور سرخ رنگ ہی جس سے ریشم
اور پشم کو رنگ دیتے ہین اصل مین یہ کرم ہوتے ہین قدرتی پیدا ہین
جنگل مین یہ خاردار بوٹون پر بیٹھتے ہین لوگ انکو پکڑ کر اور خشک

کرکر رکھ چھوڑتے ہین - **میرزا اسماعیل ایما** - ہر لحظہ چہرۂ تو برنگے
شود ز شرم + این قرمز فرنگ چرا رنگ بست نیست +
قربوس - گھوڑے کے زین کا حنا -
قرناس - پہاڑ کی بلندی جسکو بینی کوہ بھی کہتے ہین -
قطبوس - بڑی بلا اور مصیبت -
قرانیطس - یونانی زبان مین ورم ہو جانا دماغ کے پردہ کو
یہ ایک بیماری کا نام ہی -
قرنیطس - یونانی زبان مین عقل اور فہم و ذہن -
قرطاس - کاغذ جسپر لکھا جاتا ہی -
قراص - بابونہ جو ایک مشہور دوا ہی
قرص - ٹکیا جو گول ہو - **سعدی** - قرص خورشید در سیاہی
شد + یونس اندر دہان ماہی شد +
قریض - بفتح اول و کسر ثانی شعر یعنی کلام منظوم -
قریض - بضم قاف و فتح رے نام ایک قبیلے کا عرب کے یہودیون سے -
قرض - لی ہوئی جنس یا نقد جسکا ادا کرنا ضروری ہو فارسی مین
اسکو وام کہتے ہین - **سـه** - فرض حق قرض ست اے مرد خدا +
میکند دانا بیاد نقطہ ادا +
قرواط - کشتی چپان جہاز کے ساتھ جہاز کے ساتھ کی کشتی
نظامی - ستیزندہ دوسی ز آلان و گرگ + شبخون در آورد
ہمچون تگرگ + بدر بندر آن تا جیست راہ یافت + بقرواط ہاسوے مغرب شتافت +
قرط - بضم اول وہ آواز جو پانی پینے کے وقت گلے سے نکلے اور ایک قسم کے
گھوڑے کا نام جسکو ستہ بر کہتے ہین و صبر و تحمل و بردباری -
قریع - بعین مہملہ وہ کدو جو تازہ اور سبز ہو اور ٹھوکنا اور مارنا -
قرع - بفتحتین گر جانا بالون کا کسی علت کے سبب سے -
قراباغ - ایک شہر حد شرقی ایران مین -
قرقف - عیسائیون کی ایک کتاب کا نام ہی -
قرناق - **قرنق** - ترکی مین خدمتگار و کنیز -
قرق - بفتح اول واز ہاکیان مرغیون کی آواز اور ترکی مین یعنی گوسپند نگہبانی -
قرق - بضم اول منع کرنا - باز رکھنا اور خشک و بے آب -
قرطق - **قرطہ** - معرب کرتہ جو ایک جامہ پہننے کا مشہور ہی - **انوری** -
یہ باشد از دمن ابر در صدف لولو + کہ پوشد از ز غبار در چمن قرطق +
قرمساق - ترکی مین دیوث جسکو اپنی جورو کی غیرت نہو -
قرنفل - معرب کرن پھول ہندی مین اسکو لونگ کہتے ہین ادویات مین

مستعمل ہی چونکہ اسکو عورتین ہند و اکثر کانون کے سوراخ مین
ڈال رکھتی ہین اسواسطے کرن پھول اُسکا نام ہوا۔
قراول - جو شخص بندوق سے شکار کھیلے اور وہ شخص جو فوج مین
دیدبان ہو ہر ایک حالت کی خبر رکھے **محسن تاثیر** - سورجنگ روبرو
رخسار چون فرنگش * چطلش سیاہ ہندو خال سیہ قراول *
قرقاول - بفتح ہر دو قاف و واو ایک جانور کا نام ہی جسکے پر ایران کے
بادشاہ کے تاج پر نصب کرتے ہین بعض کے نزدیک وہ خروس
صحرائی ہی - **طغرا** - صبا میرساند ز درج جام * بقرقاول شیشہ سر دم سلام *
قرقل - بختی اونٹ کا بچہ -
قرول - بفتحتین مرجان جسکو عربی مین بُسد اور ہندی مین کلی کہتے ہین -
قرام - پردہ تنگ و باریک و رنگین و منقش -
قرم - نر اونٹ اور قوم کا سردار -
قراقوم - ایک شہر ترکستان مین ہی -
قرم - ایک ہفت رنگ پتھر کا نام ہی -
قرن - اسکی برسون کی میعاد مین اختلاف ہی صاحب قاموس
ایکسو برس صاحب منتخب تیس برس صاحب برہان اسی برس مگر
تیس برس سب کے نزدیک صحیح ہین اور بفتحتین نام ایک قبیلہ کا ہی یمن
مین اور نام خواجہ اویس کے باپ کا جو مشہور بزرگ ہین - **استاد**
ہیچکس را نبود تاب جواب اے عشق * بشکند حرف تو دندان
اویس قرنی * **انوری** - دو قرن از کرمت بردہ جہان برگ و نوا *
تو چہ دانی کہ جہان بے تو چہ بے برگ و نواست *
قربان - بضم اول جو چیز خدا کی راہ مین تصدق کرین اور فارسی
مین کمان کا خانہ جسمین کمان رکھین اور وہ ایک دوال ہوتی ہی
کہ ترکش کے ساتھ سی کر حمائل کی طرح گردن مین ڈال لیتے ہین اور جسطرح
کہ ترکش دوش کے پیچھے رہتا ہی وہ بھی رہتا ہی سوار اپنی کمان
اسمین رکھ لیتا ہی - **محمد افضل ثابت** - از کوے تو رفتن بست مشکل *
قربان سر تو بتوان رفت * ولہ - قربان شوم تراکہ بدامنہ
ہنوز * اخلاص من محبت من اعتقاد من *
قرآن - بضم اول کلام مجید کلام الٰہی اور پڑھنا ـــہ - جہان را
بہ ہدایت رہنما گشت * چو نازل بر محمد گشت قرآن *
قرین - مصاحب و ہمنشین و دوست و یار و نزدیک و مثل نظیر - **سعدی** -
زینہار از قرین بد زنہار * وقنا ربنا عذاب النار *
قراطغان - عراق کے بادشاہ کا نام ہی -

قرطین - دو گوشوارہ یعنی حضرت امام حسن و امام حسین علیہم السلام
قرون - شاخہاے حیوان حیوانون کے سینگ -
قرائن - قرینہ کی جمع ہی -
قران - بکسر اول نزدیک ہونا - ملنا ایک چیز کا دوسری چیز کو حج
و عمرہ باہم کرنا اور نجومیون کے نزدیک یکجا ہونا دو ستارون کا
سات ستارون مین سے ایک برج مین سواے شمس کے ایک درجہ
یا ایک دقیقہ مین چنانچہ قران زہرہ کا مشتری کے ساتھ اور قران
قمر کا زہرہ یا مشتری کے ساتھ بچے کے پیدا ہونے بلکہ ہر ایک کام کے لیے
نیک ہی اور صاحب قران وہ ہی جسکی ولادت کے وقت زہرہ اور مشتری
کو قران ہو اور صاحب قران لقب امیر تیمور کا تھا جسنے چھ ولایت پر بادشاہت
کی اور صاحب قران ثانی لقب شاہجہان کا - **رباعی از مؤلف** -
اگر اندر جہان صاحب قرانی * وگر دریوزہ گر محتاج ثانی * چو آخر
وعدہ موعود آید * بخواہی رفتن از دنیاے فانی *
قرحان - بہ حاے حطی وہ اونٹ یا آدمی جسکو کوئی بیماری نہوئی ہو -
قرن - وہ زمین جو سبب آنے سیلاب کے خراب ہوگئی ہو -
قرابہ - بفتح اول و تخفیف و تشدید راے شراب کا شیشہ اور صراحی -
ظہوری - برگشتہ از قرابہ امید جان من * یکبار گشتہ باش فلک کو بکام من *
قرباقہ - بہ دو قاف ترکی مین غوک یعنی مینڈک جو آبی مشہور جانور ہی -
قرطہ - معرب کرتہ مشہور جامہ ہی جو گلے مین پہنتے ہین - **مجید ہمگر** - پیکان جان
خویش از رخ چو یار در قرطہ * کشان کشان ز لفش دراز در دامن *
قرعہ - بضم اول وہ فال بینی کا آلہ جو رمال اپنے پاس رکھتے ہین
اور اسکو پھینک کر اسکے نقوش پر احکام فال کے نکالتے ہین - **حافظ**
با غم او عرض بہر کس کہ نمودند * عاجز شد و این قرعہ بنام بشر افتاد *
ولہ - آسمان بار امانت نتوانست کشید * قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند *
قرحہ - بفتح اول و حاے مہملہ آدمی کی طبیعت -
قرّہ - خنکی و سردی و ٹھنڈک و راحت - **ذوقی** - گر تو از دیدہ ہا
نہان باشی * قرۂ دیدۂ جہان باشی *
قربہ - پانی کی مشک -
قراضہ - بضم اول ریزہ ہر چیز کا جو مقراض سے گرے اور ٹکڑے چاندی سونے کے
قرعہ - بفتح اول وہ کدو جو سبز و تر ہو -
قرنیہ - دو گالون قری اسکی جمع ہی - **تاثیر** - دل را کہ بود قرنیہ چشم
سیاہ او * نگذاشتم بغیر چراغ نگاہ او *
قرینہ - پیوستہ ہونا چیز کا دوسری چیز کے مقابل ہونا - مل جانا

موقع حاصل ہونا - و مثل و مانند - باقرِ کاشی - تیرہ شبیم و
در جہان نیست * امروز کسے قرینۂ ما *

قرحہ - وہ زخم جسمین ریم ہو -

قرلوله - عشق پیچہ جو مشہور بیل ہے -

قرتبہ - بفتح دیوث و بے غیرت آدمی -

قرسنہ - چھلکا جو زخم پر آگیا ہو

قرفہ - پوست ہر ایک درخت کا خصوصاً دارچینی کے درخت کا پوست

قرقدمہ - گلہ اسی کا ہو یا پتھر یا لوہے کا غلیل اور بندوق مین چلاتے ہین

قربی - نزدیکی - ہم جدی رشتہ دار لوگ -

قربانی - وہ چارپایہ جو عید اضحی کے دن ذبح کیا جاے - سنجر کاشی
در جراگاہ پناہ تو بہر عید گریخت * شد از خنجر مریخ محل قربانی *

قرشی - قریشی - نام ایک معزز قبیلہ کا ہے عرب مین جنکا باپ نضر بن
کنانہ اجداد پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم سے ہے قرش ایک دریائی
جانور کا نام ہے جو تمام دریائی جانورون پر غالب ہے - لغتیہ از مؤلف -
شاہ قرشی و ابطحی کے * کار فرماے دین و دنیا بود *

قرطی - ایک قسم کپڑے کا ہے جو سبز اور سیاہ ہوتا ہے -

قرمزی - وہ چیز جو قرمز سے سرخ رنگی ہوئی ہو -

قروتی - ایک آش کا نام ہے جو جغرات خشک سے پکاتے ہین -

قاف با زاے معجمہ

قزح - نام ایک پہاڑ کا اور نام ایک موکل کا بعض کے نزدیک
یہ نام شیطان کا ہے اور قوس قزح کو شیطان کی کمان کہتے ہین -

قزاگند - یہ ایک قسم کا جامہ ہے جو کچے ریشم سے بنایا جاتا ہے اور
جنگ کے وقت پہنتے ہین اُس پر تلوار کا رگر نہین ہوتی اور قز
لغت مین کچے ریشم کو کہتے ہین - سعدی - در قزاگند مرد باید بود *
بر مخنث صلاح جنگ چہ سود *

قز - کچا ریشم کم قیمت -

قزاز - ابریشم فروش علاقہ بند - سالک قزوینی اکبر نام ابریشم فروش کی تعریف مین
آنکہ امروز قدش سرو سرافراز من ست * شاہ خوبان جہان اکبر قزاز من ست *

قزلباش - شاہان صفوی کے وقت ایک فوج دوازدہ ترکی سرخ
ٹوپی کھنی قرار دی گئی اور قزلباش اُنکا خطاب تھا -

قزاق - رہزن قطاع الطریق ڈاکو - شعر - ز نفس کا فر لے سالک
بیندیش * کہ در راہ تو ہست استادہ قزاق *

قزل - بکسر اول سرخ رنگ ترکی لفظ ہے -

قزل ارسلان - نام ایک بادشاہ کا سلجوقی خاندان سے جو
ممدوح ظہیر فاریابی کا تھا جسکے سرخ شیر - سعدی - چہ حاجت
کہ نہ کرسی آسمان * نہی زیر پاے قزل ارسلان * مگو پاے عزت
بر افلاک نہ * بگو روے اخلاص بر خاک نہ *

قزغان - بڑا پاتیلہ اور کڑاہی -

قزوین - نام ایک شہر کا عراق عجم مین -

قاف با سین

قسطا - نام ایک کتاب کا احکام دین آتش پرستی مین جو لوقا حکیم نے
اپنے باپ قسطا کے نام پر تصنیف کی تھی -

قسا - ایک دوا کا نام ہے جو درخت کا پوست ہے سلیخا بھی اسکا نام ہے
اور عربی مین سخت و دشوار ہونا -

قسب - ایک قسم کی کھجور ہے نجد مین ہوتی ہے اور اہل نجد اسکو بشوم
کہتے ہین قابض ہوتی ہے دست بند کرتی ہے -

قساوت - قسوت - سخت دل اور سیاہ دل ہونا -

قسمت - بانٹنا اور تقسیم کرنا حصہ و نصیب - سعدی - برفت
آن زمین را دو قسمت نہاد * بہر یک پسر زان نصیبے بداد *

قسر - زبردستی کسی کو کسی کام پر لگانا -

قسطاس - بڑا ترازو جسکو ہندی مین تک کہتے ہین -

قساس - یمن مین ایک پہاڑ کا نام ہے جسمین سے عقیق نکلتا ہے -

قسطس - ایک دوائی کا نام ہے جسکو قسط کہتے ہین -

قسبوس - عشق پیچہ جو ایک بیل ہے اور پاس کے درختون پر لپٹ جاتی ہے -

قسولیدوس - ایک دوا کا نام ہے جسکو کاکنج کہتے ہین

قسیطوس - زنگار جو مشہور چیز ہے کانی و عملی دو قسم کا ہوتا ہے -

قسیس - دانشمند و عالم دین نصاری کے -

قسط - بفتح اول ظلم و جور بیداد کرنا -

قسط - بکسر اول عدل و حصہ و نصیب اور ٹکڑا کسی چیز کا -

قسط - بضم اول ایک لکڑی کا نام ہے جسکو ہندی مین کٹ کہتے ہین
اور وہ شیرین اور تلخ دو قسم کی ہوتی ہے -

قسام - بفتح اول و تشدید سین بانٹنے والا - تقسیم کرنے والا -
بہت سی قسمین کھانے والا -

قسم - بفتحتین سوگند جو مشہور لفظ ہے - مؤلف - موجود اس قدر صد جا کہ
مین ہے جلوہ یار * مجکو شانہ کی قسم زلف پریشان کی قسم - میرزا جلال اسیر
ہواے خلد ندارم بکوے یار قسم * خوش ست لذت خواری بزلف یار قسم *

قِسم - بکسر اول نوع و صنف و بہرہ و بخشش -
قَسم - بفتح اول و سکون ثانی بانٹنا - تقسیم کرنا بخشش کرنا -
قَسِیم - بروزن نسیم قسمت کرنے والا - بانٹنے والا - سعدی - شفیع مطاع نبی کریم * قسیم جسیم نسیم وسیم *
قسطنطین - بروزن پر تمکین نام بادشاہ عیسائی بانی شہر قسطنطنیہ جو فی زمانہ استنبول و اسلام بول مشہور ہی اور دار الخلافت روم ہی -
قسالاون - روغن زفت ایک قسم کا تیل ہی -
قسطوریون - جند بیدستر جو ایک دوا ہی -
قسامہ - قسم دینا پچاس آدمیون کو ایک وقت پہلے یہ دستور تھا کہ اگر کوئی خون کسی گانون کے حدود مین ہو جاتا اور قاتل اسکا دریافت نہوتا تو گانون کے پچاس آدمی جمع کرکے اُنسے قسم لیجاتی اور وہ قسم کھاکر کہہ دیتے کہ مقتول کا قاتل ہمارے گانون مین نہین ہی
قسیمہ - کستوری کا نافہ -
قسورہ - شیر درندہ -
قسوۃ - سخت دل ہونا -
قسطلانی - بفتح اول منسوب بہ قسطلہ جو ایک شہر ہی -

قاف با شین

قشیب - بروزن نقیب کپڑا نیا اور ہر چیز نئی -
قشر - پوست ہر ایک چیز کا حیوان کا پوست درخت کا پوست وغیرہ -
قشور - بفتح اول ایک دوا کا نام ہی جو چہرے پر ملنے سے رنگ صاف ہو جاتا ہی اور چہرا چمک جاتا ہی
قشور - بضم اول و دوم جمع قشر بہت سے پوست -
قشش - بالفتح و تشدید لاغری سے فربہ ہو جانا آدمی یا چارپایہ وغیرہ کا
قشف - متغیر ہوا ہوا اور رنگ بدلا ہوا اور جلتا چہرے کا دھوپ سے اور خشک ہونا منہ کا بسبب مفلسی اور تنگدستی کے -
قشلاق - گرم مکان جہان سردیون مین جاکر رہین یہ لفظ ترکی ہی -
قشون - ترکی مین فوج کا ایک حصہ - عبد اللہ ہاتفی - چہل از قشونان آراستہ * ہمہ زورمندان نوخاستہ *
قشو - خرخرہ لوہے کا جس سے گھوڑا صاف کرتے ہین شفیع اثر - کشید ندگردان کو تہ نظر * صفی چون قشواز پی یکدگر -
قشقہ - وہ ٹیکا جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہین - ارادت خان واضح - نکر حل کردہ خورشید سیما فروزاد * کہ آن خوش قشقہ کا فر شعلہ دریائین جبین دارد *

قاف با صاد مہملہ

قَصَب - بفتحتین نی یعنی بانس اور ہر ایک لکڑی جو اندر سے پولی ہو مثل نی قلم وغیرہ اور نام ایک قسم کے نفیس ابریشمی کپڑے کا جو کتان اور ابریشم سے بنتے ہین - حافظ - مرا د سیر و چمن را بخاک راہ نشاند * زمانہ تا قصب نرگسین قبای تو بست * عبد الرحمن جامی - قصب باف عروسان بہاری * قیام آموز سرو جویباری *
قَصْب - بفتح اول و سکون ثانی بریدن یعنی کاٹنا - جدا جدا کرنا -
قصب الجیب - ایک قسم کی کھجور اور ایک قسم کی گھاس ہی جسمین بہت تھوڑی شیرینی ہی -
قَصّاب - گوشت کاٹنے والا - بند بند جدا کرنے والا صفدر زو قانی - بزدجان بسلامت کسے جو رفلاک * کہ ہست تیغ تکلف صبح و شام این قصاب *
قصارت - کپڑے دھونا - میل نکالنا - حافظ - امام شہر کہ سجادہ می کشید بدوش * بخون دختر رز خرقہ را قصارت کرد *
قصد - آہنگ - ارادہ - سیدھے رستہ پر چلنا اور سیدھا رستہ اور اعتدال ہر چیز کا اور وہ چیز جو معتدل ہو - میر مغزی - عشق او قصد دلم کردہ نگشتم زو جدا * ہم نگردم زو جدا گر قصد سوئے جان کند *
قَصّار - کپڑے دھونے والا - میل نکالنے والا - پاک کرنے والا - جسکو ہندی مین دھوبی بولتے ہین - صفدر فوقانی - بشو اے طالب حق زاب دیدہ * لباس جسم و جان را مثل قصار *
قصر - بفتح اول کوشک بڑا محل اور بلند عمارت اور کوتاہی اور دھونا کپڑون کا - شعر - چیست ابر آسمان بردی عمارت * کہ قصر عمر بنیاد سے ندارد *
قصیر - کوتاہی کرنے والا - قصور کرنے والا اور نام ایک باوفا غلام
قصور - کوتاہی کرنا - عاجز ہونا خطا اور کوتاہی اور بہت سے محل و کوشک اور نام ایک قصبے کا لاہور کے ضلع مین ہندوون کا قول ہی کہ لاہو رکو راجہ چندر رامار کے بیٹے نے آباد کیا اور قصور کوشونی شاید قدیم زمانہ مین ایسا ہوا ہو مگر مولف نے ایک کتاب تاریخ افغانی مین ایسا دیکھا ہی کہ محمد تغلق بادشاہ کے زمانہ مین قیصر خان نام ایک افغان نے اس ویران شدہ قصبہ کو آباد کرکے قیصور اپنے نام پر نام رکھا اُس روز سے ابتک آباد ہی اور افغان صدہا سال اسمین مالک و حاکم رہے رنجیت سنگھ نے افغانون کی حکومت قصور سے دور کرکے اپنی قلمرو مین داخل کیا تسپر بھی افغان ابتک قصور کے مالک و زمیندار ہین - حافظ -

زاہد اگر بحور و قصور ست امیدوار * ما را شراب خانہ قصور ست و یار حور *

قِصَص - بکسر اول و فتح ثانی جمع قصے کی بہت سے قصے -

قَصَص - بفتح اول و دوم مصدر ہے قصہ کہنا -

قَص - سینہ اور سینے کی ہڈیاں -

قِصاص - کسی کے خون کا معاوضہ کنہ کا بدلا - نفس کا فر را بکش اے نیک خو * کافران گرچہ شدند در قصاص * میر خسرو - گر شہم بر گنہ قصاص کند * مملکت را بعدل خاص کند *

قَصابَک - ایک پرندۂ خوش رفتار و تیز پر کا نام ہے جو اکثر دریاؤں و تالابوں پر اڑتا ہے -

قَصیک - ایک صدفی جانور ہوتا ہے جسکو عربی میں حلزون کہتے ہیں

قَصیل - سبز جو جو ہنوز زراعت میں ہوں کاٹے نہ گئے ہوں یعنی جوندر جسکو گھوڑے کھاتے ہیں -

قَصَبَہ - بفتحات چھوٹا شہر یا بڑا گاؤں اور نلی یعنی بانس اور حلق کی نلی جسکے ذریعے سے آدمی سانس لیتا ہے اور کھانا اندر پیٹ کے جاتا ہے

قصب الذریرہ - چرایتہ جو مشہور دوا ہے

قَصعَہ - بڑا کاسہ یعنی بڑا پیالہ -

قصبچہ - نام ایک کپڑے کا جو کتان کی قسم سے ہے -

قَصیدہ - لغت میں اسکے معنی مغز سطبر اور غلیظ اور شعرا کے نزدیک وہ اشعار با قافیہ و ردیف جسکا مطلع ہو اور ہر ایک بیت کے اخیر مصرع کا قافیہ و ردیف ملتا ہو پندرہ بیت سے زیادہ ہوں -

قِصّہ - بروزن حصہ سرگذشت و حکایت و داستان و افسانہ و کار و خبر - نظامی - بشاہ جہان قصہ برداشتند * کہ ترکان چنین رایت افراشتند * نجندید صرفت از ادہم دہ * در آمیزش زر بد و قصہ گردہ *

قُصویٰ - انتہا و نہایت و پایان و انجام ہر چیز کا -

قاف با ضاد معجمہ

قَضا - حکم کرنا - گذارنا واجب کا اور ادا کرنا مرنا اور موت پیدا کرنا - تمام کرنا - بیان کرنا اور وہ عبادت جو وقت پر ادا نہو اور وہ حکم الٰہی جو مخلوقات کے حق میں دفعتہً واقع ہو اور قدر اس حکم کا نام ہے جو بتدریج مطابق حکم اول کے صادر ہو اسواسطے قضا امر ہے اور قدر مامور استاد - صبحدم چون رخ نمودی شد نماز من قضا * سجدہ کی باشد روا چون آفتاب آید برون * مولف - بہر انسان جو نازل ہو حکم قضا * گو بدا منا و صدقنا رضینا بالرضا *

قضارا - قضا سے - قضا الٰہی سے - سعدی - قضا را من و پیرے از فاریاب * رسیدیم در خاک مغرب بر آب *

قَضایا - بروزن خدایا جمع قضیہ بہت سے قضیے اور خرخشے و رنج و تکلیفیں

قَضیب - درخت کی شاخ اور عصا و ستی مجازاً عضو تناسل آدمی کا -

قُضات - جمع قاضی بہت سے قاضی -

قضا و قدر - تقدیر قسمت -

قَضیم - دانہ جو گھوڑے بیل وغیرہ کو کھلاتے ہیں -

قضبان - درختوں کی شاخیں -

قضاعہ - ایک آبی جانور کا نام ہے جسکی شکل کتے کی سی ہوتی ہے اور اُسکے خایے چند بیدستر کہتے ہیں اور نام ایک قبیلہ کا ہے عرب میں

قضیہ - جو بات حکومت کے متعلق یعنی فیصلہ طلب ہو - باقر کاشی - فریاد بلبلان چمن از برای چیست * گوئی کہ این قضیہ بباد صبا رسید *

قاف با طائے

قطا - ایک مرغ ہے جسکو فارسی میں سنگخوار کہتے ہیں ویرانہ بے آب میں جس موقع پر اُسکی آواز آتی ہے تو مسافر جان لیتا ہے کہ اس جگہ پانی کہیں قریب ہوگا

قطعاً - بالکل - ہرگز - اردو مولف - عاشقوں کو حال زار دل سنانا منع ہے * انکو قطعاً سامنے آنسو بہانا منع ہے -

قِطاب - بکسر اول جیب یعنی گریبان -

قُطاب - بضم اول ایک قسم کے سنبوسہ کا نام ہے جو لذیذ ہوتا ہے -

قُطب - لوہے کی میخ جسکے زور پر چکی پھرتی ہے اور وہ شخص جو قوم کا سردار اور پیشوائے طریقت ہو جیسے پیر اور کا رہبر امیدوار ہو - مولف در مدح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی - قطب دنیا قطب دین قطب جہان قطب زمان * شاہ قطب الدین ولی محبوب حق قطب المدار *

قُطرُب - بضم اول ایک بیماری کا نام ہے جس سے انسان کی طبیعت میں جنون پیدا ہو جاتا ہے -

قطیعت - علیحدگی و جدائی دنیا ناآشنائی -

قطات - مرغ سنگخوار اور گھوڑے کے بدن کا پچھلا حصہ -

قطرات - بہت سے قطرے اور بوندیں -

قطور - وہ رقیق چیز جسکے قطرے بغرض صحت کان یا ناک میں ڈالیں -

قَطر - بفتح اول باران بارش اور پانی جو ابر سے برسے -

قِطر - بکسر اول مس گداختہ یعنی تانبا گلا ہوا -

قُطر - بضم اول کنارہ ہر ایک چیز کا اور وہ خط جو دائرے کے مرکز سے گذر جائے -

قِطار - بکسر اول بہت سے اونٹ جو رسی سے کہ انکی ناک میں ہو ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اور اسی طرح آدمی وغیرہ جانور جو صف بستہ ہوں ستون جماعت

زہے قہر زہ شیران افگندہ شد سیاہ چاہ بد نژندہ پیلان آورد شد قطار قطار ٭
قطمیر ۔ پوست باریک جو کھجور کی گٹھلی پر ہوتا ہے یا نقطہ سپید جو دانہ خرما کی پشت پر ہوتا ہے یا شگاف تخم خرما کا یا وہ ریشہ جو درمیان شگاف تخم خرما کے ہوتا ہے اور ہر ایک چیز قلیل و کم مقدار اور چھوٹی اور نام اصحاب کہف کے کتے کا جو اصحاب کے ساتھ غار مین سوتا ہے۔
قطاس ۔ پہاڑی گاے جسکی دم کے خوبصورت بال علمون کے سرون پر لگاتے ہین اور نگس ران اُنسے چنور بناتے ہین۔
قط ۔ بفتح اول و تشدید ثانی کاٹنا کسی سخت چیز کا چنانچہ قط لگانا قلم کو اور بس ۔ ابوالبرکات منیر ۔ جاے ناخن تیغ سرمیز دز انگشتان یا ٭ چون قلم در وصف مژگان تو میکردیم قط ٭ مسیح کاشی ۔ نوسیم چون نسوے یار ز حال درون نامہ ٭ بدندان قط زنم انگشت و بنویسم بخون نامہ ٭
قِط ۔ بکسر اول گربہ نر یعنی بلا کو جو مشہور جانور ہے۔
قُط ۔ بضم اول و تشدید ثانی یا بہ تخفیف بمعنی ہرگز۔
قطع ۔ بریدن یعنی کاٹنا کم کرنا ۔ خواجہ سلمان ۔ مرا ز مرحمت خسروانیت اکنون ٭ اشارتیست تو قع بجانب وزرا ٭ کہ از موجب من سخہ قطع فرمودند ٭ کنند اضافہ مرسوم بندہ را قطعاً ٭ آرزو ۔ جیبہ قطع ہو جامہ لائت کا ترے آغوش پر زیب دے ہے خلعت شاہی تمھارے دوش پر ٭
قطف ۔ بفتح اول میوہ چیکنا اور چھیلنا اور آہستہ آہستہ چلنا چارپایے کا۔
قِطف ۔ میوہ اور پھل درخت کا جو پختہ ہو۔
قطف ۔ بفتح اول و دوم نام ایک سبزے کا ہے اسفناخ بھی کہتے ہین اور ہندی مین پالک بعض کے نزدیک یہ نام سرمق کا ہے جسکو ہندی مین بتھوا بولتے ہین۔
قطوف ۔ بہت سے میوے۔
قِطاف ۔ بکسر اول چگنا میوے کا درختون سے۔
قطائف ۔ لپیٹی ہوئی چادرین اور لوزینہ اور رشتہ میدہ گندمی یعنی سویان جسکو فارسی مین سیمیا بھی کہتے ہین اور نام ایک حلوے کا جو نہایت لطیف ہوتا ہے۔
قطاع الطریق ۔ قزاق ۔ رہزن ۔ ڈاکو۔
قطاریق ۔ شور و غوغا جو جنگ کے وقت ہوتا ہے۔
قُطم ۔ بضم اول شہوت نفسانی حد سے زیادہ۔
قِطران ۔ بکسر اول نام ایک شاعر کا اور نام ایک شہر کا اور نام ایک روغن کا جو سیاہ و بدبو ہوتا ہے جو عرعر کے درخت سے نکلتا ہے اور خارش دار اونٹون کے بدن پر ملتے ہین اور عرعر کو ہندی مین چیڑ کہتے ہین۔

قُطن ۔ بضم اول و ضمتین روئی اور روئی کا کھیت جسمین روئی بوئی جائے۔
قطن ۔ بفتحتین وہ ہڈی جو دو چوتڑون کے درمیان ہوتی ہے۔
قط زن ۔ وہ ہڈی وغیرہ جسپر قلم کو قط لگایا جاے یا کاتب جو قلم کو قط لگائے ۔ طاہر وحید ۔ زخمی کہ یار بر دل اغیار میزند ٭ چون قط زن ست آن ہمہ بر استخوان من ٭
قطامہ ۔ بروزن علامہ شہوت کی بھری ہوئی عورت اور نام اُس عورت کا جسنے ابن ملجم قاتل امیرالمؤمنین علی علیہ السلام کو حضرت کے شہید کرنے پر آمادہ کیا تھا ۔ محسن تاثیر ۔ آبرو ز تنگ ست بہر کردنیا ریختن ٭ خصم مردان ست لقمہ بردے این قطامہ کن ٭
قطرہ ۔ پانی کی بوند مشہور لفظ ہے دوڑنا ۔ تیز چال چلنا ۔ توحید ۔ ترا داند بہر جا مرد دانا ٭ ترا بیند بہر سو چشم بینا ٭ تو بیشک واحدی و لاشریکی ٭ تو بی مثلی و لاثانی و یکتا ٭ ز بوسے غنچہ بو بیت میدہد بو ٭ شود رنگست رنگش آشکارا ٭ کہ از ذرہ نمائی مہر تابان ٭ گہے جاری کنی از قطرہ دریا ٭
قطعہ ۔ بکسر اول ہر ایک چیز کا ٹکڑا ۔ کاغذ ۔ کپڑے وغیرہ کا پارہ اور شعرا کے نزدیک دو بیت یا اُنسے زیادہ ابیات جنکا مطلع نہو اور ہر ایک بیت کے دوسرے مصرع مین قافیہ و ردیف یا حرف ردیف ملتی جائے ۔ محمد سعید اشرف ۔ این قطعہ نرگس کہ برد دل بکوشش ٭ خوب ست بصد دیدہ فلک بر روشش ٭
قطیعہ ۔ بکری گاے بھینس وغیرہ کا گلہ جو ایک جگہ جمع ہو۔
قطابی ۔ بروزن گلابی سنبوسہ جو گھی مین بریان ہو۔
قطنی ۔ جو کپڑا روئی کا ہو یا مشروع ہو یعنی تانا ریشم کا اور بانا روئی کا ۔ طغرا ۔ جو بکشود زنبق ز قطنی بساط ٭ سمن جید دارائے انبساط ٭
قطیفہ حمامی ۔ حمامی کا رومال جس سے بعد غسل بدن کو صاف کرتے ہین یا لحاف شب پوش ۔ شفیع اثر ۔ مگر قطیفہ حمامی ست خلعت وصل ٭ کہ میدہند بعاشق بتان لالہ عذار ٭ ہنوز عاشق مسکین نکردہ خشک عرق ٭ کہ باز در پیکانہ گرفتہ قرار ٭

قاف با عین

قعب ۔ بڑا پیالہ جسکے پانی سے ایک پیاسا آدمی بخوبی سیر ہو جائے۔
مطلب ہر ایک بات کا اور عبارت کا مضمون اور منشا۔
قعود ۔ نشستن یعنی بیٹھنا بعد سونے کے اور اونٹ جو جوان ہو ۔ مولانا اکبر ۔ بگذران روز و شبان اندر سجود ٭ باش ہر دم در قیام و در قعود ٭
قعر ۔ عمق چاہ و تالاب و چاہ وغیرہ کا گہرا پن ٭

قعق - ایک ہی وقت مین شکاری جانورون کو شکار پر چھوڑ دینا
بہت سے جانورون کو شکار کر لینا -
قَعدَہ - بفتح اول نشستن یعنی بیٹھنا -
قِعدَہ - بکسر اول ایک طرح کی نشست کا نام ہے -
قُعدَہ - بضم اول گھوڑا یا کشتی وغیرہ جسپر سوار ہون -
قَعقَعہ - کاغذ کی آواز - خشک پوست کی آواز - ہتیار کی آواز -
قَعِیدَہ - وہ عورت جو ہمنشین اپنے شوہر کے ہو -
قَعلبی - میر شکار جو شکاریون کا افسر ہو -

قاف با فاے

قفا - پیٹھ پیچھا - گردن پچھلا حصہ - توحید - ہست پیش ہر نظر
نور خدا ؎ روشنی از دیدنش ہر دیدہ را ؎ ہست انار نیست و ذ
نیست ہست ؎ در فنا فانی و باقی در لقا ؎ ہست وچپ زیر و بالا حیلہ و گرد
روبرو موجود و حاضر در قفا ؎
قفورا - ایک گھاس کا نام ہے جسکو قطاۃ یعنی مرغ سنگخوار زرد کہتے ہین
قفل ابجد - ایک قسم کا قفل ہے کہ کھلنا اور بند ہونا اُسکا حروف
تہجی کی ترکیب پر منحصر ہے - محمد سعید اشرف - دل بے دلاے شاہ
نجف وا نشود ؎ این قفل ابجد است کہ بر نام حیدر است ؎
قفار - خشک روٹی روکھی روٹی اور وہ زمین جو خشک بے آب و گیاہ ہو -
قفر - بفتح اول خالی پانی اور گھاس سے اور بھوکا رہنا اور نام ایک
بیل کا جسکو کشوت بھی کہتے ہین اور وہ عشق پیچہ کی طرح درختون پر لپٹ جاتی ہے
قفر - بفتحتین کم ہونا مال کا اور کم ہونا گوشت کا -
قفاہیر - صورت خوب اور حسین و جمیل -
قفیز - بروزن فقیر ایک پیمانہ ہے جو بارہ صاع کا ہوتا ہے اور ہر ایک
صاع آٹھ رطل کا اور ہر ایک رطل آدھ سیر کا اور زمین جو مقدار
مین ایکسو چوالیس گز ہو -
قفس - قفص - پنجرا جسمین جانور رکھے جاتے ہین - توحید -
مدار رغبت و الفت بغیر حق با کس ؎ کہ از تمام خدائی فقط خدا است
بس ؎ فقیر چو بندہ نادان بہ بند حرص و ہوس ؎ چو مرغ بار نیاید برون کنج قفس ؎
قفل - تالا جس سے دروازے بند کر دیے جاتے ہین - نظامی - خلائق
کہ در دو زمین مے نہند ؎ بر و قفل و بند آہنین می نہند ؎ و لہ - درخانہ
را چون سپہر بلند ؎ زدم بر جہان قفل و بر خویش بند ؎
قفعہ - زمین بلند اور پشتہ اور وہ نشیمن جو مینار کے سر پر بنا ہو
قفاے - وہ مکا جو کسی کی پیٹھ پر مارا جاتا ہے - سعدی - یکے کرد
بر پارسائی گذر ؎ بصورت چو در آمدش در نظر ؎ قفاے فرو کوفت
بر گردنش ؎ بخشید درویش پیراہنش ؎ میرزا صائب - آنچنان
رو کہ بگردت نرسد برق کہ من ؎ رو بدنبال نکردم کہ قفاے نرسید

قاف با قاف

ققنس - بضم قاف اول وضم نون نام ایک جانور کا ہے کہ حکما نے
راگ اُسی کی آواز سے نکالا ہے عمر اُسکی ہزار برس کی ہوتی ہے مادہ
نہین رکھتا جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور موت کا وقت نزدیک آتا ہے
تو لکڑیاں جمع کر کر لکڑیون کے اندر آپ ہو بیٹھتا ہے اور بولنا شروع
کرتا ہے اسوقت اُسکی چونچ کے ہر ایک سوراخ سے کہ بیشمار ہین الگ الگ
راگ نکلتے ہین جب دیپک راگ شروع ہوتا ہے تو لکڑیون مین آگ لگ جاتی ہے
جس سے وہ خود بھی جلکر راکھ ہو جاتا ہے من بعد جب بارش ہوتی ہے
تو اُس راکھ مین بقدرت قادر مطلق انڈا پیدا ہوتا ہے اور انڈے سے بچہ نکلتا ہے
ققدان - خریطہ - کیسہ - جوا - جسمین الایچی وغیرہ رکھتے ہین اصل نام
اُسکا قاقلہ دان تھا اختصاراً ققدان بنگیا -

قاف با لام

قَلَّا - بفتح اول وتشدید لام اندک یعنی تھوڑا -
قلولا - قاز جو ایک مشہور جانور ہے -
قَلا - بفتح اول دشمنی اور دشمن سمجھنا -
قُلا - بضم اول وہ گھوڑا جو رنگ اُسکا بادامی اور ایال سے دم تک پیٹھ پر سیاہ خط ہو
قلفونیا - صنوبر کے درخت کا گوند -
قلما - فلاخن جس سے پتھر پھینکتے ہین -
قلیا - اشجار یعنی سجی جس سے کپڑے دھوتے ہین -
قلیمیا - سونا چاندی کا میل جو بعد گلانے کے بوتہ مین لگ جاتا ہے
قلیب - بروزن فعیل کچا کنوان اور پرانا بوسیدہ عمارت کا کنوان -
قِلُوب - بکسر قاف وضم لام ترکی مین بمعنی کردہ یعنی کیا ہوا -
قُلّاب - بضم قاف وتشدید لام وہ کانٹا لوہے کا جس سے مچھلی
پکڑتے ہین - محمد سعید اشرف - مرغ ہارا دام گسترد است امواج
نسیم ؎ ماہیان رانیش قلاب است موج چشمہ سار ؎
قَلّاب - بفتح اول وتشدید لام قلب ساز کھوٹا روپیہ پیسہ بنانے والا
دغاباز اور فریبی آدمی - ذوقی - دلش روشن بنور حق نگردد ؎
بود شخصیکہ قلاب و دغاباز ؎
قلب - اُلٹا لٹکا ہوا اور دل انسان کا بلحاظ اس بات کے کہ اُلٹا
لٹکا ہوا ہے اور عقل اور خالص اور میانہ ہر چیز کا اور وہ کھوٹ جو چاندی

سوفے مین ڈالا جائے اور فوج میانہ لشکر اور نام تیرھوین منزل کا منازل قمر سے۔ حکیم انور لاہوری۔ اگر باشد خدا در قلب مومن ٭ نباشد دخل در وے ماسوا را ٭ صائب۔ دہن خویش بدشنام میالا صائب ٭ کین زر قلب ہر کس کہ دہی باز دہد ٭

قلب بضم اول اندلسی زبان مین نام ایک تخم کا ہی جو نہایت سخت اور چمکتا ہوا چاندی کی طرح ہوتا ہی اُسکے کھانے سے مثانہ کے کنکر ریگ سنگ پیشاب کے راستے سے نکل جاتے ہین۔

قلوب بتحتین جمع قلب کی بہت سے دل۔ مؤلف۔ مکن رنجیدہ اے دوست ٭ قلوب مومنان عرش الٰہی ست ٭

قلت بکسر اول و تشدید لام کمی و کمیابی قلیل ہونا۔ تھوڑا ہونا۔ صفدر یفوقانی۔ نہ عزت در جہان ماند نہ ذلت ٭ نہ این کثرت بود باقی نہ قلت ٭

قلت بضم اول ماش جو ایک غلہ مشہور ہی۔

قلت بفتح اول آدمی دیوث و بے غیرت۔

قلیچ بکسر تین ترکی مین تلوار۔

قلاج بضم زور کھینچنا کسی چیز کا مثلاً کمان کھینچنا اور مقدار درازی دونون ہاتھ کا۔ طغرا۔ چون پنجہ بقلاج زدی سوے کمان ٭ از زور تو خم گرفت ابروے کمان ٭

قلح بہ حاے حطی زردی دانتون کی اور میل جو دانتون پر ہو۔

قلقند زاج سرخ۔

قلائد جمع قلادہ گلو بند سگ۔ کتون کی پٹی۔

قلندر وہ لوگ ہین کہ نفوس و اشکال بد دلی و اعمال بے سعادتے سے مجرد اور صفا ہو کر مراتب روحانی ترقی کر جائین قیود و تکالیف رسمی و تعریفات اسمی سے رہائی پاکر اپنے وجود کا دامن سب کے ہاتھ سے نکال لیا ہو اور تارک کلی ہو کر طالب جمال و جلال حق ہو گئے ہون اگر ذرا سی توجہ اُسکی سواے حق کسی غیر کی طرف ہو تو صوفی قلندر نہین اور فرق درمیان قلندر و ملامتی و صوفی یہ ہی کہ قلندر تجرید و تفرید بکمال رکھتا ہی اور تخریب عادات و عبادات مین کوشش کرتا ہی ملامتی اپنی عبادت کو غیرون سے چھپاتا ہی اپنی کوئی خوبی لوگون پر ظاہر ہونے نہین دیتا اپنی برائیون کو تمام زمانہ مین مشہور کرتا ہی صوفی وہ ہی جو صرف خدا وند جل و علی کا طالب ہو لوگون کی رد یا قبول پر ذرا توجہ نکرے پس ان تینون مین صوفی کا مرتبہ بلند تر ہی کیونکہ یہ باوجود تجرید و تفرید کے پیروی پیر اور پیغمبر کی کرنا فرض عین جانتے ہین اور اُنکے قدم بقدم چلتے ہین۔ شمس الدین تبریزی۔ حق پرست و عابد و زاہد شدم ٭ رند و اوباش و قلندر گشتہ ام ٭

قلقطار زاک جسکو ہندی مین پھٹکری کہتے ہین۔

قلاوز بفتح قاف دوا و دہ چند سوار جو لشکر کے پیشرو اور راہبر ہون

قلیدس مخفف اقلیدس نام ایک حکیم اور نام ایک کتاب کا علم ہندسہ و اشکال مین

قلس معدہ کے اُچھلنے کے وقت جو ایک دفعہ منھ سے نکلے اور اگر چند بار نکلیگا تو اُسکو قے کہینگے۔

قلقاس بفتح ہر دو قاف ایک مشہور جڑ ہی جسکو پکا کر نان خورش بناتے ہین ہند مین اُسکو اَروی کہتے ہین۔

قلتبوس دیوث و بے غیرت آدمی۔

قلقدیس سبز پھٹکری جو ایک کانی چیز ہی۔

قلوس ایک دوا کا نام ہی جسکو عربی مین اذان الاب کہتے ہین یعنی ریچھ کے کان کیونکہ اُسکے پتے ریچھ کے کان کے ساتھ مشابہت تمام رکھتے ہین

قلاش دروغ گو بے اعتبار آدمی۔ اسیری لاہجی۔ عشق گوید عاشق قلاش باش ٭ عقل گوید زاہد قلاش باش ٭

قلاش مفلس تنگدست مجرولی خان وہان یہ لفظ ترکی ہی۔ ذوقی۔ کس نخواہد مرد کسب او باش را ٭ تنگدست و مفلس و قلاش را ٭

قلوص شتر مادہ جوان۔ جوان اُونٹنی۔

قلاع بکسر اول جمع قلعہ بہت سے قلعے۔

قلاع بضم اول جوشش دہان منھ کا پک جانا جو ایک بیماری ہی۔

قلع اُکھاڑنا۔ گرانا اور نام ایک معدن کا۔

قلاط معرب کلات نام ایک قلعہ کا جو قزدین اور خلخال کے درمیان ہی نیز ایک قلعہ جو قندھار کے علاقہ مین ہی اور ہر ایک قلعہ جو مختصر اور چھوٹا ہو۔ میر معزی۔ زینسان کہ بیارست کنون میر قلاطی ٭ آن میر خردمند ہوا خواہ و وفادار ٭

قلپاق ترکی مین ایک قسم کی ٹوپی کا نام ہی۔ سیفی۔ مر امحبت قلپاق دوز ماہی ہست ٭ ازین خمار من درویش را کلاہی ہست ٭ براے زیب فراز دوز قلپاقش ٭ سواد دیدۂ من اطلس سماہی ہست ٭

قلتاق گھوڑے کے زین کی لکڑی۔ حکیم شفائی۔ اے بجنبش مہم پدر بینی تو ٭ قلتاق سپر ادر دنیا تو ٭ صندل بزیر پا ریگذر و کشند ٭ قیر بندان شوربینی تو ٭

قلچاق آہنی دستانے جو فوج کے لوگ رکھتے ہین۔ میرزا طاہر وحید۔ ز قلچاق چیزے دگر نیست بہ ٭ کہ ساعد از و یافت دست زرہ ٭ یعنی بود گرچہ دست یلان ٭ بصورت بود لیک چون ناودان ٭

قلاق بالفتح نام ایک ملک اور ایک قوم کا ہی۔

قلاق بضم اول ترکی مین گوش یعنی کان۔

قلق - بیقراری بے آرامی و اضطراب ... بجز ... اثر ...
دل بر تعلق انکی سے ہی جو متغیر ہو گر دو ... انگ فق انکی سے ہو
قلاسنگ - فلاخن جس سے پتھر پھینکتے ہین -
قلنباب - ایک قسم کے عود کا نام ہی جو نہایت خوشبو ہوتا ہی -
قلق - بضم اول ترکی مین غلام کو کہتے ہین اور عربی مین بکو یعنی کہو ...
قلقل - بضم ہر دو قاف وہ آواز جو صراحی سے بوقت نکالنے پانی یا شراب کے نکلتی ہی اور کلام جو مہمل و بے معنی ہو - محسن تاثیر - خوش ست از بادہ گلرنگ قلقل ٭ کہ آنجا گل زند چہچہ چو بلبل ٭
قلل - جمع قلہ پہاڑ کی چوٹیان -
قلاقل - جنگلی انار جسکو قلقلان بھی کہتے ہین اور عربی مین رمان البری
قلیل - تھوڑا - کم - تھوڑا مقدار - توحید - خدا کریم و رحیم و خدا قدیم و جلیل ٭ کہ ذات اوست منزہ ز ہر شریک و عدیل ٭ خدا انکہ شد ذات واحدش ثابت ٭ بہر دلیل و بہر حجت و بہر تاویل ٭ بری ست ذات الٰہی ز ہر کمی بیشی ٭ ہمیشہ پاک و بری از تغیر و تبدیل ٭ ازو سکون زمین و ازو قیام فلک ٭ ازو ظہور کثیر و ازو وجود قلیل ٭
قلزم - بضم اول و ضم زائے معجمہ نام ایک شہر کا مصر کے علاقہ مین بحر محیط کے کنارے پر جسکے نام پر وہ سمندر مشہور ہی اور بہر ایک دریا عمیق ہو اور چاہ جو آبدار ہو - انوری - اے ز بن نعل تو آہین سم ٭ اے سوسن گوش خیزران دم ٭ بارا سکو تو قوزہ ایست خورشید ٭ با طبع تو قطرہ ایست قلزم ٭
قلم - بفتح اول تراشنا - ناخن لینا - کاٹنا -
قلم - بفتح اول و دوم تراشی ہوئی چیز - قطع کیا ہوا کپڑا وغیرہ اور بکت کم اور سر کے بال جو دونون کانون کے پاس چھوڑ کے جاتے ہین اور وہ آلہ جس سے ہر قسم کی تحریر ہوتی ہی - مولانا جامی - نعت - قلم چون نامہ ساخت ٭ ز میمش حلقہ طوق کمر ساخت ٭ خط لوح قلم زان حرف حاک شد ٭ ازان سر حلقہ ملک ملک شد ٭ اردو - ازبر تو قلم کے لوح پر نام محمد جب لکھا ہوگا ٭ خوشی سے بڑھکے فوراً شاخ طوبے بن گیا ہوگا ٭
قلمدان - وہ چیز جسمین قلم رکھے جاتے ہین - محسن تاثیر - ابجا موش تصویر قلمدان فاش سنگو ٭ کہ از ہمراہی اہل سخن نتوان مصور شد ٭
قلیان - حقہ جسپر چلم رکھکر تمباکو کا دھوان کھینچتے ہین پہلے بھی غلیان کی لفظ کی تشریح مین اسکی تشریح لکھی گئی ہی - ذوقی - ز قلیان کشتی عاشق بے خبر ٭ بر آوردی از سینہ دود جگر ٭

... نشتادم ... بہار ...
قلتبان - ... بے غیرت -
قلتین - دو بڑے مٹکے جنمین ایک ہزار دو سو رطل عراقی پانی سما جاتا ہی اسقدر پانی امام شافعی کے مذہب مین استعمال سے نجس ہو جاتا ہی -
قلاردن - لشکر کے نقیب -
قلات ... زران شیراز مین ایک موضع ہی جس مقام پر شیخ سعدی کا مقبرہ ہی -
قلوبن - ... البحر یعنی سمندر کا جھاگ -
قلمرو - وہ ملک جو کسی کی حکومت مین ہو - محسن تاثیر - جنون ... شوق رسا ہم نمے شود ٭ دشت جنون قلمرو پا ہم نمے شود ٭
قلادہ - گلوبند وہ پٹا جو کتے کے گلے مین ڈالتے ہین - حافظ - شنیدہ ام کہ سگان را قلادہ می بندی ٭ چرا بگردن حافظ نمی نہی رسنی ٭
قلعہ - بادشاہی سکونت کا مقام جسمین فوج رہتی ہو اور چارون طرف دیوار ہو حصار بھی اسکو کہتے ہین -
قلغہ - ایک پھول کا نام ہی جسکا پھول خوبصورت اور پتے بھی رنگین ہوتے ہین
قلمچہ - کسی درخت کا قلم جو زمین مین لگایا جائے - مفید بلخی - بہار خاطرمن سبز کرد عالم را ٭ قلمچہ چمن روزگار من ست ٭
قلابہ - آہنی کانٹا خمدار مچھلی پکڑنے کا -
قلعہ قہقہہ - ایران علاقہ آذربائجان مین ایک قلعہ نہایت مستحکم ہی -
قلہ - پہاڑ کی چوٹی اور ہر چیز کا بالائی حصہ و بڑا خم جسمین تین سو من پانی سما سکے
قلیہ - بھونا ہوا گوشت -
قلبہ - ہل جو زمین مین چلاتے ہین اور کھیتی بوتے ہین -
قلنغہ - ترکی مین محاصرہ کرنا اور زمینداروں سے باسوری پیادہ سپاہ ... کا وصول
قلنسہ - کلاہ یعنی ٹوپی -
قلقلہ - جوشش و بیقراری اور ہلانا اور حرکت دینا حرف ساکن کا اسکے مخرج مین اور حروف قلقلہ پانچ ہین قاف دال با طا اور جیم مجموعہ انکا قطب جد
قلقلک - صراحی کی آواز -
قلازارہ - جنگلی کوا -
قلاشیرہ - اشخار و زراج سیاہ -
قلغشہ - رومی زبان مین ایک زخم کا نام ہی جو گھوڑے خچر گدھے وغیرہ کے پاؤن مین ظاہر ہوجاتا ہی -
قلعی - ارزیز جو ایک مشہور دھات ہی اور قلع نام ایک کان کا ہی جس سے ارزیز نکلتی ہی اسواسطے اسکا نام قلعی رکھا گیا - نعمت خان عالی - شاہم و شاہم چون قلعی زلیخہ ٭ شاہم و شاہم آئینہ سراب اندر ٭

قلابی - قلب ساز وہ شخص جو روپیہ پیسہ کھوٹا بنائے۔ شفیع اثر۔
بیت بوالہوس داغیکہ می بینی زعشق او + زری باشد کہ قلابی بنام شاہ میسازد

قلراقاسی - غلاموں کا افسر۔

قلی - بضم اول غلام وبندہ وخدمتگار۔

قلیقچی - نوکر وخدمتگار اگر شاہی نوکر ہو۔

قلی - بفتح اول گوشت توے پر بھوننا۔

قلی - بکسر اول شخار یعنی سجی۔

قلمی - وہ کاغذ جو قلم سے لکھا گیا ہو اور وہ کپڑا چھینٹ جو مخطط ہو۔

قلاوزی - وہ سوار جو پیشرو لشکر کے ہوں جسکو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔

قلندری - چھوٹا خیمہ جسمیں سپاہی رہتے ہیں۔

قاف با میم

قما - ترکی میں کنزک وپستار اور نام ایک دوا کا جو قوت باہ کو بڑھاتی ہے۔

قمراء - چاندکی روشنی یعنی چاندنی۔

قماچ - ترکی میں ایک قسم کی روٹی کا نام ہے کلمن کے کاف سے کماج بھی کہتے ہیں۔

قمح - بحاے حطی گیہوں کے ستو جو خشک کھائے جائیں۔

قمار - بکسر اول وہ بازی جسکی ہار جیت پر شرط مقرر ہو جیسا کہ جوا
اسمیں جو ہارجاتا ہے اس سے روپیہ لیا جاتا ہے۔ ظہوری - بادشاہا کردہ ایم
قمار دو اول خزانہ باختہ ایم

قمار - بضم اول ایک شہر کا نام ہے انتہاے ہندوستان میں قریب
دریاے شور کے بطرف جنوب جس جگہ عود قماری پیدا ہوتا ہے۔

قمر - چاند جسکو فارسی میں ماہ کہتے ہیں۔ سہ - رخ تو رونق قمر
بشکست + لب تو رنگ لعل تر بشکست +

قمطر - بکسر اول وفتح میم وسکون طا موٹا اونٹ اور کوتاہ قد آدمی
اور کتابوں کے رکھنے کا صندوق اور بستہ کتابوں کا۔

قماشیر - کرفس کوہی کے درخت کا گوند۔

قماش - بضم اول رخت واسباب اور ابریشمی کپڑے اور گھر کا
سامان اور جوہر اور صفت۔

قمیص - کمیز - کرتہ جو پہنتے ہیں۔

قماط - وہ خرقہ جس سے ہاتھ پاؤں بچہ شیر خوار کے باندھ کر
گہوارہ میں سلاتے ہیں۔ جلال الدین سیستانی غافل - از بردہ
دل طفل شکم بقماط است + زان گریہ کہ سرمایۂ شادی ونشاط است +

قمع - توڑنا کسی چیز کو اور خراب کرنا۔

قمل - بفتح اول وتخفیف میم جوئیں یعنی وہ جوں جو کپڑوں اور بالوں میں پڑجاتی ہیں۔

قمل - بفتح اول ودوم جوئیں ہونا اور بڑے پیٹ والا ہونا۔

قمل - بضم اول وتشدید میم چیچڑی اور کلکی جو مشہور جانور ہیں جمع لفظ قملہ کی
قمقام - کار دبزرگ بڑی چھری اور دریا اور قوم کا سردار اور چیچڑی جو بہت باریک ہو

قمم - بکسر اول وفتح ثانی جمع قمہ سر ہر ایک چیز کا۔

قم - بضم اول برخیز یعنی اٹھ صیغۂ امر ہے اور نام ایک شہر کا۔ سعدی۔
چشم با شستم درین دیر کہن + کہ حیرت گرفت آستینم کہ قم +

قم - بفتح اول وتشدید میم گھر کو صاف کرنا جھاڑو دینا۔

قمیل - بروزن فعیل سزاوار ولائق۔

قمہ - بتشدید میم سر چیز کا اور بلندی ہر ایک چیز اور کلس جو گنبد کے سر پر نصب ہوتا ہے۔

قمہ - بفتح اول وتخفیف میم ترکی میں نام ایک ہتیار کا اور دوپٹہ جو کمر پر باندھتے ہیں۔

قمرغہ - شکارگاہ اور جنگل جسمیں شکار رہو۔

قمرہ - قمارخانہ جسمیں جوا کھیلتے ہیں۔

قمقمہ - بضم ہر دو قاف چھوٹا کوزہ۔

قمحدوہ - بفتح اول ودوم وسکون ہاے حطی گردن انسان کا
پچھلا حصہ جب وہ آسمان کی طرف منہ کرکے سویا ہوا ہو۔

قمامہ - بضم اول خس وخاشاک اور خاکروبہ گھر کا جو جاروب کے بعد
جمع ہو اور آدمیوں کا گروہ اور نام شہر جسمیں ملحد بیدین رہتے تھے۔

قمحہ - نام ایک دوا کا ہے جسکو قصب الزریرہ کہتے ہیں۔

قمہ - قد وقامت ووضع وقطع۔

قمی - شہر قم کا رہنے والا اور تخلص ایک شاعر کا جسکا نام ملک تھا
اور وہ سلطان ابراہیم عادل شاہ والی بیجاپور کا ملازم تھا۔

قمچی - ترکی زبان میں تازیانہ یعنی چابک گھوڑے کے مارنے کا۔ سیفی۔
قمچی بنا زبند وجفا را بہانہ کن + با عاشقان سخن بسر تازیانہ کن +

قمری - مشہور پرندہ ہے جسکو فاختہ بھی کہتے ہیں۔ توحید - ہمیشہ جلوہ
اندر صحن گلزار + دہد آن رشک گل با حسن گلزار + بہ بستان جہان
در انتظارش + بیک پا سرو استادہ لب جو + بیک جانب بلند
آوازہ بلبل + بیک سو قمری اندر شور کوکو +

قاف با نون

قنطا - یونانی زبان میں ایک دوا کا نام ہے جسکو فارسی میں خون سیاؤشان کہتے ہیں۔

قنطاسیا - حس مشترک کا نام یونانی زبان میں ہے۔

قنب - بکسر اول وتشدید نون بھنگ جسکی پتیوں کو گھونٹ کر پیتے ہیں
اور نشہ ہو جاتا ہے۔ شعر - نفسے زدیم وسر انا الحق شد آشکار +
بار ابرین گیاہ ضعیف این گمان نبود +

قنات - نیزہ اور پشت کی ہڈیون کی گٹھری اور کپڑے کا پردہ جو قائم مقام دیوار کا ہو - توحید - میدہد جلوہ بہر یک پردہ آن پردہ نشین ٭ روے بنماید زہر یک خیمہ وا زہر قنات ٭

قناعت - تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا - زیادہ طمع نکرنا - سعدی -
قناعت تونگر کند مرد را ٭ خبر دہ حریص جہان گرد را ٭

قنوت - فرمان برداری کرنا - دعا مانگنا - خاموش رہنا اور نام ایک دعا کا جو نماز وتر مین بعد عشا کے پڑھتے ہین اور آدمی کی پشت کی ہڈیان -

قنوات - پشت کی ہڈیان گٹھری -

قنج - بضم اول گدھا جسکی دم نہو اور نالائق بیہودہ ہرزہ گرد -

قنج - بفتح اول ناز و غمزہ -

قنوج - ہندوستان مین ایک مشہور شہر ہے - خلیفہ شاہ محمد ہند
یک جسم ست قنوج ست روح ٭ زانکہ ہم شکل ست قنوج و فتوح ٭

قند - مصری کھانڈ - چینی - شکر - گڑ - عرفی - چہ عذر ہاے موجہ بہی معاصی را ٭ بچشش لعاب دیانت کہ قند میخائی ٭

قناد - حلوائی - شیرینی بنانے والا - سیفی - ہر کجا یاد لب آن بت قناد کنند ٭ شکر و قند چہ باشد کہ از و یاد کنند ٭

قنقد - خار پشت کلان تیر انداز جسکو ہندی مین ساہی کہتے ہین -

قنود - دلیر و گستاخ -

قنطار - گاے کا پورا چمڑا جو روپیہ سے بھر دیا جائے - بعض کے نزدیک ایکسو بیس رطل سونا چاندی - سعدی - بہ قنطار زر بخش کردن ز گنج ٭ نہ چند انکہ دنیا رسے از دست رنج ٭

قنبر - حضرت مرتضے علی کرم اللہ وجہہ کے وفادار غلام کا نام ہے - نکی -
بطاعت سرنگون مثل علی شو ٭ چو قنبر در وفا ثابت قدم باش ٭

قنار - قصاب کی لکڑی جسکے ساتھ گوشت لٹکا تا ہے -

قنطیر - امالہ قنطار کا جیسے کتیب امالہ کتاب کا اور رکیب امالہ رکاب کا -

قندھار - افغانستان کے متعلق مشہور شہر ہے - از بابر نامہ - دہلی و لاہور را تسخیر ساخت ٭ زیر فرمان کابل و قندھار کرد ٭

قندز - نام ایک ولایت کا ظلمات کے پاس اور نام ایک جانور کا جو سیاہ رنگ ہے اور گتے سے مشابہت تمام رکھتا ہے ترکستان مین پایا جاتا ہے اور اسکے پوست سے پوستین بناتے ہین اور اسکے پوستین کو بھی قندز کہتے ہین بعض کے نزدیک قندز سگ آبی کا نام ہے اور اسکا پوست نہایت گرم ہوتا ہے -

قنص - شکار کرنا - دام بچھانا -

قنوط - نا امید و نا امید ہونا - سرولت - در قنوط این بند مسکین چرا

چون خدا لا تقنطو فرمودہ است ٭

قنوع - قناعت کرنا - قانع ہونا -

قنع - بکسر اول چادر جو عورتین اوڑھنی کے اوپر پہنتی ہین -

قنداق - بندوق کا کندا جسمین بندوق کی نالی جڑی ہوئی ہوتی ہے - طاہر وحید بندوق کی تعریف مین - ٭ او را بہ قنداق افتادہ راہ ٭ کہ در عہد سے بود ما سیاہ -

قنق - مہمان جو کسی کے گھر آئے -

قندیل - مشہور چیز ہے جسمین چراغ جلاتے ہین - توحید - خداست مالک و مشکلکشا و عقدہ کشا ٭ بی مآرب و حاجات جملہ خلق کفیل ٭ براے رزق ہمہ خلق رازق مطلق ٭ براے روزی ہر بندہ کارساز و کفیل ٭ بہ بزم ہمین شمع جلوہ می بخشد ٭ ہمین چراغ دہد روشنی بہر قندیل ٭

قنبیل - جلی ہوئی مٹی جو اکثر عورتین کھاتی ہین -

قندول - رومی زبان مین نام ایک درخت کا ہے جسکو دار شیشعان کہتے ہین یہ بڑا درخت خاردار ہوتا ہے -

قنطال - روس کے بادشاہ کا نام ہے جس پر سکندر رومی نے فتح پائی اور دوبارہ تاج بخشی کی -

قنوان - خوشے میوے کے خصوصاً کھجور کے خوشے -

قنوقن - ترکی مین تلوار اور چھری -

قنطوریون - نام ایک دوا کا ہے جو صغیر اور کبیر دو قسم کی مشہور ہے -

قنو - کھجور کا ایک خوشہ ایک قسم کا جامہ -

قنتورہ - زنگین کا ہے جو دامن کوتاہ اور بہت سے بند رکھتا ہے اور ایک چیز قسم سقرلات سے جو جراب پر باندھتے ہین تا چلنے کے وقت مٹی جراب پر نہ جائے - محمد سعید اشرف - دشت از لالہ چو قنتورہ سرخ عیار ٭ کوہ از سبزہ چو قنتول زمردشاہی ٭

قنارہ - قصاب کی لکڑی جس سے گوشت لٹکاتے ہین - رفیع واعظ - یک سلخ نست عالمے از دست خنجرش ٭ ہر نیش خار لخت دلی را قنارہ ہست ٭

قنطرہ - پل جو دریا پر باندھتے ہین - خاقانی - فوج درد گر شود گرید از بردری ٭ قنطرہ بستی ز چوب بر سر طوفان او ٭

قنینہ - بروزن کمینہ شراب کا شیشہ - سنجر کاشی - خون دلم دیدہ را جگر نہ سبیل ست ٭ دیدہ من پیالہ دل نہ قنینہ ٭

قلینہ - بالکسر بہ لیگی جائداد -

قنادخانہ - مصری بنانے کا کارخانہ - حلوائی کی دوکان -

قندی - جو چیز قند کے ساتھ شیرین کی گئی ہو جیسے بادام قندی

وابستہ قندی - محمد سعید اشرف - بستہ قندی اگر دی شکر خندش
ہین وہ قندی ازیاد ام قندی درشکر خواہش بگرہ

قاف با واو

قوا - بضم اول جمع قوت بہت سی قوتین
قوبا - بضم اول نام ایک بیماری کا جس سے جسم پر داغ پڑجاتا
ہندی مین اسکو داد کہتے ہین -
قورسا - ایک دوا کا نام ہو جسکو خود بلسان کہتے ہین -
قوسیا - نام ایک دوا کا ہو جسکو عربی مین قسط کہتے ہین -
قوطوما - یہ ایک قسم کے کانٹے کی جڑ ہو جسکو آذربون اور چوبک
اشنان بھی کہتے ہین اس سے دھوبی کپڑے دھوتے ہین تو سفید ہوجاتے ہین -
قوقا - صنوبر کا گوند جسکو فارسی مین زنگباری بھی بولتے ہین -
قونیا - یونانی زبان مین خاکستر یعنی راکھ -
قوت - بضم اول وسکون ثانی کھانے کی چیز جو انسان کی غذا ہو
میر معزی - آنکہ دریا قوت نوشش آگہی دی شکر ہمیشہ قوت عشاق
را یاقوت نوش آگین نہاد
قوت - بضم اول و تشدید واو زور وطاقت و توانائی جسکو ہندی میں بل
بل کہتے ہین - درویش والہ ہروی - عشق تا دست جنون را قوت
تا ثیر داد - گردگردون تنجہ از پیرون بہ پیراہن زدی
قولنج - ایک بیماری ہو جس سے روده قولون مین سخت درد ہوتا ہو -
قورق - بیشہ نیستان شکار گاہ جنگل یعنی لڑنے والا جنگلی جسکو لوگ
لڑاتے ہین یہ لفظ ترکی ہو
قولاج - کودنا گھوڑے کا اور جست مارنا -
قوس قزح - وہ رنگین کمان جو مقابل آفتاب کے ابر مین ظاہر ہوتی ہو -
قواد - مرد بے عزت و بے غیرت دیوث -
قود - قصاص - بدلہ عوض -
قواعد - جمع قاعده کی بہت سے قاعدے -
قورچ - ترکی مین ہتیار اور لوہا -
قومس - ایک شہر کا نام ہو -
قواس - کمان بنانے والا -
قوس - کمان جس سے تیر چلاتے ہین - حافظ - تا ہوان نظر شیر
آفتاب بگیر - با بروان دوتا قوس مشتری شکن
قوس - بضم اول اور واو و سین وہ صومعہ و عبادت خانہ
جو عیسائی عابد بناتے ہین -

قوقالس - یونانی زبان مین گدھا جو نر ہو -
قوشقس - بضم اول شکاری جانور وحشی ہو یا طیر چار پایہ ہو یا پرندہ -
قوارع - سختیان زمانہ کی آفتین جو دشمن پہنچاتے ہین جمع قارعہ
ہر کہ در ذکر قدر اذا کر بود - در قوارع صابر و شاکر بود
قورون - بواو معدولہ بروزن مرغ ترکی مین چیز ممنوع ہو خالصت
مین لی ہوئی چیز ایک احاطہ مین رکھی ہوئی ضبطی مین آئی ہو
شفیع اثر - قرق شد گفتگو سے بدان نحو - کہ ساقی نامہ
شد از لبہا محو
قونشاق - ترکی مین ہمسایہ ہونا دیوار بدیوار ہونا - پاس پاس ہونا
قوافل - جمع قافلہ بہت سے قافلے - صفدر رفوقانی - از ین رہ
سار وانہا دیگر گذشتند - قوافل آمدند و باز رفتند
قوال - بولنے والا بہت سی باتین کرنے والا گانے والا سرود کرنے والا
قول - بضم قاف و واو معدولہ ترکی مین ہاتھ اور بازو اور غلام
و فوج وسپاہ - عبد الله ہاتفی - شہ کامران خسرو سرفراز
دو قول از پی کار زین کرد ساز - پے مرکز رایت فتح یاب
زدان زہرہ ازدہا بود آب - دگر قول از رایت خسروی بنزد جہانگیر شاہ
قول - بات چیت گفتگو - عہد اقرار - سنجر کاشی - کا گفت
قول داده باد غث ولی - بے لبت عہد بستہ باسخے و جام
قوی ئیل - دوره دوازده سالہ مقرره حکما سے ترک مین سے ایک
سال کا نام ہو اور وہ بارہ سال انھون نے جانورون کے نام
مقرر کیے ہین چنانچہ اسکے معنی ہین سال گوسپند یعنی بکری کا
قوی کے معنی گوسپند اور ئیل کے معنی سال ہین اور نام ان بارہ
سالون کے یہ ہین سیچقان ئیل - اود ئیل - بارس ئیل تقشان ئیل
لوی ئیل - یونت ئیل - ایلان ئیل - قوی ئیل - بجی ئیل - تخاقوی ئیل ایت
تنگوز ئیل - تنگوز ئیل -
قوام - بفتح راستی اور عدل - س - بود ہر کہ شاہ نشہ نیکنام
ہمیشہ قیاس بود بر قوام
قوام - پختگی و اہلیت و نظام و لقا اور استاده ہونا - قائم ہونا - ص -
مسافر دین دار دنیا پایدار - ندارد امید قیام و قوام
قوائم - جسپر کسی چیز کا قیام ہو جیسے کہ چھت کا ستونون پر -
اور جسم کا ہاتھ اور پاؤن پر جمع قائمہ -
قویم - راست اور محکم و استوار -
قوم - بفتح اول گروه و جماعت و خیل -

قوریون - یونانی مین کشنیز یعنی دھنیا جو ایک مشہور تخم ہے -
قوبارتون - بادیان صحرائی - جنگلی سولف -
قوبن - عرق النساکی بیماری -
قوتیطن - رومی زبان مین ایک گھاس کا نام ہے جسکو عربی مین فوق النمر کہتے ہین اسکو اگر پلنگ دلو یعنی چیتا کھالے تو مرجاتا ہے -
قوس - بضم اول اور واو معروف شترمرغ جسکے ملائم پر تکیون مین بھرے جاتے ہین اور وہ مرغ تھا مہ کی سرزمین مین ملتا ہے - ملا طغرا -
ز بہر پاپر قواز لنکا رگاہ بیار ٭ کہ لائق پر کا دست تا ربالش ما ٭
قو - بفتح اول وہ سوختہ روئی وغیرہ کا جسپر چقماق کی آگ جھاڑین -
محسن تاثیر - باطینت ملائم کار از فلک برآید ٭ ز آتش زن ست دائم بروشن چراغ تو را ٭
قوقو - قوقہ - تکمہ پیراہن کا اور ٹوپی کا پھندنا اور کلغی - حکیم سوزنی -
از حشمت سلطانی او تاج فریدون ٭ چاوشش ورا قبہ قوقوے کلاہ ست ٭ ولہ - بتر زرین چرخ یعنی مہر افسر و قوقہ کلاہ تو باد ٭
قویم - صیغہ مونث - محکم و استوار -
قوارہ - بضم اول ناکارہ ٹکڑے کپڑے کے جو درزی جامہ قطع کرنے کے وقت نکالتا ہے -
قورمہ - گوشت بریان - بھونا ہوا گوشت یہ ترکی لفظ ہے -
قوصرہ - تھیلا کھجورون کے رکھنے کا جو کھجور کے پتون سے بنا ہوا ہو -
قوہ - بضم اول و تشدید واو قوت و استعداد و امکان -
قوادہ - دلالہ عورت جو مردون اور عورتون کے آپس مین وسیلہ بنکر زنا کرائے
قوسہ - قوس قزح اور غلیل جس سے غلے چلاتے ہین -
قورچی - سلاحدار سپاہی جسنے جنگ کے ہتھیار پہنے ہون اور آہنگر تلوار وغیرہ بنانے والا - سیفی - ولہ از قورچی کہ دم شد اشان او ٭ قربان شدم ز حسرت تیر و کمان او ٭
قوتی - بتاے مثناۃ ڈبیا جیسے تریاک وغیرہ رکھنے کے لیے - ترکی تخلص ندیم -
تو قدر می نبید انی بر نگ لالہ بیترسم ٭ کہ جام از کف گذاری قوتی تریاک برداری ٭
قوپقچی - نوکر کا نوکر - خادم کا خادم - شفیع اثر - قوپقچی اگر سر رشتہ آب بقاست ٭ چون ماہ نوش کجی عیان از سیماست ٭ در دہر ندیدیم بغیر از عاشق ٭ خدمتگار سے کہ دست او باشد راست ٭
قوشچی - میر شکار -
قورچی باشی - سلاح خانہ کا داروغہ -
قورغی - ترکی مین وہ طناب جو خیمہ کے گرد باندھ دیتے ہین -

قوچی - بضم قاف و سکون واو و جیم ولہ ترکی مین گوسپند یعنی بکرا -
قوی - بضم طا - صاحب قوت و طاقت - واضح ہو کہ قوتین جو خلاق حقیقی نے انسان کو بخشی ہین مفصلہ ذیل ہین قوی طبعی تعلق انکا جگر سے اور قوتین یہ ہین جاذبہ ماسکہ ہاضمہ دافعہ غاذیہ نامیہ مولدہ قواے حیوانی دل کے متعلق ہین مثلاً حرکت قلب و نبض و قوت حافظ حیات و غضب و شہوت و فرحت قواے نفسانی باصرہ و شامہ و سامعہ و ذائقہ و لامسہ و حس مشترک و تخیلہ و متفکرہ و واہمہ و حافظہ متعلق دماغ ہین -

قاف باہاے ہوز

قہر - غضب و غصہ و ناراضی و جوش طبیعت - سعدی - اگر جفا بستہ نشتافتی ٭ کہ از دست قہرش امان یافتی ٭
قہار - قہر کرنے والا یہ نام حضرت حق جل و علی کا ہے - قوحید - شود چہرۂ روشن ز ہر طرف دلدار ٭ گہے ز خانہ گہ از کوچہ و گہ از بازار ٭ نہیے رحیم و زہے راحم و زہے غفار ٭ زہی شفیق و زہی اشفق و زہی ستار ٭ شان ہید بلرزد بخود تمام جہان ٭ ز ہیبت و غضب قہر حضرت قہار ٭
قہبلس - بروزن جحمرش ذکر و قضیب و عضو تناسل مرد کا -
قہرمان - حاکم کارفرما - صاحب رعب و جلال - سنجر کاشی - اقبال شاہ روے بہر شہر کاوند ٭ بے آنکہ چون زبنی گرد ان رود روان ٭ بینی کلید را کہ بزندان کشودہ در ٭ بل رخ سنجاک سودہ بتعظیم قہرمان ٭
قہستان - ایک ملک ہے ولایت خراسان مین -
قہوہ - یہ ایک تخم کا نام ہے جسکو جوش دیکر جوشاندہ اسکا پیتے ہین اسکے پینے سے آدمی کو ایسی عادت ہوجاتی ہے کہ بے پیے بغیر ماندگی تلخ ہوجاتی ہے کسی قدر نشہ بھی دیتا ہے قہوہ خانہ وہ مکان کہلاتا ہے جسمین قہوہ پلانے والا رہتا ہے - میر صیدی - مرادر قہوہ بودن بہتر از بزم شہان باشد ٭ کہ اینجا میہمان را شتے بر میزبان باشد ٭ ولہ - کہ کشیم قہوہ گاہ تمباکو ٭ کار من در کشاکش افتادہ ست ٭
قہقاہ - قہقہہ - باواز بلند ہنسنا - حکیم زلالی - چنان بزم طرب خیزی بیارست ٭ کہ قہقہہ از گلوے شیشہ برخاست ٭
قہقری - پیچھے پانون ہٹنا - محمد امین وقاری - خدنگ خصم ز سہم تو قہقری برگشت ٭ چنانچہ غنچۂ پیکان دمیدش از گل جان ٭

قاف بایاے

قینا - خرفہ جو مشہور سبزہ ہے اور عربی مین اسکو بقلۃ الحمقا کہتے ہین -
قیمونیا - ایک قسم کے نرم پتھر کا نام ہے جسکو حجر الرخام کہتے ہین

سفید رنگ مٹی تہ بہ تہ اور خوشبودار ہوتی ہی جو کافور کی بو اُس سے
آتی ہی حجر الشقاف بھی اسکو بولتے ہین۔
قیامت۔ بکسر اول قائم ہونا اور قیامت کا دن جو اُس روز
تمام مخلوقات فنا ہو کر پھر قائم ہوگی۔ سعدی۔ قیامت کسی بلند
اندر بہشت ٭ که معنی طلب کرد و دعوی بہشت ٭ وله۔ دی زمانی بکلف
پیشم نشست + فتنہ بنشست چو برخاست قیامت برخاست ٭
قیمت۔ مول۔ نرخ۔ بھاؤ۔ معاوضہ۔ انوری۔ نوش لب لعل تو
قیمت شکر شکست ٭ چین سر زلف تو رونق عنبر شکست ٭
قیادت۔ بکسر اول دلالگی کرنا۔ قرمساقی کرنا۔
قیقاج۔ بہ یاے مجہول ترکی مین ترچھا یعنی جو چیز سیدھی نہو تحسین تاثیر
چشم رخسارش ز قیقاج مژگان رسا دارد + که جوشن از خط نارسته در زیر قبا دارد +
قیح۔ بفتح اول و سکون ثانی وحاے حطی ریم جو سفید رنگ زخم سے نکلتی ہی۔
قید۔ بند مشہور لفظ ہی اور شکنجہ جسمین صحاف کتاب بند کر کے کاٹتے ہین۔
ثنائی تکلو۔ قید ہستی بشکن پیر و آزادان شو ٭ که تو اینجا باسیر قفسے
مہمانی ٭ میرزا طاہر وحید۔ مرا یار صحافت تاکرد صید ٭ نیارد
برون چون کتابم ز قید ٭
قیود۔ قید کی جمع ہی۔
قیر۔ بروزن میر ایک سیاہ روغن جو بیمار اونٹون کے بدن پر ملتے
ہین نیز ایک سیاہ گوند ہی جو نئی بنائی ہوئی کشتیون پر ملتے ہین
تاکہ پانی اُسمین نہ جائے۔
قیصر۔ خطاب بادشاہ روم کا اور وہ لڑکا جسکی مان مر جائے اور وہ
نو مہینے کا حمل مان کے پیٹ مین ہو اور مان کا پیٹ چیر کر اُس بچہ کو
نکالا جائے چونکہ اغسطوس شہان روم سے مان کا پیٹ چیر کر
نکالا گیا تھا لقب اُسکا قیصر مقرر ہوا اس سے بعد روم کا ہر ایک بادشاہ قیصر لقب پاتا تھا
قیصوبہ۔ ایک شہر دریاے محیط کے مشرقی کنارے پر آباد ہی کافور
وہان خوب ہوتا ہی۔
قیاوار۔ سکار و شغل و عمل و صنعت اسمین حرف چوتھا واو ہی۔
قیشور۔ یہ ایک قسم کا پتھر ہی مجفف جو سمندر کے کنارے پایا جاتا ہی
بعض کے نزدیک وہ خشک کف دریا ہی شراب خم جو جوش مین ہو
اسمین اسکا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو جوش فرو ہو جاتا ہی۔
قیماز۔ بفتح اول غلام و کنیز و خدمتگار۔
قیاس۔ بکسر اول جانچنا۔ اندازہ کرنا دو چیزون کا اور اسی
روش پر چلنا کہ اور شخص اسی پر چلا ہو۔ نظامی۔ اندازہ گرفتم

چون گرفتم قیاس ٭ هم از نامه مرد ایزدشناس + دران هر دو گفتار
چستی نبود ٭ گزاف سخن را درستی نبود ٭
قیس۔ نام مجنون جو لیلی کا عاشق تھا۔
قیسوس۔ عشق پیچے کے بیج جسکو عربی مین حبل المساکین کہتے ہین۔
قیرس۔ یونانی زبان مین موم جسکو شمع کہتے ہین۔
قیطس۔ ایک درخت ہی جسکو فارسی مین مورد اور عربی مین آس بولتے ہین
قیقاوس۔ معرب کیکاوس۔
قیراط۔ آدھی دانگ کا وزن جو چار جو ہوتی ہی۔
قیلوط۔ نام ایک دوا کا ہی جسکے پتون کو گندنا سے شامی کہتے ہین۔
قیماغ۔ قیماق۔ دودھ کی ملائی جو گرم دودھ کے اوپر آجاتی ہی۔ فوقی یزدی
زمین نان جوین و پیاز و شتر زخم ٭ هزار گونه معشر لسیات قیماق۔
قیق۔ قیقہ۔ فریاد و آواز بلند۔ فوقی یزدی۔ سحر کہ کرد ز شادی
خروس طبعم قیق ٭ زدم بگوشه دستار لب گل ترزیق ٭
قیفال۔ نام ایک رگ کا جسکے فصد کرنے سے خون سر اور رو و گردن کا آتا ہی۔
قیتول۔ مطلق قلعہ اور بادشاہی مقام۔
قیل۔ بکسر اول کلام و سخن اور نام ایک جنگل کا اور تر مستی جو درخت صنوبر سے ٹپکے
قیل۔ بفتح اول بادشاہ اور اقیال اُسکی جمع ہی۔
قیام۔ قائم ہونا۔ استادہ ہونا۔ توحید۔ متفق بر وحدتش ہر خاص و عام
قائل یکتائیش خلقت تمام + از سر اخلاص بر نام خدا + جان و دل سازد
فدا اہل نام + سرنگون دارد یکی در بندگی + مثل سرو استادہ دیگر قیام +
قیم۔ جمع قیمت بہت سی قیمتین۔
قیم۔ بکسر اول و تشدید ثانی برپا رکھنے والا۔ قائم رکھنے والا۔
قیوم۔ بفتح اول و تشدید ثانی بہت ہمیشہ قائم ہونے والا یہ نام نامی
گرامی حق سبحانہ تعالے سے ہی۔ توحید۔ سکند تقسیم قاسم رزق مقسوم +
به بخشد بندگان را رزق معلوم ٭ حکومت میکند آن کارفرما + بهر ملک
بهر مرز و بهر بوم ٭ نه فاسق ماند مایوس از عنایت ٭ نه فاجر ماند از الطاف
محروم ٭ خدا حاجت روا و خلق محتاج ٭ خدا فرمان روا و خلق محکوم +
بهر وصف ست آن خلاق موصوف ٭ بهر اسم ست ذات پاک موسوم ٭
کبیرست و عزیزست و قدیرست ٭ توانا و قدیم و حی و قیوم ٭
قیطون۔ مشہور ہی جو کلابتون سے بنکر کپڑے کے دامنون کو لگاتے ہین۔
قیروان۔ بفتح نام ایک شہر کا ہی نواحی افریقہ مین
قیروان۔ بکسر اول معرب کاروان۔
قین۔ عربی مین آہنگر یعنی لوہار اور ترکی مین منکوحہ عورت

اور تلوار اور چھری کا نیام۔
قیزہ۔ لنگوٹا جو کشتی گیر باندھتے ہیں۔
قیصریہ۔ اصفہان میں ایک بازار کا نام ہے۔
قیمہ کر۔ ریزہ ریزہ کرنا گوشت کا بند سے بند جدا کرنا۔
قیلہ۔ قیلولہ۔ بیائے مجہول دن کے دوپہر کے وقت ایک گھنٹہ سو رہنا۔
قیلہ۔ بیائے معروف ایک بیماری کا نام ہے جس سے ایک خصیہ مرد کا بڑا ہو جاتا ہے۔
قیدافہ۔ نام نوشابہ جو سکندر رومی کے وقت ملک بردع کی فرمانروا تھی اور سکندر خود بلباس سفیر اُسکے پاس گیا اور پہچانا گیا۔
قینچی۔ مقراض جس سے کاغذ و کپڑا وغیرہ کترتے ہیں یہ لفظ ترکی ہے۔ ملا فوقی یزدی۔ حکیم سوزنی آن تیز قینچی فطرت ۔۔ کہ بود ہ ابرہ ہز نیش قینچیه آستر مہ اگرچہ درفن ہزل از عبید افزون بود ۔۔ لیک در دوباد رگ من بادہ ترم +
قیاسی۔ جو بات از روے قیاس ہو یعنی سوچ سمجھکر کی گئی ہو۔
قیدی۔ قید کی حالت میں پابہ زنجیر۔
قیمتی۔ قیمت سے ملنے والی چیز۔
قی۔ معدے کا اچھلنا کھایا ہوا کھانا منہ کے راستے سے نکل آنا۔
قیسی۔ نام ایک میوہ کا ہے جو زرد آلو کی قسم سے ہے۔
قیروطی۔ یونانی زبان میں موم روغن۔

دوسری فصل

اردو لغات کے بیان میں

واضح ہو کہ اس فصل کے متعلق کوئی اُردو لغت دستیاب نہیں ہوا اور جو نفائس اللغات وغیرہ میں درج ہیں سب عربی و فارسی ہیں جو پہلی فصل میں درج ہو چکے ہیں دوبارہ لکھنا لاحاصل متصور ہوا۔

تیسری فصل

فارسی محاورات و اصطلاحات کے ذکر میں

قاف بالف

قارورہ برج۔ وہ قارورہ جو قلعہ کے برج سے پھینکتے ہیں۔ میر خسرو۔ فلک قارورۂ برجست شد از سے ماہ سیما قدران ۔۔ ملک پروانہ نورست شد از سے شمع جہاندار ان ۔۔
قاضی چرخ۔ مشتری ستارہ جو سعد اکبر ہے۔
قازغانش سرنگون شد۔ پاتیلہ یا دیگ اُسکی الٹ گئی یعنی کمال نقصان ہوا جو کچھ اُسکے پاس تھا سب تلف ہوگیا۔ کڑاہی اُلٹ گئی۔ بیت
ز بلکش اگر گردون دوان ۔۔ قازغان او چرا شد سرنگون ۔۔
قافلہ سالار۔ سرگروہ قافلے کا۔ افسر قوم کا۔ تاثیر۔ غنچہ را چون دل تاثیر جرس بیساز د ۔۔ کہ چمن قافلہ سالار کند بوے ترا ۔۔
قاق شدن تیر۔ بیکار ہونا۔ ناکارہ ہونا۔ محمد سعید اشرف۔ شوخ کماندار من شہرۂ آفاق شد ۔۔ از قدر انداز یش تیر قضا قاق شد ۔۔
قادر انداز۔ قادر دست۔ وہ تیر انداز جسکا تیر نشانہ سے خطا نکرے۔ حکیم زلالی۔ یکے ابرو کمانے قادر انداز ۔۔ یکے آماج تیر ترکش ناز ۔۔ میر خسرو۔ تیر کز مو درست وجستی وصاف ۔۔ بر جستی از نگاہ تنگان ۔۔ زان خطا یا سواز قادر دست ۔۔ چیست چیست تیر شست +
قانون نواز۔ قانونی۔ قانون بجانے والا اور قانون ایک ساز کا نام ہے جو مطرب بجاتے ہیں۔ محمد افضل ثابت۔ آورد مطرب بزم مجموعۂ نشاط ۔۔ دیدیم ساز صحبت قانون نواز را ۔۔ سیفی۔ زبسکہ دلبر قانونیم صفا دارد ۔۔ بر اہل حسن بقانون گرفتہا دارد ۔۔
قائم انداز۔ جو شخص شطرنج اور نرد کھیلتے ہیں اُستاد ہو کسی سے مات نہ کھائے اور آدمی بہادر و دلیر۔ نظامی۔ توانکہ کہ من شوی دستیاب ۔۔ زن بیوہ را دادہ باشی جواب ۔۔ من از با تو چرپیچم بکام کین ۔۔ بوم قائم انداز روے زمین ۔۔
قاج فروش۔ جو شخص خربزہ ہندوانہ خیار وغیرہ کے ٹکڑے کر کے پھانکیں بیچتے ہیں۔ طاہر وحید۔ زقاجی کہ جانان بیاران فروخت ۔۔ دل لخت لخت من از غصہ سوخت ۔۔ ولہ۔ عدو خواہ باشد جوان خواہ پیر ۔۔ بیک قاج او گردد از عمر سیر ۔۔
قاشق تراش۔ چمچہ بنانے والا۔ طاہر وحید۔ چگویم از ان یار قاشق تراش ۔۔ ندیدم کہ قاشق بسوزد چو آتش ۔۔
قافلہ کش۔ قافلہ کھینچنے والا۔ قافلہ کشیدن۔ قافلہ کھینچنا
قافلہ گاہ۔ مقام کاروان کا۔ شاہ محمد ہروی۔ او قافلہ کش متاع دین را ۔۔ حافظ رہ سنت مبین را ۔۔ درویش والہ ہروی۔ عشق ما قافلہ حسن کشد بہرہ چشم ۔۔ محمل ہر کہ بنی دل والہ جرس است ۔۔ محمد قلی جامع۔ از بس دو دل مردم برہست چشم براہ ست ۔۔ در کوے بتان نقش قدم قافلہ گاہ ست ۔۔
قاقم پوش۔ سفید پوش آدمی۔ عرفی۔ بصبح قاقم پوش و بشام اکسون باف ۔۔ بہ صبح آب فشان و بچشم آتشبار ۔۔
قاصرات الطرف۔ وہ عورتیں جو سواے اپنے شوہر کے کسی اور کی طرف آنکھ اُٹھا کر نہ دیکھیں۔
قاقم اندام۔ معشوق کی تعریف میں بولا جاتا ہے۔ میر خسرو۔ قاقم اندام را اشارت کرد ۔۔ تا شود سوے پردہ راہ نورد ۔۔

قفل وسواس - ایک آہنی چیز بنی ہوئی ہوتی ہی جسکا باندھنا اور کھولنا تعالی انتقال سے نہین ہوتا ہندی مین اسکو گورکھ دھندا کہتے ہین - اوصاف والہ - قفل وسواس ست درکف رشتہ آمال ما + بیشتر و صد جا گرہ تا یک گرہ وا میشود ❊

قفاگیران - دادخواہان و مظلومان - حکیم نزاری - ز سوز سینہ پیران تیر سید ❊ بحشر از قفاگیران تیر سید ❊

قفل بردہان و دست کسے زدن - خاموش کرانا - حسین ثنائی - آن حلیم مین کہ قفل الحذر + بردہان و دست مہمان مینہم ❊

قفل بزبان کسی انداختن و زدن - خاموش کرنا بولنے نہ دینا - کمال اسماعیل - عقل را دراک صنعت دیدہ ہا بردوختہ ❊ نطق را وصف تو قفلی بر زبان انداختہ ❊

قفل برلب خود نہادن - خاموش ہونا چپ کرنا - باقر کاشی - قفل ابدی برلب خاموش نہادم + یعنی بجہان محرم یک راز ندیدم +

قفل پیچیدن - قفل مروڑنا تالی کے بغیر کھولنا - صائب - عاجزم از باز کردن ہاے آن بند قبا ❊ ورنہ قفل صد در گلزار پیچیدہ ام ❊

قفل دررہ بودن - رستہ بند ہونا - ملا طغرا - خضر چو دید کہ قفل است در رہم ز رفیق ❊ کلید تفرقہ بر پردہ بیابان زد ❊

قفیز سر آمدن - پیمانہ بھرجانا - عمر آخر ہونا مرگ کا پیغام آنا - حکیم فردوسی - بشد خستہ رستم و لماک نیز ❊ برآمد ز سر دو سپہبد قفیز ❊

قفاگاہ - پیٹھ پیچھے سر کا پچھلا حصہ - میر خسرو مخلون کی تعریف مین - پشت چو گیتی سزا سے در فش ❊ جرم قفاگاہ سزاوار کفش ❊

قفس سیمابی - آسمان - سالک یزدی - منم آن مرغ کہ در بیضہ ندارم آرام ❊ بیقراری کشدم در قفس سیمابی ❊

قفل رومی - باربد کی تیس لحن مین سے ایک لحن کا نام ہی - نظامی - چو قفل رومی آوردی در آہنگ + کشادی قفل گنج از روم از زنگ ❊

قاف بالام

قلم دست و پا - شتالنگ اور آرنج کی ہڈی - نعمت خان عالی - قاصد نہ مژدہ نہ پیامے نہ وعدہ ❊ یا ے قلم چہ شد قلم پا شکست ست +

قلعۂ سرخاب - عراق مین ایک قلعہ کا نام ہی - شیخ - زلفت گرفت مملکت ملک روم و شام + زنگ ضیات قلعۂ سرخاب فتح کرد ❊

قلعۂ گلاب - کیلویہ پہاڑ پہ ایک قلعہ ہی ایران کی سلطنت کے ماتحت اور بہ بی میعاد کے قیدی وہان رکھے جاتے ہین - طاہر وحید - از ہجران معشوق عاشق در اضطراب ست ❊ بلبل ز رشک مینا در قلعۂ گلاب ست ❊

قلم سرب - انگریزی قلم جسکو پنسل کہتے ہین تاثیر عالم گیری مین محمد ساقی مستعد خان نے لکھا ہی کہ چھبیسوین شوال سنہ بتیس جلوس عالمگیری مین بادشاہ متوجہ تسخیر قلعہ بیجاپور تھا اور شاہی مورچال کا ملاحظہ بادشاہ بذات خود فرمارہا تھا کہ میر عبدالکریم المخاطب با میر خان نے یہ بدیہی مصرع سرب کے قلم سے لکھ کر حضور مین پیش کیا - ع - فتح بیجاپور زود ی میشود ❊ (۱۰۹۹) اور عرض کی کہ اس مصرع سے تاریخ سنہ ہجری حاصل ہی بادشاہ سنکر خوش ہوا اور فرمایا کہ خدا ایسا ہی کرے چنانچہ اسی ہفتہ مین قلعہ فتح ہوا اور سکندر بیجاپور حاضر ہوگیا

قلعہ الموت - یہ قلعہ قہستان مین ہی اور حسن بن زید نے ۲۴۶ھ مین بنا کیا

قلم دست - ہاتھ سے کام کرنے والا کاتب و مصور و نقاش وغیرہ - طغرا - شقائق کش لوح جام و سبو ❊ قلم دست طراحی رنگ و بو + جو افگند سایہ قلم دست تاک ❊ رقم شد خط جام بر لوح خاک ❊

قلب اندود - قلب کار - ملمع کی ہوئی چیز جو اندر مس یا چاندی ہو اور اوپر سونا اور ملمع بنانے والا - میر خسرو - ہر کجا قلب کار دزد بود ❊ گر سیاست کنند مزد بود ❊

قلم فولاد - لوہے کا قلم جو مشہور و معروف ہی - صائب - کار من در گرہ از پرہنری افتادست ❊ دارد از جوہر خود موقلم فولادم ❊

قلعۂ بیدر - یہ ایک قلعہ شیراز کی پہاڑ پر ہی و کنایۃً دختر باکرہ یعنی کنواری لڑکی - سعید اشرف - خویش را بہر چہ وابستہ دختر کردن ❊ نفس را بندی این قلعۂ بیدر کردن ❊

قلعی گر - وہ شخص جو برتنون پر قلعی کرتا ہی - ملا طغرا - چو دید سپیدی ز دیگ و طبق ❊ بہ قلعی گر استاد بر یک نسق ❊

قلمکار - وہ چیز جو قلم سے لکھی گئی ہو یا منقش ہو کاغذ کپڑا وغیرہ - محمد سعید اشرف - سبز و نہ ا سے قدح نیست درد خانۂ ما ❊ ز داغ بادہ قلمکار گشتہ جامۂ ما ❊

قلم نیشکر - گنا اور گنے کا ٹکڑا - سالک یزدی - از بس بیاد آن لب شیرین گداختیم ❊ طوطی کمان کند قلم نیشکر مرا ❊

قلم نرگس - نرگس کی شاخ -

قلم تراش - کارد - چاقو جس سے قلم بناتے ہین - محسن تاثیر - نگر قلم تراش چہ با خامہ میکند + از ہمدان خامہ کیے در امان مباش +

قلم تاک - انگور کے درخت کی لکڑی کا ٹکڑا جو بجاے تخم زمین مین گاڑتے ہین - راضی - با ترسی کن کہ شہرۂ دہر ❊ قلم تاک از خط جام ست ❊

قلم جدول - وہ قلم جس سے جدول کشی کرتے ہین - اشرف -
غیر حرف راستی در نامہ من ثبت نیست * سر نوشتم از قلم جدول اگر تحریر شد *

قلب داران - بہادر و دلاور لوگ اور وہ بہادر جو درمیانہ فوج مین رہتے ہین - نظامی - کشیدند صف قلبداران روس * ازان قلبی آراستہ چون عروس *

قلم از چیزی بستن - قلم بنانا قلم راست کرنا - ملا طغرا در تعریف بغداد
مصور بہ نقاشی آن بقاع * قلم بستہ از موے خط شعاع *
ظہوری - سحر چون در فن صورتگری بست * قلم از طرہ حور و پری بست *

قلم افشان - وہ قلم جس سے کاغذ پر سونے کی افشان کرتے ہین -
مقیم بلخی - دار دانگشت تو معنی رنگین مفید * در صف اہل سخن چون قلم افشانم *

قلم امتحان - آزمایش کا قلم - طالب آملی - خوشیم خوش کہ زخون بہاے خاطر خویش * رقم طراز قلمہاے امتحان گشتم *

قلم برگرفتن و برداشتن - معاف کرنا حساب سے نکال دینا - مرفوع القلم کرنا اور اسی قسم سے ہے جملہ بر فلان قلم نیست - صائب -
خشکی سودا قلم در ناخنش بشکستہ ست * آنکہ میگوید قلم بر مردم دیوانہ نیست * ولہ - در جنون گفتم قلم بردار د از من روزگار * در بن ہر ناخنم سودا نیستانی شکست * نظامی - ز دیوان دہقان قلم برگرفت * ز بے مایگان کم درم برگرفت *

قلم بر سر زدن - مرادف قلم زدن - صائب - ما سیہ بختان تفاوت از قلم بر سر زدیم * ہمچو مژگان سر زنیک چاک گریبان بر زدیم *

قلمبند کردن - لکھنا اور لکھتے لکھتے بس کر دینا - ذوقی - نکرد دو نقطہ کم یا زیادہ * کہ در تحریر شد نوک قلم بند *

قلم پاک کن - وہ کپڑا جس سے قلم پونچھتے ہین - ملا طغرا - بی خودی شکل قلم در تراش * بسوسن قلم پاک کن ہم قماش *

قلم تراشیدن - قلم بنانا - درست کرنا - نظامی - دبیران نگارنا بروز سپید * قلم چون تراشند از مشک بید * نہان ہر آنچہ را بر زبان رکنجہ زین تا نیجا را برند *

قلم تیز کردن - قلم کو قط لگانا لکھنے کے لائق کرنا - نعتیہ از مولف -
رقم کرد نام محمد نخست * دبیر فلک چون قلم تیز کرد *

قلم جدید کردن - تحریر کرنا - رقم کرنا - میر خسرو - تیر فلک کو بقلم موشگافت * کرد قلم جہد شناسے او یافت *

قلم داخل شدن - کسی کے لکھے ہوے خط کو جعل بنا دینا - صائب -
کس نمیساز د قلم داخل خط ہستا در اہرہ مدد در خط مشکین تو *

قلم در سیاہی نہادن - کسی کی بدبختی لکھنے پر مستعد و آمادہ ہونا - سعدی - بزرگیش سر در تباہی نہاد * عطارد قلم در سیاہی نہاد *

قلم در کشیدن - خط کش کرنا - محو و ناپدید کرنا - سعدی - شنیدم کہ شاپور دم در کشید * چو خسرو بنامش قلم در کشید *

قلم راندن - قلم چلانا - لکھنا - رقم کرنا - نظامی - چو خطش قلم راند بر آفتاب * بکے جدول انگیخت از مشکناب *

قلم رفتن - مقدر ہونا - تقدیر مین ہونا - میر خسرو - مینویسد زخون من تعویذ * چہ توان کرد چون قلم رفتست *

قلم زدن - لکھنا - تحریر کرنا - و خط کش کرنا - درویش والہ ہروی - قلم زد سال تاریخ جلوسش در سفر مالک * یکے از ظالمان کم گشت تاریخ وفات او * حافظ - حافظ آنروز طربنامہ عشق تو نوشت * کہ قلم بر سر اسباب دل خرم زد *

قلمزن - لکھنے والا کاتب - محرر منشی - سعدی - قلمزن نکو دار و شمشیر زن * نہ مطرب کہ مردی نیاید ز زن *

قلم ساختن - قلم کر دینا - کاٹ دینا - صائب - ازان شد انگشت ناز کتر * کہ ہر کس پا برون از راہ بگذارد قلم سازد *

قلم سر کردن - لکھنے کے لیے مستعد ہونا - لکھنے لگنا - صائب - اگر ذوق سخن داری برو صائب قلم سر کن * کسے این عقدہ را بے ناخن انجاز نگشاید *

قلم سوسن - شاخ سوسن - محمد قلی سلیم - ز لطف جوہر آتش بہ عنصر سند ورا * ہنوز چون قلم سوسن استخوان سبز ست *

قلم شدن - کٹ جانا - الگ ہونا - محسن تاثیر - بجو پیچید تلقل از سواد خال ہندو یت * قلم شد دارچینی از حدیث تندی خو یت *

قلم کردن - کاٹنا - دو ٹکڑے کرنا - تراشنا - محمد اسحاق شوکت - رسانیدم دو مصرع را بہم تیغ دو دم کردم * تہی مغزی کہ ہمچون نی بدست آمد قلم کردم *

قلم مو - بالون کا قلم - یا باریک قلم - سعید اشرف - برائے آنکہ کشم در انتظار ترا * بدیدہ چون قلم مو شدست مژگان جمع *

قلم دیدہ - جو بات تحریر مین آ چکی ہو - نظامی - نظامی کہ در رشتہ گوہر کشید * قلم دیدہ ہا را قلم در کشید *

قلم کش - [illegible] - محسن تاثیر - ابروے او اشارہ بہ عاشق [illegible] * [illegible] قلم [illegible] *

قلندر [illegible] - [illegible] *

قلابۂ سیخ کشتی - سیخ کھینچنے کا قلابہ - اسمٰعیل کاشف سروی کی تعریف مین
بر روے زمین چو طفل در راہ ＊ لغزک میخورد و پر لیوا دہ ＊ از دیدہ بسوے
طرف و ابان ＊ قلابہ سیخ کشتی ست مژگان ＊

قلم بستن بر کسی - تحریر سے باز رکھنا لکھنے نہ دینا - نظامی - در از رنگ
ارتقاش چینی پرند ＊ قلم بست بر مانی نقشبند ＊

قلم شکستن بر کسے - حوالہ کرنا اور سپرد کرنا قلم کا کسی کو - نظامی -
بس انگہ قلم بر عطارد شکست ＊ کہ امی قلم را نگیرد بدست ＊

قلم شنجرفی - سرخ رنگ کی تحریر - آرزو - شدہ از زیاد رفتش خون
بالا ＊ مژہ من قلم شنجرفی ست ＊

قاف با میم

قمار و راہ قمار - یہ ایک مثل ہی کہ قمار وہی کھیلے جو کھیل جانتا ہو
اور اسکے طریق سے واقف ہو - ملا طغرا - دلا بہرو وفا پیش دیگر
دست مبر ＊ گفتہ اند حریفان قمار و راہ قمار ＊

قمار باز - جوا کھیلنے والا -

قمر سُم - گھوڑے کی تعریف مین کہا جاتا ہی - حکیم زلالی - ز کوب
نعل اسپان قمر سم ＊ رہ از رفتار شان در راہ نو گم ＊

قمار خانہ - جس جگہ جوا کھیلا جائے - مؤلف - آیا جو اس جگہ
وہ ہار گیا ＊ دنیا ایسا قمار خانہ ہی -

قاف با نون

قندیل ترسا - چاند اور سورج -

قند آب - شربت اور قندی شراب -

قندیل شب - رات کی سیاہی اور چاند -

قنطر کردن اسپ - گھوڑے کو قیزہ کرنا -

قندیل سیخ - قندیل کی صورت جو سیخ سے بناتے ہین - نظامی - نزا با من
دم خوش درنگیرد ＊ بہ قندیل سیخ آتش درنگیرد ＊

قند دزدی شیرین باشد - مثل ہی ہندی مین بھی کہتے ہین چوری کا
گڑ میٹھا - میر خسرو - بود در خواب کہ بوسش کردم ＊ قند
دزدی چہ بلا شیرین ست ＊

قند مکرر - دوبارہ مصری جس چیز کی دوسری دفعہ لذت
حاصل کی ہو - طاہر غنی - دیدہ چو آن دو لب شیرین دید ＊ معنی
قند مکرر فہمید ＊

قندیل تیر - ترکش جسمین تیر رکھے جاتے ہین - طاہر وحید - لنگہ
قشد بلطف تو اش دستگیر ＊ شد دلش از نالہ چو قندیل تیر ＊

قندیل دو سر - کنایتاً آسمان -

قندک - چورون اور عیارون کا چراغ جسکی روشنی بہت کم
ہوتی ہی - حکیم زلالی - باد از باد شود شمع و تنش و ستہ گل ہمچو
آن دزدکہ از گزند رباید قندک ＊

قند دوبارہ - قند مکرر جسکے معانی بیان ہو چکے ہین - محسن تاثیر
مگر زان دولت قند دوبارہ ＊ بہ حسرت چید شکر پارہ پارہ ＊

قند پارسی - ایک قسم کے قند لطیف کا نام ہی - حافظ - شکر شکن
شوند ہمہ طوطیان ہند ＊ زین قند پارسی کہ بہ بنگالہ میرود ＊

قند عسکری - ایک قسم کے لطیف قند کا نام ہی - باقر کاشی - پیچان
تر ست زلف تو یا گفتہاے من ＊ شیرین بہ ست لعل تو یا قند عسکری ＊

قند گرجی - قند محمودی - قند مصری - قند کے اقسام ہین - حافظ -
کہ نام قند مصری بر د آنجا ＊ کہ شیرینان ندادند انفعالش - محسن تاثیر
ہمہ ز شرم عارضت از ہالہ زندانی شود ＊ قند گرجی از لب
لعل تو نصرانی شود ＊ حکیم زلالی - لبش تا سینہ در شکر
نشستہ ＊ تبسم قند محمودی شکستہ ＊

قاف با واو

قوام گرفتن کار - درستی و آراستگی پانا کام کا - شعر - اگرچہ راے
قوام از جہان شدہ بہت برون بہ زراے اشت ہمہ کارہا گرفتہ قوام ＊

قوی بال - قوی حال - قوی بازو - قوی پنجہ - قوی دست - قوی ار
قوی زور - قوی شوکت - یہ سب تعریفی جملے ہین - نظامی - عنان تکاور
بمیدان سپرد ＊ نمود آن قوی دست را دستبرد ＊ قوی دست را
فتح شد رہنمون ＊ بر نہار خواہی در آمد زبون ＊ میر خسرو - یکے را
ز شاہان صاحب سریر ＊ قوی دست از دشمنان شد اسیر ＊ سعدی -
اگرچہ ممکنت قوی حال بود ＊ خداوند جاہ و زر و مال بود ＊ و لہ -
بکارہاے گران مرد کاردیدہ فرست ＊ کہ شیر شرزہ در آرد بزیر خم کمند ＊
جوان اگرچہ قوی بال و پیلتن باشد ＊ بجنگ دشمنش از بیم بگسلد
پیوند ＊ ملا نادم لاہیجانی - سرتاسر آفاق جہان معرکہ آراست ＊
استاد قوی پنجہ و شاگرد قوی زور ＊

قاف با ہاے

قہقہ صبح - صبح کی خندیدگی -

قہقہ شیشہ - شراب کے شیشے کی آواز - عرفی -
قہقہ شیشہ طبل کوچ زند ＊ بر سر ہوش خیمہ
اندازد ＊

قاف با یاے

قیمت سنج۔ قیمت گر۔ قیمت مقرر کرنے والا۔ ف۔ گفت چند متاع گوہر و گنج + کہ نیاید بوہم قیمت سنج + بیش کردن بگو برلے چر است + خواست باید ہر انچہ باید خواست +

قیامت زار۔ قیامت کدہ۔ قیامت کا مقام۔ جاے آفت و رنج۔ عرفی۔ من قیامت زار عشقم دیدہ کو تا بنگرد + صد بہشت و دوزخ از ہر گوشہ صحراے من + درویش والہ ہروی۔ دل کہ بس کہ بسیر دیدیم پریشان ترساخت + این قیامت کدہ را عکس آباد نکرد +

قید فرنگ۔ فرنگیون کی قید۔ جو مشہور ہے۔ محسن تاثیر۔ دلگیری وطن شد دصید فرنگ + در غربت ست ہیچ حنا آید رنگ ما +

قیامت کردن۔ کوئی امر عجیب و غریب وقوع مین لانا۔

قیامت پیشہ۔ قیامت پیکر۔ قیامت جلوہ۔ قیامت خرام۔ محبوب کی تعریف مین بولتے ہین۔ صائب۔ فلک اسبزہ خوابیدہ داند قدر رعنائیش + قیامت جلوہ گر نازقد و بالا اینچنین باید + اللہ روی شمع محفل امشب آن شوخ قیامت پیکرست + بر چراغ شہ شکست رنگ صبحی دیگرست +

قیامت نگاہ۔ محبوب کی تعریف مین۔ ارادت خان واضح۔ چشم بدستکسی برسر جنگ ست اینجا + از قیامت نگہی جور فرنگ ست اینجا +

قیطول زمرد شاہ۔ یہ ایک قلعے کا نام ہے جو زمرد شاہ باختری نے قندہار کے علاقہ مین تعمیر کیا تھا چونکہ اُسنے اپنے وقت خدائی کا دعوے کیا تھا نادر شاہ ایرانی نے اُسکی عمارت کو گرا دیا مگر آثار اُسکے ہنوز باقی ہین۔

قیمہ سموری۔ ایک قسم کا قیمہ ہے جو نہایت باریک ہوتا ہے۔ محسن تاثیر۔ گر زلف عنبرین دل کاوہ نگاہم میکشد + قیمہ سموری آن خط سیاہم میکشد +

قیمت مندی۔ نرخ و قیمت و بہا۔ نظامی۔ زگوہر شفشن رستادہ ہراسد + کہ قیمت مندی گوہر شناسد +

چوتھی فصل

اُردو محاورات اور مصطلحات کے بیان مین

قاف با الف

قابو پر چڑھنا۔ قابو مین آنا۔ کسی کے بس اور اختیار مین ہونا۔ ذوق۔ عشق چڑھ کے چھپ پہ نکوئی سمجھ انسان چڑھا + اسکے قابو پہ چڑھا تو ہی نادان چڑھا + ف۔ بلا کالی ہے وہ زلف گرہ گیر + نہ آنا اُسکے قابو مین نہ آنا +

قارورہ دیکھنے والا۔ طبیب و معالج جو بیمارون کا علاج کرتا ہے۔

قارورہ ملنا۔ دو شخصون کا پوشیدہ اتفاق ہونا دوستی قائم ہونا۔ رابطہ بڑھ جانا۔

قاضی گلہ نہین کریگا۔ اگر فلان کام کروگے تو قاضی اُسکی شکایت نہین کریگا وہ کام شرع کے خلاف نہین ہے۔

قافیہ بندی کرنا۔ قافیہ ملانا۔ بے مضمون شعر نہ لکھنا صرف قافیہ ساتھ قافیہ ملا دینا۔ تک بندی کرنا۔ تک جوڑنا۔ ف۔ شعر لکھنے کی لیاقت ہے کہان + قافیہ بندی کیا کرتے ہین ہم۔

قافیہ تنگ کرنا۔ اشعار مین ایسے قافیے لانا جسکے جواب مین دوسرا تنگ آجائے۔ حیران و پریشان کرنا۔ دق کرنا۔ ستا مارنا۔ عاجز کر دینا۔ شاہنامہ اُردو۔ رہو تم مین جاتا ہون اب بہر جنگ + کرون تیغ سے قافیہ اسکا تنگ۔ مؤلف۔ کھلی مجلس مین ستم کرتے رہے ہین + رقیب روسیہ کا قافیہ تنگ +

قانون چھانٹنا۔ بحث کرنا۔ دلیل کرنا۔ بیجا حجتین کرنا۔

قائزہ کرنا۔ منہ زور گھوڑے کو لگام دیکر اُسکی دُمچی پر باندھ دینا تا کہ گھوڑا اسرا اونچا رکھے اور کہین جا نہ سکے اور کسی پر حملہ نہ کرے۔

قائل معقول کرنا۔ لاجواب کرنا۔ بند کر دینا۔ جھوٹا ثابت کر دینا۔

قائم اُٹھنا۔ شطرنج کی بازی مین دونون فریق کا برابر رہنا کسی کو مات نہ ہونا۔

قباحت نکلنا۔ بُرا نتیجہ پیدا ہونا کسی کے حق مین بُرا ہونا۔ دقت پیدا ہونا۔

قبالے لے ڈالنا یا ڈھیلے کروا لینا۔ کسی پر پورا قبضہ پا لینا۔ اُسکے گھر قبالے کا غذ تک نہ چھوڑنا۔ لُٹا ڈالنا۔ بے عزت کرنا۔

قاضی الحاجات۔ حاجتون کا پورا کرنے والا۔ خداے تعالے جل شانہ اور زر و سیم۔ صفدر رقو قانی۔ زر کو کوسے خدا نہین کہتا + لیک کہتے ہین قاضی الحاجات +

قائم مزاج۔ جو شخص مزاج کا مستقل ہو۔

قائم مقام۔ مختار کار۔ بہ سربراہ۔ عوضی۔

قانون گو۔ صدر پٹواری جسکے پاس تمام علاقہ کی زمینون کا حساب رہتا ہے ایک تحصیل مین رہتا ہے اور ایک صدر ضلع مین۔

قاضی قدوہ۔ بڑا معتبر صاحب اولاد۔

قاضی کا پیادہ۔ کچہری کا سپاہی۔

قاف با باے

قبر کھودنا۔ قبر بنانا۔ قبر کھود دینا۔ دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودنا نہایت زد و کوب کرنا۔ لوتھ ڈال دینا۔ مارتے مارتے ادھ موا کر دینا۔

قبر کے مُردے اُکھاڑنا۔ مُردون کا ذکر کرنا۔ خوابیدہ فتنہ کو بیدار کرنا۔

پترا نے جھگڑون کو تازہ کرنا۔
قبر مین پانون لٹکائے بیٹھے ہین۔ قریب المرگ ہین۔ مرنے کو تیار رہین۔ بہت ضعیف ہوگئے ہین۔

قاف باطاے

قحط پڑ جانا۔ کال پڑ جانا۔ غلہ گران ہو جانا۔

قاف بادال

قد نکالنا۔ بڑا ہونا۔ جوان ہونا۔ بالغ ہونا۔ ؎ جھکا دی گردن تسلیم ہر سرو خیابان نے ٭ نکالا قد موزون جبکہ اُس سرو خرامان نے ٭
قدرت رکھنا۔ لائق ہونا۔ کسی کام کی قابلیت رکھنا۔
قدم اُٹھا کر چلنا۔ جلدی جلدی چلنا۔ تیز چلنا۔
قدم بڑھانا۔ جلد جلد چلنا۔ مداخلت کرنا۔ اپنی حد سے بڑھنا۔ دخل دینا۔ پیش قدمی کرنا۔ قبضہ بڑھانا۔ مؤلف۔ سالکان طریق حق طلبی ٭ ہر قدم پر قدم بڑھاتے ہین۔
قدم بقدم چلنا۔ پوری پوری اطاعت کرنا۔ کسی کے قدمون کے نشان پر قدم رکھتے ہوے چلنا۔ مخالفت نکرنا۔ قطعہ از مؤلف۔ جو پیرون کے پیرو ہین اہل سلوک ٭ اطاعت کا کرتے دم دمبدم ٭ رہ راستی مین بصدق وصفا ٭ وہ چلتے ہین اُنکے قدم بر قدم ٭
قدم پکڑنا۔ قدمبوس ہونا۔ قدم چومنا۔ قدم کو ہاتھ لگانا۔ قدم لینا۔ بزرگون کے پانون کو بوسہ دینا۔ بڑون کے قدم چھونا۔ پیرون پڑنا۔ پابوسی کرنا۔ حکیم محمد انور لاہوری۔ سے ملے جو سالک راہ خدا کوئی تمکو ٭ جھکا کر گردن تسلیم اور قدم پکڑو ٭ مولانا اکبر۔ جو ہو بیکسون کا کوئی دستگیر ٭ قدم چوم لو ایسے دلدار کے ٭ انشاء اللہ خان۔ قدم کو ہاتھ لگاتا ہون اُٹھ کہین گھر چل ٭ خدا کے واسطے تو اتنے پانون مت پھیلا ٭
قدم بھاری ہونا۔ منحوس قدم ہونا۔ آتش۔ قدم بھاری ہمارا ہوگا ہمیر باغ عالم مین ٭ وہ ٹہنی پھٹ پڑیگی جسپر اپنا آشیان ہوگا۔
قدم دکھانا۔ رفتار دکھانا۔ چال دکھانا۔
قدم رکھنا۔ زمین پر پانون رکھنا۔ کسی کام مین دخل دینا۔ مداخلت کرنا۔ قطعہ از مؤلف۔ دم مین دم جب تلک ہو ذکر خدا بر زبان اپنے دمبدم رکھنا ٭ راہزن جسمین نفس و شیطان ہین ایسے رستے پہ سست قدم رکھنا ٭
قدم رنجہ فرمانا۔ قدم رنجہ کرنا۔ کسی کے گھر جانا۔ تشریف ارزانی فرمانا۔ تکلیف کرنا۔ تکلیف اُٹھانا۔ شعر۔ مسیحا قدم رنجہ فرمایئے ٭

کہ ہے آخری وقت بیمار کا ٭ نہ رہے جانے نیابت پر لحد ٭ جو رکھتا ہے وہ شوق دیدار کا
قدم قدم جانا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔
قدم گاڑنا۔ قبضہ کرنا۔ پانون جمانا۔ دخل لینا۔ مضبوطی کرنا۔
قدم لگنا۔ قدمون کو بوسہ دینا۔ پانون چھونا۔ کسی کی پناہ و حفاظت مین آنا۔
قدم مارنا۔ تیز چلنا۔ پانون اُٹھا کر چلنا۔ آتش۔ عرصہ جنگ سے خونریز زمین ہے یہان کی ٭ بیشہ عشق مین مردون کی طرح مار قدم ٭
قدم نکالنا۔ گھوڑے کو چال سکھانا۔ قدم چلنے کی تعلیم دینا۔
قدم باز۔ خوش رفتار تیز قدم گھوڑا وغیرہ۔

قاف باراے مہملہ

قرار آنا۔ آرام ملنا۔ چین پڑنا۔ تسلی ہونا۔ مؤلف۔ غیر جاتے ہین جبکہ محفل سے ٭ اپنے دل کو قرار آتا ہے ٭
قرار پانا۔ ٹھہرنا۔ مقرر ہونا۔ فیصلہ ہو جانا۔ مولانا اکبر الٰہ آبادی۔ رقیب جائیگا جسوقت یار آئیگا ٭ قرار اپنا دل بیقرار پائیگا ٭
قراقر ہونا۔ پیٹ بولنا۔ نفخ ہونا۔
قرآن اُٹھانا۔ سر پہ قرآن رکھنا۔ قرآن پر ہاتھ رکھنا۔ قرآن کی قسم کھانا۔ رند۔ جس بات کی چاہو قسم اک مرتبہ لے لو ہر بار تو قرآن اُٹھایا نہین جاتا ٭
قرآن ٹھنڈا کرنا۔ بسبب کہنہ ہو جانے اور بوسیدہ ہو جانے اوراق کے دریا مین ڈال دینا۔
قرآن کا جامہ پہننا۔ قرآن کو اپنا لباس بنا لینا۔ ہمہ تن قرآن بنجانا۔ نہایت نیک و پارسا بننا۔ کسی امر مین یقین دلانے کے لیے بھاری تدبیر کرنا۔ میر۔ مت جانیو کہ ہوگا یہ بے درد اہل دین ٭ گر آئے شیخ پہن کے جامہ قرآن کا ٭
قرآن کا دور کرنا۔ دو حافظون کا باری باری قرآن پڑھنا ایک دوسرے کو سنانا۔
قرآن ہدیہ کرنا۔ قرآن فروخت کرنا۔
قربان جانا۔ قربان ہونا۔ تصدق ہونا۔ نثار ہونا۔ واری واری جانا۔ کسی پر مرنا۔ نہایت محبت کرنا۔ رباعی از مؤلف۔ محمد چہرہ گر ہمکو دکھائین ٭ رخ پرنور سے پردہ اُٹھائین ٭ بصدق دل دل و جان اپنے دونون ٭ نثار اُنپر کرین قربان جائین ٭
قرض اُتارنا۔ کسی کا قرض چکانا۔ کسی کا حساب بیباق کر دینا۔
قرض اُٹھانا۔ اُدھار دینا یا لینا۔

قرق کرنا - ضبط کرنا کسی کی جایداد کو قرضہ مین -

قرارداد - تصفیہ فیصلہ عہد و پیمان -

قرض حسنہ - بے سود قرض اور وہ رقم جو رشتہ دارون کی غمی وشادیون پر بطور امداد دی جاتی ہے -

قرار واقعی - پورا پورا ٹھیک ٹھیک - قطعی - کامل -

قاف با زاے معجمہ

قزاق اجل کا - موت کا فرشتہ - مصرع نظیر - قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا ٭

قاف با سین مہملہ

قسمت اُلٹ جانا قسمت پھوٹ جانا - بھاگ پھوٹنا - نحوست آنا عورت کا خاوند مر جانا - کوئی سخت صدمہ پہونچنا - نقصان ہونا -

قسمت پھرنا - قسمت جاگنا قسمت کھلنا - بھاگ جاگنا - تقدیر کھلنا - طالع چمکنا - طالع مسعود کا دورہ ہونا -

قسمت کا لکھا - تحریر ازلی - قسمت کی خوبی - ذوق - دیکھو قسمت کا لکھا اُسنے پڑھا خط سو بار ٭ دھیان پر سیرانہ مضمون کسی عنوان چڑھا +

قسمت کا ہیٹا - کرم ہین - بدنصیب - کم بخت - کم طالع -

قسمت کرنا - حصہ کرنا - بانٹنا -

قسمت لڑنا - تقدیر کا موافق آنا - قطعہ از مؤلف - اگرچہ محفل دلدار مین ہے ٭ رقیب روسیہ کا دخل بھاری ٭ مگر کرینگے خود وہ صلح ہمسے ٭ اگر لڑ جائیگی قسمت ہماری ٭

قسمت کا پھیر - گردش زمانہ کی تقدیر کا بگاڑ - ناموافقت روزگار - مفتی حیدر لاہوری - وصال یار مین ہے جسقدر دیر ٭ سراپا اپنی قسمت کا یہ ہے پھیر ٭

قسمت کا دھنی - خوش نصیب صاحب قسمت - صفدر فوقانی محبت کی ملے دولت اُسی کو ٭ عزیزو جو کہ قسمت کا دھنی ہو -

قاف با صاد

قصائی کا پلا - موٹا آدمی - جسیم و تجیم -

قصائی کے کھونٹے سے بکری باندھنا - بے رحم بدمزاج آدمی کے ساتھ لڑکی بیاہ دینا - کسی غریب کو خوفناک جگہ پر ڈال دینا -

قصائی کی نظر دیکھنا - قہر کی نگاہ دیکھنا - چشم نمائی کرنا - ڈانٹنا -

قصہ پاک ہونا - جھگڑا ختم ہونا - مقدمہ انفصال پانا - مر جانا - جان سے تنگ آنا - تسلیم ہونا - مفتی حیدر لاہوری - رنج و غم سے چھوٹ کب سکتا ہے خاکی آدمی + جب تلک اس جسم خاکی کا نہ قصہ پاک ہو ٭ ذوق - یا تو پاس دوستی تجھکو بت بیباک ہو ٭ یا مجھی کو موت آجائے کہ قصہ پاک ہو ٭

قصہ کوتاہ کرنا - قضیہ کم کرنا - جھگڑا چکانا - معاملہ ختم کرنا - از مؤلف قصہ کوتہ کرو اے قاتل سر اسکا کاٹ کے ٭ تا کہ جھگڑا ختم ہو اور درد سر جاتا رہے ٭

قاف با ضاد

قضا ادا کرنا - مذہبی فرائض جو وقت پر ادا نہوے ہون ادا کرنا -

قضا پڑھنا - چھوڑی ہوئی نماز کو ادا کرنا -

قضا کرنا - مذہبی فرض وقت پر ادا نکرنا -

قضا سے مرنا - اپنی موت سے مرنا -

قضاے حاجت کرنا - پاخانہ پھرنا -

قضیہ مول لینا - ناحق کسی بلا مین پھنسنا -

قضا کار - اتفاقاً - تقدیر سے -

قضا و قدر - تقدیر الٰہی - خدا کی رضا -

قضیہ دلال - جھگڑا اور فساد برپا کرنے والا -

قاف با طاے مہملہ

قطرہ آنا - بغیر ارادے کے پیشاب کا قطرہ نکل جانا -

قطع تعلق کرنا - علاقہ چھوڑ دینا - غرض نرکھنا - دوستی ترک کرنا - غالب - قطع کیجیے نہ تعلق ہمسے ٭ کچھ نہین ہے تو عداوت ہی سہی -

قاف با لام

قلعی کھلنا - قلعی جاتی رہنا - برتن کا اصلی رنگت پر آجانا - بھید کھل جانا - چھپی بات کا ظاہر ہونا - آتش - ہوگا کبھی جو اُس رخ روشن کا سامنا ٭ قلعی کھلیگی آئینۂ مہر و ماہ کی -

قلعی کھولنا - دوسرے کا عیب و صواب ظاہر کرنا -

قلق رہنا - دل پر صدمہ یا رنج باقی رہنا - ہ - وصل کی رات بھی کچھ دلپہ قلق رہتا ہے + رنگ رخ صبح کے اندیشے سے فق رہتا ہے ٭

قلم اٹھا کر لکھنا - قلم برداشتہ لکھنا - جلد جلد لکھنا - گھسیٹ کر لکھنا -

قلم انداز کرنا - چھوڑ دینا - ترک کر دینا - تحریر مین نہ لانا -

قلم بنانا - قلم کو چھیل چھال کر درست کرنا - تحریر کے لائق بنانا -

قلم بند کرنا - لکھ لینا - درج کر لینا -

قلم پھیرنا - خط کش کرنا - کاٹ ڈالنا -

قلم چلانا - بہت سی کتابت کرنا -

قلمدان دینا - درجہ وزارت کا بخشنا -

قلم کرنا - کاٹ ڈالنا - تراشنا -

قلم لگانا - ایک پودے مین سے شاخ کاٹ کر دوسری جگہ جمانا -

قلم مارنا - کاٹ ڈالنا - چھپک دینا -

قلم ہاتھہ مین نہ اٹھانا - لکھنے کا ارادہ نکرنا - لکھنا موقوف رکھنا -

قلم بازی دینا - تحریر پر گذارہ کرنا - لکھہ پڑھہ کر پیٹ پالنا -

قلمی کرنا - لکھنا - تحریر کرنا -

قلمین چھوڑنا - کنپٹی کے پاس بالون کو نہ منڈانا - قلم کی شکل بنوانا -

قل ہو اللہ پڑھنا - نہایت بھوک لگنا - بھوک سے تنگ آکر خدا کو یاد کرنا -

قل ہو جانا - خاتمہ ہو جانا - ہو چکنا - فاتحہ تکبیر ہو جانا - ناسخ -

وصل کے ایام مین وہ شور قلقل ہو گیا ٭ اب تو ساقی کی جدائی مین مرا قل ہو گیا

قلیا تمام کرنا - خاتمہ کرنا - مار ڈالنا - کام تمام کرنا - برق - کیا

فائدہ جو قلقل مینا کا دور ہی ٭ اپنی فراق یار نے قلیا تمام کی ٭

قاف یا ہاے

قہر توڑنا - بہت غصہ کرنا - خفگی کرنا -

قہقہہ اڑانا - مضحکہ اڑانا - مسخری کرنا - ہنسی کرنا -

قاف یا یاے

قیامت اٹھانا - شور و غل برپا کرنا -

قیامت آنا - آفت یا بلا آنا - مصیبت پڑنا - شوق - پیچ والے کی

شامت آئیگی ٭ سب سے پہلے ہمپر قیامت آئیگی ٭

قیامت توڑنا - ظلم کرنا - نہایت خفا ہونا -

قی آنا - معدہ اچھلنا - کراہت آنا - نفرت معلوم ہونا -

قید لگا دینا - شرط باندھنا - پیچ لگا دینا - مقید یا پابند کرنا -

قینچی باندھنا - پہلوان مخالف کی ٹانگون مین اپنی دونون ٹانگین

ڈالکر مجبور کر دینا - گھوڑے کو دونون رانون کے تلے دبانا -

قینچی سی زبان چلنا - بے تکان بولنا - متواتر کہے جانا - تڑاق پڑاق جواب دینا -

قینچی لگانا - کاٹنا - کترنا - چھانٹنا - قلم کرنا -

پانچوین فصل

نباتات متعلق علم طب کے بیان مین

قاقالیا - یونانی لغت مین ایک نبات کا نام ہے پتے اسکے سفید اور بڑے اور پھول مشابہ پھول بردانیا کے طبیعت اسکی گرم تر خشک نافع اسکی جڑ اسواسطے رفع خشونت ریہ او رمری اور سرفہ کے نافع ہے اور قائم مقام رب السوس کا -

قاتل الکلب - کچلہ کو کہتے ہین زہر اسکا کتے پر بہت جلد اثر کرتا ہے اور وہ فی الفور مر جاتا ہے -

قاقہ بفتح واو - یہ مجہول الکیفیت دوا جبلی کی قسم سے ہے طبیعت اسکی گرم خشک محلل ریاح غلیظ و محرک باہ دافع کھانسی کہنہ مفرح دل ہے -

قار - عوام اسکو قیر کہتے ہین اور جو اسکو رال سمجھتے ہین غلط سمجھتے ہین اسواسطے کہ رال ایک درخت کا گوند ہے اور یہ ایک چیز سیاہ رنگ ساتھہ گرم پانی کے چشمے سے نکلتی ہے نکلنے کے وقت سیال ہوتی ہے تھوڑے عرصہ مین سخت ہو جاتی ہے کشتیون اور دیوارون اور حماموں اور چھتون پر پانی کی درزون کے بند کرنے کے واسطے لگاتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک ہے منضج اخلاط لزجہ مردگا ہاضم طعام مقوی معدہ و کبد و طحال ہے و مانع تاثیر ہواے وبائی طاعون وغیرہ -

قاقلہ کبار - بڑی الائچی مشہور چیز ہے اسکا درخت دو تین گز بلندی تک جاتا ہے پتی مشابہ پتی انار کے پھول سپید مائل بسبزی پھل صنوبری شکل مثلث غیر متساوی الاضلاع طبیعت اسکی گرم خشک مقوی معدہ ہاضم طعام محرک ڈکار حابس بطن ہے -

قاقلہ صغار - چھوٹی الائچی مشہور چیز ہے اسکا درخت دو گز تک بلندی انار کی سی پتی پھل خوشہ دار خوشبو طبیعت اسکی دوسرے درجے مین گرم و خشک ساتھہ قوت تریاقیت کے مفرح و ملطف و جالی و محلل و دافع درد سر و درد گوش ہے منھہ کو خوشبو کرتی ہے معدہ کو صفا رکھتی ہے دل کو طاقت بخشتی ہے خفقان کو دفع کرتی ہے -

قاقم - یہ ایک جانور کے چمڑے کا نام ہے جو بلی سے چھوٹا اور چوہے سے بڑا ہوتا ہے دم اسکی چھوٹی ہوتی ہے اسکے بال بہت نرم اور گرم ہین اور قیمتی امرا اسکی پوستین بناتے ہین سنجاب سے قیمت زیادہ پاتا ہے مگر سمور سے گرمی مین کم ہے ابدان معتدل کو موافق ہے -

قانصہ - پرندہ جانورون کا حوصلہ جسکو فارسی مین سنگدان اور ہندی مین چینہ دان اور پوٹا کہتے ہین یہ پرندون کے پیٹ مین معدہ کی جگہ ہوتا ہے بط اور موٹی مرغی کا حوصلہ سب سے اچھا ہے اور کبھی تا اسکا مولد خون صالح و دافع خفقان ہے -

قاقلی - یہ ایک نبات مشابہ اشنان اور بڑی اور سبز زیادہ اس سے اونٹ اسکو بہت رغبت سے کھاتا ہے کہ اسکے مزاج کے موافق ہے طبیعت اسکی گرم و خشک اسکے کھانے سے ڈکار خوشبو آتی ہے ضعف معدہ اور درد کمر کو دور کرتی ہے مدر بول و دودھ کو بڑھاتی ہے باہ کو حرکت دیتی ہے -

قاطالیقی - قاپاطیقی - یہ ایک نبات ہے جنکی اسکی چھوٹی آس کے پتون کی طرح اور زیتون کے پتون سے ملتی ہوئی دو قسم اسکے ہین ایک کا پھل مٹر کی صورت پر ہوتا ہے اور جڑ بارہ یا اذخر کی جڑ کی طرح چھہ سات سرے رکھتی ہے جب سوکھتی ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہے

دوسرے قسم کا سر چھوٹے سیب کے مانند جڑ اور پتے زیتون کے سے پھل چھوٹا مقدار چنے کے پینا اسکا باعث محبت اور نقش کا ہے۔

قاف بابائے موحدہ

قبج - فارسی مین اسکو کبک ہندی مین چکور بولتے ہین مشہور پرندہ ہے طبیعت اسکی گرم وخشک گوشت اسکا لطیف تر سب گوشتون سے ہے کثیر الغذا سریع الہضم مولد خون صالح دافع فالج ولقوہ واستقا وغیرہ ہے

قاف باتائے مثناۃ

قتاد - یہ ایک درخت ہے جسکو عربی مین شجرۃ القدس اور فارسی مین کم کہتے ہین کانٹے اسکے ٹیڑھے پھول زرد رنگ ہے جو گوند اس سے نکلتا ہے اسکو کتیرا کہتے ہین طبیعت اسکی گرم وخشک دافع کھانسی وضیق النفس و قرحۂ ریہ ہے اسکے پتون کو پیس کر سرکہ اور شہد مین ملا کر بدن پر لگائین تو جلد کو صاف کرتا ہے بدن پر روشنی لاتا ہے اسکی جڑ مین اسقدر تیل ہوتا ہے کہ رات کو جلکر شمع کی طرح روشنی دیتی ہے

قاف باثائے مثلثہ

قثاء - بکسر اول وثائے مثلثہ مشدد مشہور چیز ہے جسکو فارسی مین خیار زہ اور ہندی مین ککڑی کہتے ہین بیل اسکی بہت لمبی زمین پر بچھی ہوتی ہے طبیعت اسکی دوسرے درجے مین سرد تر اور مغز اسکا رطب اور الطف ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فرماتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھاؤ تم ککڑی کو ساتھ نمک کے کہ فائدہ بخشے تمکو یہ پھل جالی ہے پیاس کو دور کرتا ہے حرارت اور صفرا اور خون کی تیزی کو دفع کرتا ہے پیٹ کو ملین کرتا ہے۔

قثاء - خیار اور بادرنگ بھی اسکا نام ہے ہندی مین اسکو کھیرا کہتے ہین مشہور پھل ہے کھانا اسکا درد سر گرم کو دفع کرتا ہے یرقان کو علاج ہے تخلخلہ اسکا روح حیوانی کو مدد دیتا ہے۔

قثاء الحمار - فارسی مین اسکو خیار زہ اسپند کہتے ہین ایک قسم ککڑی کی ہے جو ذائقہ مین تلخ اور خراب ہے طبیعت اسکی گرم اور خشک محلل اور جالی اور منقی دماغ اور مسہل مرۂ صفرا و بلغم خام و زرد آب دافع فالج ولقوہ وصرع وصداع ہے۔

قاف بادال

قدید - ہر ایک خشک چیز کو قدید لیتے ہین خواہ وہ آگ سے خشک ہوئی ہو خواہ دھوپ سے یا سایہ مین اور خشک گوشت جنگلی جانورون یا دریائی کا بہترین گوشتون مین سے وہ خشک گوشت ہے جو فربہ جانور اور فربہ پر گوشت کا ہو عموماً خشک گوشت کی طبیعت گرم وخشک ہے۔

قاف بارائے

قراصیا - یہ ایک درخت کا پھل ہے جسکو آلو بالو اور آلو بوعلی اور آلی بالی کہتے ہین شاخین اور پتے سرخ رنگ زرد آلو کی طرح خام سبز اور کسیلا نیم رس سرخ اور ترش پختہ بنفشی رنگ اور میٹھا شیرین چاشنی دار ساتھ تھوڑی تلخی غیر محسوس کے بیج اسکے چھوٹے بقدر چنے کے پوست سخت مغز سپید طبیعت خام کی سرد اور خشک اور قابض پہلے درجے مین نیم رس بھی سرد و خشک پختہ چاشنی دار گرم تر ساتھ قوت قابضہ کے اطبا اجازت نہین دیتے کہ کھانے کے بعد یہ کھایا جائے کیونکہ معدے کو ضعیف کرتا ہے شیرہ اسکے تخم کا سونف کے عرق کے ساتھ پینا سنگ مثانہ کو نکالتا ہے پیشاب اور حیض کو جاری کرتا ہے سوزش بول کو نافع ہے۔

قردمانا - تیسرا حرف دال ہے یہ ایک نبات مشابہ کردیا کے ہے پتی اور پھل اور پھول مین مگر یہ کہ پھل اسکا اس سے لمبا زیادہ گھاس اسکی بابونہ کی گھاس کے ساتھ ملتی ہے اور شاخین متفرق اور کج ہین پتے بھی کم ہین طبیعت اسکی گرم وخشک مسخن ہے اور سرخ کرنے والا بشرے کا اور پگھلانے والا اخلاط لزجہ کا مقوی اعضائے باطنی دافع سدہ جگر وطحال و قولنج و درد گردہ و عسر البول و دم مار وجع اسکو ہے

قرقوشنا - یہ نام روغن زعفران کے ثفل کا ہے کہ قرقوز عفران کو کہتے ہین اور شنا کے معنی ثفل کے ہین طبیعت اسکی گرم خشک منضج و مقوی اعصاب محلل صلابات مدر بول دافع تاریکی چشم مقوی جگر و معدہ ہے

قراد - یہ مشہور جانور ہے جسکو فارسی مین کنہ اور ہندی مین چچڑی کہتے ہین اکثر گائے اونٹ اور کتے کے بدن کے ساتھ چمٹی رہتی ہے اور خون اسکا چوستی ہے کتے کی چچڑی کے خون کو اگر منقلب پر جو آنکھوں کی پلکوں کے اندر پیدا ہو کر بینائی کو نقصان پہنچاتے ہین لگائین تو بال اکھڑ جائین اور آیندہ پیدا نہون۔

قرد - یہ ایک جانور چارپایہ ہے جسکو فارسی مین بوزنہ اور ہندی مین بندر کہتے ہین ہندی مین جسکا منھ لال ہے اسکو بندر اور جسکا منھ کالا اور بدن خاکستری اسکو لنگور اور ہنومان بولتے ہین یہ دونون قسم دم رکھتے ہین اور جسکا منھ سیاہ مشابہ آدمی اور ہاتھ پاؤن اور انگلیاں لمبی اور دم نہین ہوتی اسکو فارسی مین نسناس اور ہندی مین بن مانس نام ہے یہ قسم لوگون کو تکلیف دینا ہے شیعہ کے نزدیک اسکا گوشت حرام ہے حضرت امام مالک اسکو حلال تحریر فرماتے ہین یہ جانور آدمی کے ساتھ مشابہت اکثر عادات مین

رکھتا ہی ہاتھ سے چیزون کو اُٹھاتا ہی ہنستا ہی کھیلتا ہی کبھی دو پانون سے چلتا ہی طبیعت اُسکی گرم خشک طلا اُسکے خون کا واسطے منع کرنے اُگنے بالون کے مجرب ہی اُسکا خون اگر گرم گرم پیے تو زبان مین طاقت گویائی کی نہ رہے اگر اُسکے چمڑے کی چھلنی بنائے اور اُس سے غلہ چھانے تو کوئی کرم غلہ کو نہ لگے زہر آلود کھانے کو بندر جھٹ پہچان جاتا ہی اور دیکھ کر چیلاتا ہی۔

قرع المر - کڑوا کدو جسکو ہندی مین تونبری کہتے ہیں بیل اسکی مشابہ بیل کدو خوردنی کے ہی مگر پھل اُسکا اُس سے چھوٹا ہوتا ہی طبیعت اِسکی گرم اور خشک ہی اور کھانے سے قی آتی ہی ضیق النفس اور کھانسی قرکہنہ کا علاج ہی اِسکے پھولون کا پانی دافع یرقان ہی اِسکی جڑ گرم اور خشک محلل اورام سرد ہی اور اوجاع سرد کا علاج۔

قرمز - یہ ایک جانور نہایت چھوٹا جید ار درخت کے پتون مین ملتا ہی لقدر دانہ مسور کے سرخ رنگ بعض کے نزدیک یہ شبنم ہی جو بعض درختون پر گرتی ہی وہ چیز مشابہ دانہ مسور کے ہوتی ہی اور اسکے سر پر کوئی چیز اونچی مانند سر جانور کے آہستہ آہستہ بڑھ کر چنے کے برابر ہو جاتی ہی اور پھٹ کر اُسکے اندر سے ایک کیڑا چھوٹا سرخ نکلتا ہی وہی کرم ہی جسقدر پرانا ہو رنگ اُسکا تیز ہوتا جاتا ہی اُسی کا رنگ نقاشون کے استعمال مین آتا ہی ریشم رنگا جاتا ہی پشم کو رنگتے ہین طبیعت اُسکی سرد اور خشک ہی اگر عورت ساق روز دو درم ہر روز پیے تو حیض آنا قطع ہو جائے اگر ساتھ سرکہ کے نوش کرے تو حمل ہونے نہ پائے ضماد اُسکا جراحات عظیمہ کو بند کرتا ہی اور بھی فائدے اُسکے بہت سے درج کتب ہین۔

قرطاس - کاغذ جسپر کتابین لکھی جاتی ہین ہر ایک ملک مین یہ قسم قسم کا بنایا جاتا ہی طبیعت اُسکی عموماً سرد خشک بعض کے نزدیک گرم خشک ہی اسکی خاکستر رعاف کو بند کرتی ہی بخور اسکا زکام کو مفید ہی منجن مسوڑھون کو مضبوط کرتا ہی سرمہ اُسکا آنکھونکی بیاض کو دفع کرتا ہی۔

قریس - ایک غذا کی قسم سے ہی مانند مصوص کے جسکا ذکر باب المیم مین مذکور ہوگا بعض کے نزدیک گوشت کے پانی کا یہ نام ہی جو سرد اور منجمد ہوا ہو اور گوشت مچھلی کا ہو یا چارپایہ کا۔

قریص - یہ ایک غذا ہی کہ لحوم لطیفہ مچھلی وبزغالہ وجوجہ مرغ سے ساتھ سرکہ وغیرہ ترشیون اور تازے اور خشک میوون کے بناتے ہین طبیعت اِسکی معتدل ساتھ برودت ورطوبت کے مسکن صفرا وخون جاد وقاطع بلغم محرور المزاجون کو نافع ہی۔

قراطاط - پھل ایک درخت کا ہی لقدر فلفل کے اور ترش زرشک کی طرح افعال اور خواص مین زرشک کی طرح ہی

قرط - یہ ایک نبات ہی جو نہایت شیرین ذائقہ مین ہی یہ گھاس مصر مین پیدا ہوتی ہی بلکہ اسکی زراعت ہوتی ہی گھوڑے اسکو کھا کر فربہ ہوتے ہین اسکے پھل کو رسیم کہتے ہین گرم تر تازہ پانی اُسکا پینا مسہل ہی اور خشک حابس۔

قرظ - بہ ظائے معجمہ کیکر کے درخت کا نام ہی جسکو اُم غیلان بھی عربی مین کہتے ہین صمغ عربی گوند اسی سے نکلتا ہی لکڑی اسکی چار دار نہایت مضبوط ہوتی ہی طبیعت اسکی سرد خشک ساتھ قوت قابضہ کے مسواک اسکے جڑکی دانتون کو مضبوط کرتی ہی منجن بھی اسکی جڑ کا یہی عمل کرتا ہی اُسکی پتون کا جوشاندہ حابس اسہال ہی بخور اسکا مستحکم کرنے والا اعصاب مسترخیہ کا ہی اور التیام دینے والا زخمون کا۔

قرع - کدو جو مشہور چیز ہی عربی مین اُسکو یقطین بھی کہتے ہین بیل اُسکی درختون اور دیوارون پر چڑھ جاتی ہی زمین پر پھیلتی ہی جڑ اسکی پتلی تھوڑی شیرین اور مسکر دو قسم کا یہ پھل ہی ایک شیرین جو سب کھاتے ہین دوسرا تلخ جسکو تونبڑی بولتے ہین اُسکا ذکر اِسی فصل مین تحریر ہو چکا ہی شیرین بھی گول اور لمبا ہوتا ہی اس پھل سے ساز بھی بنائے جاتے ہین طبیعت اسکی سرد اور تر مبرد ومرطب مفتح سدد مدر بول ملین بطن دافع یرقان وحمیات حادہ ہی۔

قرنفل - فارسی مین اسکو میخک ہندی مین لونگ کہتے ہین مشہور ومعروف چیز ہی طبیعت اُسکی گرم وخشک ساتھ قوت تریاقیت اور تفریح کے مقوی ارواح واعضائے رئیسہ باطنی ودماغ وذہن وفکر ودرد سر بارد وکھانسی وضیق النفس وخفقان ووحشت ہی۔

قردن السنبل - اِس جڑ کو ہندی مین سینگھیا کہتے ہین جو سپید اور چمکدار ہوتی ہی طبیعت اُسکی گرم خشک پینا اور کھانا اُسکا جائز نہین بسبب سمیت کے اُسمین ہی ضماد اُسکا پرانے دردون اور ورمون کو دفع کرتا ہی روغن اُسکا بھی یہی عمل کرتا ہی۔

قرطم - اِسکو حب العصفر اور بزر الاخریض فارسی مین خسک دانہ ہندی مین کسنبہ کا بیج کہتے ہین کسنبہ جس سے کپڑے سرخ رنگے جاتے ہین اُسی کا پھول ہی طبیعت اُسکی گرم خشک ساتھ قوت مسہلہ کے ہی رقیق بلغم کو نکالتا ہی مالیخولیا وسواس اور توحش خفقان جذام وجرب وحکہ وغیرہ اکثر امراض سوداوی کا دافع ہی اگر ادویات مناسبہ کے ساتھ اِسکو مرکب کرین اور بیمار کو دین۔

قراطارغوین - یہ ایک نبات ساتھ بہت سی شاخون گرہ دار کے ہی پتی اُسکی مشابہ پتی گندم کے بیج یا جرے کا سا نہایت تیز طبیعت اُسکی گرم اور خشک کہتے ہین کہ جو مرد اور عورت دونون چاریچ روز تک اُسکا ناشتا کرین بمقدار آدہے درم کے ساتھ نہار رو شقاقل پانی کے بعد اُسکے مباشرت کرین انشاء اللہ تعالے عورت حاملہ ہو اور لڑکا ہو

قراطن - ماء العسل ساذج یعنی شہد پانی مین پکایا ہوا جو لقوہ اور رفالج کی بیماریون کو مفید ہی-

قرۃ العین - یہ ایک نبات حوض وجھیل و تالاب وغیرہ ایستادہ پانیون مین پیدا ہوتی ہی تو پہ اُسکا پانی سے باہر آجاتا ہی اُسکے درمیان پھول زرد رنگ ساق اور پتی مشابہ کرفس کے دندانے دار گول سب اجزا خوشبودار معطر طبیعت اُسکی گرم اور خشک مسخن و محلل و حابس نزف الدم مدر بول وحیض ہی گردہ کے کنکرون کو نکالتی ہی ہاضم طعام ہی رخسارون کے رنگ کو سرخ کرتی ہی باصرہ کو طاقت بخشتی ہی یرقان کو دفع کرتی ہی-

قرطمان - یہ ایک درخت مشابہ درخت چنار کے دریاے عمان کے جزائر اور کنارون پر ملتا ہی خشک بورا اُسکا بقدر دو مثقال کے واسطے رفع اسہال کے مفید ہی-

قرقمان - یہ ایک چیز مانند قار کے بعض پرانے درختون کے جوف مین ملتی ہی خصوصًا درخت خرما و مقل حجازی مین پائی جاتی ہی طبیعت اُسکی گرم و خشک حابس نزف الدم و اسہال قرحہ مین ہی اور ریل اور درد ہی منجن اسکا واسطے تقویت دانتون اور مسوڑھون کے فائدہ بخش ہی

قرن - فارسی مین شاخ حیوان اور ہندی مین سینگ کہتے ہین اگرچہ ہر ایک حیوان کے سینگ الگ الگ تاثیرین رکھتے ہین مگر عمومًا طبیعت انکی سرد و خشک مجفف و قابض مانند نمک مغسول کے اکثر سینگ جلایا ہوا استعمال کیا جاتا ہی آنکھون مین ڈالنا اُسکی راکھ کا نزول الماء کے پانی کو اُترنے سے روکتا ہی یرقان کو دفع کرتا ہی

قرصعنہ - یہ ایک نبات خاردار ہی پتی اُسکی زمین پر بچھی ہوئی ہی ساق گرہ دار بالشت بھر اونچی پتی اور کانٹے سبز و سپید ذائقہ مین تیز اور شیرین فارس اور عرب مین پیدا ہوتی ہی طبیعت گرم اور خشک محلل اور ہاضم و سریع الانحدار مولد خلط صالح بہی دافع تاثیر سموم ہی-

قرطم بری - نبات اُسکی بلند اور پتی لمبی زیادہ بستانی سے طبیعت اُسکی گرم اور خشک اُسکی پتی اور پھل عقرب کے زہر کا علاج جسکو عقرب نے کاٹا ہو جب تک منہہ مین اُسکی پتی اور پھل رکھے زہر کی تاثیر نہو گی اور واسطے دفع زہر کے دو درم پتی اور پھل کالی مرچین ڈالکر پینا مجرب ہی-

قرفۃ الدارچینی - دارچینی کا پوست اور چھلکا طبیعت اُسکی گرم اور خشک مقوی اعضاے باطنی دافع فالج و لقوہ و صرع و وجع المفاصل وغیرہ امراض عصبی ہی-

قرنفل بستانی - یہ نبات باغی قسم ریحان سے ہی جسکو بلسی کہتے ہین خوشبو اُسکی لونگ کی خوشبو کے ساتھ مشابہ ہی عرق اُسکا بھی لونگ کے عرق کے ساتھ خوشبو مین ملتا ہی اسواسطے فارس کے رہنے والے اُسکو قرنفل بستانی کہتے ہین-

قرنفل شامی - یہ ایک نبات ہی عربی مین اُسکو قرنفلیہ بولتے ہین ساق اُسکی بقدر ایک گز کے پتی لبلاب کی سی پھول بنفشئی خوشبو مانند لونگ کے جڑ اُسکی مشابہ جڑ خربق سیاہ کے اور بو مین مانند دارچینی کے طبیعت اُسکی گرم خشک دافع صرع و زکام و سدہ و عسر البول ہی بیٹھنا اُسکے جوشاندے مین واسطے احتباس حیض و اسقاط جنین کے مفید ہی-

قاف با زاے معجمہ

قزاح - یہ ایک نبات شہر قزاوان مین مشابہ سولف کے پیدا ہوتی ہی اونٹ اُسکو کھاتا ہی پتے اُسکے سولف کے پتون سے زیادہ پتلے پھول زرد خوشبودار ذائقہ سولف کا سا طبیعت اُسکی گرم اور خشک محلل ریاح و محرک دکاوت اُسکا علاج یاردو ریاح بول و حیض

قاف با سین مہملہ

قسب - وہ خرما جو نیم پختہ اُتار کر اور بیٹ چیر کر اور جوش دیکر خشک کیا ہو اُسکو خرماے شکم دریدہ بھی کہتے ہین شیرین زیادہ ہوتا ہی عمدہ وہ ہی جو دانہ موٹا اور گٹھلی چھوٹی ہو طبیعت اُسکی گرم و خشک مقوی معدہ منضج و محلل اخلاط ہی-

قسّن - یہ ایک قسم لبلاب کا ہی جسکو پھل نہین لگتا پتے چھوٹے جھنجھری دار شاخین پتلی طبیعت گرم اور خشک پینا پانی اُسکے پتون و ساق کا مدر بول وحیض ہی فرزجہ اُسکا مخرج جنین ہی اُسکی جڑ کا پانی اگر سرکہ کے ساتھ پیئین تو تیل کے زہر کا اثر جسم پر نہین ہوتا-

قسط - ہندی مین اُسکو کُٹھ کہتے ہین یہ ایک جڑ ہی مشابہ جڑ نفاخ کے نبات اُسکی بے ساق زمین پر پھیلی ہوئی پتی اُسکی چوڑی اُسکی جڑ کو ہندی مین پُہکر مول کہتے ہین تین قسم کی ہوتی ہی ایک شیرین سفید زردی مائل سبک اور خوشبو اُسکو قسط بحری اور عربی کہتے ہین

دوسرا تلخ مائل بسیاہی مگر اُسکا مائل بزردی موٹا اور ہلکا اور کم اُسکو قسط ہندی کہتے ہین تیسرا مائل بسرخی وزن مین سنگین مشابہ لکڑی شمشاد کے خوشبو بغیر تلخی کے یہ بحری اور قاتل ہی اور جس قسط سے بو شیر کی آوے زبون ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک مقوی اعضاے رئیسہ محرک باہ دافع امراض باردہ رطبہ جاذب خون مقوی دماغ دافع درد سر ہی۔

قنطورون - یہ ایک نبات ہی جو ہر سال جمتی ہی ساق اسکی بقدر ایک گز کے بلند پتے مشابہ پتے بلوط کے طبیعت اسکی گرم خشک ساتھ خواص تریاقیہ کے دافع صرع وخوف وامراض کبد وطحال ویرقان ہی۔

قاف با شین معجمہ

قشار کندر - ریزے ہین کہ کندر کے ٹکڑون کے رگڑنے سے گرتے ہین طبیعت اُسکی گرم اور خشک قابض ومجفف ہی ضماد اُسکا زخمون پر تازہ گوشت پیدا کرتا ہی پینا اُسکا امعاے کے زخمون کو اچھا کرتا ہی رحم کی رطوبت کو زائل کرتا ہی۔

قشر - ہندی مین چھلکا اور چھال جو ہر ایک درخت سے اُتاری جائے ہر ایک درخت کا چھلکا الگ تاثیر رکھتا ہی چنانچہ قشر اترج یعنی پوست ترنج مقوی معدہ ودماغ ومعطر دہان اور پوست انار کا مسہل مخرج کرم معدہ وامعا وقاطع خون بواسیری وپوست بیخ کرفس ملطف ومفتح وبدر بول دافع امراض کبد وطحال ہی وپوست درخت خیار شنبر دافع تکالیف وضع حمل ہی وبیرون وبیرونی پستہ قابض ومقوی واحشا وپوست نارنج مفرح ودافع قے وغشیان ومخرج کرم معدہ وپوست تخم مرغ جالی مجفف قروح وقاطع رعاف وبیاض عین ہی۔

قشمش - یہ ایک قسم کا انگور ہوتا ہی جسکا دانہ نہایت چھوٹا ہوتا ہی جو ہر ایک قسم سے عمدہ اور شیرین ہوتا ہی طبیعت اور افعال اُسکے انگور سے ہین جو تحریر ہو چکے ہین۔

قاف با صاد مہملہ

قصب - فارسی مین اُسکو نَے ہندی مین بانس اور نل اور سرکنڈا کہتے ہین بعض انمین سے مجوف اور بعض غیر مجوف ہوتے ہین نَے اسی کا نام ہی جو اندر سے پولا ہوا اور نَے قلم جس سے لکھتے ہین اور اندر سے پولی ہی اسی قسم سے ہی طبیعت اسکی سرد اور خشک راکھ اُسکی سعفہ اور داد کی دوا ہی تنج جو سر کی بیماری مشہور ہی اس راکھ سے جاتی رہتی ہی منجن اسکا دانتون کو روشن کرتا ہی اور آنکھون مین ڈالنا اس رطوبت کا جو بانس کے پیتون مین جمع ہوتی ہی آنکھ کی سفیدی کو دور کرتا ہی بانس کی

پیسی ہوئی شہد کے ساتھ کھائین تو کھانسی جاتی رہتی ہی مدر بول وحیض پتون کا جوشاندہ نفث الدم کو مفید ہی۔

قصب السکر - فارسی مین اسکو نیشکر ہندی مین گنا اور پونڈا کہتے ہین یہ نبات ایک نعمت عظماے الٰہی سے انسان کو مرحمت ہوئی ہی کہ ہر ایک شیرینی اُس سے بنائی جاتی ہی - گڑ شکر - کھانڈ مصری سب اسکے شیرہ سے بنتے ہین اقسام اُسکے بہت ہین طبیعت اُسکی گرم تر دافع خشونت سینہ اور ریہ اور سرفہ اور جالی رطوبات متولدہ مسمن بدن مدر بول منقی مثانہ ملین بدن محرک باہ دافع سوزش معدہ ہی۔

قصاص - نام ایک قسم کے مٹر کا کہ غلاف اُسکا پتلا اور دانہ بہت چھوٹا سفید ہوتا ہی خلر بھی اُسکو کہتے ہین اور ذکر اسکا فصل خاے معجمہ مین تحریر ہو چکا ہی۔

قصب الذریرہ - ہندی مین اُسکو چرایتہ کہتے ہین مشہور چیز ہی طبیعت اُسکی گرم خشک ملطف ومحلل ساتھ قوت قابضہ کے مقوی دل وجگر دافع استسقا ودرد سینہ وجگر ورحم اور عسر البول وتقطیر البول ومحلل اورام ہی

قاف با ضاد

قضاعہ - عربی مین مادہ سگ آبی کو کہتے ہین اور ہندی مین اودبلاؤ مرسہ اور ضماد اُسکے دماغ کا واسطے دفع تاریکی آنکھ کے بے مانند ہی۔

قاف با طاے

قطا - ایک پرندے کا نام ہی جسکو فارسی مین سنگخوار اور ہندی مین بنیا لوا کہتے ہین یہ دو قسم کا چھوٹا اور بڑا ہوتا ہی بڑا بقدر کبوتر خط دار اور زرد رنگ چھوٹا بقدر بڑی چڑیا کے خط دار زردی مائل سر پر تاج کم آب جنگلون مین رہتا ہی طبیعت اُسکی گرم خشک ہی گوشت اسکا مقوی معدہ وکبد دافع فالج وسردی اعصاب واستسقا وقولنج بلغمی ہی۔

قطلب - یہ ایک درخت مشابہ درخت بہی کے پتے بہی کے سے بقدر آلو کے بدون بیخ کے پختہ ہوکر زعفرانی وسرخ یا نوتی رنگ ہوتا ہی شیرین اور خوشبو شیرہ اُسکا چوس لین تو ثفل گھاس جیسا باقی رہجاتا ہی طبیعت اُسکی سرد اور خشک پھل اُسکا تریاق سموم قتالہ ہی ضماد اُسکے پتون کا ورمون اور دملون کو اچھا کرتا ہی نقرس کے امراض کا علاج ہی جلے ہوے عضو کو فوراً آرام کرتا ہی۔

قطایف - سنبوسہ جو مشہور خوراک ہی گیہون کے میدے کا بناتے ہین اور گھی مین تلتے ہین کثیر الغذا مسمن بدن وہی ہی۔

قطف - یہ ایک سبزہ ہی جسکو فارسی مین اسپناخ واسفناخ ہندی مین پالک کہتے ہین طبیعت اُسکی سرد وتر ہی پکا کر کھانا اسکا سریع الہضم

اور مولد خلط صالح ہی مسکن عطش و دافع تپ گرم محلل ورام گرم ہی۔

قطن ۔ فارسی مین اُسکو پنبہ ہندی مین روئی کہتے ہین یہ وہ بیش قیمت درخت ہی جسکے پھل سے تمام زمانہ شرق سے غرب تک طرح طرح کے لباس پہنتا ہی پھول اُسکا زرد خوبصورت ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم وخشک اور پھول گرم تر ہی پینا اُسکا جنون کو دفع کرتا ہی خفقان کا علاج ہی

قطف بحری ۔ یہ ایک سبزہ ہی جسکو ہندی مین بتھوا کہتے ہین طبیعت اُسکی گرم تر ہی پکا کے کھانا اُسکا دورے کو زیادہ کرتا ہی محرک جماع ہی باہ کو بڑھاتا ہی۔

قاف باعین

قعب ۔ عربی مین یہ نام شیر کا ہی اور نام ایک نبات کا جسکی ایک ساق ہی اور پتی اسپناخ یعنی پالک کی سی ذائقہ سونف کا سا اندلس کی ولایت مین یہ پائی جاتی ہی۔

قعبل ۔ یہ ایک جڑ ہی مشابہ شلغم کے سرخ رنگ طبیعت اُسکی گرم وخشک جنون کو دور کرتی ہی ورم الطحال کا علاج ہی۔

قاف بافاے

قفر الیہود ۔ یہ ایک پتھر کا نام ہی جو بحیرہ یہود سے حاصل ہوتا ہی زمین قدس سے لاتے ہین جو اچھا ہوتا ہی اور مقامات سے بھی لیا جاتا ہی بہتر اور تریاق کے استعمال کے لائق بنفشئی براق چمکین خوشبودار ہی جسمین مٹی اور کنکر نہو طبیعت اسکی تیسرے درجے گرم وخشک قائم مقام مومیائی کا ہی زفت اور قیر اور قطران اور عنبر کی جگہ بھی اسکا استعمال کرتے ہین دھوان اسکا دافع زکام اور نزلہ ہی

قاف بالام

قلفونیا ۔ صنوبر کے درخت کا گوند ہی جو خود بخود اُس سے نکلتا ہی تین قسم کا یہ گوند ہی ایک سیال یعنی تر جو بستہ نہین ہوتا مانند قطرون کے دوسرا وہ درخت سے سخت نکلتا ہی سیال نہین ہوتا بہتر وہ جو بعد طبخ کے بستہ ہوتا ہی۔

قلب ۔ بفتح اول دل جو اندرونی اعضا مین سے مشہور عضو ہی اور رحم مین حضرت خالق کے حکم سے سب سے پہلے یہی عضو بنتا ہی یہ عضو مبدا اور معدن حرارت غریزی کا ہی روح حیوانی کا مسکن ہی ہر ایک عضو سے گرم زیادہ ہی متحرک رہتا ہی مرنے کے وقت بھی سب سے پیچھے سرد ہوتا ہی گوشت اسکا بہت سخت اور دیر ہضم ہی جانورون مین بہتر دل بکری کا ہی اور پرندون مین مرغی جوان کا طبیعت اُس گوشت کی نہوتا گرم اور خشک مگر طیور کے دل مین گرمی زیادہ تاثیر

مین مقوی دل و دافع خفقان و دیر ہضم ہی۔

قلت ۔ حب القلت مین اُسکا ذکر درج ہوچکا ہی فصل حاے باباے مین۔

قلقطار ۔ بھر دو قاف زاج سفید اسکا ذکر زاج مین مذکور ہوچکا ہی۔

قلقاس ۔ یہ ایک سبزہ ہی جسکے پتے بہت چوڑے ہوتے ہین اور جڑ اسکی کھانے مین آتی ہی جسکو اروی کہتے ہین مشہور ترکاری ہی طبیعت اُسکی گرم تر مسمن اور محرک باہ ہی اکثر لوگ اُسکو کھاتے ہین۔

قلقدیس بعض اُسکو زاج سفید بعضے زاج سرخ بعض زاج زرد جانتے ہین بعض ایک قسم کے زاج سفید کو قلقدیس سمجھتے ہین جسکو فارسی مین زاج شتر دندان کہتے ہین اصل یہ ہی کہ قلقدیس تین قسم کا ہی ایک قسم سفید سنگ جلد ٹوٹنے والا یہ تیز اور بہتر سب اقسام سے ہی دوم وہ جسمین مٹی زیادہ ہو اور غلیظ اور خشن ہوتا ہی تیسرے نرم متساوی الاجزا اور شست جو پانی مین ڈالنے سے سیاہ ہوجاتا ہی

قلومکس ۔ یہ ایک نبات ہی جو پانچ قسم پر منقسم ہی اول سپید پتی والی جو نر اور مادہ ہوتی ہی دوسری سیاہ پتی والی تیسری جسکی شاخین لمبی ہین چوتھے وہ جسکے پتے انجیر کے سے ہوتے ہین پانچوین جسکے پتے بڑے اور غلیظ اور تند بو ہین اس قسم کو لوگ تمبا کو جانتے ہین طبیعت ہر ایک قسم کی گرم خشک محلل اور جالی ساتھ قوت قابضہ کے دافع امراض بلغمی وضیق النفس وسرفہ وغیرہ ہی۔

قلانش ۔ یہ بھی ایک نبات ہی جسکو خوخ المروج کہتے ہین امرود کے ساتھ اسکی مشابہت ہی مزہ اُسکا پھیکا تھوڑی لزوجت کے ساتھ عصارہ اسکا نفث الدم کو دفع کرتا ہی۔

قلقل ۔ فارسی مین انار دانہ دشتی ہندی مین کورر چکنا اسکا نام ہی یہ ایک نبات مشابہ نبات قنب کے ساقین لمبی مائل بسرخی طبیعت اسکی گرم تر نہایت مقوی باہ مسمن بدن مفرح طبع ہی

فلسموفودیون ۔ یہ ایک نبات ہی نہایت خورد بقدر ایک بالشت پتھرون اور سخت زمینون مین پیدا ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم خشک دافع تقطیر البول و ادرار حیض و اخراج جنین ہی۔

قلومائن ۔ یہ ایک نبات پہاڑی اور باغی ہی ساق اسکی شبیہ ساق باقلا پتے مشابہ پتے بارتنگ کے اور پھول مشابہ پھول ایرسا سوسن طبیعت سرد خشک حابس رعاف دافع نفث الدم معدہ ہی ضماد اسکا جو پتے کوٹ کر بنایا جاے پرانے زخمون کو بند کرتا ہی۔

قلی ۔ سجی جس سے لوگ کپڑے دھوتے ہین مشہور چیز ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک ساتھ تھوڑی سی سمیت کے پینا اسکا ایک قیراط

واسطے تقویت معدہ و تہضیم طعام و پیدا کرنے بھوک و قطع بلغم و دفع قے مؤثر ہے۔

قاف با میم

قمل - قمقام - یہ دو چھوٹے جانور ہین کہ انسان و دیگر جانداروں کے کپڑون اور بالون مین پیدا ہوتے ہین قمقام کے پانون بہت ہوتے ہین اور بالون کی جڑ مین چپٹے رہتے ہین اور قمل چھ ہاتھ اور پانون رکھتا ہے اور منہ سے کاٹتا ہے اور سر اور دم اسکی باریک ہوتی ہے جو کپڑون مین پیدا ہوتا ہے سپید اور بالون مین سیاہ رنگ اگر بال سیاہ ہون اسکو فارسی مین سپش اور ہندی جون کہتے ہین پسینا اور فضلات ردیہ سے اسکی پیدائش ہے چند عدد جون زندہ باقلا کے سوراخ مین رکھ کر نگل جائین تو تپ ربع جاتی رہے اگر احلیل کے سوراخ مین جون رکھین احتباس بول دفع ہو۔

قمری - مشہور پرندہ ہے فاختہ سے چھوٹی خوش آواز خوش منظر خوش سیرۃ اسکی آواز ہے بعض کہتے ہین کہ وہ یا کریم کا ذکر کرتی ہے سپید اور زرد اور خاکستری رنگ کا یہ جانور ہوتا ہے پنجرے مین بند رہ سکتا ہے کبوتر کی طرح کھلا نہین رہتا گوشت اسکا سرد مزاج والونکو موافق ہے کیونکہ طبیعت اسکی گرم و خشک ہے اسکے انڈے اگر شیرخوار بچے کو کھلائین جلد باتین کرنے لگے جس گھر مین یہ جانور ہو اس گھر والون پر جادو کا اثر نہین ہوتا۔

قاف با نون

قنا - قنی - نام ایک نبات کا ہے جسکے پتے پودینہ کے سے ہوتے ہین نام مین مشہور نام اسکا کلخ ہے اسواسطے باب کاف باللام مین بیان اسکا تحریر ہوگا

قنب - ہندی مین اسکو بنگ اور بھنگ کہتے ہین اور ہزارون لوگ اسکو گھوٹ کر پیتے ہین اور ایسے عادی ہوتے ہین کہ بے پئے بغیر انکی زندگی مشکل ہوتی ہے چرس بھی اسی کا بنایا جاتا ہے جسکا دھوان چلم مین رکھ کر پیتے ہین بعض اسکے عادی ہوکر دیوانہ و ہلاک ہوجاتے ہین ہر ایک ملک مین یہ نبات ہوتی ہے پتے اسکے تیسرے درجے مین سرد خشک بیج اسکے گرم خشک ہین اور خواص درج کتب طبیہ ہین۔

قنفذ - مشہور جانور تیرانداز ہے جسکو ہندی مین سین کہتے ہین خار پشت کلان فارسی مین اسکا نام ہے اگر کوئی اسکو پکڑنا چاہتا ہے تو وہ جمع ہوکر اپنے آپکو ہلاتا ہے اور اسکے جسم سے خار نکلکر دشمن پر جا پڑتے ہین جنگلی - پہاڑی - دریائی تینون قسم کا یہ ہوتا ہے طبیعت اسکی گرم خشک گوشت اسکا مجفف و محلل قوی راکھ اسکی جالی ہے۔

قنطوریون کبیر - یہ ایک نبات ہے ساق مشابہ ساق حماض بلندی مین دو گز تک شاخون پر قبہ خشخاش کی طرح پھول سرخی پتے مشابہ پتے جوز کے جڑ موٹی لمبی دو گز تک اور سخت اور سرخ رنگ بھری عصارہ اسکا سرخ خون کی رنگت پر طبیعت اسکی دوسرے درجے مین گرم اور خشک اور عصارہ اسکی جڑ کا قوی تر ہر جزو سے محلل و قابض و جالی و دافع ضیق النفس و عسر النفس و سرفہ کہنہ ہے۔

قنطوریون صغیر - یہ ایک نبات حوض و تالاب کٹھرے پانی کے کنارے پیدا ہوتی ہے ایک بالشت تک بلند پھول سرخ مائل بہ بنفشی مشابہ گل شبو پھل گیہون کا سا ذائقہ مین سب اجزا تلخ جڑ چھوٹی سی اور بے فائدہ طبیعت اسکی تیسرے درجہ گرم و خشک لطیف تر اور قوی تر کبیر سے ہے ہر فعل مین۔

قندس - معرب کندس کا ہے جسکا بیان حرف کاف با نون مین تحریر ہوگا انشاء اللہ تعالے اور کندس آبی کتے بلغاری کو کہتے ہین جسکے خصیون کو جندبیدستر کہتے ہین اور اسکے چمڑے کی پوستین بناتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک پہننا اسکے پوستین کا گرم کرنے والا بدن اور دور کرنے والا بیماری نقرس کا۔

قنبیط - یہ ایک نبات کرنب کے اقسام مین سے ایک قسم ہے پتے اسکے مشابہ پتے چقندر کے مزہ تلخ اور شیرین ملا ہوا وسط مین ایک ساق اور ساق پر پتون کا ایک مجمع بطور پھول کلی کے بیچ اسکا فرنگ کی ولایت سے لایا گیا ہے ہر سال اسکی زراعت ہوتی ہے سردی جسقدر زیادہ ہو اسکی خوبی بڑھتی جاتی ہے طبیعت اسکی گرم خشک مدر بول مولد خون ہے لوگ اسکو کثرت سے کھاتے ہین۔

قنبیل - معرب کپیل ایک درخت پہاڑی کا ہے درخت اسکا مشابہ درخت معصفر کے پھل مشابہ نارنج کے پختہ ہوکر کھٹ جاتا ہے اسمین ایک چیز سرخ تیرہ رنگ نکلتی ہے اور زمین پر گرتی ہے لوگ اسکو اٹھا لیتے ہین وہی قنبیل ہے طبیعت اسکی گرم و خشک ہے اسکے کھانے سے معدہ کے کرم سب نکل آتے ہین اور مسہل رطوبات لزجہ کا ہے۔

قنبرہ - یہ ایک پرندہ خوش شکل اور خوش آواز ہے اور سر پر تاج ہدہد اور طاؤس کی طرح رکھتا ہے طبیعت اسکی گرم اور خشک اور گوشت اسکا اور چڑیون کی طرح ہے خواص مین مگر خاصیتاً اورون سے قوی تر اور مصلح الغذا واسطے ان بیمارون کے ہے جنکی بیماریان بلغمی ہین۔

قنابری - ایک نبات ہے کہ ربیع کی ابتدا مین جمتی ہے اور آخر ربیع تک رہتی ہے پتے اسکی اسفناج کی شکل پر شاخ پتلی پھول سپید بیج غلاف مین لقدر دانہ چنے کے طبیعت اسکی گرم اور خشک لطیف اور جالی

اور مقطع منقی سینہ مدر بول و حیض شیرہ عرق ہی۔

قاف با واو

قوطولیدون - ایک نبات ہی کہ پتے اُسکے گول اور ساق چھوٹی بیچ اُسکے متصل ساق کے اطراف مین جڑ اُسکی مانند زیتون کے طبیعت گرم خشک قابض و رادع و جالی و محلل مسکن سوزش معدہ ہی۔

قوقی - یہ ایک جانور بحری مشابہ آدمی کے طبیعت اُسکی گرم و خشک گوشت اُسکا واسطے صرع اور اختناق رحم کے مفید ہی۔

قاف با ہاے

قہوہ - پھل ایک درخت کا ہی کہ یمن اور حبشہ اور ترکستان مین ہوتا ہی اُسکو جوش دیکر پیا کرتے ہین اسکو بن کہتے ہین تشریح اُسکی باب بانون مین تحریر ہوگی اور نام ایک قسم کی غلیظ شراب کا ہی۔

قاف با یاے

قیقہر - رال مشہور چیز ہی گوند ایک درخت کا ہی بعض کہتے ہین کہ سال کے درخت کے پوست کے نیچے سے نکلتی ہی طبیعت اُسکی گرم و خشک محلل و جالی و منقی دماغ دافع صرع و استسقا و ادرار حیض ہی۔

قیصوم - یہ نبات مادہ اور نر دو قسم کا ہوتا ہی نر کی شاخین پتلی اور پھل چھوٹا مشابہ افسنتین کے پھول کے رنگ اور چھوٹا مادہ کے پھول سے مائل بسپیدی مادہ مشابہ درخت شاخین اور پتے بڑے اور بروایت لیسدار شاخون کی سرا اور کنارون پر پھول گول زرد طلائی رنگ اور خوشبو تیز مزہ تلخ پھل مانند حب الآس کے گرمیون مین پھولتا ہی کہتے ہین کہ مادہ اُسکا برنجاسف اور نر قیصوم ہی طبیعت اُسکی گرم او خشک قوت تحلیل اُسکے پھول کی افسنتین سے زیادہ نطول اُسکا دافع درد سر بارد اور جوشاندہ ضیق النفس کا علاج ہر ایک قسم کے زہر کو دفع کرتا ہی اگر شراب کے ساتھ بیمار کو پلائین حمول اُسکا مخرج جنین ہی۔

قیروطی - موم روغن کو کہتے ہین یعنی موم مین روغن کنجد یا کوئی اور روغن جو آگ پر رکھ کر موم کے ساتھ ملا دیا گیا ہو یہ موم روغن واسطے نرم کرنے اکثر اورام کے استعمال کیا جاتا ہی۔

چھبیسوان باب

کاف تازی کے بیان مین اسمین بھی بدستور پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

عربی و فارسی وغیرہ لغات کے ذکر مین

کاف تازی با الف

کالا - ضروری اسباب درخت سواے حیوان کے اور ہندی زبان مین بانگ و فریاد و شور و غوغا - **جامی** - چو کالا را شود جوینده بسیار ٭ فزون گردد بدو میل خریدار ٭

کارکیا - خداوندگار - حاکم فرمان فرما اور ایک عنصر عناصر اربعہ سے۔

کاکا - بڑا بھائی اور باپ کا بھائی اور وہ غلام جو تمام عمر گھر مین پرورش پاتا رہا ہو اور خدمت کرتے کرتے ضعیف ہوگیا ہو۔

کانا - آدمی جو بے عقل و بیوقوف ہو اور خوشۂ انگور جس سے دانہ انگور کے اتار لیے ہون یا خوشۂ خرما کا اور ہندی مین وہ شخص جسکی ایک آنکھ ہو۔

کاہربا - وہ چیز جو گھاس کو اُٹھا لیتی ہی کہتے ہین کہ وہ ایک قسم کے درخت جوز کا گوند ہی بعض کے نزدیک جوز رومی کا گوند ہی بعض کہتے ہین کہ حدود روس مین ایک چشمہ ہی جب اُسمین جوش ہوتا ہی تو پانی باہر آکر جم جاتا ہی اُسمین طاقت کہربائی کی ہی بعض کہتے ہین کہ وہ ایک پتھر ہی زرد رنگ شفاف چمکتا ہوا جو کوئی اپنے پاس رکھے یرقان کی بیماری سے امان مین رہتا ہی - **مؤلف** - میکشد دلہا ے اہل درد را ٭ سوے خود عشقت بشکل کہربا ٭

کاسب - کسب کرنے والا - صاحب حرفہ و پیشہ - **مؤلف** - کسب کمال کاسب اہل ہنر کند ٭ بیکس بود چو صاحب کسب کمال نیست ٭

کاتب - لکھنے والا - کتابت کرنے والا - **مؤلف** - محو گرد و ز سرگشتگی ٭ آنچہ کلک کاتب قدرت نوشت ٭

کارچوب - بروزن خاکروب جولاہون کا نال جس سے کپڑا بنتے ہین اور عربی مین اسکو منج کہتے ہین۔

کات - ایک قسم کے چانول ہین جو ولایت شوستر مین پیدا ہوتے ہین ایک دفعہ بوئین تو بیج اُسکا سات برس تک پھل دیتا ہی اور نام ایک بستی کا ہی خراسان مین اور سپاری جسکو کتریان کے ساتھ کھاتے ہین۔

کاوت - جستجو کرنا - تلاش کرنا صیغۂ ماضی مصدر کے معنی دیتا ہی۔

کاسات - جمع کاسہ جسکے معنی پیالے کے ہین بہت سے پیالے - **محی الدین عبد القادر جیلانی** - سقانی الحب کاسات الوصال ٭ فقلت لخمرتی نحوی تعالے ٭

کاشت - زراعت کرنا کھیتی کرنا اور یہ ماضی بمعنی مصدر ہی۔

کاست - کم ہونا - گھٹ جانا - اور کم ہوا۔

کائنات - عالم موجودات - مخلوق الٰہی - **توحید** - از دل و جان ہر کہ شد مشتاق ذات ٭ ذات را بیند ز انوار صفات ٭ - **موجد**

ریحا دل اہل دید را دیدہ سے نما بد از وجود کائنات ؂

کاج - کلاہ افسر بھی سکو کاش بھی کہتے ہیں اور نام ایک قسم کے درخت صنوبر کا اور سیلی یعنی سکا جو کسی کی گردن پر ماریں تحقیق بیج عالی در خواست سکا حسش ؂ ہر جز بر رخ آسمان خورشید انوری ہر تربیت توہیچ چرخ از دکاج خوردہ در جنبش ؂ کوہ کوہ از دکوس خوردہ در بالا ہے ؂ - چرا مغرور بر دنیاے فانی سعدی ؂ مرد دنیا دار اے کاج ؂

کابلیچ - انگشت کوچک یعنی چھوٹی انگلی ہاتھ کی یا پانون کی جسکو خنصر کہتے ہیں -

کانیچ - ایک دوا کا نام ہے جسکی تشریح پانچوین فصل مین کیجاینگی -

کالیچ - نام ایک میوہ کا ہے جو بیر کی شکل پر ہوتا ہے خراسان مین اسکو علف شیران اور عربی مین زعرور کہتے ہین -

کالوج - ترکی زبان مین کبوتر کو کہتے ہین جو سفید ہو یہ نادرہ ہے

کاخ - کوشک و قصر و عمارت بلند و خانہ بے روزن اور نام ایک قصبہ کا خراسان مین اور بارش جسکو ہندی مین مینھ کہتے ہین سلوجی ؂ چرا بلند کند بندہ قصر دنیا را ؂ کہ شکل خاک شود در انقلاب روز کاخ

کالوخ - ایک بدبو گھاس کا نام ہے جسکو گندنا کہتے ہین بعض کے نزدیک یہ نام سیر یعنی لہسن کا ہے -

کانخ - وہ میخ جسکا سر چوڑا ہو لوہے کی ہو یا لکڑی کی -

کاسد - نقد و جنس و اسباب جو بے رواج و کم قیمت ہو جسکو خریدار رغبت سے نہ لے - سعدی ؂ متاع گران مایہ کاسد مباد ؂ دگر باد خبیث حاسد مباد ؂

کاربند - عمل کرنے والا - کام کرنے والا - مولانا حیدر لاہوری ؂ دم مزن از ذکر حق زنہار بند ؂ باش دریاد آلہی کاربند ؂

کارد - چھری - چکو وغیرہ جس سے کوئی چیز کاٹین اس لفظ مین حرف را ے موقوفہ ہے نہ متحرک سعدی ؂ نہ بینی کہ چون کارد بر سر رود ؂ قلم بر از پاش روان تر شود ؂

کالبد - قالب ہر چیز کا بدن اور جسم انسان و دیگر حیوانات کا حکیم انور لاہوری ؂ در مقام قرب جان پاک رفت ؂ کالبد خاکی بزیر خاک رفت ؂

کاد - حرص و ہوا و طمع -

کائد - مکار - فریبی - دغاباز -

کاغذ - معرب کاغذ جو دال مہملہ کے ساتھ ہے مشہور چیز ہے جسپر کتابین لکھی جاتی ہین عربی مین اسکو قرطاس کہتے ہین - توحید بیکس تحریر از درد درون اے نکتہ دان کاغذ ؂ کہ وقت شرح باشد با زبان ہمزبان کاغذ ؂ بکلک بندگی تحریر خط غلامی کن ؂ کہ پیش حق بود بر حالت شاہد ہمان کاغذ ؂ و ہر وقتیکہ نقش حسن نقاش ازل جلوہ ؂ گہر بارد زبان خامہ گردد زر فشان کاغذ ؂ بہر دفتر کہ ہر اہل نظر باید نظر آید ؂ ہمان کاتب ہمان مضمون ہمان کلک و ہمان کاغذ ؂

کافر - بکسر فا - چھپانے والا - پوشیدہ کرنے والا یعنی چھپانے والا حق کو اور کلمہ حق سے خاموش و بیدین و لامذہب اہل فارس حرف فا کو مفتوح بھی باندھتے ہین چنانچہ کافر کو خنجر کے ساتھ قافیہ کیے ہین - میر خسرو ؂ زامن داشتہ عزم تو پیش خوف ستان ؂ ز عدل ساختہ خرم تو پیش ظلم سپر ؂ زبان تیغ تو پیوستہ در دہان عدو ؂ بستان رمح تو ہموارہ در دل کافر ؂

کافور - مشہور خوشبودار چیز ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو درخت سے حاصل ہوتا ہے دوسرے عملی جو ایک لکڑی کو جوش دیکر نکالا جاتا ہے اور نام ایک بادشاہ کا جو ظالم تھا اور آدم خوار رستم نے اسکو پکڑکر مار دیا اور نام ایک چشمے کا ہے بہشت مین ؂ - صبح صادق مرہم کافور دارد در بغل ؂ گر علاج زخم عصیان میکنی بیدار باش ؂

کالنجر - ہند مین ایک قلعہ ہے -

کاچار - گھر کا اسباب ضروری سامان -

کارزار - جنگ جدل - لڑائی - فساد - سعدی ؂ چہ مردی کند در صف کارزار ؂ چو دستش تہی باشد و کارزار ؂

کار - صنعت کسب طریق - کام و نشان فاعل چنانچہ جفاکار - سعدی ؂ چو جاہل کسے در جہان خوار نیست ؂ کہ نادان تر از جاہلی کار نیست ؂

کاسر - توڑنے والا - اور نام ایک درد کا ہے جس سے بدن ٹوٹتا ہے -

کاشغر - توران مین ایک شہر ہے -

کاخر - بکسر آخر حرف خاے معجمہ یرقان کی بیماری اور وہ زردی جو زراعت پر آجاتی ہے اور غلہ کو برباد کرتی ہے -

کاشمر - ترکستان مین ایک شہر ہے اور نام ایک قریہ کا ولایت ترشیز علاقہ خراسان مین تاریخ مین لکھا ہے کہ زردشت پیشواے مجوس نے دو درخت سرو بطالع سعد ایک کاشمر اور دوسرا فارمد مین جو متعلق طوس ہے قائم کیے مجوس کا اعتقاد تھا کہ زردشت دو شاخین سرو کی بہشت سے لایا اور ایک شہر فارمد مین لگائین جو بڑھ کر سرو عظیم ہوگئی متوکل عباسی خلیفہ نے عمارت جعفریہ کے وقت طاہر بن عبد اللہ

حاکم خراسان کو لکھا کہ کاشمر کے درخت زردشتی کو کاٹ کر لکڑی اُسکی بغداد مین بھیجدے آتش پرستون نے جمع ہوکر پچاس ہزار اشرفی درخت کے عوض مین دینا کیا مگر قبول نہوا اور وہ درخت گرا یا گیا گرنے کے وقت زمین مین ایسا زلزلہ آیا کہ بہت سی عمارتین گر گئین ایکہزار چار سو پچاس برس کے بعد یہ درخت اکھاڑا گیا اٹھائیس جریب موٹا یہ درخت تھا دو ہزار گائے اور بکری اُسکے نیچے آرام کرتے تھے ہزارون جانورون کے گھونسلے اُسپر تھے گرنے کے وقت اتنے جانور اُڑے کہ دھوپ بند ہوگئی اور ایکہزار تین سو اونٹ لادکر لکڑی بغداد کو بھیجی گئی اور گاڑیون کے کرایہ پر پانچ لاکھ درم خرچ ہوا جب وہ لکڑی جعفریہ عمارت کے پاس پہونچی اُسی رات متوکل خلیفہ کو اُسکے غلامون نے مار ڈالا

کالار۔ کوئی گڑھا پانی سے بھرا ہو جس سے گھوڑا اور آدمی کود سکے

کالوتر۔ غلہ دان جو لوگ گھرون مین بناتے ہین اور [illegible] اُسکو کوٹھی کہتے ہین۔

کاوکلور۔ ترکی زبان مین آلہ تناسل جسکو قضیب بھی کہتے ہین۔

کاز۔ نی بست جھونپڑا اور وہ ٹٹی چھپر گھاس وغیرہ کی [illegible] اور خدا پرستون کا صومعہ و درخت صنوبر اور [illegible] جس سے لوہا کترتے ہین اور شمع کا گل اتارتے ہین گلگیر [illegible] اُسکا نام ہی اور گھاس جسکو جانور کھاتے ہین اور جھولا جو درخت کے ساتھ رسی باندھکر اور اُسپر چڑھکر جھولتے ہین اور وہ آلہ جس سے باغبان درختون کی شاخین کاٹتے ہین۔

کاریز۔ وہ بدرو پانی جو زمین کے اندر اندر جاتی ہے [illegible]

کاناز۔ درخت خرما کا وہ موقع جہان خوشے لگے ہوئے ہون۔

کارساز۔ کام بنانے والا ذات خدا عزّ وجل۔ شعر۔ کارساز ما بفکر کار ما۔ فکر ما در کار ما آزار ما۔

کاس۔ نقارہ اور طاس نقارے کا جسپر چمڑا منڈھا ہو اور عربی مین پیالہ شراب کا بھرا ہوا اور مطلق پیالہ اور خوک نر جو مادہ خوک جسکو عربی مین خنزیر کہتے ہین۔

کالوس۔ احمق و نادان و ابلہ و بے عقل۔

کاموس۔ نام ایک پہلوان کا جو [illegible] کا بادشاہ تھا [illegible] اُسکی سلطنت تھی افراسیاب بادشاہ توران کی مدد کو آیا رستم نے اُسکو کمند مین پکڑا اور مار دیا۔

کابوس۔ ایک بیماری کا نام ہی جس سے آدمی خواب مین ڈرتا ہی ایسی صورتین خواب مین اُسکو دکھائی دیتی ہین جیسے وہ کاٹنے کو اُٹھتا ہو۔

محمد رفیع واعظ۔ نگر در خواب بیند اہل دنیا روے بیداری چہ بود
کابوس خواب غفلت این بار ثقیل

کاورس۔ ایک غلے کا نام ہی جسکو ہندی مین چینہ کہتے ہین معرب اُسکا جاورس ہی۔

کاؤس۔ ایک عظیم الشان بادشاہ کا نام ہی جسکو کیکاؤس کہتے تھے اُسی کا ملازم رستم تھا بعض کہتے ہین کہ یہ نام نمرود کا تھا بعض کے نزدیک یہ نام فرعون کا تھا معنی اُسکے پاک و لطیف و اصیل و نجیب و نامی و مؤید بتائید الٰہی و شعلہ و شرارہ۔ توحید۔ کجاست رستم و زال و کجاست کیکاؤس۔ کجاست قیصر روم و کجاست انسر روس۔ کجاست حکمت لقمان و فضل بطلیموس۔ کجاست علم فلاطون و طب جالینوس۔ کجاست فوج سکندر کجاست لشکر جم۔ کجاست تاج حکومت کجاست تخت جلوس۔ کجاست سلطنت کیقباد و کیخسرو۔ کجاست عہد منوچہر حکم دقیانوس۔ خداست مالک ملک و خداست خالق خلق۔ خداست قادر و قیوم و قائم و قدوس۔

کاش۔ اے افسوس یہ کلمہ افسوس و حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہی اور نام ایک شہر کا عراق مین۔ صحبت با اسیر اشفتین تنہا۔ یار ترک دیدار اغیار کردی کاشکے۔ عاشقان را از نگہ سرشار کردی کاشکے۔

کاکوش۔ دری زبان مین گل خفتہ جو مشہور [illegible]

کالجوش۔ درویشون کا کھانا کہ ٹکڑے روٹی کے جو روزمرہ کھانے سے بچ رہین وہ خشک کر رکھتے ہین جس روز انکو پھر پکانا منظور ہو پہلے پانی مین بھگو رکھتے ہین پھر پانی ڈالکر پکاتے ہین نمک مرچ اور گھی اُسپر ڈالکر کے اُتار لیتے ہین اور کھاتے ہین بعض اُنمین قند سیاہ ڈالکر میٹھا بنا لیتے ہین۔

کاوش۔ بمعنی ہر قسم کے [illegible] اور ماست یعنی دہی۔

کانغ۔ بمعنی خوردہ چارپایون کا اور نالہ و فریاد اور کوے کی آواز اور نام ایک جانور کا ہی۔

کاغ کلاغ۔ آواز زاغ کو کہتے ہین اور آواز اور شور و فریاد۔

کاف۔ مخفف شکاف اور نام ایک جزیرے کا اور نام ایک حرف کا حروف تہجی سے اور شتر مادہ جسکے دانت گھس گئے ہون۔

کاشف۔ ظاہر کرنے والا کھولنے والا پیدا کرنے والا۔ صفدر فوقانی۔
عالم ہر علم ذات سائیش ہی کاشف ہر پردہ و دانا سے رازہا

کاسغنا۔ میلا ہونے والا۔ سیاہ ہونے والا۔ مکدر ہونے والا۔ گھن لگنے والا۔ جیسے گیہون کو گھن لگتا ہے۔

کاک - پتلی روٹی اور لاغر آدمی اور نام ایک قلعہ کا ولایت آذربایجان
مین - منیر - از غم نان ہلاک گردیدہ ٭ کاک از شوق کاک گردیدہ ٭
وله - از باغ جہان بمرگ خاک ٭ نشنیدہ بغیر قلعہ کاک ٭
کاکب - بضم بائے موحدہ آشیانہ مرغون کا اور گھر کبوترون کا
اور برفیدہ جو نان پر روٹی اُسپر چوڑی کرکے رکھتا ہے اور تنور مین لگاتا ہے
کاچک - آدمی کے سر کا بالائی حصہ جسکو سر کا کاسہ کہتے ہین -
کاواک - خالی و بے مغز اور ہر ایک چیز جو اندر سے خالی اور پولی ہو -
کاربجک - خیار دراز یعنی ککڑی جو مشہور پھل ہے -
کارنک - صاحب طرب و چرب زبان و زبان آور -
کاسجوک - خار پشت کلان تیر انداز -
کاسک - چھوٹا کاسہ پانی پینے کا کٹورا -
کاغک - خورمی و خوشحالی اور نام ایک مرغ کا جو سیاہ رنگ
حوضون کے کنارون پر رہتا ہے بعض مرغابی کو کاغک کہتے ہین -
کالک - کچا خربزہ جسکو عربی مین خضب کہتے ہین اور نام ایک
آہنی اوزار کا جس سے حجام پچھنے لگاتے ہین
کالوسک - باقلا جو مشہور تخم ہے -
کاچال - گھر کا اسباب ضروری اور سامان -
کابل - مشہور شہر ہے ہندوستان کی شمالی حدود پر -
کامل - جو آدمی صاحب کمال ہو اور نام ایک بحر کا نظم کے اُنہیں
بحرون مین سے - سعدی - لاجرم مرد عارف و کامل ٭ ننہد
بر حیات دنیا دل ٭
کاکل - انسان کے سر کے بال جو درمیان سر کے ہون اور گھوڑے
کی گردن کے بال کاکل کو موئے تارک سر اسواسطے بھی کہتے ہین کہ
تیر سر گذار کو تیر کاکل ربا بولتے ہین - جعفر بیگ - فرقے میان کاکل
و زلف بتان کجاست ٭ شو بہ بارہ راہ باغ و دل انتخاب کو ٭
کافل - ضامن صاحب ذمہ - نعتیہ از لاہور - راہ رابادی دلیل
توئی ٭ کار را کافل و کفیل توئی ٭
کاہل - سست اور نکما آدمی - توحید - مباش بے خبر و سست و
جاہل و کاہل ٭ کہ ہست بندۂ بے علم از خدا غافل ٭ مشو بصورت
زیبائے این جہان مائل ٭ کہ نیست در گذر از درد و رنج و غم حاصل ٭
بزیب و زینت دنیائے دون مشو نازان ٭ کہ ہست بہر دو سہ روز گرم
این محفل ٭ چو ابر رحمت حق باش درمیان جہان ٭ سخی و فیض رسان
فیض بخش و دریا دل ٭

کاچول - حرکت دینا دونون چوتڑون کو وقت رقص اور نقالی کے -
کاکول - نام ایک قسم کے گندم یعنی گیہون کا ہے جسکو خنطۂ رومی بھی
کہتے ہین اور نام اُس گھاس کا جس سے سجی بناتے اور اشنان
اور حمص بھی اُسکا نام ہوا اور وہ قلم جو اندر سے پولا ہوا اور وہ پھول
جو پانی مین ہوتے ہین مثل نیلوفر وغیرہ اور بال گھوڑے کی گردن کے -
کال - ژندی زبان مین جگہ و مقام اور صحن و میانہ گھر کا و بمعنی
ہزیمت و گریزا اور کھودی ہوئی زمین اور ہر چیز جو ٹیڑھی اور خمیدہ
ہو اور میوہ جو خام اور نارسیدہ ہوا اور بچہ جو بالغ نہوا ہو -
کاوُل - بضم واو پہاڑی گندنا اور باورچی و سفرہ چی جو کھانا
کھلانے پر متقرر ہو چاشنی گیر -
کام - کامہ - مقصود خواہش آرزو اور سقف حلق یعنی تالو و بمعنی
دہ و قریہ یعنی گانون - سعدی - بر من فتادہ دشمن کام آخرا ہو دون گذرنید
روزگارم بشد بہ نادانی ٭ من نکردم شما حذر بکنید ٭ نظامی - کامہ
دل گرچہ زجان خوشتر است ٭ عاقبت اندیشی ازان خوشتر است ٭
کاظم - غصہ کھانے والا صاحب تحمل و بردبار و لقب امام موسیٰ
بن جعفر صادق علیہم التحیۃ والسلام -
کاعِم - خاوند والی عورت مقابل باکرہ کے یا وہ عورت جسکا خاوند
مرگیا ہو یا مطلقہ ہو یعنی خاوند نے اُسکو نکالدیا ہو -
کاشم - ایک دوا کا نام ہے جسکو انگدان و انجدان رومی بھی کہتے ہین
کامران - مقصود مند - صاحب نصیب - میر معزی - شکر او کن
تا شوی بر ہر کہ خواہی کامگار ٭ نام او خوان تا شوی بر ہر کہ خواہی کامران
کان - پیدا ہونے کی جگہ جیسے کہ کان نمک و کان آہن و کان زر
وغیرہ - مؤلف - شد دو چندان از وجودش شان جود ٭ ہست
دانش بحر لطف و کان جود ٭
کاہکشان - یہ شکل آسمان پر نہایت چھوٹے ستارون کے اجتماع کے
سبب ایسی نظر آتی ہے جسطرح گھاس کا گٹھا کسی نے نرم زمین پر کھینچا
ہو اور اُسکے خراش سے زمین پر نقش پڑگیا ہو - ابو طالب کلیم -
مرنج از کس کہ گلپشت کہ بینی زآسمان آید ٭ ہمہ تیر حوادث از کمان کہکشان آید ٭
کابین - حق مہر عورت کا جو نکاح کے وقت بذمہ شوہر مقرر ہوتا ہے -
کانون - آتشدان اور دانہ پزون کی بھٹی اور انگیٹھی اور نام مہینون کا
رومی زبان مین ایک کو کانون اول دوسرے کو کانون دوم
کہتے ہین جو تقریباً پوس اور ماگھ ہین -
کائن - ہونے والا شدنی -

کاہن - بہ پاسے ہوز فال لینے والا یا نوروں کی آواز سے اور جادوگر اور غیب کی باتین تبلانے والا-

کامن - پوشیدہ ہونے والا- چھپنے والا-

کاشان - نام ایک شہر کا ہی-

کاربان - اونٹون کی قطار-

کاروان - قافلہ - لشکر - گروہ-

کارتن - عنکبوت جو ایک مشہور جانور ہی ہندی مین اُسکو مکڑی کہتے ہین-

کارسان - وہ صندوق جسمین کھانا رکھا جائے-

کازرون - ایک شہر کا نام ہی فارس مین-

کاسان - سمرقند کے پاس ایک بستی ہی-

کاکبان - گل کاجیرہ کسنبھ کے پھول-

کاؤ کاؤ - چھیلنا - خراشنا - ڈھونڈھنا - تلاش کرنا - آواز دینا
کاشغر - از کاؤ کاؤ ناخن مطرب درین بہار ہجو شید خون تازہ زہر رگ کہن ا

کاکو - مان کا بھائی یا موں جسکو فارسی مین خال کہتے ہین اور نام ایک پہلوان کا جو دختر زادہ ضحاک کا تھا - محمد قلی سلیم - نتوان یافت ولی خوش بجہان اے کاکو چہ روے گاہ سوے گنجہ و گاہے با کوبہ

کالیو - سرگشتہ و حیران و دیوانہ و احمق-

کامرو - ہندوستان کے ملک بنگالہ مین ایک علاقے کا نام ہی-

کاسمو - چمڑے کی ڈور جس سے جوتے سیتے ہین و خنزیر یعنی خوک اور خوک کی مونچھون کے بال-

کاغنو - ایک کرم سیاہ رنگ زہردار کا نام ہی جسکو خزرہ بھی کہتے ہین بعض کا قول ہی کہ وہ ایک مرغ ہی جسکا نام عروسک بھی ہی اور تمام رات اُڑا کرتا ہی-

کافیلو - ایک گھاس نہایت باریک ہی جسکو عربی مین عودشکاعی کہتے ہین اور جو شخص نہایت لاغر ہوتا ہی اُسکی نسبت کہتے ہین کانہ عودشکاعی

کانیرو - نام ایک دوا کا ہی جسکو ماذریون کہتے ہین استسقا کا علاج ہی

کاہو - مشہور تخم ہی جو دوا مین مستعمل ہی عربی مین اسکو خس کہتے ہین اور آتش پرستون کا جنازہ اور وہ تابوت جسمین وہ مردہ رکھتے ہین-

کاژیرہ - کاجیرہ - گل معصفر جسکو ہندی مین کسونبھ - کسنبھ کہتے ہین-

کاسہ - پیالہ اور طبل اور نقارہ-

کاشانہ - چھوٹا گھر و مختصر مکان اور زمستانی مکان جسکے روشندان مین روشنی کے واسطے آئینہ لگائے ہوئے ہون کہ کاش آئینہ کو کہتے ہین - حافظ - حجابانہ درآ از در کاشانہ ما کہ کسی نیست بجز درد تو در خانہ ما

کافیہ - نام ایک کتاب کا علم نحو مین جسکی بہت سی شرح ہین اور شرح ملا جامی کی اُسی کتاب کی شرح ہی - طغرا - از و کافیہ گشت زیر و زبر نشد آگہ از مبتدا و خبر

کالہ - ہر ایک برتن خصوصًا شراب کی صراحی اور تغلدان جسکو پیکدان بھی کہتے ہین - حکیم شفائی - کالہ کون بدوش سگردد ہمچو حلواز فروش سگی

کاوہ - نام ایک لہار کا جسنے ضحاک پر خروج کرکے اُسکو قتل کیا اور فریدون کو بادشاہ بنایا-

کالیوہ - سرگشتہ و حیران و احمق و دیوانہ اور بہرا جو سن نہ سکے-

کالیدہ - پریشان و برہم و درہم

کازہ - وہ مغاک جسمین چھپ کر شکاری بیٹھتا ہی-

کاجیشہ - گل معصفر کسنبھ کے پھول کاژیرہ و کاجیرہ کے یہی معنی ہین-

کاشفہ - جماعت - گروہ-

کاورسہ - ہر چیز جو ریزہ ریزہ ہو-

کانبہ - ژندی زبان مین آنکھ-

کابیلہ - ہاون دستہ جسمین عطار دوائین کوٹتے ہین-

کالورہ - سرگشتہ و حیران و سرگشتگی و حیرانگی و دردسر و سرگردانی-

کاچہ - ٹھوڑی ڈاڑھی اُگنے کی جگہ-

کاخہ - بارش - مینہ-

کارہ - وہ بوجھ جو پیٹھ پر اُٹھایا جائے-

کاسانہ - ایک مرغ سبز رنگ کا نام ہی سرخی مائل خوزستان کی ولایت مین کاسکینہ بھی اُسکو کہتے ہین-

کاشہ - گھاس جو کھیتون کے کنارے پر لگائی جاتی ہی اور تیغ جو سردیون مین جم جاتی ہی-

کاتبی - ایک طرح کا جامہ جو اُسکی آستین کوتاہ ہون اور نام ایک شاعر کا جو باوجود شاعری کے خوشنویس بھی تھا-

کاغذی - دفتر کا مالک اور کاغذ بنانے والا - اور دفتری اور ہر چیز جسکا پوست پتلا ہو جیسے کہ بادام کاغذی و جوز کاغذی و لیمو کاغذی وغیرہ - آزردہ - تا کسے شوی ترش و شیرین شمائل من ہو مکتوب عاشق ست این لیموے کاغذی ست

کاہلی - سستی مقابل چستی - صائب - کاہلی از بسکہ پیچیدست بر اعضاے من ہو بگذارد نقش پاے من سلاسل بر زمین

کالیوگی - سرگشتگی و دیوانگی-

کاشی - کاش کا رہنے والا-

کادی - بکسر دال جو تیسرا حرف ہے ایک نبات ہے جسکا پھول کمال خوشبو رکھتا ہے ہندی مین اُسکو کیوڑا کہتے ہین -
کافی - کفایت کرنے والا - بس کرنے والا - دانا و کارگزار و پیشکار - نام ایک کتاب کا فقہ مین اور دوسری کتاب کا نحو مین اور نام ایک راگنی کا موسیقی مین - چراغ الدین روشن - پیش حق بہر مغفرت مارا * ہست در حشر مصطفےٰ کافی *
کاوی - آگ سے داغ دینے والا عضو پر -
کاسوے - خوک کے بدن کے بال -
کاشکے - اے افسوس کلمہ تمنا و حسرت کا - محمود - یار را بہر نظر بسیار بود ے کاشکے * ہمدم جان و دل انگار بودے کاشکے *
کاروسی - نام ایک جانور کا جو آواز خوش رکھتا ہے اور نام ایک حکیم کا جو سلطان محمود کے روبرو گذشتہ بادشاہون کے حالات پڑھا کرتا تھا -
کانی وہ چیز جو کان سے نکلے - توحید - خدا ئے سنگ برآورد جوہر کانی * بخاک کرد عنایت کمال انسانی *
کاسنی - ایک دوا کا نام ہے جسکی تشریح پانچوین فصل مین تحریر ہوگی -
کاتوزی - جمشید بادشاہ نے اپنے وقت مین اپنی رعیت کو چار فرقوں مین تقسیم کیا ایک کا نام کاتوزی رکھا یعنی عابد و زاہد آنکو حکم دیا کہ عبادت کرین علم پڑھین گزارہ بادشاہ سے پائین دوسرے فرقے کا نام نشاری رکھا انکو سپاہگری کی اجازت دی اور فوج مین بھرتی کیا تیسرے کا نام نسودی رکھا اور زمیندار بنایا چوتھے کا نام اہنوخوشی رکھا اور ہر ایک طرح کے کسب پیشہ و خدمت کے لیے حکم دیا -
کاکی - لقب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار چشتی جو خواجہ معین الدین حسن سنجری کے جانشین دہلی کے قطب تھے چونکہ حضرت گرم گرم کاک اپنی بغل سے نکالکر سوالیون کو دیتے تھے کاکی مشہور ہوے -
کالی - محافظت کرنے والا نگہبان اور نسیہ یعنی اُدھار مقابل نقد کے -

کاف با یاے -

کبریا - بکسر اول بزرگی - شان و شوکت - مولانا اکبر - کبریائی شان و شوکت درجہان * صرف می زیبد بذات کبریا *
کبرہی - بزرگتر عورت -
کبدا - تعجیل و شتاب اور جلدی اور فربہ پرگوشت اور سریش جس سے لکڑی جوڑتے ہین
کبریا - کبروا - وہ آتش جو جنرات یعنی دہی سے بناتے ہین -
کبیتا - ایک قسم کے حلوے کا نام ہے جو مغز بادام و پستہ وغیرہ ڈالکر بناتے ہین -
کبیب - بروزن نصیب مست و بدہوش اور منہ کے بل گرا ہوا -

کباب - بھونا ہوا گوشت جو مشہور چیز ہے - توحید - لاجوابی لاجواب * بے حسابی بے حساب * گاہ از ذرہ شوی پرتو فگن * گاہ روشن بشوی از آفتاب * عاشق ست کباب از دل کند * میخورد خون جگر جاے شراب * آید آواز تو عاشق را بگوش * از صداے بربط و چنگ و رباب *
کبت - چہرہ آدمی کا -
کبت - خوار کرنا - ہلاک کرنا - منہ پر گرانا -
کبریت - گندھک جو مشہور چیز ہے اور فارسیون کے نزدیک دیا سلائی جسکو دونون طرف گندھک لگا رکھتے ہین تاکہ چراغ جلانیکے وقت دیر و توقف نہو - شفیع اثر - خواجہ در دنیا و دین از بہر زر در آتش ست * ہمچو کبریت این سبک مغز از دو سر در آتش ست *
کبیت - بہ باے موحدہ یہ ایک نبات تلخ کا نام ہے جسکو حنظل اور خربزہ تلخ کہتے ہین -
کبیکج - کرفس صحرائی جسکا کھانا زہر قاتل ہے -
کبد - جگر جو ایک عضو اندرونی اعضا مین سے ہے پہلو کے رہتے ہین -
کباد - درد جگر جو ایک بیماری ہے -
کبود - نیلگون رنگ - آسمانی رنگ -
کبید - سریش جس سے لکڑی جوڑ لیتے ہین -
کبریت احمر - گوگرد سرخ جو ایک قسم گندھک کا ہے جس سے کیمیا بنتی ہے - شعر - گہ از قطرہ حق سلک گوہر کند * گہ از خاک اکسیر احمر کند *
کبر - بالکسر و سکون ثانی بزرگی اور بزرگ ہونا -
کبر - بکسر اول و فتح ثانی پیری و ضعیفی و کلان سالی -
کبر - بفتحتین نام ایک ترش میوہ کا جسکا اچار ڈالا جاتا ہے اور خراسان مین بہت پیدا ہوتا ہے -
کبار - بکسر اول بزرگ لوگ بڑے آدمی جمع کبیر - مولف - کرد حاصل سروری ہر خاکسار * در قدم او سی پیران کبار *
کبار - بضم اول و تشدید ثانی بہت بزرگ و صاحب عزت و احترام اور بہت سے بزرگ جمع اکابر -
کبیر - بڑا مقابل صغیر کے - توحید - ہست ذات پاک آن ربّ قدیر لا شریک و بے مثال و بے نظیر * تاجداران جہان محتاج او * سرنگون بر درگہش از میر و پیر * ہست رضا انی المجاب * ملح خوانش صغیر و ہر کبیر *
کبائر - بڑے گناہ چوری زنا لواطت شراب خواری وغیرہ جمع کبیرہ -
کبوتر - مشہور پرندہ ہے - رضی دانش - جو بیدردان مدان ازحال

مجنون بہجر مارا بہ کبوتر ہاے صحراے ست مرغ نامہ بر ما را ؎

کبس - بفتح اول مٹی سے پُر کرنا چاہ و نہر وغیرہ کو سر جھکانا شبخون مارنا شخص پر

کبش - بفتحتین پیشانی پر گرنا مغاک مین -

کبس - بکسر اول وہ مٹی جس سے مغاک پُر کیا جائے -

کبوس - کج اور نا راست ٹیڑھا جو سیدھا نہو -

کپرس - مسخرا بذلہ گو - خوش طبع - یا وہ گو - زیادہ بولنے والا -

کبش - گوسپند نر - دُنبہ یا میش نر شاخدار جنکو لوگ لڑاتے ہین -

کپناک - بروزن جھناک وہ نمد جو مفلس لوگ سردیون مین پہنتے ہین - **کلیم** - خوبان کہ بہی رمند ز افسون ملاک ؎ برام اندر بہ بے تعینان بیشترک ؎ در صید تبان جامۂ بیادی پوش ؎ یا تا بہ کیوہ و کلاہ و کپناک

کبک - بفتح اول مشہور جانور ہی جسکو چکور کہتے ہین - **شعر** اے ز گفتار تو طوطی منفعل ؎ وی ز رفتارت خجل کبک دری ؎

کباک - وہ رسی جو گھوڑے کے پٹھے سے بٹی گئی ہو -

کبرک - ایک خار دار گھاس کا نام ہی جسکو خسک بھی کہتے ہین -

کباک - بفتحتین ہاتھ کی ہتھیلی یعنی کف دست -

کبوک - سُرخاب جو ایک مشہور پرندہ ہی جسکو ترکی مین عنقد بولتے ہین

کبیناک - ایک آلۂ آہنی کا نام ہی جس سے چکی کو تیز کرتے ہین ہندی مین اُسکو چکی رہا کہتے ہین -

کپاک - ایک مرغ کا نام ہی جو نیلا اور سپید دم دراز چڑیا کے برابر ہوتا ہی ہر وقت دُم ہلاتا رہتا ہی پانیون کے کنارے اکثر ملتا ہی -

کبل - بکری کے چمڑے کی پوستین جسکو کول بھی کہتے ہین -

کپان - وہ بڑا ترازو جس سے لکڑی وغیرہ قماش تولتے ہین ہندی مین اُسکو تک کہتے ہین اور عربی مین قسطاس -

کبیسہ - بروزن برسیہ کنوان اور نہر جو مٹی سے بھر دیا گیا ہو اور آدمی سرنگون اور گیارہ روز ایک شمسی سال کے جو مقابل قمری کے زائد پڑتے ہین اور اُنکو جمع کرکے تیرہوان مہینہ منجم بنا لیتے ہین -

کبیشہ - نام غلام حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم -

کبابہ - ایک دوا کا نام ہی جسکو عربی مین حب العروس کہتے ہین اور چین کی ولایت سے لاتے ہین کباب چینی بھی اُسکا نام ہی -

کبارہ - خانۂ زنبور بھڑون کا چھتا اور مٹی کا پیالہ جو سبزی فروشون اور میوہ فروشون کا چھابہ -

کبکہ - ایک بیماری کا نام ہی جو چارپایون کو ہوتی ہی اور گلا سوج جاتا ہی -

کبستہ - حنظل جو ایک تلخ پھل ہوتا ہی -

کبکبہ - جانورون یا آدمیون کے پانون کی آواز جو چلنے کے وقت نکلتی ہی -

کبودہ - افراسیاب کے گھوڑون کے داروغہ کا نام ہی اور نام درخت بید مشک کا جو نہایت لطیف ہوتا ہی -

کبیتہ - ایک حلوے کا نام ہی جو نہایت لذیذ ہوتا ہی -

کبیدہ - ستو جو گیہون یا جو کو بریان کرکے چکی مین پیسین اور دلیہ جو غلے کو چکی مین توڑ لیا جاتا ہی باریک آٹا نہین پیسا جاتا ہی -

کبچہ - کفچہ - جس سے ہنڈیا سے سالن نکالین یعنی چمچہ -

کبتہ - معرب جسکا قبہ ہو وہ شیشہ یا کدو جس سے پچھنے لگا کر حجام خون کھینچتے ہین بعض اوقات پہلے کوزہ لگا کر خون کو جمع کرتے ہین پھر پچھنے لگاتے ہین - **میر خسرو** ؎ چو کودک را ز شیرینی تب آید ؎ زند حجام کبہ گر بر سر نکوتر ؎ **میر الٰہی** - سر بینی اش متصل در کام ؎ مے چکد ہمچو کبۂ حجام ؎

کبادہ - وہ کمان جو بہت نرم ہو تیر اندازی کی مشق اُس سے کی جاتی ہی کمان فولادی اسی کو کہتے ہین - **محسن تاثیر** - نرمی کن کہ سختی ایام میکشی ؎ از زہ بست چلہ کمان کبادہ را ؎

کبابی - کباب بنانے والا - کباب بیچنے والا - **طاہر وحید** - کبابی از ان روے پُر آب و تاب ؎ مرا کردہ بر آتش دل کباب ؎

کبرتی - نام ایک رنگ کا جو زرد ہوتا ہی - **طاہر وحید** - نور خورشید جمالش چشم میدوزد مرا ؎ جامۂ کبرتیش چون شمع میسوزد مرا ؎

کپی - سیاہ بندر جسکو لنگور بھی کہتے ہین -

کاف با تاے

کتا - ژندی زبان مین کتابت و فرمان و خط و نامہ و نوشتۂ ہر چیز کی

کتخدا - گھر کا مالک - شوہر دولہا و داماد -

کتاب - بکسر اول لکھنا اور لکھا ہوا اور اندازہ اور فرض کیا ہوا اور آزاد کرنا غلام اور کنیزک کا - **توحید** - لاشریک و بے مثال و لایزال ؎ ذات پاک تست اے عالی جناب ؎ از تو آزاد ست ہر پابند غم ؎ از تو آباد ست ہر خانہ خراب ؎ خارج از ہر حد و اندازہ توئی ؎ فارغی از ہر حساب و ہر کتاب ؎

کتاب - بضم اول و تشدید ثانی نویسندگان بہت سے لکھنے والے -

کتب - بضم اول و دوم بہت سی کتابین جمع کتاب کی -

کتائب - بفتح اول و کسر ہمزہ جمع کتیبہ جسکے معنی لشکر کے ہین -

کتیب - بکسر تین و یاے مجہول اماله کتاب کے لفظ کا جیسے کہ حسیب امالہ حساب کا ہی -

کتیب - بکسر اول و یاے معروف زنجیر و طوق جو قیدی کو ڈالین -
کت - بفتح اول تخت اور بڑی چارپائی یعنی پلنگ جسپر امرا سوتے
ہین اور چاہ یعنی کنوان - ملا طغرا - بر در یار کہ چرخ کت ست ٭
شاہ را پالکی بدین صفت ست ٭ عبد اللہ ہاتفی - فراز کت
زرنگارش نشاید ٭ چو بخت آمد و در کنارش نشاند -
کتابت - لکھنا اور وہ کاغذ جو لکھا ہوا ہو - شانی تکلو - آنکہ در کتابت اغیار
ہیچ نیست ٭ بر رغم من مطالعہ بسیار میکند ٭ ارشد اللہ خان -
بے تخت جگر بریم اے آہ چرائی ٭ اے قاصد قلم کردہ کتابت ز کجائی -
کتر - بفتح اول و کسر ثانی اونٹ کا کوہان -
کتور - نام ایک مقام کا درمیان توران و ہندوستان کے - ابو نصیر الی
بدخشانی - ہندوے زلف تو اے شوخ چگویم کہ چہ کرد ٭ آنچہ
او کرد مین کافر کتور نکند ٭
کتکار - کتگر - درودگر یعنی ترکھان و چوب تراش و تخت بنانے والا -
کتگیتر - ریگستان و سراب جو دور سے پانی نظر آتا ہے اور فی الحقیقت نہیں ہوتا -
کتینر - آدمی جو شکم پرست و پرخوار ہو بیکار اور نکما سست و کاہل -
کتس - ژندی زبان مین بمعنی کوچک و خرد جسکو عربی مین صغیر کہتے ہین -
کتورمش - ترکی مین آوردہ یعنی لایا گیا -
کتف - آدمی کا دوش آور شانہ یہ لفظ فارسی اور عربی مین
مشترک ہے بلکہ فارسی مین کفت بتقدیم فا بر تا کے بھی یہی معنی
ہین جو کتف کا قلب ہے - فردوسی - دو مار سیہ از دو کتفش برست ٭
غمین گشت و از ہر سوے چارہ جست ٭ ولہ - در آورد گرز گران
را بگفت ٭ سپہ ماند از کار او در شگفت ٭
کتک - ایک قسم کا بکرا ہے جو ہاتھ پانون اُسکے کوتاہ ہوتے ہین -
کتل - بضم اول فتح ثانی اونچی زمین اور پشتہ جسپر پانی نہ ٹھہرے -
کتل - بروزن خلل وہ آراستہ اور زین کیا ہوا گھوڑا جو بادشاہون
اور امرا کی سواری کے ساتھ ساتھ لیجاتے ہین - نظیری نیشاپوری
نفس خود را پیش تابوتش کتل میخواستم ٭ وقت رفتن بود مرگ
بے اجل میخواستم ٭ محمد سعید اشرف - بیخودم در پی آن شوخ
دنبل ٭ توسن عمر من ست اسپ کتل ٭
کتنبل - آدمی بندہ شکم و بسیار خوار و کاہل -
کتم - بفتح اول پوشیدہ رکھنا - راز چھپانا -
کتم - بفتحتین ایک گھاس ہے جسکے ساتھ خضاب کرتے ہین بعض کے
نزدیک نیل کی پتی اور بعض کے نزدیک یہ گھاس سواے نیل کے ہے
اور نیل مین ملا کر خضاب کیا جاتا ہے -
کتام - چھپانا راز کا اور پوشیدہ کرنا -
کتیم - وہ مشک پانی کی جس سے پانی نہ ٹپکے -
کتمان - چھپانا - پوشیدہ کرنا - خصوصاً چھپانا گواہی کا -
درویش والہ ہروی - جنون سر بشارہ حسن از پردہ بیرون تاز
از شوخی ٭ چسان دارند خبر رسوا شدن کتمان یکدیگر ٭
کتان - بہ تشدید و تخفیف تاے ایک قسم کا نہایت باریک کپڑا
جو السی کے چھلکے سے بنایا جاتا ہے اُسکے اقسام سے شقالی عمدہ
قسم ہے - نظامی - ز کتان شقالی خانہ باف ٭ زدہ
کوہہ بر کوہہ چون کوہ قاف ٭
کتکن - بفتح ہر دو قاف چاہ کن کنوان کھودنے والا - شرف الدین شفائی
پنجہ تو کہ کتکن قاب ست ٭ در زمین بلا و نقاب ست ٭
کتایون - نام دختر قیصر روم جو گشتاسپ کی عورت تھی اور
اسپندیار اُسکے بطن سے پیدا ہوا -
کتیران - ایک دوا کا نام ہے جو عرعر اور صنوبر کے درخت سے
لیتے ہین اور خارش کی بیماری اُس سے جاتی رہتی ہے خصوصاً
اونٹ کی خارش کا علاج ہے -
کتکو - وہ دوا ہے جسکو عربی مین سعتر کہتے ہین -
کتو - بفتح اول و تشدید و تخفیف ثانی روئی کا پھل جو ہنوز خام
ہو جس سے پک کر روئی نکلتی ہے غوزہ بھی اُسکو کہتے ہین
اور غلاف پنبہ بھی نام ہے -
کتیبہ - بروزن نصیبہ لشکر و فوج اور نام ایک قلعہ کا قلاع
خیبر سے جو مدینہ کے قریب ہے -
کتارہ - ایک ہتھیار کا نام ہے جو تلوار اور خنجر کی طرح کمر پر
باندھتے ہین ہندی مین اُسکو کٹار کہتے ہین - امیر خسرو - مژگان
دو چشم کردم کہ چو ہندوان رہزن ٭ ہمہ از نوک مژگان زدہ بر جگر کٹارہ ٭
کتکہ - چھوٹی لاٹھی چھوٹا عصا ہاتھ کی چھڑی یہ لفظ ترکی ہے -
کتبہ - ایکبار لکھنا اور لکھا ہوا اور بفتحتین جمع کاتب بمعنے لکھنے والے
کتابہ - بروزن ستادہ وہ قطعہ جو خط جلی نستعلیق یا طغرا خط
کسی مسجد یا مقبرے پر تحریر ہوا ہو -
کتالہ - قتالہ - کتارہ جو ایک حربہ ہے اور تشریح اُسکی تحریر ہو چکی ہے -
کتیرہ - ایک گوند کا نام ہے جو قتاد درخت سے لیتے ہین -
کتابی - جو صاحب کتاب ہون مثلاً یہودی نصارا و اہل اسلام -

کتانی - ایک قسم کا زرد آلو ہی اور نام ایک رنگ کا - محسن تاثیر - از رنگ طلائی و کتانی ٭ پیراہن مہ کند کتانی ٭

کاف با ثاے مثلثہ

کثیب - ریگ کا بڑا تودہ -

کثب - بضم اول و دوم بہت سے تودے ریگ کے جو جنگل میں ہون

کثرت - بہت ہونا مقابل قلت کے - توحید - توئی شاہنشہ وحدت توئی فرمان دہ کثرت ٭ تو ہستی خالق خلقت تو ہستی قادر قدرت ٭ توئی والی توئی حاکم توئی صاحب توئی مولے - تو میدار بہر ملک و لایت خاص ملکیت ٭

کثرات - کثرت کی جمع ہی -

کثافت - موٹا ہونا - غلیظ ہونا - مکدر ہونا مقابل لطافت کے -

کثیر - بہت مقابل قلیل کے - توحید - محرم ہر راز پوشیدہ خدا سبحانہ واقف ہر حالت مافی الضمیر ٭ ہر مقید مخلصی یا بد از وی ٭ زو کند حاصل ہائی ہر اسیر فی الحقیقت فیض بی اندازہ اش ٭ خارج از حد قلیل ست و کثیر ٭

کثیف - میلا - غلیظ - موٹا - سطبر - توحید - در کثافت ہر کہ او باشد کثیف ٭ لطف بر وی کے کند رب لطیف ٭ بد مزاجی ہر چہ حیثیت کند ٭ از رہ جہل و تکبر این غلیف ٭ کار کرم ذات ان کند واحسن نما ٭ این شریف این شریف این شریف -

کثبان - بضم اول خاک کا تودہ جو بہت بلند ہو -

کاف با جیم

کجا - کہان - کب - کس جگہ - اور کبھی یہ لفظ اکثر مواقع پر آتا ہی - آنظامی - کجا او نہد پاے تا سر شہیم ٭ ز فرمان او بر سر افسر شہیم ٭ حکیم ازرقی - گر زبوے وصل او یاد آمدی ٭ دل کجا از غم لبفریاد آمدی ٭

کج - کژ - ٹیڑھا مقابل راست کے - سالک - کے بود سالک براہ راستی ثابت قدم ٭ ہست رفتارش بشکل چرخ کج رفتار کج ٭

کج مج - کج مج - وہ شخص جسکی زبان فصیح نہو اچھی طرح بات نکر سکے - سالک یزدی - کج مج میرود این چرخ بسے بیتاب ست ٭ پشت آئینہ افلاک مگر سیماب ست ٭ مسیح کاشی - کاش بود سے قوت انم کہ از برکشم ٭ گر کلید کج مج من قفل گردون واشدے ٭

کجواج - کج و نگون و کج و معکوس - ملا طغرا در ہجو ملا جاہل دیدہ سطر کجواج او در کتاب ٭ نشان از سیہ مار پر پیچ و تاب ٭

کج - مچھلی کے چھلکے جنکو فلوس ماہی کہتے ہین -

کچور - زرنباد ایک دوا کا نام ہی جو خوشبودار ہوتی ہی اور عراق والے اُسکو عرق الکافور بولتے ہین یہ لغت ہندی ہی - فوقی یزدی - بہر باغے از دو بو میگر فتیم ٭ کچور از سنبل او میگر فتیم ٭

کچیر - پہلوی میں سرگروہ و پیشواے قوم افسر خاندان کا -

کچ ز - لوہے کا اوزار مثل تبر و تیشہ وغیرہ -

کچاک - طلائی یا ریشمی یا سموری فیتہ جو اہل ایران قبا کے گریبان پر لگاتے ہین - میرزا طاہر وحید - تو گفتی از صف برگشتہ مژگان ٭ لکھا دوختست بر در گریبان ٭ اور آہنی آنکڑہ جس سے ہاتھی کو ہانکتے ہین آنکس بھی اُسکو کہتے ہین - علی خراسانی - ہمچین خاندان چو پیل دغل ٭ میخورد از قضا ہمیشہ کچاک ٭ اور وہ چیز جس سے طاس قیق لٹکاتے ہین - بیرم خان خانان - عقد قیق ربود خدنگ تو از کچاک ٭ یا از ہلال صورت پروین جدا شدہ ٭ اور وہ لکڑی جس سے نقارہ بجاتے ہین - ہاتفی - کچاک بر دہل فتنہ انگیز شد ٭ ز بانگ دہل فتنہ سر تیز شد ٭

کچوک - نام ایک بیماری کا ہی جسکو عرق النسا کہتے ہین -

کچل - بضم اول بد رفتار جسکا چال چلن اچھا نہو یہ لفظ ہندی ہی -

کچکول - کاسہ گدائی کا - فقیرون کا پیالہ - گدائی کی زنبیل - قطعہ از مؤلف - بنزد بندگان حق پرستان ٭ قلندری بہتر است از پادشاہی ٭ گدائی باب حق تاج سری را ٭ بگیر و کچکول گدائی ٭

کچل - بفتح اول وہ شخص جسکے سر پر گنج کی بیماری ہو سر پر بہت دل ہون جسکو عربی مین اقرع کہتے ہین اور وہ جانور جسکے پاؤن کج الٹی طرف پڑتے ہون

کچول - حرکت دینا - چوتڑون کو ٹیص میں اور مسخرگی کرنا -

کچیم - کجیم - برگستوان یعنی پوشش گھوڑے و ہاتھی کی جو میدان کے روز اُپر ڈالتے ہین ہندی میں اُسکو پاکھر کہتے ہین - عبد اللہ ہاتفی - فگندند گردان بے وہم و بیم ٭ بر اسپان تازی مطلا کجیم ٭

کجاوہ - جو اونٹ کی پشت پر باندھا جاتا ہی اور دو شخص دونون طرف اُسپر سوار ہوتے ہین

کجینہ - بفتح اول و دوم انگشتری بے نگین جسکو ہندی میں چھلا کہتے ہین - میر محمد علی رائج - دو ستیی کجینہ بیش در انگشت نیست ٭ دست ہر کس کہ بران حلقہ در گہ زدہ است ٭

کجکہ - نام ایک پرندے کا ہی کلاغ کی جنس سے جوب بد اور سیاہ ہوتا ہی کبھی اُسکو کہتے ہین اور عربی میں عقعق -

کچلہ - یہ ایک نباتی زہر ہی جو کتے اور بھیڑیے کو جلد مار ڈالتا ہی -

کچری - ایک قسم کھانے کی ہی جو دال اور چانول مین ملا کر بکاتے ہین ہندمین اسکو کھچڑی کہتے ہین - سالک یزدی - سیر شتم کچر پے

ایام ✤ ہوس خوان سیم و زر نکنم ✤

کجی - ٹیڑھاپن مقابل راستی کے بتشدید و بلاتشدید جیم مستعمل ہی - میرزا صائب - مے ترا و داز سراپاے دل آزاران کجی ✤ باشد از مرغ شکاری ناخن و منقار کج ✤ انوری - بیاتا کج نشینم راست گوئیم ✤ کہ کجی ماتم آرد راستی سود ✤

کچلی - گنج کی بیماری جو بچون کے سر پر ہوتی ہی اچھے ہونے کے بعد بھی بال پیدا نہین ہوتے -

	کاف با حاے	

کحلا - گاوزبان جو مشہور دوا ہی اور عربی مین اسکو لسان الثور کہتے ہین اور خرگوش کا بھی یہ نام ہی جو ایک دوا ہی اور عربی مین اسکو آذان الفار بولتے ہین تیسرے خردل صحرائی یعنی جنگلی رائی -

کحل الجواہر - وہ سرمہ جسمین موتی وغیرہ جواہر ڈالکر بنایا گیا ہو -

کحل - بضم اول سرمہ جو آنکھون مین ڈالا جاتا ہی میر خسرو - دیدۂ خورشید را کحل دہد آسمان ✤ ادہم صرصر وششش چونکہ برآرد غبار ✤

کحل - بفتح اول و دوم سیاہ رنگ اور سرمہ گون ہونا آنکھون کا -

کحال - سرمہ کش یعنی وہ شخص جو آنکھون کا علاج کرتا ہو -

کحیل - سرمہ دار اور وہ شخص جسنے سرمہ آنکھون مین ڈالا ہو -

کحلدان - سرمہ دان جسمین سرمہ رکھین - ملا طغرا - شب کحل بینائی اختران ✤ جہان کحلدانش گران تا گران ✤

کحلی - سرمہ کا رنگ اور قسم ایک سیاہ رنگ کپڑے کا جو فارس کی عورتین پہنتی ہین -

	کاف با خاے	

کخ - نام ایک گھاس کا ہی جسکی خشک ساق کی جھاڑو بناتے اور آگ جلاتے ہین اور وہ گھاس جس سے بوریا بنتے ہین -

کخ کخ - بکسر ہر دو کاف ایک کلمہ ہی جو کسی امر کی نفرت کے وقت بولتے ہین اور ہنسی کی آواز -

کخ کخ - بضم ہر دو کاف کھانسی کی آواز -

کخ - بضم اول وہ کرم جو میوہ مین پڑکر اسکو خراب کردیتا ہی اور معنوی مہیب صورت جو خردسال بچون کے ڈرانے کے لیے بناتے ہین اور نام ایک گھاس کا جس سے بوریا بنتے ہین -

کخ - بکسر اول تلخ مزہ اور نفرت کا کلمہ -

کخشہ - بضم اول آگ کا شعلہ

	کاف با دال	

کدخدا کتخدا - گھر کا مالک - گھر کا صاحب - اور وہ شخص جسکی نئی شادی ہوئی ہو اور لائق اور وزیر - سعدی - سفر عید باشد بران کدخدا ✤ کہ بانوے زشتش بود در سراے ✤

کدوبا - وہ آش جو کدو سے بناتے ہین -

کدورت - تیرگی و غبار و ملال و رنج مقابل صفا کے - ابو طالب کلیم - چنین کہ صورت عالم کدورت انگیز است ✤ بزم دہر تو گوئی چراغ بے نورم ✤

کدست - بضم اول و کسر ثانی ایک بالشت جسکو وجب اور بدست بھی کہتے ہین یعنی وہ فاصلہ جو سر انگشت کلان سے انگشت خرد تک ہی -

کدفت - بفتح اول و ضم ثانی کاسۂ سر سر کا حصۂ بالائی -

کدوخ - گرم مقام اور حمام جسمین غسل کرتے ہین اور پیالہ پانی پینے کا -

کد - خانہ اور گھر و مکان و جاے سکونت اور زند کی زبان مین شخص اور کس کے معنی دیتا ہی -

کد - بتشدید دال عربی مین تاکید و جد و جہد و کوشش -

کدو - کنوان - چاہ -

کدر - بفتح اول و کسر دال مکدر و تیرہ و پر غبار -

کدیور - مزارع و زمیندار و باغبان و برزگر و صاحب خانہ و رئیس و خداوند خانہ و مالک باغ - نظامی - بنال اے کہن بلبل سالخورد ✤ کہ رخسارۂ سرخ گل گشت زرد ✤ دوتا شد سہی سرو آراستہ ✤ کدیورش از باغ برخاستہ ✤

کدور - مخفف کدورت جسکی تشریح تحریر مین آچکی ہی - خواجہ سلمان - سحاب فضل تو آلودگان عصیان را ✤ بآب توبہ فرو شست تن ز گرد کدور ✤

کدس - خرمن غلے کا جو نا کوفتہ ہو -

کدام - کون اور کونسا کلمۂ استفہام ہی اور اطلاق اسکا ذوی العقول و غیر ذوی العقول دونون پر آتا ہی - سعدی - در اندیشہ ام تا کدام ی کریم ✤ ازان سنگدل دست گیرد بسیم ✤

کدرم - ایک قسم کی گھاس ہی جو شالی کی زراعت مین پیدا ہوتی ہی -

کدن - ایک مقام کا نام ہی جس جگہ محرّم مین قریب دس ہزار آدمی کے جمع ہوکر ماتم حسین کرتے ہین نیز یعنی خیز و مخنث و پشت پاے -

کدین - وہ لکڑی جس سے دھوبی لوگ کپڑون کو صفائی دیتے ہین -

کدبانو - بی بی گھر کی - گھر کی مالک -

کدو - مشہور چیز ہی جو خام کھانے مین آتا ہی اور پختہ کے بیج دوا مین مستعمل ہین - ذوقی - ہر دماغے کہ از خرد خالی ست ✤ سر پر آتش کدوے بے مغز ست ✤

کدہ - گھر - جگہ - مکان - گانون - قریہ - آرزو - درین جفا کدہ از کس مجو بی رنگ ثبات ✤ کہ طفل اشک ہم اینجا چو نالہ بر جاے ست ✤

کدیرہ - مکدر و پوشیدہ یعنی چھپا ہوا -

کدکدہ - لوہاروں کے ہتھوڑے کی آواز جو آہنگران پر مارنے سے نکلتی ہے -

کدواد ہ - گھر کی عمارت کی دیوار -

کدودانہ - کرم معدہ جو ایک بیماری ہے جس سے معدہ میں کرم پیدا ہو جاتے ہیں اور براز کے ساتھ نکلتے ہیں -

کدخدائی - بیاہ شادی جشن - خوشی - الوہی - رمضان آمد و ہمی سازند ہ کدخدائی زسر ادے الابصار *

کدامی - بکسر اول وفتح دوم ایک پتھر کا نام ہے جو سخت اور سکدر ہوتا ہے سمندر کے کنارے پایا جاتا ہے سفیدی کے کام آتا ہے -

کاف با ذال معجمہ

کذا - فارسی میں چنان و چنین اور ہندی میں اسطرح اور اسطرح -

کذب - بکسر اول دروغ - جھوٹ مقابل صدق کے - فریدالدین عطار
لب بہ بند از کذب و غیبت زبان * تا کہ ایمانت نیفتد در زیان *

کذب بفتح اول وکسر ثانی وہ بات جو جھوٹ بنا کر سچی ظاہر کی جائے -

کذاب - بکسر اول جھوٹ بولنا - دروغ کہنا -

کذاب - بفتح اول وتشدید دوم دروغگو - جھوٹ بولنے والا شعر -
اعتباری نبود قول و فعلش نیست * ہر کہ باشد دروغگو کذاب *

کاف با راء

کرا - ہندی میں جسکو اور کسکو اور عربی میں کرایہ مزدوری اجرت -
سعدی - کرا شرع فتوی دہد بر ہلاک * الا تا نداری ز کشتنش باک *

کرویا - بروزن افنیا ایک قسم کا زیرہ دمقوی معدہ ہے -

کربلا - مشہور مقام ہے جس مقام پر سید الکونین امام حسین نے شہادت پائی - قطعہ از مؤلف - بطفیل کار کردم در دو عالم * خدا را مصطفی را مرتضی را * شفیع دو جہان کردم تصور * امام دین شہید کربلا را *

کرارا - گھر کے دروازے کی دہلیز کی لکڑی جو نیچے کی ہو اسکو دہلی بھی کہتے ہیں مقابل اترنج کے جو بالائی لکڑی کو بولتے ہیں اور وہ زمین جو زراعت کے واسطے ہل جوت کر تیار کی ہو -

کراکا - ایک دم دراز پرندے کا نام ہے جو اکثر پانی کے کنارے بیٹھتا اور دُم ہلایا کرتا ہے بعض کے نزدیک یہ ممسوحہ یعنی ممولا ہے -

کرپا - ایک گھاس کا نام ہے جسکو بلند ور کہتے ہیں اور اردو میں مستعمل ہے -

کرتونا - فارس میں ایک حکیم تھا -

کرب - بفتح اول غم و اندیشہ اور بے آرام کرنا -

کرب - بفتح اول ودوم بے آرام ہونا - غمگین ہونا -

کروب - بضم اول ودوم جمع کربت غم و اندوہ -

کرنب - بفتح اول ودوم کلم جسکو کرم کلہ بھی کہتے ہیں -

کرشنب - کرفس مشہور دوا ہے -

کرت - نوبت اور باری چنانچہ دو کرت وسہ کرت -

کرات - بفتح بہت دفعہ کرت کی جمع ہے -

کرات - بضم اول جمع کرہ جسکے معنی گیند کے ہیں -

کراہیت - بتخفیف یائے تحتانی بروزن علاحیت مکروہ رکھنا ناپسند رکھنا -

کرخشت - بے حس و حرکت و سخت و درشت و ناہموار و ناپسند نظامی عراقی -
شیرہ انگور را بہر کسان برد بحکم * بادہ نوشی کے کند جمع کرخشت باغبان *

کرخست - نام ایک گھاس کا جسکو عربی میں قنابری اور غملون کہتے ہیں -

کرفت - بکسر اول وفتح ثانی و فا یعنی وہ شخص جو ہمیشہ میلا رہے بدن سے نجاست نہ اتارے -

کروت - فربہ بسیم و بیم آدمی -

کرامت - بزرگی - عزت - آبرو - فخر - بڑائی شعر - زندہ وگردہ مردہ باشد اگر * ورمی اصل این کرامت دیدہ ایم *

کربت - بضم اول سختی مصیبت رنج - دکھ

کرکنش - بضم اول وراے مشدد وثائے مثلثہ گندنا جو ایک مشہور چیز ہے -

کرج - بستر میں گڈا اور قاش خربزہ وغیرہ کی سیفی ہدہمی - اثیر -
کرج کرج پہلو نہم * بسان خربزہ نرم دل خموشم من *

کرخ - بغداد کے پاس ایک گاؤں ہے جس جگہ حضرت معروف کرخی رہتے تھے - سعدی - شنیدم کہ در کرخ تربت بسے ست * بجز گور معروف معروف نیست *

کرد - بفتح اول کام وعمل جو کوئی کرے اور فضول شاخیں جو درخت سے کاٹی جاتی ہیں

کرد - بضم اول وہ زمین جسکے کنارے بلند کیے جائیں اور اسکے اندر زراعت کی جائے و آبگیر و حوض - تالاب اور نام ایک جنگلی قوم کا ہے -

کرداد - بفتح اول وبہر دو دال مہملہ عمارت و دیوار جو بنائی گئی ہو -

کردمند - شتابکار و تند مزاج آدمی -

کرند - بفتح اول ودوم نام ایک رود کا ہے جو زرد کوہ مسکن قوم لران سے آتی ہے اور نواحی اصفہان سے گذرتی ہے اور بڑی دیگ رنگ پکانے والوں کی اور وہ میدان جس میں گھوڑے دوڑاتے ہیں اور رنگ زیاب قسم کے گھوڑے کا جسکو کسپ کران بھی کہتے ہیں -

کرنار - بضم اول ودوم تبولا ہوا گیہوں جس سے آبا ہسوٹ پر چڑھاتے ہیں -

کروہ - گنوان جو بہت بیتیق ہو -

کردار - طرز وروش وعمل وفعل ــــ ع - باشس گرخواہی
از خدا نیکی مد نیاب خونیک رونکو کردار ÷
کردگار - نام خدا ے تعالے جل شانہ کا - توحید ہیچ دنیا کار دنیا
جملہ ہیچ ÷ ہیچ مال وملک وعزّ واقتدار ÷ رفت دارا وسکندر از جہان
رفت زال ورستم واسفندیار ÷ ہر کہ آمد رفت زین فانی مکان ÷
ماند باقی صرف ذات کردگار ÷
کرّار - بار بار ایک کام کو کرنے والا - چونکہ جناب علی المرتضےٰ میدان
جنگ مین دشمنون پر بار بار حملہ کرتے تھے یہ خطاب حضرت کو ملا - لطف
جانشین حضرت خیر الورےٰ ÷ حیدر کرّار و الاقدر ÷
کر - بفتح اول وہ شخص جو بہرا ہو یعنی کوئی بات سن نہ سکے عربی مین اُسکو
اصم کہتے ہین - مصفد رفوقانی - این بشر از اہل شر گرد د چرا ÷
مرد دانا کو رو کر گرد د چرا ÷
کرّ - بفتح وتشدید راے عربی مین واپس ہونا اور واپس کرنا اور حملہ کرنا -
کُر - بضم اول نام دو دریاؤن یعنی رود کا ہی ایک شروان مین دوسرا
فارس مین اور اسی پر امیر عضد الدولہ دیلمی نے پل باندھا ہی اور برنج
یعنی چانول اور پانی کا حوض اور نام ایک پیمانہ کا ہی -
کروز - بضمتین پھیرنا اور موڑنا -
کرور - بفتح اول سخت زمین اور پشتہ پشتہ -
کراک - بفتح ہر دو کاف زاغ یعنی کوّا جو مشہور پرندہ ہی -
کرکر - بفتح ہر دو کاف ژندی زبان مین نام خدا ے تعالےٰ وبمعنی
کامگار و مقصود سند و بادشاہ صاحب اقبال و درخت صنوبر -
کرکر - بکسر ہر دو کاف باقلا جو مشہور چیز ہی معرب اُسکا جرجر ہی -
کرگسار - نام ایک پہلوان تورانی کا ہی کہ بہمن بن اسفندیار نے
اُسکو پکڑا اور اُسنے بہمن کو فریب دیکر ہفت خوان کے رستے جو بے آب
و خشک رستہ تھا رومین دژ کو لے گیا اس جرم مین بہمن نے اُسکو قتل کردیا
کرکر - بفتح اول آواز و صدا کرنا اُس شخص کا جسکا حلق بند ہو یا کسی نے اُسکا حلق دبایا
کرکرہ - پرندون کا حوصلہ جسمین دانہ رہتا ہی جسکو چینہ دان کہتے ہین
اور کوزہ پانی کا جسکا مُنہ تنگ ہو اور وہ تپ جو عورتون کو بعد بچہ
پیدا ہونے کے چڑھ جاتی ہی اور رنا زاور انداز سے چلنا اور
زمینداروں کا وہ اوزار جس سے زمین ہموار کرتے ہین -
کُرنیز - بضم اول ویاے مجہول خیار دراز یعنی ککڑی -
کُرز - وہ زمین جو واسطے زراعت کے ہموار کی گئی ہو اور حدود قائم کیے گئے ہون -
کرگوز - رستہ اور رستہ دکھلانے والا -

کروز - بفتح اول عیش ونشاط وشادی -
کرویز - بکسر اوّل نطق کلام گفتگو وادراک کلیات جو شرف انسان کی صفت کے ساتھ ہو
کریز - بیاے معروف چھوٹا گھر اور جھونپڑا اور پر گرانا جانورون کا
آبرو - آبرو بعد از جوانے چیست ÷ زنان ریختن ÷ در کریز این
شاہباز آمد ز دندان ریختن ÷
کرپاس - کپڑا جو روئی کا ہو - سیفی - تا عاشق روے مہ کرپاس فروشم
شد چاک مرا پیراہن صبر چہ پوشم ÷
کرانیس - اجزا کتاب کے اور سیپارے قرآن شریف کے جمع کرّاسہ -
کریاس - طہارت خانہ جو بام پر ہو اور بالاخانہ اور شاہی دربار اور بارگاہ امیر وغیرہ
کرپس - وہ گوبر جو مٹی مین ملا ہو اور کہگل کے واسطے بنایا جائے -
کرگس - ایک پرند مردار خوار کا نام ہی جسکو ہندی مین گدھ کہتے ہین -
کرفس - اجواین جو مشہور دوا ہی -
کربس - ایک قسم چلپاسہ کا موذی جانور ہی -
کُرس - بضم اول چرک وریم جو زخم سے نکلے اور بال سر کے جو مجعد اور پیچدار ہون
کرسطوس - بکسر اول لغت انجیل مین نام خدا ے تعالے کا
و باول وثانی مفتوح نام عیسے علیہ السلام کا -
کرکاس - ایک گھاس کا نام ہی جو گیہون اور جو کی زراعت مین
پیدا ہوتی ہی غنا زیر کو دفع کرتی ہی -
کرباسیس - یونانی زبان مین گوشت جو سرخ بے چربی کے ہو
اور وہ گوشت سرخ جو آنکھ مین پیدا ہو جاتا ہی اور وہ ایک بیماری ہی
کریس - فریب وخوشامد وچاپلوسی -
کرفش - بفتح اول وسکون ثانی چلپاسہ یعنی چھپکلی جو مشہور جانور ہی -
کرکش - وہ جانور جو جگالی کرتے ہین -
کراوش - بکسر اول کولھو تیل نکالنے کا -
کُراع - بضم اول پاچہ گوسپند وگاؤ اور ساق حیوانات اور دامن
پہاڑ کا اور طویلہ گھوڑون کا -
کرنع - بفتحتین بارش کا پانی جو کہین ٹھہرا ہوا ہو اور مُنہ کے ساتھ
پانی پینا کسی نہر سے -
کرانع - ایک قسم کی گھاس ہی جو کمان گر کمانون پر اور لوٹے
چوڑون پر باندھتے ہین کرنع بھی اُسکو کہتے ہین -
کرگ - بفتح اول مخفف کرگدن یعنی گینڈا جو مشہور جانور ہی اور نام
ایک ملک کا مما لک روس سے اور نام ایک گانون کا کوہ لبنان کے
پاس اور نام ایک قلعہ کا بنواح بلغار اور نام ایک پرندہ دم دراز سپید وسیاہ کا

کرناٹک - ولایت ہند ملک دکن مین ایک شہر ہے-
کرنگ - بروزن تفنگ اسپ سرخ رنگ -
کردک - بضم اول و دال مہملہ قوی ہیکل و زورآور -
کردک - بکسر اول بے حیا و زبان دراز -
کرک - بضم اول نرم پشم جو بکری کے بالون کے اندر سے نکلتی ہے
محسن تاثیر - تا پیرہن لباس ز غفلت نبود ما را خوابی بدہشت مخمل کرک لبادہ ام +
کرم - بضم اول غم و اندوہ و انگور کا درخت -
کرام - بکسر اول بزرگ لوگ جمع کریم - شعر - میرو دہر اک
براہ خدا + بر طریق جملہ پیران کرام +
کروم - بہت سے غم و اندوہ و انگور کے درخت -
کرشم - بکسر مین کرشمہ -
کرکم - بضم ہر دو کاف زعفران -
کرم - ایک خوشبودار گھاس کا نام ہے -
کرم - بفتح اول و دوم جوانمردی و مروت و فتوت و عزت و بزرگی
و بزرگواری سعدی - کرم مایۂ شادمانی بود + کرم حاصل زندگانی بود +
کرم - بکسر اول مشہور لفظ ہے چنانچہ کرم ابریشم وغیرہ - محمد سعید اشرف -
بلائے عشقبازی بست کرم طرفہ من ہم + درین محنت بسوزی پیلۂ ابریشم مانم +
کریم - کرم کرنے والا - صاحب سخاوت - توحید - بیت - دردست
دوائے ہر سقیم + اے طبیب خلق و دانائے علیم + صاحب عزت
تو ہستی یا عزیز + عظمت و حرمت تو داری یا عظیم + تو قدیری و غفوری و
شکور + تو قدیمی و حلیمی و حکیم + تو رحیمی رحم کن بر بندگان +
کن کرم بر خاکساران یا کریم +
کرکام - بروزن سرسام قوت و توانائی و مراد و مقصود -
کرم - بفتح اول و سکون دوم جوانمردی و ہمت اور وہ سبزہ جو
نہر کے کنارون پر پیدا ہو و درخت انگور -
کرم - بضم اول غم و اندوہ و پریشانی و زخم و جراحت -
کران - بکسر اول نام ایک ساز کا جسکو بربط فارسی مین کہتے ہین
اور کنارہ ہر چیز کا اور انتہا ہر چیز کی -
کران - بفتح اول نام ایک نہر کا یزد کے علاقے مین - تاثیر - آن
جوی کہ نام او کران ست + گویند کران و بیکران ست +
کرمان - نام ایک شہر کا ہے اور فرش اس شہر مین نہایت عمدہ
بنتا ہے زیرہ سیاہ بھی تحفہ وہیں سے پہونچتا ہے -
کرکن - غلہ سبز و نیم پختہ جو بریان کر کے کھائین -

کردستان - ایک ملک کا نام ہے ایران مین -
کرگدن - ایک جانور گاومیش کی صورت پر ہے ہاتھی کی رنگت
ہاتھی سے چھوٹا گاومیش سے بڑا پوست اسکا نہایت سخت ہوتا ہے
اور ڈھالین بنائی جاتی ہین اسکی پیشانی پر ایک شاخ ہوتی ہے
ہندی مین اسکو گینڈا کہتے ہین -
کرمن و ارمن - مشرق و مغرب -
کراخان - افراسیاب کے بڑے بیٹے کا نام ہے -
کرجن - جسم کی نرم ہڈی جسکو عربی مین غضروف کہتے ہین جیسے ہڈی کان کی
کرزن - تاج مرصع جو بادشاہ سر پر رکھتے ہین -
کرسان - ایک برتن گول سرپوش دار کا نام ہے جسمین کھانا وغیرہ
حفاظت کے ساتھ رکھتے ہین -
کروبیان - فرشتے جو نوری پیدائش ہے -
کریمان - نام جد دوم رستم بن زال -
کریون - ایک دوا تلخ کا نام ہے جسکو قنطوریون کہتے ہین -
کرو - بکسر اول کشتی چھوٹی جو دریا مین چلتی ہے -
کریاسو - چھپکلی جو مشہور جانور ہے یہ قسم بہت چھوٹی ہوتی ہے گھرون مین
رہتی ہے اسکو اگر مارین تو دم اسکے بدن سے الگ ہوکر ایک
گھڑی تک ناچتی رہتی ہے عربی مین اسکو وزغہ کہتے ہین -
کردہ - وہ شاخ جو درخت سے کاٹی گئی ہو -
کرو - بفتح اول مکڑی کا جالا عنکبوت کا گھر
کراسہ - قرآن مجید و مطلق کتاب -
کراسہ - بتشدید راے کتاب کے اجزا مین سے ایک جزو اور قرآن
کے سیپارون مین سے ایک سیپارہ -
کرانہ - کنارہ ہر چیز کا -
کرایہ - معاوضہ اجرت جو کسی خدمت کے عوض مین وصول کیا جائے -
کرسنہ - ایک تیرہ رنگ غلے کا نام ہے جو مسور کی طرح خاکستری
ہوتا ہے ہندی مین اسکو مٹر بولتے ہین -
کرہ - بضم اول و تخفیف راے گیند جس سے کھیلتے ہین اور ہر ایک
چیز جو مدور یعنی گول ہو -
کرہ - بتشدید راے وہ چیز جس سے گھوڑے کو مارا جاوے مثل تازیانہ وغیرہ -
کرہ - بضم کاف و سکون راے و ہاے موقوف اظہار ناخوشی و سختی و رنج -
کرہ - بفتح اول و سکون ثانی و ہاے موقوف جبر و تعدی و نارضامندی -
کریہ - بفتح اول و کسر ثانی بروزن ثقیل کروہ و نامرغوب و ناپسندیدہ و نامطبوع -

کروہ - بفتحتین مسافت زمین کی جسکو ہندی مین کوس کہتے ہین اور اندازے مین سوا میل اور چار ہزار گز مسافت زمین کی ۔

کرشمہ - بفتحتین ناز و غمزہ اور اشارہ آنکھون سے - امیر الٰہی خیسار او بناز و کرشمہ ہزار بار ۔۔ صد نکتہ رو برہ بر رخ ماہ و خور گرفت ۔۔

کرم پیلہ - ریشم کا کیڑا مشہور کرم ہے - سعدی - چو پروانہ آتش بجو و در زنند ۔۔ نہ چون کرم پیلہ بہم در تنند ۔۔

کرتانہ - وہ ڈربا جسمین مرغیان رہتی ہین میر حسن عطار در مثنوی خرد ۔۔ کہ یارب خروسان بیچارہ را ۔۔ تو کر تا نہ گشتہ آوارہ را ۔۔ ز چنگال موسو ۔۔ بر جفا ۔۔ نگہدار یارب بشاہ رضا ۔۔ دگر زافت گربہ چشم زاغ ۔۔ نگہدار یارب بشاہ چراغ ۔۔

کرتہ - پیراہن نیم تنہ جو گلے مین پہنتے ہین قرطہ اور قرطق اسکا معرب ہے -

کرتیہ - بفتح اول سبزک جو پرند سبز رنگ ہے و بمعنی وزغ و چلپاسہ جسکو چھپکلی بولتے ہین -

کرنکہ - لڑکا جو امرد و بد صورت و بد خو ہو -

کرستہ - بکسر اول خس و خاشاک و خاکروبہ -

کرشمہ - وہ رستی جو بالون سے بٹی جائے و مکر و فریب و چاپلوسی -

کرفہ - بکسر اول ۔۔۔ نیکی و ثواب مقابل بدی اور گناہ کی -

کرند - وہ میدان جسمین گھوڑا دوڑایا جائے -

کرنہ - بفتح اول بدخشان مین ایک بستی ہے جسکی سر زمین مین امرود نہایت اچھا ہوتا ہے اور نام ایک قسم کے ترنج کا اور کرنہ یعنی چچڑی جو چار پایون کے جسم کے ساتھ چمٹ کر انکا خون پیتی ہے -

کروشتہ - عنکبوت یعنی مکڑی -

کریوہ - پشتہ زمین جو بلند ہو اور پانی اسپر ٹھہر نہ سکے -

کریہ - بد صورت و بد شکل -

کربلائی - ایک قسم کے کپڑے کا نام ہے کہ سیاہ اور سپید دو خط عریض کسمین ہوتے ہین - واعظ قزوینی - گشتت پاشب درمیان وصل سہی بالاے ما ۔۔ کربلائی شد لباس تیرہ بختیہاے ما ۔۔

کری - ناشنوائی - بہرا پن - مولف - نہ حق شنید بگوش و نہ صورت حق دید ۔۔ کجا رسید بدین کوری و کری انسان ۔۔

کرکی - بضم اول کلنگ جو ایک مشہور پرندہ ہے -

کہتری - بضم اول مکاری و حیلہ گری -

کروبی - فرشتہ مقرب بارگاہ الٰہی - سعدی - بہ تہدید گر برکشد تیغ حکم ۔۔ بمانند کروبیان صم و بکم ۔۔

کرسی - تخت کوچک چھوٹا تخت امرا کے بیٹھنے کا اور آٹھوان آسمان جو ساتون آسمانون پر محیط ہے جسکی شان مین وسع کرسیہ السموات والارض قرآن مین آیت نازل ہوئی ہے - نظامی - بفرمود تا کرسے زر نہند ۔۔ ہمان جام فرخ برابر نہند ۔۔ ولہ - چو کرسی نہادند خسرو نشست ۔۔ بجام جہان بیکشا دند دست ۔۔

کرنا - بفتح و تشدید دوم بڑی نا جو جنگ کے موقع پر بجاتے ہین نظامی - غلغل در آمد جرس با درا ۔۔ بجوشید خون از دم کرنا ۔۔

کاف با زاے معجمہ

کزبا - کزوا - ایک پہاڑی میوے کا نام ہے جو قسم ریواس سے ہے یعنی خود رو میوہ ہے -

کزغا - نام ایک قسم کی گاے کا ہے جسکی دم کا چنور بناتے ہین ہند اور ختا کے درمیانی ملکون مین پیدا ہوتی ہے رومی زبان مین قطاس اسکا نام ہے -

کزلود - بفتح اول مالک و رئیس و کدخدا -

کزد - فضول شاخین جو درخت سے کاٹی جاتی ہین -

کزاگند - کزاغند - یہ ایک قسم کا لباس ہے جو دوہرا روئی دار ہوتا ہے اور بخیے اسپر بہت سی کی جاتی ہے - امرا اسکو پہنتے ہین - سعدی - در کزاگند مرد باید بود ۔۔ بر مخنث سلاح جنگ چہ سود ۔۔

کزار - نشتر حجام کا -

کزار - مرغون کا حوصلہ جسمین دانہ رہتا ہے -

کزور - ایک دوا کا نام ہے جسکو کچور زرنباد کہتے ہین اور وہ ایک تلخ گھاس کی جڑ ہوتی ہے -

کزاز - وہ درد و اور تشنج جو جوڑون مین بسبب سردی کے پیدا ہو -

کز - ابریشم کم قیمت جسکا معرب قز ہے -

کژ - کج و ناراست یعنی ٹیڑھا -

کژهش - ناصاف گفتگو و کند زبان -

کزلش - درخور و لائق اور وہ لکڑی جس سے گاے بیل ہانکتے ہین -

کزاغ - ایک گھاس کا نام ہے جو ٹوٹے جوڑون پر باندھی جاتی ہے کراغ بر سے مہملہ بھی اسکا نام ہے -

کزوغ - انسان اور حیوانات کی گردن اور پشت کی ہڈیان -

کزف - وہ بدبو اور سیاہ دوا جو خارش زدہ اونٹون کے بدن پر ملتے ہین اور میل چاندی سونے کا -

کزرف - ایک بدبو گھاس ہے کہ اگر ہاتھ کو ملین تو مدت تک ہاتھ سے بدبو نہین جاتی -

کزلک - بکسر اول و ثالث کارد کوچک یعنی چھوٹی سی چھری -

کرک - آہنی آنکس جس سے ہاتھی کو چلاتے ہین - امیر خسرو دہلوی
خوی زبنا گوش پیل شجاع ٭ شبہ ہلال کرک بسر ان پیل کشید ٭
کژدم - مشہور موذی جانور ہے جسکو عربی مین عقرب کہتے ہین بیت
نیش کژدم نہ از پی کین ست ٭ مقتضاے طبیعتش این ست ٭
کزم - ایک سبزہ ہے جو نہر کے کنارے پیدا ہوتا ہے -
کژیم - ایک قسم کا لباس ہے جو جنگ مین پہنتے ہین اور تلوار اُسپر کارگر نہین ہوتی
کوطرخون - یونانی مین شاقرحا جو ایک مشہور دوا ہے -
کژوان - یونانی مین تخم بالنگو -
کزمازون - ایک دوا کا نام ہے -
کزین - برگستوان یعنی پاکھر گھوڑے کی -
کزبرہ - کشنیز سبز یعنی سبز دھنیا -
کژہ - وہ گوشت کا ٹکڑا جو حلق مین لٹکتا ہو ہندی مین جسکو کوا کہتے ہین اور وہ بڑی چھری جس سے گوشت قیمہ کرتے ہین -

کاف با سین

کسا - بکسر اول گلیم یعنی گودڑی جو فقرا کا لباس ہے -
کسری - بکسر اول والف بصورت یاے آخر مین لقب نوشیروان عادل کا -
کستی - بفتح اول [illegible]
کسیدا - ایک دوا کا نام ہے جسکو [illegible] کہتے ہین -
کسب - بضم اول وسکون ثانی کنجارہ یعنی کھلی جو بعد تیل نکالنے کے باقی رہجاتی ہے
کسب - حاصل کرنا اور ہنر و پیشہ -
کسوت - پہننے کا کپڑا اور لباس - مولوی معنوی - گو کہ جاہل بے علم وفضل انسان ست ٭ گو کہ ہست وحشی مطلق بکسوت انسان ٭
کسالت - کاہل ہونا سست ہونا -
کسپرج - مروارید - لولو - موتی -
کسناج - ایک گھاس کا نام ہے جو دوا مین مستعمل ہے -
کساد - ناروائی و بے رواجی اشیا و عدم خریداری و ارزانی و نقصان - ظہوری شوقت بنرد بکار راوست ٭ بازار رفوگران کسادست ٭
کسود - سختی و درشتی و تنگی کرنا -
کسر - بفتح اول توڑنا - شکستہ کرنا - اور حرکات ثلاثہ حروف تہجی مین حرکت زیر کی - نورالدین ظہوری - زکسری کہ در طاق کسرے فتاد ٭ جہان پایۂ در درستی نہاد ٭
کسر - بکسر اول وفتح سین پارہ ہا یعنی ٹکڑے جمع کسرہ -
کسور - بضمتین جمع کسر اس لفظ کا استعمال اعداد کے ٹکڑون مین آتا ہے -

کنسیر - ٹوٹا ہوا شکستہ و ناثابت -
کسار - خورندہ یعنی کھانے والا - اس لفظ کی ترکیب ہو رسے نگسار اور میگسار کے نہین کی گئی نان گسار و آب گسار نہین کہا جاتا -
کسترک - ہر خاردار درخت جسکی لکڑی جلائی جاتی ہے -
کسپیر - وہ سیاہ گوند جو کشتیون کو لیتے ہین تا پانی اُسمین دخل نکرے -
کستندر - ناکس و نااہل و نالائق آدمی -
کس - یار دوست - رفیق اور شریف اور نیک آدمی اور مطلق شخص اور آدمی متقابل ناکس اور ہیکس کے - کلیم کا رعالم گرہمہ آزار من باشد کلیم ٭ ناکسم ناکس اگر کار سے بکس باشد مرا ٭
کسس - بضم اول و سین مشدد عورتون کی شرمگاہ وعضو مخصوص - محمد قلی سلیم وزدی بکسس یا ور خود بر نفش مین بد صد شکل میکنم گر در و پاسے من نبود ٭
کسیس - ایک دوا کا نام ہے اگر اُسکو فولاد پر لگائین تو فولاد کے جوہر ظاہر ہو جاتے ہین اور شامی اور حبشی زبان مین کسیس شراب کے کہتے ہین جسکے پینے سے مستی آجاتی ہے -
کسوف - بضم اول و دوم سورج گرہن پوشیدہ ہو جانا سورج کا زمین کے سایہ مین کسافت مین آنا بدحال ہونا - توحید - اگر تو طالب فقر تو پوش ہاے معروف ٭ ہمیشہ باش بذکر جناب حق مصروف ٭ بدل مباش پشیمان تو از تلف کارے کہ ہست حاصل مقصود بوقت خود موقوف ٭ ز انقلاب زمانہ بدل غمگین ٭ کہ نیست پاک مہ و مہر از کسوف و خسوف ٭
کسیف - رو پوش و بدحال و ترش رو - توحید - ہر کسافت ہر کہ او باشد کسیف ٭ لطف بردی کے کند رب لطیف ٭
کسک - بفتح اول جنگلی زاغ جسکو عربی مین عقعق کہتے ہین اور ترکی مین کلوخ
کسنک - بکسر اول وفتح ثانی نام ایک فلے کا ہے جو ماش اور مسور کی طرح ہوتا ہے
کسل - بفتح اول و دوم کاہلی و سستی -
کسیل - نامزد کرنا - روانہ کرنا - دفع کرنا -
کسکن - بفتح ہر دو کاف ترکی زبان مین وہ گرز جسکے سر پر زنجیر مسلسل یعنی آہنی کنڈیان لگائی ہوئی ہون فارسی مین اُسکا پیازک و پیازی نام ہے - ملا وحشی - یلان رارشتہ نرم از کمر کردن نہادہ سر سینہ ہمچو کسکن ٭
کسون - ایک آتش پرست مجوسی حکیم کا نام ہے جو تین عنصر پانی آگ مٹی کا قائل ہوا اور انھین تینون کو قدیم اور مادۂ عالم موجودات کا تصور کرتا ہے تناسخ کا بھی قائل ہے
کسیفون - ایک قسم کا جنگلی سوسن ہے -

کُسْمِہ ۔ وہ بال جنکو کتر کر اور خم دیکر رخساروں پر خوبصورتی کے واسطے رکھتے ہین۔
کُسْبُرَہ ۔ بفتح کاف وباے موحدہ کشنیز جسکو دھنیا کہتے ہین مشہور چیز ہی۔
کُسْتَہ ۔ وہ غلہ جو کوٹا جائے مگر بھوسا دانہ سے الگ نہوا ہو۔
کُسیمہ ۔ ایک خاردار نبات ہی جسکو اونٹ رغبت سے کھاتا ہی۔
کُسَنَہ ۔ آسانی مقابل دشواری کے۔
کِسائی ۔ خرقہ فروش۔ گودڑی پہننے والا اور نام ایک شخص کا جو قاری اور نحوی مشہور تھا اور گودڑی پہنتا اس سبب سے کسائی مشہور ہوا
کِسْتی ۔ مخفف کاستی جو مشہور دوا ہی۔
کَسی ۔ کوئی یہ لفظ ذوی العقول کے واسطے خاص کیا گیا ہی۔ سعدی
کسے دید صحراے محشر بخواب ؛ چو مس تفتہ روئی زمین زآفتاب ؛ اثر ہمایکہ بسیر راہت نگاہم از غیبناک ؛ بکف گرفتہ ترازوے انتظار کسے ؛
کُسْتی ۔ بضم اول اپیچ و تاب زبانی کرنا یا خود کستن سے جسکے معنی ملنے کے ہین

کاف با شین معجمہ

کُشا ۔ کھولنے والا۔ آسان کرنے والا۔ ؎ خدا مشکل کشاے بندگان ست ؛ خدا حاجت رواے دو جہان ست ؛
کَشْکَبا ۔ آش حلیم کی جو پکائی جاتی ہی اکثر لوگ عشرہ محرم مین پکا کر امام حسین علیہ السلام کی نیاز دلا کر غربا کو تقسیم کرتے ہین اسمین ہر ایک قسم کا غلہ اور گوشت ڈالا جاتا ہی نمکین اور لذیذ ہوتی ہی۔
کَشْوبا ۔ ژندی زبان مین وہ کمان جس سے تیر چلاتے ہین۔
کَشْکاب ۔ وہ آش جو بیماروں کے واسطے پکائی جاتی ہی۔
کِشْت ۔ کھیتی زراعت اور شطرنج بازوں کی اصطلاح مین ہونا شاہ کا اُس خانہ مین کہ اگر اسمین سواے شاہ کے اور کوئی مہرہ ہوتا تو مارا جاتا۔ میر یحییٰ شیرازی ۔ کردہ بیچے ماتم این شطرنج باز روزگار ؛ سبز خواہد داشت یا رب تا بکے این کشت را ؛
کَشُفت ۔ سر آگندہ وپریشان وماضی کشفتن پراگندہ کیا اور پریشان کیا۔
کَشُوث ۔ نام ایک دوا کا جسکے تخم کو دنیا رکہتے ہین اور شربت بنا کر اسکا پیا جاتا ہی
کَشْنج ۔ ایک گھاس ہی جو نمناک زمینوں مین خود رو ہوتی ہی
معرب کشنہ جو ایک قسم سمارو غ سے ہی۔
کِشْنیج ۔ معرب کشنیز یعنی دھنیا عربی مین اسکو جلجلان کہتے ہین۔
کِشْمِش ۔ بفتح اول اور آخر مین خاے معجمہ چلتا سیر جو شے انگور رکھے جاتے ہین
کُشاد ۔ صیغہ ماضی کشادن سے کھلا اور کھولا اور فراخ اور تیر کمان سے چھوڑنا و خوشی و فرحت و کشایش ۔ صائب سیر چاوئہ
چرخ بودرو سے کشادہ ؛ زخم کمتر خورد آن پستہ کہ خندان شدہ ست ؛
کِشْتَمَنْد ۔ زراعت کے لائق زمین۔
کَشَف رود ۔ نام ایک دو کا جسکے کنارے سام بن نریمان نے اژدہے کو مارا تھا
کِشْواد ۔ نام ایک پہلوان کا جو کیکاؤس کا ملازم تھا۔
کَشْکدار ۔ پاسبان وچوکیدار و پاسدار۔
کَشْمَر ۔ نام ایک بستی کا ولایت ترشیز مین جسکا ذکر مفصل کاشمر کی تشریح مین لکھا گیا ہی۔
کَشْمیر ۔ نام ایک خطہ کا کوہستان شمالی پنجاب مین ہی اور سری نگر ایک شہر دار الخلافت اُسکا ہی جنت نظیر اُسکی تعریف ہی۔ ؎ کند بلبل از باغ فردوس یاد ؛ بگلزار کشمیر جنت نظیر ؛
کِشْوَر ۔ ولایت ترجمہ اقلیم کا اور ایک حصہ سات حصہ ربع مسکون اور ہر ایک ولایت ایک ستارے کے ساتھ تعلق رکھتی ہی پہلی ولایت ہندوستان زحل سے دوسری چین وختا مشتری سے تیسری ترکستان مریخ سے چوتھی عراق وخراسان آفتاب سے پانچوین ماوراء النہر زہرہ سے چھٹی روم عطارد سے ساتوین اقصاے بلاد شمال چاند سے تعلق رکھتی ہی۔ سعدی۔ اگر کشور کشاے کامران ست ؛ و اگر درویش حاجتمند نان ست ؛ دران ساعت کہ خواہند این وآن مرد ؛ نخواہند از جہان بیش از کفن برد ؛
کَشْکَنجیر ۔ توپ وگولہ سامان قلعہ شکنی کا جس سے دیواروں مین سوراخ ہو جاتا
کُشْتار ۔ بسمل اور نیم کشتہ نہ زندہ نہ مردہ ۔ استاد فرخی ۔ ہنوز ہیچ کے پیش سپردہ نبود ؛ ازان شکار کہ از تیر میر شد کشتار ؛
کَشْمور ۔ ایک جنگل کا نام ہی۔
کِشْوَرز ۔ صاحب ومالک وبزرگ۔
کِشاورز ۔ زراعت کرنے والا۔ کھیتی کرنے والا۔
کِشْنیز ۔ دھنیا جو مشہور تخم ہی۔
کَش ۔ بغل وسینہ وکمر۔ سنجر کاشی ۔ پیالہ برکف ومعشوق در کش ست ہنوز ؛ زرشک من دل جمعی مشوش ست ہنوز ؛
کَشیش ۔ بر وزن حریص پیشوا ومعلم ترسا وعیسائی لوگون کا پادری۔
کِشْمِش ۔ ایک قسم کا انگور ہی جسکے دانے بہت چھوٹے ہوتے ہین۔
کَشِش ۔ جذب اور کھینچنا وناز وکرشمہ۔
کَشْمَکَش ۔ بار بار کھینچنا وشکر رنجی کشاکش کے بھی یہی معنی ہین۔
کَشّاف ۔ کھولنے والا ہر ایک چھپی چیز کا۔ پیدا کرنے والا اور نام ایک تفسیر کا جسکو جار اللہ زمخشری نے لکھا ہی۔ توحید ۔ خدا ست

منبع اکرام و مخزن الطاف ۔ خداست معدن افضال و مظہر عطاف ۔
خداست آنکہ کند رحم بر خطاکاران ۔ خداست آنکہ کند جرم اہل جرم معاف ۔
خدا رحیم خدا مہربان خدا والی ۔ بسیط و باسط و رزاق و فاتح و کشاف ۔

کشف ۔ کھولنا اُٹھانا پردے کا ظاہر کرنا اور جانور دریائی جسکو سنگ پشت و کاسہ پشت کہتے ہین اور نام ایک پہاڑ کا اور وہ کونہ جسکا سر چوڑا ہو ۔ انوری ۔ سیکے جریدۂ اعمال خود نگردم کشف ۔ ہزار سر لہ کردم حساب مستغرق ۔

کشک ۔ بفتح اول خشک دہی یعنی پنیر اور ایک قسم کا حریرہ جو دودھ اور میدہ سے بنایا جاتا ہے ۔ شفیع اثر بجهت قلیخان صدر ایران کی ہجو مین ۔ در خانہ میل نعمت الوان نمے کند ۔ صد قراسے او جو لو بکشکے بر آید اندر ۔

کشک ۔ مخفف کوشک محل و مکان ۔

کشک ۔ بکسر ترکی مین پاسبانی و حفاظت و نگہبانی ۔

کشک ۔ دلی ارادہ و خیال و ضمیر ۔

کشلوک ۔ کشف ۔ دریائی جانور سنگ پشت جو مشہور ہے ۔

کشنک ۔ وہ سیاہ چھوٹا جانور جو گوبر سے پیدا ہوتا ہے عربی مین اسکو جعل کہتے ہین ۔

کشکول ۔ بروزن مقبول بڑا پیالہ گدائی کا ۔

کش خان ۔ دیوث و بے غیرت و بے حمیت ۔

کشتبان ۔ مزارع ۔ زمیندار ۔ کھیتی کرنے والا ۔ امیر خسرو ۔ نہ بہر جوئی کشتبان را رحمت غلہ ۔ بہر داد خواہی کاربان را زحمت عاملہ ۔

کشتیبان ۔ ملاح کشتی چلانے والا ۔ سعدی ۔ چہ غم دیوار امت را کہ دارد چون تو پشتیبان ۔ چہ باک از موج بحر آنرا کہ دارد نوح کشتیبان ۔

کشتمان ۔ کھیتی و زراعت ۔

کشکین ۔ ایک قسم کی روٹی کا نام ہے ۔

کشن ۔ انبوہ اور بہت سا ہونا ۔

کشتہ ۔ بکسر اول بروزن رشتہ آلو و شفتالو و زرد آلو ۔

کشتہ ۔ قتل کیا ہوا ۔ مارا ہوا ۔ رضی دانش ۔ سینہ ما جان گداز ان کربلائے حسرت است ۔ آرزوے کشتہ ہر سو شہید افتادہ است ۔

کشیدہ ۔ وہ نقوش جو عورتین کپڑون پر سوئی سے نکالتی ہین اور تار سونے چاندی کا جو سوراخ باریک سے نکالا جائے وہ ۔ زدن و کھنچا ہوا و بلند و دراز ۔ میر معزی ۔ شخصم زفرقت تو چو زر کشیدہ شد ۔ ہو یم زحسرت تو چو سیم کشیدہ گیر ۔ طالب آملی ۔ شمع ہوز دل کشیدہ آہ ما قامت کشیدہ است ۔

کشتی ۔ بدل کُستی کہ بین معاملہ ہے ۔ ایستین ورآزمائی کرنا ۔ صائب ۔ نزار دہر فہ کشتی گرفتن با زبردستان ۔ ہبو و در خاک در کم ہر کہ با گردون دستار زند ۔

کشتی ۔ سفینہ جسکے ذریعہ سے لوگ دریا سے اترتے ہین اور گدائی کی کشتی جو فقیر ہاتھون مین رکھتے ہین ۔ نظامی ۔ زردی کم جان دست زورے کہ کشتی برون آرد از آب شور ۔

کاف با عین

کعب ۔ بفتح اول پانون کی ہڈی جسکو ٹخنا کہتے ہین اور وہ مربع ہڈی جس سے بازی نرد کھیلتے ہین اور علم حساب مین مرتبہ تیسرا اعداد کا جبر و مقابلہ سے چنانچہ پہلی مرتبہ کو شے کہتے ہین اور دوسری مرتبہ کو مال اور تیسری مرتبہ کو کعب پس یہ تین مرتبہ شے اور مال و کعب ہوے تفصیل جسکی کتابون مین لکھی ہے اور پیندی جو کنوئین کے نیچے بنی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ گر نہ پڑے ۔ محسن شیرازی ۔ ہوا از بس ز شبنم شعلہ بار است ۔ چو فنجان ساغر گل کعب دار است ۔ اور نام ایک قبیلہ کا عرب کے قبایل مین سے اور نام ایک اصحاب کا رسول صلے اللہ علیہ وسلم سے جسکے باپ کا نام زہیر تھا اور وہ مداح حضرت رسالت مآب کا تھا ۔

کعوبت ۔ بضمتین حرف چہارم بائے موحدہ سخت و دشواری و سختی و بلندی و ترفع ۔

کعک ۔ معرب کاک روغنی روٹی ۔

کعبتین ۔ دو پانسے لوچک مربع ہڈی کے جس سے بازی نرد کھیلتے ہین اور قمار باز قمار بازی کرتے ہین ۔ درویش والہ ہروی ۔ سند از کعبتین دغل در بساط حسن ۔ ہو در نرد عشق بر دحریفی کہ باخت پاک ۔

کعبہ ۔ بیت اللہ کا نام ہے جسکے معنی مرتفع اور بلند کے ہین چونکہ بنا کعبہ کی زمین سے بلند ہے مراتب مین بھی بلند اسواسطے کعبہ نام رکھا گیا ۔ سعدی ۔ ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی ۔ کین رہ کہ تو میروی بترکستان است ۔

کاف با فاے معجمہ

کفرا ۔ ہا بچہ ۔ شگفتہ خرما کی اور شگوفہ کا وقت ۔

کفالت ۔ بفتح اول ضمانت کرنا ضامن ہونا ۔ مولف کی مرید است از روز ہمہ سب ۔ چون نبی در روے کفالت کردہ است ۔

کفایت ۔ بس ہونا اور کافی ہونا ۔ اور فائدہ لینا ۔ نظامی ۔ تامر دکش آئین بیدادرا ۔ کفایت کن از خلق فریاد را ۔

کفاک ۔ کافی لوگ ۔ دانا لوگ ۔ کار گزار لوگ ۔

کفتار ۔ بفتح اول ایک جنگلی جانور درندہ کا نام ہے جسکو ہندی مین

ہونڈار اور ترکھ کہتے ہین اور وہ ساحرہ ڈاین عورت جو جادو سے
بچون کا جگر نکال لیتی ہے اور وہ فوراً مر جاتا ہے اور یہ ساحرہ عورت
جب تک گفتار پر سوار نہو کمال کو نہین پہونچتی۔

کفر۔ بضم اول ناشکری و ناسپاسی و انکار اور چھپانا حق کو اور
اظہار باطل کا اور بڑا گناہ۔ ع۔ کفر ست در طریقت ما کینہ
داشتن ٭ آئین ماست سینہ چو آئینہ داشتن ٭

کفر۔ بفتح اول چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔

کفور۔ بضم اول و دوم ناسپاسی و ناشکری و ناحق شناسی۔

کفور۔ بفتح اول ناسپاسی کرنے والا۔

کفشیر۔ کبوتر جو مشہور پرندہ ہے اور عربی مین اسکو حمام کہتے ہین۔

کفشیر۔ وہ چیز جس سے شکستہ برتنون کو پیوند کرتے ہین اور شکستہ کیشنیکو جوڑتے۔

کفار۔ بنج کھینچنا تکلیف اٹھانا اور اسکے گرد ارشادات ہے اور اعمال جمیلہ کے۔

کفلیز۔ وہ چمچہ سوراخ دار جس سے کف ابلتی ہوئی ہنڈیا سے اتارتے ہین اور جھجھر بھی اسکو کہتے ہین اور مشہور افزار برتن جس سے پانی خشکہ کا اول کا
نکالکر نکالتے ہین اور نام ایک جانور آبی کا قسم سے ہے۔

کفچال۔ ایک آبی جانور کا نام ہے جسکا سر اور جسم گول اور دم باریک
ہوتی ہے عربی مین اسکو عموس کہتے ہین بعض اسکو سنگ ماہی کہتے ہین۔

کفیز۔ پیمانہ جس سے غلہ ناپتے ہین۔

کفش۔ پاپوش جوتا پانون مین پہننے کا۔ سعدی۔ بخدمت منہ
دست بر کفش من ٭ مرا نان دہ و کفش بر سر بزن ٭

کفاپوش۔ زین پوش جو گھوڑے پر ڈالتے ہین۔

کف۔ بفتح و تشدید پنجہ و ہتھیلی ہاتھ کی اور کھڑا کر دینا اور باز رکھنا
اور کپڑے کے دو ٹکڑون کو آپس مین سینا ایک دوسرے پر اندھا
کرنا اور خرقہ اور لقمہ اور ساقط کرنا ساتوین حرف کا بحر ازکم کے رکن سے
چنانچہ فاعلاتن سے نون گرا دینا۔

کف۔ بلا تشدید فا سے جھاگ جسکو عربی مین زبد کہتے ہین چنانچہ
صابون کی جھاگ پانی کی جھاگ وغیرہ اور سوختہ چیزون کا جسکو جھاگ چھاڑتے ہین۔

کفاف۔ اندازہ اور اسقدر آمد جو گذارہ کے لیے کافی ہو۔ سعدی۔
یکی را کرم بود و قدرت نبود ٭ کفافش بقدر مروت نبود ٭

کفاب۔ کف دست و کف آب و جھاگ صابون وغیرہ کی۔

کفچک۔ گھوڑے کے زین کا دامن۔

کفل۔ بفتحتین سرین آدمی و حیوان یعنی چوتڑ انسان و حیوان کے۔

کفل۔ بکسر اول بہرہ اور حصہ کسی چیز کا اور وہ نمدہ جو گھوڑے پر
بیٹھ نہ سکے اور کمبل جو گھوڑے پر ڈالا جائے۔

کفیل۔ بروزن جلیل ضامن و ذمہ دار۔ توحید۔ بعمر کوتہ و اندک
زمانہ وقت قلیل ٭ چرا است در دل انسان امید ہائے طویل ٭
زبان کجا ست کہ شرح ثنائے حق گوید ٭ کجی ست خامہ کہ سازد از ان
رقم تفصیل ٭ خدا ست مالک مشکلکشا و عقدہ کشا ٭ پی آرب
حاجات جملہ خلق کفیل ٭

کفران۔ ناسپاسی و ناشکری۔ مؤلف۔ روزی حق خوردہ اندر
بندگی کاہل چرا ست ٭ بندہ غافل چرا کفران نعمت میکند ٭

کفن۔ بسکون فا وہ کپڑا جسمین مردہ کو لپیٹتے ہین اور دفن کر دیتے ہین۔
ملا قاسم مشہدی۔ در قبائے شفقے بر سر خاکم بگذشت ٭ فیض صبح
کفنم رنگ دگر پیدا کرد ٭

کفتین۔ دونون پلے ترازو کے۔

کفو۔ ہم جنس و ہم نسبت ہمتا خویش قبیلہ ہم عمر ہم عہدی لوگ۔ آیت قرآنی
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔

کفارہ۔ کفارہ۔ بتشدید فا سے و بلا تشدید بدلہ کسی گناہ کا جو
کسی کو دین۔ میر تسلی۔ یک نظر دیدہ ولیش دیدہ ہمہ گریست ٭
دیدن رنگ شراب این ہمہ کفارہ نداشت ٭

کفچہ۔ بڑا چمچہ اور سانپ کا سر جو بصورت چمچہ کے بنا لیتا ہے ایسا کفچہ
بنانے والا ایک قسم کا سانپ ہے ہندی مین اسکو پھن کہتے ہین۔

کفہ۔ کفہ۔ بتخفیف و تشدید فا سے ترازو کا پلہ اور ہر چیز کہ اسکی
صورت پر گول ہو اور خوشہ بیم کوفتہ۔ تاثیر۔ حسن از روی تو شد تا چمن
نافروش ٭ کردہ از لالہ و گل کفہ ترازوے ترا ٭

کفہ۔ پیراہن کا حاشیہ۔

کفیدہ۔ شگافتہ یعنی پھٹا ہوا۔ صائب۔ طراوت از ثمر آسمان
برون رفت ست ٭ ترنج ماہ بنان کفیدہ ماند ٭

کفرہ۔ بفتحات جمع کافر بہت سے کافر۔

کفری۔ بیاے نسبت کافر و بیدین۔ تاثیر۔ نہ بسری شوق نگاری
نہ حضوری تاثیر ٭ عشق کفری شدہ از دست مسلمانی ما ٭

کفشکی۔ کشتی کرنے والون کے ایک داؤن کا نام ہے۔

کفنی۔ وہ پیراہن نادوختہ جو فقرا پہنتے ہین مردہ کے گلے مین
بھی وہی پہنایا جاتا ہے۔ شاہ قاسم انوار۔ مرد میدانی اگر بگذری
از زمانی ٭ رتبہ خود شکنی نیست کم از بت شکنی ٭ نسبت فقر و فنا
ہم نزدیک ست ٭ لیک یک پردہ جدائی ز کفن تا کفنی ٭

کاف با لام

کَلّا - بہ تشدید لام ہرگز نہیں نیست یعنی ایسا نہیں -
کَلَا - بہ تخفیف لام سبز اور تر گھاس اور مینڈک جو جانور آبی ہو -
کَلیسا - بت خانہ کفار کا اور گرجا عیسائیوں کا - قطعہ از مؤلف -
بسکہ جلوہ بخشد نور یزدان ❊ نظر آید خدا اندر کلیسا ❊ بہ بینی ذات
حق گر دیدہ داری ❊ بہر ملک و بہر شہر و بہر جا ❊
کَلب عوا - سگ آواز کنندہ - کتا بھونکنے والا اور نام ایک
منزل کا منازل قمر سے اور وہ چار ستارے ہیں ایسی صورت میں
کہ گویا کتے بھونک رہے ہیں -
کَلبا - بفتح اول و بائے موحدہ ژندی زبان میں سگ یعنی کتا -
کَلبا - ژندی زبان میں درخت انگور کا -
کَلُوک - رخنہ اور سوراخ اور غوک یعنی مینڈک جو آبی جانور ہے -
کِلیا - بکسر اول اشنان یعنی سجی جس سے صابون بناتے اور کپڑے سپید کرتے ہیں -
کَلب - بسکون لام سگ یعنی کتا جو مشہور جانور ہے -
کَلَب - بفتح اول و دوم چہرہ آدمی اور حیوان کا اور چونچ پرندوں کی -
کَلِب - بکسر لام دیوانہ اور کاٹنے والا -
کِلاب - جمع کلب بہت سے کتے -
کَلبُد - پہلوی فارسی میں کالبد یعنی جسم آدمی و حیوان کا -
کَلب کَلب - باؤلا و دیوانہ کتا -
کَلُّوب - بضم اول و تشدید لام لوہاروں کا چمٹا جس سے گرم لوہا پکڑتے ہیں -
کَلوخ کوب - مونگلی جس سے مینخ ٹھونکتے ہیں -
کَلات - بفتح اول و بضم اول قلعہ اور گاؤں جو پہاڑ کی بلندی پر ہو
اور نام ایک شہر کا ترکستان میں جسکو فیروز پسر سیاوش نے
آباد کیا اور نام ایک قلعہ کا حوالی ہرات میں اور نام ایک قلعہ کا
مضافات قندھار سے اور نام ایک داؤں کا کشتی کے فنون سے
میر نجات - کردہ باز کلات کہ از زور رفتہ حیات ❊ بگذر از غیر پیچ وا ہی
ازین کہنہ کلات ❊ شرف علی یزدی - ز خیل و حشم ہر چہ زان
داشت باک ❊ بہ حصن کلات اندر آورد پاک ❊
کُلفت - بروزن الفت رنج و مصیبت و کدورت وانڈوہ - ملا مفید بلخی
بے جام بادہ کلفت سر شار میکشم ❊ آئینہ وار ساغر زنگار میکشم ❊
کُلفت - یعنی بسکون فاگندہ و درشت و ناہموار و ناپسند - ملا طغرا در ہجو
زندتا لگد بر سر آن کلفت ❊ بکیست قلمہائے خود کردہ جفت ❊
کَلالت - ماندہ ہونا - کند ہونا - یتیم ہونا - بے فرزند ہونا -

کلاونت - سرود گانے والا یہ لفظ ہندی ہے -
کُلیات - جمع کلی تمام و کمال پورا سارا - خواجہ سلمان - و عبارات
تو توضیحات منہاج نجات ❊ در اشارات تو کلیات قانون شفا ❊
اکلکج - لڑنے والا - لڑائی کرنے والا -
کَلکج - بکسر اول و سکون لام حمامی یعنی حمام والا و کناس خاکروب
و چرک و عجب و خودستائی و تکبر و عجب -
کُلغج - بضم اول روئی کے ٹکڑے اور قسم ایک لباس کا جو ریشمی ہوتا ہے -
کَلخج - وہ میل جو آدمی کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے و عجب و تکبر و بغض -
کَلوخج - بفتح اول وہ خمیری روٹی جو تنور کی دیوار سے لگی ہوئی ٹوٹ جاوے
اور تنور میں گر کر خاک آلودہ ہو جائے اور وہ ہاتھ جسکی انگلیاں بیماری یا کسی وجہ سے ٹیڑھی ہو جاویں
کُلوچ - بضم اول روغنی روٹی اور عوض اور بدلہ اور توڑنا بسری اور
خشک روٹی وغیرہ کا دانتوں سے -
کَلیواج - مشہور پرندہ ہے جسکو چیل کہتے ہیں عرب اسکا خطاف و ازی ہے
اردو زبان میں کبھی اسکو بولتے ہیں -
کَلنج - بجیم پارسی وہ میل جو انسان کے ہاتھ پاؤں و جسم پر جم جاتا ہے -
کَلپ - ایک قسم کی گھاس کا نام ہے -
کُلوخ - مٹی کے ڈھیلے اینٹوں کے ٹکڑے -
کَلند - کلنگ - بروزن سمند وہ آہنی اوزار جس سے زمین کھودتے ہیں
ہندی میں کسی اسکو کہتے ہیں پنجاب میں کہی بولتے ہیں اور سنگ تراشوں کا
تیشہ جس سے پہاڑ سے پتھر کھودتے ہیں - یحیی کاشی - قلم کو تیشہ شد
با خود بجنگم ❊ کہ آخر دستہ ماند از کلنگم ❊
کلہ قند - گونہ قند کا اور نام ایک شیرینی کا - محمد قلی سلیم - بدل چون تیغ تو
شیرینی نہد بار ❊ سر فرزند باشد کلہ قند ❊
کلید - تالی جس سے قفل کھولتے ہیں - شفیع اثر - بے کرب شداز
رشوہ رشوہ چارہ او مت ❊ کشاد قفل زر از ❊ جز کلید زر است ❊
کلہ قند - ایک پہاڑ کا نام ہے اور نام ایک قسم کے کھیرے اور ککڑی کا
کلباد - ایک تورانی پہلوان کا نام ہے جو جنگ دوازدہ رخ میں فریبرز کو
بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا -
کلاور - کلار - غوک یعنی مینڈک -
کلامبور - ایک مازندرانی پہلوان کا نام ہے -
کلاغر - وہ لکڑی نرم جو جلانے کے کام آئے -
کلنجار - بکسر اول خرچنگ جو آبی جانور ہے سے ہاتھ پاؤں رکھتا ہے عربی
میں اسکو سرطان کہتے ہیں -

کلنجر - نام ایک قلعہ کا ہند مین -
کلنتہ - ناتراشیدہ و ناہموار اور وہ لکڑی جو دروازے کے پیچھے لگاتے ہین تاکہ بخوبی بند ہو اور باہر سے کوئی کھول نہ سکے -
کلوخ انداز - وہ سوراخ جو قلعہ کی دیوار مین رکھے جاتے ہین اور محاصرہ کے وقت محصور اُس سے باہر والون پر گولی اور پتھر پھینکتے ہین اور پتھر پھینکنے والا اور وہ جشن جو شرابخوار شعبان کے اخیر ہفتہ مین کرتے ہین اس خیال سے جو رمضان کے تمام ماہ مین انکو شراب پینا نصیب نہوگا - سعدی - چو کردی با کلوخ انداز پیکار ٭ سر خود را بنادانی شکستی ٭ چو تیر انداختی بر روی دشمن ٭ حذر کن کاندر آماجش نشستی ٭ صائب - روز شد دیک نسبت می باید کلوخ انداز کرد ٭ زاہدان خشک را زاندازہ سر باز کرد ٭
کلز - جنگلی انار کے درخت کی جڑ کا نام ہی -
کلوزہ - روئی کے درخت کا پھل جو پک چکا ہو اور شگفتہ ہوکر روئی باہر آچکی ہو -
کلیز - زنبور جو مشہور نیشدار جانور ہی ہندی مین اُسکو بھڑ کہتے ہین -
کلاشہ - ایک سبزے کا نام ہی جسکو چرچری بھی کہتے ہین اور کھانے مین آتا ہی -
کلاژہ - جنگلی کوا جو سیاہ اور سپید ہوتا ہی معرب اُسکا کلاغ ہی -
کلوشہ - چلپاسہ یعنی چھپکلی -
کلیش - بکسر اول آہک یعنی چونہ گلی وغیرہ سامان سپیدی و عمارت کا -
کلس - بفتحتین وہ قبہ طلائی وغیرہ جو مساجد کے گنبدون نصب کرتے ہین
کلوس - وہ گھوڑا جسکی آنکھ اور چہرہ اور پوز سپید ہو ایسے گھوڑے کو نحس تصور کرتے ہین ٭
کلیاس - ادب خانہ و طہارت خانہ -
کلاشش - بشین معجمہ عنکبوت اور عنکبوت کا گھر -
کلاغ - جنگلی کوا جو سپید و سیاہ ہوتا ہی -
کلمرغ - ایک قسم کرگس کا ہی جسکے سر پر پر نہین ہوتے گویا وہ سر سے گنجا ہی - میر خسرو - بیضہ کل مرغ بزیر ہمائے ٭ از نسب خویش بود بچہ زائے ٭
کلف - سیاہ و مکدر داغ جو بعض لوگون کے جسم پر ظاہر ہوتے ہین -
کلک - بکسر اول ہر ایک سے جو اندر سے پولا ہو خصوصاً قلم جس سے لکھتے ہین - توحید - ہست ذکر وصف آن جان جہان ٭ خارج از اندازۂ حد و بیان ٭ لال در وصفش زبان اہل فن ٭ قاصر از تعریف کلک دو زبان ٭
ککلک - بالتحریک نشتر جس سے خون لیتے ہین - ضیائی نخشبی - در دل انبیان غمزۂ تیرت چو بگذرد ٭ گوئی روند بر دل پر خون من کلک ٭
ککلات - بکسر اول و فتح دوم گھاس کا گٹھا جسپر سوار ہوکر دریا سے اُتر جائین یا وہ مشک جسمین ہوا بھر لیا اور اُسپر سوار ہوکر دریا سے گذر جائین - ابو المعالی گنجہ - گر زجملہ بپ رسنے کاندر جہان ست ٭ دست تقدیر خدا بند دکلک ٭ ز آب خرچشم کے کند ہرگز عبور ٭ وحش و طیر و آدم و جن و ملک ٭
کلک - بضم اول و فتح دوم وہ بات جو از روے طعن سرزنش زبان پر لائین و شوم و نامبارک - حکیم سوزنی - گر بیش گل اشتم گلہ مشکبوے تو ٭ برمن کلک مزن کہ نیندیشم از کلک ٭
کلاسنگ - فلاخن جس سے پتھر مارتے ہین -
کلاک - بفتح اول وہ بنجر زمین جسمین کبھی زراعت نہوئی ہو اور سر کی چوٹی پیشانی تک -
کلاک - بضم اول جسکا پیٹ خالی ہو بالکل خالی اور بڑی موج جو دریا سے اُٹھے
کلاک - بکسر اول لمبا بانس جسکے ذریعہ سے اونچی شاخون سے میوہ اُتار لیا جائے
کلباب - بضم اول اور تیسرا حرف بائے موحدہ وہ جھونپڑا جو کھیتی کی حفاظت کے لیے زمیندار کھیتی بر بناتا ہی -
کلانگ - تخم خرفہ جو ایک مشہور دوا ہی اور عورت جو دلتنگ و جنگجو ہو -
کلوک - بضم اول بے ادب و بے حیا و شطاح -
کلوک - بفتح اول بے ریش لڑکا -
کلیک - بفتح اول چغد یعنی الو جو مشہور منحوس جانور ہی اور بزرالورد گلاب کے پھول کا بیج اور احول جو ایک کو دو دیکھے اور چھوٹی انگلی جسکو خنصر کہتے ہین -
کلال - بفتح اول اعضا کی ماندگی و خیرگی و کندی -
کلال - کمہار برتن بنانے والا -
کل - گنجہ جسکے سر پر بال نہون اور بال بسبب بیماری جوشش کے اُتر گئے ہون - سالک قزوینی - میخانہ ازین بیش کہ مقبرہ بود ٭ آنجا صد سر حساب باک برہ بود ٭ تنہا نہ ہمین شیشہ حریف سرہ بود ٭ بیچارہ کدو نیز کل مسخرہ بود ٭
کلکل - بفتحتین جیغہ و کلغی جو بادشاہ پگڑی پر باندھتے ہین -
کلکل - بیفائدہ گفتگو اور کاؤ کاؤ یک بیک - فوقی - نیست یک مو چو شعل بر سر شان ٭ بیش زین تو قیا مکن کل کل ٭
کلمکل - شور و غوغا فتنہ و فساد - میر نجات - این ہمہ کلمکل از تنبک گونید لست ٭ مطربا جق جق ما از دم پوشید لست ٭
کگیل - کند اور سست و درماندہ اور خیرہ اور گنگ یعنی بے زبان
کلام - گفتگو و تقریر بات چیت توحید - دیدہ کشا بذر فرط بیہشی

از مئی وحدت بنوشد ہر کہ جام ✤ نے بصبح حق مقام اعتراض ✤
نے بحد انتیش جائے کلام ✤

کلم - بفتح اول خستہ و مجروح کرنا -

کلم - بفتح اول و کسر لام جمع کلمہ بہت سی باتین -

کلوکلم - بہت سے زخم و جراحت ہا -

کلیم - اسخن گو - گفتگو کرنے والا اور لقب حضرت موسی علیہ السلام کا جو ذات الٰہی کے ساتھ بے واسطہ کلام کرتے تھے توحید - ہر چہ ظاہر شود از خیر و شر ✤ در جہان از حکمت است ای حکیم ✤ ذکر تو جاری بہر صبح و مسا ✤ ہست بر لوک زبان ہر کلیم ✤

کلبتان - کلبتین - لہارون کا آہنی اوزار کہ اسکے ساتھ گرم لوہا پکڑ کر کوٹتے ہین انبر اور ماشہ اسکو کہتے ہین اور گلگیر جس سے شمع کا گل کاٹ لیتے ہین اور موچنہ حجامون کا جسکا عربی مین منقاش نام ہے

کلیدان - وہ کندہ جو گنہگارون اور چورون کے پانون پر ٹھکتے ہین اور قفل وہ آلہ جسکے ذریعہ سے باندھنا اور کھولنا کسی چیز کا ہو -

کلاشکن - ایک قسم حلوے کا جو نہایت سخت ہوتا ہے -

کلان - بزرگ و مہتر و بلند اور بہت بڑا - توحید - مردہ زا بخشد حیات جاودان ✤ از کمال لطف خلاق جہان ✤ خاک بوسیں در گہش شاہنشہان ✤ سرنگون در سجدہ اش گردنکشان ✤ بندگان بارگاہ ذوالجلال ✤ نیک و بد پیر و جوان خرد و کلان ✤

کلگی ان - وہ نشیب کی جگہ و مغاک جسمین پلید پانی جمع رہے -

کلنج - بضم اول و فتح ثانی وہ علت جو دوسری علت کے سبب سے پیدا ہو مثلاً اگر زانو پر دبل ہو تو ان مین ایک گرہ پیدا ہو جاتی جب دبل جاتا ہے تو وہ گلٹی دفع ہو جائے ہندی زبان مین اسکو سند کہتے ہین -

کلیون - ایک کپڑے کا نام ہے جو سات رنگ سوت سے بنا جاتا ہے -

کلابتون - مشہور چیز ہے جو چاندی کے تار سے بٹا جاتا ہے -

کلو - بڑے رتبے کا آدمی محلہ کا رئیس -

کلاکو - غوک یعنی مینڈک -

کلاجو - پیالہ شراب یا پانی پینے کا -

کلاذو - جنگلی چوہا -

کلاہو - وہ ہرن جسکے سینگ نہون -

کلپسو - چلپاسہ یعنی چھپکلی -

کلاپیسہ - پھر جانا آنکھون کا اپنی حالت سے اور چھپ جانا سیاہی کا بسبب لذت جماع وغیرہ یا بسبب ضعف و غصہ و تعجب کے - عبد القادر قتی -

کلاپیسہ شد چشم چرخ ز رشک ✤ سپیدہ سیہ ہر دو شد عین ہم ✤

کلافہ - نام ایک فن کا فنون کشتی سے اور لپیٹنا سوت یا ریشم کا لکڑی پر - شعر - شوقیال صرر تہرشت کلافہ کرد ✤ شمار الفرق جہان پہلوان ہنر ✤

کلاہ - ٹوپی تاج جو سر پر پہنتے ہین - واعظ قزوینی - در بزرگی باید افگندن ز سر تاج غرور ✤ میوہ در بالیدن اندازد کلاہ خویش را ✤

کلبہ - خانہ محقر - چھوٹا سا گھر - زمانی یزدی - از در کلبہ ما دوش نہ دانستہ گذشت ✤ لیک دانستہ پرسید کہ در وا کیست ✤

کلہ گت - خیمہ جو دفع پشہ وغیرہ کے واسطے پتلے کپڑے کا بنایا ہو اور چھپر کھاٹ جسپر رات کو سوتے ہین اور وہ پردہ دار پلنگ ہوتا ہے سعدی - ستو کی شبوی نالہ داد خواہ ✤ بکیوان زدہ کلہ خوابگاہ ✤

کلیچہ - خمیری روٹی -

کلمہ - سخن - بات اور لفظ جسکے معنی ہون - قطعہ از مولف - دل روشن اگر طلب داری ✤ از خدا اے فقیر حق آگاہ ✤ نقش بر لوح سینہ خود کن ✤ کلمہ لا الٰہ الا اللہ -

کلت - تھوڑا دم کٹا اور وہ شخص جسکی زبان سے حروف بخوبی ادا نہون اور ہاتھ مین رکھنے کی لکڑی جسکو سونٹا اور چھڑی اور گتکہ کہتے ہین اصل مین کلتہ کے معنی بریدہ یعنی کٹے ہوئے ہین بریدہ دم کو کلتہ دم کہہ سکتے ہین -

کلادہ - سوت کا اینٹا -

کلاتہ - چھوٹا سا گانون اور زمین مزروعہ -

کلیہ - بضم گردہ جو ایک عضو اندرونی اعضا سے ہے -

کلیتہ - بضم اول و تشدید لام تمام و کمال - سارا - پورا -

کلفتہ - نادرست بیہودہ و بے معنی و لغو -

کلیتہ - بفتحتین ایک نوع کلیچہ جسمین حلوا و مغز بادام پر کرین -

کلالہ - زلفین اور پیچیدہ بال -

کلیلہ - نام ایک گیدڑ کا جسکا فسانہ کتاب کلیلہ و دمنہ مین مذکور ہے -

کلکتہ - اقلیم ہند ملک بنگال مین بڑا شہر دار الخلافہ ہند کا ہے -

کلگی - لوازم ساز گھوڑے سے جو گھوڑے کے سر پر پرون سے بنا کر باندھتے ہین - طاہر وحید - سرکاکل ہو از بے رگی ✤ بہ سر سخت خود ہست از کلگی ✤

کلندری - کلندگر - کلند بنانے والا - سیفی صاحب بدائع - تا گشتہ ام ہلاک جوان کلن گر ✤ ہمچون کلند خاک در ش میکنم بسر ✤ سیفی اسیر شوخ کلندی شدی ✤ ز دور ✤ خود را بدشنہ ساختہ کلیتلا دگر ✤

کاف با میم

کمرا - بفتح اول نان بزرگ کی رفیدہ کہا با لائی روبال جسپر علی حزیری

کے کنارے پر ہوتے ہین جو مورچون کے آگے لگاتے ہین اور رخنہ و گردبش کی قطع پر بنا ہوا ہوتا ہے۔

کلما۔ بضم اول ایک گھاس کا نام ہے جو نہایت بدبو ہوتا ہے۔

کلمرا۔ وہ گھر اور احاطہ جسمین رات کو بکریان او گائے بھینسون کا رہتا ہے اور شاہی بارگاہ اور محل اور رشتہ زنار کا جو مجوس اور ہندو گلے مین پہنتے ہین ۔

کلمرا۔ ژندی زبان مین مہتاب یعنی چاند۔

کمخاب۔ مشہور قیمتی کپڑا ہے جو ریشم اور کلابتون سے بنایا جاتا ہے۔ فریدالدین عطار۔ آن یکے بر بستر کمخاب و نخ ۔ دیگرے بر خاک خواری بستہ یخ ۔ اسیر لاہجی۔ اطلس و زربفت و کمخاب و قصب ۔ نیست غیر از پردہ در راہ رب ۔

کمات۔ بفتح اول سماروغ جو برسات کے موسم مین خودبخود زمین سے بشکل بیضہ نکل آتی ہے اور لوگ اسکو گوشت مین پکا کر کھاتے ہین اور خشک کر رکھتے ہین۔

کمات۔ بضم اول و فتح ثانی دلاوران و سپاہیان جمع لفظ کمی جسکے معنی دلاور سپاہی کے ہین۔

کمیت۔ بضم اول و میم مفتوح انگوری شراب سرخ جو سیاہی مائل ہو اور گھوڑا سرخ رنگ سیاہی مائل جسکا یال اور دم سیاہ ہو اور نام ایک عربی شاعر کا۔

کمیت۔ بفتح اول و تشدید میم مکسورہ و تشدید یاے تحتانی مقدار طول و عرض و وزن کسی چیز کا جو ناپا گیا اور تولا گیا ہو یا گنا گیا ہو۔

کمالیت۔ کمال ہونا۔ پورا ہونا۔ ثابت ہونا۔ میر حسن دہلوی۔ ماہ گردیش رخت لاف کمالیت زند ۔ کلک الاوس الذنب سازم سرای ہم کنم

کمحت کمحت۔ ژندی زبان مین وہ چیزین جو آپسمین ملی ہوئی ہون۔

کمست۔ وہ آدمی جو بد اصل و نادان ہو۔

کماچ۔ موٹی خمیری روٹی اور لکڑی کی ٹکیا جو خیمہ کے چوب کے سر پر رکھتے ہین۔ سکندر بیگ بلشی۔ گمان نان چو در جائے تبر دند ۔ سپاہیہا کماچ خیمہ خوردند ۔

کمند۔ یہ لفظ اصل مین خمند تھا اور خم و ند یعنی وہ چیز جسمین خم ہو اور وہ ایک دراز رسن ہوتا ہے جسکے ذریعہ سے اونچی دیوار پر چڑھ جاتے ہین اور جنگ کے وقت دشمن کی گردن مین ڈالکر اسکو اپنی طرف کھینچ لیتے ہین۔ نظامی۔ کمند چو ابروے طغاچیان ۔ بخم چون کمان گوشۂ چاچیان ۔

کمادو۔ بکسر اول گرم کرنا کسی عضو کا اس چیز سے جو آگ سے گرم کی گئی ہو یعنی سینک دینا۔ ٹکور کرنا۔

کمر۔ میانہ ہر چیز کا اور میان اور میان بند و کمر بند جسکو پٹکا کہتے ہین اور کریوہ اور پہاڑ کا میانہ۔ ابوطالب کلیم۔ سوار از سر فیل کردی گزر ۔ بدانسان کہ از کوہ غلطد کمر ۔

کماشیہ۔ ایک قسم کا گوند ہے کہتے ہین کہ کرفس کوہی کا گوند ہے۔

کمبار۔ بہ باے موحدہ وہ رسا جو نار جیل سے بٹا جاوے۔

کمپیر۔ بہت ضعیف آدمی و فرتوت سالخوردہ۔

کمیز۔ بہ زاے ہوز۔ بول۔ پیشاب۔

کمک۔ بفتحتین مددگاری و اعانت بضم اول و فتح ثانی بھی درست ہے۔ شیخ کاشی۔ با چشم تم کہ فتنہ بار کمک ست ۔ شور است کہ رو سیاہی مردمک ست ۔ گر بخت سیاہ مطلق نشود ۔ در بخت ہم از سپیدی کمک ست ۔

کمال۔ تمام ہونا۔ پورا ہونا۔ بے نقصان ہونا۔ مقابل زوال کے۔ حافظ۔ بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالے ۔ یا رب مباد ہرگز این حسن را زوالے ۔

کم۔ بفتح اول تھوڑا۔ مقابل بیش کے۔ ارادت خان واضح۔ بدام زندگی تا دانہ بیچوم کم از مورم ۔ سپاہان اشیوم گیرم اگر یکدم کم و زیادہ

کم کم۔ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ۔ ملا عنیمت کنجی۔ ہمچو ماہ نو کہ کم کم میشود ماہ تمام ۔ زخم ناخن در دل من داغ حسرت میشود ۔

کمم۔ ایک تالاب کا نام ہے کشمیر مین۔

کمان۔ وہ کمان جس سے تیر چلاتے ہین عربی مین اسکو قوس کہتے ہین اصل مین یہ لفظ خمان تھا۔ امیر خسرو۔ مژہ تیرگان کمان بستہ زہ ۔ زہ زدہ ابروے کمان را گرہ ۔ میر معزی۔ آن کیست کو بشاہی بر تو کند کمینی ۔ آن کیست کو بمردی در تو کشد کمانے ۔

کمانہ۔ ترکھانون کا کمانہ جس سے برمہ کو گردش دیتے ہین اور لکڑی مین سوراخ نکالتے ہین۔

کمانچہ۔ چھوٹی کمان اور وہ کمان جس سے عورتین روئی دھنک لیتی ہین اور وہ بشکل کمان کی جو بادشاہی فرامین پر کھینچتے ہین اور وہ بمنزلہ طغرا کے ہوتی ہے۔ حمید لونکی۔ ہلال عید برآمد نظام خضرا ۔ چو بر سر سلاطین کمانچہ طغرا ۔

کماسہ۔ بضم اول وہ شخص جو عورت اور مرد کی دونون علامتین رکھتا ہو اور نام ایک پہاڑ کا ہے خراسان مین اور نیز نہر چاہ و رعونت نجیبہ و فاستہ

کمالہ۔ خام ابریشم دکم قیمت۔

کماہہ۔ تعویذ و بازوبند جو بازو پر باندھین۔

کمالیہ۔ بضم اول ابلہ و احمق و نادان آدمی۔

کمینہ - وہ آدمی جسکی عزت کم ہو - حقیر - بے عزت - توحید - صفا کن غبار کدورت ز سینہ ۔ کہ باقی نماند ز بغض و کینہ ۔ بشغل خدا باش ہر وقت شاغل ۔ کہ بخشد خدایت ز عرفان خزینہ ۔ بہ جسر ابہر تحصیل دنیائے فانی ۔ بکمی در عبادت کند این کمینہ ۔

کمثری - بفتح اول و تشدید میم میوہ امرود -

کمی - دلاور و دلیر و بہادر و سلاح بند -

کماہی - حقیقت و کیفیت و حالت -

کمی کماسی - گھاٹا خسارہ جو مقابل بسیار کے ہے -

کملی - پشمی لباس جو درویش پہنتے ہیں -

کاف با نون

کندہ پا - وہ لمبی لکڑی سوراخ دار جسمین مجرم کے پانون رکھکر قفل لگا دیتے ہین -

کنا - بضم اول پہلوی مین زمین جسکو عربی مین ارض کہتے ہین اور وہ زمین جسمین زراعت ہوا اور کنارے سے بلند ہون -

کنا - بکسر اول زندی زبان مین ماہی یعنی مچھلی جو آبی جانور مشہور ہے -

کندا - بفتح اول شجاع و دلیر و پہلوان و حکیم و فیلسوف و منجم -

کندنا - ایک سبزہ ہے جو پیاز اور مولی کے کھیت مین پیدا ہوتا ہے -

کنپا - وہ نے جو اندر سے پولی ہو اور قلم جس سے لکھتے ہین -

کنب - بفتح اول وہ سوت جو السی کی چھال سے کاتتے ہین اور اس سے کپڑا بنتے ہین اور نام ایک قسم کے خیار کا اور بیچ اور بھنگ کے معرب جسکا قنب ہے -

کنشت - کفار کا عبادت خانہ بت خانہ اہل شرک کا - توحید - درد و دشت خدا طلو دمید ۔ در مسجد و کنشت سرایا ظہور اوست ۔

کنیت - بضم اول سکون ثانی عرب مین وہ نام جسکے اول لفظ اب کا ہو یا ام کا چنانچہ ابو الحسن و ابی بکر و ام الکتاب و ام کلثوم یا ابن اور بنت کا ہو مثلاً ابن حاجب و ابن السبیل و بنت الکرم وغیرہ اور فارسی مین کبھی یہ لفظ لقب کے معنی بھی دیتا ہے -

کنایت - پوشیدہ بات کہنا ایک امر کو دوسرے پیرایہ مین بیان کرنا -

کنخت - بفتح اول و دوم و سکون خائے معجمہ جوہر اور اصلیت ہر چیز کی چنانچہ شمشیر بے کنخت و تیغ بے جوہر -

کنفت - عسل یعنی شہد جو مشہور ہے -

کنج - بضم اول گھر کا گوشہ - الگ مکان - خلوت خانہ شعر - کسی کو بکنج قناعت نشست ۔ در حرص بر خود ز ہر سمت بست ۔

کنگاج - کنگاش - صلاح مشورہ جو کسی کے ساتھ کیا جائے حکیم نزاری - خسروا طرفہ قصد دارم ۔ گر بسمع رضا کنی اصغاش ۔ گرچہ رخصت نمید بد عقلم ۔ ہر چہ بالداہی کنم کنگاش ۔ لیک چون فکر میکنم دریم بیشوم ہمچو طرہ حماش ۔ ولہ - درین معاملہ کنگاج رفت با اصحاب ۔ باتفاق بگفتند سوے خانہ گرای ۔

کنج - بفتح اول وہ گوشت کا ٹکڑا جو انسان کے حلق مین لٹکتا ہے کوا بھی اسکو کہتے ہین اور وہ آدمی جو متکبر اور خود ستا ہو اور کشک یعنی خشک دہی جسکو ترکی مین قروت بولتے ہین پنیر بھی اسکا نام ہے -

کنج - بکسر اول اندک یعنی تھوڑا -

کنجد - بضم اول مشہور سیاہ رنگ تخم ہے جس سے تیل نکالتے ہین اور ہندی مین تل کہتے ہین -

کند - بفتح اول شکر مصری وغیرہ شیرینی معرب جسکا قند ہوا اور ہندی مین گانون جو آباد ہو و بمعنی زخم و جراحت اور بھاگنا اور تیر انداز کی وہ کشش تیر کی جو کمان کھینچا ہو اسوقت کہ تیر کو چھوڑا جائے - سلا طغرا - ندارم قولی ورنہ چو تیر از کمان جستہ ۔ ازین ہمان سرا بے حلاوت میروم ہندی ۔

کند - بضم اول وہ چیز جو تیز نہو مثلاً کارد کند و ذہن کند وغیرہ - ذوقی - بہیرانہ سرالفت مردی مزن ۔ کہ کارے نیاید ز شمشیر کند ۔

کنود - بفتح اول و ضم ثانی ناسپاس و ناشکرا اور وہ چیز زمین جسمین گھاس کچھ پیدا نہو -

کناد - نام ایک پرندے کا ہے جسکو مرغ الہی بھی کہتے ہین اور عربی مین ورشان بولتے ہین اور وہ جنگلی کبوتر ہے -

کنار - بفتح اول کنارہ ہر چیز کا اور طرف - قوامی - چو دریا بدی میان بمیان ۔ بخل را کردی از کنار کنار -

کنار - بکسر اول بغل و آغوش - حکیم انور لاہوری - این تلاش و جستجو از بہر چیست ۔ زانکہ دلدار است ہر دم در کنار -

کنار - بضم اول مشہور میوہ ہے جسکو ہندی مین بیر کہتے ہین -

کنگر - بضم اول و کاف دوم فارسی مخفف کنگرہ جو قلعہ وغیرہ عمارات عالیشان پر بناتے ہین اور نام فقیرون کے ایک فرقے کا جو گدائی کرتے ہین جو کوئی نہ دے اپنے بدن کو چھریان مارکر خون نکالتے ہین اور اپنے خرد سال بچون کو چھریان دیتے ہین تاکہ وہ اپنے جسم کو چھریان مارین اور لوگ رحم کرکے کچھ دے دین - حافظ - کاشکی حافظ بسر مرد کنگر بودی ۔ تا ز دینار و درم کیسہ او پر بودی - ابو طالب کلیم - گردون چو خاتم است و در انگشت کنگرش ۔ آن قلعہ بادشاہ سلیمان گرفتہ است ۔

کندر - بضم اول و سوم ایک درخت کا گوند ہے مشابہ مصطگی جو دوا مین مستعمل ہے -

کنبود - بفتح اول مکر و فریب و مدد گاری -

کنجارہ - کھلی جو تیل نکالنے کے بعد باقی رہجاتی ہے -

کَنْجَر - موٹا ہاتھی توی ہیکل جنگی اور آدمی جو حد سے زیادہ فربہ ہو -
کَنْگا ر - بفتح اول وہ سانپ جو اپنا پوست اُتار چکا ہو -
کَنْز - بفتح اول وزاے معجمہ گنج یعنی خزانہ اور نام ایک کتاب کا
علم فقہ مین اور نام دوسری کتاب کا لغت علم مین اور خوشہ کھجور کا -
کُنُوز - بضمتین جمع کنز بہت سے خزانے -
کَنِیز - پرستار - خادمہ عورت - میر محمد علی رائج - رونق میکدہ
نرگس ستت بودم ٭ دختر رزئی خدمت چو کنیز ست ایجا ٭
کَنّاس - بفتح اول وتشدید نون خاکروب وجلاد -
کِناس - سونا ہرن اور گوزن کا -
کَنائِس - عیسائیون کی پرستش گاہین -
کَنْگَش - ترکی مین صلاح وتجویز ومشورہ مخفف کنگاش -
کَنِش - بفتح اول غصہ وکینہ جو دل مین ہو اور رنجیدگی باطنی -
کُنِش - بضم اول کردار واعمال وافعال نیک ہون یا بد -
کَند روش - وہ زمین جو ہموار نہو پشتہ پشتہ ہو -
کُنْدَشْت - بضم اول روئی کا گالا اور وہ لکڑی جس سے
دُھنیا دُھنی ہوئی روئی جمع کر لیتا ہی -
کَنّاغ - ابریشم کا کرم جسکو پیلہ کہتے ہین اور سوت جو روئی یا ابریشم سے
کاتا جاے اور تار عنکبوت وطرف وجانب وسمت -
کُنج - آنکھ کا میل سپید جو آنکھون سے نکلتا ہی -
کَنَف - جانب وکنارہ وپناہ وحمایت اور فارسی مین وہ سوت جو پوست
کتان سے کاتا جاے -
کُنجِشک - مشہور پرندہ ہی جسکو چڑیا کہتے ہین اور نام ایک
لکڑی کا جو ساز مین لگائی جاتی ہی -
کُنگ - بضم اول فارسی مین فربہ موٹا قوی ہیکل اور خوشہ انگور وخرما کا -
کَنِیزَک - پرستار - خادمہ عورت - فردوسی - کنیزک بدو گفت
کز راہ داد ٭ منم دختر مہرک نوش زاد ٭
کَنارَنگ - والی وحاکم وشحنہ وزمیندار ومرزبان وخداوند وصاحب -
کَنّاک - پیچش کی بیماری جسکو زحیر کہتے ہین اور درد شکم -
کُنجِدک - ایک دوا کا نام ہی جسکو انزروت کہتے ہین اور بیماری
علت کی جس سے انسان کے جسم پر داغ پڑجاتے ہین -
کُنجَک - ایک درخت کا نام ہی جسکو نیشہ فال کہتے ہین -
کَنجاک - وہ شکن جو انسان کے جسم پر بسبب ضعیفی ولاغری کے
پڑجاتے ہین اور قالین اور ٹاٹ -

کُندُک - روٹی کے ٹکڑے -
کَندُوک - غلہ دان یعنی جسمین غلہ رکھتے ہین -
کَنَاک - وہ سخت جوز جس سے بمشکل تمام مغز نکلے اور آدمی جو بخیل
وممسک ہو اور نام ایک گھاس کا جس کے رسّیان بٹتے ہین -
کِندِیل - بکسر اول وہ حلقہ جو سوت یا ریشم کا بنایا جاتا ہی جسکے گلے
مین ڈالین وہ گلے مین ایسا بیٹھتا ہی کہ سانس بند ہوجاتی ہی اور
وہ شخص فوراً مرجاتا ہی رہزن لوگ یہ اپنے پاس رکھتے ہین
جسکو لوٹنا منظور ہوتا ہی اُسکو کندیل سے مار ڈالتے ہین -
کُنام - وہ مکان جسمین چارپائے رہتے ہون پرندون کا گھونسلا
وحشی جانورون کے سوراخ جسمین وہ رہتے ہون - سنجر کاشی
کمان زدست میفگن خدنگ غمزہ بکش ٭ شکار گاہ دل ست این کنام نیست ٭
کُندلان - بڑا خیمہ جو بادشاہون کے بارگاہ کے سامنے نصب ہو -
کَنان - بفتح اول کہنہ - پُرانا -
کِنان - بکسر اول پوشش ولباس -
کِنّ - بکسر اول وتشدید نون پردہ وپوشش -
کُن - بضم اول عربی مین صیغہ امر ہی ہوجا یعنی موجود ہوجا اور فارسی مین صیغہ امر کر
کِن - بکسر اول وتخفیف نون ترکی مین پس وعقب - پیٹھ پیچھے -
کَنعان - حضرت نوح کے بیٹے کا نام ہی جو کافر ہوگیا تھا اور طوفان
مین غرق ہوگیا اور نام اُس شہر کا جسمین حضرت یعقوب علیہ السلام
سکونت پذیر تھے - سعدی - یکے پرسید زان گم کردہ فرزند +
کہ اے روشن گہر پیر خردمند ٭ ز مصرش بوے پیراہن شمیدی +
چرا در چاہ کنعانش ندیدی ٭
کَنُون - اکنون یعنی اب -
کَنودان - شاہدانہ جو بھنگ کے تخم کا نام ہی -
کَندُو - بالضم خم بڑا جو مٹی سے بناکر غلہ بھر دیتے ہین -
کَنارہ - ایک طرف ایک سمت ہونا - الگ ہونا - جدا ہونا - ابو طالب کلیم
گوہم کنارہ زد و بنائے کند ٭ تقلید گوشہ گیری عنقائے کند ٭
کُندہ - لکڑی دراز سوراخ دار جسمین قیدیون کے پانون ڈالکر قفل
لگا دیتے ہین اور ہر ایک لکڑی دراز - غنی - از تواضع ہاے مردم سخت
در ماندم غنی ٭ ہر کہ می افتد بپایم کندہ پا میشود -
کُنائِہ - بفتح اول کنبہ یعنی پچھڑی -
کِنانہ - بکسر اول ترکش تیرون کا -
کُنہ - بضم اول اخیر اور انجام اور کیفیت ہر چیز کی -

کنتہ - لپٹتین چچڑی جو کتون اور چارپایون کے جسم کو چپٹ کر رہتی
چوستی ہی عربی مین اُسکو قراد کہتے ہین-
کنیشہ - بکسر تین تبخانے اور گرجے عیسائیون کے-
کنجارہ - کھلی جو تیل نکالنے کے بعد رہ جاتی ہی-
کناسہ - خاکروبہ خس و خاشاک جو خاکروب جمع کرتا ہی-
کنجاہ - نام ایک قصبے کا پنجاب کے ملک مین مسکن غنیمت مصنف مثنوی نغمیت
کندرہ - نام ایک مرغ کا ہی کہ پانی مین رہتا ہی اور پانی مین گھونسلا بناتا ہی-
کندورہ - دسترخوان جسپر کھانا کھلاتے ہین-
کنکالہ - زن فاحشہ عورت قحبہ - آدمی بخیل و ممسک-
کندوری - دسترخوان جسپر کھانا کہلاتے ہین-
کندھی - نام ایک پھول کا ہی جو نہایت خوشبو ہوتا ہی درخت اسکا
خرما کے درخت کی طرح ہوتا ہی ہندی مین اُسکو کیوڑا کہتے ہین-

کاف با واو

کورما - ایک قسم کا کھانا ہوتا ہی عربی مین اُسکو کہر یا کہتے ہین کوردا
بھی اُسکا نام ہی-
کوزبرتا - ژندی زبان مین کشنیز جسکو ہندی مین دھنیا کہتے ہین-
کوشا - کوشش کرنے والا-
کوکا - قمر جسکو ماہ اور چاند کہتے ہین و معنی غوغا و شور و فریاد-
کوکبا - ژندی زبان مین ستارہ جسکو عربی مین کوکب کہتے ہین-
کوکما - ژندی زبان مین آفتاب یعنی سورج-
کوکب - روشن ستارہ - علی خراسانی - گر زمین را تیرگی گیرد
فرو ننود عجب ٭ کوکب بخت علی از آسمان افتادہ است ٭
کواعب - جمع کاعب عورتین جنکی پستان ابھار جیسی ہون میرزا قلی میلی ہروی
زتاثیر زنجیر خفطش نماید ٭ گرہ چون سلاسل بزلف کواعب-
کولاب - تالاب و حوض-
کوداب - ایک آش کا نام ہی جو انگور کے شیرہ سے پکاتے ہین-
کرب - ایک گھاس نہایت نرم ہوتی ہی جس سے بوریے بناتے ہین اور
بچھونے نہالین چارپائی پر بچھاتے ہین وہ بوریا ٹھنڈی ہوتا ہی ہندی
مین اُسکو سیتل پاٹی بولتے ہین و معنی آنکس آہنی جس سے ہاتھی
کو ہانکتے ہین و ضرب و آسیب و کوفت و صدمہ-
کوراب - ریگستان چمکتا ہوا جو دور سے پانی نظر آئے سراب بھی اسکو کہتے ہین
کوہ رحمت - نام ایک پہاڑ کا قریب مکہ معظمہ کے-
کوت - بفتح اول جو بڑ آدمی کے اور ہندی زبان مین قلعہ-

کوزنت - وہ کوزہ جسکی گردن تنگی ہو-
کوست - تکلیف و آسیب و آزار و صدمہ و کوفت و دھکا و نقارہ
و طبل اور نام ایک پھل تلخ کا جسکو حنظل کہتے ہین-
کوفت - ضرب و آسیب و صدمہ-
کوچ - بضم اول منزل بمنزل چلنا - نقل و حرکت کرنا اور اہل و عیال
و زن و فرزند - فوقی یزدی - از ین محمل سرائے پر پیچ ٭ کہ بحال کس نیست
کہ در ساعت کنی کوچ ٭ اشرف - خواب غفلت تا بکے از غارت
شیطان بترس ٭ کوچ گر ہمراہ داری وقت کو جانیدن است ٭
کوچ - بفتح اول نام ایک قسم کے گوند کا اور ایک قسم کا لباس جو جنگ کے وقت پہنتے ہین
کولنج - درد رودے کا معرب جسکا قولنج ہی-
کونج - چھپر اور چھونپڑا جو فقرا بناتے ہین اور وہ گھاس جس سے
ٹاٹ بنتے ہین اور وہ گھر جسکا دروازہ نہو-
کولخ - آتشدان اور منقل یعنی انگیٹھی جسمین آگ رکھتے ہین-
کوڈ - بضم اول و واو مجہول سرگین اور پیشاب اور کوڈش کناس
اور خاکروب وہ شخص جو بول و براز اٹھائے-
کوڈ - بضم اول و واو معروف تودہ غلے کا جو زمیندار نے صاف کر کے
اپنی کھیتی کے موقع پر جمع کیا ہو اور مجموعہ ہر ایک چیز کا مقابل پراگندہ
کوژد - انزروت جو مشہور دوا ہی-
کوشاد - نام ایک گھاس کا ہی جسکو خطمیا کہتے ہین-
کوہ اسد - ایک پہاڑ ہی جو ہمیشہ جلتا رہتا ہی کبھی آگ اسکی فرو نہین ہوتی-
کوژ - بفتح اول زیادتی اور پیچ پگڑی کے-
کوز - بضم اول و واو مجہول اندھا - نابینا - ایک آنکھ سے ہو یا دونو
آنکھون سے - صفدر فوقانی - باوجود عقل و ہوش و چشم و گوش
اندرجہان ٭ آدمی مدہوش و مست و کور و کر باشد چرا ٭
کوکنار - غورہ خشخاش کا جو مشہور چیز ہی جس سے افیون نکالی جاتی ہی
اور کوکناری اُسکا پانی پیتے ہین-
کورر - ترکی مین بمعنی مے بیند یعنی دیکھتا ہی-
کوتر - مخفف کبوتر جو مشہور جانور ہی-
کویر - بروزن لیبر زمین ریگستان بے آب بنجر اور شیر خشمناک ہوتی ہین-
کنوز - غلہ دان جو زمیندار کچی مٹی کا بناتے ہین-
کوار - وہ چھابہ جسمین میوہ فروش میوہ بیچتے ہین-
کواشیر - نام ایک مقام کا ہی جس سے گشنیا فیروزہ نکلتا ہی-
کوتار - کوچہ یا بازار جو مختصر ہو جسکو ہندی مین چھتا کہتے ہین-

کوزر - خوشۂ گندم و جو - جو کوٹنے کے وقت باریک نہو سکے ہون -
کوشیار - نام ایک فارس کے حکیم کا جسکی شاگردی ابو علی سینا نے کی تھی -
کوز - عربی مین کوزہ پانی کا اور فارسی مین وہ شخص جسکی پشت ٹیڑھی ہو اور ترکی مین آنکھ -
کواز - وہ چوب دستی جس سے مویشی ہانکین -
کوزپ - ایک قسم کا میوہ ہے -
کوکوز - ایک قسم نفیس کپڑے کا نام ہے -
کوس - نقارہ و آسیب و صدمہ و صف لشکر و پرۂ فوج و قطار اور نام ایک بازی کا اور گوشۂ چشم و ایما و اشارت و گلیم و پلاس نظامی
جو نوبت زن شاہ زد کوس جنگ * جرس در زنگی بجنبا ند زنگ *
کواس - طرز طریق و روش و قاعدہ و قانون -
کورس - پیچیدہ بال زلفون کے و چرک و ریم جو دل سے نکلے -
کوش - ہر ایک شمسی مہینے سے چودھوین دن کا نام ہے و کوشش و سعی اور کوشش کرنے والا اور امر یعنی کوشش کر -
کوشش - سعی و جہد و جنگ و جدل -
کوش - بکسر ہیم چاہ کن - کنوان کھودنے والا -
کویش - دہی و دودھ کا برتن اور برتن ہر قسم کے -
کورنش - جھک کر تعظیم دینا -
کوکلتاش - بادشاہ کا دودھ بھائی -
کوف - بوم یعنی آلو جو مشہور منحوس جانور ہے -
کوک - بضم اول و واو مجہول برابر کرنا ساز اور موافق کرنا آواز کا گانے کے وقت - نور الدین ظہوری - کم جوابست او و من ہم کم سوال افتادہ ام * کوک گردیست خوش باہم نی و طنبور را *
کوک - بواو معروف آواز بہت بلند اور تخم کا ہے جسکا خاصہ کوکنار کی طرح نیند لاتا ہے اور چاق و تندرست اور بیخ درخت - حیات گیلانی -
بس کوک کوکنار بہم کردہ روزگار * تا بخت نا غنودۂ عاشق بخواب شد *
کودک - فضلہ و نجاست و بول و براز چونکہ بچۂ شیرخوار بے اختیار ہر وقت موت دیتا ہے خرد سال بچہ کو بھی کودک کہا جاتا ہے سعدی حکایت
شنو کودک نا مجو سے * پسندیدہ پی بود و فرخندہ خوے *
کوملک - بواو غیر ملفوظ ترکی مین پیراہن -
کوچک - مقابل بزرگ چھوٹا -
کوشک - محل اور اونچی عمارتین -
کوخک - انگور کا خوشہ -
کوسک - بسین مہملہ باقلا جسکو عربی مین جرجیر کہتے ہین -

کوک لک - روئی کا غورہ جو ابھی ناشگفتہ ہو -
کوکنک - چغد یعنی آلو جو مشہور جانور ہے -
کوراک - وہ پٹاری جسمین عورتین روئی کاتنے کی رکھتی ہین -
کولاک - دریا کی لہر اور موج -
کونک - حیز و مخنث و نامرد و کم ہمت اور پشت پاے -
کوہنک - کودنا جست لگانا -
کوپال - جو ایک جنگ کا ہتھیار ہے - از ظفرنامہ - ز زخم تبرزین و گوپال و تیغ * زدریا بر آمد یکے سرخ میغ *
کوتوال - ہندی لفظ ہے فارسی مین اسکا ترجمہ قلعدار ہے کہ کوٹ قلعہ کو کہتے ہین اور وال بمعنی صاحب -
کوتل - خاص سواری کا گھوڑا اور وہ گھوڑا جو سواری کے ساتھ ساتھ جائے لفظ ترکی ہے -
کوال - بڑھنا اور رونق پر آنا زراعت کا -
کوپل - شگوفہ جو درختون سے پھوٹے -
کول - بفتح اول وہ پوستین جو بکری کے چمڑے کی بنائی جائے و گلیم و پلاس و سیکم راہ جو بغیر ایڑی کے نہ چلے اور نام ایک قصبے کا فارس کی ولایت مین -
کول - بضم اول دوش اور کتف اور حوض اور تالاب اور بوم یعنی آلو -
کوہ جلیل - نام اس پہاڑی کا جسپر حضرت نوح کا گھر تھا اور اسی گھر سے آغاز طوفان کا ہوا پھر کوفے مین ایک بڑھیا کے تنور سے -
کوم - فلفل سیاہ - کالی مرچ -
کوم - اذخر ایک گھاس ہے جو خوشبو ہوتی ہے -
کوکن - چغد اور بوم یعنی آلو جو ایک منحوس پرندہ ہے اور نام ایک خطے کا دکن ملک سے
کون - بفتح اول ہونا پیدا ہونا - ظاہر ہونا اور موجود ہونا اور وہ چیز جو پہلے نہ تھی اور اب پیدا ہوئی ہے - ذات واحد خالق ہر دو جہان نے بنیاد این کون و مکان *
کوہکن - لقب فرہاد کا ہے جو شیرین پر عاشق تھا اور خسرو پرویز شیرین کے خاوند نے جھوٹا وعدہ وصل شیرین کا اسکے ساتھ کر کے کوہ بیستون کا راستہ فرہاد سے ہموار کرا لیا اور وعدہ وفا نہ کیا بلکہ فریب سے باظہار مرگ شیرین اسکو ہلاک کرا دیا -
کوردین - بروزن پشمین گوڈری جو فقیر و درویش پہنتے ہین -
کورگان - وہ بادشاہ جو ماں اور باپ دونون کی طرف سے نسباً شہزادہ ہو -
کودن - کند و گھوڑا جسپر بار لادا جائے اور وہ آدمی جو کم ذہن اور کم فہم و نادان ہو - حکیم زلالی - درشش مردمی جستن کودن زیار *
در روش مردمی رفتن خر از خلاب *

کوہان - وہ اونچائی جو اونٹ کی پشت پر ہوتی ہے -
کوبین - لہارون اور مسگرون کا ہتھوڑا -
کوبین - روغن نکالنے کا ظرف -
کوسان - مازندران مین ایک گانون ہے -
کولان - ایک گھاس کا نام ہے جو پانی مین پیدا ہوتی ہے اور اُس سے ٹاٹ بناتے ہین -
کوک - بضم اول و واو معروف نام ایک درخت کا جو پھل نہین دیتا اور حیز و مخنث اور مقعد یعنی چوتڑ اور بیٹھنے کی جگہ آدمی کی -
کوہستان - پہاڑی ملک -
کوکو - نام ایک قسم کے کھانے کا جو مرغی کے انڈون سے بناتے ہین و آواز فاختہ و آواز ہُد ہُد - میر خسرو - فاختہ چون نغمۂ دلجو کند ٭ بوم چرا بیہدہ کوکو کند ٭ رباعی - آن قصر کہ با چرخ ہمی زد پہلو ٭ بر درگہ او شہان نہادندی رو ٭ دیدیم کہ بر کنگرہ اش فاختۂ ٭ فریاد ہمی زند کہ کوکو کوکو ٭
کو - کوچہ و محلہ و خانہ اور ہندی مین ترجمہ اسکا کہان - توحید - جستجو کن جستجو ٭ تا کہ گردی فائز از دیدار او ٭ ہست در ہر خانہ روشن یک چراغ ٭ ہست یک خورشید رخشان چار سو ٭ نا امید از لطف حق باشی چرا ٭ چونکہ فرمودست حق لاتقنطوا ٭ بہر یک لقمہ مثل سگ تگرد ٭ جا بجا خانہ بخانہ کو بکو ٭
کوتاہ - جو چیز دراز نہو چنانچہ جامۂ کوتاہ و قد کوتاہ و سخن کوتاہ و قصہ کوتاہ وغیرہ - میرزا بیدل - قطع سر رشتۂ پرواز طلب نتوان کرد ٭ بال گر سلسلہ کوتاہ کند نالہ رساست ٭
کوچہ - ہندی مین اسکا ترجمہ گلی ہے - شاہ محمد قنوجی - ہر کوچہ اش ز گلرخان رہ نورد ٭ تو گوئی گلستان شدہ کوچہ گرد ٭
کورہ - بضم اول و واو مجہول وہ گلی برتن جسمین پانی نہ پڑا ہو اور وہ نیا کپڑا جو دھویا نہ گیا ہو یہ لفظ ہندی ہے - محمد سعید اشرف - دریا بادی کورہ چشم سپید ٭ کوری کوری بردیم افتاد دست ٭
کوفتہ - وہ قیمہ گوشت جسکے کوفتے بنا کر پکاتے اور کھاتے ہین سعدی - کوفتہ بر سفرۂ من گو مباش ٭ کوفتہ را نان جوین کوفتہ است ٭
کوکبہ - ستارہ و انبوہ و جماعت آدمیون کی و کرّ و فر و شان و شوکت - میرزا جلال اسیر - کہ با این کوکبہ در دشت جنون ناخنۂ سینۂ ٭ چشم آہوست کہ ہر گام رکابم دارد ٭
کوہ - پہاڑ جسکو عربی مین جبل کہتے ہین اور شعرا کی اصطلاح مین معشوق کے چوتڑ - والہ ہروی - مشکین ہماسے کاکل او در خطا ٭ من مبتلا بصفت کوہ کمر آب میبورد ٭ محتشم کاشی - مگر چہ بیگم و غیرت بدین میرزدم ٭ کوہ سیم از کمر او تختش رانگرید ٭
کورہ - بواو معروف لہارون کی بھٹی اور پزاوا اینٹین پکانیکا و شہر و قصبہ و آبادی -
کوہہ - برآمدگی ہر چیز کی اور برآمدگی اونٹ اور گائے کی پشت کی -
کولستہ - بروزن گلدستہ آدمی کے سُرین یعنی چوتڑ -
کوزہ - گھڑا یا پانی کا اور نام ایک پھول سپید رنگ کا مشابہ گل نسرین -
کورگہ - ترکی مین نقارہ -
کوکہ - بادشاہ کا دودھ بھائی -
کوپلہ - حباب یعنی بلبلہ و شگوفہ و قفل و سر کی چوٹی کے بال اور ٹوپی -
کوادہ - وہ لکڑی جو دروازہ کے تختے اُسپر پھرتے ہین پنجاب مین اُسکو چوہی کہتے ہین -
کوارہ - میوہ فروشون کا چھابہ اور بادل اور بخار جو سردیون کے موسم مین ہوا مین ہوتا ہے ہندی مین کہرا کہتے ہین اور چھت پھڑون کا اور برتن مٹی کا -
کوازہ - طعنہ مارنا مسخری کرنا اور نیم پختہ کھانا اور تخم مرغ نیم برشت -
کوپارہ - گلہ مویشی کا -
کوبہ - ایک قسم کے نقارے کا نام ہے -
کوپہ - سینگ یا شیشہ جس سے پچھنا لگا کر خون لیتے ہین -
کوسہ - وہ شخص جسکی ٹھوڑی پر چند بال ہون پوری ڈاڑھی نہو -
کوفہ - مشہور شہر ہے جسکے رہنے والون نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیوفائی کی اور الکوفی لایوفی مشہور ہوگئے -
کولہ - وہ جگہ جہان شکاری چھپ کر بیٹھتا ہے تا کہ جانور اُسکو نہ دیکھین -
کویلہ - کاکل میانہ سر کے بال -
کورمقری - مادر زاد اندھا جسنے دنیا نہ دیکھی ہو - سعدی - چہ پیر ہفتاد سالہ چنین گفتہ ٭ کورمقری نخواہی پیش روش ٭ دور باید ز رگہ بالو زاب گذری سنت یہ کہ دہ من گوش ٭
کوری - اندھا ہونا - نابینا ہونا - محسن تاثیر - کوری کہ کشیدہ زروئے تو آفتاب ٭ خوش اعمیانہ دست بدیوار میرود ٭
کولی - بفتح اول عورت لولی و فاحشہ -

کاف با ہاے

کہا - خجل و شرمسار و منفعل -

کہربا - ایک زرد رنگ کا ہوتا ہو اُسکو چٹے پر گھس کر گھاس کے نزدیک کرین تو گھاس کو اُٹھا لیتا ہو -

کھیلا - نام ایک ایرانی پہلوان کا ہو -

کھیانا - نام ایک لکڑی کا ہو جسکو عود الصلیب کہتے ہین -

کہوٹ - دو موہونا سیاہ و سپید ہونا بالون کا -

کہونڈ - پہاڑ پر رہنے والا عابد زاہد گوشہ نشین و بکسر اول صراف و خزانچی

کہر شدہ رنگ گھوڑے اور خچر کا جسکو کمیت کہتے ہین -

کہار - ہندوون کی ایک قوم ہندمین ہو جو پالکی وغیرہ اُٹھاتے ہین پان پرہی کا کام بھی وہ اکثر کرتے ہین اہل فارس اِس لفظ کو بہ تشدید ہاے استعمال کرتے ہین - ملا طغرا - تا کردہ بہ پالکی کردست جا دستہ پالکی پہ نشستہ چون در پالکی نہ چرخ کہار آمدہ *

کہف - بفتح اول پہاڑ کا غار - سعدی - سگ اصحاب کہف روزی چند * پے نیکان گرفت و مردم شد *

کہول - وہ شخص جسکی ڈاڑھی مین سپید و سیاہ دو قسم کے بال ہون -

کہل - زن و مرد جو درمیانہ عمر کا ہو نہ بوڑھا ہو نہ جوان -

کہگل - مٹی اور بھوسا ملاکر جو چھتون کو کہگل کی جاتی ہو - میر حسن دہلوی - چون عمر سر آمد حسن از عیش عنان تافت * کہگل چکند بام کہ جو منبع دشمنان سست *

کہین - کمترین کو چاک ترین بہت چھوٹا - مؤلف - خدا خالق ہر چنان و چنین * خدا رازق ہر کہین و مہین *

کہکشان - بہت باریک تارے جو راستے کی صورت پر آسمان پر نظر آتے ہین -

کہن - پرانا - قدیمی نو کے مقابلے پر - زلالی - از غیرت نافہ دو اقلیم خون در شکم غنچہ کہن شد * دز دیدن چشم زخم دہرم * نظارہ مرد و زن کہن شد *

کہنہ - بفتح اول جمع کاہن جسکے معنی غیب گو اور فال گیر کے ہین -

کہنہ - پرانا - بہت مدت کا -

کہینہ - بکسر تین بہت چھوٹا اور خرد -

کہی - جنگی لشکر سے علاوہ وہ فوج جو اطراف و جوانب سے چارہ اور رسد لشکر کے واسطے دیہات سے لائے -

کاف با یاے

کیا - بکسر اول پہلوان و خداوند و پاکیزہ -

کیا - بکسر اول ایک قسم کا کھانا ہو کہ باریک روے بکری کے صفا کرکے اُسکے اندر قیمہ گوشت اور چنے کی دال اور چاول اور مصالح بہر کرکے گھی مین تل لیتے ہین - اور نقرہ یعنی چاندی -

کیمیا - ایک علم کا نام ہو اور نام ایک گھاس کا و مکر و حیلہ اور وہ چیز جو عزیز و نایاب ہو اور اکسیر جو مشہور ہو - میرزا صائب - سحر کہ کیمیاے سرخ روئی میدہد * آفتاب رحمت تو بر در و دیوار ما *

کیا - بکسر اول بمعنی کے جسکے معنی بڑے بادشاہ کے ہین - صاحب و خداوند و مالک و ملک و زمین کو بھی کہتے ہین اور چارون طبیعتین حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و چار عنصر و پاکیزہ و لطیف اور سریانی زبان مین مصطگی کو کہتے ہین جو ایک مشہور دوا ہو - محمود ارزقی - شاہ گشتی تا کیا شاہی کنی * کے شدی تا کے بمانی در جہان *

کیا را - اندوہ و ملامت و تیرگیا چہرے کی اور وہ خواہش اکثر اشیا کے کھانے کی جو حاملہ عورتون کو ہوتی ہو -

کیانا - چارون طبائع حرارت برودت رطوبت یبوست اور چارون عنصر پانی مٹی - آگ - ہوا - اور اصلیت ہر ایک چیز کی -

کیاست - زیرکی و دانائی -

کیمخت - مشہور چمڑا ہو -

کیت وذیت - چنان و چنین - ایسا ویسا -

کیفیت - چگونگی و حالت و حقیقت اور اہل فارس بلا تشدید بھی اِس لفظ کو استعمال مین لاتے ہین اور مستی اور وہ حالت جو شراب پینے سے نمودار ہوتی ہو - باقر کاشی - فرقے میان گرم و تر و سر و خشک نیست * کیفیت شراب در افیون نہادہ ایم *

کیومرث - نام اُسکا جسنے بنی نوع انسان مین سب سے اول تاج شہنشاہی سر پر رکھا اور اپنے آپ کو بادشاہ کے لقب سے ملقب کیا اسکے معنی زندہ اور گویا کے ہین کیونکہ کیو کے معنی بولنے والا اور مرث کے معنی زندہ ہین بعض متقدمین اِس لفظ کو کیومرت باے فوقانی مثنات لکھتے ہین کیونکہ یہ لفظ فارسی ہو اور فارسی مین ثاے مثلثہ نہین ہو جسکے معنی پیشواے زمین نکلتے ہین -

کیقباد - ایران کے ایک عالیشان بادشاہ کا نام ہو جو کمال عیاش تھا ایکسو برس اُسنے بادشاہی کی اور لقب معز الدین بادشاہ دہلی کا جو ممدوح میر خسرو کا تھا -

کید - عربی مین مکر و حیلہ اور نام ایک ہند کے راجہ کا جو ہمعصر سکندر رومی تھا اور نام ایک ستارے کا جسکو کیت بھی کہتے ہین مولانا جامی - زکید زن دل مردان دو نیم است * ہزنان اکید ہاے بس عظیم ست *

کیاد - فریبی - مکار - دغاباز آدمی -

کیفر - بادافش و مکافات و عوض و بدلہ - محمد ہند و شاہ سپاس

جہاں غدار بگذار د و رند ٭ بگذران فرصت کشتہ اند۔ تو کیفر نا ٭
کیفیر۔ بفتح اول نام ایک قسم کے تیر کا جسکا پھل چوڑا ہوتا ہے عبد اللہ
ہاتفی۔ ز آمد شد کیبر کینہ کوش ٭ ہوا شد یکے خانہ چوب پوش ٭
کیر۔ عضو تناسل آدمی اور چارپایوں کا۔ امیر خسرو۔ گر پیل کیر پشہ
خورد نیست این عجب ٭ پشہ کہ کیر پیل خورد این عجب بود ٭
کیکیر۔ ترہ تیزک جو مشہور سبزہ ہے۔
کیار۔ کاہلی اور سستی اور نام ایک گھاس کا۔
کیز۔ بہ زاے ہوز ایک نمدی کا قسم ہے جو ریشم سے بناتے ہیں
عربی میں اسکو لبد کہتے ہیں۔
کیکاوس۔ ایک بادشاہ کا نام ہے جو چوتھا بیٹا کیقباد کا تھا
اور کاوس کے معنی اصیل و نجیب۔
کیلوس۔ طبخ پانا غذا کا معدہ میں اور آش جو کی طرح ہو جانا
کیوس۔ بضمتین جمع کاسہ بہت سے پیالے۔
کیوس۔ بکسر اول مارپیچ و کج اور ہر ایک چیز جو ٹیڑھی ہو۔
کیومس۔ بفتح اول نام ایک جزیرے کا جس جگہ غدرا وامق کی
معشوقہ کو فروخت کیا تھا اور نام نوشیروان کے بھائی کا۔
کیموس۔ وہ صورت غذا کی جو دوسرے طبخ میں جگر کے اندر جا کر
ہوتی ہے صفا پانی کی صورت پر۔
کیبش۔ بفتح اول و تشدید یاے تحتانی زیرک و دانا و صاحب لیاقت۔
کیش۔ بکسر اول کیسہ یعنی تھیلی۔ ہمیانی۔
کیش۔ بکسر اول و یاے مجہول و شین معجمہ وضع طرز طریق
دین مذہب ملت اور نام ایک شہر کا جزیرہ بحر فارس میں اور ایک
قسم کتان کا اور نام ایک جانور کا جسکے چمڑے کی پوستین بناتے ہیں
اور ترکش جسمیں تیر رکھتے ہیں۔ محمد قلی رائج۔ ناوکے بر ہدف معنی
تحقیق نخورد ٭ کیش ہفتاد و دو ملت تہی از تیرم شد ٭
کین سیاوش۔ موسیقی میں ایک لحن کا نام ہے۔
کیاغ۔ گھاس جسکو فارسی میں گیاہ اور کاہ اور عربی میں
علف کہتے ہیں یہ لفظ پہلوی ہے۔
کیغ۔ وہ سپید غلاظت جو آنکھوں سے نکلکر گوشوں پر جمع ہو جاتی ہے۔
کیف۔ کسطرح ہے۔ کیا حالت ہے اور نشہ و مستی مخفف کیفیت
حقیقت حال۔ عبد الغنی قبول۔ یک تن حصار آفت صد لشکر غم ست
در باب کیف ہر چہ بگوید کسے کم ست ٭
کیکاف۔ بفتح اول ایک کاٹنے والے کرم کا نام ہے جو سرخ رنگ
سیاہی مائل ہوتا ہے ہندی میں اسکو پسو کہتے ہیں اور عربی میں
برغوث اسکا نام ہے اسکی عمر پانچ روز سے زیادہ نہیں ہوتی۔
کیکاک۔ بکسر اول ترندی زبان میں آدمی اور آنکھ کی پتلی۔
کیکات۔ بکسر اول و فتح ثانی وہ گھوڑا جو آبی رنگ ہو اور نام ایک
میوے کا اور بلی جسکو فارسی میں گربہ اور عربی میں سنور کہتے ہیں۔
کیل۔ بفتح اول ناپنا اور ناپنے والا اور پیمانہ۔
کیال۔ ناپنے والا۔ اندازہ کرنے والا۔
کیفال۔ آدمی رند پیشہ و کوچہ گرد و بدمست۔
کیل۔ بکسر اول جنگلی آلوچہ اور چھوٹا سیب و رسنگون اور ٹیڑھا
و آرزومند و امیدوار اور فقیر خرقہ پوش۔
کیمال۔ ایک جانور کا نام ہے جسکے چمڑے کی پوستین بناتے ہیں۔
کیتال۔ شراب خوار بدمست آدمی۔
کیقام۔ کتمان یعنی چھپانا راز کا کسی سے۔
کیوان۔ ستارہ زحل جو ساتویں آسمان پر ہے۔ سعدی۔ تو کی شنوی
نالۂ دادخواہ ٭ بکیوان زدہ کلۂ بارگاہ ٭
کیان۔ شاہان عظیم الشان جو چار تھے کیکاوس کیخسرو۔ کیقباد
کے لہراسپ بعض گشتاسپ کو بھی اسکے شامل کرکے پانچ شاہان کے
مقرر کرتے ہیں۔ نظامی۔ شہ ہفت کشور بر رسم کیان ٭ بیکی ہفت چشمہ
کمر بر میان ٭ برآمد چو خورشید بالای تخت ٭ فلک در غلامی کمر کرد سخت ٭
کیین۔ بفتح اول عورت کی شرمگاہ اندرونی گوشت مقابل لہر کے۔
کیین۔ کینہ۔ بغض و عداوت جو دل میں ہو۔ امیر خسرو۔ کین نکنم
لیک تمکین کنم ٭ مہر رہا گر کنم کین کنم ٭ نظامی۔ بجنبیم تا سایم
از ہیچ راہ ٭ نگر کینہ بستانم از کینہ خواہ ٭
کیکن۔ بکسر اول تاریکی اندھیرا۔
کیہان۔ جہان اور زمانہ۔
کیلہ۔ غلے کا پیمانہ جس سے غلہ ناپتے ہیں۔
کیسہ۔ تھیلی۔ ہمیانی۔ شعر۔ زاد راہ سفر چہ خواہی برد ٭
گر تہی کیسہ و تہی دستی ٭
کی۔ کب اور کیونکر کلمہ استفہام ہے اور پہلوی لغت میں جبار جو
ایک بڑا درخت ہے اور بادشاہ عالیشان کیان اسکی جمع ہے امیر خسرو
موسے اگر وہ او نیست بیک ٭ کی ارنی گوشدہ انظر الیک ٭
ملا تشبیہی۔ چون سوی تو نامہ خرستم ٭ فرما بکیان دعا نویسم ٭
کیانی۔ وہ چیز جو بادشاہوں کے لائق ہے منسوب بکیان۔

کیلو کھیری - ایک گانون دلی کے پاس آباد تھا اب ہان ہمایون کا مقبرہ ہی -

دوسری فصل

اردو لغات کے ذکر مین

کاف با الف

کالا - مشہور رنگ ہی جسکو فارسی مین سیاہ اور عربی مین اسود کہتے ہین
مولانا اکبر - وہ دونون ابروے خمدار جوڑا بچھوون کا ہ سیاہ
کاکل بلدار ایک کالا سانپ ہ

کانا - وہ شخص جسکی ایک آنکھ ہو عربی مین اسکو اعور فارسی مین
یک چشم ترکی مین سوقور کہتے ہین یک چشم کی تعریف مین ایک
استادکی - رباعی - چشم تو اگر یک ست اے مایۂ ہوش ہ گویم
سخنے گوش کن اے مہوش گوش ہ استاد ازل زبسکہ خوش طرح نشست ہ
تاکرد تمام چہرہ ات رفت ز ہوش ہ

کانٹا فارسی مین اسکو خار اور عربی مین شوک اور شوکہ بفتح اول کہتے ہین -
مولف - اگرچہ گل ہو مرا صاحب ہوش ہ مگر ہو دیدۂ بد بین مین کانٹا ہ

کاندا - ایک قسم کے پیاز کا نام ہی -

کاندھا - فارسی مین اسکو دوش اور عربی مین عاتق اور ترکی مین ایگن کہتے ہین

کایا - جسم صورت و شکل - مولف - کبھی مردہ کبھی زندہ کبھی
خوش ہین کبھی غمگین ہ عزیز و ایک دن مین ہم کئی کایا پلٹتے ہین ہ

کاتت - سناروں کے ایک اوزار کا نام ہی جس سے چاندی
سونے کا تار وغیرہ کاٹتے ہین -

کاٹ - قطع و برید کپڑے وغیرہ کی -

کانچ - رودہ اندرونی مقعد جو بعض کمزور بیمارون کی پاخانہ
پھرنے کے وقت باہر آجاتا ہی -

کاغذ مشہور لفظ ہو ہندی فارسی مین مستعمل پہلی فصل مین بھی اسکا ذکر
درج ہو چکا ہی عربی مین اسکو قرطاس کہتے ہین - نعتیہ از مولف -
وصف احمد مین لکھون گر کاغذ ہ کاغذ زر ہو سر بسر کاغذ ہ جسمین
معراج کا لکھون کچھ حال ہ آرے ہو سچے وہ عرش پر کاغذ ہ
زلف مشکین کا ذکر گر لکھون ہ کرون تحریرات بھر کاغذ ہ

کابک - فارسی اردو مین مستعمل ہی کبوترون کا دربا - کبوترون کا گھر -

کالک - سیاہی -

کاجل - چراغ کا وہ دھوان جسکی سیاہی لکھنے کی بنتی ہی چھاپہ کے کام مین
بھی وہی آتا ہی اور عورات بآمیزش مسکہ وغیرہ کے آنکھون مین
بجاے سرمہ ڈالتی ہین فارسی مین اسکو دودہ کہتے ہین شعر ترہ مژگان
دونون ابرو خنجر سینہ شگاف ہو تپر ہ کاجل کی دھاری دھار ہی تلوار کی

کال - قحط و خشک سالی اور وہ وقت جو کسی کام کے واسطے
مقرر ہو عربی مین اسکا ترجمہ اجل ہی -

کائین پھل ایک درخت کا نام ہی جسکو عربی مین دار شیشعان کہتے ہین -

کام مشہور لفظ ہی فارسی مین اسکو کار کہتے ہین اور عربی مین شغل - مولانا اکبر
لاہوری - بتان دہر نہایت ہی خوبصورت ہین ہ مگر خدا ابھی
ان سے نہ ڈالے اپنا کام ہ

کائون - کائون - شور و غوغا اور کوون کی آواز عربی مین اسکو
نعاق نعاق فارسی مین کاغ کاغ بولتے ہین -

کاٹھ - لکڑی جسکو فارسی مین چوب اور عربی مین خشب کہتے ہین اور
وہ لمبی لکڑی سوراخدار جسمین مجرم لوگون کے پانون ڈالکر مقید
کر دیتے ہین عربی مین اسکو مقطرہ اور فارسی مین کلند بولتے ہین -

کاٹھی - گھوڑے کا زین جو اسپر ڈالکر سوار ہوتے ہین اور تلوار کا غلاف
عربی مین جسکو قراب بولتے ہین ہندی اور فارسی مین میان -

کالی زیری - ایک دوا ہی جسکو زیرہ سیاہ کہتے ہین اور عربی مین کرویا -

کانا پھوسی - آہستہ آہستہ کانون مین باتین کرنا عربی مین اسکو
نجوی اور فارسی مین سرگوشی کہتے ہین -

کانجی - ایک ترشی بنائی جاتی ہی انچور وغیرہ سے اور ہندو لوگ
اسمین پکوڑیان ڈالکر کھاتے ہین -

کائی - وہ سبزی جو حوض و تالاب پانی پر آجاتی ہی عربی مین اسکو طحلب کہتے ہین -

کاف با یاے

کبرا بفتح اول ہر ایک چیز جو سیاہ و سپید ہو -

کبڑا خمیدہ پشت - ٹیڑھی پیٹھ والا -

کپا - وہ برتن جو کچے چمڑے کا بنایا جاتا ہی اور اسمین گھی اور تیل وغیرہ
ڈالتے ہین فارسی مین دبہ کہتے ہین -

کپڑا - جامہ جو پہنا جاتا ہی عربی مین اسکو ثوب کہتے ہین -

کباب - بریان گوشت سیخ پر یا بغیر سیخ کے - مفتی حید رلاہوری - عاشق
حق دل کے کھاتا ہی کباب ہ خون دل پیتا ہی وہ جاے شراب ہ

کپڑاہند - وہ بدبو جو کپڑے کے جلنے سے نکلتی ہی -

کپاس - وہ روئی جس سے بنولے نہ نکالے گئے ہون -

کبابی - کباب بنانے والا -

کبڈی - ایک کھیل کا نام ہی جو لڑکے آپسمین کھیلتے
ہین -

کاف با تاے

کتا - مشہور جانور ہی جسکو فارسی مین سگ اور عربی مین کلب کہتے ہین۔ تعریفیہ - جنگ مین شیرون کو ہو للکارتا ہو جو کتا احمدی دربار کا ٭

کتیا - سگ مادہ کلبہ۔

کھترا - جو صاف نہو ناصاف وخراب ہو۔

کتکا - وہ جون جو موٹی ہو یعنی کرم جو کپڑون مین پڑ جاتے ہین اور گاؤ میش کا بچہ۔

کٹرا - علحدہ محلہ جو ایک شخص کے نام سے مشہور ہو چنانچہ حاجی امان خان کا کٹرا احمد خان کا کٹرا وغیرہ۔

کٹنا - دیوث دینے عزت و دلال مرد جو دو عورت اور مرد سے زنا کرائے اور ان سے اجرت حاصل کرے۔

کٹورا - پانی پینے کا برتن جسکو فارسی مین پیالہ عربی مین سقایہ کہتے ہین۔

کٹھرا - کاٹھڑا چوڑا طشت جو لکڑی کا بنا ہوا ہو۔

کٹھیا - کوٹھیا کچی مٹی کا غلہ دان جو غلہ رکھنے کے لیے زمیندار بناتے ہین۔

کٹھیا - فقیرون کا جھونپڑا۔

کٹ - جس سے سیاہ کپڑے رنگتے ہین۔

کٹار - مشہور ہتھیار ہی جو کمر سے باندھتے ہین۔

کتر کترن - ٹکڑا جو کسی چیز سے کتر کر الگ کیا گیا ہو۔

کتری - قینچی جو مشہور چیز ہی عربی مین اسکو مقراض کہتے ہین۔

کٹائی - کاٹ قطع برید کسی چیز کی۔

کٹائی - وہ اجرت جو غلہ کی کوٹ مین لیجائے اور کوٹنا شالی وغیرہ کا۔

کٹنی - عورت دلالہ قحبہ و محتالہ۔

کٹھالی - بوتہ جسمین زرگر چاندی سونا وغیرہ گلاتے ہین۔

کاف با جیم

کچا - خام مقابل پختہ کے - چراغ دین روشن - نہ لوٹے دیکھنا رہنا خبردار ٭ کہ ہی تار محبت کچا دھاگا ٭

کچرا - وہ خربزہ جو پختہ نہو۔

کچلا - یہ پھل گول گول نہایت سخت ہوتا ہی نباتی زہرون مین سے یہ زہر جسم کے پٹھون کو کھینچ لیتی ہی اور آدمی تشنج کی حالت مین مر جاتا ہی خصوصاً کتے کو یہ زہر بہت جلد مارتا ہی۔

کچھوا - مشہور دریائی جانور ہی جسکو فارسی مین سنگ پشت کہتے ہین۔

کچ - خامی و شیشہ جس سے قارورہ اور چوڑی وغیرہ بناتے ہین۔

کچور - ایک مشہور دوا ہی۔

کچہری - حاکمون کے بیٹھنے کا مقام۔

کچائی - کچاپن خامی بیوقوفی۔

کچوری - مشہور چیز ہی جو حلوائی لوگ میدہ اور گھی سے بناتے ہین خستہ اور لذیذ ہوتی ہی۔

کاف با دال

کدال - آہنی اوزار زمین کھودنے کا جسکو عربی مین مغرق کہتے ہین بتشدید را کے۔

کدو - مشہور بیل اور پھل ہی جسکو عام وخاص کھاتے ہین اسکا تخم دوا مین مستعمل ہی عربی مین اسکا نام یقطین ہی۔

کاف با رای

کرگا - وہ جسپر پاؤن رکھ کر جولاہے کپڑا بنتے ہین عربی مین اسکو منسج کہتے ہین اور فارسی مین پاچال۔

کرم کلا - یہ مشہور سبزہ ہی جسکو عربی مین کرنب کہتے ہین پوری کیفیت اسکی پانچوین فصل مین تحریر ہوگی انشاء اللہ تعالے۔

کریلا - مشہور چیز ہی عربی مین اسکو خیار الحمار بولتے ہین۔

کڑوا - تلخ عربی مین اسکو مر کہتے ہین اور الحق مر آنحضرت نے فرمایا ہی یعنی سچ کڑوا ہی - مولانا اکبر - ابتدا مین اگرچہ ہی اکبر ہوس شیرین کا ذائقہ میٹھا ٭ کام جان مین لیک آخرکار نہ سخت ہی تلخ اور بہت کڑوا ٭

کڑوڑا - وہ حاکم جو بہت سے حاکمون پر نگران حال مقرر ہو عربی مین اسکو ناظر اور بسیط کہتے ہین - قطعہ از مولف - عبادت کا کرو شام وسحر کام ٭ کہ ہی اس زندگی کا وقت تھوڑا ٭ اجل کرنے نہ دیگی کام تمکو ٭ جب آپہونچیگا سرپر وہ کڑوڑا ٭

کڑا - نہایت سخت مقابل نرم کے عربی مین اسکو صلب کہتے ہین اور فارسی مین سخت اور وہ چاندی یا سونے کا حلقہ جو عورتین بطور زیور ہاتھون یا پاؤن مین پہنتی ہین فارسی مین اسکو یارہ و برنجن و دستوانہ کہتے ہین اور عربی مین سوار بکسر سین۔

کڑکا - بہت سخت آواز جو کسی سے نکلے۔

کروٹ - پاسا عربی مین اسکو جنب اور فارسی مین پہلو کہتے ہین۔

کڑواہٹ - کڑواپن عربی مین اسکو مرارت اور فارسی مین تلخی۔

کرٹ - یہ ایک دانہ ہی جو کسم کے درخت کا بیج ہی عربی مین اسکو حب العصفر اور فارسی مین تخم کسم کا زیرہ کہتے ہین۔

کروڑ - ایک مشہور عدد ہی جو سو لاکھ کا ہوتا ہی - حکیم انور لاہوری - گئے لاکھون مین اور آئے کروڑون ہر مگر یہان ایک بھی رہنے نہ پایا ٭ کہ کیونکر مسافر کا ٹھکانا ٭ گیا فی الفور جو اس گھر مین آیا ٭

کُرِیز ۔ پرندون کے پر جھاڑنے کی حالت ۔

کُڑک ۔ فارغ ہونا مرغی کا انڈے دے کر اور کڑک بیٹھنا فارسی مین اسکو کُرک اور عربی مین مُقَقَّہ کہتے ہین ۔

کڑیل ۔ لمبا جوان ۔ زبردست ۔ زور آور ۔

کرم ۔ نصیب ۔ بخت ۔ طالع ۔ قسمت ۔ مقسوم ۔

کریا کرم ۔ وہ رسوم مذہبی جو ہندو کسی کے مرنیکے بعد کرتے ہین ۔

کرن ۔ شعاع آفتاب سورج کی روشنی ۔

کراہ ۔ دردناک آواز بیمار کی ہاے واے ۔

کُرتہ ۔ گلے مین پہننے کا لباس جسکو قمیص کہتے ہین ۔

کرارہ ۔ بڑا کنارہ دریا کا ۔

کڑاہ ۔ بڑا برتن چوڑے مُنہ کا جسمین حلوائی دودھ کو جوش دیتے اور شیرینیان بناتے ہین ۔

کرکری ۔ بدہضمی جو گھوڑے کو ہوتی ہے ۔

کرنی ۔ آہنی اوزار معمارون کا جس سے وہ کہگل کرتے ہین گل مالہ بھی اسکو کہتے ہین ۔

کری ۔ نرم ہڈی جو جسم مین ہوتی ہے عربی مین اسکو غضروف کہتے ہین ۔

کریدنی ۔ وہ لوہے کا اوزار جس سے نان پز دانہ تنور کی آگ کو نیچے اوپر کرتے ہین ۔

کڑی ۔ وہ لمبی لکڑیان جو مکانات کی چھتون پر ڈالتے ہین ۔

کڑاہی ۔ یہ برتن کڑاہ سے چھوٹا ہوتا ہے ۔

کڑبڑی ۔ دو رنگی سیاہ و سپید ۔

کاف با سین

کسان ۔ زمیندار ۔ زراعت کرنے والا ۔

کسُم ۔ مشہور پھول ہے جس سے کپڑے سُرخ رنگتے ہین ۔

کسبی ۔ کسب کرنے والا اور عورت پیشہ دار جو زنا کا پیشہ کرے ۔

کستوری ۔ مشہور چیز خوشبو دار ہے جسکو فارسی مین مشک اور عربی مین مِسک کہتے ہین ع ۔ زلف عنبر بو کی خوشبو دیکھ کے ۔ کیسی کستوری کی قیمت گھٹ گئی ۔

کسوٹی ۔ ایک قسم کے سیاہ پتھر کا نام ہے جسپر سونا گھسکر اُسکی قیمت معلوم کرتے ہین ۔

کُسّی ۔ زمین کھودنے کا آہنی اوزار جسکو فارسی مین کلند اور عربی مین معول کہتے ہین ۔

کاف با فاے

کفگیر ۔ جس سے کف اُٹھاتے ہین یہ ایک آہنی یا مسی آلہ ہوتا ہے ہنڈیا جب جوش مین آتی ہے تو کف اُسکا اس سے اُتار لیا جاتا ہے ۔

کفن چور ۔ وہ شخص جو مُردون کے کفن چرا لیتا ہے عربی مین اسکو نَبّاش کہتے ہین اور فارسی مین کفن دزد ۔

کاف با کاف

کُکڑی ۔ بضم اول کاتے ہوے سوت کی لکڑی جو تکلے پر بنتی ہے عربی مین اُسکو کُبہ اور اردو جاجہ کہتے ہین اور فارسی مین دُکچی ۔

کَکڑی ۔ بفتح اول مشہور چیز ہے جسکو فارسی مین خیار زہ اور خیار دراز اور عربی مین قثا کہتے ہین ۔

کُکھوالی ۔ کچھرالی ۔ یہ ایک دنبل کا نام ہے جو زیر بغل انسان کے ہوتا ہے عربی مین اُسکو خنین اور فارسی مین بغلک کہتے ہین ۔

کاف با لام

کلغا ۔ ایک پھول کا نام ہے فارسی مین اسکو تاج خروس اور عربی مین عرف الدیک کہتے ہین ۔

کلہاڑا ۔ تبر جس سے لکڑیان چیرتے ہین ۔

کلھیا ۔ مٹی کا چھوٹا سا برتن اور کوزہ ۔

کلیجا ۔ اعضاے اندرونی مین سے ایک عضو کا نام ہے جسکو فارسی مین جگر کہتے ہین ۔ نظیر ۔ اگر کچھ مُنہ سے بولون تو مزا الفت کا جاتا ہے اگر چپکا رہون تو یہ کلیجہ مُنہ کو آتا ہے ؎

کلپ ۔ وہ آہار جو دھوبی کپڑون کو لگاتے ہین ۔

کلانچ ۔ جست مارنا ۔ کودنا ۔ اُچھلنا ۔ نظیر ۔ غزال جو کڑی بھولے ہرن گرے چوپٹ ؎ بھرے جو اپنی گلی مین کبھی وہ شوخ کلانچ ۔

کلوار ۔ شراب بیچنے والا جسکو کلال بھی کہتے ہین فارسی مین اور ترکی سوچی ۔

کلور ۔ وہ گاے جو جوان ہو اور ہنوز بچہ نہ دیا ہو ۔

کلس ۔ جو گنبدون کی چوٹی پر تانبے کا بنا کر اور سونے کا ملمع کرکر نصب کر دیتے ہین فارسی مین اُسکو سرطوق کہتے ہین ۔

کل ۔ دیروز اور فردا دونون دنون کو اردو مین کل کہتے ہین اور بمعنی آرام و آسایش ۔ مولف ۔ کٹ گئی عمر درد و فرقت مین ؎ بے کلی مین گذر گئے برسون ؎ اب بھی ہمسے وہ بیوفا ہر روز کیا کرتے ہین آج کل پرسون ؎

کلکل ۔ شور و غوغا بیہودہ باتین ۔ لغو تقریرین ۔

کلیل ۔ ناچنا ۔ کودنا گھوڑے گاے وغیرہ کا جس سے انکی طبیعت کی نشاط پائی جائے ۔ نسیم ۔ کچھ گائین کلیلین کر رہی تھین ؎ بن بن ہری دوب چر رہی تھین ۔

کلابتون ۔ مشہور لفظ ہے جو نقرئی یا طلائی تار ملمع سے بٹا جاتا ہے ۔

کلچہ ۔ ایک قسم کی خمیری روٹی کا نام ہے جسکو عربی مین کعک کہتے ہین اور فارسی مین کلک ۔

کلمہ ۔ بات جو با معنی ہو پہلی فصل مین یہ لغت درج ہے کیونکہ یہ لفظ فارسی اور اردو مین مستعمل ہے ۔

کلائی - پہونچے سے کہنی تک جسم کو کلائی کہتے ہین عربی مین ساعد
انیس - خود گلا کاٹون مجھے خنجر عنایت کیجیے ٭ بوجھ سے دکھ جائیگی
نازک کلائی آپ کی ٭ حکیم محمد انور لاہوری - کل نہ آئی سحر تلک
مجھکو ٭ شب جو اسکی کلائی یاد آئی ٭
کلتھی - ایک غلے کا نام ہے جسکو ماش کہتے ہین -
کلگی - جیغہ جو سر پر امرا باندھتے ہین -
کلنی - چچڑی جو کتون اور بیلون اور اونٹون وغیرہ چارپایون کے
جسم سے چمٹ کر خون پیتی ہے عربی مین اسکو قراد اور فارسی مین کنہ کہتے ہین -
کلونجی - مشہور تخم ہے جسکو فارسی مین سیاہ دانہ کہتے ہین -
کلھاڑی - چھوٹا تبر لکڑیان چیرنے کا -
کلی - غرغرہ منھ کو پانی سے صاف کرنا -
کلی - غنچہ پھولون کا - مولانا اکبر لاہوری - نبات اُس شوخ کی
ہر ایک ہے بات ٭ سخن ہر ایک مصری کی ڈلی ہے ٭ گہر دندان گل
خوشرنگ خسار ٭ لب خاموش پھولون کی کلی ہے ٭

کاف با میم

کمانا - کمائی کرنا - روپیہ پیدا کرنا اور وہ کمان جس سے تر کھان برمے
چلاتے ہین اور لکڑی مین چھید کرتے ہین -
کمیلا - مذبح یعنی وہ جگہ جس جگہ بکری بھیڑی وغیرہ ذبح کی جائین -
کمبل - پشم کی ایک چادر کا نام ہے جو غربا لوگ پہنتے ہین -
کمائی - پیدا کیا ہوا مال - قطعہ از مؤلف - فقط یہ کمائی کے دو چار
دن ہین ٭ ضرورت ہے جس مال کی وہ کما لو ٭ جو اس وقت کے
کھانے پینے سے بچ جائے ٭ وہ آخرت کا وہ توشہ بنا لو ٭
کمری - وہ درد جو بھاری بوجھ اُٹھانے کے سبب سے کمر مین پیدا ہو -
کملی - وہ پوشش جو بکری کے بالون سے بنائی جائے -

کاف با نون

کن پھٹا - جوگی جسکے کان پھٹے ہوئے ہوتے ہین -
کنٹھا - ایک قسم کے زیور کا نام ہے جو گلے مین پہنا جاتا ہے بعض سونے کا
بنا کر پہنتے ہین بعض موتیون کا بعض قسم قسم کے پتھرون کے گول
بنے ہوئے دانون کا -
کنٹھ مالا - ایک زنانہ زیور کا نام ہے اور نام اُس بیماری کا جسکو
خنازیر کہتے ہین اور وہ چند گرہین گلے مین پیدا ہو جاتی ہین جس سے
انسان کو سخت تکلیف پہنچتی ہے -
کنجڑا - ساگ پات سبزی بیچنے والا - دوکاندار -

کنڈا - خشک گوبر جو جلایا جاتا ہے -
کندی گر - ریشمی اور عمدہ کپڑون کو صفا کرنے اور جلا دینے والا -
کنکر - مشہور چیز ہے جسکو جلا کر چونہ بنایا جاتا ہے -
کنیر - ایک درخت پھول جسکے مشہور ہین و البتہ اُسکا نہایت
تلخ ہے عربی مین اُسکو دفلی کہتے ہین -
کنجوس - بخیل ممسک مال جمع رکھے نہ خود کھائے نہ کسی کو دے
مر جائے تو وارث لین یا حاکم کے کام آئے - قطعہ از مؤلف - نہین آتا
دنیا مین نیکی کے کام ٭ جو ہو مال مردود کنجوس کا ٭ پہونچتا کسی کو
نہین فائدہ ٭ زمانہ مین اس مال منحوس کا ٭
کنٹک - بخیل اور بدخلق آدمی جو کسی کی بات نہ سُنے کسی کے
سمجھائے نہ سمجھے خودرائے خود پسند -
کُنڈل - دائرہ اور ہالہ جو چاند پر پڑتا ہے کبھی آفتاب پر بھی نمودار ہوتا ہے -
کنگال - مفلس و نادار و محتاج آدمی -
کنول - یرقان کی بیماری جس سے جسم زرد ہو جاتا ہے -
کنچن - زر خالص خالص سونا مصفا و مجلا اور وہ شخص جو جورو سے
زنا کرائے اور اُس ناجائز آمدنی سے گزارہ کرے -
کندن - نہایت خالص سونا - مؤلف - مصفا اور مجلے دانت
موتی سے دمکتے ہین ٭ وہ رخسار ہے کہ جیسے حسن کندن سا چمکتا ہے ٭
کنگن - ایک زیور کا نام ہے جو عورتین ہاتھون مین پہنتی ہین -
کنبہ - خویش قبیلہ ہم جدی لوگ -
کنٹھا - اونچا ہونا گلے کی ہڈی کا جو نشان بلوغت و ابتدائے جوانی کا ہے -
کُندہ - وہ لکڑی جسپر بندوق کی آہنی نالی نصب ہوتی ہے اور وہ موٹا چوبدار
کاٹھ جسمین مجرم کے پاؤن رکھ کر قفل لگا دیتے ہین -
کنگرہ - کنگرہ جو عالیشان عمارتون و قلعہ کی دیوارون مین رکھتے ہین -
کنپٹی - وہ جگہ جو آنکھ اور کان کے درمیان ہے -
کنجی - جس سے قفل کھولتے ہین فارسی مین اُسکو کلید اور عربی مین مفتاح بولتے ہین -
کنچنی - عورت رقاصہ و خوش پوش و زناکار -
کنڈی - حلقہ آہنی جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے -
کنسلائی - یہ ایک کرم بہت پتلا اور چھوٹا ہوتا ہے اگر کان مین چلا جاوے
تو نکلنا مشکل ہوتا ہے عربی مین اسکو حریش کہتے ہین پاؤن اُسکے بہت سے ہوتے ہین -
کنکری - باریک کنکر جو زمین سے نکلتا ہے -
کنگری - جو گوٹہ کناری وغیرہ بنانے کے کپڑون مین لگائی جاتی ہے -
کنگھی - شانہ جو بالون مین کرتے ہین - استاد - زہر کالے کا بہت

اور بچھوڑا سانپ کا ٭ تیری کنگھی نے صنم ہر دانت توڑا سانپ کا ٭
دونون ابرو دونون زلفین چار موذی ہین بہم ٭ ایک جوڑا بچھو کا جوڑا ایک جوڑا سانپ کا ٭

کاف با واو

کوا - مشہور پرند سیاہ رنگ ہے جسکو زاغ اور کلاغ و غراب کہتے ہین اور وہ گوشت جو گلے مین لٹکتا ہے -
کنوارا - بیون غنہ وہ مرد جسکی ابھی شادی نہوئی ہو -
کوبا - جس سے میخ ٹھوکین یا مٹی توڑین -
کورا - بواو مجہول مٹی کا برتن جسمین پانی نہ پڑا ہو اور نیا کپڑا جو دھویا نہ گیا ہو -
کوڑا - بفتح اول وہ مہرہ جس سے کاغذ صاف کرتے ہین عربی مین اسکو مصقلہ کہتے ہین
کوڑا - بضم اول و واو معروف خس و خاشاک و خاکروبہ جو جھاڑو دینے کے بعد نکلتا ہے عربی مین اسکو کناسہ کہتے ہین -
کوڑا - بضم اول و واو مجہول چابک جو گھوڑے کو مارتے ہین -
کوکرمتا - کھمبی جو برسات کے موسم مین بشکل بیضہ زمین سے نکلتی ہے -
کولا - بواو معروف جسم کا وہ مقام جہان ازار بند باندھا جاتا ہے -
کونا - بواو مجہول کنج - گوشہ -
کونڈا - مٹی کا چوڑا برتن جسمین دہی جماتے آٹا گوندھتے ہین اور بھی بہت سے کام کرتے ہین -
کویا - بواو مجہول آنکھ کا گوشہ جو ناک کی طرف ہے عربی مین اسکو ماق کہتے ہین -
کوئلا - مشہور چیز ہے جلی ہوئی لکڑی فارسی مین انگشت و زگال و زغال کہتے ہین -
کوٹھا - مکان بالاخانہ - گھر مسقف - مکان دروازہ دار -
کوٹ - قلعہ حصار حاکم نشین مکان فارسی مین اسکو دژ عربی مین حصار اور ترکی مین قورغان کہتے ہین -
کونچ - وہ موٹا پٹھا جو انسان کی پاشنہ یعنی ایڑی کے اوپر ہوتا ہے -
کوکر لینڈ - بند ہونا کتے کا کتیا کے ساتھ جفتی ہین -
کوند - بجلی کا چمکارا -
کواڑ - دروازے کے تختے - سعادت ناصح بہ حضرت کے طفیل ٭ بند کب کرتے ہین رحمت کے کواڑ ٭
کور - بواو مجہول وہ حاشیہ جو کپڑون کو لگاتے ہین -
کوس - ایک مسافت مقررہ کا نام ہے جو تیسرا حصہ فرسنگ کا ہے -
کول - لقمہ - نوالہ -
کومل - نقب جو دیوار مین لگاتے ہین -
کنوان - اسکو فارسی مین چاہ کہتے ہین - میر حسن - یہ دیکھا کہ صحرا ہے اک لق و دق ٭ کہ رستم جسے دیکھ ہو جائے فق ٭ نہ انسان ہے وہان نہ حیوان ہے ٭ فقط اک کف دست میدان ہے ٭ مگر بیچ مین اسکے اک ہے کنوان ٭ نکلتا ہے آہون کا اس سے دھوان ٭
کولھو - وہ آلہ جسکے ذریعہ سے تلون اور سرسون وغیرہ سے تیل نکالتے ہین -
کودو - ایک غلے کا نام ہے جو بطور ارزن کے ہوتا ہے -
کوڑھ - مہلک بیماری کا نام ہے جو خون کے فساد سے پیدا ہوتی ہے اعضا جھڑ جاتے ہین عربی مین اسکو جذام کہتے ہین -
کوکھ - وہ جگہ جو زیر پہلو ہے اور ہڈی نہین رکھتی -
کنواری - وہ دوشیزہ لڑکی جسکی شادی نہوئی ہو -
کوٹھی - غلہ دان جسمین غلہ رکھتے ہین اور وہ مکان جو باغ کے وسط مین ہو اور فی زمانہ وہ مکان جسمین صاحبان عالیشان سکونت رکھتے ہون
کوچی - جولاہون کا برش جس سے سوت کو اہار لگاتے ہین اور سناروں کی کوچی جس سے زیور کو صاف کرتے ہین -
کوڑھی - کوڑھا جسکو کوڑھ کی بیماری ہو -
کوڑی - خرمہرہ جو مشہور چیز ہے -

کاف با ہاے ہوز

کھارا - وہ پانی جو کھارا ہو -
کھانا - طعام جو آدمی کھاتا ہے -
کھبا - وہ شخص جو بائین ہاتھ سے کام کرے -
کھپرا - وہ تیر جسکا چوڑا پھل ہو -
کھتا - وہ چاہ جو زمین مین واسطے ذخیرہ کرنے غلہ کے کھودا جائے -
کھٹا - ترش مزہ جسکو عربی مین حامض کہتے ہین -
کھٹکا - بیم و ہراس و اندیشہ و خوف -
کھٹمٹھا - جو چیز ذائقہ مین میٹھی اور کھٹی ہو جیسے کہ سکنجبین -
کھچڑا - یہ ایک قسم کی آش کا نام ہے چنے اور جو اور گندم وغیرہ سے پکاتے ہین
کھرا - یہ ایک بخار سردیون کے موسم مین ہوا مین ظاہر ہوتا ہے جس سے کدورت پھیل جاتی ہے گرد و غبار کے سبب سے کچھ نظر نہین آتا -
کھرا - وہ روپیہ یا چاندی سونا جسمین کھوٹ نہو -
کھرپا - گھاس کھودنے کا آہنی آلہ و اوزار -
کھریرا - وہ آہنی آلہ جس سے گھوڑے کا بدن صاف کرتے ہین -
کھسرا - ایک قسم چیچک کی بیماری کا نام ہے -
کھلونا - وہ چیز جس سے لڑکے کھیلتے ہین -
کھمبا - ستون جو عمارت کے نیچے بنائے جاتے ہین

کھنکھجورا - یہ ایک کرم زہردار ہی جسکے بہت سے پانون ہوتے ہین فارسی مین اُسکو ہزارپا کہتے ہین اور عربی مین سبعین -
کھوپرا - مغز جوز ہندی عربی مین لب النارجیل کہتے ہین -
کھوسا - وہ شخص جسکی داڑھی مونچھ نہو -
کھونٹا - میخ - کیلا -
کھوٹا - وہ روپیہ جو قلب ہو کھرا نہو اور منافق آدمی -
کھیرا - بادرنگ جو ایک قسم کا کھیرا ہی -
کھسیا - کھسیانا - تھیلی خریطہ -
کھاٹ - چارپائی و پلنگ جسپر سوتے ہین -
کہاوت - مثال و تشبیہ -
کھوسٹ - پرندہ جسکو بوم و چغد و اُلو بھی کہتے ہین -
کھونٹ - چادر اور چادر کا کنارہ -
کھیت - وہ زمین جسمین زراعت ہو اور وہ میدان جسمین جنگ ہو -
کھوج - مشہور لفظ ہی جسکو عربی مین سراغ کہتے ہین تلاش و جستجو
کھڈ - بدصورت اور غیر متناسب الاعضا آدمی -
کھرنڈ - وہ چھلکا جو زخم پر آجاتا ہی -
کہار - ہندوون مین یہ ایک قوم ہی جو خدمت کرنا پالکی اُٹھانا نان پزی کرنا اُنکا کام ہی -
کھر - ناخن گائے بکری ہرن وغیرہ کے لوڑنکے سم یعنی پانون -
کھڑکھڑ - وہ آواز جو بار بار کان مین پڑے عربی مین اُسکو خشخشہ کہتے ہین -
کھرج - پیدہ کھینچنا آواز کا گلے سے گانے کے وقت -
کھنکھار - صاف کرنا گلے کا آواز کے ساتھ -
کھنگ - وہ چیز جو بہت خشک ہو -
کھیر - ایک قسم کے کھانے کا نام ہی جو دودھ اور چانول ملاکر پکاتے ہین
نظیر - نظیر سے جو کل یار کی ضیافت کی پہ منگا کے قرض پکایا پلاؤ و زردہ قلیہ -
مگر وہ آپ نہ آیا رقیب کو بھیجا پہ ہزار حیف کہ قسمت سے ہم نے یہ بلیا -
ادھر تو قرض اُٹھایا ادھر نہ آیا رہا کالی کھیر ہی قسمت کا ہو گیا دلیا پہ
کھال - چمڑا جو جسم پر ہوتا ہی - پوست حیوانات -
کھٹمل - مشہور کرم ہی جو چارپائی دیوار وغیرہ مین ہوتا ہی اور خون انسان کا چوستا ہی -
کھوکھل - کھوکھلا - ہر ایک چیز جو اندر سے پولی ہو -
کھیل - بازی نرد و شطرنج جوہڑ وغیرہ کی - مفتی حیدر - دن جوانی کے گذر سارے گئے پہ تاگہان کھیل سر پر آگیا پہ دن جو باقی ہین غنیمت جان تو پہ اب کوئی موقع نہین ہو کھیل کا پہ

کھرچن - وہ کھانا جو بسبب زیادہ آنچ کے دیگ کی تہ مین جلکر دیگ کی تہ کے ساتھ لگ جائے کھرچے بغیر نہ اُتر سکے -
کھڑاؤن - کفش چوبین یعنی لکڑی کے جوتے عربی مین اُسکو قبقاب کہتے ہین
کھلیان - خرمن گندم و جو وغیرہ جو زمیندار نے کاٹ کر جمع کیا ہو دانہ اُس سے نکالا گیا ہو -
کھو - بھیڑیئے کا گھر جسمین وہ رہتا ہو -
کھاری - شور پانی - نمکین پانی -
کھانسی - ایک بیماری کا نام ہی جسکو فارسی مین سرفہ کہتے ہین -
کہانی - داستان و قصہ و فسانہ -
کھائی - خندق جو قلعہ کے گرد حفاظت کے لیے کھودتے ہین -
کھٹائی - ترشی جسکو عربی مین حموضۃ کہتے ہین -
کھجلی - خارش جو بدن پر ہوتی ہی -
کھچڑی - ایک قسم کا کھانا ہی جو دال ماش اور چانول ملاکر پکاتے ہین -
کھڑکی - دریچہ جو کسی دیوار مین ہو -
کھلائی - وہ عورت جو بچہ کی پرورش اور کھلانے پر ملازم ہو -
کھلڑی - پوست حیوانات جانورون کے بدن کے چمڑے -
کھلی - جو تیل نکالکر باقی رہ جاتی ہی -
کھمبی - برسات کے موسم مین بیضے کی شکل پر زمین سے خودرو نکلتی ہی لوگ اُسکو پکاکر کھاتے ہین -
کھندڑی - گودڑی وہ کپڑا جو ٹکڑے ٹکڑے سیا گیا ہو عربی مین اُسکو مرقع کہتے ہین اور فارسی مین ژندہ بولتے ہین -
کہنی - ساعد سے بازو تک ہاتھ عربی مین اُسکو مرفق کہتے ہین -
کھوپڑی - دماغ کی بالائی ہڈی -
کھوجی - سراغ نکالنے والا کھوج نکالنے والا - نشان اور پتا لگانے والا -
کھودنی - ایک آہنی اوزار کا نام ہی جس سے زمین کھودتے ہین -
کھیتی - مزروعہ زمین کاشت کی ہوئی -

کاف یا یا ے

کیچوا - نام ایک کرم سرخ رنگ کا ہی جو نمناک زمین مین پیدا ہوتا ہی جسامت انگلی کی سی سے زیادہ موٹا نہین ہوتا عربی اُسکو شحم الارض اور خراطین اور فارسی مین شکند کہتے ہین -
کیڑا - مشہور لفظ ہی فارسی مین اُسکو کرم اور عربی مین دود کہتے ہین بیشمار اقسام اُسکے ہین
کیکڑا - دریائی جانور ہی جسکے ہاتھ پانون اُسکے بہت سے ہوتے ہین عربی مین سرطان اور فارسی مین خرچنگ و چنگار کہتے ہین -

کیلا - بہ یاے معروف میخ لکڑی کی-
کیلا - بہ یاے مجہول نام ایک میوے کا جسکو موز اور طلع فارسی و عربی مین نام ہے-
کیوڑا - مشہور درخت ہے جو ہندوستان اور گرم ولایتون مین ہوتا ہے پھول اُسکا نہایت خوشبو ہے جسکا عرق کھینچکر دور دور ملکون مین بھیجا جاتا ہے اور اُس سے شربت بھی بنایا جاتا ہے-
کیٹ - دُرد جو روغن و شراب وغیرہ کی تہ مین بیٹھ جاتا ہے-
کیچ - کیچڑ مشہور لفظ ہے جو بسبب بارش اور چھڑکاؤ پانی کے زمین پر ہو جاتی ہے فارسی مین اُسکو گل کہتے ہین اور میل جو سفید رنگ آنکھون سے نکلکر گوشون پر جمع ہو جاتا ہے اسکو رمص عربی مین اور فارسی مین چرک چشم لوتے ہین-
کیسر - زعفران مشہور چیز ہے جسکی کیفیت ادویات مین تحریر ہے-
کیس - خروس کا تاج - مرغی کی کلگی-
کیل - میخ آہنی عربی مین اسکو مسمار اور سکٹ کہتے ہین-
کیاری - زراعت کا ایک حصہ جسکی اونچی کیاری بنائی گئی ہون عربی مین اُسکو رکیب کہتے ہین-
کیڑی - جونک مشہور سیاہ کرم ہے-
کینچلی - سانپ کا پوست جو وہ خود اُتار ڈالتا ہے عربی مین اُسکو مسلاخ بولتے ہین اور فارسی مین پوست مار-

تیسری فصل

فارسی محاورات و اصطلاحات کے بیان مین

کاف با الف

کار فرما - مالک - حاکم - بادشاہ - فرمان روا - قاسم - در احیاے سخن سیکردای قاسم مسیحائی + اگر در سخن مید اشت صائب کار فرمایم +
کاغذ توتیا - کاغذ سرمہ - وہ کاغذ جسمین سرمہ رکھا گیا ہو یا باقیانی نسخہ سحر ساحری کاغذ توتیا شود + گر بکرشمہ سر دہی نرگس سرمہ سائی را +
قاسم مشہدی - رشتۂ شمع گر از زلف سیاہ تو کنند + کاغذ سرمہ شود بال و پر پروانہ +
کاغذ حلوا - وہ کاغذ جسمین حلوا رکھکر حلوائی خریدار کو دیتا ہے محسن تاثیر - سل شکر بار او خط چو ہویدا کند + قطعہ یاقوت را کاغذ حلوا کند +
کام روا - جسکا مقصود حاصل ہو چکا ہو - حافظ - من اگر کام روا گشتم و خوشدل چہ عجب + مستحق بودم و اینہا بزکاتم دادند +
کاسۂ مینا - آسمان-
کار آب - شراب خواری یعنی شراب پینا - درویش والہ ہروی - شیخم و نہ فاسق این شہر ہم گزیدہ + ہم خاک کعبہ رُفتن ہم کار آب کردن +

کامیاب - جو شخص مقصود حاصل کر چکا ہو - توحید - عفو کن عفو اے شہ عالی جناب + زانکہ دارم جرم بیحد و حساب + گمرہان را رہنمائی میکنی + بر طریق نیک و بر راہ صواب + ہست ہر ذرہ ز لطفت مستفید + ہست ہر ذرہ ز فیضت کامیاب +
کار طلب - پہلوان بہادر کام کرنے والا - صفدر فوقانی - دست در کار ہست و دل با یار + صاحب کار مرد کار طلب +
کار آب و آتش ست - یعنی آگ پانی کا کام بہت مشکل ہے - دارا بیگ جویا - ہر قدر پختم خیالش ہمچنان خام ست خام + کار چشم و دل ہما نا کار آب و آتش ست +
کار سخت - کار گران - مشکل کام جو ہر کوئی نہ کر سکے - سعدی - بکارہاے گران مرد کار دیدہ فرست + کہ شیر شرزہ در آرد بزیر خم کمند +
کاسہ پشت - کوز پشت پیر و ضعیف و کنایۃً آسمان-
کافر نعمت - ناسپاس اور نعمت کا چھپانے والا شکر نہ کرنے والا - صائب - اگر بر زخم کافر نعمتان باشد گران پیکان + بزبان شکر گردد زخم ما را در دہان پیکان +
کار پیچ - وہ کپڑا جو کشیدہ گر و کلابتون دوز اپنے کام کا لفافہ بناتے ہین تاکہ گرد و غبار مین اُنکا عمدہ کام خراب نہو جائے-
کار سنج - دانا و صاحب لیاقت و عقلمندی - نظامی - ز بسیار راہ و گنج چنان + سخن راند با کار سنج جہان +
کاف مسطح - طوطیون کی اصطلاح مین فرج و شرمگاہ - نور الدین ظہوری - خامہ اش کا مد کلید مخزن اسرار کون + ساخت آن کاف مسطح قفل گنج شایگان +
کاکل صبح - وقت اول صبح - محمد قلی سلیم - شور عجبی در چمن از بلبل صبح ست + این شانہ سزاوار خم کاکل صبح ست +
کار آمد - کام کا آدمی جس سے کوئی کام نکلے - محسن تاثیر - بجز فرہاد کو را تیشۂ آخر بکار آمد + بایں فرزانہ دہ یک مرد کار آمد نمے آید +
کار بند - محکوم فرمان بردار اور عمل کرنے والا - حافظ - مغنی بیا بشنو و کار بند + ز قول من این پند دانا پسند +
کار دستہ خود نمی برد - مثل ہے یعنی کوئی شخص اپنے عزیز کو نقصان نہین پہونچاتا چاہے کیسا ہی وہ ظالم ہو-
کار را کار گر می شناسد - مثل ہے یعنی کام کو کام کرنے والا پہچانتا ہے مولانا اکبر - وزن ہر یک بار داند بار بر + کار ہا را میشناسد کار گر +
کار کرد - کام کرنا اور عمل کرنا - میر خسرو - براے از رہ لطف کرد ہمہ + باندازہ کار کرد ہمہ +
کاکین را کار فرما بر سر کار آورد - مثل ہے یعنی جب تک کام کرنے والے کی

قدردانی کا فرمانکرے۔ کارکن کوئی کام نہیں کرسکتا۔
کاغذ باد۔ کنکوا۔ پتنگ جو لڑکے ہوا میں اڑاتے ہیں۔ طاہر غنی۔ کہ عشق بود روز اولی استادش ٭ کتاب صرف ہوا نیست کاغذ بادش ٭
کافر نہاد۔ جو دل سے منکر اسلام کا ہو۔ میرزا صائب۔ چنان از دین کافر نہادم بر حیات خود ٭ کہ قطع رشتۂ جان قطع زنار است پنداری
کار امروز بفردا مگذار۔ مثل ہے یعنی آج کا کام کل پر نہ چھوڑ کیونکہ کل کرے سو آج۔ صفدر رفوقانی۔ کارکن کار تو اے صاحب کار ٭ کار امروز بفردا مگذار ٭
کار برہم زن۔ بسے موجودہ کام کا خراب کرنے والا۔ ابتر کرنے والا۔ کام کا۔ مخلص کاشی۔ از دو کونم قطع سودا کردہ در خون نشاندہ ٭ ہست تیغ غمزدات کار برہم کار ساز ٭
کار دار۔ کار گزار۔ صاحب کار۔ کام والا۔ صاحب خدمت۔ عامل۔ خادم۔ سید محمد سلمان۔ کینہ کا رسالت آسمان ہست ٭ کینہ کار روزگار است ٭ درویش والہ ہروی۔ کردم ہمہ عمر دو صد کار و نکردم ٭ کارے کہ بود در خور آن کار گزارم ٭
کاروان سالار۔ کاروان کش۔ کاروان گاہ۔ انکے معانی مشہور ہیں۔ میرزا صائب۔ کاروان گاہ حوادث جائے خواب امن نیست ٭ در رہ سیل خطر بکشا میان خویش را ٭ صفدر رفوقانی۔ کاروان وقت عاصی بمنزل برسد ٭ چون شہنشاہ عرب شد کاروان سالار ما۔ ظہوری۔ ز عطاری نافۂ یاسمن ٭ صبا کاروان کش بملک ختن ٭
کاسہ مار۔ ایک قسم کے سانپ کا نام ہے۔ شرف الدین شفائی۔ قدرت انگیختہ ز خاک نفاق ٭ کاسہ مارے بصورت آدم ٭
کاغذ گر۔ کاغذ بنانے والا۔ طاہر وحید۔ ز کاغذ گرم باشد آن اضطراب ٭ کہ شیرش نگنجد بصد بن کتاب ٭
کاغذ گیر۔ وہ روشندان جسپر کاغذ لگا دیا جائے تاکہ روشنی بدستور رہے دھوپ اور سردہوا مکان میں نہ آسکے۔ طاہر غنی۔ یا پنہان ز نظر گشت چو شد دیدہ سپید ٭ مانع پرتو خورشید بود کاغذ گیر ٭
کافور بار۔ کافور خوار۔ نہایت سرد۔ نظامی۔ برآمد ز کوہ ابر کافور بار ٭ مزاج زمین گشت کافور خوار ٭
کامگار۔ مقصود مند۔ مرادمند۔ نظامی۔ ولیکن بدان دولت کامگار ٭ نباشد بسے عمر او پایدار ٭
کامل عیار۔ بہت درست اور تمام عیار۔ صائب۔ رتبۂ کامل عیار از خاک ظاہر میشود ٭ تن بسنگ کود کان دہ دامن صحرا مگیر ٭

کاسہ باز۔ بازیگر جو کاسے سے کھیل کرتے ہیں کنایۃً حیلہ گر و مکار۔ یحیٰی شیرازی۔ از حریفان قمار بردہ بسے ٭ کاسہ بازی چنان ندیدہ کسے ٭
کاسہ لیس۔ فضلہ خور۔ بیہودہ خوشامدی۔ دریوزہ گر۔ جھوٹا کھانے والا۔ ظہوری۔ در خوشامد ہا زبانم چرب نیست ٭ کاسہ لیس ہر دو لی نعمت نیم ٭ صائب۔ خویش را فربہ نسازم ز خوان دیگران ٭ چون مہ نو کاسہ لیس مہرتابان نیستم ٭
کاسۂ نرگس۔ نرگس کا پھول۔ نور الدین واقف۔ از تہیدستی لب سن کی شکایت آشنا ست ٭ ہمچو نرگس کاسہ ام خالی ست اما بے صداست ٭
کاسہ گرم تر از آش۔ ایک مثل ہے یعنی مدعی سے زیادہ گواہ مقدمہ میں زور دیتا ہے مثلاً مدعی سست گواہ چست۔ ظہوری۔ بر سر خوان وصل مہرویان ٭ کاسہ از آش گرم تر باشیم۔
کاشی تراش۔ معمار۔ کاشی کا کام کرنے والا۔ طاہر وحید۔ ز معمار بنیاد کاشی تراش ٭ مراراز پوشیدہ گردید فاش ٭
کاویانی درفش۔ فریدون بادشاہ کے علم کا نام ہے منسوب بکاوہ آہنگر جسنے خروج کرکے ضحاک کو قتل کرکے فریدون کو بادشاہ بنایا اور علم فریدونی کا نام کاویانی درفش رکھا۔
کاکل شمع۔ شمع کا دھواں۔ حکیم زلالی۔ سوے بزم ایاز آمد بانجمع ٭ پریشان تر ز چین کاکل شمع ٭
کاغذین باغ۔ پھولوں کے تختے جو شادیوں کے موقع پر بناتے ہیں۔ ناظم ہروی۔ کاغذی باغم سراپا چون نباشم زخمدار ٭ جز بریدن نیست کردار چمن پیرائے من ٭
کار آب و گل۔ عمارت جو بنائی جائے۔ میر خسرو۔ سدتے کار آب و گل پرداخت ٭ وندر آن کوی خانۂ نو ساخت ٭
کاغذ اطفال۔ کاغذ کا کنکوا اور پتنگ جو لڑکے ہوا میں اڑاتے ہیں۔ نصیرائی ہمدانی۔ زبس گذشت عشقم بزور رشتۂ آہ ٭ سبک چو کاغذ اطفال در ہوا رفتم ٭
کاسۂ چشم۔ حدقہ آنکھوں کا۔ مولوی معنوی۔ کاسۂ چشم حریصان پر نشد ٭ تا صدف قانع نشد پر در نشد ٭
کام ناکام۔ ناچار ضرورۃً۔ مولف۔ دوسے از دوار فانی چار ناچار ٭ سفر ورزی ز دنیا کام ناکام ٭
کار آفرین۔ ذات خالق جل و علا۔ نظامی۔ ز ما تر جمۂ کار اندر حق ٭ ز کار آفرین کار را ساختن ٭

کار از پیش رفتن - شدن - بردن - برداشتن - کام کرنا اور ہونا - انجام کو پہونچانا - کمال خجندی - در ہجر تو چندانکہ بدیدیم ز گریہ جز اشک ندیدیم کہ کار بر دار پیش - باقر کاشی - باین دست تہی یارب چہ کار از پیش بردارم ✤ کہ دشمن گوے از میدان برد زر بردہ بیرون ✤ طاہر وحید - عجب کاری ست کار عشق گر فرہاد نتواند ✤ وحید ناتوان با باشد از پیش بردارد ✤ مظہری کشمیری - اقبال حسن کار تو از پیش مے برد ✤ ورنہ صلاح کار ند انستہ کہ علت ست صائب ✤ - از کوشش تو میرود از پیش کارہا ✤ پائی بخواب رفتہ ما در رکاب نیست ✤

کار از کار بر خاستن - ایک کام سے دوسرا کام نکل آنا - ایک امر دوسرا پیدا ہونا - اوحدی - اگر بدست بوس او نباشد اوحدی دست ز پابوس بوسہ بستان کہ کار از کار بر خیزد ✤

کار از کار گذشتن - کوئی کام چارہ اور تدبیر سے گذرنا - صائب - اے کارساز خلق لفریادمن برس ✤ زان پیشتر کہ کار من از کار بگذرد ✤

کار از کسی رفتن - کار یکسو شدن - مستقیم شدن - کام نکلنا - کام ایک طرف ہونا - کام بن جانا - مضبوط ہو جانا - حافظ - کار از تو میرود مددے اے دلیل راہ ✤ انصاف میدہیم کہ زرہ او فتادہ ایم ✤ ناصر خسرو - ای صبح سعادت بنما از افق غیب ✤ باشد کہ شود کار من غمزدہ یکسو ✤ میر معزی - کارم شد از وصال تو تا جاودان مستقیم ✤ گوئی وصال تو سبب استقامت ست ✤

کار افتادن با کسے - کسی کے ساتھ کام پڑنا - رضی دانش - با سیہ وزان دمی از فتنہ ایمن نیستیم ✤ خال شد پامال خط با زلف کار افتادہ است ✤

کار انجام دادن - کار بند کردن - کام ختم کرنا اور بند کرنا - صائب - صائب چہ فارغ انداز اندیشہ حساب ✤ جمعے کہ کار عاقبت انجام دادہ اند ✤ مسیح کاشی - گرچہ ہستم زر خالص چکنم چون گشتم ✤ ریزہ تر زانکہ کسے بند کند کار من ✤

کار باز شدن - کام کھلنا - کام ہو جانا - صائب - ز عشق کار جہان باز میشود صائب ✤ خوشا کسی کہ توسل باین جناب گرفت ✤

کار بالا گرفتن - کار بالا رفتن - کار بلند شدن - کار بالا بردن - رونق پکڑنا اور بڑھنا کسی کام کا - ابو طالب کلیم - کار محبت گر درین رہ اینچنین بالا رود ✤ رہ نوردان راز رازو خار مغیلان میشود ✤ حافظ - شدم عاشق ببالائے بلندش ✤ کہ کار عاشقان بالا گرفت ست ✤

کار بخدا افتادن - تدبیر اور چارہ سے گذر جانا کام کا اور حوالہ بخدا کرنا - محسن تاثیر - حق شناسان زبی سلاطین آسمان ز ندارند کار شود اگر چہ افتد بخدا می افتد ✤

کار بر آراستن - کام آراستہ کرنا - سر گنج رہنما کردد تو اردیرہ بیابان برآراستہ کار ✤

کار براحت رسیدن - مشکل آسان ہو جانا - نظامی - چو کار از رنج براحت رسید ✤ یکے شغل دیگر آمد پدید ✤

کار براہ بردن - اجرائے کار کرنا - حسن بیگ فیح - تا ندارد از کسے سر رشتہ تو در انگاہ ✤ کار خود را کی تواند برد چون سوزن براہ ✤

کار بر کسی آسان کردن - کسی کو امداد کرنا تا کہ مشکل کام اس پر آسان ہو جائے - صائب - غفلت ما کار بر ابلیس آسان کردہ است ✤ صید بندان را بدو از صید غافل بیشتر ✤

کار بر ہم زدن - کام خراب و ابتر کرنا - جمال الدین سلمان - در پائے کرد و کار جہان نے ہمہ بر ہم ✤ چشم تو و عذرش ہمہ اینست کہ مستم ✤

کار بساز کردن - کام اچھی طرح سے کرنا - محمد ابراہیم فارغ - دنیا چو توچشم باز کردی ہیچ ست ✤ ہر کار کہ بساز کردی ہیچ ست ✤ چون صورت آئینہ تماشائش خوش ست ✤ چون دست طمع دراز کردی ہیچ ست ✤

کار بستن - تعمیل کرنا کسی کے حکم کی کام اچھی طرح سے کرنا - نظامی - شد آسایش خواب را کار بست ✤ وز آنجا کہ از آن چار دیوار رست ✤

کار بگوشہ چیدن - بھول جانا کام کا - صائب - بگوشہ ہمہ کارہا چیدہ اند ✤ از آن گوشہ کاری از دیدہ اند ✤

کار بند شدن - کام کا بند ہونا اور تعمیل کرنا کسی کے حکم کی سے اگر بندہ از بندگان خدمت ✤ بحکم خدا میشود کار بند ✤

کار پیش رفتن - کام پیش جانا - خواجہ سلمان - گر سر ترک کلاہ فقر داری اے فقیر ✤ چار ترکت باید اول تا رود کار تو پیش ✤ ترک اول ترک مال و ترک ثانی ترک جاہ ✤ ترک ثالث ترک رحمت ترک رابع ترک خویش ✤

کار تمام ساختن - تمام کرنا کسی کام کا - شانی تکلو - از یک نگہ کہ بایدت صد سالہ عاشقی بست ✤ کارم تمام کردہ و من فاعلم ہنوز ✤

کار تنگ گرفتن - کار تنگ کردن - تکلیف دینا اور تنگ پکڑنا کام کا کسی پر - ابو طالب کلیم - بر طاقت ما کار چنین تنگ بگیرید ✤ ای خوش کہ ازین تنگ بدیدید بیاد ✤ نظامی - تو بینی کہ گردا با تو جنگ آورد ✤ بر و تیغ تو کار تنگ آورد ✤

کار چون زر کردن - کار چون نگار شدن - کام کا خوبی سے انجام پانا - نظامی - زما ہر پلی را تو نگر کنی ✤ بزر کارہا ہر دو چون زر کنی ✤ صائب - از زر کار من چون زر شود غافل کہ چرخ ✤ چون گل عنا مرا از کاسہ زر خون دہد ✤ میر معزی - سر غنس کہ بفرمان تو رام ست و مسخر ✤ از دولت و اقبال تو کارش چو نگار ست ✤

کار دار از گوشت گذشتن - نہایت تکلیف کی حالت کو پہونچنا - استاد فرخی - تو ندانی کہ مرا کار ز گوشت گذشت ست از گوشت ✤ تو ندانی کہ مرا کار رسید ست بجان ✤

کار داشتن - کام رکھنا - معاملہ رکھنا - ظہوری - ذوق جنبش
بر تماشائی گل رخسار داشت * گرنگے بردند زود آئینہ با خود کار داشت *
کار در استخوان رسیدن - کمال تکلیف پہونچنا - میر حسن دہلوی - سرانجا
جفا بر جمال پیش کہ کار * بر استخوان رسید ز استخوان بگذشت *
کار در حلق مالیدن - ذبح کرنا - قتل کرنا - سعدی - شنیدم گوسپندی را
بزرگے * رہا نید از دہان و دست گرگی * شبانگہ کارد بر حلقش بمالید * روان
گوسپند از وی بنالید * کہ از چنگال گرگم در ربودی * چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی *
کار در پا افگندن - کسی کا تمام خراب کرنا - سعدی - بیندازد در پا
کار کسے * گہ افتد کہ در پاش افتی بسے *
کار دراز کردن - طول دینا کسی کے کام کو - نظامی - چو آئی سوے
کشور خویش باز * مکن کار کوتاہ و برخود دراز *
کار در گرہ ماندن - در گرہ افتادن - مطلب حاصل نہونا - صائب -
تماند کار بسر گذر در گرہ بہ پیر گاران را * کہ از دیوار پیش راہ یوسف در شود پیدا
کار را بالا بردن - بلندی پر لیجانا کام کا - میرزا جلال اسیر - چون نگارم
جلوہ بیبالی از جا بردہ است * خاکساری ہین کہ کارم را چہ بالا بردہ است *
کار زار بودن - کام سخت اور دشوار ہونا - میر معزی - نیشیرانی
کاندر مصاف رزم دہند * کار زار تو بر خصم کار زار شود *
کار زار شکستن - فتح حاصل کرنا جنگ مین - نظامی - ہمی گفت
بہمن باسفندیار * کہ گرگ کشتی شکستی کارزار *
کار را ساختن - کار ساختن - کار نیکو کردن - کار یکرو کردن کیسی کے
کام کو درست کرنا - تجہیز و تکفین کرنا میت کا - ایکطرف کرنا کام کا
نظامی - جہاندار از ان کار شد تنگ دل * کہ سالار گیلی در آمد بگل *
بفرمود بر ساختن کار او * بشرطے کہ باشد سزا وار او * عروس گرانما
رانیز کار * برآراستہ تا شد ہیونان دیار * سلطان مصطفے - میرزا -
ہر چند یاد یاد حرفی چند میگویم یاد * کار خود در عاشقی این یار سیکیم
تمام شب ہمیشہ با سلام کار خویش یکرو کردہ ام * غمزہ کافر نباشد تا مسلمانی دگر *
کار کسی ساختن - کسی کا کام تمام کرنا - شرف تبریزی - شمع را دیدم کہ
از رازش وصل آگہ است * صبح چون نزدیک شد کارش بیکدم ساختم *
کار کسی شدن - کسی کا کام ہو جانا - مر جانا - عبد اللہ سلطان - ساقی
مجلس باین تمکین اگر می میدہد * تا بما خواہد رسیدن کار ما خواہد شدن *
کار محکم کردن - مضبوط کرنا کام کا - صائب - گرفتم عقل محکم کرد کار
خویش را صائب * رہ سیل قضا را سد اسکندر نمی بندد *
کاسہ بخون زدن - کاسہ بخون زدن - خون پینا نہایت غم و الم مین - صائب

صائب بخون دل نزند کاسہ چون کند * ہر کس کہ نیست دست بجام لبالبش *
کاسہ بر سر شکستن - کسی کا راز افشا کرنا اور رسوا کرنا اسکو - ظہیر - کس
چہ میداند کہ پیمانت نمیاند درست * کاسہ گر از روی مستی بر سر ابشکنی *
کاسہ بند کردن - تملق اور چاپلوسی کرنا - اشرف - میکنند از بیہودگی
نوشخند * پیش و مش دختر رز کاسہ بند *
کاسہ خون کشیدن - خون پینا نہایت غم والم کی حالت مین - میر رضی قلی بیگ
مانند لالہ کاسہ خود در آکشد بخون * ہر کس کشود چشم تماشا درین چمن *
کاسہ پیش کسی داشتن - سوال کرنا - حاجت مانگنا - نظیری - چشم بر
فیض نظیری ہمہ خوبان دارند * کاسہ پیش گدا داشتہ سلطانی چند *
کاسہ سرنگون - مفلس و تہیدست و نادار - رفیع واعظ - چشم و چراغ
گلشن ہستی کوئی اگر * مانند لالہ کاسہ ترا سرنگون شود *
کاسہ شدن - کو پشت ہونا - کبڑا ہونا - ظہوری رباعی - ای در خط دلربائی تو
روی نگاہ * در سجدہ ای دو دیدہ بزانوے سیاہ * بر ماندہ تقرحش کاسہ
شود * از غایت ازدحام پہلوے نگاہ *
کاسہ کشیدن و نوشیدن و زدن - شراب کا پیالہ پینا - صائب - زخون
شکوہ دارم چون لالہ داغ لشکر رنگین * کشیدم کاسہای خون و برلب خاک
مالیدم * ولہ - شگوفہ کاسہ زہر ہر برگ را نوشد * چہ جائے کہ چو آہو نفس دنا زنہد
کاسہ گردان - گدا اور دریوزہ گر اور مجلس کا ساقی جو شراب
پلاتا ہے - خاقانی - در طریق کعبہ جان چرخ زرین کاسہ را * از
پی دریوزہ جاے کاسہ گردان دیدہ اند *
کاسہ گرفتن - پیالہ لینا شراب پینا - حافظ - ساقی بصوت
این غزلم کاسہ میگرفت * میگفتم این سرود و می ناب میزدم *
کاشتن - بونا زراعت کرنا - مخلص کاشی - داغ من کسے نظمہ
بہر ہم و نخست * پنبہ را و زمین اول کاشت *
کاغذ دفتر شکستن - دفتر کے کاغذ کو شکن دینا - فرد کی صورت پر
خانا - انوری - تا عدو شکرش در قلم آرد قضا * از ورق آسمان کاغذ دفتر شکست *
کاغذین پیرہن - کاغذین جامہ - زمانۂ قدیم مین رسم تھی کہ داد خواہ
جس پر کمال ظلم ہوا ہوتا کاغذ کا پیراہن پہن کر عدالت مین جاتا -
سیف الدین اسفرنگی - کاغذین جامہ چو صبح آیے برآرم ہر شبے *
تا کجا خواہد رسیدن زین تظلم کار من * بابا فغانی - زخوبان داد میخواہم
فغانی مہربانی کو * کہ سازد کاغذین پیراہن از طومار افسون ہم *
کافور خوردن - رجولیت کو زائل کرنا - نامرد ہونا - نظامی - چو با
لشکر فو کردم بسر * ز مرد انگی خورد کافور خورد *

کتف سارہ - گھوڑے کی گردن جو زین کے آگے ہوتی ہے - مختاری -
بکتف سارہ در آورد زانو از ادبا بہ ❊ چشم غانہ فرو رفتہ دیدہ از نابار +
کتف گاہ - دوش اور شانہ آدمی کا - نظامی - زدوش بر کتف گاہ و
بر دوش از جاے ❊ چنان کان ستمگر در آید ز پاے ❊

کتاب شمری - کار بیہودہ و چیز بے اصل و بے حقیقت و لغو - رباعی -
شیداے منافق کہ سراپاش بدست ❊ ہم مرتد و ہم دوست ہم تخم و دست +
با آنکہ کلوخ چین بود اشعارش ❊ دیوانش سبکتر از کتاب شمری ست ❊

کاف با جیم

کج حساب - کج خرام - جسکا حساب اور چال چلن درست نہو - مخلص کاشی -
کج حساب آنچہ با برام رہ داد دگر ست ❊ کام ہر گز نگرفت ست چو ماہی قلاب ❊
کج بصیرت - جسکی بصیرت درست نہو - محسن تاثیر - ندارد حاصلی با کج
بصیرت دوستی کردن ❊ کسے را یک جہت با خویشتن احول نمے بیند ❊
کج بحث - جھگڑا کرنے والا - تکرار بڑھانے والا - صائب - مہر خاموشی
حصارے شد ز کج بحثان مرا ❊ ماہی لب بستہ را اندیشہ قلاب نیست ❊
کج فرج - کج معاملہ - بدخلق - بدخو - بدمعاملہ - محسن تاثیر - از کج معاملہ
امید خیر نتوان داشت ❊ سپہر کار کسی را بمدعا نکند ❊ میر خسرو - تو گر
گردم فراخی لقمہ خور پاک ❊ رہا کن کج فراجان را بخاشاک ❊
کج پلاس - بدمعاملہ و مفسد و کج پلاسی بدمعاملگی و فساد انگیزی
ملا شانی تکلو - بسکہ بامن کج پلاسی کرد چرخ پیر پلاس ❊ دوش
بختم را پلاس داد خواہی شد لباس ❊
کج فعل - کج فہم - کج قلم - انکے معانی مشہور ہین طرز در چو ملا ی جاہل -
کج فعلیش بایہ زار قلم ❊ خورد چو نال قلم پیچ و خم ❊ اسیری لاہجی - شیر و شکر
ہیچ نگفتیم مزا ہر ❊ با جاہل کج فہم معانتوان گفت ❊ صائب - فرگان تو
از کج قلمی دست ندارد ❊ ہر چند زخط حسن تو دریاے حساب ست +
کج کلاہ - مغرور و متکبر و سرکش - ب - درگروہ رستبازان سروری
حاصل کند ❊ راستی پیشہ کند گر بادشاہ کج کلاہ ❊

کاف با راے

کرم این کار ست - یعنی اس کام کا وقت ہے گویا وہ اس کام کا کیڑا ہے -
مخلص کاشی - صبر کردن بجفائی تو بسے مرغوب است ❊ کرم این کار
ہر ابیشتر از ایوب ست ❊
کرایہ فلان چیز نمیکند - یعنی اس مرتبہ کے لائق نہین - صائب -
جہان کرایۂ دیدن نمیکند صائب ❊ چو غنچہ سر ز گریبان برون میار و برو +
کردہ کار - صاحب تجربہ و آزمودہ کار - استاد و فیقی - جادو نیا شد

ارزتو بہ تنبل سوار ❊ عفریت کردہ کار فوند کردہ کار ترمہ
کرسی دار - ایک کرسی دار کے نیچے رکھی جاتی ہے اور مصلوب اُسپر
پانون رکھکر دار پر جاتا ہے - غزالی مشہدی - چو ر کسی پسند شد
شحنۂ عشق را کہ او ❊ کرسی دار عاشقی کرد قد خمیدہ را ❊
کرسی زر - آفتاب عالمتاب اور بادشاہون کے جلوس کی کرسی -
چو خورشید بر کرسی زر نشست ❊ مرصع ترنجے گرفتہ بدست ❊
کرسی زیر دار - کرسی دار جسکی تشریح ہو چکی ہے - محمد قلی سلیم
بمہر آسمان این مشوکین شحنہ در آخر ❊ کند کرسی زیر دار تخت پادشاہی را
کرم شب افروز - کرم شب تاب - کرم شب چراغ - مشہور کرم ہے
جو برسات کے موسم مین پیدا ہوتا ہے بہت چھوٹا جب اُڑتا ہے تو اُسکے
پرون کے نیچے چراغ کی سی روشنی چمکتی ہے - سعدی - مگر دیدہ باشی
کہ در باغ و راغ ❊ بتابد بشب کرمکے چون چراغ ❊ یکی گفتش اے
کرمک شب فروز ❊ چہ بودت کہ بیرون نیائی بروز ❊ نظامی - بیک
خندہ گرت تابد چو مہتاب ❊ بشب افروزی کنم چون کرم شب تاب - عبد الغنی
قبول - بر فلک اے وزو شب از انجم چو کرم شب چراغ ❊ گہ عیان
بینی و گاہے گم چو کرم شب چراغ ❊
کرسی حروف - برابر ہونا حروف خط کا کتابت مین - غزالی مشہدی -
ہر کہ حد خود شناسد کے شود محتاج غیر ❊ حرف کرسی دار مسطر
سے بے نیاز از سطر ست ❊
کردن - کرنا کسی کام کا - سعید اشرف - عمارتے اگر از دل
بنا توانی کرد ❊ درون کعبۂ تحقیق جا توانی کرد ❊
کرسی زانو - زانو کی کرسی زور و طاقت نشست و برخاست - ابو طالب کلیم
تاب و توان کرسی زانو چو کم شود + باید خیال بیہدہ از سر بدر کنند ❊
کرم پیشہ - صاحب بخشش و جوانمردی - سعدی - پیندار گر سفلہ
قارون شود ❊ کہ طبع لئیمش دگرگون شود ❊ دگر در نیابد کرم پیشہ
نان ❊ نہادش توانگر بود ہمچنان ❊

کاف با زاے

کژ مزاج - بدخلق - بدخو آدمی بدمزاج - میر خسرو - آن کژ مزاجی
کز دغا مانند فرزین کژ رود ❊ چون بیدق فرزین شدہ سر زیر کن کوں بازہر +
کژ خاطر - کژ دل - وہ شخص جسکا مزاج استقامت پر نہو موزون
و ناموزون مین فرق نکرے - حافظ - چون صبا مجموعۂ گل را بآب
لطف شست ❊ کژ دلم خوان گر نظر بر صفحۂ دفتر کنم ❊
کژ زبان - وہ شخص جو بخوبی کلام نکر سکے - نظامی - طفل چیلی درش

اگر مرو زبان میپیر چہل سالہ برد درس خوان ٭

کژ ابرو - ٹیڑھی ابرو والا محبوب کی تعریف مین بولاجاتا ہی - نظامی
کمان کژ ابرو و بر کمان تیر ٭ ز پستان جوشن بر آورده شیر ٭

کژ زخمہ - جسکا زخمہ آہنگ سے خارج ہو نظامی - بفرمود تا آن دو سر ہنگ را ٭ دو کژ زخمہ دخارج آہنگ را ٭

کژدم فسای - بچھو کا زہر بذریعہ منتر کے جھاڑنے والا - میر معزی زلف کی تعریف مین - ہزار مردم کژدم فسائی دیدستی ٭ بیاو کژدم مردم فسائے بین اکنون ٭

کاف با سین

کسب ہوا - ہوا کھانا - فرحت حاصل کرنا - میرزا صائب - در محیط آفرینش چون حباب شوخ چشم ٭ کار ما سر گشتگان کسب ہوائے بیش نیست ٭

کس کباب - دیوث اور قلتبانی - میرم شاہ - آن قحبہ کہ طالع وے آمد مریخ ٭ از ہیبت اژدہائے کیرم زد وخ ٭ دی کیر چو لولا ہر اکند بر بیخ ٭ تا از پے کس کباب گرداند سیخ ٭

کس نداند کہ پس پرده چہ خوب ست چہ زشت - مثل ہی یعنی پرده کے پیچھے کوئی نہین جانتا کہ کیا چیز ہی -

کس کش - دیوث اور قلتبان بے غیرت -

کس ہرگز نگوزد - مثل ہی -

کساد ساختن - نقصان کرنا کسی چیز کا نرخ کم کردینا خسارہ کرنا - درویش والہ ہروی - بیا بیا کہ بیاد تو مردم چشمم ٭ کساد ساختہ نرخ متاع جان نرا ٭

کستر زن - بے غیرت دیوث قلتبان جسکو اپنی عورت کی غیرت نہو -

کسر شان - کم ہونا عزت و آبرو کا نقصان پہونچنا - زیان ہونا - صائب - سینہ بے کینہ دارم کہ چون زنبور شہد ٭ سے شود شیرین دہان از کسر شانم خلق را ٭

کس نہ خار دپشت من جز ناخن انگشت من - مثل مشہور ہی کہ وقت مصیبت کے اپنا کام آتا ہی بیگانہ مدد نہین دیتا ہی -

کس گربہ - خرمہرہ یعنی کوڑی -

کاف با شین معجمہ

کشور خدا - کشور کشا - کشور گیر - بادشاہ فرمان فرما - ملک کا مالک - میر معزی - ہمی تبار زد تیغ و نگین و تاج و سریر ٭ بشہریار ولایت کشائے کشور گیر ٭ سعدی - اگر کشور خدائے کامران ست ٭ وگر درویش حاجتمند نان ست ٭ دران ساعت کہ خواہند این و آن مرد ٭ نخواہند از جہان بیش از کفن برد ٭

کشتۂ سیماب - پارے کا کشتہ جو کیمیا گر ادویات کی ترکیب سے بناتے ہین نیز وه غلیظ کیا ہوا سیماب جو آئینہ کی پشت پر لگاکر اسکو جلا کرتے ہین - محمد سعید اشرف - تیغ بینا رنگ خوبان را ز خون کردن چہ باک ٭ سے کند آئینہ پنہان کشتۂ سیماب را ٭

کشتی بخشکاب بستہ است - یعنی بزدل و خسیس و ممسک و بخیل ہی - محمد سعید اشرف - گشت ممسک خواجہ چون گردید مال او زیاد ٭ بست کشتی را بخشکاب آخر کہ دریا آتش ست ٭

کشادن بخت - کشودن بخت - نیک وقت اور نیک زمانہ کا آنا نحوست و تنگدستی کا دور ہونا - محسن تاثیر - نوبید باغ شدی گلشن از صفا افتاد ٭ حنا بہ بند کہ بخت بہار بکشاید ٭ طالب آملی - بخت کہ کشوده بود امروز ٭ پیشانی روزگار چنین داشت ٭

کشتمند کشتمان - زمین مزروعہ کھیتی جسمین زراعت بوئی جاوے - حکیم اسدی - دو منزل زمین کرد سلطان پسند ٭ پر از باغ و خوش و میوه و کشتمند ٭

کشت زار - کھیتی - مزروعہ زمین - مخلص کاشی - بغیر از حسرت چہ روید از گل ما ٭ بکشت زار جہان بین کہ چیست حاصل ما ٭

کشتی سوار - جو شخص کشتی پر سوار ہو - ناصر علی - بزد عقل نتوان شد حریف عشق لا پروا ٭ عنان در قبضۂ دریا بود کشتی سواران را ٭

کشتی گیر - کشتی کرنے والا - پہلوان - سلیم - مغرور خفتان ہیدان محبت نیستیم ٭ ما ست چو کشتی گیر عریانی اسلاح جنگ ماست ٭

کشتی لنگر گیر - لنگر کی ہوئی کشتی جو دریا مین ٹھہری ہوئی ہو - محمد سعید اشرف - بود معذور گر در وجد آید سالک واصل ٭ کہ کشتی نیست لنگر گیر چون گردید دریائی ٭

کشور ور - کشورستان - بادشاہ حاکم ولایتون کا مالک - استاد فرخی - سال و مہ لشکر کش و لشکر شکن ٭ روز و شب کشور ور و کشورستان ٭

کشوردار - شہر اور ولایت کا حاکم - نصیرای ہمدانی - نگشاید در و دروازۂ کس برخ ہیش ٭ تا در اقلیم دلم عشق کشوردار ست ٭

کشکول ساز - کشکول بنانے والا - ملا طغرا - بود ہمچو کفگیر دستش دراز ٭ کہ گیرد نقارے ز کشکول ساز ٭

کش مکش - کشا کش - کش و واکش - تنگی تقاضا - فرمایش پے در پے - ظہیر الی نہاوندی - بہر چہ نمیدار و بنا دشمن زر بر دو ٭ مسلید دخوش کش مکشا لیزی کرد یتیم ٭ مفتی حیدر - پائے ہو پا بند زلف پیچدار ٭ تا بفتی درمیان کش مکش ٭ رفیع واعظ - شیخ و معلوم واعظ زآمد و رفت نفس ٭ اینکہ با ما زندگی پیوستہ در کش و اکش ست ٭

کش و فش - شان و تجمل و کر و فر خود نمائی - سریع واعظ - ما فریفتۂ
دستار و کش و فش نہ ایم ❊ پیست واعظ جز بنی د آل یا کش پیراہ ❊
کشیش - نصرانیوں و عیسائیوں کا سرگروہ جسکو پادری کہتے ہین
توحید - مجوس تابع فرمان و بندۂ کشیش ❊ غلام زار مسلمان
مطیع حکم جہود ❊
کشاکش - تنگ تقاضا - تکلیف رنج - فرمائش پے در پے - میرزا شفیع
کہ بدامش انداز دگہ کشد بزنجیرش ❊ یا زلف او با دل خوش کشاکشی دارد
کشایش - حاصل مصدر کشادن - کھلنا - فتوحات - آمدنی -
کشادہ زلف - محبوب کی تعریف مین بولتے ہین -
کشادہ کف - سخی - جوانمرد - کھلے ہاتھ والا -
کشادہ دل - کھلے دل والا - سخی - جوانمرد -
کشادہ زبان - فصیح و بلیغ صاحب تقریر - توحید - بوصفش
زبان آوران جہان ❊ کشادہ زبان بیان ہر زمان ❊
کشانیدن - کھچوانا - کشش دلانا - عرفی - ہمانکہ شوق طوافش مرا
بطوفان داد ❊ بہ نسیم جذبۂ کشاندنز ورطہ ام بکنار ❊
کشتن - بکسر اول بونا - زراعت کرنا - توحید - چو دنیا بود مزرع
آخرت ❊ بکن تا توانی بجز کشت کار ❊
کشتی بساحل زدن - کشتی کو کنارے کی طرف لیجانا - علی خراسانی
میزنم از جوش غم دل را بہ پہلو ہمچو باد ❊ کشتی خود را درین طوفان بساحل میزنم
کشتی زرافشان - شراب کا پیالہ -
کشتی کشان - ساقی شراب پلانے والے اور ملاح کشتی چلانے والے -
خسرو - گرد طلب کشتی دریا فشان ❊ کشتی زر داد بکشتی کشان ❊
کشتی شدن - دریا مین تیرنا -
کشتی قائم بودن - کشتی مین دو پہلوانون کا برابر رہنا -
کشتی گرہ شدن - برابر رہنا کشتی مین -
کشتی نشین - کشتی سوار - ناصر علی - من ای کشتی نشینان دیدہ ام
طرز تراشش را ❊ نماید در رو دیدن سیر دریا ساحل مارا ❊
کشش زدن - کشش مارنا اور کشش نام ہے ایک فن کا فنون کشتی مین سے
اور شراب پینا - میرزا جلال اسیر - صبح مخموریست ہی غلط یہ لب تر
سینہ چاک ❊ شب سیہ مستی کہ از جام شفق کشش میزند ❊
کشکشان - مخفف کشان کشان - از مثنوی اسرار شہود - عشق
ہر ساعت گریبانم درد ❊ کشکشانم سوے جانانم برد ❊
کشادن کشودن - مشہور و معروف ہین - صائب - ز آہ تا نشود

نرم دل کواکب را ❊ کہ دود آہ ز چشم شرار بکشاید ❊ رضی دانش
شبہاے ہجر بے او داد از سحر گرفتم ❊ آتش ز دل کشودم آب از جگر گرفتم ❊
کشیدن - کھینچنا - یہ لفظ فارسی مین اکثر موقع پر استعمال کیا جاتا ہے
جیسے کہ کمان کھینچنا - تصویر کھینچنا - کھانا پینا - آہ کھینچنا - دیوار کھینچنا وغیرہ
قاسم مشہدی - اے مصور چون کشی یوسف زلیخا را بکش ❊ ہر کجا
معشوق ما را میکشی ما را بکش ❊ ظہوری - آنکہ این دم داد تیغ غمزہ
را ❊ راحت از زخم تو در مرہم کشید ❊
کشادہ رو - خوش مزاج آدمی - اردو - نیک وہ ہین جو نیک خو
ہونگے ❊ نیک خلق اور کشادہ رو ہونگے - درویش والہ ہروی
اگرچہ کوہ غمی بر دل ست والہ را ❊ کشادہ روے بیارت ہمیشہ چون صبح ست
کشادہ - مشہور لفظ ہے معنی اسکے کھلا ہوا - حکیم خاقانی صبح بینان
چو شب ریختہ اشک طرب ❊ اشک فشردہ قدح شمع کشادہ شراب ❊
کشتن گاہ - مقام قتل جس جگہ کوئی مارا جائے - سعدی -
جوانمرد اینکہ کرم کردہ بود ❊ تمناے پیری برآوردہ بود ❊ ہجری
گذشت آسمان تا کہشش ❊ فرستاد سلطان بکشتن گہش ❊
کشتہ - بضم اول مارا ہوا قتل کیا ہوا - رضی دانش - سینہ
ما جان گذاران کربلاے حسرت ست ❊ از دو کشتہ ہر سو شہید افتادہ است
کشتہ - بویا ہوا اور نام ایک ترش میوہ کا جسکو زرد آلو کہتے ہین
میر حسن دہلوی - غنا بہاے لوگہ دشنام گا دبوس ❊ شیرین
خوش ترش بمثل ہمچو کشتہ اند ❊
کشتی بادہ - پیالہ شراب کا جو کشتی کی صورت پر ہوتا ہے - دانش
موج گل از در و دیوار چمن میگذرد ❊ کشتی بادہ بیارید کہ گل طوفان کرد ❊
کشتی دریوزہ - وہ کشتی جو فقرا ہاتھ مین پکڑ کر گدائی کرتے ہین -
کشتی گاہ - دریا کا کنارہ جس جگہ کشتی باندھی رہتی ہے - انوری -
آخر الامر چو کشتی بسلامت بگذشت ❊ جستم از کشتی و آمد بلب کشتی گاہ
کشندہ کشنید - مارنے والا - قتل کرنے والا - میرزا صائب -
از دل علاج ما بنگاہ کشندگی ❊ آنگاہ نخیر را بدف تو شکندگن ❊
کشادہ پیشانی کشادہ جبین - خوش مزاج خوش طبع شگفتہ رو
سعدی - بجا ہے کہ روے تازہ روی و خندہ رو ❊ فرو
نہ بندد کار کشادہ پیشانی ❊ نظیری نیشاپوری - ازین کشادہ
جبینان ثبات عشق مجوی ❊ کہ گل دہند بجز دار و یک ثمر ندہند ❊

کاف با عین

کعب گرگ - بھیڑیے کے گٹے کی ہڈی - اکثر قاصد اور بہت سے چلنے والے

لوگ اُسکو پاؤں مین باندھتے ہین اور کہتے ہین کہ اُسکے باندھنے سے پیادہ چلنے والا آدمی جسقدر چلے تھکتا نہین - نظامی - زغرو ان پئے فتنہ آید بزرگ ٭ کہ در پاے پیکان بود کعب گرگ ٭

کعبہ رو - کعبہ کی طرف جانے والا - کمال خجند - نالان بسے کوی تو آیم کہ ذوقی ہست ٭ در قافلۂ کعبہ روان بانگ جرس را ٭

کعب پیالہ - پیالے کی پیندی جو نیچے لگی ہوئی ہو - سعید اشرف - کعب پیالہ از کف او نشار ریزشد ٭ این جام را زہر دو طرف میتوان کشید ٭

کاف با فاے

کف بیضا - کف موسیٰ - ید بیضا جو معجزہ حضرت موسیٰ کا تھا - انوری - زیر بان جیب تو معجزات ٭ سواد زین کف بیضا گرفتہ سلمان ساوجی - کفی از بحر دست او کف موسیٰ بن عمران ٭ دم از باد خلق او دم عیسیٰ بن مریم ٭

کفش پیش پای او نمے تواند گذاشت - فلان شخص نہایت کم رتبے کا ہے کہ اُسکے آگے جوتی بھی نہین رکھ سکتا - محسن تاثیر - چون اقصد جلوہ آید قامت رعناے تو ٭ سرو نتواند گذارد نقش پیش پاے تو ٭

کفش بردار - جوتی اُٹھانے والا - خادم - خدمتگار - نوکر - طالب آملی - ای سکندر طالعی کز راہ عدل ٭ کفش بردارت شود نوشیروان ٭

کف افسوس - افسوس کے ہاتھ - میرزا عبد القادر - توان زد بے تامل صد زمین و آسمان برہم ٭ کف افسوس گر باشد ندامت دستگاہان را ٭ - رود آخر چو وقت کار از دست ٭ بصد حسرت کف افسوس مالد ٭

کفل پوش - زین پوش گھوڑے کا - نظامی - ہمہ زین زرین یاقوت نگار ٭ کفل پوشہاے جواہر نگار ٭

کف رفتن - چُرانا کسی چیز کو اور فریب سے لیجانا عیاری و طراری کرنا - سعید اشرف - بہر کف رفتن نہد انگشت بر حرفم حسود ٭ خردہ گیری خرمنم را خوشہ چینی کردن ست ٭

کف زدن - دستک مارنا تالی پیٹنا - طاہر وحید - چون شرر ہر کہ دلش گرم خیال تو شود ٭ رقص از کف زدن سنگ تو آید کردن ٭

کفش از پا بیرون کردن - کندن - افگندن - صائب - تنگدستان را ز قید جسم بیرون آمدن ٭ راہ رو را کفش تنگ از پای بیرون کردن ست ٭ لہ - ہر کہ ترک آتش نکرد از زندگانی برنخورد ٭ راستے گر بہشت کفش تنگ درکندن ست ٭ سہراب بیگ - سر ہر خار درین بادیہ خنجر بازی ست ٭ اضطراب کہ دگر کفش زپا افگندہ ست ٭

کفش بان - جوتیوں کا نگہبان کفش بردار - ترکی نعیم - جنت لقبے زآستان نجف ست ٭ رضوان بہشت کفش بان نجف ست ٭ ہر چند کہ بالا بہ از فردوس ست ٭ آن نیز گلے ز بوستان نجف ست ٭

کفش پوشیدن - جوتے پہننا مقابل کفش کندن کے جسکے معنی جوتے اُتارنے کے ہین - طالب آملی - زبس نازکی گرد وشش رنجہ پا ٭ اگر کفش پوشد ز رنگ حنا ٭

کفش پیش آوردن - گذاشتن - نہادن - جوتے آگے رکھنا - جوتے پہنانا - نظامی - چو مقبل کمر بست پیش آر کفش ٭ نشاید طبانچہ زدن بر درفش ٭ قاسم مشہدی - کفشے کہ پیش پاے گدایان شہان نہند ٭ فردا چو سر ز خاک برآرند افسر ست ٭

کف کردن دہان - حسرت کا پانی منھ مین آجانا -

کفن بافتن - کفن بننا - کپڑا کفن کا بنانا - جمال الدین عبد الرزاق - کسیکہ قصد تو دارد چنان بود دشمن ٭ کہ کرم پیلہ کہ با خود بدست خویش کفن ٭

کفن بر درع دوختن - مرنے پر مستعد ہونا مرجانا - نظامی - درخت کیانی فرو ریخت بار ٭ کفن دوخت بر درع اسفندیار ٭

کفن بریدن - کفن کاٹنا قطع کرنا - شفیع اثر - آمادہ قفا را ہر دو کے نیک و بد نیست ٭ ساعت کسے نپرسد بہر کفن بریدن ٭

کفن پارہ کردن - بیماری سے اچھا ہونا - کسی سخت بلا سے رہائی پانا - موت کے پنجے سے چھوٹنا - نادم گیلانی - میتوانم کہ علاج دل صد پارہ کنم ٭ چارۂ مرگ لبازم کفنے پارہ کنم ٭

کفن و تیغ بدست گرفتن - کمال منت و زاری سے پیش آنا - جرم معاف کرانا - شرمساری اُٹھانا - میر خسرو - دلش از بیم سنان شکست گرفت ٭ کفن و تیغ را بدست گرفت ٭ پیش شہ رفت کرد زاری بیش ٭ شرمسار از گناہگاری خویش ٭

کف نیاز برداشتن - دعا کرنا - دعا کے لیے خدا کی جناب مین ہاتھ اُٹھانا - صائب - تا چون صدف کنند ترا مخزن گہر ٭ بردار سوے عالم بالا کف نیاز ٭

کفش آہو - ہرن کے سم - محمد قلی سلیم - ہند ہر گہ قدم بر سبزۂ او ٭ زپاے خود برآرد کفش آہو -

کفش جستہ - وہ نعلدار کفش جسکی ایڑی بلند ہو - سلیم - غزالان را سم از شوخی شکستہ ٭ ندارد تاب بستن کفش جستہ ٭

کف پاے - ایک فقیر کا نام ہے جو استاد مکتب کے لڑکون کو دیتے ہین مسیحا صاحب تخلص - بنود عجب نازکی پای آن نگار ٭

رنگ حنا اگر کف پاے بران زند ٭

کاف با لام

کلاک پیرا - لکھنے والا اور قلم بیچنے والا - ملا طغرا - اگر کلاک پیرا نمے شد پیرہ عطار و قلم از کجا مے خرید ٭

کلاک خسپ - وہ آدمی جو بے خان و مان ہو رات کو تنوروں اور بھٹیوں پر سوتا ہو کیونکہ کلاک منقل اور آتشدان کے معنی میں - میر نجات - آرم خدمت بسر کوی تو در فرمانیم ٭ با دل چاک چو اینہ ز کلاک خسپانیم ٭

کلفت سرشت - غم و الم کی حالت میں ابتدائی پیدایش سے - ابو طالب کلیم - دریں کلفت سرا چون من دگر کلفت سرشتی کو ٭ دم خود نفس بر نیارد در دل ہر کس کہ جا کردم ٭

کلید وقت - وقت معلوم کرنے کا گھنٹہ - محسن تاثیر - کلید وقت و ساعت نیستم سیخے چو او دارم ٭ کہ چون سرگشتگی ہر گز درے نکشود بر رویم ٭

کلید پیچ - ایک قسم کا پیچ ہوتا ہی کہ رقعہ کو سر کلید کی طرح لپیٹ دیتے ہیں اور بھیجتے ہیں - محسن تاثیر - بہ تمہید صد کشا دبود اضطراب ما ٭ کار کلید پیچ کند پیچ و تاب ما ٭

کلاہ نمد - فقیروں کے پہننے کی ٹوپی جو نمدے سے بناتے ہیں - شوکت بخارا - سنجاک کو سے تو ای قبلہ سر افرازان ٭ بسر کلاہ نمد دیدہ ایم افسر را ٭

کلاہش در ہوا می رقصد - نہایت خوشی کی حالت میں ہی - زلالی - خور از شادی کمر شد فرا شش زرش ٭ ہنوز اندر ہوا رقصد کلاہش ٭

کلک شکر - نیشکر یعنی گنا جو مشہور ہی - انوری - ز لفظ او کر اندیشہ کرد کلک شکر ٭ از ان قبل کہ میان دلش ہمہ شکر ست ٭

کلہ شیر - شیر کا چہرہ جو اکثر باغات میں نہر کے پانی نکلنے کی جگہ بناتے ہیں اور اس سے پانی نکل کر حوض میں پڑتا ہی - میر محمد افضل ثابت - دہان شیر فلک شد تنور این طوفان ٭ چو آب حوض کہ آید برون ز کلہ شیر ٭

کلہ منار - وہ مینار جس میں دشمنوں کے سر رکھ کر بنایا جاے - رضی - بہشت خالی ازین رہ آخرت گذر ہست ٭ بسان کلہ منارت اگر ہزار سر ست ٭

کلہ نگار - فراش جو فرش بچھاتا ہی - بدر چاچی - فرمان صد ورہ بانہت کہ آئین دلفریب ٭ بد افکند کلہ نگاران پر ہنر ٭

کلہ پز کلیچہ پز - کلہ پکانے والا اور کلیچہ پکانے والا - طاہر وحید کلہ پز کی تعریف میں - مرا کلہ پز کردہ بدست و پا ٭ خبر نیست از پا و از سر مرا ٭ خواجہ نظامی - ز آتش گل باغ جمشید بود ٭ کلیچہ پز خوان خورشید بود ٭

کلہ ناقوس - سنکھ جو عبادت گاہوں میں منہ سے بجاتے ہیں - میر فضل ثابت - عجب کہ دم زند از نالہ تا نخبہ صدو بند ٭ جس بیج درہم کردہ کلہ ناقوس ٭

کلاہ شب پوش - وہ ٹوپی جو رات کو پہنتے ہیں - محمد قلی سلیم - سر من بی چو شود گرم با رشاہ خودم ٭ چو شمع افسر من شد کلاہ شب پوشم ٭

کلہ بنگ - بھوڑی سی بتی بنگ کی مٹھی بھر بنگ جو بنگی گھوٹ کر پیتے ہیں - فوقی یزدی - بہ پیچ زنیم کلہ بنگ منبا رغ از قید آسمانیم ٭

کلک کبوتر دم - وہ قلم جو تراشا ہوا ہو - سعید اشرف - گرنہ شوق دل از کلک کبوتر دم رقم ٭ نامہ زین لفریب خود بال کبوتر بشود ٭

کلاغ گرفتن - زدن - طعنہ مارنا - سرزنش کرنا - شاہ طاہر خندی - زاغ گیر دہیہ بلبل شوریدہ کلاغ ٭ غنچہ شوخ زند خندہ و نرگس چشمک ٭

کلام نرم کردن - سخن سنجیدہ و ملائم کہنا - صائب - گذشت عمر و نکردی کلام خود را نرم ٭ ترا چہ حاصل ازین آسیای دندان ست ٭

کلاہ احمد سر محمود نہادن و گذاشتن - دوسرے شخص کے مال پر ہاتھ دراز کرنا - درویش والہ ہروی - بے بلاکت بدست توبہ فتادم ٭ بر سر شنبہ کلاہ جمعہ نہادم ٭

کلاہ از سر خود برداشتن - اپنا حال لوگوں کے آگے ظاہر کرنا - نظامی - ز سر ترک برداشت گفتا منم ٭ ہژبری کز ینگونہ شیر افگنم ٭

کلاہ از سر برداشتن - بھید ظاہر کرنا - طاہر وحید - یعنی ز سوز عشق خبر دہ دہ پریشانی ٭ ز رنگ شمع برداری اگر از سر کلاہ من ٭

کلاہ از سر انداختن - افگندن - افتادن - مشہور و معروف ہیں - صائب - در تماشائی تو افتاد کلاہ از سر چرخ ٭ خبر از خویش نداری چہ قدر رعنائی ٭ ولہ - نگند از گردنکشان عالم خاک ٭ کلاہ عقل تماشائی طاق ابروئیش ٭

کلاہ بر آسمان افگندن - انداختن - بہت خوش ہونا خوشی کرنا - سلمان ساوجی - بوستان بر دوستان افشاندہ زین بہجت نثار ٭ آسمان بر آسمان انداخت زین شادی کلاہ ٭ نظامی - قبایخان اعظم - نظر بروی تو خورشید ناگہان انداخت ٭ کلاہ خویش ز شادی بر آسمان انداخت ٭

کلاہ شکستن - ٹیڑھا کرنا - گوشہ کلاہ کا فخر کرنا - اپنی بڑائی و اعزاز کا اظہار کرنا - صائب - حسن چون آرد بجنگ دل سپاہ خویش را ٭ بشکند بہر شگون اول کلاہ خویش را ٭

کلاہ گوشہ شکستن و خستن - غرور و فخر ظاہر کرنا - صائب - بہ غنچہ سر کہ بلبست جگر قناعت کرد ٭ کلاہ گوشہ تو اندر ز رنگا شکست ٭ لوئی شیروانی - بہیچ سر بر آستانت نسود ٭ کہ کلہ گوشہ بر سپہر شکست ٭

کلاہ نہادن - تاج پہنانا - عزت دینا - آبرو بڑھانا - میر خسرو - شاہ و بدش چو بپیر کار آگاہ ٭ بولی عہد لیش نہاد کلاہ ٭

کلک بر سر کسی بستن - کسی کے سر پر بہتان باندھنا - آفت میں مبتلا کرنا - محسن تاثیر - خندہ بر برق زندگی ما خاکستر ما ٭ چہ کلک بستۂ ای آتش می بر سر ما ٭

کلک در بنان افگندن - قلم دوات میں ڈالنا - لکھنے کو مستعد ہونا - خواجہ سلمان - ابر مے گرید چو کلک اندر بنان می افگند ٭ چرخ مے نالد چو تیر اندر کمان می آورد ٭

کلوخ چینی کردن - کمی اور کجی عمارت کرنا - سالک قزوینی - کسیکہ فکر خیالات خود متین نکند ٭ ز فکر خام بغیر از کلوخ چین نکند ٭

کلاہ نمدی بال تدرو - یہ ایک قسم کی ٹوپی نمدے کی ہوتی ہے اور گوشے اسکے تدرو کے پروں کی طرح بنائے جاتے ہیں - میر نجات - کاکلش سنبل و عارض گل بالائش سرو ٭ بر سرش طرفہ کلاہ نمدی بال تدرو ٭

کلاہ زنگلہ - چوبی ٹوپی جسکے ساتھ زنگولے بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور گنہگاروں کے سر پر رکھکر انکی تشہیر کرتے ہیں - شرف الدین شفائی - مباد محتسب طبع بہر رسوائی ٭ کلاہ زنگلہ بجو یہ نہد مسرت ٭

کلاہ بارانی - وہ ٹوپی جو بارش میں پہنتے ہیں - درویش والہ ہروی - بچشم از تو جدا گفتہ ام ز اشک طریق ٭ بسر ز ابر نہادم کلاہ بارانی ٭

کلاہ تتری - تتاری ٹوپی جو امرا پہنتے ہیں - سعدی - حاجت بکلاہ ترکی داشتنت نیست ٭ درویش صفت باش و کلاہ تتری دار ٭

کلک فرنگی - وہ قلم جسمیں سیاہی بھری ہوتی ہے الگ سیاہی کی حاجت نہیں ہوتی - ارادت خان واضح - احوال دل بکلک فرنگی نوشتہ ایم ٭ خوش سرمہ در گلوے قلم کردہ ایم ما ٭

کاف با میم

کمان پشت - کوز پشت - کبڑا خم کمر - ظہوری - قسم بصید فگن خم کشش کمان پشتی ٭ کہ آہ راز دستش تیر بر نشان آمد ٭

کم بخت - کم طالع - بے دولت - مفلس - نادار - مولف - بیچو دل دلدار بودی بر شبم اندر کنار ٭ بخت کم بختم اگر بیدار بودے کاشکے ٭

کمر وحدت - کمند وحدت - سوت یا ریشم یا چمڑے سے ایک قسم بنا کر فقرا گلے میں یا کمر میں باندھتے ہیں ہندی میں اسکو گوٹ بولتے ہیں - ابو طالب کلیم - تو صید عالم قدسی درین نشست ٭ کمند وحدہ … خویش افگن ٭ صائب - ز سر طالطاف این … بے کنار … ٭ کہ خوشتر از کمر وحدت … گرد اجم ٭

کماچ - ایک قسم کی روٹی کا نام ہے اور نیز وہ گول ٹکیا کاٹھی کی جو خیمہ کی چوب کے سر پر رکھکر چوب خیمہ کے نیچے ہستادہ کرتے ہیں یعنی ٹوپیا - بگفتا کاغذی کو کاغذ رنگین پرکار سے ٭ کہ بہند از کماچ سرخ از خشخاش افشانی ٭

کمان بلند - بلند کمان مقابل کمان کوتاہ - محتشم کاشی - ہزار جان گرامی فداے ناوک نازی ٭ کہ گاہ گاہ شود پرکش از کمان بلندش ٭

کمربند - کمر باندھنے والا اور معشوق اور وہ چیز جس سے کمر باندھیں اور امر کمر باندھنے کا یعنی کمر کو باندھ - حکیم سوزنی - جز کمر بند زمین بوس تو نیست ٭ ہر کہ بر روے زمین تاجور است ٭ میر خسرو - کمر بندست آمد پیش من خندہ زنان امشب ٭ توقف کن کہ یکدم بشگرم پروین و جوزا را ٭

کماندار - کمان والا - تیر چلانے والا - ابو طالب کلیم - بر سر خاکش بجاے شمع تیرے می نہند ٭ ہر کہ قربان کمانداران ابرو میشود ٭

کمان گر - کمان گوشہ - کمان گیر - معنی اسکے مشہور و معروف ہیں - میرزا طاہر وحید - کمان گر کہ حاشم نشست ٭ اورا لتیان … بکشد دل از وہر زمان ٭ نظامی - کمان گوشۂ ابروش خم گرفت ٭ بتیر … گوینده را دم گرفت ٭ طالب آملی - ناوک عشقم گذشت … قضا ٭ گر سنگ خارہ مے آییم تا پر میرویم ٭

کمر بر کمر - کمر در کمر - پاس پاس متصل کہ ہمیں ملی ہوئی - نظامی - کمر بر کمر کوہ بر کوہ راند ٭ گروہ و گروہ خبیث جہاند ٭ ولہ - غلامان گل چہرہ و دلربای ٭ کمر در کمر گرد تختش بپای ٭

کمر دار - کمر بستہ - مستعد و تیار -

کمسار - گھوڑے کا تنگ -

کم عمر - جس شخص کی عمر کم ہو - نظامی - سہ چیزست کان در ستہ آرامگاہ ٭ بود ہر سہ کم عمر و گردد تباہ ٭ بہ ہندوستان اسپ و در پارس پیل ٭ بچین گربہ زینسان نماید دلیل ٭

کمان کش - کمان کھینچنے والا - تیر مارنے والا - رضی دانش - خراش سینۂ بےخبر دل بہ درد آورد ٭ کمان کشان ہمہ مغرور ساقی نشست اند ٭

کمان پاک - سخت کمان اور زورین کمان - سالک قزوینی - دارد کلام پاک دلان بیشتر اثر ٭ زور خدنگ بیش بود از کمان پاک ٭

کم سال - کم عمر - لڑکا خرد سال - عبد اللہ ہاتفی - جہان دیدہ تیر … پیر … ٭ کم سال و نادان و بے حاصلی ٭

کمان از طاق بلند آویختن - کمال کا دعوی کرنا - صائب -

ز زور طبع معنی آفرین صائب طمع دارم ** کز بطاق بلند عرش آویزد کمان من **

کمان افراشتن - کمان اُٹھانا - تیر چلانے پر مستعد ہونا - میر معزی - بستہ گردد دست مکاران چو بکشاید کمین ** پست گردد روی جباران چو افرازد کمان **

کمان انداختن - **افگندن** - کمان پھینک دینا - جنگ سے باز آنا - سنجر کاشی - ہلال را بحریفان نمودہ ام سنجر ** کہ پیش ابروی آن جنگجو کمان انداختند ** علی خراسانی - شہر یک محنت من چون شوند بیدردان ** فگندہ اند حریفان کمان دعوی را **

کمان بر سر کسی زدن - کسی کو تیر مارنا - ابو طالب کلیم - مژگان تو خنجر برخ ماہ کشیدہ ** ابروت زدہ بر سر خورشید کمان را **

کمان بطاق بلند گذاشتن - **آویختن** - کمال کا دعویدار ہونا - اپنے آپ کو صاحب لیاقت سمجھنا - رابط اصفہانی - حسن تو بگلبرگ تر آمیخت جہان را ** ابروی تو بر طاق مہ آویخت کمان را ** ابو طالب کلیم - بر چرخ این ہلال نباشد کہ دست حسن ** آویختہ بطاق بلندی کمان تو **

کمان بلند کردن - اُٹھانا کمان کا بقصد تیر چلانے کے - میرزا ملک مشرقی - کمان زہ ز تیر عظم چگونہ خواہم من ** کہ ذرہٴ نتوانم بلند کرد از جاش **

کمانچہ زدن - شور شس میں لانا - مولانا جامی - مینخواستم کمانچہ زدن اہل زہد را ** این کار را بکام دل من رباب کرد **

کمان را بزہ کردن - **کمان را چلہ کردن** - کمان کو چلہ چڑھانا یا تیر چلانے کے لیے - میرزا صائب - از چشم غزالان حرم خواب سفر کرد ** ابروی تو روزی کہ بزہ کرد کمان را ** ولہ - این کمان را از زبردستان کہ خواہد چلہ کرد ** بادہ پر زور چون نگشود ابروی چین ترا **

کمان بہمن - **کمان شیطان** - **کمان رستم** - قوس قزح جو مقابل سورج کے ابر میں نمودار ہوتا ہے - محمد قلی سلیم - خدنگ غمزہ بجز قصد اہل دین نکند ** حذر کہ ابروی خوبان کمان شیطان ست ** نظیری نیشاپوری - بجز او کہ زیر آورد ز فلک کمان رستم ** در چارہ ہر اگر فتہ بصلابت ہفت خوانی **

کمان را زہ کردن - کمان کو چلہ کرنا - سعدی - مگذار کہ زہ کند کمان را ** دشمن کہ بہ تیر میتوان دوخت **

کمر تنگ بستن - کسی کام پر مستعد ہونا - نظامی - عنان تاب شد شاہ فیروز جنگ ** کمر بست بر کین بد خواہ تنگ **

کمر سیخ کردن - کمر سیدھی کرنا - سانس لینا - آرام پکڑنا - محسن تاثیر - از نخستین نگہت مست و خرابم کردی ** کمری سیخ نکردم کہ کبابم کردی **

کمر شکستن - کمر ٹوٹنا - یا توڑنا - ملا قاسم مشہدی - کمر عتاب شکست ** دریای فلک شتاب شکست **

کمر گشادن - **گشودن** - **باز کردن** - **گسستن** - ترک تردد کرنا یا باز رہنا کسی کام سے - نظامی - چو من زین ولایت کشادم کمر ** تو خواہی ستان افسر خواہ سر - صائب - درین خرابہ کمر باز میکند سیلاب ** بگوش دل ویرانہ این شتاب کجاست ** ولہ - غلط سنجان عامی دشمنان اند ** کمر در صحبت اغیار مگسل **

کمر کشیدن - استوار کرکے باندھنا کمر کا - نظامی - کمر بر کلاہ فریدون کشید ** سر تخت بر تاج گردون کشید **

کمر زبان - فرمان بردار - اطاعت کرنے والا اور وہ شخص جو مالک کے حکم میں عذر نکرے - نظامی - ہمانا کہ عشقم بزرین کمر داشت ** چو من کم زبان عشق بسیار داشت **

کم زدن - اپنے عجز کو ظاہر کرنا - میرزا صائب - در کم زدن زیادتی آنہا کہ دیدہ اند ** چون شمع میکنند دہان در دہان کار **

کم سخن - جو بات کم کرے بہت نہ بولے - عبد اللہ ہاتفی - با کم سخنیش متوان ساخت ** آسیب بلا کم نگاہ ہست **

کمند حلقہ کردن - شکار یا جنگ کے لیے مستعد ہونا صائب - میکند ہردم کمند حلقہ از تار نگاہ ** نیست سیری مردمان چشم او را از شکار **

کمان ابرو - محبوب کی تعریف میں کہا جاتا ہے میرزا صائب - زآہ آتشین من نشد نرم آن کمان ابرو ** چہ حرفست اینکہ از آتش کمان ہر دم میگردد **

کمان حلقہ - وہ کمان جسکا چلہ نہو - شفیع اثر - بہ کیش ہوشمندان خود نمائی نیست دستورم ** کسے آگہ نباشد چون کمان حلقہ از زورم **

کمان کوتاہ خانہ - جس کمان کا خانہ چھوٹا ہو - یغمای یزدی - از پستی دیوار و در کاشانہ ** بر گوشہ نشین مخند ای فرزانہ ** از تیر دعای او حذر کن زنہار ** پر زور بود کمان کوتاہ خانہ **

کمان گروہہ - گولہ چلانے کی کمان جسکو ہندی میں گلول اور غلیل کہتے ہیں - طالب آملی - ہمتش در کمان گروہہ نہد ** نہ فلک را چو یک گلولہٴ خاک **

کمرگاہ - کمر کی جگہ یعنی کمر جسکو میان بھی کہتے ہیں - خواجہ سلمان - موئیت نہاد سر بکمرگاہ تو مگر ** آمد کہ با تو دست ہوس در کمر کند **

کمر ہفت چشمہ - ایک قسم کے کمر بند کا نام ہے جو مرصع بجواہر ہوتا ہے چونکہ سات قسم کے جواہرات اُسپر نصب ہوتے ہیں ہفت چشمہ اُسکو کہتے ہیں اور بادشاہ اُسکو کمر پر باندھتے ہیں - نظامی - شہ ہفت کشور برسم کیان ** یکی ہفت چشمہ کمر بر میان **

کم کاسہ - بخیل و ممسک و خسیس آدمی - یحیی کاشی - ہمت کم کی سنگی
از خیست کا فرنعمتان ہ پیش من بہتر بود در بند مہمانی مباش ۞
کم بغلی - کم دولتی - مفلسی - ناداری - عبد الغنی قبول - گاہی گاہی
بسر مے آید ۞ معنی کم بغلی ہا این ست ۞
کم بودگی - بیقدری و کم استطاعتی و بے عقلی و بے نفسی - نظامی
دگر بارہ گفت این چہ کم بودگیست ۞ شفاعت درین پردہ بیہودگیست ۞

کاف با نون

کند و کوب - تشویش و بیقراری و اضطراب - سعدی - نگفت اندر
دکار کردی نہ چوب ۞ شب و روز زو خانہ در کند و کوب ۞
کنارہ گرد - وہ جو اطراف پر پھرے اور درمیان نہ آئے - صائب
کنارہ گرد خطرہای بیکران دارد ۞ میانہ رو زدو جانب نگاہبان دارد ۞
کند سواد - جو لکھنے میں کند ہو - سنجر کاشی - از تلامیذ تو ابلیس
یکی کند سواد ۞ ز مریدان تو محمود یکے حلقہ بگوش ۞
کند بصر - کند بیان - کند جواب - کند چشم - کند دست -
کند ذہن - کند رائے - معانی انکے معروف و مشہور ہین - سعدی
دگر کند رائے ست در بندگی ۞ زجان داری افتد بجز بندگی - ظہوری
عالج کند چشمی کردہ ام از تیز بینا ئیم ۞ کنم وقت تماشا ہمچو عینک
جا بچشمہا ۞ مخلص کاشی - نازک رقمان دست ندارند بہ صنعت
گر ذوق تماشا نبود کند بصر را ۞ نور الدین ظہوری - خود میدہم
انصاف زحد رفت سوالم ۞ از تیز زبانیم لبش کند جواب ست ۞
کندہ کار - کندہ گر - وہ شخص جو نام نقش وغیرہ کے برتنون پر کندہ کا
کام کرے اور اس کام کو کندہ کاری کہتے ہین - طغرا - عجب دارم
از کندہ کار قدح ۞ کہ بر داشت دست از کنار قدح ۞
کنش کنشت - کام اور عمل - طاہر وحید - ندارد بآن حسن
عمل و کنش ۞ کسی پیش زین طاقت سرزنش ۞
کنار خشک و اشتن - مفلس و تہیدست ہونا - محمد قلی سلیم
وصل تو گران بہاست ای گوہر ما ۞ ہمچون دریا کنار خشکی داریم ۞
کنارہ ورق چیدن - ورق کا گوشہ کاٹنا - طاہر وحید -
کنارہ ورق شعلہ انچیدہ کسی ۞ ز شرم نامہ من روسیاہ شد مقراض
کنایہ زدن - کنایہ آمیز بات کرنا - طاہر وحید - گفتی من کہ چشم
ز ابرو کنایہ ہست ۞ گو میزنی کنایہ نگار این ہمین ۞
کند زدن - جست مارنا + ورم کرنا - بھاگ جانا - الگ ہو جانا -
ملا طغرا - ندارم ورنہ چو تیر از کمان جستہ ۞ از ین معانی سراسر

بے حلاوت میزدم کندے ۞
کندن - اکھاڑنا - جدا کرنا - چگنا - بھاگنا - جدا ہونا - مفید بلخی
از سایہ من آن بت پرکینہ میکند ۞ چون میکشی کہ از شب آدینہ
میکند ۞ واری از دمے کہ وصلش در دست آورد ۞ ماست کشیدہ
نگین سینہ مے کند ۞

کاف با واو

کور آب - ریتا چمکتا ہوا جو دور سے پانی نظر آتا ہے سراب بھی اسکو
کہتے ہین - عنصری - بہر آب از روے سوے کور آب ۞ کم
کنی جان ہمہ در ہوا بی شور آب ۞
کوزہ نادیدہ آب - کورا کوزہ مٹی کا جسمین پانی نہ پڑا ہو - قاسم مشہدی
ز اشتیاق و دیدنت وارم و لے ۞ تشنہ تر از کوزہ نادیدہ آب ۞
کوتاہ دست - کوتاہ دیدہ - کوتاہ بین - معانی انکے مشہور ہین -
سعدی - میان دو بدخواہ کوتاہ دست ۞ نہ فرزانگی باشد ایمن
نشست ۞ ولہ - در او ہم اثر کرد میل اثر ۞ نہ بیلے چو کوتاہ بینان
بشر ۞ صائب - از رشک خواہند جاے بوسہ نا فہمیدگان ۞
در حرم محراب میجویند کوتہ دیدگان ۞
کوچہ سلامت - وہ رستہ جسمین کوئی خوف نہو - صاحب دیوانہ
شو کہ عشرت طفلانہ جہان ۞ در کوچہ سلامت زنجیر بودہ است ۞
کودک سرشت - جسکا مزاج طفلانہ ہو - نظامی - ہمہ کو سہ و پیر و
کودک سرشت ۞ بخوبی روند ارچہ ہستند زشت ۞
کور بخت - بدبخت - بدنصیب - بدقسمت - خواجہ سلمان
ور نہ خفاش ست کور از کور بختی زانکہ او + دشمنی در خفیہ با خورشید خاو میکند +
کودک مزاج - کودک مشرب - جسکا طفلانہ مزاج ہو - صائب -
آہ کز کودک مزاجی ہاے ابناے زمان ۞ از سجد ایام طفلی را
ز سر باید گرفت ۞ محسن تاثیر - آن دنی طبعان کہ مغروران جاہ و
منصب اند ۞ از خر و بیگانگی چند کودک مشرب اند ۞
کوہ سنج - وزن دار اور بھاری جو وزن مین نہ آسکے سواے
تخمینہ کے - نظامی - یکی را بدست انگند کوہ گنج ۞ بسنجیدہ ہا میدہد کوہ سنج +
کوچہ بند - وہ دیوار جو کوچے کے اخیر مین بنی ہو - صائب -
سیلاب را ملاحظہ از کوچہ بند نیست ۞ ز نہار پیش دیدہ من آستین مگیر ۞
کوچہ گرد - کوچون مین پھرنے والا - یلہ گرد - رضی دانش - طفل
اشکم کوچہ گرد از آستین بیکسیست ۞ دیدہ بر حالش ندارد دل گرفتار خود ست +
کوزہ چون پر شود آب از سرش میریزد - مثل ہے یعنی جب آدمی

کمال کو پہنچتا ہے زوال کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔
کوزہ گر از کوزہ شکستہ آب میخورد۔ مثل ہے یعنی کمہار کو ثابت برتن
مین پانی پینا نصیب نہین ہوتا موچی ہمیشہ ننگے پانون نظر آتا ہے۔
کوہ اسد۔ ایک پہاڑ آتشبازی کا نام ہے۔
کوچہ شکر۔ اصفہان مین ایک تنگ کوچے کا نام ہے۔ محسن تاثیر۔
حرف زان لب چہ عجب مختصر آید بیرون ٭ باید از کوچۂ تنگ شکر آمد بیرون ٭
کوزۂ قمار۔ وہ کوزہ جسمین آدمی قمار کی بساط پر قمار کا ڈالتا ہے۔
کوزہ گر۔ کوزہ ور۔ کوزہ بنانے والا اور مالک کوزے کا۔ میر خسرو۔
یا غ زہر ضخیمہ شدہ کوزہ ور ٭ گردش چرخ از گل تر کوزہ گر ٭
کوفتہ خاطر۔ رنجیدہ خاطر۔ پریشان۔ درویش والہ ہروی۔
از تنگی جا ورد توشد کوفتہ خاطر ٭ در دو تو دل در الم انداز الم ہم ٭
کوفتہ خوار۔ دیوث بے غیرت۔ زنا کی کمائی کھانے والا۔
کون خر۔ احمق و بے تمیز آدمی۔ سعدی۔ گر بے ہنر بمال کند
کبر بر حکیم ٭ کون خرش شمار اگر گاو عنبرست ٭
کوہ تنو۔ تفت کے علاقے مین ایک پہاڑ کا نام ہے۔ محسن تاثیر۔
قرص مہ وخور کہ بر تر آمدہ ٭ از کوہ تنو با ہر آمدہ ٭
کوہ جگر۔ آدمی بہادر اور شجاع۔ خاقانی۔ دریاکشان کوہ جگر
بادہ بکف ٭ کز لفت باوہ لرزۂ دریا برافکنند ٭
کوزہ باز۔ کوزہ کے ساتھ کھیل کرنے والا۔ ملا طغرا۔ گل نغمۂ وصلا
راز اہتزاز ٭ کند بر سر جاہ خود کوزہ باز ٭
کوزہ پز۔ کوزہ پکانے والا کمہار۔ طاہر وحید۔ نشد پختہ از کوزہ پز
نان من ٭ از او سوخت ہر چند ایمان من ٭
کوکب افروز۔ ستارہ روشن کرنے والا۔ حسین ثنائی۔ آفتابی کہ
از زوال بری ست ٭ کوکب افروز آسمان من ست ٭
کوتاہ اندیش۔ جو شخص مآل اندیش نہو انجام کار کو نہ سوچے۔
کوہ کش۔ کناس میلا اٹھانے والا۔
کورنش۔ ترکی مین آداب تسلیمات۔
کوکب کفش۔ وہ میخین جو جوتے مین لگاتے ہین۔ کمال اسمٰعیل۔
کوکب چرخ ہمچو کوکب کفش ٭ میدہد بوسہ بر کف پایت۔
کوہ تیغ۔ بہت سی تلوارین۔ نظامی۔ برون آمد از پردہ کہ
چیرہ منع ٭ زہر تیغ کوئی یکے کوہ تیغ ٭
کوتہ حرف۔ کوتہ زبان۔ کوتہ نظر۔ کوتاہ نفس معانی اسکے مشہور معروف
ہین۔ ظہوری۔ چہ بیجا ست در قصۂ اہل راز ٭ زکوتاہ حرفان

زبان دراز ٭ صائب۔ برکشتی می نغمۂ نے بادہ را دست ٭ ای
مطرب کوتاہ نفس بانگ بہ نی کن ٭ ولہ۔ نیست از کوتہ زبانی
بر لبم مہر سکوت ٭ تیغہا پوشیدہ در زیر سپر باشد مرا ٭ ولہ ہمان
دسوزن کوتہ نظر در آزارم ٭ اگر چہ ہمچو مسیحا فلک سوار شدم ٭
کور نمک۔ وہ شخص جو پاس نمک کا نرکھے اور اپنے ولی نعمت کا حق اد انکرے
کوچک دل۔ خوش خلق رحم دل جو سب کے ساتھ اختلاط
رکھے۔ صائب۔ سہل باشد عشق گر از خاک بردارد مرا ٭ مہر از
کوچک دلی بسیار شبنم را الوا ٭
کور دل۔ دل کا اندھا۔ باطنی اندھا۔ میر خسرو۔ دیدہ کن کوردلان
خیال ٭ سرمہ کش دیدہ وران کمال ٭
کور چشم۔ نابینا۔ اندھا جسکو نظر نہ آئے۔
کور فہم۔ عقل کا اندھا۔
کوہ سیام۔ وہ پہاڑ جس سے ابن مقنع نے اپنا چاند نکالا تھا۔
استاد فرخی۔ اسپ تو ہنگام جنبش نسبتے دارو زباد ٭ وقت
آزرامش نہادی وارد از کوہ سیام ٭
کوتاہ شدن۔ تمام ہونا۔ ختم کرنا۔
کوتاہی کردن۔ تقصیر کرنا۔ دریغ رکھنا۔ باقر کاشی۔ تا بپاے دار
آمد از پی شمعون کنان ٭ ہیچ جا در حق من زنجیر کوتاہی نکرد ٭
کوچۂ خموشان۔ قبرستان جہان مردے دفنائے جاتے ہین۔ ملا طغرا۔
باد شہادت عشق در کوچۂ خموشان ٭ کا سودگی زیابر دغو غای زندگانی ٭
کوچہ دادن۔ رستہ دینا۔ رستہ کھولنا۔ محسن تاثیر۔ چرخ از
جان شنو دنا ایجا کا دمرا ٭ زلف شب کوچہ دہد آہ سحرگاہ مرا ٭
کوچیدن۔ کوچ کرنا۔ چل دینا۔ فوقی یزدی۔ وفا جو دید کہ انصاف
از جہان کوچید ٭ فغان ز سینہ برآورد و گفت کو پدرم ٭
کور باطن۔ منافق۔ کند فہم۔ کج طبع۔ صائب۔ ندارد چشم ازین
کور باطنان انصاف ٭ کہ گشتہ است بہ عنقا ہم آشیان انصاف ٭
کوس بر پیل بستن۔ جنگ پر مستعد ہونا لشکریون کو ہاتھیون پر
لاد لینا۔ عبد اللہ ہاتفی۔ چو بر پیل بندم کوس نبرد ٭
برآریم از دست قبچاق گرد ٭
کوس بر کشیدن۔ کوچ کرنا۔ روانہ ہونا۔ نظامی۔ بہندوستان
بر کشیدیم کوس ٭ چو ہندو شد از گرد مہ آبنوس ٭
کوس بلند کردن۔ آوازہ ڈالنا۔ شہرت دینا۔ مشہور کرنا۔ نصیرائی
بدخشانی۔ ز بسکہ نرد وفا با کسی نباختہ ٭ بلند ساختہ کوس بیوفائی را ٭

کوس خوردن - ہمیشہ اور سب پر پہنچنا - فردوسی - زنا گہ برد
اندر افتاد طوس ؛ تو گفتی بپیل دمان خورد کوس ؛

کوس زدن - نقارہ بجانا - فیضی - آن ساز نما کہ چون زنی کوس
فیروز جہان ہزار افسوس ؛

کون جنبان - رقاص یعنی ناچنے والا اور مسخرہ آدمی - محمد قلی سلیم
تیز آموز در صحن اسماع بیخودی کردن ؛ کہ سبحہ وار باشی چند کون جنبان محفلہا ؛

کون جنبانیدن - تعظیم دینا - ناچنا - رقص کرنا - خواجہ سلمان -
خواجہ از فرط بزرگی ہمچو کون شد از دماغ ؛ لاجرم بہر بزرگان
کون نہ جنباند زجای ؛ زاہیت وضع بزرگی گیرمن دارد کہ او ؛ چون
نہ بیند کودکے از دور برخیزد زجاے ؛

کون خاریدن - چوتڑ کھجلانا - پشیمان ہونا - دنیا کی مذمت مین -
اولش ہر کہ پشت پای نزد ؛ آخر از دست او بخارد کون ؛

کون پیش شکم نہادن - پیٹ کے خاطر کون دینا - سلیم - ای سر تا پا
تن تو آیینۂ صفا ؛ چون تیغ مژہ بر آمدی خوش ز غلاف ؛ رفتی
بضیافت حریفان آخر ؛ کون را پیش شکم نہادی چون ناف ؛

کوہساران - کوہستان - پہاڑ کا ملک - صائب - راہرو را بال
پرداز است سختیہای سر ؛ کوہساران میشود سنگ فسان این سیل را ؛

کوتاہ پاچہ - کوتاہ دال و کوتاہ قد اور نام ایک جنگلی جانور کا کہ
بکری کے قد کے برابر ہوتا ہے گوزن کی صورت پر اور اسکی پشت پر
سیاہ خال ہوتے ہین سینگ بھی رکھتا ہے ہندی مین اسکو چیتل کہتے ہین طغرا
ز کوتہ پاچہ محبوبی نہ دارد ؛ صنوبر دلفریب از سرفرازی ست ؛

کوچگاہ - کوچ کی جگہ جس جگہ سے لشکر کوچ کرے - نظامی -
شنیدم خبر پیش از این کوچگاہ ؛ با لبرز خواہم بریدن برد راہ ؛

کور نگاہ - کور چشم - اندھا - نابینا - ظہوری - ابرو چشم زد
کور نگاہان بکنیم ؛ پردہ از گرد رخ بافتہ رخسارہ ما ؛

کور ۂ فقاع خانہ - پڑاوہ انیٹ پکانے کا - یحیی شیرازی - زند
از ز دلش آتش بانہ ؛ بسان کورۂ فقاع خانہ ؛

کون سوختہ - ابرہ - بے ننگ و ناموس - غزالی - در گلشن
عشق بیقراریم ؛ کون سوختہ ہاے روزگاریم ؛

کوہ رونده - پاؤن چلنے والا یعنی ہاتھی گھوڑا - نظامی - بکوہ
روندہ در آورد پے ؛ چو پولاد گوے روان شد ز جاے ؛

کوہ - سر تا پا تمام مکمال - یحیی کاشی - گفتم چو شدند
بالاروان ؛ شہرہ گفت خیالم ز رسد کوہ کوہ ؛ سنجر کاشی -

کوہ تا کوہ ہیبت بصورت در ساخت ؛ خبر رسد کہ شود سنگ لا از کشتن فرہاد پشیمان ؛

کوتاہ پای - خرگوش جو مشہور جانور ہے میر خسرو نوبل کی تعریف مین -
بود دلیر پنجہ آہو رباے ؛ دست دراز پیش بکوتاہ پاے ؛

کاف با ہاے

کہن پیوند - خانہ زاد گھر کا پرورش یافتہ - میر خسرو - غلامی کہن
پیوند باشد ؛ نہ بندہ بلکہ خویش و ند باشد ؛

کہن لنگ - وہ شخص یا چیز جو اپنی جگہ سے ہل نسکے - نظامی - سمندر
چو پروانہ آتش روا ست ؛ ولیکن این کہن لنگ و آن خوش روا ست ؛

کہن سال - بڑی عمر کا پیر ضعیف - صائب - ریشۂ نخل کہن سال از جوان
افزون تر است ؛ بیشتر دلبستگی باشد بدنیا پیر را ؛

کہن پوستین - وہ شخص جو بسبب کبر سنی کے کہ سکے بدن کا چمڑا پوستین
کی طرح ہو گیا ہو - نظامی - کہن پوستینے در آید بجنگ ؛ چو از
ژرف دریا بر آید نہنگ ؛

کہن سلسلہ - پرانا قیدی - کہنہ زندانی - محتشم کاشی - بہر ضبطان
مجنون کہن سلسلہ ام ؛ فتنہ از گیسوی او سلسلہ خواہ است امشب ؛

کہنہ فعلہ - محیل و مکار و تجربہ کار - عبد الغنی قبول - پیر دیر شنیدم
قبول ہست خبر ؛ ز کہنہ فعلگی بادہ نوجوانان را ؛

کاف با یاے

کیر خر کون خر - احمق اور بیوقوف - باقر کاشی ایک شاعر گدا کی ہجو مین -
بو سگے خواجہ لقب بی ہنر ؛ ہر دو بہم کیر خر و کون خر ؛

کیسہ دار - وہ شخص جو ارزانی مین غلہ خریدے اور گرانی مین فروخت
کرے - میر الہی ہمدانی - از بس بر غمہاے جگر کیسہ کردہ اند ؛
دلشاد گشتہ ام کہ شدم فرد کیسہ دار ؛

کیمیای احمر - گوگرد سرخ جس سے مس کا سونا بناتے ہین - دارا بیگ جویا -
می ہین دل مردگان است اکسیر حیات ؛ بد رنگ غبار تر اہم کیمیای احمر است ؛

کینہ پرور - کینہ توز - کینہ توزندہ - کینہ خواہ - صاحب غضب
و غصہ جسکے دل مین غصہ ہو - نظامی - دلیران لصحرا اشتید ند
رخت ؛ بکین خواہ زنگی کمر کردہ سخت ؛ عرفی - آن کینہ پروری کہ
زبغض تو دم زند ؛ وان خون گرفتۂ کہ بکینت کشد رقم ؛ با تیغ روزگار
کنند قصد کار زار ؛ با قہر کردگار رمیدان نہد قدم ؛ لعل لب آملی -
لعل لب کہ شہرہ ابا شی ہیچ ہستا ہ بود ؛ چین غضب زیادہ کن ابرو
کینہ توز را ؛ سلماس - تا بود پیداست جان رشتہ مہر خفا ؛
پیش رخ کینہ توزندہ کی یابیند کسے کین از

کینہ دار - کینہ کوش - کینہ سنج - کینہ کش - کینہ گر مشہور الفاظ ہین - میر خسرو -
باش کہ تا در رسد آن کینہ کوش ؛ مہر ابیند و ماند خموش ؛ دلہ بترس
از کینہ دار نیم گشتہ ؛ کہ بدگیرند مار نیم گشتہ ؛ نظامی - سپاہ
فرستادن نزل و گنج ؛ چرا با ہزبران شدی کینہ سنج ؛ فردوسی -
چو او کینہ کش باشد و رہنما ؛ سواران کشتی ندارند پای ؛ جلال اسیر -
رسوم دوست پرستی زمن ہمی آید ؛ طریق کینہ گری با عدو نمیدانم ؛
کیمیا ساز - کیمیا سنج - کیمیا گر - کیمیائی - مشہور الفاظ ہین - نظامی -
بگو اے سخن کیمیای تو چیست ؛ عیار ترا کیمیا ساز کیست ؛ میر خسرو -
کیمیا سنج کو بہ مقصود ؛ کردہ حل جملہ تو پای وجود ؛ سعدی - کیمیا گر
بغصہ مرد و برنج ؛ ابلہ اندر خرابہ یافتہ گنج ؛ نادم گیلانی - زعکس
زخم خاک ہر کوچہ زر شد ؛ ترا کیسہ خالی و من کیمیائی -
کیسہ مال - حمامی جو کیسہ ہاتھ پر چڑھا کر لوگون کے بدن کو مالش
کرے - ملا عطا اعجاز - دامن کف پر زگوہر ہاے روحانی کنی ؛
دست گر در کیسہ خالی کنی چون کیسہ مال ؛
کیسیدن - رنجیدہ ہونا - آزردہ ہونا - ایک طرف جانا - ایک جگہ سے
دوسری جگہ جانا - سنجر کاشی - است عشقم کیسیدہ ام از ملت عقل ؛
کمرہ آن کس کہ ندانست کہ ملت نیست ؛
کیسہ از چیزی دوختن - اُس چیز کا مالک ہونا - نظامی - زگنجش
زمین کیسہ بر دوختہ ؛ سمن سیم و خیری زر اندوختہ ؛
کیسہ بر چیزی دوختن - فائدے کی امید کسی چیز سے رکھنا - صائب -
پسند بیز دو غ کنم از جفای تو ؛ آن کیسہ ہا کہ دوختہ ام بر وفاے تو ؛
کیسہ بسود و زیان پر کردن - نفع و نقصان اپنے ذمہ پر لینا - ظہوری -
گرہ تیغش اجل و بد دشتی ؛ کیسہ پر کنم بسود و زیان ؛
کیسہ بصابون زدن و کیسہ پاک انداختن - خالی کرنا کیسے کا
اور خرچ کرنا جو کچھ اُسمین ہو - خاقانی - خاقانی از چشم و زبان پیش
تو شد گوہر فشان ؛ تو عمر اد را بہر زمان کیسہ بصابون میزنی - حافظ -
کیسہ سیم و زرت پاک بباید انداخت ؛ این طمع ہا کہ تو از سیمبران میداری ؛
کیبیدہ - بروزن پیچیدہ - آزردہ و رنجیدہ -
کیر کاشی - یہ چیز کاشان مین بشکل آلہ تناسل کے بناتے ہین بیلورہ
بھی اُسکو کہتے ہین اور طبق زن عورتین اسکو استعمال کرتی ہین -
شرف الدین شفائی - اگر ش حاجب او فتد بجلال ؛ میکند کیر کاشی استعمال ؛

چوتھی فصل

محاورات و اصطلاحات اردو کے بیان

کاف با الف

کاتک کی کتیا - چھنال عورت - بدکار عورت کیونکہ کتیا کاتک کے
مہینے مین مستی مین آجاتی ہے -
کاٹ پھانس کرنا - کسی کی آمدنی مین سے کچھ رکھ لینا - غبن کرنا - بھانجی مارنا
کاٹ چھانٹ کرنا - غبن کرنا - خیانت کرنا - کسی کی جز کاٹنا
وضع کرنا - مجرا لینا - کاٹ لینا -
کاٹ کرنا - پانی کا رستہ کر لینا - کاٹ ڈالنا - زخمی کرنا - توڑ
کرنا - جواب دینا -
کاٹ کھانا - ڈسنا سانپ وغیرہ کا نقصان اُٹھانا - گھاٹا جھیلنا -
مولانا اکبر - سانپ ہین دونون گیسوی پیچان بیشتر نامست کہ کاٹ کھاتے ہین -
کاٹ کھانے کو دوڑنا - ترش روئی کے ساتھ پیش آنا - تند مزاجی
سے بولنا - سخت تقریر کرنا -
کاٹھ چبانا - روکھی سوکھی کھا کر دن کاٹنا - بری حالت مین زندگانی
کرنا - مشکل سے اوقات بسر کرنا -
کاٹھ کا گھوڑا - لنگڑے آدمی کی لاٹھی -
کاٹھ کا گھوڑا چلنا - کاٹھ مین ٹھوکنے اور کوڑے مارنے کا اختیار ہونا
زور چلنا - صاحب حکومت ہونا - قطعہ از مولف - کر لو جو کام کر ڈالا
ہو ؛ جب تلک کاٹھ کا گھوڑا چلتا ہے ؛ ایک دن ختم ہوگا آخر کار ؛
وقت جو تھوڑا تھوڑا چلتا ہے -
کاٹھ مین پانون ٹھوکنا - قید کر دینا - حوالات مین دیدینا -
کاٹھ ہو جانا - نہایت لاغر ہو جانا - بے حس و حرکت ہو جانا - سخت ہو جانا
کاٹی اُنگلی پر نہین موتتا - یہ ایسا شوم ہو گیا ہے کہ اگر اُس سے
کہا جائے کہ ہماری کاٹی ہوئی اُنگلی پر پیشاب کر دے تو نہین کرتا
نافرمان ہے ذرا کام نہین کرتا -
کاٹے نہین کٹتا - مصیبت کا وقت کاٹنا مشکل ہے عیش کے
برسون گذر جاتے ہین معلوم نہین ہوتے
کاچھ کاچھنا - لباس بدلنا - سوانگ بھرنا - میر - سب کاچھ کاچھے
سب ناچ نچے اُس رسیا چھیل چھبیلے کو ؛
کاچھ کھولنا - ازار بند کھولنا - پاجامہ اُتارنا - ننگا
ہو جانا - بے شرم ہو جانا -
کارخانہ پھیلانا - تجارت وغیرہ شروع کرنا -
کارستانی کرنا - چالاکی کرنا - استادی دکھانا - مکر و فریب مین لانا -
کاغذ سا - نہایت ہلکا اور پتلا -

کاغذ سیاہ کرنا۔ کچھ باتین کاغذ پر لکھنا۔ خراب باتین لکھ کر کاغذ برباد کرنا
کاغذ کرنا۔ سند لکھ دینا۔ تمسک رہن نامہ بیعنامہ وغیرہ تحریر کر دینا۔
کاغذ کھولنا۔ کسی کی پوشیدہ بات کو ظاہر کر دینا۔ بھید کھول دینا۔
کاغذی گھوڑے دوڑانا۔ جابجا خطوط بھیجنا۔ کسی امر کی خبر کر دینا
کافور ہو جانا۔ بھاگ جانا۔ چل دینا۔ رفوچکر ہو جانا۔ گم ہو جانا۔ ضعفِ رام پوری۔ صبر کافور ہوا ہوش ہوے ہوا ⁂ رفتہ رفتہ ہوے آثار جنون کے پیدا ⁂ بحر۔ وہ بال کھولے ہوے چڑھ گئے جو کوٹھے پر ⁂ فلک سے ہوگئی کافور شکناب گھٹا ⁂ ناسخ۔ رکھتے ہی پھاہا جو کر گیا شعلۂ سیر داغ کا ⁂ ہوگئی کافور پیری مرہم کافور کی ⁂ شوق۔ دیکھ کر دونون عارضِ پرنور ⁂ رنگ چہرے کا ہوگیا کافور ⁂
کالا کوئلا۔ نہایت کالا سیاہ رنگت کا۔
کالا منھ کرنا۔ منھ کو سیاہ کرنا۔ بے عزتی کرنا۔ داغ لگانا۔ بدنام کرنا۔ زنا کرنا۔ بدفعلی کرنا۔ خراب کرنا۔ مشتہر کرنا۔ دیس سے نکال دینا۔ چھوڑ دینا۔ ذوق۔ باقی ہے ذوق کو ابھی حسرت گناہ کی ⁂ کالا کریگا منھ بھی جو ڈاڑھی سیاہ کی ⁂
کال کر جانا۔ مر جانا۔ فوت ہو جانا۔
کالک کا ٹیکا لگنا۔ بدنامی آنا۔ رسوائی ہونا۔ ذلت و خرابی وقوع مین آنا
کالک کا ہاتھ لگانا۔ کسی کو بدنام کرنا۔ رسوا کرنا۔
کال کے بس ہونا۔ وقت کے تابع ہونا۔ زمانے کے اختیار مین ہونا۔
کالی بلا۔ بدشکل۔ بدصورت۔ سیاہ فام۔ سخت مصیبت۔ آفت۔ ناسخ۔ جو دن ہے سو ہے دیو سپید اپنی نظر مین ⁂ جو رات ہے ہجر مین ہے کالی بلا ہے ⁂ ۔۔۔۔ دیا دل ہمنے زلفون کو خطا کی خبر کسکو تھی اس کالی بلا کی ⁂ مؤلف۔ دل اپنا دون مین اُس زلف دوتا کو ⁂ بلائین لون مین اُس کالی بلا کی ⁂
کالی پیلی آنکھین کرنا۔ غصے مین آنکھین بدلنا۔ نہایت خفا ہونا۔
کالے تل چابنا۔ کالا دان کھانا۔ نہایت برے کام کرنا۔ برے کامون کی سزا پانا۔
کالے سر کا۔ جوان آدمی جو بوڑھا نہو۔
کالے سر کا ایک نہ چھوڑنا۔ چھنال عورت کی نسبت بولتے ہین کہ جوان آدمی ایک نہ چھوڑنا سب سے زنا کرانا۔ ۔۔۔۔ سیہ نامہ سیہ رو کسبی و دو شیرہ ⁂ نہ چھوڑا اُسنے کوئی کالے سر کا ⁂
کالے کے آگے چراغ نہین جلتا۔ کالے سانپ کے پھن کے سامنے چراغ کی روشنی پھیکی معلوم ہوتی ہے بس۔ آدمی کے سامنے چھوٹے آدمی کی کچھ قدر و منزلت نہین ہوتی۔ ذوق سچ کہا ہے کہ کالے کے نہین جلتا چراغ ⁂ چھپ گیا مہرِ رخ پہ تیری زلف شبگون دیکھ کر ⁂
کالی ہانڈی سر پر دھرنا۔ بدنام ہونا۔ رسوا ہونا۔
کام آنا۔ استعمال مین آنا۔ برتاؤ مین آنا۔ خرچ ہو جانا۔ لڑائی مین مارا جانا۔ مصحفی۔ بے بصر ہوتے ہین محتاج کہین عینک کے ⁂ کام اپنے کہین آتی ہین پرائی آنکھین ⁂ ۔۔۔۔ دل ہمارا بھی اُسے چاہیے خدا خیر کرے ⁂ کوئی قاتل مین یہ قل ہے کہ کوئی کام آیا ⁂
کام بڑھانا۔ محنت زیادہ کرنا۔ کام ختم کرنا۔ کام کو اُٹھا کر رکھنا۔
کام بگاڑنا۔ کوئی چیز خراب کر دینا۔ مطلب بگاڑنا۔ بات مین خلل ڈالنا۔ ۔۔۔۔ یار ہی مہربان مگر افسوس ⁂ غیر اپنا بگاڑتے ہین کام ⁂
کام بگڑنا۔ بات مین فرق آنا۔ دوالہ نکل جانا۔ بے آبرو ہونا۔ عزت بگڑ جانا۔
کام بنانا۔ کام پورا کرنا۔ مطلب نکالنا۔
کام پڑنا۔ تعلق یا واسطہ ہونا۔ سروکار ہونا۔ مؤلف۔ نیک و بد دونون ہوتے ہین معلوم ⁂ جس گھڑی آنکے کام پڑتا ہے ⁂
کام پر لگانا۔ کسی بیکار کو کام پر مقرر کر دینا۔ نوکر کرا دینا۔ کسی دھندے کے سر کر دینا۔
کام تمام کرنا۔ کام ختم کرنا۔ پورا کرنا۔ مار ڈالنا۔ قتل کر دینا۔ میر۔ اُلٹی ہو گئین سب تدبیرین کچھ نہ دوا نے کام کیا ⁂ آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا ⁂
کام چڑھانا۔ کام لگانا۔ کام شروع کرنا۔
کام چلانا۔ بندوبست کرنا۔ انتظام کرنا۔ کار برآری کرنا۔ جون تون کرکے اپنا کام نکالنا۔ پورا ڈالنا۔ قطعہ از مؤلف۔ جب اس دنیا سے فانی مین نہین ہے ⁂ ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانا ⁂ نہ دینا دل تو اثبت بیوفا کو ⁂ فقط دو روز کا م اپنا چلانا ⁂
کام چلنا۔ کام جاری ہونا۔ بخوبی کار برآری ہونا۔ فائدہ ہونا۔
کام چمکنا۔ کام کی ترقی ہونا۔ فائدے کی صورت نظر آنا۔ کام بڑھ جانا۔
کام دینا۔ کام سپرد کرنا۔ نوکری یا خدمت دینا۔ کسی کی خدمت یا ملازمت کرنا۔
کام سے جاتا رہنا۔ مطلب کا نہ رہنا۔ بگڑ جانا۔ خراب ہو جانا۔ بیکار ہو جانا۔ موقوف اور برطرف ہو جانا۔ نامرد ہو جانا۔ ڈھیلا پڑ جانا۔ مؤلف۔ مرد تنافل جو خدا اسکے نام سے یاد آ رہا ⁂ ایسا وہ بگڑا کہ سب کے کام سے جاتا رہا ⁂

کام کرنا - شغل کرنا - دھندا کرنا - میر تقی - کام پل مین میرا تمام کیا - غرض اس شوخ نے وہ کام کیا ✿ میر - نالون سے میرے رات کے غافل نہ رہا کر ✿ اک روز یہی دل مین ترے کام کرینگے ✿

کام کھینچنا - مرجانا - فوت ہوجانا - خاتمہ پر آنا - میر - شاید کہ کام صبح تک اپنا کھینچیگا میر - احوال آج شام سے درہم بہت ہی یان ✿

کام مین کام نکالنا - ایک کام کے ساتھ دوسرا کام بنا دینا - ایک پنتھ دو کاج کرنا -

کام مین لانا - استعمال مین لانا - برتنا - خرچ کرنا - اٹھانا -

کام نکالنا - کام لینا - مطلب برآری کرنا - کارروائی کرنا -

کام ہوجانا - مطلب حاصل ہوجانا - مراد برآنا - مرجانا - جان بحق تسلیم ہونا - خاتمہ ہوجانا - یار علی - آخر کیا اس آپ کی تاخیر نے ہمین ✿ کس کام مین رہے کہ یہان کام ہوگیا ✿

کان اڑے جانا - پھٹے جانا - پھوٹے جانا - شور وغل کے باعث کانون پر صدمہ پہونچنا - لمبی داستان سنتے سنتے گھبرا جانا -

کان اینٹھنا - اکھاڑنا - کھینچنا - کان مروڑنا - گوشمالی کرنا - دھمکانا - خفیف سزا دینا -

کان بجنا - ہر وقت آواز آنا - خواہ مخواہ یہ خیال کرنا کہ ہمسے فلان شخص کچھ کہتا ہے

کان بھرنا - کان بھر دینا - کسی شخص کی کسی کے روبرو بدگوئی کرنا - غیبت کرنا - درپردہ برا کہنا - ذوق - کوئی غماز نہین میری طرف سے اے دوست ✿ کان اُسکے میری فریاد ہی بھر دیتی ہے -

کان پڑنا - سن لینا - سنائی دینا -

کان پکڑکے اٹھا دینا - کسی کو زبردستی سے مجلس سے اٹھا دینا - نکال دینا

کان پکڑنا - اپنے دونون کانون کو اپنے ہاتھون سے کھینچنا - کسی امر سے باز آنا - عہد کرنا - اقرار کرنا - یار علی - کان پکڑیگا زمانہ ترے نکتورون سے ✿ ویگی خفت تجھے یہ تیری جفا میرے بعد ✿ رشک - پھول آگئے ہیرے پکڑتے ہین کان ✿ نرگس آنکھین اگر چُرا گئی ہین ✿

کان پھوٹ جانا - شور وغل کی کثرت سے کچھ نہ سنائی دینا - بہرا ہوجانا -

کان تلے کے چھوڑنا - افشائے راز کرنا - بھید کی بات کہنا - ایسی بات کہنا - جو دوسرے کو ناگوار گذرے -

کانٹا سا کھٹکنا - کسی شی کا ناگوار معلوم ہونا - خار دکھائی دینا - برا لگنا - ذوق - فرقت سے ترے تار نفس سینے مین مرے ✿ کانٹا سا کھٹکتا ہے نکل جائے تو اچھا ✿

کانٹا سا نکل جانا - آسانی کے ساتھ کسی تکلیف سے نجات پانا -

کانٹا لگنا - کانٹا چبھ جانا - جانورون کا لاغر ہوجانا - ۵ - کانٹا لگا ہے گلچین کس مرغ کو چمن مین ✿ پھولے نہین سماتے گل اپنے پیرہن مین ✿ بحر - ساقی رہی بہار نہ گلزار رہ گیا ✿ کانٹا لگا نہ پھول کا یہ خار رہ گیا ✿

کانٹا مارنا - مرغون کی لڑائی مین ایک دوسرے کو پاؤن کی ہڈی مارنا -

کانٹا نکالنا - کسی شخص کو مصیبت سے رہائی دلانا - تکلیف سے بچانا -

کانٹا نکلنا - غم دور ہونا - رنج جاتا رہنا - بحر - یارب اُس گل کی محبت مین دم اپنا نکلے ✿ جان بھولے سے جو بچ جائے تو کانٹا نکلے ✿

کانٹا ہوجانا - دُبلا اور لاغر ہوجانا - جان صاحب - مین تول لیا کرتی ہون نظرون مین ہر اک کو ✿ کانٹا سی ہون آنکھین مین ترازو سے زیادہ ✿

کانٹون پر لوٹنا - تکلیف و مصیبت اٹھانا - دُکھ بھگتنا - آتش - بے یار فرش گل مری آنکھون مین خار تھا ✿ لوٹا کیا مین کانٹون کے اوپر تمام رات ✿

کانٹون مین کھینچنا - گھسیٹنا - گنہگار بنانا - تکلیف دینا - آزار پہونچانا -

کانٹے بونا - کسی شخص کے ساتھ بدی کرنا - بُرائی کا بیج بونا - آتش - شگفتہ سبزۂ خط کا نہوا اے دل ہرگز ✿ شعور اپنے لیے آپ نہ بو تو کانٹے ✿

کانٹے پڑنا - نہایت تشنگی کے باعث زبان خشک ہوجانا - جرأت - پڑگئے منہ مین جو مجھ سوختہ تن کے کانٹے ✿ تھے یہ بوئے ہوئے اُس غنچہ دہن کے کانٹے ✿ ناسخ - آئی بہار تشنہ ہی ہون پلا دے پھول ✿ اسے بھی فرش پڑگئے کانٹے زبان مین ✿

کانٹے کھانا - قید بھگتنا - داغی ہونا -

کانچ نکال دینا - سخت مارنا - زدوکوب کرنا - مارتے مارتے برا حال کردینا

کانچ نکل جانا - برداشت کی طاقت نہ رہنا - نقصان پہونچنا - خسارہ اٹھانا -

کان دبا کر چلے جانا - چپ چاپ چلے جانا - جواب نہ کرنا -

کان دبا لینا - کسی کی خراب بات سنکر جواب نہ دینا - خاموش ہو رہنا -

کاندھی دے جانا - پہلوتہی کرنا - بہانہ کرنا -

کان دکھانا - کان کا میل نکلوانا -

کان دھرنا - کسی کی بات غور سے سننا - داغ - کیون نکرتے بےخبر ہین ہم دل سے باتین صبح تک ✿ کان دھر کر کوئی بھی سنتا نہ وہ افسانہ تھا ✿

کان کلس مین پڑنا - دھوکے مین آنا - سوچ مین پڑنا -

کان کاٹنا - سبقت لیجانا - نہایت چالاکی دکھانا - بڑھ جانا - شوق - تو نے بے پیرون کے کاٹے کان ✿ سو نصیحت کرون نہین کچھ دھیان ✿

کان کا کچا - وہ شخص جو اوروں کی بات کا جھٹ یقین کرلے سچ یا جھوٹ کی طرف خیال نکرے -

کان کھانا - شور کرنا - غل مچانا - ایک بات کو کہے جانا -

کان کھڑے کرنا۔ چوکنا ہوجانا۔ کنوتیان بدلنا۔ ہوشیار ہوجانا۔
کان کھڑے ہونا۔ ڈرجانا۔ اندیشے مین پڑنا۔
کان کھول دینا۔ جتا دینا۔ واقف کردینا۔ سمجھا دینا۔ ہشیار کردینا۔ سودا۔ جب اپنے بند قبا تمنے جان کھولدیے ٭ صبا نے باغ مین جا گل کے کان کھولدیئے ٭
کان لگنا۔ کسی کی بات سننے کے واسطے متوجہ ہونا۔
کان مین پڑا رہنا۔ معلوم رہنا کسی بات کا۔
کان مین پھونکنا۔ کسی کا عیب کسی کو بتلا دینا۔ اغوا کے طور پر کسی کو کچھ کہدینا جس سے وہ غضبناک ہوجائے۔ ذوق۔ آہی کان مین کیا اس صنم کے پھونک دیا ٭ کہ ہاتھ رکھتے ہین کانونپہ سب اذان کیلیے ٭
کان مین ڈالدینا۔ سنا دینا۔ جتا دینا۔ ہوشیار کردینا۔ واسوخت۔ بتا دین لفظ تمنا کے تمکو معنی کیا ٭ تمھارے کان مین اک حرف ہمنے ڈالدیا ٭
کان مین روئی دے کر یا تیل ڈالکر ہو بیٹھنا۔ کسی بات کی طرف خیال نکرنا۔ سننے سے غرض نہ رکھنا۔ ب۔ بلبل کا ایک نالہ سوزان نہین سنا ٭ کیا ان گلون نے ڈال لیا تیل کان مین ٭
کان مین کو نکالنا۔ سنا دینا۔ کان مین ڈالدینا
کالورا کردینا۔ دق کردینا۔ ناک مین دم کردینا۔
کان مین کھٹکنا۔ برا معلوم ہونا۔ ناگوار معلوم ہونا۔
کان مین کہنا۔ چپکے سے کوئی بات کہدینا۔
کان نہ کھڑکانا۔ چپکے سے سن لینا۔ چون نکرنا۔
کان نہ ہلانا۔ سنکر خاموش رہنا۔ منظور کرلینا۔ کچھ عذر نکرنا۔ ـــہ۔ مجھ سے مانگے اگر وہ جان جان ٭ بندہ آمین نہین ہلاتا کان ٭
کانون پر ہاتھ دھرنا۔ انکار کرنا۔ مکر جانا۔ بے خبری ظاہر کرنا۔ غالب۔ گو ایک بادشاہ کے سب خانہ زاد ہین ٭ دربار دار لوگ بہم آشنا نہین ٭ کانونپہ ہاتھ دھرتے ہین کرتے ہوئے سلام۔ اس سے یہ ہی مراد کہ ہم آشنا نہین ٭ میر۔ غم مین دل صبر و ہوش اسکے پیارے ٭ ہاتھ کانونپہ رکھ گئے سارے ٭
کانون کان نہ جاننا۔ خبر نہونا۔ بے خبر ہونا۔ بالکل آگاہ نہونا۔ ـہ۔ میری گر سنو تو کبھی شور و شر نہو ٭ الفت کی کانون کان کسی کو خبر نہو ٭
کانون مین انگلیان دینا۔ کان بند کرلینا۔ کسی کی بات کی طرف توجہ نکرنا۔ آتش۔ انگلیان کانون مین دیتا ہے دم رفتار یار ٭ ہر قدم پر آتی ہے آواز شیون زیر پا ٭
کانون مین بول مارنا۔ آواز سنکر جواب نہ دینا۔

کانون مین رس پڑنا۔ رسیلی باتون کے سننے سے حظ حاصل کرنا۔ مزا لینا۔
کان ہونا۔ اطلاع ہونا۔ نصیحت ہونا۔ خیال ہونا۔ تجربہ حاصل ہونا۔
کاوے دینا۔ حلقہ باندھ کر گھوڑے کو چکر دینا۔
کایا پلٹ ہونا۔ ایک قالب سے دوسرے قالب مین ہوجانا۔ بالکل رنگ و روپ بدل جانا۔ کچھ سے کچھ ہوجانا۔
کاے کاے کرنا۔ شور مچانا۔ غل کرنا۔
کافر نعمت۔ ناشکرا۔ حق ناشناس۔ نعمت کھا کر انکار کرنے والا۔ ذوق۔ کھا کے زخم تیغ قاتل جو بجا لائے نہ شکر ٭ کوئی ہے اس سے زیادہ کافر نعمت نہین ٭
کاٹھ کباڑ۔ ٹوٹی پھوٹی اور پرانی چیزین۔
کار خیر۔ بھلائی اور صواب کا کام۔
کالا پہاڑ۔ کوہ سیاہ۔ ہاتھی اور انسان کا سر
کالا چور۔ جسکا نام معلوم نہو۔ کوئی ہو۔ کوئی آدمی۔ فرضی آدمی۔
کاغذ کا پُتلا باز۔ کاغذی آدمی۔ دبلا اور چالاک آدمی۔
کالے کوس۔ لمبے لمبے کوس۔ فاصلہ دور و دراز۔ رنگین۔ دیکھیے کب خدا ملائیگا ٭ اپنے رنگین گئے ہین کالے کوس ٭
کاگا رول۔ کوون کی کاے کاے۔ شور و غوغا۔
کالا بال۔ موئے زہار۔ پشمین۔ بے حقیقت چیز۔ سودا۔ چور کب اسکا دور مانتے ہے ٭ کالا بال اسکو اپنا جانتے ہے۔
کام تمام۔ اخیر وقت۔ انجام کا وقت۔ حالت نزع۔ شوق۔ اب دوا دوش ہے بے ہنگام ٭ اسکا ہو چکا ہے کام تمام ٭ جرات۔ ہوگئے وصل کا ہم سنتے ہی پیغام تمام ٭ کام دل کچھ نہ بر آیا کہ ہوا کام تمام ٭
کاٹو تو خون نہین۔ لہو نہین۔ کسی خوف یا ڈر اور دہشت سے زرد ہوجانا۔ نسیم۔ کاٹو تو لہو نہین بدن مین ٭ دونون کی رہی جان تن مین ٭
کالا منہ نیلے پانون۔ نہایت بدنام اور رسوا۔
کاٹھ کا الو۔ نہایت بے وقوف احمق۔
کاٹھ کی بہمبو۔ کاٹھ کی پتلی احمق عورت۔
کاغذ کی ناؤ۔ کاغذ کی کشتی جو کسی لائق نہین ہوتی۔ میر حسن۔ مصرع۔ سدا ناؤ کاغذ کی بہتی نہین ٭
کالا منہ ہو۔ بد دعائی کلمہ ہے۔ مومن۔ چل پرے ہٹ مجھے نہ دکھلا منہ ٭ اے شب ہجر تیرا کالا منہ ٭
کام دیو۔ خدا شہوت انسانی۔ قوت باہ۔
کام سے کام رکھو۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اپنے مطلب کا خیال

بکھیڑ ولن کے جھگڑون مین نہ پڑو۔ قطعہ از مولف۔ عبادت کا کرو ہر روز وشب کام ٭ یہی شغل اپنا صبح وشام رکھو ٭ پڑو مت غیر کے جھگڑون مین ہرگز ٭ بس اپنے کام سے ہی کام رکھو ٭

کاٹ پھانس آتی ہی۔ چالاکی جانتا ہی۔ عیاری برتتا ہی۔ ہوشیاری دکھاتا ہی۔ شوق۔ دیکھکر میری عقل جاتی ہی ٭ جو تجھے کاٹ پھانس آتی ہی ٭

کاٹھ کے گھوڑے۔ ہندو کا جنازہ۔

کاٹھ کی ہنڈیا ایک دفعہ چڑھتی ہی۔ لکڑی کی ہنڈیا مین صرف ایک دفعہ پک سکتا ہی جھوٹ بولنے والے کا فریب کوئی ایکبار کھاتا ہی دوبارہ اسپر اعتبار نہین ہوتا۔ قطعہ مولف۔ جب ایکبار وعدہ وفا تم نکر سکے ٭ آیندہ تیری بات پہ ہو کسکو اعتبار ٭ آئے دوبارہ کون تمھارے فریب مین ٭ سچ ہی کہ ہنڈیا کاٹھ کی چڑھتی ہی ایکبار ٭

کاٹے کٹے نہ مارے مرے۔ ایسا سخت جان ہی کہ کسی طرح نہین مرتا ہے نہ کاٹے کٹے ہو نہ مارے مرے ٭ وہ نازواد ا پہ تمھارے مرے ٭

کاجل کی کوٹھری۔ بدنامی کا گھر۔ خراب صحبت۔ مولف ۔ ز اردنیا کوٹھری کاجل کی ہی ٭ اسمین جو جاسے وہ آئے روسیاہ ٭

کالا آدمی۔ ہندوستانی آدمی یورپین لوگ ہندوستانیون کو حقارتاً کالا آدمی کہتے ہین کہ وہ خود گورے ہین۔ مولف۔ دل سفید اُسکے لیے درکار ہی ٭ ہو بظاہر گرچہ کالا آدمی ٭ اُسکے گورے منھ سے ہی کیا فائدہ ٭ ہو اگر دل کالے والا آدمی ٭

کالا پانی۔ دریاے شور سمندر جسکا پانی رنگت مین کسی قدر کالا ہی اور جزیرۂ اندمان جسمین ہندوستان کے عمر قیدی رہتے ہین۔

کالے منھ اندھیرے۔ صبح سے اول وقت بہت سویرے۔

کان پر جون نہین چلتی۔ نہین رینگتی۔ کہنے کا اثر اسکو اسقدر نہین ہوتا جسقدر کہ کان پر جون چلتی ہی انسان کو خبر ہو جاتی ہی۔ اسیر۔ فریاد قفس کتنی ہی اسے سارباں ضعیف ٭ جون رینگتی نہین کبھی لیلی کے کان پر ٭

کان پڑی آواز سنائی نہین دیتی۔ بڑا شور ہی نہایت غوغا ہی جسکے سبب سے بات سنائی نہین دیتی۔

کاف با بائے

کباب کرنا۔ رشک دینا۔ جلانا۔ تکلیف پہونچانا۔ رنج دینا۔ دکھ دینا۔

کباب ہونا۔ حسد یا غصے کے مارے جل جانا۔

کبڈی کھیلتے پھرنا۔ بیکار پھرتے رہنا۔ کھیلتے پھرنا۔

کپا لڑھنا۔ بھاری نقصان ہونا یا دستا ہ یا امرا کا مرجانا۔

کپال کریا کرنا۔ ہندؤن کا مردے کی جلی ہوئی کھوپڑی کو کسی بانس یا لکڑی سے پھوڑنا تاکہ بخوبی جل جائے۔

کپا ہو جانا۔ موٹا ہو جانا۔ خفا ہو جانا۔ منھ سجا بیٹھنا۔

کپڑون سے ہونا۔ حیض سے ہونا عورت کا۔

کپڑے اتارنا۔ کسی کو لوٹ لینا۔ برہنہ ہونا۔ ننگے ہونا۔

کپڑے رنگنا۔ فقیر ہونا۔ جوگی ہونا۔

کاف با تائے

کتاب کا کیڑا۔ وہ کرم جو کتاب کو لگ جاتا ہی اور وہ شخص جو کتابون کا مطالعہ کرتا ہو۔

کتر بیونت کرنا۔ کاٹنا چھانٹنا کپڑے وغیرہ کا سو دے سلف مین سے رکھ لینا۔

کترنی چلنا۔ قینچی سی زبان چلنا۔

کتیا کا پلا۔ کتے کا بچہ۔ نطفہ بے تحقیق۔ ولد الزنا۔ حرام کا نطفہ۔

کتیا کے چھنالے مین پھنسنا۔ دوسرے شخص کے جرم مین پکڑا جانا۔ اورون کی بلا مین پھنسنا۔

کتے کا بھیجا کھانا۔ بیہودہ گوئی کرنا۔ بیفائدہ بولے جانا۔ بے سود بکے جانا۔

کتے کی موت مرنا۔ بے عزت ہو کر مرنا۔ حرام موت مرنا۔

کتا چھپی ہونا۔ از حد دشمنی وعداوت ہونا۔

کٹ بد یا کرنا۔ زدوکوب کرنا۔ پیٹنا ٹھوکنا۔

کٹتی کہنا۔ کسی کے برخلاف تقریر کرنا۔

کٹ مستا۔ طاقت ور۔ شہ زور جوان میر پیری مین بھی جوان کھاتا ہی دختر تاک کی صحبت نے یہ بیتی پی پی ٹی انگوری میر ہے کٹ مستی ہو ٭

کٹورا بجنا۔ نہایت آبادی ہونا۔ گرم بازاری ہونا۔

کٹورا چلانا۔ کٹورے کو منتر کے زور سے چکر دیکر چور کو دریافت کرنا۔

کٹھالی کرنا۔ سونے چاندی کو کٹھالی مین گلانا۔ زدوکوب کرنا۔ خوب مارنا۔

کتے کا کفن۔ نہایت سستا اور خراب کپڑا۔

کتے خستی۔ ذلیل کام۔ خراب نوکری۔ اصل مین یہ لفظ کتے کی خصلت تھا۔

کٹھ پتلی۔ کاٹھ کا پتلا۔ لکڑی کا کھلونا۔ بیکار آدمی۔ نکما۔

کتے کی دم ہی۔ وہ شخص جو بہت سے سمجھانے سے نہ سمجھے اپنی بیوقوفی سے باز نہ آئے۔ ناسخ۔ ہی کجی مین مردم کج طبع بھی کتے کی دم ٭ راست انکو کیجیے سو بار ہون سو بار کج ٭

کاف با جیم

کچا پکا کرنا۔ نیم پختہ کرنا۔ کچھ کچا کچھ پکا کرنا۔ معاملہ ٹھہرانا۔
کچا جانا۔ اسقاط حمل ہونا۔ ادھورا بچہ پیدا ہونا۔
کچا کرنا۔ دل توڑنا۔ پست ہمت کرنا۔ ذلیل کرنا۔ شرم دلانا۔
کچا ہونا۔ کچیا جانا۔ ہمت ہارنا۔ ارادہ توڑنا۔ شرمندہ ہونا۔
کچائی نکالنا۔ خامی دور کرنا۔ کمی کو پورا کرنا۔ مارتے مارتے پتلا حال کر دینا۔
کچ پیندیا۔ بات کا کچا۔ اقرار کا جھوٹا۔ متلون مزاج۔ کمزور۔ ناتوان۔
کچ دلا۔ بزدل۔ ڈرپوک۔ ذرا سے صدمے سے رو دینے والا۔
کچیان بچنا۔ چیخ پکار کرنا۔ شور و غل کرنا۔ ادودھم مچانا۔ گھر کو سر پہ اٹھا لینا۔
کچومر کر ڈالنا۔ نکالنا۔ سخت مار مارنا۔
کچھری لگانا۔ بھیڑ لگانا۔ ازدحام کرنا۔
کچھ کا کچھ کہنا۔ خلاف کہنا۔ خلاف واقع بیان کرنا۔
کچھ کا کچھ۔ کچھ سے کچھ ہو جانا۔ حالت دگرگون ہونا۔ حالت پلٹ جانا۔ ؎ انقلاب دہر کا کیا اعتبار ٭ ایک دن مین کچھ کا کچھ ہو جائے ہے ٭
کچھ کر دینا۔ کچھ کام کر دکھانا۔ نمایان خدمت کرنا۔
کچھ کھا لینا۔ زہر کھا لینا۔ افیم کھا لینا۔ بحر۔ ؎ بھجوا دُکھ مین ہجر کے اے جان حاضری ٭ بھوکا تمھارے دید کا کچھ کھا کے مر گیا ٭
کچھ کہہ بیٹھنا۔ خلاف مرضی یا ناگوار بات کہہ دینا۔ گالی دے بیٹھنا۔
کچھ کھو کے سیکھنا۔ نقصان اٹھا کر شنیا ہونا۔
کچھ نہین کیا۔ ذرا بھی نہین کیا۔ کوئی بات نہین کی۔ کوئی کام نہین کیا۔ مولانا اکبر۔ ؎ آئے تھے جہان مین کام کرنے ٭ افسوس کہ کچھ نہین کیا ہے ٭
کچھ ہو جانا۔ سایہ کا اثر ہو جانا۔ کوئی بیماری ہو جانا۔ کچھ ظہور مین آنا۔
کچھ ہو رہنا۔ کچھ دال دلیا ہو جانا۔ کچھ فیصلہ ہو جانا۔ کسی قدر قابلیت پیدا کرنا۔
کچی ٹوٹنا۔ خردسال لڑکی کا ازالۂ بکر ہونا۔
کچی کلی ٹوٹنا۔ خردسال بچے کا مر جانا۔
کچی گولیان کھیلنا۔ لاکھ کے بجائے مٹی کی گولیون سے کھیلنا جو جلد ٹوٹ جاتی ہین جھٹل کھیلنا۔ ناتجربہ کار ہونا۔ کچا کام کرنا۔ شوق۔ ؎ اور وہ ہوتیان ہین البیلی ٭ مین نہین کچی گولیان کھیلی ٭
کچے گھڑے پانی بھرنا۔ ناممکن بات کا کرنا۔ غلامی کرنا۔ فرمان برداری کرنا۔ جرأت۔ ؎ اشک بھر لاؤ نہ دل دے کے میان جرأت تم ٭ آنکھین بھر بھر نے ہین تجھے کچے گھڑے پانی کے ٭
کچے گھڑے کی چڑھنا۔ شراب کا نشہ ہو جانا۔
کچھ اور۔ کوئی چیز یا بات اور۔
کچھ ایک۔ تھوڑا سا۔ کسی قدر۔
کچوری سے گال۔ موٹے موٹے پھولے ہوئے گال۔
کچھا جن۔ کسی بات کے پیچھے لپٹ جانے والا آدمی۔ سخت تقاضا کرنے والا۔
کچ بچ۔ کچر بچر۔ کچر گھان۔ بال بچے لڑکے بالے خردسال اولاد۔
کچھ نہین۔ ذرا بھی نہین کوئی بات نہین۔
کچے پکے دن۔ آغاز حمل سے پانچوین مہینے تک۔
کچھ نہ کچھ۔ کسی قدر۔ تھوڑا بہت۔
کچا ساتھ۔ کچا کنبہ۔ چھوٹے چھوٹے بال بچے۔
کچھ کچھ۔ تھوڑا سا۔ قریب قریب۔ کسی قدر۔
کچھ نہ کچھ۔ تھوڑا بہت۔ کسی قدر۔
کچھ نہ پوچھیے۔ کچھ حال نہ دریافت کیجیے۔ بس خاموش رہیے کہنے کی بات نہین ہے۔ صفدر فوقانی۔ ؎ ناحق ہے ہم پہ جوش غضب کچھ نہ پوچھیے ٭ ہے بے سبب عتاب سبب کچھ نہ پوچھیے ٭
کچھ بات بھی۔ کوئی وجہ بھی۔ کیون۔ کس واسطے۔ حکیم انور لاہوری۔ ؎ یہ غصہ اور غضب کس واسطے ہے ٭ بھلا کچھ بات بھی رنجش کی ہے ٭
کچھ دال مین کالا کالا ہے۔ کوئی سبب ہے کوئی وجہ ہے اس مین کوئی بات ضرور ہے جرأت۔ ؎ بال مین بکھرے بندھے ہین ٹوٹے ٹوٹا کان کا بالا ہے جرأت ہم پہچان گئے کچھ دال مین کالا کالا ہے ٭
کچہری کے کتے۔ عدالت کے رشوت خوار ملازم۔
کچی آسامی۔ غیر مستقل نوکری چند روزہ ملازمت غیر موروثی کاشتکار
کچی پیشی۔ مقدمے کی پہلی پیشی۔

کاف با دال

کدال بجنا۔ مکان کا گرایا جانا۔ مسمار ہونا۔

کاف با رے

کراؤ کرنا۔ رانڈ عورت کے ساتھ نکاح کرنا۔ چادر ڈال لینا۔ اوڑھنا اڑھانا۔
کرائے پر چلانا۔ کسی عورت کو خرچی پر بٹھلانا۔
کرایہ وار اترنا۔ عورت کا حاملہ ہونا۔
کر بیٹھنا۔ کسی کام کو شروع کر بیٹھنا۔ کسی امر کو اختیار کر لینا۔
کر دیکھنا۔ کسی کام کو کر کے اسکی بھلائی یا برائی کا امتحان کر لینا۔
کرسی دینا۔ مکان کو اونچا کرنا۔ تعظیم دینا۔

کرسی نشین ہونا - صاحب عزت ہونا - اعلے درجے کو پہونچنا -
کرکرا کر دینا - خراب کر دینا - بگاڑ دینا -
کرکری اُٹھنا - پیٹ مین درد ہونا - باؤ گولہ اُٹھنا -
کر گذرنا - کسی کام کو کر کے چھوڑنا - ضد سے نہ ٹلنا - ہٹ سے باز نہ آنا - مؤلف - نہ تو مرنے سے اپنے ڈرتے ہین ٭ نہ تو محنت سے خوف کرتے ہین ٭ ہین جو مرد اپنی بات کے پورے ٭ سول ہین جو آئے کر گذرتے ہین ٭
کرم پھوٹنا - قسمت پھوٹنا -
کرم ٹھونکنا - اپنی قسمت کو بُرا بولنا - طالع کو رونا
کرم کا بلیا - صاحب نصیب خوش قسمت بھاگوان -
کرم کرنا - بخشش کرنا - سخاوت کرنا - مفتی حیدر - مسیحا ادھر بھی کرم کیجیے ٭ بُرا حال ہے تیرے بیمار کا ٭
کروٹ بدلنا - ایک پہلو سے دوسرے پہلو لیٹنا - انقلاب ہونا صورت بدلنا - سے - یار سے نہ کبھی آ کے ہوا ہم بستر ٭ کروٹ ایسی نہ زمانے کو بدلتے دیکھا ٭
کریا بگاڑنا - بے عزتی کرنا - ذلیل اور رسوا کرنا -
کریا کرم کرنا - کسی کے مرنے کے بعد مذہبی رسوم ادا کرنا -
کریال مین آنا - پرندون کا خوش ہو کر پر جھاڑنا -
کریال مین غلہ لگنا - خوشی مین غمی ہونا - حلوے مین نمک پڑ جانا -
کریز کرنا - پرندون کا پُرانے پر جھاڑنا -
کڑا سمان - قحط کا زمانہ تنگی کا وقت -
کڑا کا بیتنا - فاقہ ہو جانا -
کڑا کر دینا - سخت کر دینا - کس دینا - کھینچ دینا - نرخ بڑھا دینا -
کڑاکے کا جاڑا - سخت سردی -
کڑاھی باندھنا - جادو کے زور سے آنچ لگنے نہ دینا -
کڑاھی کرنا - کسی بزرگ کی نیاز کا حلوا بنانا -
کڑاھی مین ہاتھ ڈالنا - قسم کے طور پر جلتے ہوئے تیل مین ہاتھ ڈالنا -
کڑک بانکا - چھیل چھبیلا - طرحدار - وضعدار -
کڑک بولنا - ناغہ ہونا - خالی جانا -
کڑک دوڑنا - تیزی کے ساتھ دوڑنا -
کڑوا دل کرنا - سختی جھیلنا - رنجیدہ ہونا -
کڑوا لگنا - بُرا معلوم ہونا - ناگوار گذرنا -
کڑوا ہونا - ناراض ہونا - رنجیدہ ہونا - فریر - واسے محرومی گلے پر رہ گیا چلکر چھرے ٭ منہ ہوا تخجر کا میٹھا جب وہ کڑوا ہو گیا ٭

کڑی اُٹھانا - سختی اُٹھانا - مصیبت جھیلنا -
کڑی کہہ بیٹھنا - سُنانا - کہنا - سخت کلام کرنا - گالی دینا - بُرا بولنا نظیر - کوئی گھڑی اگر وہ ملائم ہوا تو کیا ٭ کہہ بیٹھینگے پھر ایک کڑی دو گھڑی کے بعد ٭
کرم پھوٹا - بدنصیب - بد اقبال -
کڑوے کسیلے دن - مصیبت کے دن تنگی کا زمانہ -
کڑیل جوان - شہ زور - طاقت ور -
کرکری خانہ - وہ مکان جسمین پُرانا اسباب رکھا رہے -
کڑی آنکھ - قہر کی نگاہ غصے کی نظر - ناسخ - سواد جو تری زلف کا اے جان ہے مجھکو ٭ ہر حلقۂ زنجیر کی پڑتی ہے کڑی آنکھ ٭
کڑوی کھچڑی - کڑوی روٹی - وہ کھانا جو کسی کے مرجانے کے روز اُسکے وارثون کو دیا جاوے -
کڑبڑی ڈاڑھی - آدھی سفید آدھی کالی ڈاڑھی -

کاف با سین مہملہ

کس کھانا - نقصان اُٹھانا - گھاٹا کھانا -
کسک آنا - خفیف سا صدمہ پہونچنا - سحر - مزاج پوچھا کسی کا تو اُنکا مُنھ دُکھا ٭ کسک سی ہاتھ مین آئی اگر سلام کیا ٭
کسک مٹانا - خواہش مٹانا - خارش دور کرنا -
کسم کا آزار ہونا - متواتر حیض آنا - خون جاری رہنا -
کسوٹی پر چڑھانا - کسوٹی کے پتھر پر سونا گھس کر اُسکی قیمت معلوم کرنا -
کسی کی آگ مین گرنا پڑنا - دوسرے کا کام آپ کرنا - دوسرے شخص کی مصیبت اپنے سر پر لینا -
کسی کے حق مین کانٹے بونا - کسی کی بُرائی کرنا - داغ - عدوے بدکیش زن کی آپ سُنتے ہین وہ کہتا ہے ٭ کہ جب آیا اُسی کانٹے ہمارے حق مین بو جانا ٭
کسی کے ہاتھون سے تنگ آنا - کسی کے سبب سے عاجز آجانا - مجبور ہو جانا -
کسی کے ہو کر رہنا - کسی شخص کا محکوم و پابند ہو جانا -
کس کھیت کی مولی ہو - تم محض ہیچ ہو تمکو کوئی کچھ چیز تصور نہین کرتا
کس مرض کی دوا ہو - تم کسی لائق نہین -
کس شمار قطار مین ہو - تم کسی گنتی مین نہین محض ناچیز ہو -
کسی کے گھی گھڑے کسی کے پتھر پڑے - کوئی دولتمند مالدار کوئی مفلس و نادار -

کاف با شین معجمہ

کشش اُٹھانا - مصیبت اور تکلیف اُٹھانا -
کشیدہ خاطر رہنا - رنجیدہ خاطر رہنا - آزردہ رہنا -

کشیدہ کاڑھنا - کپڑے پر سوئی کا کام کرنا -

کاف با فاے

کفر توڑنا - اثر توڑنا - کسی کی ضد اور ہٹ کو توڑنا - ناخوش کو
خوش کرنا - س - لائے اُس بت کو التجا کرکے * کفر ٹوٹا خدا خدا کرکے *
کفر کا کلمہ بولنا - شرک کا کلمہ زبان سے نکالنا - س - خدا کے واسطے
اُس بت کی خاطر - زبان سے کفر کا کلمہ نہ بولو *
کف لے آنا - جلد غصے ہو جانا - بگڑ جانا - جوش مین آنا - آتش -
خفا دم چاہنے والون کے ہونگے غوطے کھا کھا کر * بہت کف
لائیگا وہ طفل خوش اسلوب دریا مین *
کفن پھاڑکے بولنا - دفعتہً بول اٹھنا - سوتے سوتے بول اٹھنا -
کفن سر سے لپیٹنا - اپنی زندگی کو خطرے مین ڈالنا -
کفن کاٹھی کرنا - تجہیز و تکفین مردے کا کرنا -
کفران نعمت کرنا - احسان فراموشی کرنا -
کفش خانہ - غریب خانہ - بطور انکسار - اپنا گھر -
کفر کھپری - خراب صحبت - لچون شہدون کا مجمع -

کاف با کاف

ککڑ والا - تمباکو پلانے والا - حقہ پلانے والا -
ککڑی کھیرا کرنا - برا بولنا - کوسنا - بددعائین دینا - نظیر - حسن بیان
جسکو جو تو کرتا ہے ککڑی کھیرا * کوسنا ہر گھڑی ہر آن کا ہوتا ہے برا *
ککڑی ہو جانا - سکڑ جانا - اینٹھ جانا - ذرا سا ہو جانا -
ککڑی کا چور - ذرا سی چیز چرانے والا -
ککڑ خانہ - وہ جگہ جہان عام لوگ بیٹھ کر حقہ پیتے ہین - ناقص جگہ -

کاف با لام

کل اُچھالنا - کل کو بٹا لگانا - خاندان کو بدنام کرنا -
کلام اللہ اٹھانا - قرآن شریف کی قسم کھانا -
کلائی کرنا - ایک دوسرے کی کلائی پکڑ کر زور آزمائی کرنا - سحر - پنجہ
ذہان تیری کنگھی نے موڑا سانپ کا * کرکے گیسو نے کلائی ہاتھ توڑا سانپ کا *
کل بگڑ جانا - کسی اوزار کا خراب ہو جانا - کسی عضو کا بیکار ہو جانا -
کل بے کل ہو جانا - بے چین و بے آرام ہو جانا -
کل پڑنا - آرام ملنا - راحت پہونچنا - داغ - کوئی دم کوئی گھڑی
کل نہین پڑتی دل کو * مین بیان کس سے کرون آٹھ پہر کی صورت *
کل جبھا - کالی زبان والا - منحوس - بد دعا جسکی پڑتا ثیر ہو -
کل سرا - کالے سر والا -

کل سے بیٹھنا - آرام سے بیٹھنا - راحت ملنا -
کل کا پتلا - وہ شخص جسکی کل دوسرے کے ہاتھ مین ہو ذاتی لیاقت
نہ رکھتا ہو - فغان - آدمی کہتے ہین جسکو ایک پتلا کل کا ہے *
پھر کہان کل اسکو جب کل ہو ذرا بگڑی ہوئی -
کل کا لڑکا - چھوٹی عمر کا بچہ - نوجوان -
کل کل کرنا - چلانا - شور کرنا - تکرار کرنا -
کل موڑنا - پھیرنا - گھمانا - کل کو جاری کرنا - کسی کے دل کو اپنی طرف کرلینا -
کل ہاتھ مین ہونا - اختیار مین ہونا - بس مین ہونا -
کلمہ پڑھانا - مسلمان کرنا -
کلمہ پڑھنا - ایمان لانا - مسلمان ہونا - جرأت - کلمہ پڑھے ترا
تجھے دیکھے جو اک نظر * کافر ہے یہ تیری کافر نگاہ کا *
کلمہ کفر - شرک کا کلمہ جو کسی کی زبان سے نکلے - صفدر فوقانی - بتون کے
رخ پہ ہے جلوہ خدا کا * اسے تم کفر کا کلمہ نہ جانو *
کلنک کا ٹیکا لگانا - رسوا کرنا - عیب لگانا -
کلول ٹلنا - آفت یا بلا کا دور ہونا - میر - مین غش آگیا تھا وہ
بدن دیکھ * بڑی کلول ٹلی ہے جان پر سے *
کلیجا اُچھلنا - دھڑکن ہونا - خوف یا دہشت کے باعث سے بےچین
ہونا یا کمال خوشی کے سبب سے -
کلیجا اُڑا جانا - طبیعت کا گھبرانا - جی پریشان ہونا -
کلیجا اُلٹ جانا - جی اُلٹ جانا - تجبر - اقرار وصل کرکے پھر انکار
ظلم ہے * تم کیا پلٹ گئے کہ کلیجا اُلٹ گیا *
کلھیا سا - بہت تنگ - سکڑا ہوا چھوٹا سا مکان -
کلھیا مین گڑ پھوٹنا - خفیہ کام ہونا -
کلھیا مین گڑ پھوڑنا - پوشیدہ کام کرنا -
کلیجا بڑھ جانا - دل بڑھنا -
کلیجا بیندھنا - چھیدنا - تکلیف دینا - صدمہ پہونچانا -
کلیجے پر چوٹ لگنا - دل پر صدمہ آنا -
کلیجا پکنا - پک جانا دل کا - نہایت رنجیدہ ہونا - جرأت - دل اپنا
یان تلک اُس عشق کے ہاتھون سے پکا ہے * کہ تار اشک بھی جون سلاک گوہر آبلہ پا ہے *
کلیجا پھٹنا - دلون مین فرق آنا - رنجیدگی باہم دو شخصون کے ظاہر ہونا -
کلیجا تر ہونا - فائدے کی صورت نظر آنا - خوش ہونا -
کلیجا تھام تھام کر رونا - نہایت غم کی حالت مین گریہ وزاری کرنا -
کلیجا تھام کر رہ جانا - غم کو ظاہر نہ کرسکنا -

کلیجا ٹوٹا جانا - نہایت بھوک لگنا -

کلیجا لوٹنا - دل پر صدمہ پہونچنا ۔ دل پر چوٹ لگنا ۔ میر - کبھی میر اس طرف آکر جو چھاتی کوٹ جاتا ہے ۔ خدا شاہد ہے اپنا تو کلیجا لوٹ جاتا ہے ۔

کلیجا ٹوک ٹوک ہونا - برداشت یا سہارے کی طاقت نہ رہنا نہایت بے چین ہونا -

کلیجا ٹھنڈا کرنا - آرام پہونچانا - تسکین دینا -

کلیجا ٹھنڈا ہونا - تسکین ہونا - تسلی ہونا - سحر - تم گلے سے لگ گئے ٹھنڈا کلیجا ہو گیا ۔ میرے دل میں جو پھپھولا تھا وہ اولا ہو گیا ۔

کلیجا جلانا - اپنے دل کو جلانا -

کلیجا چھن جانا - کلیجا چھلنی ہو جانا - کسی کی طرف سے نہایت رنجیدگی حاصل ہونا طعن و تشنیع سنتے سنتے تھک جانا ۔ ع - بس ناصح یہ تیر ملامت کہاں تلک ۔ ہاتھوں سے تیرے آہ کلیجا تو چھن گیا ۔

کلیجا دھڑکنا - دھک دھک کرنا - دل پر اضطراب طاہر ہونا - ڈرنا - خوف کرنا -

کلیجا دھک سے ہو جانا - کسی خوف یا صدمے کا صدمہ اچانک دل پر پہونچنا - جان صاحب - ہو گیا دھک سے کلیجا آوئی میں تو ڈر گئی ۔ گھر میں بی مہتاب کے ٹوٹا جو تارا رات کو ۔

کلیجا سلگانا - جلانا - رنج دینا - جی جلانا - تکلیف پہونچانا - جرأت - یہ کہ کے شب وصل میں سلگا نہ کلیجا ۔ ہے ہے نہ لپٹ مجھسے کہ پنڈا ہے ترا گرم ۔

کلیجا کاڑھ کے - کلیجا نکال کے دینا - کسی شخص کو زر نقد یا کوئی اور چیز جو نہایت عزیز ہو دینا -

کلیجا کاڑھ - نکال لینا - ڈاین کی طرح جادو کے زور سے جگر نکال کر کھا جانا - کسی کو موہ لینا - عاشق بنا لینا - بہت سی جنس اچھی اچھی چیزیں چھانٹ لینا - کسی کی دولت پونجی چرا لینا -

کلیجا کانپنا - ڈر لگنا - خوف معلوم ہونا -

کلیجا کٹنا - خونی دست آنا - بیجا روپیہ صرف ہونا -

کلیجا کھرچنا - بھوک لگنا - اشتہا معلوم ہونا -

کلیجا کھلانا - کسی کو خوب روپیہ کھلانا - کمال خاطر و مدارات کرنا ۔ ع - شاد ہو ہو کے کھلاتا ہوں کلیجا اپنا ۔ غم کبھی کیا یاد کر یگا کہ مدارات نہ کی ۔

کلیجا منہ کو آنا - جی الٹا پلٹا ہونا - نہایت جی گھبرانا - بیتابی و قلق ہونا - ظفر - اگر کچھ منہ سے بولوں تو مزا الفت کا جاتا ہے ۔ اگر چپکا رہوں تو یہ کلیجا منہ کو آتا ہے -

کلیجا ملنا - دل کو مسوسنا - دل صدمہ پہونچانا - رنج دینا - سحر - رنج فرقت کو یہ سختی نہیں ایذا کوئی ۔ دل میں بیٹھا ہوا ملتا ہے کلیجا کوئی ۔

کلیجے پر سانپ لوٹنا - بیقراری کی حالت میں ہونا ۔ ع - کلیجے پر ہمارے لوٹتا ہے سانپ سا اُس دم ۔ شب ہجراں میں جب یہ لف مسلسل یاد آتی ہے

کلیجے پر گھونسا سا لگنا - دل پر نہایت چوٹ لگنا - صدمہ پہونچنا - جرأت - کہے کے غصے میں پھر آیا اور بھی چلتے ہوے ۔ ایک گھونسا سا کلیجے پر لگا جاتے ہو تم

کلیجے پر ہاتھ دھر کے دیکھنا - اپنا سا حال دوسرے شخص کا بھی تصور کرنا -

کلیجے یا جگر سے دھواں اٹھنا - دل کی سوزش ظاہر ہونا - آہ نکلنا - جرأت - لگائی آگ کس نے میرے گھر کو ۔ دھواں کیوں اٹھتا ہے میرے جگر سے ۔

کلیجے سے لگا کے رکھنا - نہایت عزیز جاننا -

کلیجے کا ٹکڑا - لخت جگر - پیارا فرزند -

کلیجے میں ہاتھ ڈالنا - کلیجا نکال لینا - دل چھین لینا - دل میں جگہ کرنا - دل آزاری کرنا - میر حنا سے یار کا پنجہ نہیں ہے گل کے رنگ ۔ ہمارے اُسنے کلیجے میں ہاتھ ڈالا ہے ۔

کلمے کا شریک - ہم مذہب - مسلمان بھائی -

کُل اُچھال - ننگ خاندان - اپنے آبا و اجداد کو بدنامی دینے والا -

کلکلان کو - آیندہ کو - اتفاقاً - قضا کار -

کلمہ گو - مسلمان - ایماندار آدمی -

کلجگ کا پرچھاوا ہے - زمانے کا اثر ہے - بہت برا زمانہ آگیا ہے -

کل کی بات ہے - تھوڑے دن کی بات ہے -

کلمے کی انگلی - سبابہ - انگشت شہادت -

کلھیا میں گڑ پھوڑا ہی پھوٹتا ہے - پوشیدہ کام نہیں ہوسکتا -

کاف با میم

کمال کرنا - اپنے کمال سے کسی کو دھوکا دینا - کوئی انوکھی عجیب بات ظاہر کرنا

کما لینا - کمزور کر دینا - ست نہ چھوڑنا - کچھ پیدا کرنا -

کمان پر جانا - فوجی خدمت پر جانا - لڑائی پر مامور ہونا -

کمان چڑھنا - فتحیاب ہونا - جیتنا -

کمان دغنا - حکم ہو جانا - بندوق چلنا -

کم بختی آنا - برے دن آنا -

کم بختی کا مارا - بدنصیب - بدقسمت -

کم بختی نے تو نہیں گھیرا - شامت تو نہیں آئی - تقدیر نے دھکا تو نہیں دیا - شوق - اب میں سمجھی جو قصد تیرا ہے ۔ تجھکو کم بختیوں نے گھیرا ہے ۔

کمپا مارنا - ایک لکڑی سے جسکو کمپا بولتے ہیں کسی پرندے کو پکڑ لینا - برق - ناامید پار گیا تیغ کے لوہے کیا ۔ طائر سدرہ کو صیاد نے کمپا مارا ۔

کمپو پڑنا۔ لشکر کا اُترنا۔ فوج کا قیام ہونا۔
کمپو کا بگڑا ہوا۔ سرکش۔ باغی۔ مفسد۔
کمر سُننا۔ بہرا ہونا۔ اونچا سُننا۔
کمر باندھنا۔ مستعد و تیار ہونا۔
کمر پکڑ کے اُٹھنا۔ کمزور ہو جانا۔ بڈھا ہونا۔
کمر پکڑنا۔ سہارا دینا۔ مدد کرنا۔
کمر ٹوٹا۔ کوز پشت۔ کُبڑا۔ نامرد۔ ڈھیلا۔
کمر ٹوٹنا۔ کمر کی طاقت نہ رہنا۔ کسی عزیز کا مر جانا۔ جرأت۔
نازک کمر جب اپنی تو نے سفر پہ باندھی + کیونکر کمر کسی کی رے نازنین ٹوٹے
کمر توڑنا۔ کمزور و ناتوان کر دینا۔ ذوق۔ توڑا کمر شاخ کو کثرت نے
ثمر کی جو دنیا میں گرانباری اولاد غضب ہے۔
کمر ٹھوکنا۔ کسی کام کے کرنے پر مستعد کرنا۔
کمر جھکنا۔ کوز پشت ہو جانا۔ ضعیف ہو جانا۔
کمر رہ جانا۔ چل پھر نہ سکنا۔ تھک جانا۔
کمر سیدھی کرنا۔ چلتے چلتے ذرا آرام لینا۔ لیٹ جانا۔
کمر کا ڈھیلا۔ نامرد۔ کمزور۔
کمر کرنا۔ کبوتر باز اپنی ٹکڑی کے کبوتروں کو آدھو آدھ الگ الگ
کر دیتے ہیں اسکو کمر کہتے ہیں۔ گھوڑا بھی اپنی کمر کو اچھال کر چاہتا ہے
کہ سوار میری پشت سے گر پڑے اسکو بھی کمر کرنا کہتے ہیں یہ ایک
عیب گھوڑے میں ہوتا ہے۔ ناسخ۔ کیا ہوا اے طفل تجھی تاب کمر کا اثر +
تری ٹکڑی کے کبوتر بھی کمر کرتے ہیں۔
کمر کھولنا۔ آرام لینا۔ کسی کام کے کرنے سے دست بردار ہونا۔
کھول ڈالی قتل کر کے ہم کو قاتل نے کمر + آج سرکش پھر گئے خالی تمنچا ہو گیا +
کمر لگنا۔ گھوڑے کی پیٹھ کا زخمی ہو جانا۔
کمر مارنا۔ فوج کے بڑے حصے پر حملہ کرنا۔
کمہار کا آوا۔ بڑا آوا جس میں برتن پکاتا ہے۔ کنایۃً ماں کا پیٹ۔
کمیلہ کرنا۔ ذبح کرنا۔ چھری چلانا۔
کمی نہ کرنا۔ بس چلنے میں کسر نہ کرنا۔ پورا زور لگانا۔ داغ۔ ستم بھی
کر نا جفا بھی کرنا نگاہ الفت کبھی نہ کرنا + تمہیں قسم ہے ہمارے سر کی ہمارے حق میں کمی نہ کرنا
کم کا مضبوط۔ دیر تک ٹھہرنے والا۔ زور آور۔ طاقت ور۔ بہادر۔
کم ظرف۔ تھوڑے حوصلے کا آدمی۔ سفلہ۔ شوق۔ ایک ساغر میں
ہوش اُڑ گئے واہ کتنے کم ظرف ہو معاذ اللہ۔
کم بختی کے دن۔ مصیبت کا زمانہ۔ بُرا وقت۔

کاف با نون

کنارہ کرنا۔ کنارہ کشی کرنا۔ کنارہ کش ہونا۔ الگ ہونا
علٰحدگی اختیار کرنا۔ باز آنا۔ بچنا۔
کنارے کنارے چلنا۔ الگ الگ چلنا۔ بچکر چلنا۔
کنارے لگانا۔ منزل مقصود تک پہونچانا۔ دریا پار کر اتار دینا۔
کنارے لگنا۔ دریا پار ہونا۔ ختم ہونا۔ مرنا۔
کنارے ہو جانا۔ ایک طرف ہو جانا۔
کن انکھیوں سے دیکھنا۔ گوشۂ چشم سے نگاہ کرنا۔ نیچی نظروں سے دیکھنا
کنٹھا اُٹھانا۔ تسبیح ہاتھ میں لیکے قسم کھانا۔ گنگا جلی اُٹھانا۔ جگر۔
ہمسے تم و غبار یہ باور نہیں ہمیں + کوشتے خاک پاک کا کنٹھا اُٹھا لیا +
کنٹھ بیٹھنا۔ گلا بیٹھنا۔ آواز بھاری ہونا۔
کنٹھ سوکھ جانا۔ پیاس سے حلق خشک ہونا۔
کنٹھ کرنا۔ حفظ کرنا۔ نوک زبان کرنا۔ ازبر کرنا۔
کنٹھ نکلنا۔ یا پھوٹنا۔ بلوغت کو پہونچنا۔ جوانی کی علامت ظاہر ہونا
کنٹھی باندھنا۔ کسی کا چیلا یا مرید ہونا۔
کنٹھی دینا۔ چیلا یا مرید ہونا۔
کنچن برسنا۔ ہر سمت سے روپیہ کی آمد ہونا۔
کنچن نیر۔ نہایت صاف پانی۔ دوہا۔ دلی نگر سہاونا جسکے
کنچن نیر۔ سب کے کنٹھ بڑور کے لے گئے عالمگیر۔
کندن بن جانا۔ صفا ہو جانا۔ نستھر نکل آنا۔
کندھا دینا۔ سہارا لگانا۔ کسی کے جنازے کو کندھے پر اُٹھانا۔
کندھا ڈال دینا۔ بیل کا اپنے کندھے سے جوئے کو گرا دینا۔ ہمت ہارنا
کندھا لگنا۔ کندھے کا زخمی ہونا۔
کندھے لگانا۔ بچے کو کندھے لگا کر سُلا دینا۔
کندی کرنا۔ موگری سے کوٹ کر کپڑے کو صفا کرنا۔ زدوکوب
کرنا۔ مارنا۔ پیٹنا۔
کن سوئی لینا۔ دوسرے کی بات چھپ کے سُننا۔
کنکنا سا۔ نہایت سرد۔ بہت ٹھنڈا۔
کن کرنا۔ کھڑی کھیتی پر جا کر اناج کا اندازہ کرنا۔
کنواں ٹوٹنا۔ کنوئیں کا پانی کم ہو جانا۔ ناسخ۔ سفلہ ہو جاتا ہے وقت
امتحاں بے آبرو + ہو دلیل اس مدعا پر ٹوٹ جانا چاہ کا +
کنواں جوتنا۔ کنوئیں سے پانی کھینچنا۔
کنواں چھوڑ دینا۔ کنوئیں سے پانی کھینچنا موقوف کرنا۔

کنوتیان بدلنا - گھوڑے کا کان کھڑے کرنا -
کنوڈا کرنا - شرمندہ کرنا - لجانا - ممنون کرنا - احسان سے دبانا -
کنوین مین بانس ڈالنا - ٹٹولنا - ڈھونڈھ بھال کرنا - تلاش کرنا -
کنوین جھانکنا - نہایت جستجو کرنا - تلاش کرنا - سحر - یہ جگہ وہ ہے
فرشتون نے کنوین جھانکے ہین ✽ پاک آلائش دنیا سے بشر کیا ہوگا ✽
کنوین جھکانا - سانٹ کنوین دکھانا یہ باولے گتے کے کاٹے کا
ایک ٹوٹکا ہے ناچ نچانا - ناک مین دم کرنا - تنگ کرنا - میر حسن -
ذرا چاہ کا دیکھ اپنی مزا ✽ جھکاتی ہون کیسے کنوین مین بھلا -
کنوین مین بولنا - باریک اور دبی آواز سے بولنا - قریب المرگ ہونا
کنیہ نکالنا - بغض اور غصہ نکالنا -
کنی دینا - چھپنا - کنیانا - لحاظ کرنا - ڈرنا ✽
کنی کھانا - کنکوے کا ایک طرف جھکنا - شرمانا - آنکھیں سامنے نہ کرسکنا
کنکر پتھر - جواہرات ہیرا - موتی - پنّا - حقارتاً - ناکارہ چیزین -
کن ماتر - نہایت قلیل - بہت تھوڑا -
کندہ ناتراش - احمق آدمی - بیوقوف -
کنجڑے کا غلہ - وہ برتن جسمین کنجڑا کوڑیان پیسے اپنی جنس کی
بکری کی جمع کرتا ہے - ملا جلا حساب - گڈبڈ - کھچڑی - ابتری بے ترتیبی -
کنجڑون کی بولی - فحش گالی - سائیسون کی زبان -
کنجڑے قصائی - کم ذات لوگ -
کنگھی چوٹی - بناؤ - سنگار - آرائش - سے - وہ اندھیر کیگی
شب وصل ✽ کنگھی چوٹی مین مستی کا جل مین ✽

کاف با واو

کوریت اتارنا - کوارپن اتارنا - ازالہ بکارت کرنا -
کوار ٹوٹا توڑ کھانا - مفلسی کی حالت مین دن کاٹنا -
کوبا کاری کرنا - زد و کوب کرنا - خوب پیٹنا -
کوتاہ کرنا - مختصر کرنا - بیباق کرنا - چکا دینا -
کوٹھلا بھرنا - پیٹ بھرنا -
کوٹھا بگڑنا - ہاضمہ بگڑنا - معدہ خراب ہونا - عورت کا رحم
خرابی مین آنا - اولاد کا پیدا نہونا -
کوٹھی بیٹھنا - دوکان مین گھاٹا آجانا - دیوالہ نکلنا - ٹاٹ الٹ جانا
کوٹھے پر بیٹھنا - کوٹھا لیکے بیٹھنا - زناکاری کا پیشہ کرنا - رحمت -
انکھو نہین لحاظ آپ مجھکو شرم ہے ✽ بیٹھونگی کوٹھا لیکے مین بھنڈی نرائن ✽
کوچہ گردی کرنا - واہی تباہی پھرنا -

کوچاکریلا - وہ بچہ جسکو سیتلا نکل چکی ہو - داغ دغیلا -
کوچ کرنا - روانہ ہونا - سدھارنا - مرجانا - جانی - کوچ سب
کر گئے دل سے ترے قدر شناس ✽ قدر یان رہ گئے اب اپنی نہ گنوانا ہرگز ✽
کوچے - کونچین کاٹنا - کسی کے دونون پانون ایڑی اور ٹخنے کے درمیانی
پٹھے کاٹ ڈالنا - لنگڑا کر دینا - ناسخ - تونے جس روز سے قاتل
مرے کوچے کاٹے ✽ بوالہوس نے ترے کوچے کا گذر چھوڑ دیا ✽ بحر -
کوچہ گردی سے کسی صورت قدم رکتے نہین ✽ کاٹ ڈالون اپنے کوچے ہی تقریبا ✽
کودون دلانا - کودون ایک سخت ناج کا نام ہے جسکا دلنا مشکل ہے
سخت کام کرانا - محنت شاقہ لینا -
کودون دے کے پڑھنا - استاد کو کودون ناج دیکر علم پڑھنا -
کورا بچ جانا - صاف کسی صدمے سے رہائی پانا -
کورا رکھنا - کچھ فائدہ نہ پہونچانا - محروم رکھنا -
کورے استرے سے سر مونڈنا - تیز استرے سے حجامت
بنانا - سب کچھ چھین لینا -
کوڑا کرنا - گھوڑے کو تازیانہ لگانا - صبا - توسن طبع کو کڑیالے تو
مین کوڑا کیا کیا ✽ ایک اک گام پہ پلٹا ہے یہ گھوڑا کیا کیا ✽
کوڑی کا ہو جانا - کوڑی کی قیمت کا ہو جانا - بے قدر ہو جانا
کام کا نرہنا - آتش - ہر جب سے اسکے ہاتھ مین ساغر شراب کا
کوڑی کا ہو گیا ہے کٹورا گلاب کا ✽
کوڑی کا کر ڈالنا - بے عزت کرنا - حبیب - انھون نے اسکے عشق کے
بازار مین حبیب ✽ کوڑی کا کر دیا گہر آبدار کو ✽
کوڑیان کرنا - کوئی جنس سستی فروخت کر دینا -
کوڑی کوڑی جوڑنا - مصیبت سے مال جمع کرنا -
کوڑی کوڑی کو حیران ہونا - نہایت مفلس و نادار ہونا -
کوڑی پاس نہونا - مفلس و محتاج ہونا -
کوڑی کوس دوڑنا - نہایت محنت سے روپیہ پیدا کرنا -
کوڑی کو نہ پوچھنا - نہایت بیقدری ہونا -
کوڑی کو تین تین بکنا - یا ہونا - نہایت ارزان و سستا ہونا - ظفر -
کوڑی کا اس جہان مین نقش و نگین ہے ✽ کوڑی نہو تو کوڑی
کے پھر تین تین ہین ✽
کوڑی کے کام کا نہین - محض نکما اور ناکارہ -
کوڑیون کے مول بکنا - ہونا - ارزان اور سستا بکنا - آتش - محبت
کوڑیون کے ہو اگر مول ✽ نبی آدم نہ لے یہ دردسر مول ✽

کوزے مین دریا کو بند کرنا - بہت سی چیز کو چھوٹے برتن مین الگ دکھلا دینا - ذوق - ضبط گریہ نے تماشا طرفہ تر دکھلا دیا * چشم کے کوزے مین دریا بند کر دکھلا دیا *

کوسون بھاگنا - دور دور رہنا - پاس نہ آنا - مؤلف - غضب ہے شیر کے رہتے ہین وہ پاس * ہوا خواہون سے کوسون بھاگتے ہین +

کوکھ ماری جانا - عورت کا بانجھ ہو جانا - بے اولاد رہنا -

کولا کاٹنا - بوٹیان نوچنا - کھال اُتارنا -

کولھو کاٹ کر موگر ا بنانا - قیمتی اور بڑی چیز کو کاٹ کر بے قیمت اور چھوٹی چیز بنانا - بیوقوفی کا کام کرنا -

کولھو کے بیل کی طرح پلنا - محنت و مشقت کرنا -

کولھو مین پلوانا - کسی کو کولھو مین پلوا کر مروا ڈالنا - سخت سزا دینا -

کولے مین لے لینا - بغل مین لے لینا - بغلگیر ہونا - جرأت - لے دل اسے کولے مین اگر مین تو عجب کیا * بے مرہم ابھی زخم مرے دل کا بھر آئے -

کونڈا کرنا - کسی بزرگ کی نیاز دینا - جان صاحب - ہما کی مرے سر کی قسم آئیو ضرور * کونڈا کر دنگی جمعے کو سید جلال کا *

کونڈی سونٹا بجنا - بھنگ گھٹنا اور پینا -

کوئی کسی کی قبر مین نہین جائیگا - کوئی کسی کے بدلے نہین مریگا -

کوئی کسی کا رنج نہین اُٹھائیگا -

کوکھ کی آنچ - پیٹ کی آگ مادری محبت -

کوڑی بھر - قدر قلیل - کم مقدار چیز -

کوڑ مغز - احمق بے وقوف -

کوڑیون کے مول - بہت کم قیمت پر -

کولھو کا بیل - تیلی کا بیل - نہایت محنتی -

کوڑیا غلام - بے قدر غلام - بے عزت ملازم - مفت کا نوکر -

کوٹھی والیان - کسبن عورتین -

کوئی نہین پوچھتا کہ تیرے منھ مین کتنے دانت ہین - بڑا امن چین اور آزادی کا زمانہ ہے کوئی کسی کا مزاحم حال نہین ہے -

کوئی دن تک یاد کروگے - اب تو آپ ہماری قدر نہین کرتے لیکن ہمارے بعد کسی قدر زمانہ تک ہمکو یاد کیا کروگے -

کوڑی کوڑی - بالکل تمام وکمال - ذرا ذرا -

	کاف با ہاے	

کھاتا پیتا - آسودہ حال - خوش گذران -

کھاتے پیتے لاتین مارنا - آسودگی مین خدا کی شکایت کرنا - ناشکری کرنا -

کھاٹ پر پڑنا - بیمار پڑنا -

کھاٹ سے اُتارنا - بیمار کو زمین پر اُتار رکھنا - اسکا قریب المرگ ہونا -

کھاٹ سے لگ جانا - نہایت بیمار ہونا -

کھاری کنوین مین قند ڈال دینا - ضائع کرنا - تلف کرنا - کھو دینا - بحر - قنادگر سُنے تجھے شیرین دہن کے وصف * کھاری کنوون مین قند کے کوزون کو ڈال دے *

کھٹ پٹ - گلہ شکایت - بات چیت -

کھال اُتارنا - کسی کے جسم کی کھال اکھاڑنا - جان سے مارنا -

کھال اُدھیڑنا - سخت زدوکوب کرنا -

کھال کھینچنا - جان سے مارنا - قتل کرنا - آتش - شانہ کبھی جو آکی زلفون کے بال کھینچے * مشاطہ کے وہ بیشک غصے مین بال کھینچے *

کھانا دینا - دعوت یا ضیافت کرنا -

کھانڈے کی دھار پر چلنا - خطرناک مقام پر جانا - بے خوف اور بے لگاؤ ہونا - عادل اور منصف ہونا -

کہان کا آنا - کہان کا جانا - ترک ملاقات کرنا - کسی سے نہ ملنا - داغ - کہان کا آنا کہان کا جانا وہ جانتے ہی نہین یہ رسمین + وہان ہے وعدے کی بھی یہ صورت کبھی تو کرنا کبھی نکرنا *

کھانے کمانے کا ٹھیکرا - روزی کا باعث -

کھٹا کھانا - سخت سست باتین سُننا - گالیان کھانا -

کھٹا میٹھا ہونا - منھ مین پانی بھر آنا - جی للچانا - ظفر - جب نظر آئی مجھے شوخ کے سینے کی بہار * کھٹا میٹھا سا لگا ہونے مرا دل ایکبار +

کھٹا ہو جانا - ترش ہو جانا - بیزار ہو جانا - افسردہ خاطر ہو جانا -

کھٹائی مین پڑنا - زیور کا اُجالنے کے لیے کھٹائی مین پڑنا - کسی مصیبت و تکلیف مین پڑنا - میر زادوالاجاہ - لیمون پر جان لی تمھاری ترش روئی سے * کھٹائی مین پڑے رہتے ہین جیتے مین نہ مرتے ہین یا رشلی - بجلی گرے الٰہی مہاجن کی جان پر * کیا پڑ گئین کھٹائی مین کانون کی بالیان *

کھٹائی مین ڈال دینا - کسی بکھیڑے جھگڑے مین ڈال دینا - صبا - جواب صاف دیدو فائدہ کیا ترشروئی سے * ہمین کیون ڈال رکھا ہے ابھی تک کھٹائی مین *

کھٹراگ مین پڑ جانا - بیفائدہ اور فضول کام مین پڑ جانا - صبا - پڑے ہین عشق کے کھٹراگ مین ہم اسے مطرب * کسے خیال ہے دھر پد تھا اپنے ترویٹ کا *

کھٹکا لگا رہنا - فکر و تشویش میں رہنا -

کھٹیا سینا - چارپائی پر پڑے رہنا - بیمار رہنا -

کھٹیا ڈھونا - گذارہ ہونا - گذر ہونا - میل جول ہونا -

کھٹی چھاچھ سے بھی جانا - تھوڑے فائدے سے بھی جاتا رہنا -

کھٹی میٹھی باتین سننا - بری بھلی باتین سننا -

کھجلی اٹھنا - خارش اٹھنا - مار کھانے کو جی چاہنا - خواہش نفسانی کا دور کرنا -

کھچڑی آنا - بیری کے درختون پر پھول آنا -

کھچڑی پکانا - پوشیدہ صلاح و مشورہ کرنا - پوشیدہ سازش کرنا -

کھچڑی پکنا - لوگون مین پوشیدہ پوشیدہ کسی امر کا تذکرہ ہونا - نشاط

یہ بات رہی ہے جو یہ کھچڑی سی سمدھون مین جس سے ٭ اب تلک مسکی

کھچڑی دال نہ چاول گل سکا ٭

کھچڑی ہونا - بالون کا سیاہ و سپید ہو جانا - گڈمڈ ہو جانا - مل جل جانا -

اپنی کھدارنا - اپنے آپ کو خوش معاملہ ظاہر کرنا -

کھر پاجانی سنبھالنا - سائیسی کرنا - گھاس کھودنے جانا -

کھرتل کہنا - صاف صاف کہنا - سچ بولنا - لاگ لپیٹ نہ رکھنا -

کھرل کرنا - پیسنا - نہایت باریک کرنا -

کھری سنانا - صاف صاف کہنا - ذرا لحاظ نہ رکھنا - لگی لپٹی نہ رکھنا -

کھر کھوج کھونا - مٹانا - نام نشان نہ رکھنا - کسی چیز کا ناس کر دینا -

کھڑا پچھاڑین کھانا - کسی حبیب کے رنج میں کھڑا ہو کر گر پڑنا -

نہایت درجہ کا سوگ اور ماتم کرنا -

کھڑا ایڑیا پیٹنا - سخت ماتم کرنا -

کھڑا ترسنا - کسی امر کے حاصل ہونے کے واسطے منتظر رہنا کہ

کب حاصل ہوتا ہے - احسن - ترس تجھکو نہین اے شوخ اتنی کیا ہے

نارسائی ٭ ترے دیدار کو مین دیدۂ ترسون کھڑا ترسون ٭

کھڑا رہنا - منتظر رہنا - ٹھہرنا - راہ دیکھنا -

کھڑا کر کے دکھانا - خوشخوار کو کچھ نہ دینا - انگوٹھا کھڑا کر کے دکھانا -

کھڑا کرنا - ٹھہرانا - روکنا - قائم کرنا - برپا کرنا -

کھڑے گھاٹ دھلوانا - دھوبی سے کپڑے ختم چڑھائے بغیر

کھڑے کھڑے دھلوا لینا -

کھسیج نکالنا - کسی کا عیب یا نقص ظاہر کرنا - نکتہ چینی کرنا - حجت نکالنا -

کھسر پھسر کرنا - کانا پھوسی کرنا - سرگوشی کرنا -

کھکیڑ اٹھانا - سخت محنت و رنج اٹھانا - ذوق - آوارگی سے کوچے

نعمت سے ہاتھ اٹھا ٭ اسے ذوق یہ اٹھا نہ سکیگا کھکیڑ تو -

کھل بیٹھنا - فراغت سے بیٹھنا - آرام سے بیٹھنا - مصحفی - مکان

مصحفی اسکو تو سمجھو آپ کا گھر بے تکلف کچھ نہین کھل بیٹھیے یہان بے حجابی سے

کھل کھیلنا - بے شرم ہو کر کام کرنا - کسی کا خوف نہ رکھنا - جرأت -

گالیان دینے لگے نام مرا لے کے تم ٭ کچھ مری چاہ کے کھلنے نے

ہے کھل کھیلے تم ٭

کھلی مین اڑانا - ہنسی اڑانا - بیوقوف احمق بنانا - ناسخ - باغ مین

اس گل کو لیجا کر ہنسایا چاہیے ٭ کھلیون مین عندلیبون کو اڑانا چاہیے

کھلے سور کہنا - سب کے روبرو سور کہہ راگ گانا - جو کہنا -

برملا کہنا - لحاظ نہ رکھنا -

کھلیون مین لینا - مذاق کرنا - ہنسی کرنا - پھبتی اڑانا - بحر -

شرم غنچہ کو ہی تیرے دہن سے ورنہ ٭ کھلیون مین اسے اک گل خندان لیتا

کہنا ٹال دینا - کسی کا حکم نہ ماننا -

کہنا سننا - اختیار - دخل - پہونچ - حکم احکام - صفدر فوقانی

بولے گلشن مین بلبل بھلا کیون وقت بہار ٭ اسکا چلتا ہی نہ اک باغ مین کہنا سننا

کھنڈت کرنا - کسی کام مین خلل پڑنا -

کھنڈے استرے سے سر مونڈنا - ستانا - تکلیف دینا -

رنج پہونچانا - دق کرنا -

کنگھی لگ جانا - نہایت لاغر ہو جانا - ہڈی پسلی دکھائی دینے لگنا -

کہنے مین آجانا - کہا مان لینا - انکار نہ کرنا -

کھوپری چٹکنا - سر درد ہونا - چکرانا - سر پھٹا جانا - بحر -

شراب عشق کی حدت سہار ہے کیونکہ یہ جیالی نشہ کا ہی کھوپری چٹکتی ہے ٭

کھوپری کھا جانا - مغز کھا جانا - دق کرنا -

کھوٹ ہونا - نقص ہونا - عیب ہونا - خرابی ہونا - بغض و

عداوت ہونا - بحر - یکرنگ آشنا نہین ہمنے پرکھ لیا ٭

منہ پر ہین دوست آپ مگر دل مین کھوٹ ہے ٭

کھوٹی کرنا - کہنا - برائی کرنا - بدگوئی کرنا - جرأت - گر مین کھون

کہ ہے تو کی کھوٹی تمنے جان ٭ تو کس واسطے بولے کہ ہان ہم مین کھوٹ ہے -

کھوج کھونا - پتہ و نشان گم کرنا -

کھود کر پوچھنا - تحقیقات کرنا - چھان بین کرنا - دریافت کرنا -

کھو کر سیکھنا - نقصان اٹھا کر تجربہ حاصل کرنا -

کھونٹا سا گڑ جانا - میخ کی طرح گڑ جانا - قائم ہو جانا - ٹھیک بیٹھ جانا -

کھونٹے پر مارنا - عقد منعقد ہونا - بیر مارنا -

کھونٹے سے بندھ جانا - پر العلق ہو جانا - نکاح ہو جانا -

کھونٹے کے بل کودنا۔ کسی کی حمایت پر لڑنا۔
کھونٹی نہ چھوڑنا۔ ایسی حجامت کرنا کہ بال کی کھونٹی کہیں نظر نہ آئے۔ بخوبی غارت کرنا۔ لوٹنا۔ صفایا کر دینا۔
کھوئے جانا۔ گم ہو جانا۔ حواس باختہ ہونا۔ لاجواب ہونا۔
کھوے سے کھوا چھلتا تھا۔ آدمیوں کی اتنی کثرت تھی کہ شانے سے شانہ رگڑا جاتا تھا۔
کھیت پڑنا۔ لڑائی میں بہت سے آدمیوں کا مارا جانا۔ سحر کبھی
تو سبزۂ شمشیر امتحان دیکھیں ہم بھی کہ کھیت پڑے کشت دل ہری ہو جائے
کھیت چھوڑ جانا۔ شکست کھانا۔ لڑائی سے بھاگ جانا۔
کھیت رہنا۔ لڑائی میں مارا جانا۔
کھیت کرنا۔ زراعت کرنا۔ کھیتی کرنا
کھیڑا دلیا ہو جانا۔ انقلاب ہونا۔ قسمت الٹ جانا۔ کچھ کا کچھ ہو جانا۔ ۔۔۔ اپنی قسمت کی یہ کیا ہیر پھیر نکلا دلیا بکاولی کھیر تھی
کھیں کھانا۔ خاک کھانا۔ جھوٹ بولنا۔ جھک مارنا۔
کھیسا کھایا۔ تجربہ کار۔ جہاں دیدہ۔
کھیل بگاڑنا۔ کسی کا بنا ہوا کام خراب کرنا۔ ۔۔۔ حکم و بتکا
۔۔۔ بیمار پایا ۔۔۔ دن گزرے تو بس سارا کھیل بگڑ گیا
کھیل بنانا۔ مباشرت کرنا۔
کھیل سمجھنا۔ کسی کام کو سہل یا آسان تصور کرنا۔ شوق ۔۔۔
دیدہ و دل ۔۔۔ سمجھا ہے کیا ملاقات کھیل سمجھا ہے
کھیل کرنا۔ کھیلنا۔ تماشا کرنا۔ ہنسی ٹھٹھا کرنا۔
کھیل کھلانا۔ ناچ نچانا۔ دق کرنا۔ ستانا۔ مارنا۔
کھیل کھیل ہو جانا۔ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جانا۔
کھیں کا نہ رہنا۔ نہ دین کا رہنا نہ دنیا کا۔ کسی کام کا نہ رہنا۔
کھاری کنوان۔ بے فیض آدمی۔
کہاں کہاں۔ بہت دور سے ٹھکانے۔
کہنے کی باتیں ہیں۔ وہ باتیں جنکی اصل نہو۔
کہنے کو۔ نام کو ذکر کو
کھل کے۔ خلاصہ اچھی طرح سے۔ آرام سے۔ حسب دلخواہ۔ میر تقی
جوں صبح اس چمن میں نہ ہم کھل کے ہنس سکے فرصت رہی سو میر بھی اک نفس رہی تھی
کھلا خزانے۔ کھلے بندوں۔ کھلا بازار۔ علانیہ۔ کھلم کھلا۔
ظاہر سب کے سامنے۔ آرزو۔ کھل کر نہ قبا کی بند کے ۔۔۔ دل

غارت کیا ہے کیا حصار قلب دلبر نے کھلے بندوں لیا۔ حکیم الدولہ ہجو
جی میں جو آئے مانگ لو حق سے ہے معرفت کے کھلے خزانے ہیں۔ مولانا اکبر
لاکھوں یوسف یہاں سے آکر ہے ہو سدا عشق کا کھلا بازار ہے
کھوٹا پیسا یا کھوٹا بیٹا وقت پر کام آتا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ کھوٹا پیسا بھی کبھی چل جاتا ہے اور کھوٹا بیٹا بھی کسی مشکل کے وقت کام آتا ہے۔ ناسخ۔ سچ مثل ہے کبھی کام آتا ہے کھوٹا بیٹا
صنم دیر ہوئے طالب ایمان ہم سے
کھیل ہے۔ تماشا ہے۔ آسان کام ہے۔ ادنے بات ہے۔ قطعہ از مؤلف
کھیل کر اسکو کوئی جیتا نہیں کس قدر مشکل یہ دنیا کھیل ہے ہر کوئی مشغول اس بازی میں ہے فی الحقیقت یہ انوکھا کھیل ہے

کاف یا یائے

کیا انھیں کے سر سہرا باندھا گیا یعنی اس کام کا مدار کیا انھیں پر ہے
کیا بگڑ جاتا۔ کیا نقصان ہوتا۔ کیا بگڑتا۔ جان صاحب ۔۔۔ بات کرتی جو انہوں میں ۔۔۔ صاحب ذلیل ہوتی یہ بندی تمھارا کیا جاتا
کیا کیا۔ بہت کچھ بہت سا بخوبی۔ داغ۔ بعد استاد ذوق کے کیا کیا ۔۔۔ شہرت افزا کلام داغ ہوا۔
کیا کیا کچھ کیا۔ کون سی بات باقی رکھی۔ سب کچھ کیا ۔۔۔ کیا کیا
نہ تیرے عشق میں ۔۔۔ کیا صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا
کیا ہوتا۔ کچھ بھی نہ ہوتا۔ ذرا اثر نہ کرتا۔ ذوق۔ کیا ہوتا جو سمجھاتا آہستہ ۔۔۔ دوست ہے دشمن کا سخن ذہن نشین ہو ہی چکا تھا
کیڑا دینا۔ کسی کی خواہش نفسانی مٹانا۔
کیڑا کاٹ کھانا۔ خواہش نفسانی کا زور ہونا۔
کیڑا لگنا۔ کیڑا کھا جانا۔ خراب ہو جانا۔ آتش۔ روئے گل ہے
دیکھ کر شبنم کو کہتا ہے وہ گل ہے کیا ہی پھبتی ہے کہ کیڑا لگ گیا بادام میں
کیل نکالنا۔ خوب ٹھیک کرنا۔
کینچلی بدلنا۔ پوشاک بدلنا۔ اچھے کپڑے پہننا۔
کینڈا کرنا۔ اندازہ کرنا۔ تخمینہ پھیلانا۔
کیل کانٹا درست رکھنا۔ سامان درست رکھنا۔
کیا خوب۔ واہ وا کیا کہنی۔ بڑی اچرج یا اچنبھے کی بات ہے۔ میر تقی
کیا خبر۔ کچھ خبر نہیں۔ معلوم نہیں۔ داغ کسی کو کیا خبر کیوں
خیر و شر پیدا کیا تو نے جو کچھ خدائی میں ہے ۔۔۔ تیرا وہ
کیا درزی کا کرچ اور کیا ہتھوڑا۔ چونکہ درزی کے اوزار سوئی تاگا قینچی وغیرہ ہیں اسمیں ۔۔۔ اسکا ۔۔۔ اور ۔۔۔ یکساں ہے

کیل کا کھٹکا نہیں - کچھ اندیشہ نہیں - سحر - درد ہن کے لیے خاشی
مناسب ہی ٭ یہی ہی قفل نہیں جسمین کیل کا کھٹکا -

کیون نہو کیون نہین - بیشک ضرور کلمۂ تحسین و آفرین - ناسخ - سکون کی
طرز سخن ہی جو اُسے آتی نہین ٭ کیون نہو شاگرد ہی ناسخ میر اک اُستاد کا -

کیا واسطہ - کیا وجہ - کیون - کس لیے - ظفر - کیا سبب کیا واسطہ
کیا کام تمھا بتلایئے ٭ گھر سے جو نکلے نہ اپنے تم ظفر دو دن تلک ٭

کیا بات ہی - کیا کہتے ہین - کیا خوب - غالب - واعظ نہ تم پیو نہ کسیکو
پلا سکو ٭ کیا بات ہی تمھاری شراب طہور کی ٭

کیا پروا ہی - کچھ حاجت نہین - ضرورت نہین -

کیا جان ہی - کیا طاقت ہی - کیا مجال ہی - ذوق - تن کی کیا جان کہ
جان اپنی نکلنے پائے ٭ ہو بشرطیکہ ترے آنے کا بھروسا ہمکو ٭

کیا جانے - کیا جانیے - خدا جانے - معلوم نہین - میر - ہمارے قتل
مین کیا جانے کیا ہو الیس پیش سمجھے وہ تیغ کی صورت اُسکے سر طرح
داغ - کیا جانے چپ ہی کیون تیری صورت کو دیکھ کر ٭ آئینہ مین
نہین ہون کہ حیران ہو گیا -

کیا چیز ہی - ہیچ ہی - ناچیز ہی - کچھ بھی نہین - مؤلف - چیز کیا ہی
دولت و حسن و جمال ٭ ملک و مال و سیم و زر کیا چیز ہی ٭ چھوڑکر
ہر چیز کو جاتا ہی جب ٭ سرور العل و گہر کیا چیز ہی ٭

کیا منھ ہی - کیا حوصلہ ہی - کیا مقدور ہی - مومن - سنگ اسود نہین ہی
چشم بتان ٭ بوسہ مومن طلب کرے کیا منھ ٭

	پانچوین فصل	
	ادویات و لغات متعلق علم طب کے بیان مین	
	کاف با الف	

کاک جنگھا - یہ ایک ہندی دوا ہی دافع کرم شکم و امتلاے
بلغمی ہی اور اگر کوئی کچا شستہ پارے کا کھا کر بیمار ہو جائے
تو یہ دوا اُسکے ضرر کی دافع ہی -

کات - فارسی مین نام ایک قسم کے جانوروں کا ہی جو اگر بھی برس
بوتین تو سات برس تک پھل دیتا ہی نیز نام ایک دوا کا ہی جسکو
ہندو کتھ کہتے ہین وہ گوند اور دوم ایک درخت کا ہی جسکو
کھیر بھی بولتے ہین وہ درخت بہت بڑا ہوتا ہی لکڑی اُسکی سرخ
جوہر دار سخت کانٹے دار پتے املی کے سے ہین اُسکی لکڑی کچ کر
کتھہ نکالتے ہین اُس سے رطوبت نکلکر اُسپر جم جاتی ہی بہتر وہ ہی کہ
خود بخود درخت سے نکلے طبیعت اُسکی سرد خشک قابض و حابس

ورادع ہی منجن اُسکا مسوڑھون کو مضبوط کرتا ہی زخمون کو اچھا کرتا ہی
قاتل کرم شکم ہی یرقان اور جذام اور فساد خون کی دوا ہی دافع
جریان منی و کثرت احتلام -

کالاکوٹ - ہندی مین ایک نبات کی جڑ شکل اور رنگ مین
مشابہ جدوار نفشی اور سیاہ کے نواح تبت مین پیدا ہوتی ہی
بہتر وہ ہی جو چمکتی ہوئی سخت ہو طبیعت اور خواص اُسکے سم الفار
یعنی سنکھیا کے سے ہین زہر قاتل ہی -

کامخ - اخیر مین خاے معجمہ یہ ایک نان خورش ہی جو پودینہ و دودھ
وغیرہ سے بناتے ہین طبیعت اُسکی گرم و خشک ردی الکیموس اور
متعطش اور مفسد معدہ و طحال ہی -

کافور - یہ ایک درخت کا گوند ہی جو زیر باد اور جزیرہ ماچین مین
ہوتا ہی درخت بڑا اور لکڑی اُسکی سفید ہوتی ہی اُس سے کافور نکلتا ہی
جو بہت اقسام کا ہوتا ہی ایک کا نام ریاحی ہی جو مشابہ مصطگی کے ہوتا ہی
اور خود بخود درخت سے نکلکر منجمد ہو جاتا ہی یہ اعلی اقسام سے ہی بعض کے
نزدیک وہ شبنم ہی جو درخت پر جم جاتی ہی - دوم قیصوری ہی جو مقام
قیصور سے آتا ہی اُسکا درخت بہت بلند دیودار کی طرح ہوتا ہی اُسکو
چیر کر کافور نکالا جاتا ہی تیسری قسم کا کافور درخت کی لکڑی کو جوش
دیکر کافور نکالتے ہین جعلی کافور بھی بنایا جاتا ہی جو اسی درخت کے پتون
اور جڑ سے بنایا جاتا ہی طبیعت اُسکی سرد خشک مفرح مقوی دماغ
اور دل ہی تپ دق و ذات الجنب سل و اسہال حارہ کو دفع کرتا ہی
رافع تشنگی و سوزش جگر و گردہ و حرقۃ البول قاطع باہ ہی -

کاشم - یہ ایک نبات ہی مشی ساق اُسکی چھوٹی اور پتلی مانند
شبت کے اور پتے مانند اکلیل الملک کے پھل سیاہ تھوڑا لمبا
سونف سے نہایت خوشبو طبیعت اُسکی گرم اور خشک محلل ریاح
منضج اخلاط خام دافع سرفہ و رطوبت معدہ و گرم معدہ کا مشتہی و مدر بول و حیض ہی

کاچولون - کاچ کا میل دافع بلغم و قولنج و سپیدی چشم و خارش
و جرب ہی -

کانا بچھو - یہ ایک چیز اقسام سماروغ سے ہی جو برسات کے
موسم مین زمین سے بیضے کی صورت پر نکلتا ہی امراض چشم کو مفید ہی -

کاذی - بسر احرف و ذال معجمہ کیوڑا مشہور درخت اور پھول
نہایت خوشبودار ہی چھوٹی قسم کو کیتکی بولتے ہین اُسکا درخت
بھی اسی سے ملتا مگر اُس سے چھوٹا ہی اور خاردار عرق اُسکا
بکثرت نکال کر اقالیم دور و دراز مین لیجاتے ہین طبیعت اُسکی

گرم اور خشک مفرح و مقوی دماغ و حواس و اعضا و دافع خفقان و جدری یعنی سیتلا ہی اور بھی فائدے اسکے بیشمار کتب میں درج ہیں۔

کاکڑا سینگی۔ ہندی دوا ہی بکری کے سینگ کے خلاف کی صورت پر رنگ سرخ مزا کسیلا اور کڑوا درخت اسکا مشابہ کیلے کے طبیعت گرم خشک دافع کھانسی ضیق النفس و ہچکی و قے و اسہال الدم ہی۔

کالی زیری۔ یہ ہندی میں ایک نبات کے تخم کا نام ہی یعنی اسکی تھوڑی لمبی دندانہ دار پھول کاسنی کا سا رنگ سیاہ تلخ طبیعت اسکی گرم و خشک دافع مواد بلغمی و کرم معدہ و امعا ہی اور جاذب باردہ کو تسکین اور اورام باردہ کو تحلیل کرتا ہی شافعین اسکی سمیت سے خالی نہیں اسواسطے مستعمل نہیں ہیں۔

کانجی۔ ترشی اور اقسام ترش چیزوں سے بناتے ہیں اسکو سرکہ ہندی بھی کہتے ہیں طبیعت اسکی سرد تر جالی و مقوی اعضا مسکن و حرارت و حدت و صفرا ہی۔

کاف با باے موحدہ

کباب۔ بھونا ہوا گوشت جو مشہور ہی اقسام اسکے بہت ہیں طبیعت اسکی گرم اور خشک اور با عتبار اختلاف گوشتوں کے مختلف مولد خون و مقوی اعضا مسخن بدن محرک اشتہا و باہ اور مرطوب معدہ و کیموس اچھا

کبریت۔ فارسی میں اسکو گوگرد و ہندی میں گندھک کہتے ہیں کان سے نکلتا ہی سرخ اور زرد مائل بسبزی و سپیدی و کبودی ہوتا ہی سرخ اسکا شفاف اور چمکنے والا ہوتا ہی کان میں یہ رات کو چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہی کانیں اسکی ہرمز علاقہ فارس و جزائر دریاے عمان میں ہیں اور بسبب دہنیت کے آگ پر جلتا ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک محلل و مسخن و ملطف و مجفف و جالی و جاذب ہی دافع زکام و نزلہ و سرفہ اور نکالنے والا بلغم اور مسہل سینے اور پھیپھڑے سے ہی

کباث۔ اخیر میں ثاے مثلثہ یہ ایک پھل کا نام ہی جو سخت اور سیاہ درخت اراک کا ہو عمدہ وہ ہی جسکے بیج چھوٹے ہوں طبیعت اسکی گرم و خشک ہی اگر پانچ درم اسکو پیس کر ہموزن شکر ملا کر اور پھانکیں اور اوپر سرد پانی پئیں تو مسہل ہو جاتا ہی اور مقوی معدہ ہی درد پشت کو بھی دفع کرتا ہی اور درخت اراک کو ہندی میں پیلو کہتے ہیں

کبیکج۔ اس نبات کے چند اقسام ہیں ایک کی پتی دھنیے کی سی پھول زرد اور بنفشی ساق ایک گز تک بلند اور باریک جڑ سپید اور تلخ دوسرے قسم کی پتی بڑی تیز ذائقہ کی زیادہ تیسری صنف کی ساق بہت چھوٹی اور پھول طلائی نہایت بدبو چوتھے صنف کے پھول سپید طبیعت ہر ایک کی گرم خشک نافع اورام و شبوہ و جرب ضماداً و دو مثقال زہر قاتل ہی سفوف اسکا ہموزن گیہوں کے آٹے میں ملا کر جسم پر لگائیں تو داغ کا کام دیتا ہی۔

کبد۔ فارسی میں جگر ہندی میں اسکو کلیجا کہتے ہیں جو ایک عضو اندرونی اعضاے رئیسہ سے ہی مبدا و قوت طبیعی و محل ہضم کیموس بہترین کبد طیور کا ہی یا گوسپند یکسالہ کا طبیعت اسکی گرم تر دیر ہضم سریع التعفن کلیجا بکری کا بالخاصیت محرک صرع ہی اور گدھے کا نافع صرع کلیجا چکور اور کلیجا چوہے کا دافع صرع اور کلیجا کتے اور باولے کتے کا باولے کتے کے زہر کو دفع کرتا ہی اور پانی بکری کے کلیجے کا جو بریان کرنے کے وقت اس سے ٹپکتا ہی اکتحالاً دافع شبکوری ہی اور جس شخص نے سیر اکھا لیا ہو وہ چھپکلی کا کلیجا تاگا باندھ کر نگلے کسی قدر دیر کے بعد تاگے کے ذریعے اسکو کھینچ لے سیر کلیجے کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا

کبر۔ یہ ایک نبات خاردار ہی شاخیں اسکی زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں پتی تھوڑی چوڑی پھول سفید کھیرے کی صورت پر شیرین مائل بہ تلخی طبیعت گرم خشک مفتح و جالی و محلل دافع فالج و استرخا و خدر و وجع مفاصل و عرق النسا و نقرس ہی۔

کبستون تخم۔ یہ پتہ اور تخم کسی نبات کا ہی جو بلاد حبشہ سے لاتے ہیں کشنیز شامی کی صورت پر گول اور تلخ طبیعت اسکی گرم و خشک واسطے اسہال اور اخراج کرم کے کوٹ کر شہد یا شکر ملا کر کھاتے ہیں۔

کبابہ۔ یہ ایک درخت کا پھل ہی جو چین اور روم سے لاتے ہیں صغیر اور کبیر دو قسم کا ہوتا ہی کبیر کو حب العروس کہتے ہیں جو حب بلسان کے مشابہ ہوتا ہی اور صغیر کو فلنجہ و افلنجہ مع الفا بولتے ہیں اور اس مقام پر کبیر مراد ہی طبیعت اسکی گرم و خشک نہایت ملطف و مفتح ہی دافع درد سر چبانے سے منہ خوشبو ہوتا ہی مسوڑھوں کو مضبوط کرتا ہی مدر بول ہی سنگ ریزے مثانہ کے نکالتا ہی محلل اورام دافع قروح و جروح ہی۔

کاف با تاے

کتم۔ یہ لفظ عربی فارسی میں اسکو وسمہ کہتے ہیں جس سے بال سیاہ کیے جاتے ہیں اور یہ نبات سواے نیل کے ہی پتے اسکے مشابہ پتے آس کے ساق غیر مجوف پھل بقدر ایک مرچ کے ہوتا ہی ریگستان میں پیدا ہوتا ہی نیل سے پتا اسکا زیادہ لمبا ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم خشک خضاب اسکا پانی اور نمک کے ساتھ درد سر ریحی اور بلغمی کو دور کرتا ہی اسکے جوشاندہ پینے سے بکثرت قے آتی ہی باولے کتے کا زہر بذریعہ قے کے نکل جاتا ہی اسکے خضاب کی سیاہی دیر پا ہی۔

کتان - ہندی مین اسکو السی کہتے ہین مشہور نبات ہے پتی پتلی پھول لاجوردی قریب ایکہ وٹ کے اسکا پوست مانند روئی کے درخت سے اترتا ہے کپڑے بنائے جاتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک پہننا اسکے لباس کا دافع حرارت اور بیخ اسکا مفتح سدہ دماغ اور قدر اسکے سوختہ کا قاطع خون اور التیام دینے والا زخمون کا ہے-

کتیلہ - ایک نبات ہے لمبائی اسکی ایک بالشت سے ایک گز تک سخت لکڑی پتی مانند پتی آس کے طبیعت اسکی گرم خشک ہے بسبب نہایت گرمی کے امراض باردہ کو دفع کرتا ہے شراب مین یہ ملایا جاتا ہے تو شراب کا لطف زیادہ ہوجاتا ہے اور اس شراب کو عرب شراب الحبشیہ کہتے ہین

کاف با ثائے مثلثہ

کثیرا - مشہور کتیرا بہ تائے مثناۃ ہے- ایک خاردار درخت کا گوند ہے طبیعت اسکی گرمی اور سردی مین معتدل ہے خون کو غلیظ کرتا ہے قاطع نفث الدم و سرفہ و خشونت سینہ و حلق و قرح ریہ مقوی معا دافع درد گردہ و مثانہ ہے-

کاف با جیم

کچنار - ہندی مین یہ ایک مشہور درخت ہے فصل بہار مین پھولتا ہے کلیان اسکی لوگ گوشت مین پکاکر کھاتے ہین لذیذ ہوتا ہے پھول اسکے سپید و سرخ و ارغوانی ہوتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک قابض و مقوی معدہ و حابس و دافع اسہال و فساد خون و جذام و خنازیر ہے

کچلون - سینگے کا نماسہ جو مشہور چیز ہے بھوک زیادہ کرتا ہے خون کے فساد اور صفرا کو گھٹاتا ہے-

کاف با دال

کدرم - ہندی مین اسکو کودون کہتے ہین ایک قسم کا غلہ ہے طبیعت اسکی سرد خشک مقوی و مغلظ معدہ و مقلل منی ہے-

کاف با رائے

کرویا - بلغتین و بسکون دو ایک نبات باغی اور جنگلی ہوتا ہے شبت کے سے پتے سپید پھول بیج زیرہ کے مانند طبیعت گرم خشک ملطف و محلل ریاح مسہل اغذیہ لطافہ مانع صعود بخارات بطرف دماغ ہے سبز بیج اسکا آنکھون کی روشنی کو بڑھاتا ہے ضیق النفس و خفقان کو دور کرتا ہے-

کرالا - مشہور ترکاری ہے جسکو عام و خاص کھاتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک مسہل ریاح و قاطع بلغم و مقوی اعصاب و باہ و مولد منی دافع قولنج بادی و درد مفاصل و نقرس بارد و استسقا ہے-

کرا [illegible] - ہندی مین [illegible] ہے طبیعت اسکی سرد خشک مشتہی دافع فساد صفرا و خون و بلغم و بواسیر و جذام حابس اسہال ہے-

کرنب - مشہور سبزہ ہے جسکو عام کرم کا ساگ کہتے ہین بہت سے اسکے اقسام ہین باغی اور جنگلی ہوتا ہے طبیعت گرم اور خشک منفخ ملین گوشت کے ساتھ پکایا ہوا جید الغذا مسکن درد سر دافع تیرگی چشم و سرفہ و درد طحال ہے-

کراث - بضم کاف و فتح رائے و ثائے مثلثہ عربی لفظ ہے فارسی اور ہندی مین اسکو گندنا کہتے ہین کھانے مین آتا ہے طبیعت اسکی گرم و خشک مفتح و ملطف ہے طلا اسکے پتون کا ساتھ سرکے کے سر پر رعاف کو بند کرتا ہے کھانا اسکا منقی ریہ مقوی ہاضمہ و [illegible] ملین طبع دافع قولنج و مدر بول و حیض ہے-

کرانث - بفتح اول و ثائے مثلثہ ایک پہاڑی درخت کا نام ہے پتی لمبی اور پتلی شاخین نرم دودہ سے بھری ہوئی چھال مین ہوتا ہے دودہ اسکا کھانے مین ملاکر مجذوم کو کھلادین تو جذام کو دفع کرتا ہے-

کرذناج - بہ دال مہملہ یہ ایک قسم کے کباب کا نام ہے کہ بعد نیم پختہ کرنے مرغ و غیرہ کے آگ پر پکاتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک ہے اہل ریاضت کے بدن کو طاقت دیتا ہے-

کرکند - ایک سرخ رنگ پتھر مشابہ یاقوت ہے جسکو ہندی مین پیکو کہتے ہین مفرح و مقوی دل دافع خفقان و توحش ہے-

کرفس - مشہور دوا ہے ہندی مین اسکو اجمود اجوائن کہتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک ضماد اسکا جو کے آٹے کے ساتھ آنکھ کے ورم کو تحلیل کرتا ہے کھانا اسکا ضیق النفس و درد پہلو اور ہچکی کو دفع کرتا ہے اور بھی فائدے اسکے بکثرت درج کتب طبیہ ہین-

کرش - عربی لفظ ہے فارسی مین شکنبہ ہندی مین اوجھڑی کہتے ہین اور یہ ایک چوپایون کے اندرونی اعضا مین سے ایک عضو ہے مع انتڑیون کے طبیعت اسکی بعض نے گرم تر بعض نے سرد خشک لکھی ہے کثیر الغذا دیر ہضم مولد خلط غلیظ مورث سکتہ و صرع و تاریکی چشم ہے-

کراع - پایچہ گوسپند یعنی بکری کے پائے جنکو لوگ پکاکر کھاتے ہین طبیعت انکی گرم تر مولد خلط لزج غیر غلیظ دافع خشونت سینہ و حلق و سرفہ یابس سینہ سریع الہضم جید الکیموس ہین-

کریل - کریر مشہور درخت ہے طبیعت اسکی گرم ملین دافع فساد بلغم و باد و دمامیل و ثبور و آماس و بواسیر و فالج و استسقا ہے-

کریل - ایک ہندی میوہ ہے جسکو نمک مرچ لگاکر کھاتے ہین نہایت لذیذ مقوی باہ و مغلظ منی و قابض و حابس ہے-

کرم - فارسی مین اُسکو تاک اور رز اور ہندی مین داکھ کا جھاڑ کہتے ہین اُسکے پھل کا نام انگور ہی جو کئی قسم کا ہوتا ہی طبیعت اُسکی سرد خشک جالی و مجفف و قابض ہی ضماد اُسکے پتون کا جو کے آٹے کے ساتھ درد سر گرم کو دفع کرتا ہی عصارہ پتون کا مقوی معدہ مانع قی و قاطع قی الدم ہی۔

کرگدن - عظیم الجثہ جانور ہی جسکو ہندی مین گینڈا کہتے ہین ہاتھی سے چھوٹا بھینسے سے بڑا ہوتا ہی پوست سیاہ شکن دار اور سخت ہی صورت اُسکی خنزیر کے ساتھ ملتی ہی پیشانی پر ایک سینگ زور آور ہی کہ ہاتھی پر غالب آجاتا ہی اسکے چمڑے کی جو ڈھال بنائی جائے قیمتی ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم خشک بخور اسکی شاخ کا بواسیر اور عسر ولادت کو نافع ہی اور وہ تیل جسمین اسکا چمڑا جلایا جاوے ہر ایک دمل اور زخم کو اچھا کرتا ہی۔

کرہن - ایک نبات کی جڑ ہی بہت سرخ خواص اور رد القمین مانند عاقرقرحا کے طبیعت اسکی گرم خشک فالج اور عصبی بیماریوں کو مفید ہی

کرسنہ - ہندی مین اسکو مٹر کہتے ہین مشہور غلہ ہی جو کھانے مین آتا ہی طبیعت اسکی گرم و خشک منقی سینہ و شش دافع کھانسی و عسر النفس ہی۔ منجن اسکا مسوڑھون کو مضبوط کرتا ہی۔

کرونداـ ایک ہندی درخت کا پھل ہی جو مشابہ درخت لیمون کے خاردار پھول سرخ مائل بسپید پھل بقدر عناب کے گول ترش اور چاشنی دار اچار مربا شربت اُس سے بناتے ہین طبیعت اُسکی سرد تر مسکن صفرا و تشنگی ہی بھوک لگاتا ہی حابس اسہال ہی۔

کرکی - یہ ایک پرندہ بلند پرواز ہی جسکو فارسی مین کلنگ ہندی مین کونج کہتے ہین گوشت اُسکا گرم و خشک مقوی بدن دافع قولنج ہی۔

کاف با زاے معجمہ

کزبرۃ الثعلب - یہ ایک نبات باریک تاگے سے پریشان زمین پر پھیلی ہوئی سرخ رنگ پتی چھوٹی ڈنڈا سے دار پھول پتلا سرخ رنگ کوہستان مین ہی طبیعت اُسکی گرم خشک سرمہ اُسکے عصارے کا آنکھ کو روشن کرتا ہی شکوری کو مفید ہی ضماد اُسکا خنازیر کو نافع ہی کھانا اُسکا منع ہی کہ کھانے سے ایک حالت نشے کے ایسی طاری ہوتی ہی کہ حلق بند ہو جاتا ہی اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہی

کزوان - تیسرا حرف را اور بعض کے نزدیک یہ بادرنجبویہ ہی اور بعض کے نزدیک سوائے اسکے غرض کہ یہ نبات ہی خوشبودار مزہ اور بو مشابہ اترج کے اور تیزی فلفل کے ساتھ ملتی ہوئی طبیعت اسکی گرم و خشک مفرح و مطیب نفس مقوی دل و فم معدہ دافع خفقان و سموم سرد خصوصاً سم بیش بچھو کے ہی۔

کزانگبین - یہ شبنم ہی جو جھاؤ کے درخت پر گر کر جم جاتی ہی ترنجبین کی طرح اور جو درخت بید پر پڑتی ہی علاوہ ہوتی ہی طبیعت اسکی گرمی اور خشکی مین معتدل جالی ساتھ قوت مسہلہ کے منقی دماغ و مقوی اعضاے تنفس و آلات غذا نافع و ملین سینہ و آواز ہی۔

کزبرہ - تیسرا حرف باے موحدہ کشنیز جسکو ہندی مین دھنیا کہتے ہین طبیعت اسکی سرد اور خشک پینا سات مثقال اُسکے پانی کا نیند لاتا ہی قطور اُسکا آنکھون مین مانع پیدا ہونے آبلہ سیتلا کا آنکھون مین ہی اور بھی فائدے اسکے درج کتب طبیہ مین

کاف با سین مہملہ

کسموقا - پانچوان حرف قاف ایک گھاس ہی زمین پر پھیلی ہوئی پتے اسکے مشابہ پتے مرزنجوش کے پھل مشابہ چھوٹے بیر کے طبیعت اسکی گرم خشک ہی اسکے پھل اور پتو کو شکر ملا کر چھوڑتے ہین جب کسی کو بچھو کاٹتا ہی تو وہ سفوف کھلا دیتے ہین فوراً آرام ہو جاتا ہی

کسب - فارسی مین کنجارہ ہندی مین کھلی کہتے ہین یعنی ثفل اور پھوک جو بعد نکالنے تیل کے باقی رہ جاتا ہی بہت ثقیل اور ردی الغذا مولد قولنج اور سدہ ہی۔

کسول - ایک پھل بقدر ایک انگلی کے لمبا مشابہ املتاس کے روم مین پیدا ہوتا ہی طبیعت اسکی سرد خشک ہی قاطع خون اور حابس اسہال دموی ہی۔

کسیرو - یہ ایک جڑ نبات ہندی کی ہی جو تالابون اور گڑھے پانیون مین پیدا ہوتی ہی گھاس سے بوریے بنتے ہین جڑ اسکی گول جاے پھل کے مقدار پر ہوتی ہی پوست اُسکا کالا مائل بسرخی مغز اُسکا سپید شیرین اور لذیذ خوشبو طبیعت سرد تر مقوی دل دافع خفقان و ہیضہ و اسہال صفراوی و دموی و سوداوی ہی۔

کسوندی - یہ ایک ہندی نبات ہی بلند آدمی کے قد کے برابر ہو جاتی ہی پتی مشابہ پتی سناء کی کے پھول زرد طبیعت گرم خشک دافع سموم مشروبہ و مسرفہ ہی اسکی جڑ کو گوٹا کر اور چھین ملا کر گولیان بنا رکھتے ہین جسکو سانپ کاٹے وہ گولیان کھلا دیتے ہین آرام ہو جاتا ہی

کسیلی سیلہ - یہ لکڑی اور پوست ایک نبات کی لکڑی کا مشابہ سلیخہ کے سیاہ طبیعت گرم و خشک مقوی دانتون کی دھڑک کو نافع ہی کھانا اسکا معدہ کو قوت دیتا ہی بوجہ قبض مفتح سدہ رحم جالی [illegible]

کاف با شین معجمہ

کشت بر کشت — یہ ایک گھاس پتلی رسی کی طرح آپسمین لپٹی ہوئی زرد مائل بسیاہی پھول مشابہ گل حب النیل کے طبیعت گرم خشک محلل و ملطف و مسہل بلغم قاطع اور شیر دافع اورام باردہ اور جرب۔

کشوث — ہندی مین اُسکو اکاس بیل اور اکاس بیل کہتے ہین یہ گھاس پتلی رسی کیطرح زرد رنگ پھول ریزہ ریزہ مائل بسپیدی بیج گول بہت چھوٹے طبیعت اُسکی گرم خشک مفتح سدہ معدہ و کبد منقی عروق بدن ملین طبیعت دافع خناق۔

کشمش — ایک قسم چھوٹے انگور کا ہی جسکو زبیب کہتے ہین طبیعت اُسکی گرم اور خشک مسہل اور مبہی ہی اور خواص اسکے زبیب کی تشریح مین مذکور ہو چکے ہین۔

کاف با عین

کعب — فارسی مین اُسکو غاب اور شتالنگ کہتے ہین اور پانون کی ایک مشہور ہاڑی ہی ہندی مین گٹا نام ہی بہترین کعب گاے اور بیل کا ہی اور بیل کا جلا ہوا کعب سپرز کی بیماری کو دفع کرتا ہی باہ کو تقویت دیتا ہی سرمہ اُسکا آنکھون کی روشنی بڑھاتا ہی مسوڑھون و دانتون کو تقویت دیتا ہی۔

کعک — معرب کاک ہی جسکے معنی کلیچہ کے ہین طبیعت اُسکی گرم خشک حابس لیان مجفف رطوبات ہی اور مضر قولنج کی۔

کاف با فاے

کف الہر — ایک گھاس ایک بالشت تک اونچی ریزہ شاخین ہر شاخ پر چار پتی گول پھول زرد خوشبودار بقدر زیتون کے ہی کھانا اُسکا حمل کا مددگار ہی ذرور اُسکا قروح خبیثہ کو اچھا کرتا ہی ضماد اُسکا ثالیل کو قطع کرتا ہی۔

کف الضبع — ایک سبزہ کم برگ پتی اسکی گول بقدر پتی کرفس کے شاخین پتلی پھول زرد طلائی اور سپید طبیعت گرم خشک سرمہ اُسکا آنکھون مین آنکھون کی سپیدی کو دفع کرتا ہی ذرور اُسکا دافع ثالیل اور ضماد اُسکا اچھا کرنے والا داء ماسیل کا ہی۔

کف آدم — یہ ایک گھاس ہی بقدر ایک گز کے بلند پتی گول جسمین بعض کہتے ہین کہ گھاس بہمن سرخ کی پتی ہی طبیعت اُسکی گرم خشک دافع خفقان محلل ریاح مقوی جگر ہی۔

کف المریم — ہندی مین اسکو ہتھا جوڑی کہتے ہین یہ گھاس زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہی شاخین اُسکی سخت ایک بالشت بلند ہین پتی گول پیچیدہ پھول زرد کم رنگ لوگ اُسکو اپنے پاس رکھتے ہین کہ موجب ازدیاد عزت و حرمت کا ہی۔

کفری — فارسی مین غنچہ خرما و شگوفہ خرما اُسکو کہتے ہین جس سے ہنوز خوشہ نہ نکلا ہو طبیعت اُسکی گرم خشک مقوی دل و روح و دماغ و کبد دافع آکلہ و قروح خبیثہ قاطع اسہال ہی اور عرق اُسکا جو مانند گلاب کے کھینچتے ہین قابض و مقوی دل و معدہ دافع خفقان ہی۔

کاف با کاف

ککوڑا — ہندی سبزہ ہی دافع جوشیدگی شباب یعنی مہاسے جو اکثر چہرے پر نکلتے ہین و رافع تپ اور جڑ اسکی دافع زہرمار ہی۔

ککرول — یہ ایک بیل ہی جو پاس کے درخت پر چڑھ جاتی ہی پھل اُسکا تھوڑا المباخار دار خام سبز پکا ہوا زرد اور سرخ بیج زرد رنگ اہل ہند اُسکے پھل کے ورق کاٹ کر اور گھی مین بھون کر کھاتے ہین طبیعت اُسکی معتدل دافع سرفہ و دردشش و تپ کہنہ ہی۔

ککروندا — یہ ایک گھاس ہی دو گز تک اونچی شاخین بہت پتے کاسنی کے سے پھول زرد جڑ باریک اور سپید طبیعت گرم خشک دافع درد شدید و استسقا و بواسیر و سموم ہی حابس اسہال ہی ہیضہ کو دور کرتا ہی۔

کاف با لام

کلب — فارسی مین سگ ہندی مین کتا کہتے ہین مشہور جانور ہی صدہا قسم اسکے ہوتے ہین شہری کتا جنگلی کتا دریائی کتا اور آبی کتا ہی طبیعت اُسکی عموما گرم خشک پتا اُسکا زہر قاتل ہی سرمہ اُسکا آنکھ کی سپیدی کو دور کرتا ہی پیشاب تازہ اُسکا نقرس کا علاج ہی قطور اُسکے دودھ کا آنکھون کے بیاض کو دفع کرتا ہی طلا کرنا اُسکے سرگین کا محلل اورام سخت ہی پیشاب دافع ثالیل ہی ہڈی اور عصب کتے کا ساتھ ہڈی اور عصب ٹوٹی ہوئی آدمی کی پیوند قبول کرتا ہی اور بھی فائدے اس مفید جانور کے درج کتب طبیہ ہین۔

کلخ — یہ ایک سبزہ ہی پتے اسکے مشابہ پتے سیب کے ہین طبیعت اُسکی سرد خشک قابض دافع نفث الدم و اسہال دموی و زہرمار ہی سعوط اُسکا دافع رعاف ہی بیج اسکے جو بہت گرم ہین مدر عرق ہین۔

کلہار — پھول ایک نبات کا ہی جو تالابون اور جھیلون مین پیدا ہوتی ہی یہ نبات نیلوفر سے زیادہ قوی ہی پتے بھی بڑے پھول بھی بڑا ہی پھول کا رنگ سپید و سرخ خوشبو بعض سپید اور بیچ مین زیرہ زرد جسکو کیسر بولتے ہین طبیعت پھول کی سرد تر حمیات صفراوی و یرقان کو دفع کرتا ہی پیاس کو دور کرتا ہی اور زردی درمیانی پھول کی سرد خشک ہی

... ہوتا ہے کم وہ ... ہے۔

کلاف ـ پوست ایک درخت ہندی کا ہے ہندی میں اُسکو مید ہ لکڑی کہتے ہیں طبیعت اُسکی گرم تر بحالت ٹوٹ جانے ہڈی اور اُکھڑ جانے جوڑ کے شربتاً و ضماداً نافع ہے۔

کلس ـ نورا اور چلا ہوا چونا جو سپید ہو چکا ہو و صدف سوختہ و خرمہرہ سوختہ وغیرہ طبیعت اُسکی جو ہنوز پانی اُسپر نہ پڑا ہو گرم خشک ہڑتال کے ساتھ ملا کر لگائیں تو بال مونڈ دیتا ہے رعاف کو بند کرتا ہے مقوی اعضا و حابس اسہال ہے۔

کلیان گوتھ ـ ایک خاردار درخت ایک گز تک بلند بنگال و بردوان و میدنی پور میں بہت ہوتی ہے طبیعت اُسکی گرم خشک آدھا مثقال پوست اسکی جڑ کا ریوند چینی ہم وزن میں ملا کر درد چھال پر لگائیں فوراً آرام ہو پھر ایک درم کی تحلیل کا پورا علاج ہے۔

کلیہ ـ فارسی اور ہندی میں گردہ اُسکا نام ہے جو ایک عضو اعضاے اندرونی سے ہے طبیعت اُسکی سرد اور خشک کھانا اُسکا مقوی گردہ و کمر چیبل اسکی ملین بدن ... دیر ہضم ردی الغذا سریع الفساد ہے

گل داؤدی ـ مشہور پھول ہے زرد اور سپید اور بنفشی تین قسم کا ہوتا ہے بو اُسکی برنجاسف کی طبیعت گرم خشک عرق اُسکا مقوی و مفرح دل و دافع و مخرج سنگ گردہ و مثانہ و مدر بول و حیض ہے

گل مہندی ـ یہ پھول ہند اور بنگال میں بہت ہے بارش کے موسم میں پھولتا ہے سرخ و گلابی و بنفشی و سپید رنگ پھول اُسکے ہوتے ہیں ایک پھول میں کئی رنگ بھی ہوتے ہیں طبیعت اُسکی گرم ... مقوی باہ دافع سوزش اعضا جو آگ یا گرم پانی سے جل گیا ہو

... ـ لبلاب یعنی بیل کی قسم سے ہے درختوں پر چڑھ جاتی ہے پھول پھل نہیں ہے اسکی لکڑی جس جگہ لگائیں لگ جاتی ہے طبیعت گرم خشک اہل ہند اسکو سرد خشک جانتے ہیں کھانسی اور یرقان و غشی اور رقی اور اقسام حمیات یعنی تپون کا علاج ہے مبہی و تشتہی مولد منی ہے اگر گھی کے ساتھ کھا دیں ریاح اور سودا کو دفع کرے اگر مصری کے ساتھ کھا دیں صفرا کی تیزی کو کم کرے اگر شہد کے ساتھ کھا دیں بلغم کو قطع کرے شیرہ اُسکا جو سبز اور تازہ سے لیا جا تو بہی زیادہ ہے نہیں تو خشک کو پانی میں جوش دیکر نکال لیتے ہیں۔

کاف با میم

کمات ـ کماۃ ـ ایک جڑ ہے کہ خفونت زمین سے بہار کے موسم میں ریگستان و نمناک زمینوں سے گول سرخ رنگ بے ساق نکلتی ہے

... پتا بھی نہیں ہوتا اُسکو لوگ خام پکا کر کھاتے ہیں بعض سپید رنگ ہوتی ہے اور جو سیاہ رنگ ہے اُسکا کھانا زہر قاتل ہے طبیعت اُسکی سرد تر ہے پانی اُسکا اکتحالاً آنکھوں کو روشن کرتا ہے غذا اُسکی ثقیل ردی الکیموس قلیل الغذا بطی الانحدار مولد خون بلغمی و سکتہ و فالج ہے

کماشیر ـ کسی درخت کا گوند ہے طبیبوں کے اقوال اُسمیں مختلف ہیں کہ آیا وہ کس درخت کا گوند ہے طبیعت اُسکی گرم خشک مسہل زرد آب دافع استسقا ہے بھی مدر بول و حیض و مسقط جنین ہے۔

کمادریوس ـ ایک نبات بالشت بھر اونچی مشابہ بلوط شکل اور رنگ اور تشقق میں مزہ تلخ پھول بنفشی اور پھولوں میں زیرہ جڑ اُسکی ... طبیعت گرم خشک مقطع اخلاط غلیظ ملطف و مسخن بدن و دافع قرحہ چشم و ناصور ہے

کمافیطوس ـ یہ بوٹی ہر سال تازہ پیدا ہوتی ہے کئی قسم میں منقسم ہے ایک قسم اسقدر بلند جاتی ہے کہ اور کوئی اُس سے زیادہ نہیں جاتی شاخیں ... چھوٹے صنوبر کے سے بو بھی صنوبر کی سی پھول باریک اور زرد بیج کرفس سے چھوٹے۔ دوسری قسم کی شاخیں ایک گز تک اونچی پھول زرد بیج سیاہ بو صنوبر کی سی اس قسم کو ... کہتے ہیں اور اقسام اسکے بھی دوسری قسم سے ملتے ہوئے ہیں بعض کے پھول سرخ اور سپید بھی ہیں طبیعت ہر ایک کی گرم خشک مفتح سدہ و منقی و جالی و مسہل بلغم غلیظ ہے رحم کو صفائی دیتی ہے مخرج جنین ہے۔

کمرک ـ یہ نام پھل کا ہے جو ہندی میں لمبا بقدر آدھے بالشت شش پہلو خام سبز پختہ زرد کھٹا اور میٹھا ذائقے میں درخت اُسکا بہت بلند بقدر اکھروٹ کے درخت کے طبیعت اُسکی سرد خشک قابض و مسکن تیزی صفرا و تشنگی دافع قے و اسہال صفراوی ہے۔

کمون ـ بیج ایک نبات کا ہے جو لغت سے پتلا سیاہ اور زردی گول قبہ مانند ... کے فارسی کرمانی شامی و نبطی ہوتا ہے اور ہر ایک قسم بری و بستانی طبیعت اُسکی گرم خشک مسخن و ملطف و مقطع و محلل و مجفف و قابض ہے حابس رعاف جالی غشا و دافع قرحہ چشم ہے۔

کمر بہرہ ـ یہ نبات کوہستانی برمانی ملکوں میں پیدا ہوتی ہے شاخیں بہت سی اور پتیں ملی ہوئی اسکا پتا اگر توڑا جائے تو دودھ سفید نکلتا ہے شاخوں کے سر پھول مانند پھول ... کے بقدر مٹر کے اور ایک کیڑا بھی ... کی طرح پایا جاتا ہے ... سیاہی و سرخی ... طبیعت اسکی گرم خشک ساتھ قوت ... کے بعض حیوانوں کے ... قاتل ہے اور بیج ... تریاق ... ہوام ... سکتے ہیں۔

کمشک ـ فارسی ... اسکا ...

مشابہ پتے شفتالو کے پھول بھی اسی کے پھول کی طرح کوہی و بستانی
شیرین ترش و میخوش سرد ملکون مین گرم ملکون سے اچھا ہوتا ہی طبیعت
اسکی معتدل با [illegible] حرارت مفرح و مقوی و جالی ساتھ قوت قابضہ کے
اور [illegible] سے مرطب دماغ دافع نزلات مانع صعود ابخرہ
بطرف دماغ ہی۔ ایک قسم اس سے کمثرے حامض ہی جسکو سینے بھی
کہتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک مقوی معدہ و کبد مشتہی طعام مسکن
غلیان خون و حدت صفرا دافع تشنگی و قی و اسہال۔ ایک اور قسم
کمثرے بری ہی درخت اور پھل اسکا چھوٹا اور بے آب ہوتا ہی طبیعت
اسکی سرد خشک قابض و حابس اسہال اور ذرور اسکا مجفف
جراحات ہی۔ ایک اور قسم کمثرے جبلی یعنی پہاڑی طبیعت اسکی
سرد خشک زیادہ بری سے نہایت قابض اسکا پھل چھوٹا اور سیلا
بہت سخت اندر اسکے بہت سے بیج اسکو زمین مین داب رکھتے ہین جب
مضمحل ہوجاتا ہی نکال کر بیج جدا کرتے ہین اور بریان کرکے کھاتے ہین
مغزیات و مرکبات مین بھی داخل کرتے ہین فارسی مین اسکو انجلاک کہتے ہین

کاف با نون

کنکرزد۔ بسکون زاے معجمہ جو پانچوان حرف ہی گوند حرشف
کا ہی جسکو فارسی مین کنگر کہتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک منقی بلغم
وصفرا ساتھ آسانی کے اگر سکنجبین و گرم پانی کے ساتھ پیئین۔
کندر۔ گوند ایک درخت خاردار کا ہی جو دو گز تک اونچا ہوتا ہی
پتے اسکے مشابہ پتے مورد کے مائل بہ تلخی برسات مین انہین سے گوند
لیتے ہین جو گول اور سرخ ہی کندر ہی اور جو سپید ہی کندر اثی ہی اور
جو تھیلیون مین ملکر گول ہوگیا ہو مدحرج کہلاتا ہی اور ریوست اور
پتے جو اسمین رگڑے جانے سے جدا ہوجاتے ہین قشار کندر
نام پاتا ہے اور جو آٹا ہوگیا ہو دقاق کندر ہی نشانی خالص کی
یہ ہی کہ آگ مین جلد مشتعل ہو طبیعت اسکی گرم خشک منقی روح حیوانی
اور دماغی محلل ریاح حابس سیلان خون مقوی دل و قوت حافظہ
صاف کرنے والا آواز کا دافع خفقان و عسر النفس و سرفہ ہی۔
کندش۔ جڑ ایک نبات کی مشابہ کنگر کے ہوتی ہی پتی اسکی سبز
مائل بہ سپیدی شام کے ملک مین ریشمی کپڑے اس سے دھوتے ہین
طبیعت اسکی گرم خشک پیاس لگاتی ہی خون کو جلاتی ہی بلغم کو
کاٹتی ہی خدر و فالج کو دفع کرتی ہی۔
کندریقی۔ یہ ایک نبات ہی پتی جسکی گاجر کی سی سولف سے ملتی ہوئی
کندر کی سی بو طبیعت گرم اور خشک مدر و محلل و منضج اور اکثر

افعال مین قائم مقام کندر کے ہی۔
کنگھی۔ لفظ ہندی ہی فارسی مین درخت شانہ اسکا نام ہی اسواسطے
کہ پھل اسکا کنگھی کی طرح ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم و خشک امراض
سینہ و بواسیر و آرام و تپ غیر نوبت کو دفع کرتا ہی ضماد اسکے
پتون کا محلل اورام ہی اور مضمضہ جوشاندہ کے پانی سے دانتون کے درد کو دفع کرتا ہی

کاف با واو

کوجا۔ یعنی گل کوزہ ہندی دوا ہی مبہی دافع فساد اخلاط اربع
مقوی دل قابض شکم مصفی رنگ رخسار دافع خفقان۔
کوکلا۔ ایک ہندی جانور کا نام ہی گوشت اسکا قابض شکم
مقوی باہ دافع فساد بلغم و باد ہی۔
کوئیٹ۔ پھل ایک ہندی درخت کا مشابہ گول خربزہ چھوٹے کے ہی
پوست سخت اور سپید مغز ترش اور پختہ میخوش مسطو طبیعت اسکی
سرد و خشک مفرح و قابض و مقوی دل و معدہ و کبد ہی غرغرہ
اسکا دافع جوشش دہان و درد گلو کھانا اسکے مغز کا مانع نکلنے
چیچک اور دافع زہر سانپ و بچھو و رتیلا کا ہی۔
کوکنبل۔ یہ نبات ہی پتے اسکے مشابہ پتے نارنج کے ساق دو گز
تک تخم سیاہ بقدر آلو بالو کے جڑ کالی مگر اندر سے سپید طبیعت گرم
خشک مورث بیخوابی و مسکر و بیہوشی دافع سلس البول و بول فی الفراش
و اوجاع مفاصل و امراض باردہ ہی۔
کویلہ۔ ہندی لغت ہی پھل ایک درخت کا ہی مشابہ نارنج کے
سب اجزا مین مگر درخت اسکا نارنج سے چھوٹا ہی اور پھول کم بو
پتی بہت نازک مگر ذائقہ اور شیرینی مین نارنج کے برابر ہی طبیعت
سرد و تر دافع خفقان مسکن تیزی خون و صفرا دافع تشنگی و سوزش
معدہ و کبد و مدر بول ہی۔
کوبھی۔ مشہور ترکاری ہی جسکا پھول کھانے مین آتا ہی اسکے اقسام
بہت ہین طبیعت اسکی سرد خشک قابض شکم و مقوی ہی۔
کوندنی۔ مشہور ہندی میوہ ہی ملین منضج ہی معدہ کے گرم نکالتا ہی کھانسی کو
دور کرتا ہی مصفی آواز ہی سوزاک کو اچھا کرتا ہی۔

کاف با ہاے ہوز

کہربا۔ یہ گوند ایک درخت کا ہی جو بلاد روس و بلغار و ممالک مغرب سے
لاتے ہین اور اس درخت کو خوزیہ حاے حطی و زاے ہوز نام ہی برفانی
پہاڑون مین ہوتا ہی جو دو قسم پر منقسم ہی رومی اور شمعی رومی کا گوند
عمدہ ہوتا ہی سخت شفاف صاف طلائی رنگ اور اگر اسکو ہاتھ مین

گیہوں کرین اور گھر بہ سے لیموں کی بو آتی ہے اور گھاس ...
اٹھا لیتا ہے قسم ثانی اس سے ضعیف ہے حکما کے نزدیک سعد و
اور کھریا ایک ہین فرق یہ ہے کہ سُدروس ہند بین مل جاتا ہے
اور تھوڑی سی گرمی بین گھاس اٹھا لیتا ہے اور کھریا سخت زیادہ ہے
اسکو گرمی زیادہ درکار ہے جلا خوب ہو جاتا ہے طبیعت اسکی گرمی و
سردی بین معتدل ہے اور دوسرے درجے بین خشک ہے مفرح مقوی
دل وحابس نفث الدم قاطع نزف الدم حابس رعاف و نزلات ہے۔

کھرنی۔ یہ ایک بڑا درخت ہندی ہے پتے اسکے پتلے اور پھل لمبا
بقدر انگلی کے کچا سبز پختہ زرد اور شیرین طبیعت اسکی گرم تر مفرح
دل مقوی اعضا دافع ثقل و بیہوشی و تشنگی و سرفہ و قرحہ
مجاری بول ہے بھوک لگاتا ہے باہ کو زیادہ کرتا ہے بنگال اور گجرات بین بکثرت ہے

کاف بایائے

کیاکو۔ یہ ایک لکڑی ہے جوزی رنگ بہت سخت ریشے اسکے اور
لکڑیون کی طرح سیدھے نہین ہین بلکہ آریب ہین کوئی ذائقہ
اور بو غالب نہین جہازون بین یہ لکڑی صرف ہوتی ہے اطبا
اسکا برادہ استعمال بین لاتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک
ملطف و محلل وجالی مصلح اخلاط محترقہ مجفف قوی واسطے اکثر امراض
بلغمی کے دافع فالج و استرخا و درد مفاصل و عرق النسا ونقرس
و جذام و اقسام آتشک و قروح خبیثہ ہے چوب چینی اور عشبہ
سے اسکا عمل قوی ہے

کیک داشہ۔ یہ ایک گھاس ہے جس تمام پر اسکو بچھا دین کیک
یعنی پسو جو موذی جانور ہے بھاگ جاتے ہین اور اگر اسکے تخم کو پیسکر
فرش پر بکھیر دین تو بھی کیک بھاگ جاتے ہین۔

کینقتی۔ ہندی بین یہ ایک نبات کا نام ہے جو قسم بیارہ سے ہے
پاس کے درخت پر لپٹ جاتی ہے یا زمین پر پھیل جاتی ہے پھول اسکا
کاسنی رنگ کا ہوتا ہے طبیعت گرم اور خشک ہے سانپ کا زہر اسکے
خیساندے پلانے سے دفع ہو جاتا ہے

چھبیسواں باب

کاف فارسی کے بیان بین اسمین چار فصلین ہین پہلی فصل
لغات ادبیات کی اسمین تحریر نہین ہوئی کیونکہ وہ سب لغت کاف تازی کے باب
زیب اندراج پا چکے ہین۔

پہلی فصل

فارسی وغیرہ لغات کے ذکر بین

کاف فارسی باالف

گا۔ ترکی بین ترجمہ حرف با کا جو واسطے الصاق اور صلہ کے آتا ہے
اور ترجمہ حرف را کا جو ربط کا حرف ہے۔

گاد۔ صیغہ ماضی گادن سے ہے جسکے معنی گائیدن یعنی جماع کرنے کے ہین۔

گاؤ دو۔ شرندی زبان بین پہاڑی بیل یا گائے

گاو عنبر۔ دریائی گائے جسکا سرگین عنبر ہے۔ سعدی۔ گر بلہ بیشہ
بمال کند کبر حکیم ۔ کون خرش شمار اگر گاو عنبرست ۔

گاذر۔ دھوبی جو کپڑے دھویا کرتا ہے۔ سعدی۔ لیکن فراخ روے
در عمل اگر خواہی ۔ کہ روز رفع تو باشد مجال دشمن تنگ ۔ تو پاک
باش برادر مدار از کس باک ۔ زنند جامہ ناپاک گاذران بر سنگ ۔

گاذر وامہ۔ فنون کشتی بین سے ایک فن کا نام ہے۔ میر نجات۔
دست شوید ز حیات آنکہ نگاہش یکبار ۔ بر سر سنگ محبت فگندش گاذر وامہ

گاو سر۔ گاو سار۔ فریدون کے گرز کا نام ہے جسکی صورت
گاؤ کی تھی۔ قطعہ از مولف۔ آنکہ بید شت ہمچو افریدون ۔ تاج
فرق و گاو سر در دست ۔ بسرش چون رسید شیر اجل ۔
گردن زور و قوتش بشکست ۔

گاور بفتح واو ایک درخت کا نام ہے جسکے گوند کو گاوشیر کہتے ہین۔

گار۔ اسکے معنی کرنے والا اور صاحب چنانچہ گنہگار ستمگار۔ خدمتگار
خداوندگار۔ سعدی۔ کرم بین لطف خداوندگار ۔ گنہ بندہ
کردست و او شرمسار۔ فریدالدین عطار۔ پادشاہا جرم ما را
درگذار ۔ ما گنہگاریم و تو آمرزگار ۔

گاز۔ مقراض جس سے چاندی سونا کترتے ہین اور انبر کا گلگیر اور گیا یعنی گھاس

گاژ۔ جگہ اور مقام۔

گاؤرس بفتح واو نام غلہ جسکو ہندی بین چینا کہتے ہین۔

گاؤمیش مشہور جانور ہے جسکو بھینس کہتے ہین۔

گافـ۔ لاف و گزاف بڑائی کی باتین۔

گازرک۔ ایک پرندے کا نام ہے جسکو ہندی بین ممولا کہتے ہین
اور عربی بین صعوہ۔

گاشلک۔ ایک قسم کھانے کی ہے جو اوجھڑی بین ڈالکر اور منہ بند
کرکے آگ بین پکاتے ہین۔

گالبنک۔ ایک گھاس کا نام ہے جو بہار کے موسم بین گیہون کے

کھیت مین پیدا ہوتی ہی اُسکا پھل جو گیہون کی شکل پر ہوتا ہی اگر کوئی کھاتا ہی تو سست ہو جاتا ہی۔

گاوک۔ بفتح واو کنہ یعنی چچڑی جو بہت چھوٹا جانور ہوتا ہی اور اونٹ و بیل وغیرہ چارپایون کے جسم پر چمٹ کر خون اُنکا چوستا ہی۔

گاوشنگ۔ ہر چیز مقشر جسکا چھلکا اُتر چکا ہو۔

گال۔ باریک غلہ جیسے چینا کنگنی وغیرہ اور قبہ روئی کا جسمین سے روئی نکالتے ہین اور ایک قسم عنکبوت کا جسکا رتیلا نام ہی اور نیش اُسکا سخت زہریلا ہوتا ہی اور خروس جو مشہور مرغ ہی و فریاد و آواز کرنا۔ فریفتہ بنیا۔ بازی کھیلنا اور وہ سرگین چارپایہ جو جسم کے ساتھ لگ کر خشک ہو جائے۔

گام۔ قدم اور پاؤن اور وہ مسافت جو وقت رفتار کے دونون پاؤن مین ہو اور گھوڑے کی رفتار۔ میر معزی۔ ہرگہ کہ شاد کام زند گام بر زمین ✽ بر فرق دشمن تو بیاشد غبار خویش ✽

گان۔ لائق و سزاوار اور یہ لفظ آخر اعداد پر واسطے تعین تعداد کے آتا ہی چنانچہ دوگان وسہ گان اور بجاے ہا کے واسطے جمع کے بھی آخرین کلمون کے آتا ہی چنانچہ بندگان و استادگان و تشنگان وغیرہ و بمعنی پیوستن یعنی ملنا کسی کو کنایۃً جماع و مباشرت۔ مولوی معنوی۔ چونکہ اندر مرد خوی زن نہند ✽ او مخنث گردد و گان میدہد۔ توحید۔ بندہ پرور پادشاہ دو جہان ✽ روز و شب روزی رسان بندگان ✽

گاوبان۔ بیل کا مالک بیلون کی خدمت کرنے والا چرواہا۔ نظامی۔ جو شیرے کہ آتش بدم در زند ✽ دم گاوبان را بہم بر زند ✽

گاوزبان۔ مشہور دوا ہی جسکو عربی مین لسان الثور کہتے ہین۔

گاوگردون۔ برج ثور جو دوسرا برج آسمانی ہی۔

گاو۔ مشہور چارپایہ ہی جسکو بیل کہتے ہین۔ ذوقی۔ جو شغل کشتکاری پیش گیرد ✽ شود حاضر ز گردون گاو گردون ✽

گاڑہ۔ جھولا جسمین لڑکے جھولتے ہین اور وہ گھر جو نہر کے کنارے پر ہو اور کمینگاہ جسمین صیاد کھڑے ہو کر شکار پکڑتا ہی اور صومعہ جو کسی عابد کا پہاڑ پر ہو۔

گاہ۔ بادشاہی تخت اور وقت اور جگہ اور خیمہ اور زر گردون کی کھالی نظامی۔ دران آرزوگاہ فرخار ولیس ✽ نکرد آرزو با مقابل نکیس ✽ فردوسی۔ سوم چنگی بکردار درندہ گرگ ✽ نہادند آوردگاہ بزرگ ✽

گانہ۔ یہ ایک لفظ الفاظ زائد سے ہی کہ اعداد کے اخیر مین بولا جاتا ہی چنانچہ یگانہ و دوگانہ و سہ گانہ وغیرہ۔ توحید۔ خدا بے مثل و یکتا و یگانہ ✽ خدا خلاق و رزاق زمانہ ✽ بود در ہر مکان و ذاتش مکان دار ✽

بہر خانہ بود او اہل خانہ ✽

گاپارہ۔ غار اور شگاف جو پہاڑ مین ہو۔

گازرگاہ۔ نام ایک مکان کا شیراز مین جس جگہ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ مدفون ہین اور نام ایک جگہ کا ہرات مین جہان خواجہ عبد اللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ آسودہ ہین۔ درویش والہ ہروی۔ شب بصحبت ساز اقلیم سخن عرفی بسیر ✽ رفتم او شد جانب شیراز و من سوے ہرات ✽ و لہ۔ او مصلحت و والہ براہ گازرگاہ رفت ✽ او بسعدی خویدہ والہ سوے عبد اللہ رفت ✽

گالہ۔ پہلوی مین دُھنکی ہوئی اور صفا کی ہوئی روئی کا گولہ جو کاتنے کے لیے درست کیا گیا ہو۔

گاوپروری۔ پرورش یافتہ بیل جو گھر مین پلا ہو موٹا تازہ بیل پر گوشت۔ سعدی۔ اسپ لاغر میان بکار آید ✽ روز میدان نہ گاو پرواری ✽

کاف فارسی با باے

گپتا۔ ژندی زبان مین مرد جو مقابل عورت کے ہی۔

گپ۔ رنگین باتین بامزا جھوٹی ہون یا سچی۔ و داستان سرگذشت فسانہ۔ نعمت خان عالی۔ ہر چیز کہ باشد و لخواہ تو بفرما ✽ سازی ہمی قماری شعری گپی کتابی ✽

گپسنت۔ ایک گھاس کا نام ہی جو بہت تلخ ہوتی ہی نیز نام حنظل کا جو مشہور تلخ پھل ہی اور دوا مین مستعمل ہی۔

گبر۔ آگ کو پوجنے والا۔ شمس الدین تبریزی۔ چہ تدبیر ای مسلمانان کہ من خود را نمیدانم ✽ خدا داند کہ من گبرم یہودم یا مسلمانم ✽

گبر۔ قوی اور موٹا اور زور آور۔

گپمن۔ ژندی زبان مین پشت مقابل رو و پست مقابل بلند۔

گپتن۔ سخن کرنا۔ بولنا۔ کلام کرنا۔

گوپی۔ ترکی مین لفظ تشبیہ ہی جسکے معنی مانند کے ہین۔

گبرکی۔ شراب کا برتن صراحی و خم وغیرہ۔

کاف فارسی با تاے

گت۔ بزرگ اور بڑا اور ترکی مین مقعد جسکو فارسی مین کون اور عربی مین دُبر بولتے ہین۔

گترم۔ لاف و گزاف یعنی جو بات اپنے اندازے سے بڑھ کر کی جاے۔

گتہ۔ بہت بڑا اور کون یعنی دُبر۔

کاف فارسی با جیم

گجرات گوجرات۔ ہندوستان مین ایک ملک اور شہر کا نام ہی۔ امیر خسرو

گنہ چشم زرہ ہم از گوجرات ٭ نگاہ بد بو گیر تو سیم برات ٭

گچ - معروف و مشہور چیز ہی جو عمارت مین خرچ ہوتا ہی قدما کے اشعار مین یہ لفظ گریج باندھا گیا ہی شاید گچ اسکا مخفف ہوگا - ابن یمین - نہادا ز خاک و گچ و سنگ اینچنین طاق مگر ٭ خاکش از سنگ و گریج کا فور سنگش گوہرست ٭

گجیل - شہر تبریز مین ایک محلہ ہی جسمین قبر خواجہ شمس الدین تبریزی علیہ الرحمۃ کی ہی -

گچھہ - جسکی زبان فصاحت کے ساتھ جاری نہو -

کاف فارسی با دال

گدا - مانگنے والا فقیر - دریوزہ گر - مانگتا - توحید - ہست پیش ہر نظر نور خدا ٭ مثل خور زیر و زبر جلوہ نما ٭ بر جبین خوبرو یان جہان ٭ جلوہ گر ہست آن جمال جان فزا ٭ ہر گدا سائل بباب دولتش ٭ خاک بوس بارگہہ ہر بادشا ٭

گدست - ایک بالشت یعنی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کا فاصلہ جسکو وجب اور بدست بھی کہتے ہین -

گدز - گدائی - دریوزہ گری - سوال - اسیر لاہجی - سلطنت بگذاشت اکنون گدز کند ٭ نیک پندارد و لیکن بد کند ٭

گدیور - گدائی کرنے والا اور زراعت کرنے والا - نظامی - چو دروا باشد تمنا سے سود ٭ گدیور در آید بکشت و درود ٭

گدر - جنگ کے ہتھیار -

گداز - گدازش - گلنا - میرزا معز فطرت - گداز از آتش عشق تو دادم اینچنان تن را ٭ کہ چشم مو برون آورد گردم طوق گردن را ٭

گدرک - جنگ کے ہتھیار تلوار نیزہ وغیرہ -

گدک - بکری کی اوجھڑی کے ٹکڑے جسکو گیپا ہی کوچک و گیپا ہی خرد بھی کہتے ہین اور انکو سی کر اور گوشت و برنج و مصالح اُنمین ڈالکر پکاتے ہین -

گدمن - ژندی زبان مین روشنی دل کی - صفائی سینے کی -

گدیہ - گدائی اور دریوزہ گری اور گدائی کرنے والا -

گدہ - قفل کی تالی کے دندانے -

گدارہ - بالاخانہ اور تابستانی مکان جو ہوادار ہو -

گدائی - دریوزہ گری - مانگنا - سعدی - چو رخت از مملکت بربستہ خواہی ٭ گدائی بہترست از بادشاہی ٭

کاف فارسی با ذال

گذشت - بمعنی گذرا اور راہ و گذرگاہ - ثنائی - چو بگذرد دم عمر عزیز در ہمہ حال ٭ چہ بر سریر گذشت و چہ بر حصیر گذشت ٭

گذر - گذرنا اور رستہ اور وہ رستہ جو دریا سے اُترنے کے واسطے مقرر ہو - حافظ - دلبر رفت و دل شدگان را خبر نکرد ٭ یاد حریف شہر و رفیق سفر نکرد ٭ یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت ٭ یا او بشاہراہ طریقت گذر نکرد ٭

گذار - گذرنا اور جگہ گذرنے کی اور راہ گذرنے کے لیے اور گذار نیوالا - حافظ - عماری دار لیلی را کہ مہد ماہ در حکم ست ٭ خدایا در دل انداز ش کہ بر مجنون گذار آرد ٭ نظامی - با آسمان گذاری دمے بشمار ٭ کہ آسمان نہ بد مرد آسمان گذار ٭

گذارش - گذرنا - ادا کرنا - نظامی - گذارش چنان شد درین بارگاہ ٭

گزاف - بضم اول بیہودہ بات اور لغو تقریر - توحید - دیا دار از کدورت سینہ صاف ٭ کن زبان را پاک از لاف و گزاف ٭ چون توئی بندہ مکن از بندگی ٭ سرکشی و اختلاف و انحراف ٭

گذربان - رستے کا محافظ پاسدار اور محصول لینے والا - شاہراہ طریقت گذر کن اے سالک ٭ نہیں ہیچ توفیقیست درین رہگذر گذربانی ٭

گذرگاہ - آمد و رفت کا رستہ - نظامی - تو لی کاسمان را براز فراخی تو دیدین را گذرگاہ او ساختی ٭

گذارہ - حد سے گذرنے والا - اندازے سے بڑھنے والا - صائب - یکبار نقش پای خودای بیخبر ببین ٭ تا ر شتت شود کہ چہ مست گذارہ ٭

گذافہ - ہر ایک بات جو وزن اور اعتبار رکھتی ہو لغو اور بے معنی -

کاف فارسی با راے

گرا - دلاک حجام - نائی - موتراش - یحیی کاشی ہجو مین کا کا ثابت جگو نہ آقا کردی ٭ کا فر نکند آنچہ تو گرا کردی ٭ ریحان سیاہ ما درت سپید ہست ٭ چون اسم شریف خود شریفا کردی ٭

گرما - گرمی کا موسم مقابل سرما - شعر - زخش ماند گل و بہر بہار و بہر خزان خندان ٭ شگفتہ گلشن نقشش بہر گرما و بہر سرما ٭

گریا - ایک گھاس کا نام ہی جسکو بلند و نیجی کہتے ہین اور دوا مین مستعمل ہی -

گردا - مخفف گردان لکڑی کا لٹو جسکو لڑکے تاگا باندھکر زمین پر پھراتے ہین -

گردنا - سارنگی اور طنبورے کی کیلی جس سے اسکے تارون کو درست کرتے ہین -

گرداب - گردابہ - بھنور جو پانی مین پڑتا ہی اور پانی چکر مارتا ہی - میرزا صائب - روشنم شد مجاذ کشتی لازم جمعیت ست ٭ بکف دریا چو دیدم کاسہ گرداب را ٭ نظامی - خدا وند را چو آید بپای بر سنگ ٭ فتد کشتی درون گردابہ تنگ ٭ نظامی را بآسایش رسائی ٭ بہ بخشش و بہ بخشایش رسائی ٭

گرفت - صیغہ ماضی کا گرفتن سے ... اوسنا ... لورنیا ...
وانعمر ... واقدہ ... مشہور ... شہوری
ازینجیوان گرفتی از ساغر ... این گرفت ...
گرد دشت - ایک قسم کے قبضہ کمان کا نام ہو - ملا طغرا - اگر قبضہ شست
بود گردشت ٭ دہد ناوکش را خصم دربست ٭
گرست - نہایت مست و مدہوش جسکو طافح عربی مین کہتے ہین -
گرغشت - ایک خود رو سبزے کا نام ہو مشابہ ساگ پالک کے اور کھانے مین آتا ہی
گرغنج - برنج جو قلیہ شالی کو کوٹکر نکالتے ہین جسکو عربی مین ارز
بولتے ہین و گنج و گوشہ و چین و شکنج -
گرکانج - نام شہر جو دار الملک ولایت خوارزم ہو اور معرب اسکا جرجانیہ ہی
گرج - بضم اول نام ایک ولایت کا جسکو گرجستان بھی کہتے ہین -
گرج - بکسر اول گلی چونا جو پتھر جلا کر بناتے ہین اور عمارت کے کام مین خرچ کرتے ہین
گرنج - دمدمہ جو باہر قلعہ کے بنا کر محصوران قلعہ پر گولہ زنی کرتے ہین -
گردناج - بفتح اول و فتح دال جو تیسرا حرف ہی مطلق سیخ اور وہ
سیخ جسپر کباب بھونین اور وہ سیخ جس سے تنور سے روٹی نکالین -
گربہ بید - بید کے ستر اقسام مین سے ایک قسم کے درخت کا
نام ہو نیز نام ایک چیز کا جو گوند کی طرح درخت بید سے حاصل
ہوتا ہی - میر خسرو - گربہ بید از گل لعل و سپید ٭ گربہ
شکنین شدہ از شاخ بید ٭
گرد - بضم اول پہلوان - زورآور - بہادر - قوی جسم ٭ سگ گردشنا
گردون گردان گردگان را گرد کرد ٭ سیر ابل تیزان تا قصاب را فرد کرد ٭
گرد - بفتح اول اڑتی ہوئی مٹی جسکو غبار بولتے ہین و غم و اندوہ اور
شہر اور ایک قسم ابریشم کا اور آفتاب - حافظ - دریغ قافلہ
عمر آنچنان رفتند ٭ کہ گردشان بہوای دیار ما نرسید ٭ نیز بمعنی
گردش اور گردش مین لانے کے - رسد چون نوبت ما جام می
از جانے جنید ٭ بگردآرد مگر سرگشتگی پیمانۂ ما را ٭ اور پھرنے والا
چنانچہ بادیہ گرد بیہودہ گرد -
گرد - بکسر اول مشہور لفظ ہی - سعدی - سکے عدل تا نام نیکو برد ٭
کسے ظلم تا مال گرد آورد ٭
گرد باد - ہوا کا بگولا جو مشہور چیز ہی - میرزا بیدل - جلوہ ہا بید ہا
از شاخ غزالان خیال ٭ گرد بادی گر بدشت دل نافہ پیچید ٭
گرد ... خاکشی ... نام ایک ... سر ... جو ... کرنے والا
... والا چنانچہ ... گرد ... اور ... اور ... والا -

گرد بادی - گرد باد ... از دست بیداد گر ٭ تو میزان زور از ترازوے ... ٭
گردبود - بکسر اول برمہ ترکھانون کا جس سے لکڑی مین سوراخ کرتے ہین
اور بعض اسکو شفتہ کہتے ہین - سیفی - قوان چو آرہ تمنا سے پاے
پوشش کرد ٭ اگرچہ گرد بیرا بود دو سر بارا ٭
گردگر - بروزن کمو تر ایک نام حق سبحانہ تعالے کی اسامی گرامی
سے جسکے معنی مراد بخشش ہین -
گرگر - بفتح ہر دو کاف ایک نام ہو اسامی گرامی حق سبحانہ تعالی سے
جسکے معنی صانع الصنائع ہین نیز بمعنی بادشاہی تخت کے -
گرد - بفتح اول و دال مہلہ شہر اور قصبہ اور تخت زمین و دامن
کوہ اور ناہموار زمین -
گرد گیر - نام پسر افراسیاب بادشاہ توران -
گرگر - بضم ہر دو کاف وہ آہستہ بات جو کسی کے کان مین کی جائے -
گرگر - بکسر دو کاف نام ایک غلے کا ہے جسکو باقلا کہتے ہین اور معرب اسکی جرجر ہی
گرنجار - شالی کا ایک کھیت -
گروز - بکسر کاف و فتح واو وہ جیب جو مقابل مکان کے ہو -
گرگ - خوک نر و باعتبار دلیری وہ شخص جو بہادر و دلاور و جنگجو ہو -
سعدی - گراری بچاہی در افتادہ بود ٭ کہ از ہول او شیر نر مادہ بود ٭
گربز - بضم کاف و باے موحدہ حیلہ گر و مکار - سعدی - کہ خود را بہ علم
داشتم آبرو ٭ ز دست چنین گربز یاوہ گو ٭
گرز - گرزہ - مشہور ہتھیار ہی - میر معزی - بشبیب مقرعہ الکنون
نہایت سست تر ا ٭ زگرز سام نریمان و تیغ رستم زال ٭
گریز - گریختن یعنی بھاگنا - بیزار ہونا - میر خسرو - در و بہمدت زود
فتنہ خیز ٭ کردہ چو شیر از تف آتش گریز ٭ سعدی - چو جنگ آوری
باکسے در ستیز ٭ کہ از وے گزیرت بود یا گریز ٭
گرگور - نام ایک پہلوان کا ہے جو افراسیاب کے لشکر مین امیر تھا -
گرس - عربی مین جوع اردو مین بھوک یعنی خواہش کھانے کی میر یحیی شیرازی
غریبے کہ آمد بشہر صفاہان ٭ چہ بیت گرگرس و سر بامیر د ٭
گراوس - تیل نکالنے کا چرخ یعنی کولھو -
گرداس - بضم اول و فتح دال ظالم و ستمگار آدمی -
گردوس - بضم اول و سکون واو وہ میل جو کپڑون سے نکالا جاے
اور موباف عورتون کا جو بالون مین گوندھتی ہین -
گرپس - بکسر اول مکر و حیلہ و فریب جاپلوسی -
گرایش - میل و رغبت و توجہ -

گردبالش - وہ گول تکیہ جو سوتے وقت رخساروں کے نیچے رکھتے ہین -
گردش - پھرنا ایک حالت سے دوسری حالت مین ہو جانا - مؤلف -
ہر آن دیگر سکینہ پیدا بہر شام و سحر * گردش گردون گردان انقلاب آسمان *
گراشش - یعنی خراشش -
گرزش - فریاد و زاری و نالہ و تضرع -
گرشش - نام ایک جانور کا ہے -
گریغ - گریز - بھاگنا - نفرت کرنا -
گرفنج - دروغ - جھوٹ - کذب -
گرڈک - حجلہ و خیمہ و چلپستان جسکو ہندی مین پہلی کہتے ہین -
گرپاک - ایک قسم کے خربزے کا نام ہے -
گردناک - احمق و دیوث و خودپرست -
گرک - بفتح اول نام ایک شہر کا ہے -
گرگ - بضم اول نام ایک مشہور درندے کا ہے جسکو بھیڑیا کہتے ہین -
سعدی - شنیدم گوسپندی را بزرگی * رہانید از دہان و دست گرگے *
شبانگہ کارد بر حلقش بمالید * روان گوسفند از وی بنالید * کہ از
چنگال گرگم در ربودی * چو دیدم عاقبت تو گرگ بودی *
گرنگ - بفتح اول لڑائی کا میدان -
گرنگ - بکسر اول درہم و برہم اور شکستہ -
گرینگ - بفتح اول مغاک جو زمین مین ہو اور غلطیدن روان کی
آواز جو ایکبار ہو اول اٹھین -
گربال - غربال یعنی چھلنی -
گرشال - ایک جانور کا نام ہے جو شغال مادہ اور گرگ نر سے پیدا ہوتا ہے
گرمائل - نام ایک بادشاہزادے کا ہے جو ضحاک کا باورچی تھا
اور اسکو حکم تھا کہ ہر روز دو آدمیون کے سر کا مغز ضحاک کے دوش
کے سانپون کے واسطے بہم پہونچائے وہ ایک آدمی کا مغز لیتا اور
دوسرا مغز بکری کا اسمین ملاتا اور دیتا ایک آدمی کو چھوڑ دیتا -
گرزم - نام برادر اعیانی اسفندیار -
گرم - مشہور لفظ ہے مقابل سرد کے اور جلد اور تیز - نظامی - پذیرفت
شہ خواہش گرم او * بہ برفتن نگہداشت آزرم او *
گران - بھاری بوجھل مقابل ارزان کے نرخ میں اور مقابل سبک کے
وزن مین - مؤلف - منزلت دوست دبارت بس گران *
راہ پر خوف و خطر از رہزنان *
گردن - عربی مین اسکو عنق اور رقبہ کہتے ہین - نظامی - ز تنگان شمشیر
جوشن گداز * بگردن کشی کردہ گردن فراز *
گردون - آسمان اور گاڑی جسکو بیل جوت کر چلاتے ہین - ذوقی -
سرفرازان سر نہادہ بر درش * گردن گردون خمیدہ صبح و شام *
نظامی - بکوہ و بصحرا ببختی و رنج * سیاہش بگردون کشیدہ ندگنج *
گریبان - مشہور لفظ ہے - محمد خان تیجی - تو آن طراوت گردن
از آب حیات * بلند گشتہ زنو آزہ گریبانش *
گرگان - نام ایک شہر کا ایران مین معرب جسکا جرجان ہے -
گردلان - پہلوان - دلاور - صاحب زور -
گردنان - بہت سے پہلوان
گرگین - نام ایک پہلوان ایرانی کا - سعدی - چہ خوش گفت
گرگین بفرزند خویش * چو قربان پیکار بربست کیش *
گرزمان - بروزن پہلوان فلک الافلاک جو تمام افلاک پر محیط ہے -
گردمان - نام ایک موضع کا شروان مین -
گردگان - نام ایک میوہ کا جسکو جوز کہتے ہین - سعدی - پر از گردگان
بکیر دہر کہ بنیادش بد است * تربیت نا اہل را چون گردگان بر گنبد است *
گرگن - بضم ہر دو کاف سبز غلہ جو بریان کیا جائے -
گرزن - نام ایک تاج مرصع کا تھا جو بادشاہون کے خاندان میں تھا
وہ بڑی قیمت کا تاج تھا اسمین علاوہ جواہرات یاقوت الماس کے
ایک سو دانہ مروارید کے نصب تھے جو کلائی مین بیضہ کنجشک کے برابر تھے
گرلون - بیماری داد کی جو مشہور بیماری ہے -
گرو - رہن اور مقید -
گربہ - مشہور جانور ہے جسکو عربی مین سنور اور ہندی مین بلی کہتے ہین
سعدی - گربہ مسکین اگر پر داشتی * تخم کنجشک از جہان بر داشتی *
گردکوہ - مازندران مین ایک پہاڑ ہے -
گردہ - بفتح کاف و دال مہملہ پہلوانون کا تنبان اور خاکہ جو مصور
اور نقاش کسی تصویر یا نقش کا اتارین اور نام ایک قسم کی روٹی کا -
اشرف - شد غبار آلودہ خط روے چون گلنار تو * بسکہ گوئی گرد
بر سید از در از خسار تو * نظامی - ہمان گردہ نغز چون لیف خز *
گرو بخت شد گردہ گردہ پز *
گرسنہ - بھوکا - جسکا پیٹ خالی ہو - ملا طاہر غنی - گرسنہ
آید و ناخوردہ خون من بگذشت * مہ نزار حریف کہ آن شوخ را ندیدم سیر
گرفتہ - طعنہ و سرزنش - نظامی - گرفتہ فرزند در حریف افگنی *
گرفتہ شوی گر گرفتہ زنی *

گروہ - جماعت و مجمع لوگوں کا - سعدی - گروہے بر تشنہ زان ظلم
و غارہ بہر شہ نام پرسش در دریا ۞
گرہ - عقدہ ہندی مین گانٹھ - سعدی - گرہ بر سر بند احسان مزن ۞
کہ این زرق و شید است وآن مکر و فن ۞
گریہ - رونا آنکھوں سے - آنسو برسانا - زلالی - شہنشہ راچو
جشن بادہ سرشد ۞ دماغش از شراب گریہ تر شد ۞
گروہہ - بفتحتین گولی بندوق کی اور گلولہ کمان کا -
گرگینہ - پوستین جو کسی چمڑے کی ہو -
گرمابہ - حمام نہانے کا
گردانیہ - موسیقی کے ایک پردے کا نام ہے -
گریوہ - پشتہ یعنی اونچی زمین -
گرزہ - کفچہ بڑے سانپ کا -
گرہ - بفتحتین سبو یعنی گھڑا -
گمچہ - بضم اول خانہ کوچک یعنی چھوٹا سا مکان و نقب و سوراخ
و غار جو زمین مین ہو -
گربہ - فریب و مکر و حیلہ و چاپلوسی -
گرامی - بہت عزیز - نہایت بزرگ - میر معزی - ای موثر در ہمہ کس
ہمچو اجرام سپہر ۞ وی گرامی بر ہمہ کس ہمچو ایام شباب ۞
گرانی - بھاری پن اور ہر چیز جو ناگوار ہو نرخ مین مقابل
ارزانی کے اور وزن مین مقابل سبکی کے - سعدی - گرانی
پیش شمع آید ۞ خیزش اندر میان جمع بکش ۞
گرمی - مقابل سردی کے اور تیزی اور تندی - نظامی - زگرمی کہ
چون برق ہمو دراہ ۞ نشد گرمی خوابش از خوابگاہ ۞
گرای - میل و رغبت و خواہش و قصد اور صیغہ امر یعنی خواہش کر
سعدی - اگر ہوشمندی بمعنی گرای ۞ کہ معنی بماند نہ صورت بجای +
گرازی - جرأت و دلیری و مردانگی و شجاعت و بہادری -
گرمی - جریب اور گز جس سے زمین کی پیمایش کرین -

کاف بازاے معجمہ

گزپا - نام ایک جانور کا جو جنگلی ٹانگین لمبی ہین -
گزا - کاٹنے والا اور گزند پہونچانے والا -
گزارا - تقریر کرنے والا سخن کا حق ادا کرنے والا -
گزیت - وہ خراج اور روپیہ جو کفار سے لیا جاتا ہے مسلمان اسکو
جزیہ کہتے ہین - نظامی - گہش خاقان خراج چین فرستد ۞
گہش قیصر گزیت دین فرستد ۞
گزیہ - جزیہ جو کفار سے لیا جاتا ہے -
گزند - بروزن کمند آفت آسیب تکلیف - سعدی - گر گزندت رسد
ز خلق مرنج ۞ کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج ۞
گزیر - چارہ و علاج اور ضرورت کی چیز - باشد اے مرد مسافر
در اخیر ۞ رفتنت از دار دنیا ناگزیر ۞
گزار - نشتر فصاد کا اور وہ پارہ نقش جو نقاش واسطے تعیین
شکل نقوش و نقشا وغیرہ کے کھینچتے ہین رہا کرنا اور چھوڑنا یہ لفظ
ذال معجمہ کے ساتھ محض غلط ہے -
گزر - بفتحتین زردک جسکو ہندی مین گاجر کہتے ہین مشہور سبزی ہے اور کھانے مین
آتی ہے اور دستہ ہاون کا - نعمت خان عالی - جاگئیان نشان جہان کی ہجو مین
پیوستہ ہم از کدو ہے وشلغم ۞ ور حلقہ ہے گزر تراستے ۞
گزر - بضم اول و فتح ثانی راستہ چلنے پھرنے کا -
گز - نام ایک درخت کا ہے جسکو جھاؤ کہتے ہین اور نام ایک قسم کے
تیر کا اس تیر کے چلانے کو گزاندازی کہتے ہین - سیفی - ہزار دل
شدہ در ہجر گزی ببیند از دم ۞ کسی نخواست چو آن سرو دگر گزاندازی +
گزاز - اضطراب و بیقراری جو بسبب حرارت کے پیدا ہو -
گزارش - ادا کرنا - بیان کرنا -
گزاف - بروزن خلاف بعض کے نزدیک بضم اول بیہودہ
و لغو و بے حساب -
گزف - قیر جو ایک قسم کا گوند سیاہ ہوتا ہے اور کشتیوں و جہازون پر
لگاتے ہین تا پانی انمین دخل نہ کرے -
گزلک - بکسر اول چھوٹی چھری و قلمتراش -
گزک - جس چیز کے ساتھ تغیر ذائقے کا شراب پینے والے کرتے ہین
بعض شراب پینے کے وقت کباب بعض نارنج وغیرہ میوے پاس
رکھ لیتے ہین یا پینے کے بعد منھ کا ذائقہ بدلنے کے لیے تھوڑا سا
کھا لیتے ہین - ابوطالب کلیم - گزک ضرور نباشد شراب غفلت را +
ولیک بر آتش حرص اینقدر کباب چراست ۞
گزمازک - پھل درخت کا جسکو عربی مین زمازج کہتے ہین -
گزم - درخت پشہ غال جسکو عربی مین شجرۃ البق کہتے ہین -
گزم - درخت گز یعنی جھاؤ کا درخت -
گزین - دلپسند پسندیدہ اور ترکیب مین معنی فاعل کے دیتا ہے
چنانچہ خلوت گزین وغیرہ - سلمان - کردم عمش بر جان گزین بادل

فدا صد جان حزین ٭ جان گرچہ باشد نازنین ہرگز بجانان کی رسد ٭

گزہ - ایک قسم کے تیر کا نام ہے اور چوبین جس سے نقارا بجاتے ہین ٭

گزیدہ گزیدہ جزیہ خراج - رشوت -

گزادہ - کجاوہ جو اونٹ پر رکھکر اسپر سوار ہوتے ہین اور ہودج ہاتھی کا -

گزارہ - بیان خواب کی تعبیر کا -

گزرہ - نام ایک خوشبو گھاس کا ہے جسکو سرزیرہ بھی کہتے ہین -

گزیدہ - پسند کیا گیا - اختیار کیا گیا -

گزینہ - مس گردن کا ہتھوڑا اور ہتھوڑن یعنی خزانہ اور ذخیرہ -

کاف فارسی با سین

گست - بدصورت و زشت و نا زیبا -

گستاخ - بے ادب - بے خوف - بیباک - ڈھیٹ -

خدا برحم و تفقد بر و نظر نکند ٭ بود کسیکہ بشر انگیز شوخ یا گستاخ ٭

چراز لطف آلہی ست بے ادب محروم ٭ چرا ز قرب خدا بشود جدا گستاخ ٭

گسار - خورندہ کھانے والا جیسے غمگسار -

گسیل - دفع کرنا - رخصت کرنا - بھیجنا -

گسل - امر بمعنی توڑ -

گستہم - نام پسر نوذر -

گسنن - گرسنگی بھوک -

گستاخی - بے ادبی و چالاکی -

کاف فارسی با شین معجمہ

گشتا - بہشت جسکو عربی مین جنت کہتے ہین -

گشتاسب - اسفندیار کے باپ کا نام ہے اسنے ایکسو ساٹھ برس بادشاہی کی -

گشت - پھرنا اور سیر کرنا -

گشاد - فتح و ظفر و خوشی و کشایش اور چھوٹنا تیر کا کمان سے -

گشنیز - دھنیا جو مشہور تخم ہے -

گشتر - خوشتر بہت خوش -

گش - خوش -

گشاک - بازو گردن سے گھٹنے تک -

گشن - بضم اول نر کا خواہشمند ہونا جانا ہونا مادہ کا اور بار دار ہونا درخت خرما کا - نظامی - ز دشت آن گلہ را در بہر قرانی ٭ گشن آید نگاور مادیانی ٭

کاف فارسی با فا

گفتار - بات - سخن - کلام - صائب - نیست با گفتار کیفیت گفتار چشم ٭ خوشتر ست از لعل گویا چشم گویائی مرا ٭

گفت وگوی بات چیت بحث تکرار - صائب - درای کاروان یوسف شناسا نرا بوجد آرد ٭ ز گفت وگوی مردم نیست پروائی خدا جو را ٭

کاف فارسی با لام

گلاب سیر - گل ورد کا عرق جو ... ہوتا ہے ... رکھتے ہین - نظامی - گلاب اصفہان و مشک طراز ٭ سر نافہ و شیشہ را کرد باز ٭

گلگشت - سیر و تماشا باغ کا - صائب - عرق گلگشت سیر ہر ایک گنبدی کہ بگلگشت سر کوی سخن می آید ٭

گلبت - تیسرا حرف یائے موحدہ بڑی کشتی اور بڑا جہاز -

گلاج - ایک قسم کے نفیس حلوے کا نام ہے -

گلقند - وہ دوائی ہے جو گل سرخ اور قند ملا کر بناتے ہین - طاہر وحید - طبیب گفتم علاج ضعف خود را ٭ از لعل یار فرمود گلقند آفتابی ٭

گلبند - ایک قسم کے کپڑے کا نام ہے جسکو ہندی مین باندھنو کہتے ہین - ذوقی - بدن دار و ز گل نازکتر آن گل ٭ لباس نازکش گلبند باید ٭

گلوبند - ایک زیور کا نام ہے جو گلے مین باندھتے ہین -

گلزار - جس مقام پر بہت سے پھول ہوں اور شگفتہ اور خوش اور نام ایک راگ کا موسیقی مین - سالک یزدی - ہوای آن بہشت روکر اگر گلزار بسازد ٭ کہ مجنون خامہ سوگل ز مژگان ترم دیدہ ٭ بہر آمد خروشان بلبلان در صحن گلزار ٭ بلوقت صبحدم بر لحن گلزار ٭

گل شکر - گلقند کو کہتے ہین اگر گل سرخ کے پتوں مین قند ملایا جائے تو وہ گلقند ہے اگر شہد ملایا جائے تو اسکو گل انگبین جل انگبین بولا جاتا ہے - سعدی - اگر گل شکر خوردی بتکلف زیان کند ٭ ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود ٭

گلگیر - وہ مقراض جس سے شمع کا گل جو زائد ہوجاتا ہے کتر لیتے ہین - غنی - الفنی قبول - خاکساران را شمع محتاج ہمرہی نیست ٭ شمعدان را گل نسوا ز بند گلگیر ملامت ست ٭

گلنار - ایک قسم کا درخت انار کا ہے جو سوائے پھول کے پھل نہین لگاتا پھول اسکا بہت بڑا پھول ہوتا ہے جسکو صد برگ کہتے ہین - ذوقی - نعل لبت گہر دندان ٭ ہر دو رخسار غیرت گلنار ٭

گلوزہ - پہاڑی بادام جو ایک میوہ ہے -

گلوزہ - چلیاسہ و سوسمار جو چالوز مشہور ہے -

گلریز - قسم آتشبازی کا ہے جسکو پھول جھڑی کہتے ہین -

گلگونہ - طعنہ و سرزنش و ملامت اور نام ایک قسم کے غازہ کا جو خوشبو دار خاک ہے جو دانہ سے حاصل ہوتا ہے اور عربی مین اسکو عفر زرد کہتے ہین

گلیم سوزنی - گر پیش گل کشم گلہ مشک بوی تو ٭ برین گلک فزن کہ بنیند لشیم از گلک

گلناک - کچا قلعہ اور خام عمارت -

گل - پھول اگر صرف گل ہو تو گل سرخ سے مراد ہے اور اگر مضاف ہو کسی درخت کی طرف تو اس درخت کا پھول کہا جائیگا چنانچہ سوسن گل سوسن و گل انار وغیرہ نیز بمعنی اخگر آتش و نتیجہ و داغ و بہتر و جو در رنگ سرخ کے - وحشی - صد گل تازہ شگفت ست زگلزار رخش ٭ گل گل افتادہ بر او ادمی ناشس نگرید ٭ بساطی - آنکہ بر دامن گلے از خون مظلومان ندیشت ٭ ظالم بے رحم کافر ماجرا ست عاقبت ٭

گل - بکسر اول گیلی مٹی خمیر کی ہوئی - صائب - صائب زخاک پاک تبریز ست ٭ بیت سعدی گر از گل شیراز ست ٭

گلال - عبیر سرخ جو بقم کے رنگ سے بناتے ہین اور ہولی کے دنون مین ہندو ایک دوسرے پر ڈالتے ہین - قاسم مشہدی - ہمچون چنار گر بود صد ہزار دست ٭ برگ طرب بخاک فشان و گلال گیر ٭

گلگل - ایک قسم کا ترش میوہ ہے اسقدر ترش کہ اسمین لوہے کی سوئی رکھدین تو گل جائے -

گلیم - روئے کی گودڑی جو فقیر پہنتے ہین - سعدی - سید ہے جلوہ گہر از زیر خاک ٭ شاہ را ہر کس شناسد در گلیم ٭

گلبدن - یہ لفظ معشوق کی تعریف مین بولا جاتا ہے اور نام ایک قسم کے ریشمی کپڑے کا جو قیمتی ہوتا ہے - ملا مفید بلخی - اگر ترا سر آرایش ست چون طاؤس ٭ لباس گلبدن داغ میتوان پوشید ٭

گلخن - بضم اول آتشگاہ و آتشدان اور بھٹی دانہ بریز کی کیونکہ گل کے معنی اخگر کے ہین اور خن مخفف خانہ ہے اور وہ جگہ جہان خاکروبہ اور خس و خاشاک جمع ہو جسکو ہندی مین کوڑا کہتے ہین بعض کے نزدیک یہ گلخن بکاف عربی ہے کہ گل ترکی مین خاکستر کو کہتے ہین اور خن مخفف خانہ یعنی جس جگہ بہت سی خاکستر جمع ہو -

گلدان - وہ برتن جسمین پھولون کے گلدستے رکھے جاتے ہین محتشم کاشی - چو آن گلدان پر آبی کہ گلہا را نگہدارد ٭ طراوت ہاست از چشم ترمن گلعذاران را ٭

گلستان - باغ مشہور لفظ ہے - میرزا صائب - خاک را از آبروے خود گلستان میکنم ٭ قطرۂ تا در بساطم ہست طوفان میکنم ٭

گلشن - مرادف گلستان باغ - میرزا بیدل - زہی گلشن طراز بزم نیرنگ ٭ چو بوے گل نہان در پردۂ رنگ ٭

گلگون - سرخ رنگ - لال رنگ - صائب - میچکد زہر تیغ نگہ او صائب ٭ تا نہان شد بخط سبز رخ گلگونش ٭

گلہ بان - مویشی چرانے والا - چرواہا - سعدی - دوان آمدش گلہ بانی بہ پیش ٭ بدل گفت دارائے فرخندہ کیش ٭ مگر دشمن ست این کہ آمد بجنگ ٭ ز دورش بدوزم بہ تیر خدنگ ٭

گل افشان - پھولجھڑی جو ایک قسم کی آتش بازی ہے -

گلان - ایک قسم کے روئی کا نام ہے -

گلیگان - نام ایک گھاس کا ہے جو نہایت بدبو ہوتی ہے -

گلیون - ایک قسم کے کپڑے کا نام ہے جو ہفت رنگ ہوتا ہے -

گلو - حلق جسکو ہندی مین گلا کہتے ہین - صائب - گلوی خویش عبث پارہ میکنی بلبل ٭ چو گل شگفتہ شود در چمن نمے ماند ٭

گلالہ - غلالہ - زلفون کے بال جو پیچیدہ ہون -

گلدستہ - پھولون کا دستہ اور مسجد کے دو مینار جو نزدیک گنبد کے واسطے دور جانے آواز اذان کے بناتے ہین اور انپر چڑھکر اذان دیتے ہین - آرزو - زند زد زاغ تو گلدستہ بر سرم آخر چنون کہ ساخت چو طاؤس باغ باغ مرا ٭ سالک قزوینی - در تعریف مسجد صفاہان - خوش نغمہ موذنان چو بلبل ٭ گلدستہ برنگ دستۂ گل ٭

گلگونہ - وہ سرخی جو معشوق لوگ چہرے پر ملکر سنگار کرتے ہین - طالب آملی - نازم بشمع روی تو کز شعلہ ہای حسن ٭ گلگونہ عذار دہد مہر و ماہ را ٭

گلہ - شکایت جو کسی امر کی جائے - زلالی - از پنجۂ من چاک گریبان گلہ دارد ٭ وز گریۂ من گوشۂ دامان گلہ دارد ٭

گلولہ - بندوق کی گولی اور توپ کا گولہ -

گلمالہ - وہ آہنی اوزار جس سے معمار کہگل کرتے ہین -

گلاہ - سیاہ اور سیاہ پوش -

گلغچہ - گدگدی کرنا کسی کی بغلون مین انگلیون سے اور ہنسانا -

گلندہ - عورت بدفعل و بدکار -

گلود - تنور جسمین روٹی پکاتے ہین -

گلہ - بہت سی گائے اور بکریان وغیرہ -

گلگچہ - وہ شادی کہ بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ کے دن تک کرتے ہین -

گلابہ - پوچارا مٹی کا جو دیوار پر دیتے ہین -

گلشنی - تخلص ایک شاعر کا ہے -

گلانی - گلفروش اور باغبان -

گلابی - ہر چیز منسوب بہ گلاب اور وہ برتن جسمین گلاب ہو گلاب فشان اور گلاب دان بھی اسکو کہتے ہین اور ہر ایک چیز اور کپڑا جسکا رنگ گلاب کے پھول کے ساتھ ملتا ہو - میر خسرو - دہان تنگ خوبان

گل اندام ؎ چو سوری گلاب افشان مئی آشام ٭ طغرا - بازآ کہ گلاب دو چشم ٭ بے روے تو از گلاب خالی ست ٭

گلہری - ایک ہندی جانور کا نام ہے جسکو موش خرما فارسی مین کہتے ہین - میر یحیی شیرازی - ہرچہ افتد بدست آن طرار ٭ بہ دو دستش خورد گلہری وار ٭

گل ارمنی - گیرو جو سرخ رنگ مٹی ہوتی ہے -

کاف فارسی بامیم

گمست - ایک جوہر کم قیمت کا نام ہے رنگ اُسکا نیلگون سرخی مائل ہے اُسکا پیالہ بنا کر اگر شراب پیین تو مستی نہین ہوتی شراب کے بھرے ہوے پیالے مین اگر اسکا ٹکڑا ڈالین تو بھی عمل ظہور مین نہ آوے

گمار - پانون کی آواز جو چلنے کے وقت نکلتی ہے اور کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کرنا

گمیز - شاش - پیشاب - موت -

گم - غائب جو آنکھون کے روبرو نہو - صفدر فوقانی - پیر صد سالہ پشت خم چہ جوید از زمین ٭ ان زدست خویش نقد عمر خود گم کردہ است ٭

گم گم - نقب لگانے کی آواز -

گمرن - معدوم اور خراب کرنے والا اور نازک -

گمان - وہم - شک - شبہہ - ظن - مولانا اکبر - زچون وچگون پاک آن ذات پاک ٭ بری از ہمہ وہم وشک وگمان ٭ میر نجات - گرنہ آن بیگانہ خو بر خود گمانی بردہ است ٭ گفتگو از چیست با خود عاشق دیوانہ را

گمانہ - گمان مین پڑنا اور کنوان اور کنوان کھودنے والا -

گمہ - ایک نبات کا نام ہے جو رازیانہ کی صورت پر ہوتی ہے وبضم اول نام ایک قسم کی مچھلی کا -

گمراہی - بھول جانا رستے سے -

کاف فارسی با نون

گندنا - ایک قسم سبزے کا جو قسم سیر یعنی لہسن سے ہے -

گندا - وہ چیز جس سے بدبو آئے ؎ گندا و تیز ہمچو پیاز و سیر چو ودغ ٭ چون سیر گرم خشک چو جغرات سرد تر ٭

گندم پا - آش گندم جسکو حلیم کہتے ہین -

گنج - بفتح اول بہت سا مال جو ایک جگہ جمع ہو - سعدی - اگر در کفش گنج قارون بود ٭ وگر تا بعش ربع مسکون بود ٭ نیرزد بخیل آنکہ نامش بری ٭ وگر روزگارش کند چاکری ٭

گنج - بضم اول گنجایش جو کسی چیز مین ہو -

گنج بادآورد - خسرو پرویز کے ایک خزانے کا نام ہے - واضح ہو کہ خسرو پرویز آٹھ خزانے رکھتا تھا اول گنج عروس جو خاص شاہی خزانہ تھا اور بادشاہ نے خود جمع کیا تھا دوسرا خزانہ بادآورد یہ شاہ روم کا خزانہ تھا جو کشتیون پر لاد کر کسی جزیرے کو لیے جاتے تھے ہوا کا طوفان اُٹھا اور کشتیان خسرو کے ملک مین آگئین چونکہ اپسمین دونون کے کمال دشمنی تھی وہ خزانہ خسرو نے لے لیا اور نام اُسکا گنج بادآورد رکھا تیسرے گنج دیبا خسروی چوتھے گنج افراسیاب پانچوین گنج سوختہ اس سوختہ کے معنی سنجیدہ کے ہین چھٹے گنج خضرا ساتوین گنج شادآورد آٹھوین گنج بارآور بادآورد کے معنی مفت کے بھی ہین یعنی مفت کا مال - میر صیدی - پیالہ نوش ندارد غم تہیدستی ٭ بہار بادکشان رست گنج بادآورد ٭

گنبد - وہ عمارت جو گول ہو اور ہرن کا چارون سُم سے جست لگانا اور ایک قسم آئین بندی کا اور وہ خیمہ جو ایک ستون پر ایستادہ ہو اور کفل سرین یعنی چوتڑ - سعدی - نگہ کن برین گنبد زرنگار ٭ کہ سقفش بود بے ستون استوار - محسن تاثیر ہیچمین - بردر گنبد خاتون تو ہر شب قندیل ٭ زیرک آونختہ از خایۂ بادنجانی ٭

گند - بفتح اول بدبو اور ہوا نامطبوع اور ہندی مین مطلق بو اور اسی اعتبار سے عطر فروش کو گندھی بولتے ہین -

گند - بضم اول خایہ مرد کا جسکو عربی مین خصیہ کہتے ہین -

گنجبار - خزانے کا مقام جیسے کہ رودبار اور دریابار - فردوسی - بیاورم نشانش بر تخت یار ٭ وزان پس کشایم در گنجبار ٭

گندپیر - زال - عجوز - بوڑھی عورت -

گنجور - خزانے والا - صاحب خزانہ یہ لفظ گنج ور ہے چنانچہ نامور وغیرہ رنجور اور مزدور بھی اسی طرح ہے -

گنجار - گلگونہ اور غازہ جو عورتین چہرے پر ملتی ہین جس سے چہرے کا رنگ سرخ زیادہ ہو جاتا ہے -

گنج وار - نام ایک نوا کا ہے علم موسیقی مین -

گنداور - آدمی شجاع و دلیر و بہادر -

گنگار - وہ سانپ جسنے اپنا پوست تازہ اُتارا ہو -

گنور - ہندوستان خطۂ مالوہ مین ایک قلعہ ہے -

گندژ - مخفف گنگ دژ نام ایک قلعے کا تھا جو ضحاک نے شہر بابل مین تعمیر کیا تھا اس قلعے مین جادوگر بہت رہتے تھے اب وہ قلعہ اُجڑا ہوا ہے صرف ایک چاہ بہت عمیق موجود ہے اور مشہور ہے کہ اسمین ہاروت و ماروت دو فرشتے قید ہین -

گندش - گو گرد یعنی گندھک -

گنجشک - چڑیا جو ایک مشہور پرندہ ہے سعدی - مگر بہ مسکین

اگر پر داشتے * تخم گنجشک از جہان برداشتے *

گندناک - یہ ایک بیج خصیۂ ثعلب کی صورت پر ہے جوڑا اسمین لپٹا ہوا زمین سے نکلتا ہے ایک ٹکڑا بڑا دوسرا چھوٹا پس اگر مرد بڑے ٹکڑے کو کھا کر عورت کے ساتھ مباشرت کرے بیٹا پیدا ہو اگر عورت چھوٹے خصیے کو کھائے تو شہوت اسکی جاتی رہے -

گنگ - بضم اول بے زبان لال جو بات نکر سکتا ہو عربی میں اسکو ابکم کہتے ہیں اور مٹی کا گلا ہے جو پانی کے اجراے کے لیے زمین یا دیوار میں نصب کر دیتے ہیں -

گنگ - بفتح اول اسکے گیارہ معانی ہیں اول بیت المقدس جسکو مسجد اقصے بھی کہتے ہیں دوسرے نیک اور خوب اور زیبا تیسرے نام ایک شہر کا ہے شرقی حصہ ملک ختا میں جس جگہ دن رات ہمیشہ برابر رہتا ہے کبھی بڑھتا گھٹتا نہیں ہے بارہ بارہ گھنٹے کا دن اور رات ہے ہمیشہ بہار کا موسم ہے گرمی سردی کا انقلاب نہیں ہوتا گنگ دز بھی اسکو کہتے ہیں چوتھے ایک بیماری کا نام ہے جس سے بالوں کی جڑ میں خارش پیدا ہوتی ہے جب تک بال منڈا لئے نہ جائیں خارش نہیں جاتی پانچویں پہاڑ جسکو فارسی میں کوہ اور عربی میں جبل کہتے ہیں چھٹے نام ایک جزیرے کا ہے ساتویں ہر ایک چیز جو ٹیڑھی اور خم کھائی ہوئی ہو اور وہ شخص جو بادر زاد کوز پشت ہو آٹھویں نام ایک بت خانے کا ترکستان میں جسکو کیکاؤس بادشاہ نے تعمیر کیا تھا نویں نام ایک بتکدے کا چین کے بت خانوں میں سے دسویں نام ایک شہر کا جسکو تاشکند اور چاچ بھی کہتے ہیں گیارھویں نام ایک رود کا جو ہند میں جاری ہے اور ہندو اسکو بہت بزرگ مانتے ہیں اور منبع اسکا کوہ سوالک گنگوتری پر ہے ہندو اسکے پانی سے نہانا موجب نجات تصور کرتے ہیں اور اپنے مُردوں کی سوختہ ہڈیاں اسمین ڈالتے ہیں - مؤلف - کی رود داغ سینہ از دل بغیر از آب شک * گرچہ شویندش بآب زمزم و دریای گنگ *

گنگل - ہنسی و ظرافت و خوش مزاجی - حکیم نزاری - یاد باد آن شب کہ در بیت الحرام * خلوتے کردیم با یاران بہم * باده مخوردیم گنگل میزدیم * از اول شب تا بوقت صبحدم *

گندم - مشہور غلہ ہے جو کھانے میں آتا ہے - صائب - گریبان چاک کے عشاق از ذوق فنا باشد * الف در سینۂ گندم ز شوق آسیا باشد *

گندمان - نام ایک مقام کا ہے مضافات شہر اصفہان سے - شرف الدین شفائی مکری کی ہجو میں - باین طلب زار ستان شد رستم آوارہ * زگندمان بعراقم ازین فتادہ گذار *

گنج شایگان - ہفت کا خزانہ یہ نام بھی خزانۂ باد آورد کا تھا جو خسرو پرویز کو ملا اور شایگان بمعنی فراخ و بہتر و سزاوار کے بھی آیا ہے اصل میں یہ لفظ شاہگان تھا یعنی بادشاہوں کے لائق -

گنج قارون - قارون کا خزانہ جو بڑا خزانہ تھا اور چالیس آدمی اسکے خزانوں کی تالیاں اٹھاتے تھے چار لاکھ چالیس ہزار انبان بھرا ہوا سونے چاندی کا تھا اور وہ چالیس بڑے بڑے مکانوں میں رکھے تھے - سعدی - قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت * نوشیروان نمرد کہ نام نکو گذاشت *

گنج گاؤ - یہ ایک خزانہ جمشید کے دفینوں میں سے بہرام کے وقت ظاہر ہوا زمیندار اپنی کھیتی کو پانی دے رہا تھا کہ ایک مغاک ظاہر ہوا اور پانی اسمین غرق ہوتا تھا زمیندار نے وہ جگہ کھودی عمارت عالیشان ظاہر ہوئی تو بہرام کو اطلاع دی بادشاہ خود گیا اور اسکو کھلوا دو گاؤمیش سونے کے بنے ہوئے پائے دونوں کی آنکھوں میں بے بہا یاقوت لگائے ہوئے پیٹ میں انکے انار اور سیب طلائی بھرے ہوئے اناروں اور سیبوں میں گران بہا موتی اور الماس وغیرہ جواہرات تھے گاؤمیشوں کے آگے کی ٹھریاں مرصع سونے کی بنی ہوئی اور گھاس کی جگہ جواہرات سے پر سوا اسکے ان گاؤمیشوں کے اور بھی بہت سے وحش و طیور سونے کے بنے ہوئے مرصع مملو بجواہرات ملے بادشاہ نے وہ سب مال غربا و فقرا پر تقسیم کر دیا جس سے سب لوگ دولتمند ہوگئے -

گنجارہ - گلگونہ جو عورتیں منہہ پر ملتی ہیں -

گندہ - بضم اول جو چیز موٹی ہو مقابل باریک کے چنانچہ ریسمان گندہ یعنی موٹا سوت اور گلولہ آٹے کے خمیر کا جو گول بنایا جاتا ہے -

گنجہ - نام ایک شہر کا جسمین خواجہ نظامی رہتے تھے جنکی تصانیف سے خمسۂ نظامی مشہور ہے - نظامی - دبیران نگر تا بروز سپید * قلم چون تراشند از مشک بید * نہان مرا آشکارا برند * ز گنجینہ نگر تا بخارا برند *

گنجینہ - مزید علیہ گنج کا خزانہ - مؤلف - روشن از نور محبت سینہ کن * سینہ را از معرفت گنجینہ کن *

گناہ - مشہور لفظ ہے جسکو عربی میں جرم اور ہندی میں پاپ

کہتے ہین۔ صائب۔ بیہودہ دل شورش ما۔ درفکر گناہ یا صواب ست +

گاف فارسی با واو

گوارا۔ جو چیز خوش مزا ہو اور طبیعت کو پسند اور زود ہضم۔ صائب۔ زخم از مرہم گوارا تر بود بر عارفان۔ رخنہ در زندان بود از نقش این محبوس را +

گویا۔ بولنے والا۔ کلام کرنے والا۔ حیوان ناطق۔ صائب۔ مرد یک مہر خموشی ست نظر بازان را۔ در حریمی کہ نباشد نظر گویائی +

گونیا۔ معمارون کے ایک اوزار کا نام ہی مثلث شکل کا جس سے وہ کجی و راستی عمارت کی دریافت کرتے ہین۔

گوئیا۔ یہ لفظ تشبیہ کے موقع پر بولا جاتا ہی۔

گوا۔ مخفف گواہ جسکو عربی مین شاہد کہتے ہین۔

گوبشا۔ تیسرا حرف بائے ابجد ژندی زبان مین شہد جسکو عربی مین عسل کہتے ہین۔

گوبیا۔ ژندی زبان مین زبان جسکو عربی مین لسان بولتے ہین۔

گوداب۔ تیسرا حرف دال ایک قسم کے کھانے کا نام ہی جو گوشت و برنج و نخود و مغز جوز سے پکاتے اور سرکہ سے ترش کرتے ہین۔

گوراب۔ تیسرا حرف رائے مہملہ وہ میدان جو گھوڑا دوڑانے کے لیے بنایا گیا ہو اور نام ایک شہر کا ہی اور وہ گنبد جو قبر پر بنایا جائے اور موزہ جو پاؤن مین پہنتے ہین جراب بھی اسکا نام ہی۔

گوشتاب۔ گوشمال۔ گوش پیچ۔

گوشت۔ بفتح اول و دوم نام ایک آواز کا موسیقی کی چھ آوازون سے جنکا نام نوروز۔ مایہ۔ سناک۔ گوشت۔ شہناز۔ گردانیہ ہی۔

گوت۔ سرین یعنی چوتڑ آدمی کے۔

گوست۔ نام ایک کتاب کا جو مجوسی مذہب کے مسائل کی تفسیر مین جو ست نام ایک حکیم نے لکھی اور دعوے پیغمبری کا کیا اور بیان کیا کہ یہ کتاب مجھکو خدا سے ملی ہی وہ کتاب اتنی بڑی تھی کہ شتر اونٹون پر لادی جاتی مجوس نے اسکی رسالت سے انکار کیا اسکو قتل کیا اور کتاب جلا دی۔

گولانج۔ ایک قسم کے حلوے کا نام ہی۔

گوگرد۔ یہ ایک کانی دوا ہی جسکو گندھک کہتے ہین دو قسم ہی ایک گوگرد سرخ جس سے کیمیا بنتی ہی دوم گوگرد زرد جس سے بارود بنائی جاتی ہی۔

گوسپند۔ میش جسکو بھیڑ و یا دنبہ کہتے ہین۔ سعدی۔ گوسپند از برائے چوپان نیست + بلکہ چوپان برائے خدمت اوست +

گود۔ بفتح اول وہ زمین جو پست ہو اور مغاک۔

گولاد۔ نام ایک ایرانی پہلوان کا ہی۔

گوشند۔ جوال دوز۔

گوار۔ ہر ایک چیز جو لائق کھانے اور پینے کے ہو۔

گوگرد احمر۔ گوگرد سرخ۔ لال گندھک جو نہایت نایاب ہی۔ سالک۔ ترک تعلقات بود کیمیای دل + گوگرد احمر ست محبت برای دل + نظامی۔ نہ گوگرد سرخی نہ لعل سپید + کہ جوینده گردد ز تو ناامید +

گور۔ بضم اول مشہور جنگلی جانور ہی اور قبر جسمین مردہ دفن کرتے ہین۔ سعدی۔ اگر بریان کند بہرام گورے + نہ چون پای ملخ باشد ز مورے + مؤلف۔ ز اعمال نکو ای نیک سیرت + بنہ در گور خود روغن چراغے +

گوہر۔ اصلیت ہر ایک چیز کی اور ذات ہر ایک شی کی جوہر اسکا معرب ہی اور موتی لعل یاقوت الماس وغیرہ۔ صائب۔ راہ مقصود طی از آبلہ پا نشود + گرہ از رشتہ بدندان گہر وا نشود +

گور۔ بفتح اول نام ایک ملک اور قوم کا ہی۔

گویر۔ بفتح اول و یائے مجہول ہموار زمین اور ریگستان اور جنگل۔

گوشیار۔ لقب ایک حکیم کا جسکا نام ابو الحسن تھا اور شیخ ابو علی سینا نے اسکی شاگردی کی۔

گواشیر۔ نام ایک ولایت کا ہی جہان سفید فیروزہ پیدا ہوتا ہی اور نام ایک قسم کے گوشت کا۔

گودر۔ گائے کا بچہ جسکو گوسالہ بھی کہتے ہین اور نام ایک قسم کی مرغابی کا جسکا گوشت بدبو ہوتا ہی۔

گودرز۔ نام ایک ایرانی پہلوان کا ہی۔

گوز۔ بفتح اول و دوم گوزن جو جنگلی گائے کا نام ہی۔

گوز۔ بفتح اول و سکون ثانی جوز جسکو گردگان بھی کہتے ہین۔

گوز۔ بضم اول اور واو مجہول وہ ہوا جو مقعد سے نکلے۔ فوقی یزدی۔ تا بروی چرب گردد ہمتم از خوان فقر + گوز بر قیماق استغنای گردون میزند +

گواز۔ وہ لکڑی جس سے بیل ہانکتے ہین اور دستہ چوبی جس سے شالی کوٹتے ہین۔

گوارش۔ خوش ذائقہ ہونا کھانے کا اور ہضم کے لائق ہونا اور نام ایک دوا مرکب کا معرب اسکا جوارش ہی۔

گوش۔ کان جس سے بات سن سکتا ہی اور مخفف گوشہ اور نام چودھوین دن کا ہر ایک شمسی مہینے سے۔ طاہر غنی۔ شاید ز گردرہ رسد آواز پاے او + شد مدتی کہ چشم براہ ست گوش را +

گواش۔ صفت و رنگ و لون۔

گوپیش۔ وہ مٹی کا برتن جسمین دودھ یا چھاچھ رکھی جائے۔

گولاک۔ موج پانی کی جو دریا سے اٹھے۔ محتشم۔ محتشم گر بحر شعر

گوالک خواہد زد چنین ❊ سیل اشک ما نہ باہی تا ہمہ خواہد شدن ❊
گوک بفتح اول و دوم مغاک و خندق جو کسی شہر یا قلعہ کے باہر کھدی ہو۔
گوک بضم اول و واو غیر ملفوظ ترکی میں آسمان اور رنگ کبود۔
گوزک۔ شتالنگ پانون کا جوڑ جسکو ٹخنا کہتے ہیں۔
گوزک۔ بتیسیم احرف راے مہملہ دھوبی کا تختہ جس پر کپڑے دھویا کرتا ہے۔
گوشاک۔ گلے کی ہڈی جو اوپر کو ابھری ہوئی ہوتی ہے بلکہ نشان بلوغت
مرد کا وہی ہڈی ہے جو اونچی ہو جاتی ہے۔
گویک۔ تکمہ گریبان کا۔
گول۔ بضم اول و واو مجہول نادان واحمق و مکر و فریب و دماغ۔ ناقر کاشی
نہ خورہی گول سکندر زبردی ہم خضر ❊ چند گردی زپی چشمہ حیوان محتاج ❊
گول۔ بضم اول و واو غیر ملفوظ و سکون لام ترکی میں تالاب
گوپاے و رحوض جسمیں پانی بھرا ہو۔
گون۔ بفتح اول و دوم فقیروں کا پشمی لباس اور پوستین کم قیمت
نظامی۔ سیف گون گول گرچہ عار آیدت ❊ کہ ہنگام سر بابکار آیدت ❊
گوال۔ چھٹی اور گون جسمیں غلہ کے اونٹ وغیرہ پر لاد لیتے ہیں
بورے بھی اسکو کہتے ہیں معرب اسکا جوال ہے۔
گوپال۔ گرز جو ایک مشہور ہتھیار ہے او تخت اور راورنگ ورنام
ایک پہلوان کا شاہ روس کے خویشوں سے جو سکندر رومی کے ساتھ لڑا تھا
گوگال۔ نام ایک جانور کا ہے جو گوبر کو گولہ بنا کر سوراخ میں لیجاتا ہے۔
گوزچشم۔ ایک قسم کے کپڑے کا نام ہے جسکی بافت میں جولاہے
گول گول دائرے بناتا ہے جو نہایت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں
ہندی میں اسکو بلبل چشم کہتے ہیں اور فارسی میں گوزچشم۔ نظامی۔
کز اکندی از گوزچشم حریر ❊ بپوشید و فارغ شد از تیغ و تیر ❊
گوم۔ ایک گھاس کا نام ہے جسکو عربی میں اذخر کہتے ہیں۔
گون۔ بفتحتین ایک خاردار نبات کا نام ہے۔ طاہر وحید۔ گل روے
کہ با خورشید میزد لاف ہم چشمی ❊ گون شد کر گدان شد ہچو من شد بہ تر از من شد
گون۔ بضم اول رنگ لون چنانچہ گلگون و سیمگون و لالہ گون وغیرہ
گورگان۔ لائق عیش و عشرت گور کے معنی عیش و عشرت کے اور
گان کے معنی لائق و لقب بادشاہ تیمور۔
گورخان۔ لقب بادشاہ خطا و ختن۔
گوزن۔ پہاڑی اور جنگلی گاے جسکو بارہسنگھا کہتے ہیں۔
گوان۔ بہت سے پہلوان۔
گودھان۔ بہ واو مجہول و دال مہملہ کوہان اونٹ کا۔

گوزبن۔ درخت جوز۔ اکھروٹ کا درخت۔
گوناگون۔ رنگ برنگ۔
گو۔ بفتح اول مخفف گاو گاے بیل۔ میر نجات۔ شیخنا آمدہ بہر
کشتی شنو ❊ ریش گاوند مشائخ تو چرائی دم گو ❊ نیز بمعنی مغاک
و زمین نشیب و مرد شجاع و بہادر۔
گو۔ بواو معروف گیند جس سے کھیلتے ہیں۔ سعدی۔ بشیرین زبانی
توان برد گو ❊ چو سعدی یکے گو پسندیدہ گو ❊
گواہ۔ گوا۔ شاہد و بینہ یعنی وہ شخص جو آنکھ دیکھی بات بیان
کرے۔ سعدی۔ گواکر د برخود خدا و رسول ❊ کہ دیگر نگردم بگرد
فضول ❊ والہ ہروی۔ خداے را و رسول دی و ترا کردم ❊
گواہ خویش بمہر ائمہ اطہار ❊
گودہ۔ ترکی میں بدن اور تن اور جسم۔ داراب بیگ جویا۔
حیف ست کہ از دختر زجولی کام ❊ کاین فاحشہ باشد از ذوات اقلام
تاکی سرخود بپاے خم خواہی سود ❊ تا چند کشی منت این گودہ حرام ❊
گوشوارہ۔ گوشوار۔ ایک زیور کا نام ہے جو عورتیں کانوں میں
پہنتی ہیں ہندی میں اسکو جھمکا کہتے ہیں۔ صائب۔ باشد
ستارہ در شب تاریک رہنما ❊ شد زیر زلف رہزن من گوشوارہ اش ❊
گوشہ۔ گھر کا کونا۔ مکان الگ۔ حافظ۔ عقل دیوانہ شد آن
سلسلہ مشکین کو ❊ دل زمن گوشہ گرفت ابروے دلدار کجاست ❊
گونہ۔ رنگ۔ لون۔
گوہ۔ سرگین حیوانوں کا یہ لفظ فارسی و ہندی میں مشترک ہے حکیم شرف الدین
شفائی۔ زیر لب بسگ گوہ سگ خوردہ ❊ دفن کردست صد سگ مردہ ❊
گوینده۔ بولنے والا۔ کہنے والا۔ کلام کرنے والا۔ نظامی۔
ہمین پنج بیتم خوش آمد بگوش ❊ کہ بگفت گوینده خوب دوش ❊ نظامی۔
چو در خورد گوینده نا ید جواب ❊ سخن یاوہ گفتن نباشد صواب ❊
گوے انگلہ۔ تکمہ اور حلقہ گریبان کا۔
گوسالہ۔ بچہ گاے و شتر و فیل وغیرہ۔ حافظ۔ چون سامری
مباش کہ زر دید و از خری ❊ موسی بہشت از پی گوسالہ میرود ❊
گوپیازہ۔ نام ایک قسم کے کھانے کا ہے۔
گواشمہ۔ دامنی اور اوڑھنی عورتوں کے پہننے کی۔
گواہی۔ شہادت آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات۔ نظامی۔ گواہی
در او آرم از چار یار ❊ کہ صد آفرین باد بر ہر چہار ❊
گوہری۔ ہر چیز صاف اور روشن اور چمکتی ہوئی اور گوہر فروش

جسکو جوہری بھی کہتے ہین اور ہر ایک چیز جسپر موتی جڑے ہوے ہون۔
نظامی سیم از آب حیوان سکندری ٭ زلالی چنین ساختم گوہری ٭
گوے۔ گیند جس سے کھیلتے ہین۔ سعدی سکہ سعدی کہ گوے بلاغت
ربود ٭ در ایام ابوبکر بن سعد بود ٭
گوانجی۔ دلیر اور پہلوان آدمی اور سپاہ سالار۔
گوچی۔ پست زمین اور عمیق جگہ۔
گوری۔ عشرت ونشاط وخوشی۔

کاف فارسی مع ہاے

گہ گیر۔ وہ گھوڑا جو سواری نہ دیوے۔ ظہوری۔ سمند عشق اشاید
نہ گہ گیری برون آری ٭ ظہوری در رکاب نعم عنان دادی خموشی را ٭
گہر۔ ہر ایک چیز جو اصل ہو اور موتی جواہرات ۔ ع ۔ بشکل ابر تر
ہر وقت وہر بار ٭ گہر بارید از چشم گہر بار ٭
گہان۔ جہان یعنی عالم۔ دنیا۔
گہرن۔ موچیون کے ایک اوزار کا نام ہی۔
گہوارہ۔ ایک قسم کی چارپائی کا نام ہی جو بچون کے سُلانے کے لیے
ہوا مین لٹکاتے ہین جھولنا بھی اُسکو کہتے ہین۔ نظامی۔ ز گہوارۂ
فرش تا پای عرش ٭ قدم بر قدم عصمت افگندہ فرش ٭
گہ۔ جگہ اور وقت چنانچہ خوابگاہ وصبحگاہ۔
گہلہ۔ ریزہ چاندی سونے کا۔
گہولی۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بدلنا۔

کاف فارسی با یاے

گیا۔ مخفف گیاہ گھاس۔
گیپا۔ ایک قسم کے پلاو کا نام ہی جو بکری کے رودون مین رکھکر پکاتے ہین۔
سلیم۔ بی گیپا چو اورواہ شود ٭ دشمن صد ہزار خانہ شود ٭
گیرا۔ پکڑنے والا۔ اثر کرنے والا۔ صائب۔ بیگونہ جان بر د صید از
کمین چشم فتانش ٭ کہ گیرا تر بود از خون ناحق تیغ مژگانش ٭
گیت۔ سرود۔ راگ گانا۔ ملا طغرا۔ بود گیت نزد طرب سنج رود
درین کشور ذوق نام سرود ٭
گیومرث۔ نام بادشاہ جو دنیا مین پہلا بادشاہ تھا۔
گیج۔ پریشان وپراگندہ۔ حیاتی گیلانی۔ طرفدار انش از ہر سو
عنان پیچ ٭ سر سیارہ را آوردہ در گیج ٭
گیرخ۔ وہ چوبی رحل جسپر قرآن شریف یا کتاب رکھکر پڑھتے ہین۔
گیند۔ ایک مردار خوار پرندے کا نام ہی جسکو چیل اور غلیواز کہتے ہین۔

گیبز۔ ایک قسم کے تیر کا نام ہی۔
گیز۔ وہ تیزی اور تلخی جو مغز بادام وپستہ اور جوز مین پائی جاتی ہی۔
گیور۔ تقلید کرنے والا اور قصہ خوان اور افسانہ گو اور حس مشترک
جو انسانی حواس مین ایک حس ہی۔
گیرنگ۔ نام ایک قصبے کا ہی۔
گیلک۔ گیلانی زبان مین جاٹ اور روستائی دہقان اور مجرم وعاصی۔
گیل۔ گیلان کا اختصار ہی جو ایک ملک ہی۔
گین۔ صاحب وخداوند اور بھرا ہوا مخفف لفظ آگین کا۔ مولانا اکبر
چو خوشنودی نصیب کس نباشد در جہان اکبر ٭ درین غمہاے
فانی بیس چرا اندوہگین گردی ٭
گیہان۔ زمانہ روزگار۔ جہان۔
گیلان۔ نام ایک ملک کا اور نام ایک گانون کا جو بغداد کے
پاس ہی اور حضرت شیخ سید عبد القادر گیلانی امام طریقت قادریہ اسی
ملک کے ساتھ منسوب ہین جیلان اسکا معرب ہی۔
گیسو۔ بہ یاے مجہول لمبے بال جو دونون طرف کانون کے پیچھے لمبے
چھوڑ دیے ہون جو سواے زلف کے ہون بعض کے نزدیک زلف
اور گیسو ایک معنی رکھتے ہین۔ قاسم مشہدی۔ یک سر مو در سر لیلی
وشان بیکار نیست ٭ انچہ می آید زباد از زلف گیسو میشود ٭
گیو۔ نام پسر گودرز پہلوان۔
گیرانده۔ حساب مین آیا ہوا مقید ہوا ہوا۔ سعید اشرف شیخ شہد
در دو جست پای بست شمعدان ٭ شرط باشد کندہ بر پا عامل گیرانده را ٭
گینہ۔ آبگینہ کا مخفف ہی۔
گیدہ۔ نام ایک قسم کے جوتے کا جو نمدے سے بناتے ہین جو اختراع
گیو پہلوان کی تھی۔
گیچہ۔ پریشان ومتحیر وسرگشتہ۔
گیتی۔ جہان وعالم دنیا اور دو گیتی۔ دونون جہان۔ حافظ۔
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرفست ٭ با دوستان تلطف با دشمنان مدارا ٭
گیلی۔ گیلان کے رہنے والے۔
گیدی۔ مردار خوار۔ خراب آدمی کیونکہ گید غلیواز کو کہتے ہین جو
چھ مہینے نر اور چھ مہینے مادہ رہتا ہی اور گیدی وہ شخص جسکا مزاج ایک حالت پر نہو۔

دوسری فصل

اردو لغات کے بیان مین

کاف فارسی با الف

گادا - گیہوں اور جو کا خام بھونا ہوا غلہ فارسی مین اُسکو دمل اور کرکن کہتے ہین
گارا - گوندھی ہوئی مٹی جو عمارت مین لگاتے ہین عربی مین اُسکو ملاط
اور فارسی مین گلابہ کہتے ہین -
گاڑا - کمینگاہ گھات کا مکان پوشیدہ جگہ چھپنے کا موقع -
گاڑا ہوا - دفن کیا ہوا - دابا ہوا زمین مین - قطعہ از مولف -
چھوڑ جائیگا آخرش مسک ٭ جمع جتنا کیا خزانہ ہی ٭ لوگ لے لینگے
کھود کر سارا ٭ جتنا گاڑا ہوا خزانہ ہی ٭
گاڑھا - موٹا کپڑا اور دودھ وغیرہ اور ایک قسم کے کپڑے کا نام
عربی مین اُسکو ثخین و سفیق کہتے ہین -
گالا - روئی کا گالا جو کاتنے کے واسطے بناتے ہین عربی مین اُسکو مندوف کہتے ہین
گانا - سرود اور سرود کرنا فارسی مین اُسکو سرود و ترانہ عربی مین غنا و تغنی بولتے ہین -
گات - عورت کی چھاتی اور پیٹ -
گاج - غضب و قہر و غصہ -
گاجر - مشہور چیز ہی جو کھانے مین آتی ہی عربی مین اُسکو جزر کہتے ہین فارسی مین زردک
گانڑ - وہ سوراخ جس سے براز نکلتا ہی فارسی مین اُسکو کون اور عربی مین مقعد کہتے ہین -
گاؤ پچھاڑ - فنون کشتی مین سے ایک فن کا نام ہی -
گال - عربی مین اُسکو خد فارسی مین رخسار و خسارہ کہتے ہین اور ترکی مین یناق
گابھن - گائے بھینس وغیرہ جو حاملہ ہو - فارسی مین آبستن -
گاڑی بان - گاڑی ہانکنے والا - فارسی مین اُسکو ارابچی کہتے ہین -
گانوں - بستی - قریہ اور روستا اور دہ - چھوٹی سی آبادی -
گاوزبان - لسان الثور جو ایک دوا ہی -
گائن - گانے والی عورت جسکو عربی مین مغنیہ کہتے ہین -
گانڈو - کوئی جسکو اغلام کرانے کی عادت ہو -
گابھ - حمل کا بوجھ جو مادہ کے پیٹ مین ہو -
گانٹھ - گرہ جو کسی رشتہ وغیرہ مین پڑ جائے -
گاڑی - ارابہ جسپر اسباب لادکر بیلوں سے چلاتے ہین -
گالی - وہ بات جسکے سننے سے انسان کو جوش آئے عربی مین اُسکو
سب و سبوبہ اور فارسی مین دشنام کہتے ہین -
گانسی - لوہے کا پھل جو تیر کو لگاتے ہین عربی مین اُسکو نصل
کہتے ہین اور فارسی مین پیکان -
گاودی - احمق اور بیوقوف -
گاے - مشہور چارپایہ ہی -

کاف فارسی با بائے

گبرولا - ایک جانور کا نام ہی جو گوبر سے پیدا ہوتا ہی سیاہ رنگ
عربی مین اُسکو جعل کہتے ہین -
گپ - عام باتین جو قابل اعتبار نہوں -
گپت - ہر ایک چیز پوشیدہ -
گپتی - ایک چوبدستی کا نام ہی جو اندر سے پولی ہوتی ہی اور اُسکا
آہنی پھل نہایت تیز کیا ہوا پوشیدہ رکھا رہتا ہی اُسکا دستہ
انسان ہاتھ مین پکڑے رہتا ہی اور معلوم ہوتا ہی کہ یہ چوبی چھڑی ہی مگر
کوئی موقع لڑائی کا ہو جائے تو اُسکو باہر کھینچکر دشمن کا کام تمام
کرسکتا ہی چونکہ وہ پوشیدہ ہتھیار ہی گپتی اُسکا نام رکھا گیا
گپی - وہ شخص جو فضول گو ہو - لغو اور بے فائدہ باتین کرے -
گٹا - پانوں کا جوڑ جسکو عربی مین کعب کہتے ہین اور بند دست جسکو پہونچا
بولتے ہین و چیز جس سے کسی برتن کا منھ بند کیا جائے چنانچہ حقے کا گٹا -
گٹھا - گھاس وغیرہ کا پشتارہ جسکو عربی مین کارہ کہتے ہین اور
فارسی مین پشتوارہ -
گٹھ کٹا - جو لوگوں کی کیسی اور گانٹھین کاٹ لے فارسی مین اُسکو
گرہ بر اور عربی طرار کہتے ہین -
گٹھیا - جوال جسمین غلہ بھرتے ہین اور نام بیماری جسکو عربی مین
وجع مفاصل یعنی جوڑوں کا درد کہتے ہین -
گٹھری - بستنی جسمین کپڑے وغیرہ بندھے ہوئے ہوں - قطعہ از مولف
ہی جتنا مال سب تقسیم کردو ٭ زمین مین اُسکو مت رکھو دباکر ٭ یہان ہی
پھینک جاؤ بار سر سے ٭ کہان لے جاؤگے گٹھری اُٹھاکر ٭
گٹھلی - وہ ہڈی یعنی سخت بیج جو کھجور وغیرہ سے نکلتی ہی فارسی مین
اُسکو خستہ اور عربی مین عجم کہتے ہین -
گٹکری - مسلسل آواز جو گانے کے وقت گانے والا گلے سے نکالتا ہی -

کاف فارسی با جیم

گجھا - بہت سا مال جو کسی کے پاس جمع ہو -
گچھا - ہر ایک چیز جو یکجا کرکے بندھی ہو چنانچہ موتیوں کا گچھا -
گچ - سفیدی کی ایک قسم ہی جو عمارت مین لگائی جاتی ہی -
گجھی - گیہوں اور جو ملا ہوا غلہ -

کاف فارسی با دال مہملہ

گدالا - زمین کھودنے کا آہنی اوزار -
گدڑی والا - کہنہ فروش - لتہ فروش -

گدلا - میلا پانی جو نا صاف ہو -
گدھا - حمار خر مشہور چارپایہ ہے -
گڈریا - مویشی پالنے والا چرواہا -
گڈ بڈ - دو چیزین جو آپسمین ملی ہوئی ہون -
گدر - نیم پختہ میوہ -
گدام - انگریزی ہے مگر ہندی مین مشہور وہ جگہ جسمین ہر چیز مطلوبہ مل سکے ذخیرے کا مقام -
گدھ - ایک مردار خوار جانور کا نام -
گدڑی - فقرا کی پوشاک فقیرون کا خرقہ -
گدگدی - کسی کی بغلون مین انگلیان ملا کر اسکو ہنسانا عربی مین اُسکو دغدغہ اور فارسی مین غلغلچ کہتے ہین -
گدھی - خر مادہ - حمارہ -
گڈی - ساگ پات وغیرہ کی گڈی جو باندھ کر بیچتے ہین -
گدی - مسند جسپر حکام اجلاس کرتے ہین اور وہ تہ کیا ہوا کپڑا جو عورتین حیض کے دنون مین اندام نہانی پر رکھتی ہین -

کاف فارسی با رائے

گرا ہوا - مفلس محتاج غریب آدمی اور جو چیز ہاتھ سے گری ہو -
گرجا - انگریزون کا عبادت خانہ -
گڑھا - غار و مغاک جو زمین مین ہو -
گرھیا - ایک قسم کے چھوٹے نیزے کا نام ہے -
گرگٹ - ایک جانور چلپاسہ کی صورت پر ہے آفتاب کو بہت چاہتا ہے عربی مین اسکو حربا کہتے ہین -
گرنیٹ - وہ لکڑی جسپر کنوین کی چرخی چلتی ہے -
گرج - بادل کی آواز - رعد کی آواز -
گر - قاعدہ کلیہ اور ضابطہ -
گڑ - قند سیاہ جو مشہور چیز ہے -
گرز - ایک آہنی جنگی ہتھیار کا نام ہے -
گردہ - ایک اندرونی عضو کا نام ہے -
گرہ - گانٹھ -
گڑھ - قلعہ - حصار - بادشاہی مکان -
گرمی - حرارت مشہور لفظ ہے -
گروی - تیسرا حرف واو ایک آفت کا نام جو زراعت پر پڑتی ہے خوشون مین دانہ نہین پڑتا عربی مین اسکو رقان کہتے ہین -

گرڑی - وہ چرخی جسپر کنوین سے ڈول نکالتے ہوے رسی لپیٹ جاتی ہے -
گڑھی - چھوٹا قلعہ - حاکم نشین جگہ

کاف فارسی با زائے معجمہ

گز - وہ گز جس سے کپڑا وغیرہ ناپتے ہین -
گزی - کم قیمت کپڑا غربا کے پہننے کا -

کاف فارسی با کاف فارسی

گگری - چھوٹا برتن مٹی کا جسمین پانی رکھتے ہین عربی مین اسکو جرہ اور فارسی مین سبوچہ بولتے ہین -

کاف فارسی با لام

گلا - حلق و حلقوم و حنجرہ وہ عضو جس سے انسان سانس لیتا ہے -
گلا - بتشدید لام وہ برتن جسمین دوکاندار روپیہ پیسہ رکھتے ہین -
گلپھڑا - دونون گوشے منھ کے -
گلگلا - بضم ہر دو کاف ایک قسم شیرنی کی ہے کہ قند مین میدہ ملا کر گھی مین تل لیتے ہین -
گلی ڈنڈا - لڑکون کے ایک کھیل کا نام ہے -
گلاب - فارسی اردو مین مستعمل ہے عرق گل سرخ کا نام عربی مین اُسکو ماء الورد کہتے ہین - حکیم انور لاہوری - تیرے رخسار پر فدا ہے گل بند اور عرق پر گلاب قربان ہے -
گلقند - تشریح اسکی پہلی فصل مین تحریر ہو چکی ہے - صفدر فوقانی - بات بات اسکی ہے شکر اور نبات ہر دو لون لب ہین قند یا گلقند ہین *
گلچوڑ - حلقہ دار رسی جو مویشی کی گردن مین باندھتے ہین -
گلگیر - جس سے شمع کا گل کترتے ہین -
گل - فارسی اردو مین مستعمل ہے پھول ہر ایک قسم کا خصوصاً گلاب کا پھول اور شمع کا گل جو کتر دیا جاتا ہے اور داغ جو آگ کی گرمی سے جسم پر پڑ جاتا ہے - قطعہ از مؤلف - تو دو گل ہے گلستان دہر مین گل بھی گل کھاتے ہین جسکو دیکھ کر شمع گل ہو جائے مارے رشک کے ہو سر محفل اگر تو جلوہ گر *
گلدم - بلبل جو ایک پرند مشہور ہے -
گل تکیہ - وہ گول تکیہ جو رخسارون کے نیچے رکھا کرتے ہین -
گلدستہ - فارسی لفظ ہے اردو مین مستعمل ہے جو بہت سے پھول یکجا باندھے ہوے ہون -
گلہ - فارسی اردو مین مستعمل ہے شکایت شکوہ -
گلابی - چھوٹا شیشہ جسمین شراب و گلاب بھر دیتے ہین - سے گلابی ہین

مے بھر کے لاسا قیا ٭ محبت کے پیاسون کو بھر بھر پلا ٭

گلٹی — وہ غدود جو گوشت مین ہوتا ہے۔

گلہری — مشہور جانور ہے جسکو فارسی مین موش خرما کہتے ہین۔

گلہی — کشتی کا اگلا حصہ جسکو مقدم کشتی کہتے ہین۔

گلی — ایک اوزار کا نام جس سے تلوار کو جلا دیتے ہین۔

گلی — مشہور لفظ ہے جسکو فارسی مین کوچہ کہتے ہین۔

کاف فارسی با نون

گنا — کماد جسکو فارسی مین نیشکر کہتے ہین اور عربی مین قصب السکر۔

گنجا — جس شخص کے بال بسبب بیماری کے اتر گئے ہون۔

گنڈا — وہ رشتہ کچا جسپر کوئی دعا یا افسون پھونک کر اور گرہ دیکر بیمار کے گلے مین باندھتے ہین — حکیم انور لاہوری — محبت کا مرض مہلک مرض ہے ٭ ہے بیشک لادوا بیمار اسکا ٭ موثر ہے نہ نسخہ کوئی اسپر ٭ نہ ہے تعویذ کارآمد نہ گنڈا ٭

گندا — نہایت خراب اور بدبو۔

گندنا — سیر کی قسم سے ہے عربی مین اسکو کراث کہتے ہین۔

گنڈلا — احاطہ — دائرہ —

گنگا — مشہور دریا ہے جو ہند مین متبرک سمجھا جاتا ہے — ؎ — کبھی ہوگا نہ گورا کالا حبشی ٭ اگر اسکو غسل دین گنگا مین سو بار ٭

گند — وہ بو جو نامطبوع ہو۔

گنوار — دہقان گانون کا رہنے والا۔

گندھک — مشہور چیز ہے جسکو فارسی مین گوگرد کہتے ہین۔

گن — ہنر علم فضل نیک وصف جو کسی آدمی مین ہو۔

گناہ — فارسی وہ کام جو خلاف مرضی مالک کے کیا جاوے — توحید — کیون نہ بخشا جاے وہ نامہ سیاہ ٭ توبہ جو عاصی کرے بعد از گناہ ٭ ذرہ بن جائیگا روشن آفتاب ٭ گر کرے وہ مہربان اسپر نگاہ ٭

گنتی — شمار حساب جسکو عربی مین عدد کہتے ہین — صفدر رفو قانی — تہر حق سے ہین فرشتے کانپتے ٭ ہے تو کس گنتی مین اے خاکی نژاد ٭

گنجی — وہ عورت جسکے سر کے بال بسبب کسی بیماری کے گر گئے ہون۔

گندھی — عطار عطر فروش عطر بیچنے والا۔

گندی — خراب اور زناکار فاحشہ عورت۔

گنڈلی — سانپ کا حلقہ مار کر بیٹھنا۔

گنی — ہنرمند صاحب فضل و علم۔

کاف فارسی با واو

گودا — مغز ہر چیز کا جسکو عربی مین لب کہتے ہین۔

گورا — وہ شخص جسکا رنگ سفید ہو — ؎ — در دندان نہین ستارے ہین ٭ گورے گورے ہین پیارے پیارے ہین ٭

گوڑا — وہ رسی جو گھوڑے کے پانون یا کسی اور چارپائے کے پانون مین باندھتے ہین۔

گولا — توپ کا گلولہ جو مشہور چیز ہے۔

گونڈا — مویشی کے رکھنے کا احاطہ جنگل یا باہر گانون کے بناتے ہین۔

گویا — بتشدید یاے گانے والا سرود کرنے والا جسکو مطرب و مغنی کہتے ہین۔

گونگا — جو زبان سے بول نہ سکتا ہو — مولف — وہ کیا دیکھیگا اور بولیگا کیا عرفان کے مجمع مین ٭ جو ہو آنکھون سے اندھا اور زبان اپنی سے گونگا ہو ٭

گوٹ — بواو مجہول مہرہ نرد اور چوپڑ کا۔

گوشت — مشہور چیز ہے جسکو عربی مین لحم ہندی مین ماس کہتے ہین۔

گوند — وہ گوند جو درختون سے نکلتا ہے جیسے کنکر کا گوند وغیرہ عربی مین اسکو صمغ کہتے ہین۔

گود — بغل جسکو کنار فارسی مین کہتے ہین۔

گوبر — چارپایون کا سرگین۔

گوڑ — برہمنون کی ایک ذات ہے۔

گولر — نام ایک درخت کا ہے جو انجیر سے مشابہت رکھتا ہے۔

گودڑ — پرانے کپڑے اور چیتھڑے

گولک — وہ کوزہ جسمین محصول لینے والی آمدنی کا روپیہ ڈالتے جاتے ہین۔

گوگل — ایک درخت کا گوند ہے عربی مین اسکو مقل کہتے ہین۔

گول — جو چیز گرد دائرہ کے صورت پر ہو۔

گوپھن — وہ آلہ جس سے پتھر چلاتے ہین فارسی مین اسکو فلاخن کہتے ہین۔

گون — جوال جسمین غلہ بھرتے ہین چھٹی بھی اسکو کہتے ہین۔

گوئیان — وہ عورتین جو آپسمین محبت رکھتی ہین۔

گون — بنون غنہ مطلب غرض کام۔

گوکھرو — ایک کانٹے کا نام ہے جسکو حسک عربی مین کہتے ہین۔

گواہ — جو آنکھ دیکھی بات کرے۔

گوہ — فضلہ آدمی یا چارپایہ کا۔

گواہی — شہادت آنکھ دیکھی بات۔

گودی — بغل جسکو فارسی مین کنار کہتے ہین

گودی - بغل جسکو فارسی مین کنار کہتے ہین۔
گوری - سپید رنگ عورت۔
گولی - جو بندوق مین بھر کر چلاتے ہین۔

کاف فارسی با ہاے ہوز

گھاٹا - جو اشخص جو کو پکا کر نکالتے ہین اور خسارہ اور نقصان۔
گھٹا - سیاہ بادل جو آسمان پر محیط ہو۔
گھٹنا - بند ساق جسکو عربی مین رکبہ اور فارسی مین زانو کہتے ہین۔
گہرا - وہ چاہ یا حوض جو عمیق ہو۔
گھرانا - بڑا گھر خاندان عزت دار لوگ صاحب دولت و علم وفضل۔
گھر - وہ آواز جو مرنے کے وقت گلے سے نکلتی ہے۔
گھریا - بوتہ جسمین زرگر چاندی سونا گلاتے ہین۔
گھڑا - پانی رکھنے کا برتن جسکو فارسی مین سبو کہتے ہین۔
گھسیارا - گھاس کاٹنے والا۔
گھنا - وہ کرم جو گیہون مین پیدا ہو کر اُسکو تلف کرنا شروع کر دیتا ہے فارسی مین اُسکو شبشہ کہتے ہین۔
گہنا - زیور جو عورتین پہنتی ہین۔
گھنٹا - جرس جو اونٹ اور ہاتھی وغیرہ جانورون کے گلے مین باندھتے ہین تا اُس سے صدا نکلے فارسی مین اُسکو درا کہتے ہین۔
گھورا - جو زمیندار گوبر جمع کر کے انبار لگا دیتے ہین خشک اُپلون کے انبار کو بھی گھورا بولتے ہین۔
گھوڑا - مشہور چارپایہ سواری کا ہے کہتے ہین جسنے سب سے اول گھوڑے پر سواری کی اسمٰعیل پیغمبر علیہ السلام تھے۔ شعر۔ کبھی ہو رزق کا اُسکو نہ توڑا ✿ بندھا ہو جسکے دروازے پہ گھوڑا ✿
گھوٹا - جس سے کاغذ گھوٹتے ہین اُسکو مہرہ بھی کہتے ہین۔
گھونسا - مکا جو کسی کو مارین۔
گھونسلا - پرندون کے رہنے کا گھر جو درختون اور دیوارون مین بناتے ہین۔
گھونگا - ایک قسم کا سیپ جو پیچدار ہوتا ہے۔
گھات - وہ مکان جہان کسی دشمن کے انتظار مین چھپ کر بیٹھین فارسی مین کمینگاہ کہتے ہین۔
گھاٹ - دریا کا کنارہ جس جگہ سے لوگ پانی بھرین اور دریا سے گذرین۔
گھر گھراہٹ - چکی کی آواز۔
گھونٹ - ایک جرعہ پانی وغیرہ کا جو پینے مین آئے۔
گھونگٹ - نقاب جو منھ پر ڈالا جائے۔
گھچ پچ - ایک دوسرے مین ملی ہوئی چیزین اور آپسمین خلط ملط۔

گھمنڈ - غرور تکبر گردن کشی - مولانا اکبر - آگ ہوتا ہے کسی لیے انسان ✿ کیون یہ خاکی گھمنڈ کرتا ہے ✿
گہار - وہ لوگ جو جنگ کے لیے فراہم کیے جائین۔
گھر - رہنے کا مکان جسمین انسان سکونت رکھتا ہو - مفتی حیدر - مسافر ایک ہفتہ کے لیے آیا ہے دنیا مین ✿ سراے دہر کو کیون کر یہ اپنا گھر سمجھتا ہے ✿
گھوڑدوڑ - گھوڑون کے دوڑنے کا میدان۔
گھیر - بر یا پھیلاو ہر چیز کا دور اور گول اور دائرہ اور احاطہ۔
گھاس - گیاہ جو چارپائے کھاتے ہین۔
گھونس - ایک قسم کا چوہا جو بہت بڑا ہوتا ہے۔
گھاگ - پرانا آدمی تجربہ کار۔
گھائل - جسکو بہت سے زخم لگے ہون سخت مجروح - مولانا اکبر - تیری ابرو نے کر دیا گھائل ✿ تیری زلفون نے مار ڈالا ہے ✿ تیرے ہونٹھون نے پی لیا ہے خون ✿ تیری باتون نے دم نکالا ہے ✿
گھن - وہ کرم جو گیہون مین پیدا ہو جاتا ہے عربی مین اُسکو سوس کہتے ہین۔
گھسیٹن - وہ نشان جو کسی چیز کے کھینچنے سے زمین پر پڑ جائے۔
گھاو - زخم جو بہت گہرا ہو۔
گھبراو - اضطراب بیقراری۔
گھر یلو - گھر کا پلا ہوا - خانہ زاد گھر کا آدمی یا جانور۔
گھنگرو - جو ناچنے کے وقت پانوئین باندھ لیتے ہین عربی مین اُسکو قلقل کہتے ہین اور فارسی مین زنگولہ بولتے ہین۔
گھاٹی - پہاڑی راستہ اور پہاڑ کا درہ مشکل۔
گھٹی - وہ چند ادویات جنکو جوش دیکر جوشاندہ اُنکا نوزاد بچہ کو دیتے ہین وہ ایک قسم کا مسہل ہوتا ہے جو بچے کے پیٹ سے ماں کے پیٹ کا میل نکال دیتا ہے اور پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔
گھڑی - جس سے دن اور رات کا وقت معلوم ہو - مؤلف - عمر کے دن گذرے سر اگیا پایہ اجل ✿ یہ گھڑی ہمکو گھڑی ہر وقت بتلاتی رہی ✿
گھمنی - دوران سر جو ایک بیماری ہے۔
گہنی - گہن کسوف آفتاب خسوف مہتاب تیرہ ہو جانا چاند اور سورج کا۔
گھنڈی - وہ حلقہ تاگے کا جسمین تکمہ ڈالکر گریبان بند کر دیتے ہین۔
گھنٹی - چھوٹا گھنٹہ جسکو چلا چل کہتے ہین ہنود پوجا کے وقت بجاتے ہین۔
گھنگچی - رتی سرخ و سیاہ جسکے ساتھ سونا چاندی تولتے ہین۔
گھوڑی - اسپ مادہ۔

گھی - روغن زرد جو گاے و بھینس وغیرہ جانورون کے دودھ سے نکلتا ہی

کاف فارسی با یاے

گیروا - وہ کپڑا جو گیرو سے رنگا جاے -

گیلا - جو پانی مین تر ہو -

گینڈا - ایک جانور کا نام ہی جو ہاتھی کے بچے کی صورت پر ہوتا ہی ماتھے پر اسکے ایک سینگ ہوتا ہی -

گینگٹا - سرطان جو ایک دریائی جانور ہی اسکو کیکڑا بھی کہتے ہین -

گیند - مشہور چیز ہی جسکو فارسی مین گوے کہتے ہین -

گیدڑ - مشہور جانور ہی جسکو شغال کہتے ہین -

گیہون - مشہور غلہ ہی جسکو عربی مین حنطہ اور فارسی مین گندم بولتے ہین

گیرو - ایک سرخ مٹی کا نام ہی جسکو فارسی مین گل ارمنی کہتے ہین -

تیسری فصل

محاورات و اصطلاحات فارسی کے بیان مین

کاف فارسی با الف

گاو پشت - کنایۃً آسمان کہ تشبیح اس حالت مین ہی کہ خرگاہ کا لفظ ساتھ ہو - نظامی - نہ انیم کاین خرگہ گاو پشت ۞ چگونہ در آید بخاک درشت ۞

گاو زور - گاو زوری - صاحب زور اور زور آور ہونا - نظامی - دلاور بسر پنجہ گاو زور ۞ ز زورش بشیران در افتادہ شور ۞

گاو خراس - وہ بیل جو خراس چلاتا ہو - امینی بیگ افشار - بدبخت وجود و روسیاہ عدم ۞ بد عہد حدوث و بیوفاے قدم ۞ ہر کس سوی مقصد شد و افسوس کہ من ۞ چون گاو خراس در نخستین قدم ۞

گام شمردہ نہادن - احتیاط سے قدم رکھنا - عرفی - در گام شمردہ خط نگاری ۞ بر نقطہ نوک نیش کژدم ۞

گاو در خرمن کردن - خراب کرنا خرمن کو - ظہوری - تا چو کاہش فلک دہد بر باد ۞ خصم را گاو کردہ در خرمن ۞

گاو زادن - میراث اور نفع کثیر حاصل کرنا - نظامی - بہندوستان پیری از خر فتاد ۞ پدر مردہ را انجنان گاو زاد ۞

گاودکون - احمق و نادان آدمی -

گاو سفالین - شراب کا خم -

گاو آہن - وہ لوہا جو ہل کی نوک پر نصب ہوتا ہی - اور زمین کو اس سے نرم کرتے ہین -

گاو زمین - وہ بیل جو زمین کو اٹھائے ہوے ہی -

گائیدن - جماع کرنا -

گاودوشہ - وہ برتن جسمین گاے کا دودھ دوہتے ہین -

گاو زہرہ - ڈرپوک آدمی بزدل اور نام ایک پتھر کا جو گاے کے پتے مین پیدا ہوتا ہی عربی مین اسکو حجر البقر کہتے ہین تاثیر مین وہ دافع سموم ہر ایک قسم ہی -

گاو خوردہ - ضائع و برباد شدہ -

گاو تازی - گو تازی - لاف مارنا مرد کا دشمن کے مقابلے پر - ملا وقوعی یزدی - سواری زمن کسب کردست اما ۞ بگو تازی از بندہ گردید غالب ۞

کاف فارسی با جیم

گچ گشتہ - معمار لوگ گچ کو ہر روز تر کرکے کام مین لاتے ہین اگر تری ہوئی پر ایک رات گذر جاے تو کام سے جاتا رہتا ہی اسی کو گچ گشتہ کہتے ہین - طاہر وحید - شہید سے کزان شوخ یا بد نشان ۞ شود چون پی گچ گشتہ چشمش روان ۞

گچ کاری - گچ کا کام بنانا - ملا طغرا - گچ کارش ہر کہ پرداختہ ۞ گچ از نقرۂ صبحدم ساختہ ۞

کاف فارسی با دال

گداز شگر - جو ہر ایک چیز کو گداز کر دیوے - عرفی - تقدیر پی کاہش اجزاے وجودش ۞ اکسیر فنا داد گداز شگر غم را ۞

گدا طبع - جو آدمی خسیس و کمینہ ہو - ظہوری - خواجہ سے نا قدر لیم و زر گدا طبع بلاست ۞ خواجہ آن باشد کہ در مہر و وفا درویش نیست ۞

کاف فارسی با ذال معجمہ

گذیست - چارہ نہین ہی - طاہر وحید - اے شور سر او گشتن من ۞ بجز کار ازین شغل گذیست مرا ۞

گذشت - صیغۂ ماضی اور حاصل بالمصدر گذشتن نیز آسطرف کے معنی دیتا ہی چنانچہ کہتے ہین گذشت دریاے شور کہ معظم است یعنی سمندر کے اسطرف نکہ ہی نیز پس کے معنی دیتا ہی اور بمعنی غیر و سواے کے - نظامی - گذشت از خورشہاے جنی سرشت ۞ کہ رضوان ندید آنچنان در بہشت ۞ ولہ - گذشت از پرستیدن کردگار ۞ بجز خواب و خوردن ندارند کار ۞

گذارش پذیر - جو بات لائق گذارش کے ہو - نظامی - گذارندے نقش گذارش پذیر ۞ کہ نقش از گذارش ندارد گزیر ۞

گذارش گر - گذارش کن - بیان کرنے والا - ادا کرنے والا - نظامی - گذارش گر کارگاہ سخن ۞ چنین گوید از موبدان کہن ۞ ولہ -

گذارش کن فروش این سبز باغ ٭ چنین بر فروزد چراغ از چراغ ٭

گذاردن - گذراندن - ادا کرنا جیسے نماز ادا کرنا - قرض ادا کرنا -

گذاشتن - چھوڑ دینا -

گذراندن - باہر پہنچانا - طالب آملی - آن دل کہ لباس خودی از خویش افگند ٭ زین جامۂ خون دامن خاکی گذراند ٭

گذشتن - گذرنا - مرجانا - فوت ہونا - وحید - بنود عجب مریض تو گر دیر بگذرد ٭ کز روح کشتگان تو راہ گذار نیست ٭

گذشتہ - کہنہ و دیرینہ و بدبو اور لذت سے گیا ہوا ناکارہ خراب - ملا مفید بلخی - زاہد کہ ترش وچو شراب گذشتہ است ٭ در تلخی زبان چو کباب گذشتہ است ٭ ہر چند چون کباب کند گریہ و سماع ٭ از نشہ دور ہمچو شراب گذشتہ است ٭ مشکل بود مطالعۂ روی نوخطان ٭ غافل مشو ازین کہ کتاب گذشتہ است ٭

کاف فارسی با رائے مہملہ

گردن مینا - شراب کی صراحی کی گردن - صائب - پیمانۂ تم زتخت سلطنت چون در نماز افتم ٭ چو آید گردن مینا بکف مالک رقابم من ٭

گرہ کشا - گانٹھ کھولنے والا - مشکل کشا - محسن تاثیر - نمیشود دلم از زلف یار بکشاید ٭ گرہ کشا چو گرہ شد چہ کار بکشاید ٭

گریزپا - بھاگ جانے والا - دوڑ جانے والا - کلیم - بہ چاک سینہ مرہم بے دوا نہیدم ٭ کہ راہ رفتن صبر گریزپا بستدم ٭

گران خواب - بہت سونے والا - دیر کے بعد بیدار ہونے والا - صائب - رخسارۂ گلرنگ تو ہر دم ہوس است ٭ چون چشم گران خواب تو بینا زنبا شد ٭

گریختہ خواب - جس آنکھ میں نیند نہو - حکیم زلالی - شمسیہ میں - بدل بلبلان شب زندہ دار مردہ فراق ٭ چشم اشک پراگندہ و گریختہ خواب ٭

گریۂ دولاب - گرنا پانی کا دولاب کے کوزون سے - علی خراسانی - چشم ترمن بیاد معلت ٭ در گریہ بود لبان دولاب ٭

گردنش از موی باریکتر است - گردن اسکی بال سے باریک ہے - صائب - طینت ملائم من نیست سرکشی ٭ باریکتر زموی میان ست گردنم ٭

گرگ مست - جفاکار و ستمگار و ظالم - خاقانی - یوسف رو جلوہ کرد از دم گرگ میکند ٭ یوسف گرگ مست کن دعوی زور پیکری ٭

گریبان دشت - جنگل اور جنگل کا راستہ جیسا کہ کوہ - طاہر وحید - کردہ برون سر زگریبان دشت ٭ گشت لباس ہمہ دامان دشت ٭

گران کردن نرخ - نرخ گران کرنا - قدر بڑھانا - حسین ثنائی - از سما مرورکس سخن نخرد ٭ بسکہ نرخ سخن گران کردم ٭

گردن شیخ - متکبر و مغرور و سرکش - ملا طغرا - زگردن شیخہائے مینا

چہ غم ٭ کہ خواہد ملائم شد این زیر و بم ٭

گردگان برگنبد - ناپایدار و بے ثبات - سعدی - بر تو نیکان نگیرد ہر کہ بنیادش بدست ٭ تربیت نا اہل را چون گردگان برگنبد است ٭

گردون نورد - آسمان کی سیر کرنے والا نہایت بلند و عالی مرتبہ اراد مستحکم و ہمت بلند - صائب - ہر چند پایۂ تو بلند افتادہ است ٭ غافل مشو ز نالۂ گردون نوردمن ٭

گرگ بند - مغلوب و زبون - نظامی - ازین گریہ گون خاک تا چند چند ٭ بشیر سے توان رستن از گرگ بند ٭

گرم و سرد - نیک و بد حوادث زمانہ - شفیع اثر - روز ہجرانت کشیدم گرم و سرد روزگار ٭ بے تو ہر جا بودم اشکم گرم و آہم سرد بود ٭

گریۂ سرد - وہ رونا جو درد دل سے نہو فریب سے روئیں - میر بدیع - گریہ ہای سرد زاہد را نمایند کار سست ٭ شود از بارش باران دی دلو سست ٭

گریہ مند - گریہ ناک - رونے کی حالت میں - ظہوری - بکتب جگر گوشگان گریہ مند ٭ نمایان ببازار و گوہر زرہ خند ٭ طغرا - بجای تخم جواری فشاند دانۂ اشک ٭ چو دست برمزرع گریہ ناک زد دہقان ٭

گران بار - بوجھل صاحب دولت و حشمت و اولاد -

گران بودن بیمار - حالت نزع میں ہونا بیمار کا - نعمت خان عالی - پروانہ تا دم صبح مشکل کہ زندہ ماند ٭ بیدار باش ای شمع بیمار ما گران است ٭

گران سر - مست و مخمور و مدہوش - میر خسرو - شاد گران سر زمی خوش آمد بادہ مباد اش گرانی ز لب ٭

گران سیر - آہستہ چلنے والا - صائب - کوشش جان بر نیاید با گرانیہای جسم ٭ آب در آہن گران سیر است چون آہن در آب ٭

گران قدر - صاحب عز و مرتبہ - صائب - گران قدران نیامیزند صائب با سبک مغزان ٭ ببرگ کاہ کے آہن ربا مائل تواند شد ٭

گردون سوار - بلند رتبہ اعلی درجے کا آدمی - صائب - نماند برزمین ہر کس طینت خاکسار آمد ٭ کہ عیسی از رہ افتادگی گردون سوار آمد ٭

گردون سریر - بڑا بادشاہ - بڑا فرمان فرما - قطعہ از مولف - ہمہ سرفرازان گردن بلند ٭ ہمہ پادشاہان گردون سریر ٭ بیک گردش چرخ انجام کار ٭ شد از جہان در زمین جای گیر ٭

گرفتار - مقید - پکڑا ہوا اور گرفتاری - غزالی مشہدی - کس بخوبان پری پیکر گرفتار مباد ٭ ہیچکس اینچنین چو من گرفتار مباد ٭

گرفتن خاطر - گرفتہ خاطر - پریشان ہونا اور پریشان و متحیر - ذوقی - ہر آن کہ گرفتار زلف پیچان نیست ٭ گرفتہ خاطر و متحیر و پریشان نیست ٭

گرم رفتار - زود خیز - تیز رو - تیز رفتار - صائب - از گرم روان خار مغیلان گلہ دارد ✤ اینجاست کہ نشتر خطر از آبلہ دارد ✤

گرم سیر - وہ زمین جسکی خاصیت گرم ہو - سرد مہری زندگی را بے حلاوت کردن ست ✤ میوہ ہای گرم سیری بیشتر شیرین تر ست ✤

گرم شدن بازار - قیمت بڑھ جانا - شوق زیادہ ہونا - خواہش زیادہ ہونا - حافظ - بازار شوق زیادہ شد آن شمع رخ کجاست ✤ تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند ✤

گرم شدن نظر - محبوب کو دیکھ کر خوش ہونا - طاہر وحید - دل بتیاب من از شوق تماشا سوزد ✤ پیش رانم کہ بروے تو نظر گرم شود -

گرہ بُر - کیسہ کاٹنے والا - چور - والہ ہروی - زگنج خانہ سلطان کجا خبر دارد ✤ گرہ بُری کہ زبہر دو فلس طرار ست ✤

گرہ دار - گوندھی ہوئی زلفین - طغرا - مشاطہ زد گرہ زار طرہ آت ناخن ✤ عجب کہ عقدہ دل وا شود بآسانی ✤

گرہ گیر - وہ رشتہ جسکی گانٹھ نہ کھلے - صائب - چین زابروے گرہ گیر تو خط ہم نکشود ✤ تا قیامت نشود نرم کمانے کہ ترست ✤

گردن فراز - بڑا آدمی - دولتمند - حاکم - سعدی - سر پادشاہان گردن فراز ✤ بدرگاہ او بر زمین نیاز ✤

گران پرواز - آہستہ اڑنے والا - صائب - درین بستان سراخود را چنان صائب سبک کردم ✤ کہ رنگ چہرۂ گل را گران پرواز مے بینم ✤

گران خیز - آہستہ چلنے والا - رضی دانش - از گران خیزان خواب غفلت گل ایمن مباش ✤ میرسد خوابے کہ بیداری فراموشت کند ✤

گرم خیز - تیز چلنے والا -

گران مغز - گران سر جسکا دماغ گران ہو - شرف الدین شفائی - زین بادۂ ترا رگ جان ست تو غافل ✤ مغز تو زین نشہ گران ست تو غافل ✤

گریہ پرداز - گریہ و زاری کرنے والا - ظہوری - بران گریہ پرداز رشک ✤ کہ اشک از خش پاک گردد بہ شک ✤

گرم نفس - جسکا دم گیرا اور پر تاثیر ہو - صائب - زہر جگری شور ازین گرم نفس ہست ✤ چون صبح مرا حق نفس بر ہمہ کس ہست ✤

گران شدن - بہرا ہو جانا - سننے کی طاقت نہ رہنا - محسن تاثیر - شوار بود غیبت یاران شنیدنم ✤ شد گوش من گران و بفریاد من رسید ✤

گرد پوش - جس چیز پر گرد پڑی ہوئی ہو - طالب آملی - فغان کہ مرہم کافور جراحت ما ✤ برہنہ میرود و گرد پوش می آید ✤

گردن کش - متکبر و مغرور و نافرمان - سعدی - نگر ذکشان را بگیر د بفور

نہ عذر آوران را بیراند بجور ✤

گرگ میش - منافق جسکا ظاہر اچھا اور باطن برا ہو یعنی بظاہر میش کی صورت آئے اور باطن مین گرگ ہو - سالک یزدی - این عزیزان در لباس گرگ میشی میکنند ✤ یوسفم یوسف بسے زین گرگ میشان دیدہ ام ✤

گریہ شمع - گریہ چراغ - شمع کے آنسو - صائب - ز سوز عشق بود خار خار گریۂ شمع ✤ بدست شعلہ بود اختیار گریۂ شمع ✤ علی خراسانی - ببزم عشق شدم تا بقیم چون اخگر ✤ فتاد شعلہ بجانم ز گریہ ہاے چراغ ✤

گرفتن چراغ - گل کر دینا چراغ کا -

گردون شگاف - بہت بلند جانے والا - نظامی - ز غریدن کوس گردون شگاف ✤ زمین را در افگند پیچش بناف ✤

گربہ براق - ایک قسم کی بلی ہے جو اور بلیون سے قد آور اور براق ہوتی ہے - سلیم - حریف شاہسوار سے کہ میتوان شد ✤ کہ ہست شیر فلک گربۂ براق او را ✤

گران سنگ - وزن دار - بھاری - خواجہ سلمان - کوہ سے اندوزد از حلم گران سنگت درنگ ✤ برق می آموزد از عزم سبک سیرت شتاب ✤

گردناک - جس پر گرد پڑی ہوئی ہو - نظامی - جہان گرد ز آشوب خود گردناک ✤ زہر چہ از بہر یک مشت خاک ✤

گردن باریک - ملائم و ہموار اور اطاعت مین جھکی ہوئی - صاحب حسن فولاد بود گردن باریک اینجا ✤ تیزی تیغ بجوہر چہ تواند گردن ✤

گردون تاک - بہت تیز چلنے والا - امیر خسرو - کر دکین زان ہمہ گردون تگان ✤ بجہر از صد و پانصد گران ✤

گریۂ تاک - انگوری شراب - صائب - تو نگزنامہ خود کن کہ می سیاہ تر از سیاہ نامہ نخواہد گذاشت گریۂ تاک ✤

گربہ چشم - جسکی آنکھین بلی کی سی ہون - نظامی - و گربہ کی روسے گربہ چشم ✤ چو شیران درابرو در آوردہ خشم ✤

گرسنہ چشم - گرسنہ دل - نہایت طماع اور حریص آدمی یا وہ کا شحی این گرسنہ چشمان کہ گشتہ زتو سیر ✤ خون باد بر آن لقمہ کہ از خوان تو گیرند ✤ حسین ثنائی - طعمۂ گرسنہ دلان سخن ✤ استخوان ریزہ ہاے خوان من ست ✤

گرفتم - مین نے قبول کیا - مین نے فرض کیا - سعدی - گرفتم کز افتادگان نیستی ✤ چو افتادہ بینی چرا ایستی ✤

گریہ آشام - گریہ آلود - رونے کے جوش کو جذب کرنے والا - وہ آنکھین جو آنسوون سے بھری ہوئی ہون - صائب - این مان

افسردہ ام صائب دگر نہ پیش ازین ۔ مے چکید آتش ز چشم
گریہ آشامم چو شمع ۔ ولہ ۔ تماشائے گل و شبنم گوارا باد بر بلبل ۔
کہ بوئے گل نمے ارزد بروئے گریہ آلودش ۔

گردش چشم ۔ آنکھ کی گردش جو دیکھنے کے وقت ہوتی ہے ۔ محمد اسحاق
شوکت ۔ ز چرخ آتشین جوان شکستہ زو مے آید ۔ بخرمن دانہم
را گردش چشم آسیا باشد ۔

گران بار شدن ۔ حاملہ ہونا ۔ پیٹ سے ہونا ۔ نعمت خان عالی ۔ در ہجو
خان جہان ۔ آن نحس نجس کز دم حیض ۔ شد مادر قحبہ اش گرانبار ۔

گران جان ۔ سخت دل و بے رحم ۔ سعدی ۔ حریفے گران جان
ناسازگار ۔ چو خواہد شدن دست پیشش مدار ۔

گران تمکین ۔ صاحب عزت و اقتدار ۔ ف ۔ برس پدا دمن ای
ساقی گران تمکین ۔ کہ تو بہ منفعل از راستے تو بہار م کرد ۔

گریہ از بغل افگندن ۔ راز افشا کر دینا ۔

گریہ در بغل داشتن ۔ مکر و حیلہ کرنا ۔ کمال اسمٰعیل ۔ بیدار
نہ سر خلاف دارد در سر ۔ از بہر چہ گریہ در بغل میدارد ۔

گریہ در شلوار یا در تنبان کردن ۔ رسوا و مضطرب و سراسیمہ
کرنا ۔ ملا علی نادر ۔ کامگار و اجب العرض رہی را گوش کن ۔
بین کہ چونم کردہ آخر گریہ در شلوار گاہ ۔

گریہ مشکین ۔ مشک بلائی جو ایک قسم کی بلی ہے جسکو گربہ زباد بھی
کہتے ہیں اسکی دم کے نیچے نافہ بقدر اخروٹ ہوتا ہے اسمین خوشبو
بھری ہوئی ہوتی ہے ۔ عرفی ۔ بسیر مسرتیح جادتو آہوان حرم ۔ بدور
سفرہ خلق تو گربہاسے زباد ۔

گرد پای حوض گردیدن ۔ بیفائدہ پھرنا ۔ ہرزہ گردی کرنا ۔ ہوا ہونا ۔
مولوی معنوی ۔ پی یک بوسہ گرد پاے حوض ۔ ہمہ لب گردم تو دریا دل نگردی ۔

گرد چیزی دیدن ۔ ہونہ کسی چیز کا دیکھنا ۔ صائب ۔ گردی از دو
نمکدان قیامت دیدہ است ۔ ہر کہ صائب از تو بشنید ست گفتار ترا ۔

گرد خوان ۔ ایک قسم کے خوانچے کا نام ہے ۔ صائب ۔ دل خوردن ستا
قسمتم از گرد خوان چرخ ۔ از مرکز خود دست چو پرکار ندانم ۔

گرد خوردن ۔ گرد آلودہ ہونا ۔ صائب ۔ میخورد گرد حسرت محمل لیلی زرد شت
نیست جز عشق تماشائے دگر مجنون را ۔

گرد سر گردیدن ۔ گرد گردیدن ۔ قربان ہونا ۔ تصدق ہونا ۔ ابو البرکات منیر
گر رسد در دامن آن نازنین دستم منیر ۔ گرد گردم قامت موزون او را
چون قبا ۔ عبد الغنی قبول ۔ ہر کہ آن چشم سیہ را دیدہ است ۔

ہمچو مژگان گرد او گردیدہ است ۔

گرد کاری گشتن ۔ کسی کام کے کرنے پر مستعد ہونا ۔ اسدی طوسی
گرد آمیغ خوبان مگرد ۔ کہ تن را کند سست و رخسار زرد ۔

گرد کردن ۔ گرد اڑانا ۔ غبار پھیلانا ۔ صائب ۔ بخاک مال حوادث
ب از زیر فلک ۔ بآسیا نتوان گفت گرد کمتر کن ۔

گرد کردن ۔ جمع کرنا مال اور دولت کا ۔ ف ۔ اہل بخل از جہان
چہ خواہد برد ۔ دولت و مال گرد کرد و نخورد ۔

گردن انداختن ۔ عجز و انکسار کرنا ۔ صفدر فوقانی ۔ چند آید
ز گردن کشان جہان ۔ بہ پا یت بعجز گردن انداختن ۔

گردن بشمشیر خاریدن ۔ اپنے قتل کی تدبیر کرنا ۔ نظامی گنجوی
جوانی بران آوردت ۔ کہ گردن بشمشیر من خاردت ۔

گردن خم کردن ۔ گردن جھکانا ۔ عاجزی کرنا ۔ صائب ۔ می تراود
مے گلگون از رگ و ریشۂ ما ۔ پیش خم گردن خود خم نکند شیشۂ ما ۔

گردن زن ۔ جلاد گردن کاٹنے والا ۔ نظامی ۔ تو نیز از رہی بار گردان
زدوش ۔ ز گردن زنان بر نیاری خروش ۔

گردن کج کردن ۔ ملتجی ہونا ۔ سائل ہونا ۔ صائب ۔ پیش دریا
چہ ضرورست کنم گردن کج ۔ من کہ قانع بدم آب چو شمشیر شوم ۔

گردن نرم کردن ۔ تسلیم کرنا ۔ اطاعت میں آنا ۔ خواجہ سلمان ۔ کردم
نرم بفرمان تو گردن چون شمع ۔ چکنم من کہ بفرمان تو سر در بازم ۔

گردیدن ۔ پھرنا ۔ چرخ مارنا ۔ ہونا ۔ کتاب کے اوراق الٹنا ۔ گردش
کرنا ۔ ذوقی ۔ حالت ما ز انقلاب گردش دوران ۔ ہمچو گردون
روز و شب صرف در گردیدن ست ۔

گرفتن ۔ پکڑنا ۔ لینا ۔ اپنے تصرف میں لانا ۔ سعدی ۔ سر چشمہ شاید
گرفتن بہ بیل ۔ چو پر شد نشاید گذشتن بہ پیل ۔

گرگ در پیراہن داشتن ۔ ناجنس کے ساتھ صحبت رکھنا ۔ صائب ۔
ناسازگاری ہست در خوی گلعذاران ۔ گویوسفے کہ گرگ در پیرہن ندارد ۔

گرم خون ۔ دل دوست ۔ جانی یار ۔ محمد سعید اشرف ۔ شب درخوابم
دیدی چشم چیر انم بہم ۔ آشنا کرم خون جسپیدہ مژگانم بہم ۔

گرم شدن ۔ خبر دوست ہونا ۔ ترقی پانا ۔ حافظ ۔ بازار شوق گرم شد
آن شمع رخ کجاست ۔ تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند ۔

گرم کین ۔ وہ دشمن جو توی و غضبناک ہو ۔ میر خسرو ۔ شکایت کرد
پیش ہمنشینان ۔ کہ با استد جفا سے گرم کینان ۔

گرد میدن ۔ تیہ ۔ احرف ۔ بادان گل ہونا ۔ نہ جمع ہونا ۔ ایمان لانا ۔ عرفی ۔

ازان میں گرہ بر تار بقا زدہ ہم بہر نفس کہ شپ پہم شناختم زکجاست ÷
گرہ بباد زدن - بیہودہ اور بے فائدہ کام کرنا - حافظ - گرہ بباد مزن
گرچہ بر مراد وزد ÷ کہ این سخن بمثل باد با سلیمان گفت ÷
گرہ بسیار زدن - بیہودہ اور بے فائدہ کام کرنا - صائب - گرہ بپایۂ
ابر بہار نتوان زد ÷ بسند دل بجیا - کہ گرہ گذر باشد ÷
گرہ بیکار زدن - کسی کام کو ہونے نہ دینا - طالب کلیم - کو تا گشت
از بہر کار رشتۂ امید ÷ از بسکہ روزگار گرہ زد بکار من ÷
گرہ بندان - جشن سالگرہ جو ہر سال ہوتا ہے - ظہوری - دلکشاے
این گرہ بندان ÷ گرہ از کار روزگار کشاد ÷
گرہ در ابرو زدن - کردن - غصہ ظاہر کرنا - شفیعی تھانیسری -
یک گرہ گر زلف وا کرد ÷ صد گرہ بیش نو در ابرو ÷ میر خسرو شاہ
آن زہم گرہ در ابرو کرد ÷ از حضور خویشش یکسو کرد ÷
گرہ در کار افتادن - کام بند ہو جانا - حافظ - گرچہ افتاد ز زلفش
گرہی در کارم ÷ ہمچنان چشم گشاد از کرمش میدارم ÷
گرہ در گلو شکستن - بند ہو جانا آواز کا بسبب خوف و دہشت کے -
نظامی - زغریدن زندہ پیلان مست ÷ گرہ در گلوی ہژبران شکست ÷
گرہ در گلو زدن - حلق کا بند کرنا - طاہر غنی - ہر گز نمے نکا سنہ
خالی نمے خوریم ÷ نرگس صفت زدیم گرہ در گلوی خویش ÷
گرہ طاعون - وہ مہلک دانہ جو زیر بغل یا خصیہ کے پاس پیدا
ہوتا ہے - سلیم - کام عاشق چو در آید بہ بغل مے میرد ÷ غنچہ بر
شاخ گل ما گرہ طاعون ست ÷
گرہ کشادن و باز کردن و وا کردن - گانٹھ کھولنا - آغاز کرنا کسی
کام کا - نظامی - نخستین گرہ کز سخن بر کشاد ÷ جہان آفرین را بدل کرد
یاد ÷ دگر رہ گرہ کز سخن باز کرد ÷ خدا را بخوبی سر آغاز کرد ÷
گریبان کشادن - اظہار حال کرنا - بھید کھولنا - راز کہنا - صائب -
نسیم کنعانیم مصر و پیراہن از شادی ÷ گریبانی بر لبے امتحان پیش صبا بکشا ÷
گریبان گرفتن - مزاحم ہونا - بالغ ہونا - سعدی - سنگ و دربان
چہ یافت غریب ÷ این گریبان گرفت وآن دامن ÷
گریستن - رونا - آنسو بہانا - عرفی - اگر بگریہ میسر شدے
وصال ÷ صد سال میتوان بہ تمنا گریستن ÷
گریہ از چشم کشادن - رونا شروع کرنا - میر خسرو - ہوی زیادت
جو برآید ز چشم ÷ گریہ بسیار کشاید ز چشم ÷
گریہ در گلو پیچیدن - شدت گریہ سے دم بند ہو جانا - طالب آملی

بیاد روی تو چون گریہ در گلو پیچید ÷ زہر بن مژہ طوفان نو بر خیزد ÷
گریہ کردن - رونا - آنسو بہانا - صائب - میکند گریہ و بعد ز دندار
صائب ÷ چہ جاے رحم ست درین بزم بہ تنہائی شمع ÷
گران بازو - قوی بازو و زور آور - نظامی - سپہ کو کہ در گردبازو منم
گران کوہ را ہم ترازو منم ÷
گردرو - عورتوں کے ایک زیور کا نام ہے جو چہرے کے گرد رہتا ہے -
محمد سعید اشرف - گلشن حسن تو از آب گہر سیراب ست ÷ گرد رو چاہ
زنخدان ترا دولاب ست ÷
گرم خو - درشت خو و غضبناک - پر غصہ - ابو طالب کلیم - آن گرم خو بسوز
دل ما رسیدہ بود ÷ خونناب این کباب بر آتش چکیدہ بود ÷
گرم گو - جسکے سخن میں تاثیر ہو - باقر کاشی - بالیدہ ام از نشاط کہ فرمود
پیر عشق ÷ باقر ز شاعران جہان گرم گو ترست ÷
گران پایہ - گران سایہ - گران مایہ - بڑا آدمی - صاحب قدر
و منزلت - مسند رفو قانی و رفعت - جوہش معلی گران پایہ ÷ چو خورشید
تابان گران سایہ ÷ نظامی - چو دریا نگویم گران سایہ ÷ بہا تا کہ
چون کان گران مایہ ÷ نظامی - بہر گردش گرد پرکار دہر ÷
بنا کرد چندین گرانمایہ شہر ÷
گرد آلودہ - مشہور لفظ ہے - صائب - مشو از جنبش مژگان گرد آلودہ
اش غافل ÷ کہ تیغ خاکساران سخت لنگر دارے افتد ÷
گردنامہ - وہ تعویذ جسکی تاثیر سے بھاگا آدمی اپنے گھر آجاتا ہے یہ تعویذ
سوت کاتنے والی چرخہ کے ساتھ باندھ کر چرخے کو الٹا پھراتی ہیں - شعر -
نقشے کہ بر زرست و راشید سری ÷ این گردنامہ ایست کہ حاضر کند پری ÷
گردون پناہ - وہ شخص جسکی پناہ پر آسمان ہو - خواجہ سلمان - باد
بندہ پرور و اور گردون پناہ ÷ سایۂ یزدان شکوہ سلطنت دلشاد شاہ ÷
گرگ باران دیدہ - آدمی صاحب تجربہ و آزمودہ کار ہشیار و دانا -
محمد قلی سلیم - گفتم از اشکم نگر گردون بپرہیز د - لیے ÷ نیست
بیم از گریہ ام این گرگ باران دیدہ را ÷
گرما خوردہ - گرما زدہ - آفتاب خوردہ جسے دھوپ کا صدمہ اٹھایا ہو
صائب - اگر روے عرقناک تو در مد نظر باشد ÷ چو آب زندگی گرما کے
عشرت میتوان خوردن ÷ میر حسن دہلوی - بت مست خو کردہ گرما زدہ ÷
رسید آتش عشق بر بازدہ ÷
گریبان کوہ - کمر کوہ اور وہ جگہ جو پہاڑ کے اندر ہو - طاہر وحید -
گریبان کوہ ست و دامان صحرا ÷ اگر ہست مارا گریبان و دامان ÷

گریہ مستانہ - شراب کی مستی میں رونا - **رضی دانش** - با ذوق گریۂ مستی درین بزم آمدیم ٭ می بدہ ساقی بقدر آنکہ چشم تر شود ٭

گران خواری - پُرخواری بہت سا کھانا کھانا -

گران خوی - مخالف و نا ساز - **شیخ العارفین** - از بسکہ تراخوے بعشاق گران ست ٭ بے قدر متاع سر بازار تو جان ست ٭

گردک سرای - وہ مکلف مکان جو نوعروس اور داماد کے واسطے مہیا کیا جاتا ہے - **واعظ قزوینی** - ہر طرف آرامگاہ شاہ داماد ست شوخ ٭ ہر طرف گردک سرا سے نوعروس دلبری ست ٭

گردون پای - نازو انداز سے چلنا - **درویش والہ ہروی** - بی نیازی ز بزرگی نتوان حاصل کرد ٭ طی این رہ نتوان کرد بگردون پائی ٭

گردون گرای - وہ شخص جو طالب علو اور اعزاز کا ہو - **نظامی** - سر گردنان شاہ گردون گرای ٭ ز بر کار سوکب تہی کرد جای ٭

گرد یلیمی - آبیاری و صفائی مروارید کی - **صائب** - در لفافۂ خاک ست نہان گوہرے ہست ٭ در پردۂ این گرد یتیمے گہرے ہست ٭

گرگ آشتی - وہ صلح جو نفاق سے ہو - **خواجہ آصفی** - اے صبا در دو دل یوسف بگو یعقوب را ٭ آشتی کرد ند اخوانش و لے گرگ آشتی ٭

گرمی زبانی - زبانی مدارات اور خوشامد جو دل سے نہو - **دانش** - شمع بزم برہمن گشت روشن ٭ کہ دایم گرمی خوبان زبانی ست ٭

گریبانی - ایک لباس کا نام ہے جو دامن اور آستین کے بغیر ہوتا ہے - **مفید بلخی** - کردہ ام زیب لباس از طالع نا ساز خویش ٭ چلیس بود بخت سیاہ من گریبانی مرا ٭

گریہ شادی - خوشی کی حالت میں رونا - **صائب** - اگر شمع فراق من نہ ریزد گریہ شادی ٭ کہ داغ خون من از دزدن دلدار میشوید ٭

کاف فارسی با زاے معجمہ

گزمر - حساب پیمایش عمارات - **طغرا** - صاحبا پایہ قدر تو از ان بیشتر ست ٭ کہ توان کرد با طناب تخیل گزمر ٭

گزباز - رقاص جو گز ہاتھ میں لیکر ناچتا ہے گزبازی اس کام کا نام ہے - **طغرا** - جو رقاص گزباز آید ببزم ٭ کند وقت باقبال آہنگ جزم ٭ **سیفی** - تیغ کہ دہشت خدنگش بسینہ دمسازی ٭ ہد شکار تیغ دلم میکند بگزبازی ٭

گرگ زدن زخم - کھچ جانا زخم کا اور پانی جراجانا اُسمیں - **میر الٰہی ہمدانی** - دل خون گرفتہ ست کہ دشمن ہم از غمش ٭ درہم کشید روے چو زخم گرگ زدہ ٭

گزیدن چشم - نظر لگ جانا چشم زخم کا صدمہ پہونچنا - **صائب** - چنانکہ نیل بود مانع پریدن چشم ٭ بخط رخ تو امان یافت از گزیدن چشم ٭

گزردن - گزکردن - پیمایش کرنا - ناپنا - **جعفر بیگ** - راہ رو را باک از پست و بلند راہ نیست ٭ آسمان پیمودہ ام اکنون زمین گز میکنم ٭

گزگز جستن - چستی اور چالاکی سے کودنا - **سیفی بدیعی** - زہجر تیر گز خواہد جدا افتاد جان از من ٭ کہ گزگز میجہد پیوستہ آن ابرو کمان از من ٭

گزیدن - دانتون سے کاٹنا نیش مارنا -

گزیدہ - کاٹا ہوا ڈنک لگا یا ہوا کتے اور سانپ وغیرہ کا - **صائب** - از خوی خویش بد گہر آزار میکشد ٭ خون ست شیر کودک پستان گزیدہ را ٭

گزای - تلف کرنے والا - کاٹنے والا چنانچہ جان گزاے و عمر گزاے وغیرہ - **ظہوری** - شام فراق مے بزم زہر زکام مے چکد ٭ راہ مباد بر لبے این حرف زبان گزاے را ٭

گزی بگوزی - نہایت بیقدری و بے اعتباری - **محمد سعید اشرف** - دانائی عاریت دو روزی ست ٭ ریشش عملی گزی بگوزی ست ٭

کاف فارسی با سین

گستاخ دست - چست و چالاک و سبک دست - **اطلاقی** - دلیر و شگفتگوے و دانش پرست ٭ بہ تیر و بشمشیر گستاخ دست ٭

گسستہ بنیاد - بے بنیاد و سست اصل و پراگندہ - **میر خسرو** - گر ستم بزور بپید رو ست ٭ ورنہ ہم ظلم گسستہ بنیاد ست ٭

گسستہ دل - آزردہ دل - پریشان دل - **میر معزی** - وداع کن کہ ہم اکنون ہمی شتو رہم رفت ٭ گسستہ دل ز نشاپور صحبت احباب ٭

گستاخ چشم - وہ شخص جو کسی کا لحاظ نرکھے اور اُسکی آنکھوں سے ہیبت آئے - **نظامی** - غضبناک و خونریز و گستاخ چشم ٭ خدا آفرینش ز بید او خشم ٭

گسستہ دم - جسکا دم لوٹ گیا ہو بسبب زور سے دوڑنے یا کسی اور کام کے - **ظہور علی** - نگر کہ دیلی یوبیت دویدہ بو وصبیا ٭ کہ وقت صبح دمش خوش گسستہ دم دیدم ٭

گسستہ دم - جسکی دم کاٹ لی ہو - **خواجہ سلمان** - مار را چون دم گسستے سر بباید کوفتن ٭ کار مار دم گسستہ نیست کار سرسری ٭

گسستہ لگام - گسستہ عنان - گسستہ مہار - گھوڑا اونٹ وغیرہ جو بے قید ہو - **شرفی** - ز بانگ ہیبت و از نعرۂ صلابت وست ٭ فلک فگندہ عنان صبا گسستہ لگام ٭ **محمد اللہ بالغی** - ز فرستاد قوسے ز شیر افگنان ٭ با بنال عصیم گسستہ عنان ٭ **ظہیر الدین فاریابی** - چنان دام جہان بہم بہ ربود رفت ٭ کہ آن نشید دہقان بیست دانہ گسستہ مہار ٭

گسارون - گسار یدن - کھانا اور توڑنا - **محتشم کاشی** - می بساغر ابدام

شد زگردش چشمت *** کہ بادۂ خون جگرست بجام بادہ گساران ***

گستاخ زبان۔ گستاخ گو۔ بے ادب بے لحاظ کلام کرنیوالا نظامی۔
ازان بوالفضولان بسیار گو *** وزان بوالحکیمان دیوانہ خو ***

گسستن۔ جدا کرنا۔ جدا ہونا۔ توڑنا رشتہ و زنجیر اور تار کو جو دراز ہو اور توڑنا عہد و پیمان و قول و قسم و سررشتۂ صحبت جو آپس میں ہو شیدائی گلو
جواز برابرم آئی دلم گسستہ شود *** چو بگذری زبرم خاطرم گسستہ شود ***

گسستہ آشیان۔ وہ جانور جو اپنے گھونسلے سے آوارہ ہو فیضی۔
با ولتو دو تو اسیر جانیم *** مرغان گسستہ آشیانیم ***

گسلیدن گسیختن۔ مرادف گسستن ہے صائب۔ سبد ہائی ست
را صائب توان آسان گسیخت *** سہل باشد گر بنا شد منتظم دیباے من دولت
اگرچہ رشتۂ ہموار کردہ خود را *** زجو بیار تو آب گہر نمے گسلد ***

گستاخ روی۔ بے شرم و بے حیا و بے ادب نظامی۔ چو گستاخ روئے
بران داشت ست *** کہ در پردہ پوشیدہ نگذاشت ست ***

گستہ پے۔ کمان کی تعریف میں کہا جاتا ہے شیدائی ہندی زبس
کشیدہ ام ز آب چشم سرخود *** سپہر حال کمان گستہ پے دارد ***

کاف فارسی با شین معجمہ

گشت زدن۔ گشت کردن۔ سیر کرنا۔ چلنا پھرنا۔ میر حسن دہلوی۔
بادۂ گلگون بیارہ تا سوے گلگشتے کنیم *** یار من چون گل بہ گلگشت
چمن باز آمدست ***

گشتن۔ ہونا۔ پھرنا۔ گزرنا۔ برگشتہ ہونا۔ امان اللہ ثانی۔ کتاب
خانۂ عالم ورق ورق گشتم *** خط تو دیدم و گفتم کہ مدعا اینجاست ***

کاف فارسی با فاے معجمہ

گفت و شنفت۔ گفت و شنود۔ بات چیت بحث و تکرار باہمی حافظ۔
سخن عشق نہ آنست کہ آید بزبان *** ساقیا مے دہ و کوتاہ کن این گفت و شنفت
سید حسین خالص۔ من دعا میکنم اے دوست تو دشنام بدہ *** با تو ہرکس
ہوس گفت و شنودے دارد ***

گفت و قدم۔ کنایتاً قول و فعل میر نجات۔ در دمندان ترا گفت
و قدمے باید *** ہمہ جا گفت و قدم ہمرہ ہم مے باید ***

گفتن۔ کہنا مشہور لفظ ہے۔ ابوطالب کلیم۔ تو بہ گفتم زبس تکلیف
بے دردان و سے *** ہیچکد صد تو بہ از مینا نہ ذوق یاد دارم ***

گفت و گوے۔ ہنگامہ اور پرخاش و تکرار باہمی صائب۔
زدراے کاروان یوسف شناسان را بو جدآرد *** ز گفت و گوے
مردم نیست پرواے خدا جو را ***

کاف فارسی با لام

گل حلوا۔ ایک پھول زرد رنگ جنگلی کا نام ہے جو خوشبودار ہوتا ہے
حلوے میں اسکو ڈالتے ہیں شیرینی قدرے قلیل حلوا۔ محسن تاثیر۔
خونبار شد ز بعل تو چشم پرآب ما *** رنگین شدست از گل حلوا شراب ما ***

گلشن سرا۔ وہ مکان جو باغ میں ہو جیسا کہ بستان سرا۔
ابو نصر نصیرائی۔ کام را پے میکنم در سایۂ دیوار تو *** بہر من خوشتر
ازین گلشن سرا کاشانہ نیست ***

گلخن تاب۔ گلخنی۔ حمام گرم کرنے والا۔ بھٹی جھونکنے والا۔ ملا وحشی۔
بگلخن چون روم از ننگ گلخن تاب در بندد *** بروے ناکسی چون
من در بستان کہ بکشاید *** میر خسرو۔ گلخنے کرد بشاہی نگاہ ***
رفت دلش در دم بیکران شاہ ***

گل گلاب۔ گل سرخ جسکا گلاب کھینچتے ہیں۔ ملا طغرا۔ زخوی روے
بنی چون گل گلاب شدست *** شقائق از حسد بخت گل کباب شدست ***

گل مہتاب۔ وہ چاندنی جو درخت کے سایہ میں زمین پر پڑتی ہے
سلیم۔ سایۂ یار از سر عاشق مباد ا کم سلیم *** بر سر بستان گلی
از گل مہتاب نیست ***

گل تابوت۔ پھول جو تابوت پر چڑھاتے ہیں۔ آرزو۔ چیدیم زباغ
جو فلک طرفہ دکانی *** غیر از گل تابوت ندارد سبد ما ***

گل دیگر شگفت۔ یہ جملہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ایک بات کی بات
کے بعد دوسری کوئی نئی بات سننی ہے۔ سید حسین خالص۔
ہر جا کہ حرف جور و جفای تو گفتہ شد *** مشکل تا نہ دانم و گل دیگر شگفتہ شد ***

گل تسبیح۔ تسبیح کا امام جو تمام دانوں کے اوپر پرو دیا جاتا ہے۔ زلالی۔
می کشد در چکیدن قطرۂ تاک *** گل تسبیح میر و بر سر خاک ***

گل صبح۔ صبح کی سپیدی۔ فیضی۔ فیضی عجب درین گل صبح از صبا
رسید *** بیرون کشیم رخت کہ دورت صفا رسید ***

گل رخ۔ گل رخسار۔ محبوب کی تعریف میں بولتے ہیں۔ مؤلف۔
سنبل از زلف تو حاصل کرد بو *** یافت گل رنگ از گل رخسار تو ***

گل سرخ۔ گلاب کا پھول سعدی۔ گل سرخش چو عارض خوبان ***
سنبلش ہمچو زلف محبوبان ***

گل میخ۔ ایک قسم کی میخ ہے جسکا سر چوڑا ہوتا ہے۔ ابوطالب کلیم۔ بیا
بدرگہ شاہنشہے کہ از در او *** شگفتہ غنچۂ گل میخ بر رخ ایام ***

گل بید۔ بید کا پھول جو پھل نہیں رکھتا۔ محمد اسحاق شوکت بخاری
از بسکہ بے ثمر گشت بعالم *** از مردم دنیا لب خندان گل بیدست ***

گل روی سبد - گل سرسبد - وہ اچھا پھول جو پھولوں کے ٹوکرے کے اوپر رکھا ہو - محمد اسحاق شوکت - خورشید کہ باشد گل روے سبد چرخ ؛ یک برگ گل از غنچۂ آن طرف کلاہ ست ؛ طغرا - گل سر سبد دہد باغبان ؛ در آخر ببالاے گلہا مکان ؛

گل سپید - ایک قسم کے گلاب کے پھول کا نام ہی جو سپید ہوتا ہی اسکو سیوتی کہتے ہین وہ اہین مستعمل ہی - حکیم ارزقی - بہر زمین کہ براقگند سایۂ رخ زلف ؛ گل سپید بر و تودہ گردد مشک سیاہ ؛

گل ابر - بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا - طغرا - چرا خرقہ پوشی نزیبد بشاہ ؛ گل ابر زیباست بر دور ماہ ؛

گل احمر - گل حمرا - گل ورد گلاب کا پھول - حافظ - شگفتہ شد گل حمرا و گشت بلبل مست ؛ صلاے سرخوشی اے عاشقان بادہ پرست ؛ جمال الدین سلمان - باد صبا بوے تو در باغ رفتہ ست ؛ پس خوردہ ہا کہ بر گل احمر گرفتہ ست ؛

گلبار - ایک محلہ صفاہان مین اور نام ایک مقام حوالی طارم مین شیراز کے پاس - محمد قلی سلیم - گر دیا د از اثر فیض ہوا در گجرات سید بدیا د صفاہان و منار گلبار ؛

گلدار - داغدار اور منقش - جلالای کاشی - زنہار کہ از عیب کسان چشم بپوش ؛ حیف ست کہ این آئینہ گلدار شود ؛

گل شکر - گلقند جو مشہور چیز ہی - سعدی - گر گل شکر خوری بتکلف زیان کند ؛ ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود ؛

گلعذار - محبوب کی تعریف مین کہا جاتا ہی - آصفی - ہزار گل نگلم آصفی شگفتہ چہ سود ؛ چہ سود سے من گذرے نیست گلعذار مرا ؛

گلوفشار - گلوبند - وہ زیور یا کپڑا جو گلے مین باندھتے ہین - محمد علی حزین - عجب نصیب دلم کن چنان کہ خود دانی ؛ کہ مست شیشم و دل را گلوفشارے ہست ؛

گلوگیر - وہ چیز جو گلے کو پکڑ لے - نظامی - بدارا رساند سکندر جواب ؛ جو آبے گلوگیر از زہر ناب ؛

گل انداز - اسقدر فاصلہ کہ اگر پھول کسی کی طرف پھینکین تو جتنی دور جا پڑے - میرزا بیدل - زین چمن ہر چند گلچین تماشای تو ام دور از آغوش وصالت یک گل انداز م ہنوز ؛

گلریز - خزان کا موسم اور نام ایک قسم کے کپڑے کا اور نام ایک قسم کی آتشبازی کا جسکو پھول جھڑی کہتے ہین - قبول - تا دم زدیم ز آتش پنہان قبول سوخت ؛ گلریز وار ز نفس ما لباس ما ؛

گلوسوز - وہ چیز نہایت شیرین اور لذت دار ہو - محسن تاثیر - خواہ دلبر شیرین شمایلی دارم ؛ کز التفات گلوسوز تر بود ستمش ؛ صائب - بیاض گردن او گر بدست من افتد ؛ چو بوسہ ہاے گلوسوز انتخاب کنم ؛

گل پلاس - یہ پھول نارنجی رنگ شیر کے ناخن کی طرح ہوتا ہی - سلیم - بعزم سیر چمن چون روم ز خانہ برون ؛ کہ خارہاست بپا از گل پلاس مرا ؛

گل شاموس - یہ پھول رعاف کی بیماری کو دور کر دیتا ہی - ؟ گر علاج رعاف شفق کند خورشید ؛ کہ از سفیدۂ صبح آورد گل شاموس ؛

گل پاپوش - وہ پھول جو جوتے پر طلا و ابریشم وغیرہ سے بناتے ہین - ابو نصر نصیرائی - ہم پاے تو تا رفتہ بگلشن گل پاپوش ؛ خندہ زدہ بر لالہ و سوسن گل پاپوش ؛

گل پوش - گل پیرہن - محبوب کی تعریف مین کہا جاتا ہی - صائب - زمین ز سایۂ ابر بہار گل پوش ست ؛ ز جوش لالہ و گل خون و خاک در جوش ست ؛

گل شدن شمع - گل ہو جانا شمع کا - اسلام خان والا - درین داوری گاہ ظلمت نشان ؛ شد از باد شمشیر گل شمع جان ؛

گل شمع - شمع کی روشنی اور خود شمع - محسن تاثیر - گرچہ در چمن حسن تو زنبور عسل ؛ چہ عجیب گر ز گل شمع بگیرند گلاب ؛

گل چراغ - گل چشم - وہ سفیدی جو آنکھ کی سیاہی پر ظاہر ہو جاتی ہی - ابو البرکات منیر - اے آنکہ کسے ہمچو تو بے مہر ندیدہ ؛ در دیدۂ روشن تو گل نیست پدید ؛ اشکے ست کہ در چشم تو بر اوج الم ؛ ناکام رسیدہ بود لیکن چکیدہ ؛

گل یوسف - ایک پھول زرد رنگ کا نام ہی - ذوقی - نیست حاجت کہ تو وصف گل یوسف گوئی ؛ قیمت و زینت این گل ز زلیخا پرسیم ؛

گلبانگ - خوشی کی آواز اور تیر کی آواز اور بلبل کی آواز اور قلندروں کی آواز - گلبانگ بھی اسکو کہتے ہین - صائب - عندلیبان از خجالت سر بزیر پا کشند ؛ ہر کجا صائب شود گلبانگ کلک ما بلند ؛

گل تریاک - گل کوکنار - مشہور پھول ہی - بدیع الزمان - کشتۂ زہر تغافل تا ابد بی نشہ نیست ؛ چون گل تریاک تلخی در کفن داریم ما ؛

گلرنگ - سرخ رنگ - خوبصورت - توحید - تازہ بنا یہ گلشن ہمزبان گلرنگ ؛ میکند بروقت ظاہر ہر گل ہر خار رنگ ؛ گاہ سرخ و گاہ زرد و گہ سپید و گہ سیاہ ؛ حضرت رنگیر نظاہر میکند ہر بار رنگ ؛ یک گل رنگین عجب از چہرۂ گلرنگ خویش ؛ در بہار چار عنصر تو داز چار رنگ ؛

گل صد برگ - مشہور پھول ہے - صائب - چون گل صد برگ
درمیان خارزار * زیر شمشیر حوادث با لب پرخنده ایم -
گلگل - بہت بہت اسی طرح لالہ لالہ - صائب - دوش گلگل روی بزم
افروزت از پیمانه بود * در پر شوخیت شور جلوهٔ مستانه بود *
گل ابریشم - وہ پھول جسکے ریشے ابریشم کی طرح ہوتے ہین محسن تاثیر
حلقهٔ خط زخت دام رهِ مردم ست + طرفه قماشی ترا زین گل ابریشم ست +
گلاب چشم - آنکھ کا گلاب آنسو - صائب - هر چند ز آفتاب بود
تلخ گلاب * هوشد تلخ از هدیدن رو بیت گلاب چشم من *
گل اندام - نازک بدن محبوب کی تعریف مین بولا جاتا ہے گھوڑے کے
معنی بھی دیتا ہے - صائب - شوق می از بهار گل اندام تازه شد +
پیوند بوسه ها بلب جام تازه شد * بیاقی - شتابان بر گل اندام آن
پرنیزاد * چو آن برگ گلے کو را برد باد *
گل بادام - شگوفہ بادام کا - آصفی - بیاض دیده زمی سرخ
گلعذاران را * بود شگوفهٔ بادام نو بهاران را *
گلفام - معشوق کے اوصاف مین سے ایک وصف ہے -
گل مختوم - ایک مٹی ہے نہایت لطیف اور اسمین مہر لگ جاتی ہے -
گل یک چشم - عضو تناسل آدمی کا - سعدی - چند سر گردانی خاطر
دهم * این گل یک چشم سر گردان من *
گلزن - گلاب پاشی جس سے گلاب چھڑکتے ہین -
گلاب زن - اور یہ ایک برتن سوراخ دار ہوتا ہے - عبد الواسع -
بروے دتن چو گل و آب تازه و پاک است * ز اشک دیده دو دست
چون گلاب زن دارد *
گل بدست کسی دادن - کسی کو کوئی تحفہ دینا - میرزا سعید - از مروت
نیست گل دادن بدست دوستان * تا توان خاری ز راه دشمنان برداشتن *
گل بستن - گل پوش ہونا - پھول پہننا - نظامی - شفق سرخ گل بست
ور شاد * طبق پر شکر کرد خورشید را د *
گل جبین - معشوق کی تعریف مین کہا جاتا ہے - ظہوری - باحسان
آن گل جبین گر سیر گلشن میکند * زند گلهای پیشانی بدامن میکند *
گل چیدن - پھول چننا مشہور لفظ ہے - صائب - بجنونم که فیض خود
دریغ از شهریان دارم * که از دیوانگی من کوچه و بازار گل چیند *
گل خندیدن - پھول کھلنا - شگفتہ ہونا - عرفی - گل کرشمه سنج شده
چو چشم باز کنی * بهار عشوه بریزد چو رخ بپوشانی *
گل دادن - پھول دینا درخت کا اپنے موسم مین - شادمان گلہر

شاخ شکسته گل ندهد لیک زلف یار + هر جا شکست خورد گل آفتاب داد +
گل در آب کردن - پانی مین مٹی ملانا - فتنه و هنگامه تازه برپا
کرنا - محمد قلی بیگ سلیم - شب ز مستی شور در بزم شراب انداختیم +
باده نوشان گل در آب و نا کباب انداختیم *
گل در آب گرفتن - کردن - گارا بنانا - طالب کلیم - کلبهٔ ویران ما
خواهد آبادی رسید * پی تعمیر او سیلاب گل در آب کرد + مخلص کاشی -
فلک کز بهر تعمیر گلے در آب میگیرد + پی ویرانی دل وعده از سیلاب میگیرد +
گل در آغوش ریختن - بجیب آمدن - در گریبان کردن - گل
بدامان کردن - معنی اسکے معلوم ہین - میرزا بیدل - خوشم بیاد
خیالش که گلبن چمنش * گل نظاره در آغوش خواب میریزد + طالب آملی -
تهی بردن شدم از گلستان خرم دهر * نه گل بجیب هوس آمد و نه خار
مرا * وله - یک نفس باشد نشاط خنده ظاهر چو برق * خنده دزدیدن
بدان گل در گریبان کردن ست * وله - زان چهره گل بدامن اندیشه
میکنم * خورشید سے فشارم و در شیشه میکنم *
گل در چراغ افتادن - روشن ہونا چراغ کا - محسن تاثیر - حسن
بے عاشق نمیماند بهر صورت که ہست + در چراغ افتد چو گل پروانه بلبل میشود +
گل دمیدن - مشہور لفظ شگفتہ ہونا - سنجر کاشی - گر نشد مرغ سحر
داد رس شیون ما * گل خورشید دمید از چمن روزن ما *
گل رستن - پھول پیدا ہونا - مولوی معنوی - در بهاران کی شود
سر سبز سنگ * خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ *
گل سرشتن - مٹی گوندھنا - خمیر کرنا - حافظ - دوش دیدم که ملائک
در میخانه زدند * گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند *
گل شگفتن - کوئی عجیب امر ظاہر ہونا - صفدر رفوقانی - چار سو ملا ربیلا
ابر رحمت پروردگار * در بیابان خار شد پیدا و گلشن گل شگفت *
گل کشیدن - محنت مزدوری کرنا - گل گل کرنا - سعدی - ز جور شکم
گل کشیدن به پشت * که روزی محالست خوردن بهشت * نظامی -
گلے کز کشتی سیتون سراے * گل افتد نشان لیک ماند بجاے *
گلگل شگفتن - گلگل کردن - بہت خوش ہونا اور خوش کرنا - صائب -
شگفت از غنچه پیکان او گلگل دل تنگم * که جان از صحبت یاران یکدل
تازه میگردد * محمد سعید اشرف - کرده گلگل چهره تا می در ایاغ
انداخته * حسن آب آورده ست و طرح باغ انداخته *
گل نشاندن - پھول کا درخت بونا - باقر کاشی - من آن مستم که
گر گل می نشانم تا که میرویند * تا که برگ هم با سینهٔ صد چاک میرویند *

گلیم از موج بروں آوردن گلیم بیرون آوردن - اپنے آپ کو کسی آفت سے بچانا - سعدی - گفت آن گلیم خویش برون مے برد ز موج ٭ وین جہد میکند کہ بگیرد غریق را ٭ و لہ - دونان چو گلیم خویش بیرون بردند ٭ گویند چہ غم گر ہمہ عالم مردند ٭

گل شب بو - ایک پھول ہے جو رات کو بو دیتا ہے - حسین خالص - ست در شام ہتودی دگر آن گیسو را ٭ شب چو شد عطر شود بیش گل شب بو را ٭

گل کدو - مشہور پھول ہے - سلیم - چو دل بجا ست اگر سر رود چہ غم دارم ٭ گل کدو بود این ساغر بلور مرا ٭

گل پیادہ - وہ پھول جو سا قدار ہو - صائب - نہال عمر ابد با کمال رعنائی ٭ گل پیادہ نماید بنظر لقا ست دوست ٭

گلچہرہ - معشوق کی تعریف میں بولا جاتا ہے - حکیم انور لاہوری - چو آن گلچہرہ در گلزار خوبی جلوہ گر گردد ٭ ندارد تاب گل چہرہ نمایانی حجابانہ +

گل دیدہ - گل چشم جسکی آنکھ میں گل ہو - صائب - نیاید پیش از بد حجاب راہ بینایان شود ٭ تہمت گل بیشتر از خار باشد دیدہ را +

گلستان زادہ بستان زادہ - پھول سبزہ وغیرہ جو باغ میں پیدا ہو - منیر الٰہی ہمدانی - در باغ خوش ست آسمان گون زنبق + کز بوے دید دماغ را ہم رونق ٭ این طفل کہ بود نیش بستان زادہ + از صفحۂ دشت با پدرش ادسبق ٭ ملا منیر لاہوری - گلستان زادہ نثرش فصاحت ٭ نمک پروردہ نظمش ملاحت ٭

گلکامہ - پھولوں کا نقل جو گلاب کھینچنے کے بعد نکلتا ہے - ابو نصر نصیرائی بدخشانی - زلف و رخ او دیدہ بہم گفت نصیرا + از عنبر و گل ساختہ گلکامۂ خورشید ٭

گل آتشی - سرخ گلاب جو ہمیشہ پھولتا ہے - عبید اللہ وحدت قمی - وفا و شرم مجو از بتی کہ رخ افروخت ٭ کہ لالہ عطر و گل آتشی گلاب ندارد ٭

گل خطائی - لالہ خطائی - ایک خوشرنگ نہال کا نام ہے جسکو خوش نظر بھی کہتے ہیں - طاہر وحید - فغان کہ شعلہ کند سرخ و سبز و زرد از دل ٭ گل خطائی گلزار شرم معصیت است ٭

گل داؤدی - یہ پھول ہندوستان میں سپید اور زرد ہوتا ہے جاڑوں میں بھی پھولتا ہے - آرزو - چون گل داؤدی اینجا در خزان دارد بہار + از فریب آسمان ہرکس کہ غافل ماند ماند ٭

گلرو - معشوق کی تعریف میں کہا جاتا ہے - ذوقی - چو لالہ سینہ ام پر داغ گشت از عشق گلرو ٭ مقید شد دل و جانم بتار عنبرین موے +

گل سرشوی - وہ مٹی جس سے سر دھویا کرتے ہیں - محمد قلی سلیم - بیتوا ند کسی از خاک وطن سر پیچد ٭ خشت خم دختر رز را گل سرشو باشد ٭

گل عباسی - منسوب بشاہ عباس صفوی - ملا طغرا - بیشود از سایۂ چترش بہ از عباس شاہ ٭ چون گل عباسی را زینت افسر کند ٭

گل کوبی - وہ جشن جو آغاز بہار میں کیا جاتا ہے ہندوستان میں اسکو بسنت کہتے ہیں اور بسنتی پھولوں کی سیر جو سب سے اول پھولتے ہیں کی جاتی ہے - مولوی معنوی - خدا ایگان جمال و خلاصۂ خوبی ٭ بباغ عقل درآمد برسم گل کوبی ٭

گل مشکی - گل مشکیچہ - یہ پھول نہایت خوشبو ہوتا ہے - اسماعیل ایما - کنم ز بوی وفا زخم غیر را ناصور ٭ بدست چون گل مشکی ست لقد داغ مرا ٭

گلین گوے - زمین جو گیند کی صورت پر ہے - نظامی - چو در خاطر آمد جہانجوے را ٭ کہ در چنبر آرد گلین گوے را ٭

کاف پارسی با میم

گم شدہ لب دریا - جو شخص تیرنا نہ جانتا ہوا اور پانی میں کود پڑے -

گمان زد - خیالی بات جو یقینی نہو - ملا شبیہی - بغیر گرم در آمیختی حذر ز نہار ٭ گمان زد تو شد آنچہ من یقین دانم ٭

گم کردہ فرزند - حضرت یعقوب علیہ السلام - سعدی - یکی پرسید زان گم کردہ فرزند ٭ کہ اے روشن گہر پیر خردمند ٭ ز مصرش بوے پیراہن شنیدی ٭ چرا در چاہ کنعانش ندیدی ٭ بگفت احوال ما برق جہان ست ٭ دمے پیدا و دیگر دم نہان ست ٭

گمان پذیر - جس بات کا گمان ہو - میر خسرو - زان سخن نکتہ کہ گوش گیر شدش ٭ دل نازک گمان پذیر شدش ٭

گمانم - یعنی گمان دارم - میں گمان رکھتا ہوں - طاہر وحید - ز شور بیخودی چون سیل می بینم جہانے را ٭ تو ای بدخو گمانم فتنۂ آخر زمان باشی ٭

گم رفتن - بے راہ چلنا - غلط چلنا - غنیمت - بسے گم میروی خود را ادب کن ٭ رہے گم کردہ خضرے طلب کن ٭

گم زدن - چھپ جانا - پوشیدہ ہونا - دہیمی - سر دہانت ذرۂ ہرگز نشد بر من یقین ٭ دل سے بردو ز دیدہ شد ز گوشۂ گم میزند ٭

گم کردہ پی - جس شخص کا سراغ نہ ملے اور جسکی محنت ضائع ہو -

کاف فارسی با نون

گنبد آب - حباب یعنی بلبلہ جو پانی پر ظاہر ہوتا ہے -

گنج دیوار یست - بڑا خزانہ اور وہ خزانہ جو یتیموں کا زمین میں مدفون تھا اور خضر علیہ السلام نے باتفاق موسی علیہ السلام کے باشارۂ غیب سے پر دیوار بنائی تا کہ یتیموں کے بالغ ہونے تک ظاہر ہو - اسکا ذکر قرآن مجید میں لکھا ہے -

گنبد چار ریشہ - آسمان اور عالم دنیا -

گناہ آمرز - گناہ بخشنے والا - خداوند تعالےٰ - مولانا جامی گناہ آمرز
رندان قدح خوار ٭ بطاعت گیر پیران ریاکار ٭

گناہ بخش - گناہ بخشنے والا - ذات حق سبحانہ تعالیٰ - حافظ خسروا
پیرانہ سر حافظ جوانی میکند ٭ بر امید عفو جان بخش گنہ بخشای تو ٭

گنج بخش - خزانہ بخشنے والا - جوانمرد سخی - ذوقی - گنج می بخشد
گنج بے بہاے خویشتن ٭ بے نوایان را ہمیشہ بادشاہی گنج بخش ٭

گندم نما جو فروش - ریاکار منافق جسکا ظاہر و باطن یکسان نہو -
سعدی - بیا زار گندم فروشان درآی ٭ کہ این جو فروشست و گندم نمای ٭

گندہ دماغ - گندہ مغز - جو شخص متکبر و مغرور و سرکش ہو سعدی
اگر میرود در پے این سخن ٭ بدین گفتگو گندہ مغزی مکن ٭

گناہ کسے از کسے خواستن - شفاعت کرنا گناہ بخشوانا معافی
مانگنا سعدی - دران وقت نومیدی آن مرد راست ٭
گناہم زداد ار داور بخواست ٭

گنبد چہل دختران - ایران مین ایک گنبد ہے - عبد الغنی قبول -
بسکہ در سرہست زاہد را ہمان ذوق جماع ٭ مے نماید گنبد
چہل دختران عمامہ اش ٭

گنبد زدن - گنبد کردن - ہانپنا - کودنا جست مارنا گھوڑے
ہرن وغیرہ کا - میر خسرو گھوڑے کی تعریف مین - چو جولان کند
ہست کوہ روان ٭ چو گنبد زند گنبد اخضرست ٭

گنج بان - صاحب خزانہ محافظ خزانہ و خزانچی - فرخی - من کہ اورا
در مدیح دستم خوانم ہمی ٭ آنچنین باشد کہ خوانی گنج را گنج بان ٭

گنج روان - خزانہ قارون کا کہ ہر روز اسفل کو چلا جاتا ہے جیائی گیلانی
تا بزاو آزر ابر در گہش ٭ یاسے بہ گنج روان آید ہمی ٭

گنج شایگان - بہت سا خزانہ - صائب - تا مہ روی تو پر تو در جہان
انداختہ ٭ پیش ہر ویرانہ گنج شایگان انداختہ ٭

گنبد عمامہ - بہت بڑی پگڑی - مخلص کاشی - گشت قدش زیر بار
گنبد عمامہ خم ٭ ورنہ شیخ جاہل ما اینقدر ہا پیر نیست ٭

گنج خانہ - گنجدان - خزانہ کی جگہ - نظامی - بآن گنج خانہ کہ در بستہ بند
رہ اژدہا پر خطر یافتند ٭ ولہ - کجا گنجدانی پیشنیرے دراو ٭ کہ از گنج
او نیست چیزے دراو ٭ ولہ - گر او تن در آمد تو ہستی درش ٭
گر او گنجدان شد تو ئی گنج بخش ٭

گنج نامہ - وہ کاغذ جسپر تفصیل خزانہ کی لکھی ہو - محمد قلی سلیم - روزگارم
قدر نشناسد زنادانی کہ طفل ٭ گنج نامہ گر بیابد کاغذ بادکش کند ٭

گنجینہ کشای - صاحب و مالک خزانے کا - فیضی - رضوان خدا
ہر صحابہ ٭ گنجینہ کشاے نہ خزانہ ٭

گنج الٰہی - خزانہ خدا کا - قرآن شریف -

کاف فارسی با واو

گوش دریا - صدف یعنی سیپ و چھوٹا پیالہ - سعید اشرف -
تا سخنہای ترم مشہور بحر و بر شدہ ٭ گوش دریا آب بردو نام او گوہر شدہ ٭

گوش تاب - گوشمالی جو کسی کو دی جاوے -

گوش رباب - گوش طنبور - چوبی کیل جو طنبورا اور رباب مین لگی ہوئی
ہوتی ہین اور تار انسے درست کیے جاتے ہین - میرزا بیدل - بود گوش
طنبور تا کے گران ٭ گرہ تا بکے تار را بر زبان ٭ بمال از رہ لطف
گوش رباب ٭ کہ شور طرب یادش آمد بخواب ٭

گوہر شب تاب - یہ ایک قسم لعل کا ہے جو رات کو روشنی دیتا ہے
گوہر شب چراغ بھی اسکو کہتے ہین - صائب - بینا بد گوہر شب تاب
در شب خویش را ٭ از خط مشکین فروغ آن لب میگون فزود ٭

گوارا افتادن صحبت - موافق پڑنا صحبت کا - میر خسرو - کسے را
باشد این شربت گوارا ٭ کہ داند خوردن اندر روے یاران ٭

گوسپند برای قربانی ست - مثل ہے کہ قربانی کے لیے بکری ہے نہ کھیلنا
اور کودنا - سہ - جان بجانان اگر دہی چہ عجب ٭ گوسپند از
براے قربانی ست ٭

گوہر نیم سفت - جس موتی کا سوراخ بہت باریک ہو - نظامی -
تو دانی کہ این گوہر نیم سفت ٭ چہ گنجینہ ہا دارد اندر نہفت ٭

گوش پیچ - گوشمال اور تنبیہ جو کسی کو دیجاوے - نظامی - ترا آن
بہ اسے سرور رومیان ٭ کہ بندی بخدمت چو ہندو میان ٭ وگرنہ چنانت
دہم گوش پیچ ٭ کہ دانی تو ہیچے و مکتر ز ہیچ ٭

گوش زد - وہ بات جو ایکبار سنی جاے - باقر کاشی - شب نالہ این
گوش زد مرغ چمن شد ٭ بیچارہ گرفتار گرفتاری من شد ٭

گوش گذار - بات کسی کے کان مین پہونچا دینا - حافظ - کس نیارد
بر او دم زدن از قصہ من ٭ مگرش باد صبا گوش گذاری بکند ٭

گوش گردون کر - آسمان کے کان بہرے ہون کہ ہماری بات سُنے
اور نہ ہمارے کام مین خلل ڈالے - محمد فطرت - در لبش از بوسہ مضمونے
فرو نگذاشتم ٭ گوش گردون کر کہ جاے گفتگو نگذاشتم ٭

گوشہ زنجیر - زنجیر کا حلقہ - صائب - نیست مین مجنون نظر بند ست

ور دامان شت ٭ عشق در ہر گوشۂ زنجیر دارد شیرہا ٭

گوہربار - جوانمرد - سخی - وہ اخطب زبان صحیح جسکا کلام پرتاثیر ہو - صائب - قابل قسمت شمارد نقطۂ موہوم را + ہر کہ بیند در سخن لعل گہربار ترا ٭

گوہر کفدار - وہ گوہر جسپر سپید داغ ہو - صائب - تمام رس نبود بادہ کہ کف دارد ٭ کہ عیب دار بود گوہرے کہ کف دارد ٭

گوہرنگار - گوہرآگین اور مرصع جڑاؤ - نظامی - مرصع سبے تیغ گوہرنگار ٭ منطقہاے زر افزہ آبدار ٭

گوش تاگوش - ایک کان سے دوسرے کان تک - سنجر کاشی - گوش تاگوش جہان از عمل حکمت اوست ٭ چون دماغ پسر مریم خالی زخلل ٭

گوشوار فلک - کنایۂ چاند اور ماہ نو - انوری - دیدم اندر سواد طرۂ شب ٭ گوشوار فلک زطرۂ بام ٭

گوشمال - گوش تاب اور گوش پیچ تنبیہ و تادیب - ظہوری - دل خیرہ سر میکند دست بازی ٭ بزلفے کہ افتی خورد گوشمالش ٭

گوسپند تسلیم - وہ گوسپند جو قربانی کے لیے حاضر کرین - شانی تکلو - دل سلیم من آن گوسپند تسلیم ست ٭ کہ جز بہ تیغ تو قربان شدن نمیداند ٭

گوسالۂ مردہ پرکاہ کردن - وہ دودھ والی گاے کا بچہ مرجاتا ہے تو بچہ کی پوست مین گھاس بھرکے گاے کے سامنے لاتے ہین تاکہ وہ بچے کو دیکھکر دودھ دیدیوے - ناظم ہروی - صاحب طبعان ستایش جاہ کنند تا دل جاہ پروران راہ کنند ٭ دلجوئی گاو نیست شیرست مراد ٭ گوسالۂ مردہ را چو پرکاہ کنند ٭

گوش افتادن - بہرا ہو جانا شنوائی جاتی رہنا - میر خسرو - کوفت چوان کوس شغبناک را ٭ گوش فتاد اشتر افلاک را ٭

گوش برتافتن - روگردانی کرنا - بات نہ سننا - طالب آملی - طالب از دستان ما گوش حقیقت برمتاب ٭ یک نواے ما کم از صد نغمۂ داؤد نیست ٭

گوش پرکردن - کسی کے کان بھر دینے اُسکے دل کو کسی کی طرف سے پھیر دینا - میرزا صائب - خاطرت از شکوۂ ما کی پریشان میشود + تا نہ پر کرد دست از حرف پریشان گوش تو ٭

گوش پہن کردن - کسی خبر کی طرف کان لگائے رکھنا - حافظ - دوشم ز بلبلی چہ خوش آمد کہ می سرود + گل گوش پہن کردہ زشاخ درخت خویش +

گوش ترشدن - راگ یا کوئی خبر سنکر خوش ہونا - میر خسرو - چوزان نغمہ شد شاہ را گوش تر ٭ دران بیہشی گشت بیہوش تر ٭

گوش خاریدن - کان کھجانا - ٹھہر جانا - فکرمند ہونا - مولوی معنوی -

شاخ رشتہ بجوش اندرون ہمی نگرد + کہ ای فسردۂ غافل بیا و گوش بخار +

گوش دادن - کان دینا - سننا کسی بات کا - محمد قلی بیگ سلیم - دادہ گل گوشی بفریادم درین گلشن سلیم ٭ نالہ ام گویا بطرز عندلیبان آشناست ٭

گوش کردن - سننا اور متوجہ ہونا - حافظ - پیش کمان ابرو اش لابہ ہمی کنم ولے ٭ گوشہ گرفتہ است زان گوش بمن نمے کند ٭

گوش برتافتن - کان مروڑنا - آگاہ کرنا - ظہوری - اگر بلفظت بدل یافتند ٭ مبنی ترا گوش برتافتند ٭

گوش کشادن - کان کھولنا - آگاہ ہونا - ظہوری - گوشے بکشاے تا بگویم ٭ از بے خبران شو خبر ما ٭

گوشش گرفتن - تنبیہ ہونا اور اقرار اپنے جہل کا کرنا - صائب - ز حرف مردم بیگانہ گوش میگیریم ٭ باشنا زسخنہاے آشنا چہ رسد ٭

گوشۂ ابرو جنبانیدن - ابرو سے اشارہ کرنا - صائب - اگر برق تجلی گوشۂ ابرو بجنباند ٭ کہ از راہ کلیم اللہ سنگ طور بردارد ٭

گوشۂ چشم بچیزی کردن - التفات اور توجہ کرنا - حافظ - آنانکہ خاک را بنظر کیمیا کنند ٭ آیا بود کہ گوشۂ چشمی بما کنند ٭

گوشہ گرفتن - ایک طرف بیٹھنا - حافظ - عقل دیوانہ شد آن سلسلۂ مشکین کو ٭ دل زما گوشہ گرفت ابروی دلدار کجاست ٭

گوہرآگین - ہر ایک چیز جو مرصع ہو - نظامی - بر آمود گوہر بشکین کمند ٭ فرو ہشت بر گوہرآگین پرند ٭

گوہر بہ تیشہ شکستن - جواہرات کان سے نکالنا - نظامی - سخن تا نپرسند لب بستہ دار ٭ گہر نشکنی تیشہ آہستہ دار ٭

گوہر سفتن - موتی پرونا - ازالہ بکارت کرنا - سخن موزون اور آبدار کہنا - سعدی - پس از ملامت و شنعت گناہ دختر نیست ٭ ترا کہ دست بلرزد گہر چہ دانی سفت ٭

گوہر شکستن - اپنی دولت کو برباد کرنا - صائب - انصاف نیست گر بیتیمے شود غریب ٭ ورنہ شکستے گہر آبدار خویش ٭

گوہر کندن - گوہر کان سے کھودنا - نظامی - بگوہر کنی تیشہ را تیز کن ٭ عروس سخن را شکر ریز کن ٭

گوی ربودن - پیشدست ہونا - بڑھ جانا - سعدی - کہ سعدی کہ گوی بلاغت ربود ٭ در ایام بوبکر بن سعد بود ٭

گورخانہ - قبرستان - جہاں مردے دفنائے ہین - نظامی - چو کیخسرو از ملک پرداخت رخت ٭ نہادند اندران جایگہ جام و تخت ٭ ہمان گورخانہ زخارا گزید ٭ کہ آتش دران غار نتوان خزید ٭

گوشانہ - شکار گوشہ کمینگاہ - گھات لگانے کا موقع - حکیم نزاری -
دلا و چار صد مرد گزین داشت ٭ بہ چل گوشانہ دہ دہ در کمین داشت ٭
گوش دریدہ - وہ جسکو بجانے تہین - بے حیا بیحیا - راہ زنی میکند
گوش دریدہ از انکہ پسیلی بسیار خوردہ زخم طپانچہ چشید ٭
گوش کردہ - بات جو سن چکے ہوں - صائب - با پردہ ہای گوش
خود از ہوش کردہ ایم ٭ پندی کہ دادہ اند بما گوش کردہ ایم ٭
گوہر خانہ - خزانۂ پادشاہی - حکیم زلالی - چو شد در گوش
مقبولان درگاہ ٭ بمعنی گوہر خانۂ شاہ ٭
گوہر سفتہ - جو بات مشہور و معروف ہو - نظامی - دران نامیکان
گوہر سفتہ راند ٭ بسے گفتنی ہاے ناگفتہ ماند ٭
گواہ لباسی - وہ گواہ جو سچا نہو - صائب - بیک گواہ لباسی کہ ماہ مصر
آرد ٭ سیاہ کرد رخ دعوے زلیخا را ٭
گوہر آمای - ہستی بخشنے والا - پیدا کرنے والا - نظامی - تو ای گوہر آمای
چار از پیچ ٭ مسلسل کن گوہران در مزیج ٭
گوہر گرای - حاصل کرنے والا گوہر کا - نظامی - ازان کان جو گوہر گرای
آمدند ٭ چو گنجینہ داران بازجاے آمدند ٭

کاف فارسی باہاے ہوز

گہر لبفت - گوہر آگین - مرصع - جڑاؤ - فردوسی - قبا و کلاہ گہر لبفت
خویش ٭ دگر ہدیہ ہر چیز دہ گنج بیش ٭
گہرستان - جس جگہ سے گوہر حاصل ہوں - ظہوری - نخل نیان
غم و دیدہ تر بسر کار ٭ عالم از اشک ظہوری گہرستان گشتست ٭
گہر نیمرو - وہ موتی جو ایک طرف سے گول اور دوسری طرف
مسطح ہو - خان خالص - حق القدم گرفت گہر ہای نیمرو ٭ پاے
کسی کہ آبلہ زد در سراغ دوست ٭
گہر مہرہ - وہ مہرہ جو سانپ کے مغز سے نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ
مہرہ جسکے پاس ہو اُسکی دولت کو زوال نہیں ہوتا - طالب آملی -
بجز خامہ ات کا ورد در یاد ٭ گہر مہرۂ مار ار رقم کہ زاید ٭

کاف فارسی بایاے تحتانی

گیتی نورد - سیر کرنے والا - تمام جہان کا پھرنے والا - نظامی - جہان
مرزبان شاہ گیتی نورد ٭ برافروخت کاین داستان گوش کرد ٭
گیسو کمند - معشوق کی تعریف میں کہا جاتا ہے - حکیم زلالی - شبے چون
کاکل بالابلندان ٭ سواد از خم گیسو کمندان ٭
گیسو دار - معشوق کی تعریف میں بولا جاتا ہے -

گیوکش - کفش بردار - جوتے بردار - خادم اور جوتے چور - شرف الدین
شفائی - تاکی زیست بی مسرت ای غول گیوکش ٭ از روی این و آن ملامت خجل شوم ٭
گیسوی شمع - شمع کا دھوان جو سر سے نکلتا ہے - ملا گنجی جرباذقانی - گیسوے
شمع چو آتش نفسان شانہ زوند ٭ سلسلہ سنو چنگی بر پر پروانہ زدند ٭
گیسوے چنگ - چنگ کے تار - حافظ - گیسوی چنگ ببرید بمرگ
مے ناب ٭ تا حریفان ہمہ خون از مژہ ہا بکشایند ٭
گیتی آفرین - ذات خداوند جہان آفرین - میر مغربی - امام الحق کہ
او را آفرین گوئی ست در گیتی ٭ ہر آن کو طاعت یزدان گیتی آفرین دارد ٭
گیتی بان - گیتی ستان - گیتی کشاے - گیتی آرای - گیتی پژوہ -
گیتی پناہ - گیتی دار - گیتی خرام - بادشاہوں کی تعریف میں
بولے جاتے ہیں - نظامی - ہمہ کار شاہان گیتی پژوہ ٭ ز راے
وزیران پذیرد شکوہ ٭ ملا عبد اللہ ہاتفی - چو بگذشت زان
تہنیت چند گاہ ٭ خدیو جہان گیر گیتی پناہ ٭ نظامی - ہمہ کردہ
شاہ گیتی خرام ٭ درین یک ورق کاغذ آرم تمام ٭ کمال اسمٰعیل
بلند ہمت و بسیار دان و اندک سال ٭ جہان کشای ممالک ستان و گیتی دار ٭
گیراندن - مقید کرنا - حساب میں پکڑنا - گرفتار کرنا - محسن تاثیر -
میکند ادبار را اقبال روشن گوہری ٭ شمع در ہنگام گیراندن بدولت میرسد ٭
گیسو بریدہ - وہ عورت جو بے حیا اور شوخ ہو - والہ ہروی - شود پیدہ
جامہ دختر رز تہ نما بہین ٭ مستوری لباسی گیسو بریدہ را ٭

چوتھی فصل

اردو محاورات کے بیان میں

کاف فارسی باالف

گات اگنا - چھاتیان اُبھرنا - عورت کی بالغ ہونے کے نشان ظاہر ہونا -
گات سے ہونا - حاملہ ہونا - پیٹ سے ہونا -
گار اگانا - بڑی لمبی کہانی کہنا -
گاڑھ پڑنا - مصیبت آنا - آفت آنا -
گاڑھے بیٹھنا - گھات میں بیٹھنا -
گاڑنا - دفن کرنا مُردے یا کسی اور چیز کو زمین میں -
گابھ ڈالنا - خام حمل ڈال دینا -
گاڑھی چھننا - بھنگ گاڑھی چھننا - اختلاط باہمی بڑھ جانا - بنگ
پیکر خوب نشہ میں ہو جانا -
گاڑی جوتنا یا چلانا - کرایہ پر گاڑی چلانا -
گال بجانا - بیہودہ بکنا - شیخی کرنا - ڈینگ مارنا -

گال پچک جانا ۔ دبلا ہو جانا ۔
گال پر گال چڑھنا ۔ بہت موٹا ہو جانا ۔
گال توڑنا ۔ گال کاٹنا ۔ کسی کے گال چٹکی بھر لینا ۔ زور سے بوسہ لینا ۔
گال سوجانا ۔ غصے میں ہونا ۔ روٹھ جانا ۔
گالوں میں چالول بھرنا ۔ باتیں بنا بنا کر کرنا ۔ طعن وطنز کی تقریر کرنا ۔ مٹھار مٹھار کر بات کرنا ۔ جان صاحب ۔ وہ ایک دن تھا کہ میرے آگے فرشتوں کی تھی نہ دال گلتی ۔ پھرے ہیں گالوں میں اب تو چالول کرین ہیں باتیں چبا چبا کے ۔
گالی دینا ۔ برا بولنا ۔ دشنام دینا ۔ مولانا اکبر ۔ وہ گالی ہمکو دیتے ہیں مگر ہم ۔ عوض میں اُسکے دیتے ہیں دعائیں ۔
گالیوں کا جھاڑ باندھنا ۔ پے در پے گالیاں دیتے جانا ۔ پے در پے برا بولنا ۔ ذوق ۔ نہ جھاڑا غیر کو تونے کہ ہو کر جھاڑ لپٹا تھا ۔ مجھی پر گالیوں کا جھاڑ تونے بد زبان باندھا ۔
گانٹھ باندھنا ۔ گرہ باندھنا ۔ قول اقرار کرنا ۔ ایک بات پر قائم ہونا ۔
گانٹھ پڑنا ۔ گرہ لگ جانا ۔ آپس میں کسی بات پر ان بن ہو جانا ۔ صفدر رفو قانی ۔ کون کھولے انکو کنگھی کے بغیر ۔ زلف میں بیدڈھب ہیں گانٹھیں پڑ گئیں ۔
گانٹھ جوڑنا ۔ نکاح کرنا ۔ عقد پڑھانا ۔ منسوب کرنا ۔
گانٹھ باندھنا ۔ ایک بات قائم کرنا ۔ دل میں عہد کر لینا ۔
گانٹھ کا پورا ۔ مالدار آدمی ۔ دولتمند ۔ مؤلف ۔ آئے بازار محبت میں وہی ۔ عقل کا اندھا ہو پورا گانٹھ کا ۔
گانٹھ میں باندھنا ۔ اپنے قبضے میں کر لینا ۔
گانٹھ کا پیسا ۔ اپنا مال ۔ اپنا روپیہ ۔ محمد انور حکیم ۔ فی الحقیقت وقت پڑا ہی کام ۔ ہو جو پیسا خاص اپنی گانٹھ کا ۔
گانٹھ کاٹنا ۔ کیسہ کتر لینا ۔ جیب کتر لینا ۔ چوری و رہزنی کرنا ۔ کسی چیز کی قیمت اصل قیمت سے زیادہ لینا ۔ ٹھگنا ۔ لوٹنا ۔ قطعہ از مؤلف ۔ آجکل کے جو بدمعاش ہیں لوگ ۔ جیسے ہاتھ دم میں چاٹتے ہیں ۔ رستے چلتوں کی گٹھڑی لوٹتے ہیں ۔ راہ جاتے کی گانٹھ کاٹتے ہیں ۔
گانٹھ کھونا ۔ مال ضائع کرنا ۔ نقصان اٹھانا ۔ اپنی گرہ کا روپیہ خرچ کر بیٹھنا ۔
گانٹھ کٹنا ۔ جیب کتری جانا ۔ ٹھگا جانا ۔
گانٹھ کرنا ۔ اتفاق کرنا ۔ مال جمع کرنا ۔ جوڑنا ۔ غبن کرنا ۔ روپیہ الگ کرنا ۔
گانٹھ کھولنا ۔ صلح کرنا ۔ شکر رنجی دور کرنا ۔ خوب خرچ کرنا ۔
گانڑ پھاڑنا ۔ ناک میں دم کر دینا ۔ دق کرنا ۔

گانڑ پھٹنا ۔ کسی امر سے تنگ ہونا ۔
گانڑ پھٹ کر حوض ہو جانا ۔ کسی سے نہایت ڈرنا ۔ زیادہ خرچ کے باعث دیوالہ نکل جانا ۔
گانڑ چلنا ۔ پیٹ جاری ہونا ۔ دست آنا ۔
گانڑ رگڑنا ۔ سخت منت کرنا ۔ خوشامد کرنا ۔ سخت محنت کرنا ۔
گانڑ سے گھوڑا کھولنا ۔ گانڑ سے گل کترنا ۔ ناممکن الوقوع امر کے لیے بے فائدہ محنت کرنا ۔
گانڑ غلامی کرنا ۔ گانڑ چاٹنا ۔ گانڑ دھونا ۔ پرلے درجے کی خوشامد کرنا ۔
گانڑ کی خبر نہ رہنا ۔ غافل ہو کر سو جانا ۔
گانڑ گردن ایک ہو جانا ۔ محنت کرتے کرتے تھک جانا ۔ تنگ آجانا ۔ تھک کر چور ہو جانا ۔
گانڑ گلے میں آنا ۔ تنگ آجانا ۔ عاجز آجانا ۔
گانڑ میں انگلی کرنا ۔ دق کرنا ۔ ستا مارنا ۔
گانڑ میں گھسا جانا ۔ خوشامد کرنا ۔ للّو پتّو کرنا ۔
گانڑ میں لنگوٹی تک نہ رہنا ۔ مفلس محض ہو جانا ۔
گاؤ خورد ہونا ۔ تلف و برباد ہونا ۔
گاؤ زوری کرنا ۔ سانڈ کی سی طاقت دکھانا ۔
گاؤ غپ کرنا ۔ سب کچھ چر جانا ۔ مال غبن کرنا ۔
گاہکی پٹنا ۔ سودا بن جانا ۔ معاملہ ہو جانا ۔
گائے کا بچھیا تلے اور بچھیا کا گائے کے تلے کرنا ۔ حکمت عملی اور تدبیر کے ساتھ کوئی کام چلانا ۔
گانڑ جوڑ بخیہ ۔ نہایت گہری دوستی ۔
گانڑو کا حمایتی بھی کبھی جیتا ہے یعنی ناکارہ آدمی کا حمایتی کبھی نہیں جیتتا ۔

کاف فارسی با یائے

گپا کھانا ۔ کسی کا دم کھانا ۔ جماع کر لینا ۔
گپ گپ کھانا ۔ جلدی جلدی کھانا ۔

کاف فارسی با تا

گت بنانا ۔ کسی باجے کے سُروں کو گانے بجانے بولوں کے موافق کر لینا ۔ خوب پیٹنا ۔ برا حال کرنا ۔ سچ ۔ دکھا کر ناچ اپنا خود ہی دلوانہ کیا ہمکو ۔ ہمیں سے پوچھتے ہو پھر کہ یہ کیا گت بنائی ہو ۔
گت بھرنا ۔ راگ کے بول کے مطابق ناچنا ۔
گت ہونا ۔ کام میں آجانا ۔ خرچ ہو جانا ۔
گتھی پڑ جانا ۔ سوت کا الجھ جانا ۔ معاملہ پیچ در پیچ ہو جانا ۔

گٹ پٹ ہو جانا - آپس میں مل جانا -

گٹکری لینا - گانے کے وقت مسلسل آواز نکالنا -

گٹھری کرنا - جمع کرنا مال کا - حریف کو کشتی میں دوہرا کر لینا -

گٹھری مارنا - مال مارنا - چرانا - لوٹنا - ٹھگنا - فریب سے لینا -

گٹھوت گانٹھنا - سازش کرنا - مشورہ کرنا -

کاف فارسی با جیم

گجر دم ہونا - صبح ہونا - سویرا ہونا -

گجھا دبا بیٹھنا - فریب سے کسی کی دولت حاصل کرنا -

کاف فارسی با دال

گدگدی دل میں ہونا - خود بخود ہنسی آنا - شوخی جی میں آنا - صبا - سرمگیں آنکھوں کے بوسے لیے گستاخی سے ÷ گدگدی دل میں ہوئی اُنکی حیا نے پیدا ÷

گدگدی کرنا - انگلیوں کی حرکت بغل میں کر کے کسی کو ہنسانا - مومن - کیسی ہنسنے کا تصور ہے شب و روز کہ یوں ÷ گدگدی دل میں کوئی آٹھ پہر کرتا ہے ÷

گدھے پر چڑھانا - سوار کرنا - بدنام و رسوا کرنا -

گدھے کو حلوا کھلا کر لاتیں کھانا - بروں کے ساتھ نیکی کر کے برائی حاصل کرنا -

گدھے کے ہل چلوانا - کسی آباد جگہ کو مسمار کرنا -

گدی بھاننا - کسی کی گردن مارنا -

گدی سے زبان کھینچنا - ایک قسم کی سزا ہے جو بے رحمی سے دیجاتی ہے -

گدا بنانا - رسوا و بدنام کرنا -

گدھاپن - بیوقوفی - نادانی آدمی کی -

کاف فارسی با راے

گراں گزرنا - ناگوار ہونا - برا معلوم ہونا - مولانا اکبر - غیر جلسے میں بزم میں لیکن ÷ میرا آنا گراں گزرتا ہے ÷

گرد بیٹھنا - غبار کا جم جانا - خاک آلودہ ہو جانا - آتش - مجھ ناتوان کی خاک جو توسن ہوئی ہمرکاب ÷ اٹھ اٹھ کے بیٹھ بیٹھ گئی گرد راہ کی ÷

گردش میں آنا - تباہی یا مصیبت میں آنا - حکیم الور لاہوری - چرخ کے مانند دن اور رات چکر کھاتے ہیں ÷ گردش گردون دون میں جو کوئی آجاتے ہیں ÷

گرد کو نہ پہونچنا - برابر نہ ہو سکنا - مقابلہ نہ کر سکنا - سودا - غرض وہ گرم عنان ہو کے جب چمکتا ہے ÷ نہیں پہونچتی ہے برق اسکے گرد کو زنہار ÷

گردنا دینا - گردنی کی آنا - گدی پر ایک چانٹا لگانا -

گردن پر بوجھ ہونا - کسی کا احسان مند ہونا -

گردن پر خون ہونا - کسی کے قتل کا عذاب یا گناہ ہونا - صفدر زید فانی - بہت سے قتل کیے تیرے دست رنگین نے ÷ ہزاروں خون ہوئے ہیں حنا کی گردن پر ÷

گردن پھنسانا - کوئی ذمہ داری سر پر لینا - اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا -

گردن پھیرنا - نافرمانی کرنا - حکم نہ ماننا - نعتیہ از مولف - کون گردن پھیر سکتا ہے نبی کے حکم سے ÷ خم اطاعت میں ہے جنکی گردن گردون دون ÷

گردن توڑنا - کسی کو مارنا - کوٹنا - سزا دینا - حکیم الور لاہوری - سر جھکانا جو کوئی حضرت کے در پر چھوڑ دے ÷ ایسے گردن کش کی گردن کیوں نہ گردوں توڑ دے ÷

گردن جھکانا - اطاعت کرنا - فرمان برداری کرنا - سجدہ کرنا - پاؤں پڑنا - قطعہ از مولف - عزیز و غیر سے بچاؤ خدا کے ÷ قدم راہ طریقت میں بڑھاؤ ÷ سرافرازی اگر تم چاہتے ہو ÷ کرو سجدہ ادھر گردن جھکاؤ ÷

گردن کا ڈورا - ناچنے کے وقت گردن کی ایک انداز کے ساتھ جنبش -

گردن کا منکا ڈھلنا - قریب مرگ ہونا -

گردن کٹنا - مارا جانا - قتل ہونا - تباہ و برباد ہونا - حق تلف ہونا -

گردن مارنا - قتل کرنا - جان سے مار ڈالنا - مفتی حیدر لاہوری - سر جھکانا اُس خدا کے روبرو ÷ نفس او شیطان کو گردن مارنا ÷

گردن مروڑنا - قتل کر دینا - ذبح کرنا -

گردن میں ہاتھ دینا - پیار کرنا - اختلاط جتلانا - محبت ظاہر کرنا -

گردن میں ہاتھ دیکر نکالدینا - بری حالت سے بےعزت کر کے نکالدینا -

گردن ہلانا - کسی بات سے انکار کر دینا - ؎ - خدا کا مان لینا دل سے فرمان ÷ خبردار اُس سے مت گردن ہلانا ÷

گرد ہو جانا - مغلوب ہو جانا - پتہ نہ لگنا - شعر - مجنوں دشت گرد تھا مانند گرد باد ÷ ہمنے اڑائی خاک تو وہ گرد ہو گیا - نظیر - اپنے عالم میں یہ آٹا دال بھی کیا فرد ہے ÷ حسن کی آن و ادا سب اُسکے آگے گرد ہے ÷

گرفت کرنا - عیب پکڑنا - نکتہ چینی کرنا - قصور نکالنا -

گرگٹ کے سے رنگ بدلنا - ایک حالت پر نہ رہنا - گرگٹ جانور کے رنگ بدلتے رہنا - کبھی کچھ کبھی کچھ ہو جانا - بار علی - خورشید کیا کہوں انہیں آنکھوں کے سامنے ÷ گرگٹ کی طرح رنگ زمانہ بدل گیا ÷

گرم بولنا - غصہ سے بات کرنا -

گرم کرنا - حرارت پہونچانا - بھڑکانا - غصہ دلانا - تیز کرنا - گھوڑے کو ایڑ لگانا -

گرم ملنا - سر سری ملاقات کرنا - چلتے چلتے بات کرنا یا ان

عاشق سے گرم ملنا پھر بات بھی نہ کہنا ۔ کیا پھیر وقت ہو گیا ہو وفا میاں ہیں

گرم ہونا - غصہ ہونا - تیز ہونا - بگڑنا -

گرمیاں کرنا - محبت جتانا - اختلاط ظاہر کرنا - فریب عشق -
مجھے اب گھر کو جانے دیجیے آپ ۔ گرمیاں اور سے کیجیے آپ ۔

گرمی کرنا - شرارت کرنا - شوخی کرنا - غصہ کرنا - حرارت بڑھانا
رشک - مجھ سے گرمی بھی وہ کرتا ہے تو دوہری گرمی ۔ خود جلانا
مجھے خود آگ بیولا ہونا ۔

گرمی نکالنا - غصہ نکالنا - جماع کی خواہش کو مٹانا -

گرمی ہو جانا - حرارت بڑھ جانا - آتشک ہو جانا -

گرہ باندھنا - گانٹھ باندھنا - پلّے باندھنا - ناسخ - سفید رہی
اہل دنیا میں تو نایت کا رواج ۔ بس ہو تو مثل صدف باندھیں گرہ میں آپ کو

گرہ پڑ جانا - عداوت ہو جانا - دل میں بل پڑ جانا - سے - نہ کھلی
پڑ گئی تھی یار کے دل میں جو گرہ ۔ سعی ہر چند میرے ناخن تدبیر نے کی ۔

گرہ کا کھلنا - نقصان ہو جانا - مال تلف ہونا - صلح ہو جانا - غصہ دور ہونا -

گرہ لگانا - گانٹھ باندھنا - معاملہ بنانا - سودا کرنا -

گرہ میں پیسہ ہونا - مالدار ہونا -

گریبان پکڑنا - گریبان میں ہاتھ ڈالنا - گردن پکڑنا - سخت تقاضا کرنا

گریبان پھاڑنا - چاک کرنا - چاک چاک کرنا - دیوانہ ہو جانا -
کپڑے پھاڑ ڈالنا - ناسخ - پھر بہار آئی نکلیے گھر سے دامن جھاڑ کر ۔
سوئے صحرائے جنون چلیے گریبان پھاڑ کر ۔ سودا - کیونکر نہ چاک چاک
گریبان دل کروں ۔ دیکھوں جو تیری زلف کو میں دست شانہ میں ۔

گریبان میں منہ ڈالنا - چھپانا - اپنی حالت پر خود شرمسار ہونا -
اپنا عیب و صواب خود دیکھنا - درد - اے درد مراقبہ تو کرتے ہو
وہ کب اپنے گریبان میں منہ ڈال لیے گا ۔ جب اپنے گریبان
میں منہ ڈال کے دیکھا ۔ دل سے نہ زیادہ کوئی دشمن نظر آیا ۔ میر سوز -
گریبان میں ذرا منہ ڈال دیکھو ۔ کہ تم نے اس وفا پرست سے کیا کی ۔

گڑبڑ جھالا - بوندا باندی - بادل - ہوا - بیانی - بدنظمی - ابتری -

گڑبڑ کرنا - آپس میں ملا دینا - گڈ مڈ کرنا -

گڑگڑانا - بکسر ہر دو کاف منت خوشامد کرنا -

گڑگڑانا - بضم ہر دو کاف پیٹ کا بولنا - گڑگڑ کرنا - بدہضمی ہونا -

گڑنگ مارنا - ہانکنا - ڈینگ مارنا - شیخی بگھارنا -

گڑھا بھرنا - گذارہ کرنا - پیٹ بھرنا -

گڑھ فتح کرنا - قلعہ جیتنا - سخت مصیبت سے رہائی پانا -

گڑیا سنوارنا - غریبانہ بیاہ کرنا - یار نے لی گڑیا سنوار دی گئی
ارے بھیا مانگ کے ۔ مشاطہ کہ ادھر تو سر انجام ہو گیا -

گڑیاں کھیلنا - لڑکیوں کا کھیل کھیلنا -

گڑے مردے اکھاڑنا - پرانے جھگڑوں کو تازہ کرنا - دبی آگ کو
کریدنا - سودا - سودا کے ہوتے وامق و مجنون کا ذکر کیا
ظالم عبث اکھاڑے ہے مردے گڑے ہوئے ۔

گرہ بار - ولادت کا دن اور جمعرات کا دن -

گرم خبر - جو خبر پے در پے سنی جائے -

گڑیوں کا کھیل - آسان کام -

گرما گرم - جو چیز تازہ اور گرم ہو اور شوخ و شنگ معشوق -

گڑیوں کا بیاہ - غریبانہ شادی بے شرعی نکاح -

گرما گرمی سے - نہایت تیزی اور جوش سے -

گرم بازاری - خریداری کسی چیز کی -

گرم کپڑے - جاڑے کا لباس -

کاف فارسی با زائے معجمہ

گزر جانا - ہو چکنا - تمام ہونا - مر جانا - میر - تری ہی رہگذر میں ۔
جی جا رہا ہے شوخ ۔ سنیو کہ میر آج ہی کل میں گزر گیا ۔

گزی گاڑھا پہننا - غریبانہ گزران کرنا -

کاف با کاف فارسی

گگن کھیلنا - اونچا اچھلنا -

گگن ہونا - نہایت بلند ہونا - تارا ہو جانا

کاف فارسی با لام

گلا اٹھانا - لٹکا ہوا کوا گلے کا انگوٹھے سے اٹھا کر درست کر دینا -

گلا آنا - گلا چھل جانا - ورم ہو جانا - چھالے پڑ جانا - ناز میں - گلا
آ جائیگا تجھے کا میرے ۔ چپاتی روز خالی چسنیاں ہو ۔

گلا بیٹھ جانا - گلا پڑ جانا - آواز بھاری ہونا - ریزش ہو جانا - شعر
فریاد بلبل گلوں نے سنی ۔ گلا چیختے چیختے پڑ گیا ۔

گلا بندھانا - اپنے آپ کو کسی امر میں ذمہ دار کر لینا - قرضہ لینا -
نکاح کرنا - سے - زلف میں دل کو ہم پھنسا بیٹھے ۔ گلا اس
بند میں بندھا بیٹھے ۔

گلا بندھنا - کسی امر میں مقید ہو جانا - قرضدار ہو جانا - پابند ہو جانا -

گلا پڑنا - گلا سوج جانا -

گلابی جاڑا - خفیف سا جاڑا -

گلا پکڑنا - کوئی خراب چیز گلے سے نہ اُترنا -
گلا پھاڑنا - گلا پھاڑ کے بولنا - چیخنا - چلانا -
گلا پھرنا - گانے کے وقت زیر و بم آواز بخوبی نکلنا -
گلا دبانا - گلا مسوسنا - گھونٹنا - ناسخ - عشق مین یہ ہے کہ دم پیہ خفا ہوتا ہے ٭ گھونٹتا ہے جو کوئی سست گلا مینا کا ٭ بحر - سوا ئے صبر کیا چارہ جو وہ بیداد کرتے ہین ٭ گلا غیرت دباتی ہے اگر فریاد کرتے ہین ٭
گلا کاٹنا - قتل کرنا - ذبح کرنا - ظلم کرنا - ستانا -
گلا ہلانا - راگ گانا - گٹکری لینا -
گل بندھ جانا - خوب سلگ جانا لکڑی وغیرہ کا -
گل بہیان ڈالنا - گلے ملنا - محبت کرنا - پیار سے بغلگیر ہونا -
گل پھولنا - کوئی نئی بات پیدا ہونا - جان صاحب - باجی دن رات کا پھر وہی بکھیڑا نکلا ٭ کوئی گل پھولیگا پھر سوت کا چرچا نکلا -
گل تنگ ہونا - سر پر کھڑے ہونے تک کی خبر نہونا - نہایت غافل ہونا -
گل چلانا - قادر انداز جو شخص تیر نشانے پر لگائے - آتش - خال مشکین سے شکار اہل قلم کیجے ٭ گل چلے شیر سے کرتے ہین نیستان خالی ٭
گل چھرے اُڑانا - فضول خرچیان کرنا - عیش اُڑانا - اسیر - پائی دولت نال ادا قتل کیا مجھکو کیا ٭ خوب گلچھرے اُڑاتا ہے تیغ یار کا ٭
گل حکمت کرنا - مٹی سے کسی شیشے یا برتن کو خام کر دینا یعنی اسکو آگ مین رکھنے کے لیے مٹی لگا کر مضبوط کرنا -
گل دینا - داغ دینا -
گل دینا - لگانا - پھانسی دینا - مولف گلشن فیض - گلے لگے بت فرنگی کے ٭ وہ جب القتل ہین تو گل دیگا ٭
گل ڈب کرنا - غصب کرنا - مال مارنا -
گل کاٹنا - تراشنا - کترنا - لینا - شمع کا جلا ہوا حصہ قینچی سے کتر لینا -
گلکاری کرنا - پھول بوٹے بنانا -
گل کترنا - کاغذ کے پھول بنانا - انوکھا کام کرنا - ذوق - سوٹکڑے ہین ایڑی کے برنگ گل صد برگ ٭ کیا دشت نوردی مین کترتا ہے جنون گل ٭ جرأت - چھوڑا گلزار سے دور اور پر بلبل کترے ٭ ہائے صیاد جفا پیشہ نے کیا گل کترے ٭
گل کھانا - معشوق کے چھلے یا انگشتری وغیرہ کو گرم کرکے اپنے ہاتھ یا چھاتی یا پیشانی پر داغ دینا اور اسکو عشق اپنے کا نشان بنانا - ناسخ جا بجا ہین شاخ گل جھنا توان کو بلبلا مین کیا ہی خوش اسلوب مین نے اپنے تن پر کھائے گل ہین ٭ گل کھائے ہین معشوق کے چھلون کے نشان ہین ٭

ہاتھون پہ گمان ہے میرے طاؤس کے پر کا ٭
گل کھلانا - پھیلانا - کوئی نئی اور عجیب بات نکالنا - بحر - شاخین نکالی جاتی ہین اب بات بات مین ٭ دو چار دن مین دیکھیے کیا گل کھلائے رنج ٭
گل کھلنا - شگوفہ کھلنا - نئی بات ظاہر ہونا - برق - نہ چھوٹے تا قیامت گل کھلے طرفہ تماشا ہو ٭ لہو سے تیغ قاتل پر چمن بنجائے جوہر کا ٭
گلہ گزاری کرنا - کسی کی شکایت کرنا -
گلے بندھنا - شہد کا جمع ہونا - جوانی پر آجانا - دولتمند ہو جانا -
گلیان چھاننا - کوچہ گردی کرنا - واہی تباہی پھرنا -
گلے پر چھری پھیرنا - قتل کرنا - ذبح کرنا -
گلے پڑنا - بے مرضی کوئی چیز ہاتھ آنا - بحر - کچھ ایسی گلے پڑگئی ابرو کی محبت ٭ تلوار کا ڈورا رگ گردن نظر آیا ٭
گلی ڈنڈا کھیلنا - وقت ضائع کرنا -
گلے سے اُترنا - حلق سے اُترنا - نگلا جانا -
گلے کا ڈھولنا - گلے کا تعویذ - ناحق کا بوجھ - ناگوار چیز -
گلے کا ہار ہونا - لپٹ جانا - پیچھے پڑجانا - بحر - مین نام پھول کا لیکر کنارہ کش ہوا ٭ شرابِ جان کے قاضی گلے کا ہار ہوا ٭
گلے لگانا - چھاتی سے لگانا - آغوش مین لینا - پیار کرنا - نظیر - اک دن کہا یار کو مین پاکے اکیلا ٭ مرتا ہون مری جان گلے مجھکو لگالے ٭ منہ پھیر کے شرما کے لگا کہنے کہ اچھا ٭ کہنا نہ کسی سے یہ قسم پہلے تو کھالے ٭
گلے لگنا - گلے سے لگنا - ملنا - ہم آغوش ہونا - بغلگیر ہونا - ملاقات کرنا - ماہر - بس اب تو جانے دو رنجش گلے سے لگ جاؤ ٭ تڑپ رہا ہے یہ دل مرغ نیم جان کی طرح ٭
گلے منڈھنا - ڈالنا - لگانا - باندھنا - کوئی چیز کسی کو زبردستی سے دینا - نکاح کر دینا -
گلے مین اٹکنا - بدمزہ اور خراب معلوم ہونا - منھ مین نہ چلنا -
گلے مین زنجیر پڑنا - کسی معاملہ مین اپنی مرضی کے بغیر پابند ہونا - ناحق کسی آفت مین پڑجانا -

کاف فارسی با میم

گمان بھرا - مغرور و متکبر و خود نما -
گمر کرنا - غرور و تکبر کرنا -

کاف فارسی با نون

گنتی گنوانا - حاضری لکھوانا - نام درج کرانا -

گنج ڈالنا - گنج لگانا - انبار لگا دینا - ڈھیر لگا دینا - سحر - شعدم کی
راہ میں اک گنج ڈالئے اے بکر وہ ہمارے پاس نہ قارون کا خزانہ ہوا +
گن کٹنا - کسی مصیبت سے رہائی پانا -
گند نہ سہانا - کسی کی بو سونگھنے کو جی نہ چاہنا -
گندی باتیں کرنا - گالیاں دینا - بُرا بولنا -
گنگا جلی اٹھانا - ہندو کا قسم کھانا -
گنگا لابھ ہونا - گنگا پر جا کے مرنا -
گنگا نہانا - کسی مصیبت سے رہائی پانا - گنگا کا اشنان کرنا -
گن ماننا - احسان ماننا -
گنی بٹی اور نپا شوربا - گزارے کے موافق آمدنی -
گنڈے دار - بے قاعدہ - رلا ملا - نیک و بد -
گنبد کی آواز - جیسا کہنا ویسا سننا -
گنوار کا لٹھ - احمق و بیوقوف آدمی -
گنجے کو ناخون نہ دے - سفلہ کو خدا دولت نہ دیوے ورنہ لوگوں کو ستائیگا - سے - ملے دولت جو کمینے کو تو مشکل ہوگی ٭ یہ مثل سچ ہے خدا گنجے کو ناخون نہ دے ٭
گنگا جمنی - ہر ایک دو رنگی چیز سونے چاندی کا ملا ہوا زیور -

کاف فارسی با واو

گو اچھالنا - بے عزتی اور رسوائی کرنا -
گود پسار کے کوسنا - ہاتھ کھول کے بددعا دینا -
گود پھیلانا پسارنا - پلہ پھیلا کر سوال کرنا -
گودڑ گانٹھنا - پھٹے پرانے کپڑوں میں پیوند لگانا -
گودڑ میں گند ڈورا - گودڑ میں لعل - غریب آدمی کے گھر میں صاحب کمال بچہ - مفلسی کی حالت میں صاحب کمال - آتش - روا مکلفت ایام میں بھی قدر نیکوں کی ٭ پھٹے کپڑوں میں بھی ہم انکو سمجھے لعل گودڑ کا -
گود کا بچہ - شیرخوارہ -
گور کا منہ جھانک کر پھرنا - گور میں لات مار کر کھڑا ہونا - سخت بیمار ہو کر اچھا ہو جانا -
گورک دھندا - لوہے کے چند حلقے ایک دوسرے میں پڑے ہوئے جسکے کھولنے موندنے میں عقل چرخ ہوتی ہے - مصیبت کا کام - پیچیدہ امر - بکھیڑا - جھگڑا -
گور تڑھا - مردہ کی تجہیز و تکفین کا سامان میسر نہ ہونا - حال تہ بے کشتگان بیچاروں کا ٭ ہوا نہ گور گڑھا ان ستم کے ماروں کا ٭
گور کنارے جا لگنا - مرنے کے قریب پہونچنا - کیسر - ظلم ہوئے ہیں کیا کیا ہے صبر کیا ہے کیا کیا ہم ٭ آن لگے ہیں گور کنارے اسکی گلی میں جا جا ہم ٭
گور کے مُردے اکھیڑنا - پرانے واقعات بیان کرنا - آتش - کہتے ہیں ذکر لیلی و مجنوں جو چھیڑئیے ٭ چپ رہیے بس نہ گور کے مُردے اکھیڑیے ٭
گور گڑھا کرنا - مُردے کو دفن کرنا -
گوڑی پڑنا - پاؤں پڑنا - منت کرنا -
گوڑی پسار دینا - ہمت ہار دینا - سست ہو جانا -
گوڑی ٹوٹنا - چلنے کے طاقت نہ رہنا - تھک جانا -
گوڑی توڑنا - پھرنا - تھکانا - پاؤں توڑنا -
گوڑی جمانا - جگہ قائم کرنا - ٹھسّ جمانا -
گوڑی کرنا - مال حاصل کرنا - فائدہ اٹھانا -
گوز شتر سمجھنا - ناکارہ خیال کرنا -
گو سے گہنا ونا کر دینا - نہایت ذلیل کرنا -
گوشت سے ناخن جدا کرنا - رشتہ داروں میں عداوت و تفرقہ ڈالنا -
گوشت سے ناخن جدا ہونا - کسی امر محال کا واقع ہونا - غالب - دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال ٭ ہوگیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا ٭
گوشت کا لوتھڑا - موٹا اور بیوقوف آدمی -
گوش گذار کرنا - خبر سنا دینا - کان میں گو نکال دینا -
گوشمالی دینا - کان مروڑنا - گوشمالی -
گو کرنا - کپڑے میلے کر دینا -
گو کھانا - اغلام کرنا - جھوٹ بولنا -
گولا اٹھانا - قسم کھانے کے واسطے گرم لوہا اٹھا لینا جیسے کہ تیل میں ہاتھ ڈالنا
گولا دھار برسنا - سخت بارش ہونا -
گولر کا پیٹ پھڑوانا - بھید کھولنا - راز ظاہر کرنا -
گول کر کے - چھپا چھپا کر باتیں کرنا -
گول گول کہنا - صاف صاف بیان نہ کرنا -
گول مال کرنا - گڈمڈ کر دینا - ملا جلا دینا -
گول ہول ہو رہنا - خاموش ہو رہنا - جواب نہ دینا -
گولی بچا جانا - چالاکی سے کسی مصیبت سے بچ جانا -
گولی پلانا - بندوق میں گولی بھرنا -
گو موت کرنا - دایہ گری کرنا -
گوں گانٹھنا - نکالنا - مطلب برآری کرنا - جوں توں کام نکال لینا -

گونگے کا خواب یا سپنا - پوشیدہ بات جیسا کہ گونگا اپنے خواب کو ظاہر نہیں کر سکتا - اسیر - پوشیدہ دل کا حال ہو کیا سوچیے مآل + تعبیر کیا کہے کوئی گونگے کے خواب کی ؛

گونگے کا گڑ کھانا - چونکہ گونگا گڑ کی لذت بیان نہیں کر سکتا مطلب اس جملے کا خاموش رہنا کچھ نہ کہنا -

گوہار لڑنا - ایک آدمی کا بہت آدمیوں کے ساتھ لڑنا کیونکہ گوہار گروہ کو کہتے ہیں -

گول بات - پیچیدہ بات جسکا مطلب معلوم نہو -

گون کا یار - مطلب کا یار -

گولر کا پھول - نایاب چیز کیونکہ گولر کا پھول نہیں ہوتا -

گولی مارو - دفع کرو - دور کرو - لعنت بھیجو -

کاف فارسی یا ہا کے

گھات چلانا - جادو کرنا - موٹھ چلانا -

گھات مین رہنا - ہونا - بیٹھنا - کسی کے مارنے کی فکر مین ہونا - موقع تاکنا - حکیم انور - آدمی جانبر بھلا ہو کسطرح ؛ جب اجل رہتی ہو اسکی گھات مین ؛ صبح آ پکڑے گی وہ یا شام کو ؛ دن مین آ پہونچیگی وہ یا رات مین ؛

گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا - جا بجا پھرنا - ملک ملک کا سفر کرنا -

گھاس کاٹنا - کھودنا - بے سوچے جلدی سے کوئی کام کرنا - کام خراب کرنا -

گھال میل رکھنا - آپس مین اختلاط رکھنا - ربط ضبط - محبت پیار رکھنا -

گھال میل کر دینا - دو چیزون کو آپس مین ملا دینا -

گھاو بھر جانا - زخم اچھا اور نقصان پورا ہو جانا - فائدہ ملجانا -

گھائی بتانا - فریب دینا - ٹھگنا - دھوکا دینا -

گھائین مائین کر دینا - مال چھپا لینا - الگ کر دینا -

گھٹا کھٹنا - سود کم ہو جانا - سر کھوٹ جانا - تجارت مین نقصان ہو جانا -

گھٹا اُٹھنا - ابر چھا جانا - بادل گھر آنا -

گھٹتی کا پہرا - تنزل کا زمانہ - خراب وقت -

گھٹنون مین سر دبانا - شرمانا - افسوس مین ہونا - سوچ اور فکر مین پڑنا -

گھٹنون چلنا - بچون کی طرح چلنا - سست کام کرنا - کام مین رک رک جانا -

گھٹی مین پڑنا - کوئی عادت بچپن سے ہونا -

گھر آباد کرنا - شادی کرنا - نکاح کرنا -

گھر اچلنا - لگنا - بند سانس آنا - نزع مین ہونا - قریب المرگ ہونا - رشک - انکھین تری جو آئین تو بیمار چشم کو ؛ مرنے کے انتظار مین گھرا لگا رہا +

گھر بار کے ہونا - خانہ دار ہونا - عیال دار ہونا -

گھر بسنا - گھر آباد ہونا - شادی ہو جانا -

گھر بگاڑنا - گھر تباہ کرنا - بدکاری مین پڑ جانا -

گھر بگڑنا - عورت خاوند مین نا اتفاقی ہونا - عورت کا مر جانا -

گھر بنانا - مکان بنانا - دولت جمع کرنا - عورت کو گھر مین لانا - قطعہ از مؤلف - جبکہ رہنے کے لیے آئے نہین ہم دوستو ؛ اس مسافر گھر کو اپنا گھر بنا بیٹھے ہین کیون ؛ ایسے گھر مین باوجود درد و رنج و اضطراب ؛ اسقدر بے سوچے سمجھے دل لگا بیٹھے ہین کیون +

گھر بھرنا - دولت جمع کرنا -

گھر بیٹھنا - گھر کا مسمار ہو جانا - بیکار ہو جانا -

گھر پھٹنا - نا اتفاقی پیدا ہونا - ایک دوسرے کا دشمن بن جانا -

گھر پھوڑنا - نقب لگانا - چوری کرنا - گھر والون مین نفاق ڈال دینا -

گھر پھونک تماشا دیکھنا - روپیہ عیاشی و آتشبازی مین خرچ کر ڈالنا - اسیر - دل جلا کر رخ محبوب کا جلوہ دیکھا ؛ ہمنے گھر پھونک کے کیا خوب تماشا دیکھا

گھر تک پہونچنا - سراغ نکالنا - نشان معلوم کرنا - پیچھا نہ چھوڑنا -

گھر جانا - بکسر اول قابو مین آ جانا - مصیبت مین پھنس جانا -

گھر چڑھکر لڑنا - کسی کے گھر جا کر لڑنا - ذوق - مرے خیال پہ وہ چشم فتنہ گر چڑھکر ؛ یہ خانہ جنگ ہو آئی ہے لڑنے گھر چڑھکر ؛

گھر چلانا - گھر کا بند و بست کرنا - انتظام کرنا -

گھر دیکھ لینا - کسی کے گھر مانگنے کو بار بار جانا - مؤلف - مرگ نے چھوڑا بس کسی کو نہین ؛ اُسنے ہی سب کے گھر کو دیکھ لیا ؛

گھر سے دینا - اپنی گرہ سے دینا -

گھر سے کھونا - گھر کا روپیہ برباد کرنا -

گھر سینا - بیکار گھر مین بیٹھ رہنا -

گھر کا - اپنا - اپنی ملکیت کا - مؤلف - ساتھ لیجائیگا تو کیا اس سے + مال ہے جسقدر ترے گھر کا ؛

گھر کا آنگن بن جانا - برباد و تباہ ہو جانا -

گھر کرنا - مکان بنانا - عیالدار ہو جانا - ع - یون میرے دل مین چبھتی ہی دندان کی اسکی تاب ؛ ہیرے کی جیسے کنی کسی گوہر مین گھر کرے ؛

گھر کا بھولا - بڑا دانا - کنایت شعار اسکے معنی برعکس طنز آ لیے جاتے ہین

گھر کا نام ڈبونا - خاندان کو برباد کرنا -

گھر کی طرح بیٹھنا - دوسرے کے گھر مین اپنے گھر کی طرح آرام پانا -

گھر کیطرح رہنا - بے تکلف ہوکر رہنا - رشک - ادھر ادھر پڑے پھرتے ہو کیا نظر کیطرح + جو آئے ہو مرے گھر مین تو بیٹھو گھر کیطرح -
گھر کے گھر بند ہونا - وبا پڑ جانا بہت سے آدمی مرجانا -
گھر کے گھر رہنا - نقصان نہونا -
گھر گھالنا - گھر برباد کرنا ستیاناس کرنا - جرات - ابھی تو تجنے پردے ہی مین اک عالم کا گھر گھالا + مجھے یہ فکر ہے صورت دکھاؤگے تو کیا ہوگا -
گھر گھر مانگتے پھرنا - گدائی کرنا -
گھر مین آنا - حاصل ہونا مل جانا -
گھر مین ڈالنا - بیوہ عورت سے نکاح کرنا -
گھر والا - عورت کا خاوند گھر کا مالک -
گھری چھننا - گاڑھی بھنگ چھانی جانا پختہ دوستی ہوجانا یا بیمار علیل وقت ہونا
گھری کھٹنا - گاڑھی بھنگ گھولی جانا -
گھری نیند سونا - غافل ہوکے سونا -
گھڑیان گننا - انتظار کرنا راہ دیکھنا - جرات - وعدے پہ کوئی تیرے لیے شام سے سحر تک + آہین بھر اکیا ہی گھڑیین گنا کیا ہی -
گھڑی ساعت کا نقشہ ہونا - نزع کی حالت مین ہونا یا کلفت مین -
نواب رامپور - ترے کوچے مین مدت سے ہی ہمپر نزع کا عالم + گھڑی ساعت کا نقشہ تمنے دیکھا ہی یہین برسون -
گھڑی مین گھڑیاول ہونا - ایک گھڑی مین کچھ کا کچھ ہوجانا معاملہ دگرگون ہوجانا - منیر - ہروقت دگرگون ہی زمانہ کا حال + دنیا ہوجانا ہے مہینے سے ہو سال + امید ترقی کی تنزل مین رہی + اے کشتہ یاس ہے گھڑی مین گھڑیال -
گھس دینا - مارنا زدوکوب کرنا -
گھس لیس کر اترنا - لباس پھٹ کر اترنا -
گھسے گھسے پھرنا - مارے مارے پھرنا بیکار پھرنا -
گھس کھدا - گھاس کھودنے والا غریب آدمی -
گھس گھس کر چلنا - کپڑا مضبوط ہونا دیرپا ہونا -
گھس لگانے کو نملنا - کوئی چیز اسقدر بھی نملنا جو اسکو گھس کر لگاتے -
گھس مس کرنا - کانا پھوسی کرنا آہستہ باتین کرنا -
گھک کر بولنا - چمک کر بولنا بلند آواز نکالنا -
گھگی بندھ جانا - دہشت کے مارے بول نسکنا خوف آواز نکلنا -
گھل مل کر رہنا - اتفاق سے رہنا محبت سے رہنا -
گھمسان کی لڑائی ہونا - عام جنگ ہوجانا اپنے بیگانے کی تمیز نرہنا -

گھنٹہ ہلانا - بیکار بیٹھے رہنا کچھ کام نکرنا -
گھنگرو بولنا - مرنے کے قریب ہونا -
گھنگھور گھٹا - سیاہ بادل ابر تیرہ وتار - ناسخ - آگ برسے تو نہین جاے عجب فرقت مین + ہے دو دل سوزان نہین گھنگھور گھٹا -
گھن لگ جانا - مہلک بیماری ہوجانا - راحت - بھلی چنگی تھی مین یا گھن لگ گیا ہی جوانی مین + نگوڑے چیرے والے نے پھکائین دوا تیری +
گھنے رکھنا - کسی چیز کو گرو رکھنا -
گھوڑا اٹھانا - گھوڑا دوڑانا - سے حاسے کام لیجیے شکام فکر شعر + میدان کار زار مین گھوڑا اٹھایئے -
گھوڑا ابھر گیا - گھوڑا پسینے پسینے ہوگیا -
گھوڑا چڑھانا - بندوق کی جانب کو ٹاتے پر چھوڑانے کے لیے چڑھانا
گھوڑا ڈالنا - باگ ڈھیلی چھوڑ دینا -
گھوڑا مارنا - ایڑی یا چابک مارنا -
گھوڑے بیچکر سونا - بے فکری کی نیند سونا -
گھوڑے چڑھانا - ختنہ کی برات کرنا -
گھوڑے کی شادی کرنا - گھوڑا فروخت کردینا -
گھول پینا - شربت کی طرح گھولکر پی لینا کسیکا کہنا نہین سننا -
گھولنا گھولنا - کسی معاملہ مین دیر لگانا تعویق کرنا ڈھیل ڈالنا -
گھوسے مین پڑنا - کھیڑے مین پڑنا -
گھوسے مین ڈالنا - توقف مین ڈالنا -
گھونٹ لینا - پانی کا گھونٹ پینا یا حقہ کا دم لگانا -
گھونٹنا پلانا - حقہ کا لگانا -
گھونس دینا - رشوت دینا -
گھونگٹ کھانا - لڑائی سے پیٹھ پھیرنا - جرات - جون نقاب سینے الٹ اپنا لڑائی ہمسے آنکھ + فوج صبر وتاب طاقت وہین گھونگھٹ کھا گئی
برق غصہ سے جو ل زلف سیہ فام نے کھایا + سو مرتبہ گھونگھٹ سیہ شام نے کھایا
گھی سا - نہایت نرم اور چکنا -
گھی کا کپا لڑھنا - سخت نقصان ہونا کسی بڑے امیر یا بادشاہ کا مرجانا
گھی کا ڈورا - گھی کی دھار باندھی ہوئی -
گھی کھچڑی ہونا - آپسمین صلح ہوجانا -
گھی کے چراغ جلانا - خوشی منانا خوش ہونا - آتش - آنکھیں کیسے سری جو نور جمال یار + گھی کے چراغ طور کے اوپر جلاؤ دن مین
گھی کے چراغ جلنا - نہایت خوشی ہونا مانتا پوری ہونا مراد برآنا -

گھی کے کپّے سے جا لگنا - کسی مالدار سے ملاقات ہو جانا۔
گھر کی بات - آسان بات سہل کام۔
گھری بات - مشکل باریک بات۔
گھر کا مرد - خاندان ایک لائق آدمی۔
گھر گھر عید - عام خوشی عالمگیر خوشی - مولانا اکبر لاہوری - ہو گئے شہر بسے ہی کوچہ کوچہ شب برات + عید گھر گھر ہے ہلال ابرو سے دلدار سے۔
گھر کی مرغی دال برابر - گھر کی قیمتی چیز بھی مفت تصور کیجاتی ہے۔
گھن چکر - آتشبازی کا چکر اور آدمی جو بیوقوف اور احمق ہو۔
گھونگھٹ کی دیوار - پردہ کی دیوار۔
گھر کے لوگ - جورو بچے عیال و اطفال۔
گھوڑا انجاس مول - چیز تو گھر میں ہو اور مول بازار میں۔
گھڑی کی گھڑی میں - بہت جلدی۔
گھانس کھاؤ - میوہ فروش خریدار کو کہتا ہے کہ تم میوے کے لائق نہیں گھانس کھاؤ۔
گھر کا رستہ لو - چلتے ہو رخصت ہو گھر کو جاؤ۔
گھر گھسڑو - وہ شخص جو عورتوں میں بیٹھا رہے۔
گھامڑ ہی - گھامڑ اس گائے کو کہتے ہیں جسکو [illegible] کی بیماری ہو اور ہمیشہ ہانپتی رہے [illegible] اسکا بگڑ جاتا ہے اور آدمی [illegible] احمق۔
گھرباری - عیالدار کنبے والا۔
گھر بیٹھے - بے فکری کے ساتھ۔
گھر جلے کسیکا تاپے کوئی - نقصان ہو کسیکا فائدہ اٹھائے کوئی - [illegible] - آنکھیں سینکے باغبان دل میں لگے بلبل کے آگ + گھر کسیکا باغ عالم میں جلے تاپے کوئی۔
گھر کا آدمی - رشتہ دار قرابتی۔
گھر کا بھیدی - حال کا واقف محرم راز۔
گھر کاٹ کھاتا ہے - [illegible] دوڑتا ہے تنہا نہیں رہ سکتا جی نہیں لگتا دل اداس ہوتا ہے۔
گھر کی کھیتی - اپنی چیز موروثی مال - شیفتہ - اے زاہد اگر ریش منڈواؤ + نکل آئیگی پھر ڈاڑھی کہ ہے گھر کی کھیتی ہے۔
گھر والی - گھر کی مالک منکوحہ عورت۔
گھڑی گھڑی - بار بار دم بدم۔
گھوٹی مسیّبی - [illegible] مسکین بیگم [illegible]

کاف فارسی با یاے

گیا بچہ ڈالنا - گابھ ڈالنا - اسقاط حمل ہونا۔
گیا گذرا - نکما ناکارہ بیکار خراب بُرا - میر - کوچۂ یار سے بجا [illegible] کیسی ہی ہو نکلے ہم گئے گذرے - میر سوز - سوز کے قتل پر کمر مت باندھ ایسا جانا ہے کیا گیا گذرا۔
گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا - اچھا موقع بار بار نہیں ملتا اور جو وقت گذر جاتا ہے پھر ہاتھ نہیں آتا - میر حسن - سدا عیش دوران دکھاتا نہیں + گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔
گئی کرنا - درگذر کرنا پہلو تہی کرنا جانے دینا کمی کرنا غفلت کرنا - رشک - عشق کیا صبر و تحمل کی اگر بات گئی + ظلم میں تو بھی اگر اوس بت بدذات گئی - ولہ - اسکے ستم کی چاہیے فریاد کچھ نہ کچھ + روز جزا ہے آج تو اے دل گئی نہ کر۔
گئے گذرے ہونا - بیکار ہونا ناواقف ہونا رو بزوال ہونا رقم ڈوب جانا۔
گیدڑ بھبکی - گیدڑ کی سی خالی [illegible] اوری خالی دھمکی - ناسخ - [illegible] اعدا کی گیدڑ بھبکیاں + الغیاث اے شیر یزدان الغیاث۔

ستائیسواں باب

حرف لام کے بیان میں اسمیں پانچ فصلیں ہیں

پہلی فصل

فارسی عربی وغیرہ لغات کے ذکر میں

لام با الف

لا - عربی لفظ ہے فارسی میں اسکے معنے نیست اور اردو میں نہیں - حکیم انور لاہوری - لا بخوان و کن نفی کون و مکان + تا بہ الا اللہ شود اثبات آن۔
لالا - بندہ و غلام و خادم و روشن و تابندہ با لحاق لفظ لولو - سعدی - زابر انگند قطرۂ سوے یم + ز صلب آورد نطفۂ در شکم + ازان قطرہ لولوے لالا کند + وزین صورتے سرو بالا کند۔
لالسرا - خواجہ سرا جسکا عضو تناسل کٹا ہوا ہو۔
لالکا - کفش یعنے پاپوش و تاج خروس کا۔
لابرلا - تو بتو تہ بتہ۔
لادوا - جسکی دوا نہو مہلک بیماری - توحید - از تو میخواہد دوائے درد دل ہر لادوا + چارہ جو ید از تو ہنگام بلا ہر مبتلا۔

لازب - چپکنے والی چیز چسپان ہونے والی اور وہ مٹی جسکا
نشان اچھے ہونے کے بعد بھی قایم رہے -
لاریب - بے شک و بے شبہہ -
لاب - یونانی زبان مین آفتاب اور نام ادریس علیہ السلام کے
فرزند کا اور نام ایک حکیم کا جسنے اسطرلاب ایجاد کی تھی نیز بمعنے
لابہ یعنے خوشامد و تملق - علی خراسانی - چہ بزم ستارہ ز مژگان
بہر سو + شود تر ز مژگان من دامن لاب -
لاجواب - جسکا جواب نہو بے نظیر لاثانی - توحید - لاجوابی
لاجوابے لاجواب + بے حسابے بے حسابے بے حساب + گاہ از ذرہ
شوی پرتو فگن + گاہ روشن میشوی از آفتاب + مستفیض از فیض
تو خورد و کلان + ذرہ و خورشید و دریاے و حباب -
لاعب - کھیلنے والا -
لاک پشت - کچھوا جو ایک دریائی جانور ہی -
لات - ایک بت کا نام ہی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم اسکو
پوجتی تھی - سعدی - نہ از لات و عزے برآورد گرد + کہ
توریت و انجیل منسوخ کرد -
لاہوت - عالم ذات جو سالک کو اس مقام پر فنا فی اللہ کا رتبہ
حاصل ہوجاتا ہی - قطعہ از مولف - گہے در کسوت ناسوت
بودیم + گہے در عالم ملکوت رفتم + گذشتم چون ز جولانگاہ جبروت
شدم فانی بود در لاہوت رفتم -
لاہوت - جسکو موت نہو خداے جل شانہ کی ذات
لاج - برہنہ یعنے ننگا - اور رشوت جو کسی کام مین لیجاسے اور سنگ لاچ یعنے کمتیا -
لاح - بازی و فریب و ظرافت -
لایح - چمکتا ہوا اور روشن -
لاقح - بکسر قاف آبستن یعنے حاملہ اور وہ ہوا جو ابر سے پیدا ہو -
لاخ - جگہ اور مقام مگر بغیر ترکیب کے نہین بولا جاتا ہی چنانچہ سنگ
لاخ پتھریلی زمین اور دیو لاخ دیوؤن کے رہنے کی جگہ -
لامخ - نوح علیہ السلام کے باپ کا نام ہی جو ملک کا بیٹا تھا چونکہ
لامخ اپنے باپ کے روبرو مرگیا تھا نوح کو ملک نے پرورش کیا -
لابد - ناچار ناگزیر ضرور ضرورہ لفظ عربی مین ترجمہ ناچار کا ہی
کیونکہ لا کلمہ نفی کا ہی اور بد کے معنے چارہ -
لاد - دیوار کا ردہ اور دیوار اور آبادی اور پھول اور شگوفہ
اور قلعہ و حصار اور اصل ہر چیز کا وجہ و سبب اور نام ایک قسم کے
دیبا کا جو نہایت لطیف ہوتا ہی اور مٹی جسکو عربی مین تراب کہتے ہین -
لاتعد - بیشمار و بے حساب -
لاغر - بے گوشت دبلا مقابل فربہ کے - صائب - میکند چون موے آتش
دیدہ مشق پیچ و تاب + رشتہ زنار از شرم میان لاغرش -
لاچار - ناگزیر مگر اسکی ترکیب غلط ہی ناچار صحیح و درست ہی -
لاہور - مشہور شہر دار السلطنت ملک پنجاب ہی اور مسکن مولف کتاب
ہذا کا - مولف - معدن فیض شہر لاہور ست + منبع فضل و مطلع نور ست -
لال شہباز - ایک ولی کا نام ہی جسکو لال شہباز قلندر کہتے ہین مزار اسکا سندھ کے ملک مین ہی -
لاقیس - نام ایک شیطان کا ہی جو نماز کے وقت ولین و سوسے اٹھاتا ہی -
لاس - وہ ابریشم جو کم قیمت ہو -
لاغوش - خرگوش جو مشہور جنگلی جانور ہی -
لالس - بہروولا م نام ایک ابریشمی کپڑے کا اور چہرہ انسان کا جسکو
وجہ کہتے ہین -
لامس - لمس کرنے والا چھونے والا -
لاش - ہیچ و ناکارہ مخفف لاشے اور جسم مردہ کا اور تاخت و تاراج
و ضایع و زبون و فرومایہ و بے اعتبار -
لامع - روشن و درخشان یعنے چمکتا ہوا -
لاذع - بکسر ذال سوزان اور سوزندہ جلتا ہوا اور جلانے والا -
لاغ - ہزل ظرافت خوش طبعی ہنسی مسخری - سعدی - اگر مرد لہوست
بازی و لاغ + قوی تر شود دیوش اندر دماغ -
لادغ - ایک بیماری کا نام ہی -
لاف - وہ کلام جو فضول ہو اور اس سے خودستائی و خود آرائی ہویدا
پائی جاے اور دعوے بے اصل - عواصی یزدی - ماہ تمام داشت
بروے تو لاف حسن + زد وقت صبح گاہ برو خندہ آفتاب -
لاحق - وہ چیز جو پیچھے سے آکر ملے - ذوقی - باز دارد بندہ را از قرب
حق + آن تعلق ہا کہ لاحق میشود -
لاصق - لگا ہوا ملا ہوا پیوند کیا ہوا -
لایق - صاحب لیاقت و سزاوار - سہ - از لیاقت آدمی لایق بود +
سرکہ دارد شوق او شایق بود -
لالنگ - زلہ و لیس خوردہ یعنے جھوٹا کھانا اور گدائی کے ٹکڑے -
لامک - وہ پگڑی جو پگڑی کے اوپر باندھین -
لادک - بفتح دال و ہ بڑا طشت جسمین آٹا گوندھتے ہین -
لال - بفتح اول سرخ اور گونگا جو بول نسکتا ہو - توحید - در گلستان

جہان ہر ماہ و سال + چار سو روشن از و نور جمال + خامہ در تحریر وصفش سینہ چاک + در ثنا نوک زبان ہر وقت لال -

لاعقل - احمق و بیوقوف -

لاطائل - بیفائدہ -

لایزال - جسکو زوال نہو ذات الہی - توحید - حضرت خلاق اکبر لایزال + لاشریک و بے نظیر و بے مثال -

لاحل - نہایت مشکل -

لاحول - نہیں ہے طاقت کلمہ نفرت کا ہے -

لائم - ملامت کرنے والا -

لاعلم - جو علم و عقل نرکھتا ہو -

لام - نام ایک حرف کا حروف تہجی سے جسکے عدد تیس ہیں اور بہت سی ہیں جمع لامہ کی جسکے معنے زرہ کے ہیں اور ہندے کی ٹوپی جو فقرا سر پر رکھتے ہیں اور زیورا اور زینت اور آرائش و کمربند و میان بند اور وہ لام جو عنبر اور مشک و سپند سوختہ و نیل والا جورد کی سیاہی سے لڑکون کی پیشانی پر دفع چشم زخم کے لیے لکھد یتے ہیں - انوری - سخت چون الف ندارد ہیچ چہ کشی از پے قبولش لام -

لاجرم - ناگزیر و بالضرور و لاعلاج کیونکہ لا کلمہ نفی کا ہے اور جرم بالفتحتین چارہ و علاج سعدی - لاجرم مرد عاقل و کامل + ننہد بر حیات دنیا دل -

لازم - جو ہمیشہ ساتھ کسی چیز کے ہے مقابل متعدی - اسیری لاہجی - معشوق می آرد بکف + ہر کہ باشد لازم درگاہ عشق -

لاتسلم - کلمہ انکار ہے یعنے ہم نہیں مانتے - سعدی - فقیہان طریق جدل ساختند + لم و لا نسلم در انداختند -

لاو نعم - نیست و بلے نہیں اور ہان - سعدی - گشادند باہم در فتنہ باز + بلا و نعم کردہ گردن فراز -

لالایان - خدمتگاران بہت سے نوکر چاکر -

لاشکن - نام ایک پہاڑ کا ہے -

لاچین - ترکی میں شاہی شکاری -

لادن - بفتح دال عنبر عسلی جو ایک قسم خوشبو کا ہے -

لارجان - ایک پہاڑ طبرستان میں ہے متعلق ولایت مازندران وہان ایک چشمہ پانی کا ہے اور چشمہ سے پانی قطرہ قطرہ گرتا ہے گرتے ہی پتھر بنجاتا ہے -

لاغون - خرگوش جو مشہور جانور ہے -

لامان - ژندی زبان میں نان یعنے روٹی -

لان - جگہ و مقام و محل و انبوہ و غار و مغاک -

لابن - شیر فروش دودھ بیچنے والا -

لاوہ - سفیدی جس سے دیوارین سپید کرتے ہیں -

لالو - نردبان و زینہ پایہ اور نام ایک بچون کے کھیل کا کہ مٹی اور لکڑی سے بناکر تاگے کے ساتھ زمین پر چکراتے ہیں -

لابہ - تملق و چاپلوسی و فریب و خواہش و فروتنی و عجز و اخلاص اور دم ہلانا کتے کا میر خسرو - کار زدست شد مرا دست بکار در نشد + لابہ نمودمش بسے ہیچ بیار در نشد

لاشہ - زبون و لاغر و ضعیف حیوان و انسان خصوصا گدھا اور مردہ آدمی اور حیوان کا - سعدی - وان پیر لاشہ را کہ سپردند زیر خاک + خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند -

لادہ - بدال مہملہ احمق و بیوقوف -

لالہ - مشہور پھول ہے جسکے بہت سے اقسام کتابون میں لکھے ہیں - محمود - اے داغ بر دل از غم خال تو لالہ را + شرمندہ ساختہ آہوے چشمت غزالہ را -

لانہ - خانہ زنبور بھڑون کا چھتہ سعدی - شنیدم کہ شخصے غم خانہ خورد + چو زنبور در سقف او لانہ کرد -

لاخمیر - ایک گھاس شیر دار کا نام ہے اور بیہودہ گو عورت -

لاہرہ - ایک قسم کی کشتی کا نام ہے جس سے عبور دریا کرتے ہیں

لاحقہ - جو چیز پیچھے سے ملی ہو -

لامحالہ - بالضرور -

لامسہ - نام ایک قوت کا ہے جلد بدن میں جس سے ادراک نرمی و سختی و سردی و گرمی کا ہوسکتا ہے -

لامہ - زرہ آہنی جسکو سپاہی جنگ میں پہنتے ہیں -

لاوہ - بفتح واو وہ کھیل بچون کے جسکو ہند میں گلی ڈنڈا کہتے ہیں -

لادہ - بفتح دال ایک گھاس ہے جسکے پوست سے رسیان بٹتے ہیں ہند میں اسکو سن کہتے ہیں -

لایہ - پردہ دیوار کا اور کپڑے کی تہ -

لازقہ - چپکنے والی چیز مثل سریش وغیرہ -

لالی - دُرد یعنے شراب کا میل جو نیچے بیٹھ جاتا ہے - خواجہ آصفی - نرخت لالے محتسب زد بر گذشت + رسیدہ لود بلاے و لے بخیر گذشت

لآلی - بفتح اول و الف ممدودہ بروزن بحالی جمع لولو بڑے موتی اور بضم اول جیسا کہ مشہور ہے خطا ہے - سعدی - بر گل سرخ از شبنم افتاد لآلی + ہمچون عرق بر عذار شاہد غضبان -

لالی - بروزن حالی فرید علیلال کا گنگ جو زبان سے نہ بول سکے - اسیر لاہجی - شد طوطی ناطق با فصاحت + در وصف رخ تو گنگ و لالی -

لامانی ـ زره پوشی و فریب و دروغ و گزاف ـ

لانی ـ لان کا رہنے والا اور لان ایک پہاڑ ہی مضافات آذربائجان مین اور تریاک لانی منسوب اسکے ساتھ ہی ـ

لابدی ـ نہایت ضروری ہونے والی بات ـ مولف ـ ضروری ست از دار فنا سے سفر ✦ ز دنیاے دون رفتنت لابدی ست ـ

لائی ـ کیچڑ اور گارا جو حوضون کی تہ مین بیٹھ جاتا ہی اور شراب کا میل اور تہ گر کی اور بات و کلام اور نام ایک قسم کے بافتہ ابریشمی کا ـ

لاابالی ـ شخص بیباک و بے پروا ـ

لام با باے موحدہ

لبا ـ بکسر اول خلہ یعنے غلیظ دودھ جو بعد بچہ دینے چارپائی کے تین روز تک دوہا جاتا ہی ہندی مین اسکو کھیس اور پیوسی کہتے ہین ـ

لب چرا ـ چنے اور میوہ وغیرہ جو شراب پینے کے وقت مجلس مین رکھا ہوا ہوتا ہی اور بعد پینے پیالہ شراب کے اس سے تبدیل ذائقہ کرتے ہین ہندی مین اسکو چینہ کہتے ہین ـ

لب ـ بضم اول و تشدید ثانی عقل و خلاصہ و مغز ہر چیز کا اور مغز بادام ـ

لب ـ بفتح ہونٹھ عربی مین جسکو شفت کہتے ہین ـ میرزا صائب ـ کہہ بلاے آلود بلاے دل و جان ست ✦ زان تیغ حذر کن کہ بخون تر شدہ باشد ـ

نظامی ـ لب از نار دانہ دلاویز تر ✦ زبان از تبرزد شکر ریز تر ـ

لبالب ـ بھرا ہوا پیالہ وغیرہ ـ سہ ـ خسرو سبیل توام مست شبانہ لبت یکدو لبالبم بدہ تا بخمار در کشم ـ

لب بلب ـ بھرا ہوا پیالا اور آدمی جو خاموش ہو ـ طاہر وحید شمشیر گری کی تعریف مین سہ ـ پے دشمنان بخت آشی عجب ✦ زما ہیچہ و کان شدہ لب بلب ـ

ذوقی ـ سگے در حیرت و گہ در غضب بود ✦ ہمیشہ سبز الو لب بلب بود ـ

لباب ـ مغز و خلاصہ ہر چیز اور نام ایک کتاب کا ـ

لبوب ـ بہت سی چیزون کی خلاصی اور مغز ـ

لبیب ـ بروزن نصیب صاحب مغز و دانا و لئیق ـ

لبلاب ـ عشق پیچان جو مشہور بیل ہی ـ

لباسات ـ جمع لباس جیسا کہ نباتات و جمادات جمع نبات و جماد کی ہی ـ

لبث ـ بہ ثاے مثلثہ درنگ اور دیر کرنا ـ

لباد ـ بضم اول آلہ لکڑی کا جو بیلون کی گردن مین باندہ بہلی یا ہل چلاتے ہین ہندی مین اسکو جوا کہتے ہین اور پنجابی زبان مین پنجالی ـ نظامی ـ کشاورز گاو بند و لباد ✦ ہم از گاو آہن بجوید مراد ـ

لباد ـ بفتح بارانی جامہ جو نمدے سے بناتے ہین ـ

لبد ـ بضم اول و فتح ثانی بہت سا مال جو جمع رکھا ہوا ہو ـ

لبید ـ چھوٹی سی گون جسمین غلہ بھرتے ہین اور نام ایک شاعر عرب کا ـ

لباس ـ پہننے کے کپڑے ـ صائب ـ لباس فقر بر خاکی نہادان زود می چسپد ✦ کہ آسان بر زمین نرم نقش بوریا بندد ـ

لبس ـ بضم و فتح اول پوشاک پہننا ـ

لبس ـ بکسر اول پوشاک و لباس ـ

لبیش ـ وہ رسی کا چھینکا جو گاے و بیل کے منہ پر چڑھا دیتے ہین تا کہ رستہ چلتے کسی کھیتی مین منہ نہ ڈالے ـ

لبق ـ زیرکی و ہشیاری ـ

لبیک ـ حاضر ہون یہ کلمہ حاجی بار بار عرفات مین کہتے ہین ـ

لبنک ـ دیمک جو ایک جانور زمین مین ہوتا ہی اور لکڑی وغیرہ کو کھا جاتا ہی ـ

لبن ـ بفتحتین شیر یعنے دودھ بکری گاے بھینس وغیرہ کا ـ

لبن ـ بفتح اول و کسر ثانی جمع لبنہ بہت سی کچی اینٹین ـ

لبان ـ ایک گوند کا نام ہی جسکو کندر کہتے ہین ـ

لبون ـ شیردار دودھ والا جانور ـ

لبنان ـ نام ایک پہاڑ کا شام مین ـ

لبینلیون ـ ایک دوا کا نام ہی جسکو شیترہ و شیترج کہتے ہین ـ

لبان ـ چمکتا ہوا اور روشن اور وہ روشنی جو پے در پے ظاہر ہو ـ

لبلبو ـ چقندر جو مشہور چیز ہی ـ

لبشہ ـ حلقہ ریسمانی جو گاے بیل وغیرہ کے منہ پر باندھ دیتے ہین تا کہ وہ کسیکی کھیتی مین منہ نہ ڈالے ـ

لبنہ ـ بکسر اول خشت یعنے اینٹ ـ

لباچہ ـ بالاپوش اور نام ایک قسم کی قبا کا ـ

لبادہ ـ جوا جو بیلون کی گردن پر باندہ ہل چلاتے ہین ـ کمال اسماعیل ـ آتش خشم تو چون زبانہ برآرد ✦ شیر فلک بر نہد ثگا و لبادہ ـ

لام با تاے

لت ـ مارنا کوٹنا شلاق کرنا اور لوہی گرز اور نام ایک قسم کے کپڑے کا اور پارہ یعنے ٹکڑا اور نام ایک دریا کا دیلمان کے ملک مین اور شکم یعنے پیٹ اور پا لون یعنے لات ـ صفدر فوقانی ـ برین دولت بزرگ لت گر تو مروی ✦ مشو مر گز لت انبان و لت انبار ـ

لتر ـ نیم مین تبریزی جو تین مثقال ہوتا ہی اور وہ برتن جسمین شراب وغیرہ رکھین

لتنبر ـ لتنبار ـ بندہ شکم پر خوار سست و کاہل ـ

لترہ ـ پارہ پارہ دریدہ کہنہ کپڑے اور آدمی جو موٹا ہو [illegible]

لَتّہ ۔ پرانے کپڑے کا ٹکڑا۔

لام با تاے مثلثہ

لَثَق ۔ تر ہونا نمناک ہونا بھیگ جانا ہوا کا ٹھہر جانا۔
لَثّوم ۔ چومنا بوسہ دینا۔
لِثَہ ۔ مسوڑا دانتوں کے پاس کا گوشت۔
لَثقہ ۔ تپ بلغمی ایک بیماری ہے۔

لام با جیم

لَجاجَت ۔ مبالغہ کرنا بار بار کہنا ۔ حکیم انور لاہوری ۔ پیش دنیادار هر دو اہل دین + بہر دنیا کے لجاجت میکنند۔
لَجاج ۔ ستیزہ و تکرار و لڑائی جھگڑا ہے۔
لُجَج ۔ بضم اول و فتح ثانی جمع لجہ جسکے معنی دریاے عمیق کے ہیں۔
لَجوج ۔ تکرار کرنے والا بار بار کہنے والا۔
لَجلاج ۔ وہ شخص جو اچھی طرح کلام نکر سکے زبان اسکی بولنے میں پھسلتی ہو اور نام اسکا جسنے بازی شطرنج کو ایجاد کیا بعض کے نزدیک یہ نام قمارباز شطرنج پیشہ کا ہے ۔ سنجر ۔ سنجر کسی نبرد زمین داداین قمار + در نرد عشق بازی طرح لجلاج دادہ ام
لَجَم ۔ لب یعنی ہونٹھ اور نام ایک قوم کا جنکے بزرگ چھاتی ننگی رکھتے تھے۔
لَچَک ۔ رومال منہ پونچھنے کا جو مربع ہوتا ہے اور تکلف سے کام اسپر کیا ہوتا ہے عورات اسکو سرپر بھی باندھ لیتی ہیں یحیی شیرازی ۔ وفا از زن طلب کردن ز نامردی بود یحیی + کہ می بینی کہ چرخ از ماہ نو بر سر لچک دارد۔
لِجام ۔ معرب لگام عنان بھی اسکو کہتے ہیں ۔ والہ ہروی ۔ زیر فلک سر چہ ہست گشتہ مسخر ترا + کردہ شکوہت لجام در سر این چار وا۔
لُجَم ۔ کیچڑ جو حوضوں اور تالابوں کی تہ میں بیٹھ جاتی ہے اور کچا انگور جو پختہ نہو۔
لُجَین ۔ خالص چاندی جسمیں کھوٹ نہو۔
لَجِن ۔ بفتح اول کیچڑ اور وہ چیز جسکو کیچڑ لگا ہوا ہو۔
لَچَّن ۔ قحبہ و فاحشہ عورت اور برہنہ
لُجَّہ ۔ بضم اول و تشدید جیم دریا میں وہ جگہ جہاں پانی عمیق ہو ۔ طالب آملی ۔ کشش گرد القدر با لجہ غم جانب ساحلت + کہ دل در زیر بار نالام غرق سیاہی شند
لَچّہ لُچّی ۔ زانی و برہنہ ۔ ناظم ہروی ۔ صد رہنہ کر کسا دشود جسن کوش لچّی ستر ہا و ہمہ لچّہ لچ بملک عراق ہے ۔ فوقی یزدی ۔ از لچّہ بسیوان کرد کام از لچگوہا حاصل + یارب کہ ہیچ مغلس بے سیم و زر نباشد۔
لُجّی ۔ آب عمیق گہرا پانی اور بڑا آب دریا۔

لام با حاے حطی

لِحا ۔ جمع لحیہ بہت سی داڑھیاں۔

لَحَد ۔ گور یعنی قبر جسمیں مردہ کو دفن کرتے ہیں ۔ قطعہ ۔ سحکیس از مال دنیا نبرد زین جہان + مال دنیا در لحد با خود نبرد + گرچہ از عالم فانی سفر نقد و جنس خود بدیگر سپرد
لِحاظ ۔ بکسر لام آنکھ میں رکھنا کسی چیز کو دیکھتے رہنا۔
لَحاظ ۔ بفتح اول دنبالا آنکھ کا۔
لِحاف ۔ بالاپوش و پر پہننے کا کپڑا ۔ نظامی ۔ لحافی برافگند بر پشت بور + در آمد بزین آن تن پیل زور۔
لُحوق ۔ ملاحق ہونا پیچھے سے ملنا۔
لَحم ۔ گوشت یعنی ماس ۔ سلو حیدر ۔ تو در عظمی تو در لحمی تو در عصبی تو در شحمی + تو در روحی تو در جانے تو در جسمی تو در اعضا۔
لَحیم ۔ پر گوشت فربہ موٹا آدمی اور جانور ۔ ذوقی ۔ روز و دار زمین تن اہل زہد + شود خاک جسم لحیم و شحیم
لِحیان ۔ رمل کی سولہ شکلوں میں سے ایک شکل کا نام ہے
لَحن ۔ خوش آواز جو نغمہ کے ساتھ ہو ۔ ناصر خسرو ۔ ہمچو بلبل لحن و دستانہا زنند + چون لبالب شد جہان از بلبلہ
لَحظ ۔ گوشہ چشم سے ایکبار دیکھنا۔
لِحیہ ۔ بکسر اول داڑھی جو مردوں کے چہرہ پر ہوتی ہے
لُحمہ ۔ باز کا طعمہ اور پود کا سوت جسکو جولاہے بانا کہتے ہیں۔
لَحقہ ۔ پیچھے پہونچنے والی لاحق کی جمع ہے۔

لام با خاے معجمہ

لَخا ۔ ژندی زبان میں کفش و موزہ و پاپوش یعنی جوتی۔
لَخت ۔ لوہے کا گرز اور ٹکڑا ہر چیز کا اور خود یعنی کلاہ آہنی اور پانو کی جوتی اور چھری قصابوں کی
لَخچ ۔ زاج سیاہ اور استخار یعنی سجی جو مشہور چیز ہے۔
لَخچ ۔ ایک گھانس ہے جس سے بوریا بنتے ہیں۔
لَخلخ ۔ ضعیف ولاغر و کم گوشت۔
لَخاف ۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سپید پتھر کے۔
لَخشک ۔ نام ایک آش و حلوے کا ہے۔
لَخشتان ۔ وہ جگہ جس سے پانوں پھسل جائے۔
لَخچہ ۔ آگ کا شعلہ اور شرارہ۔
لَخشہ ۔ آگ کا شعلہ
لَخلخہ ۔ چند خوشبو چیزیں جو آپس میں ملا کر بیمار کو سنگھاتے ہیں۔

لام با دال

لُدّ ۔ الد کی جمع ہے سخت گمراہ اور لڑائی کرنے والا۔
لَدغ ۔ کاٹنا سانپ بچھو وغیرہ کا بعض کے نزدیک لدغ اس نیش کو کہتے ہیں

جو دم کی طرف سے ہو جیسے کہ زنبور و کژدم وغیرہ۔

اللدیغ۔ وہ شخص جسکو کژدم اور سانپ نے کاٹا ہو۔

الدغہ۔ کاٹنا سانپ اور بچھو کا۔

لدنی۔ الہامی علم جو کسی استاد سے نہ حاصل کیا گیا ہو امداد غیب سے ملا ہو۔

لام با ذال

لذت۔ مزا اور ذائقہ جو کسی چیز سے حاصل ہو۔ ابوطالب کلیم۔ لذت بوس رکاب از کف پاے تو گرفت + کہ نیاید بہ بیان یاے شمار عددی۔

لذیذ۔ جو چیز لذت دار ہو اور مزے دار۔ توحید۔ ذکر حق بخشد طلبگار خدا را ذائقہ + دولت دنیا سے دون باشد پے دونان لذیذ۔

لذائذ۔ جمع لذت بہت سی لذتین۔

لذع۔ جلانا آگ کا کسیکو اور سوزش دینا۔

لذاع۔ جلانے والا سوزش دینے والا۔

لام با راے مہملہ

لرد۔ میدان گھوڑے دوڑانے کا۔

لر۔ بضم اول احمق و بیوقوف اور نام ایک قوم کا جو قہستان میں ہے۔ سالک یزدی۔ ملوہ دارم از ظرافت ہمچو سالک در سخن + صد ظرافت پیشہ را از یک سخن لر میکنم

لر۔ بفتح اول بلغت دلاغر وضعیف اور زبان کی نہر اور ترکی میں علامت جمع کا جیسا کہ اسپ لر بہت سے گھوڑے۔

لرلر۔ بفتح ہر دو لام خداتعالے کا نام ہے۔

لرز۔ لرزش۔ لرزہ۔ کانپنا حاصل مصدر لرزیدن سے۔ خواجہ سلمان۔ لرز تو چو سودا بسر خصم در افتاد + ہیبت بدل خصم چو اندیشہ در آمد۔ میر خسرو۔ سہم تو گر بر فلک آرد شتاب + لرزہ کند چرخ چو دریاے آب۔

لزاب۔ چپکنے والی چیز۔

لزوجت۔ چسپیدگی یعنے چپکنا۔

لزج۔ ہر چیز جو چپکنے والی ہو مثل سریش وغیرہ۔

لزیر۔ دانا و بزرگ و مرد ہنرگار۔

لزوم۔ عربی مین لازم ہونا اور فارسی مین نہایت نرم کمان جس سے کمان دار مشق تیر اندازی کی کرتے ہین۔

لزن۔ کیچڑ اور گارا۔

لام با سین مہملہ

لسع۔ کاٹنا سانپ اور بچھو کا۔

لسان الحمل۔ ایک گھانس ہے جسکے تخم کو بارتنگ کہتے ہین۔

لسان۔ زبان جو مشہور عضو ہے۔ [illegible] ہست در وصف تو ہر اہل زبان + ہر زبان رطب اللسان عذب البیان۔

لسّان۔ بفتح اول وتشدید ثانی آدمی صاحب زبان و صاحب کلام۔

لسِن۔ بفتح اول وکسر ثانی وزباندان۔

لُسُن۔ بضم اول وضم ثانی بہت سے فصیح وزباندان۔

لُسن۔ بضم اول وسکون ثانی جمع السن جسکے معنے فصیح وزباندان کے ہین۔

لَسَن۔ بفتح اول وثانی فصاحت وزباندانی۔

لام با شین معجمہ

لشکر۔ فوج وسپاہ عربی مین عسکر۔ نظامی۔ دو سالار ہر دو لیسان پلنگ + فراز آوریدند لشکر بجنگ۔

لش۔ کیچڑ جو حوضون کی تہ مین ہو۔

لشن۔ اخیر مین نون ہر ایک چیز نرم اور لغزندہ اور نقش سادہ وہموار۔

لشکری۔ فوج کا سپاہی۔

لام با صاد

لص۔ بکسر اول وتشدید ثانی دزد وسارق یعنے چور چوری کرنیوالا لصوص اسکی جمع

لام با طاے مہملہ

لطمات۔ بہت سے طمانچے اور تھپیڑ۔

لطافت۔ نرمی ونازکی وپاکیزگی۔ کمال اسماعیل۔ ازان عارض لطافت می تراود + ازان قامت قیامت می تراود۔

لطیف۔ نیکوکار و پاکیزہ ونرم۔ صائب۔ صائب مرا بہ ہجر پریشان نیست شکوہ + بر خاطر لطیف بود بار آگہی۔

لطف۔ نرمی وتازگی کار اور کردار مین۔ خاقانی۔ لطف صد از کردگار از لب تو یک سخن + صد ستم از روزگار وا ز دل تو یک جفا۔

لطائف۔ بہت سے لطیفے۔

لطیم۔ سیلی خوردہ مار کھاے ہوے۔

لطمہ۔ طمانچہ تھپیڑ دھکا۔ میر خسرو۔ پاچو نہد بر سر دریا خسے + لطمہ خورد از کف دریا بسے۔

لطیفہ۔ ہر ایک اچھی چیز اور بات جو فرحت انگیز و پسندیدہ ہو۔

لطائف ستہ۔ نقشبندیہ مین مقرر ہے کہ سالک جب تک چھ لطائف کو طے نکرے مراتب علیاے معرفت پر نہین پہونچتا اول لطیفہ نفس محل اسکا ناف ہے دوسرا لطیفہ قلب محل اسکا دل ہے زیر بغل چپ تیسرا لطیفہ روح محل اسکا سینہ سے جانب راست چوتھا لطیفہ سر ہے محل اسکا فم معدہ جو مابین [illegible] چپ سینہ کے ہے پانچوین لطیفہ خفی محل اسکا عین پیشانی ہے چھٹے لطیفہ اخفی محل اسکا وسط سر ہے۔

لام با ظاے معجمہ

لظی - نام ایک دوزخ کا اور آگ جو شعلہ زن ہو۔

لام با عین

لعب۔ لعب - بازی اور کھیل اور لابہ - والہ ہروی - این لعب میکند
باما + با او احدے نکرد اینجا۔

لعاب - وہ پانی جو منھ سے نکلے اور غلظت اور چسپیدگی رکھتا ہو۔
حسین ثنائی عنکبوتے دانش کز نہایت بیدلیستی + روز و شب بردوک تا دالی لعابی میزند۔

لعبت - وہ صورت جو کپڑے سے بناتے ہین اور لڑکیان اُس سے کھیلتی ہین۔

لعنت - نفرین پھٹکار جو مشہور لفظ ہی - سعدی - یکے مال مردم
بہ تلبیس خورد + چو برخاست لعنت برابلیس کرد۔

لعوق - رقیق دوا جسکو بیمار چاٹے۔

لعل - سرخ اور نام ایک مشہور جوہر کا ہی جو بہت اقسام رکھتا ہو۔
کترومی پیازی تمری لحمی وشابی عنابی لبقمی اور کسیی وغیرہ سب سے
اچھا کترومی ہی - ابوطالب کلیم - جراحتہاے چشم از اشک خونی کے شود
بہتر + خراش دیدہ افزون میشود از لعل پیکانی۔

لعلی - سرخ رنگ اور نہایت سرخ - صائب - صائب درین دو ہفتہ
کہ گل جوش میزند + چون داغ لالہ بادہ لعلی بدہ زچنگ۔

لام با غین معجمہ

لغوب - رنجوری درماندگی بیماری۔

لغت - وہ زبان جو خاص کسی ملک یا قوم کی ہو۔

لغات - جمع لغت بہت سی زبانین۔

لغسر - گنجا جسکے سر پر بال نہون۔

لغز - بضم لام وفتح غین سوراخ موش اور وہ کلام جسکے معانی صاف
نہون جسکو فارسی مین چیستان کہتے ہین۔

لغزش - پھسلنا کسی جگہ سے۔

لغ - بکسر اول یہ لفظ ترکی مین افادہ ثبات کا کرتا ہی اور معنی اسکے ہست لینے ہے

لغ - بفتح اول صاف اور بغیر بالون کے اور زمین جسمین گھاس نہو اور
انڈا مرغ کا جو گندا ہو چکا ہو۔

لغو - بفتح اول بیہودہ بات بیفائدہ تقریر۔

لغو - بضم اول خاص زبان جو کسی قوم کی ہو۔

لغوشہ - زیب وزینت و آرایش

لام با فاے

لفت - بکسر اول شلغم جو مشہور چیز ہی۔

لفج - بفتح اول گوشت کا ٹکڑا جسمین ہڈی نہو اور ہونٹھ جو موٹے اونٹ کی طرح
ہون اور فاحشہ عورت بدکار۔

لفاح - بہ حاے حطی بیروج کا پھل جسکو مردم گیاہی کہتے ہین اور بادنجان
جو زرد ہو چکا ہو۔

لفظ - منھ سے نکالنا اور بات کہنا - مفید بلخی - شاہنشہ قلم ومعنی نازکم
باشند لفظہاے مرصع سریر من۔

لف - پیچیدن یعنے لپیٹنا۔

لفیف - وہ چیز جو لپٹی ہوئی ہو۔

لفچن - وہ شخص جسکے ہونٹھ بڑے ہون۔

لفرہ - نالایق فرومایہ کمینہ آدمی۔

لفچہ - گوشت جسمین ہڈی نہو - نظامی - بفرمائے تا مطبخی در نہفت
نہد لفچہ آن را کند خاک خفت۔

لام با قاف

لقا - دیدار یعنے دیکھنا اور چہرہ - صائب - صائب نتواند گہر اشک
ریزد + آنرا کہ نظر بر رخ خورشید لقائیست۔

لقب - وہ نام جو کسیکے مدح یا مذمت پر مبنی ہو - میر معزی - جود ترا لقب
نہم آفتاب و بحر + کز بحر ننگ دارد واز آفتاب عار۔

لقاح - حاملہ اور حاملہ ہونا۔

لقوماجس - نام حکیم جو ارسطو کا باپ تھا۔

لقط - گری ہوئی چیز کو راستہ سے اُٹھانا۔

لقیط - وہ بچہ جو راستہ مین پڑا ہوا اُٹھایا جاے۔

لق ودق - ہموار زمین اور بے آب جنگل۔

لق - بے مو اور صاف ومکر وفریب اور مرغ کا انڈا جو گندا ہو۔

لقلق - معرب لکلک جو ایک جانور ہی۔

لقمان - مشہور حکیم بیٹا باعوریہ کا ایوب نبی کا بھانجہ اور داؤد نبی کا شاگرد تھا

لقطہ - پڑی ہوئی چیز جو رستہ سے اُٹھائی جاے۔

لقیہ - ملاقات میل ملاپ۔

لقمہ - اسقدر کھانا جو ایک دفعہ منھ مین رکھکر کھالیا جاے - میر یحیی
شیرازی - جز و بدن نمیشود ارباب فقر را + گر لقمہ لعاب چو آنفک خورند

لقوہ - مشہور بیماری ہی جس سے چہرہ انسان کا ٹیڑھا ہو جاتا ہی۔

لام با کاف

لکا - بفتح اول کفش یعنے جوتی اور کچا چمڑا بید باغت اور وہ پوست
جو نہایت نرم ہوا اور گل سرخ یعنے گلاب کا پھول۔

لُکّا ۔ بضم اول لاک کا سرخ رنگ ملک و ولایت و سرزمین و دریچہ ۔
لُکدکوب ۔ لگدکوب ۔ ضرب ہر ایک قسم کی جو کچلا جسم بیدی جاے ۔ طالب آملی ۔ مرافتادہ چو بینی غمین مشو طالب + کہ من زر و زانل سبزہ لگدکوبم نظامی ۔ لگدکوب گرزہ سفت جوش + برآوردہ ازگاؤ گردون خروش ۔
لُکنت ۔ گرفتگی زبان کی بولنے کے وقت یعنے ہکلاپن ۔
لُکات ۔ مرحنج خراب و زبون ۔
لُکد ۔ لات مارنا پانون سے مارنا ۔ سعدی ۔ چہ نیکو زدہ است این مثل پیر دہ + ستور لکدزن گرانبار بہ ۔
لک ۔ بفتح اول صدہزار یعنے سو ہزار کا ایک لکھ اور بیہودہ باتین اور آدمی جو ابلہ و احمق و نادان ہو ۔
لُک ۔ بضم اول گندہ و ستبر و ناتراشیدہ اور پرانے لتے کپڑے کے ۔
لَکوک ۔ بہت سے لک لاکھون ۔
لکلاک ۔ مرغ آبی جو رونسپ جسکا لق لق ہے ۔
لَگام ۔ لغام ۔ عنان یعنے باگ گھوڑے کی ۔
لُکام ۔ بضم اول و کاف تازی بے آب و بے شرم و بے حیا اور نام ایک پہاڑ کا ۔
لگن ۔ بفتحتین ہاتھ دھونے کا طشت جسکو چلفچی و چلاچی بھی کہتے ہین اور بمعنی شمعدان و منقل کے بھی ۔ اشرف ۔ ہلال نیست کہ ہر طرف نیلگون چمن ست + کہ آفتابہ زرین مہر را لگن ست ۔
لکھنؤ ۔ یہ ایک مشہور شہر ہند مین دریاے گومتی پر آباد ہوا اور وہ کا دار الحکومت کہلاتا ہے پہلے چھوٹا سا شہر تھا نواب برہان الملک ابو المنصور خان صفدر جنگ نے اپنی وزارت کے عہد مین دریاے گومتی پر پنج منزلہ محل بنایا اور پنج محلہ نام رکھا بعد ازان نواب آصف الدولہ نے وہین سکونت اختیار کی اور دولتخانہ وسیع تعمیر کرایا جامع مسجد و امام باڑہ بھی بنوایا آسمرونسے آبادی بڑھنی شروع ہوئی اور عالیشان شہر بن گیا ۔
لَکّہ ۔ داغ اور پارچہ ۔
لِگنہ ۔ بکسر لام پانون کی انگلیون سے ران تک جسم آدمی کا ۔
لکاتہ ۔ فاحشہ و بدکارہ عورت ۔
لکلکہ ۔ بفتح ہردو لام بیہودہ باتین اور لغو تقریرین بکواس ۔
لکھنوتی ۔ سابق زمانہ مین ایک شہر ولایت ہند ملک بنگال مین آباد تھا ۔

لام با میم

لَمّا ۔ بتشدید عربی ہے فارسی مین اسکے معنی ہرگاہ اور اردو مین جسوقت ۔
لَما ۔ بتخفیف میم نام ایک دوا کا ہے جسکو عنب الثعلب بھی کہتے ہین ۔
لمعات ۔ بہت سی روشنیان اور نام ایک کتاب کا حدیث کے علم مین ۔

لمتر ۔ فربہ و قوی جسم ۔
لمس ۔ بفتح اول گھسنا کسی چیز کا ہاتھ کے ساتھ یا عضو کا عضو کے ساتھ بمعنی مجامعت اور جماع ۔
لموع ۔ جمع لمعہ چمکنا اور روشنی دینا ۔
لمک ۔ نام پدر نوح علیہ السلام ۔
لم یزل ۔ ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ زوال نہ ہو ۔
لَہک ۔ استراحت و آسائش و رحمت ...
اوارِیزی و لب غربال جان ہمری ...
لمعان ۔ چمکنا روشنی دینا ۔
لمغان ۔ نواح غزنی مین ایک علاقہ اور بستی کا نام ہے ۔
لِمّہ ۔ وہ بال جو بناگوش سے زیادہ بڑھ گئے ہون ۔
لمعہ ۔ بفتح اول چمکارا اور روشنی ۔ طالب آملی ۔ تا شعلہ شوق دوزمان بہاے + تا تیغ مہر لمعہ زند در جہان بہان ۔
لُمعہ ۔ بضم اول وضو کے وقت کسیقدر حصہ کسی عضو کا خشک رہجانا ۔

لام با نون

لُنج ۔ بضم اول لب جسکو عربی مین شفت اور ہندی مین ہونٹھ کہتے ہین اور وہ شخص جسکے ہاتھ پانون بخوبی کام نہ دیتے ہون ۔
لَنج ۔ بفتح اول خرام یعنے ناز و ادا کے ساتھ چلنا اور باہر نکالنا کسی چیز کا ۔
لنگ کمر ۔ فنون کشتی مین سے ایک فن کا نام ہے ۔
لنگر ۔ وہ سنگین جو کشتیون کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور دریا مین پھینکا کشتی کو ٹھہرا کر رکھتا ہے اور باورچی خانہ جہان سے عام و خاص کو خدا کے نام کا کھانا ملے ۔ کمال اسمٰعیل ۔ دست و پاے مزن درین دریا + از خود این لنگر گران بکشا ۔
لنتر ۔ فربہ و قوی ہیکل فربہ اور کاہل و سرین یعنے چوتڑ ۔
لنگ سرش ۔ کشتی کے فنون مین سے ایک فن کا نام ہے ۔
لنباک ۔ نام ایک شخص کا جو بہرام گور بادشاہ کا سقہ تھا ...
لنگ ۔ بفتح اول جسکا ایک پانون ہو ...
لُنگ ۔ بضم اول فوطہ اور لنگی جو مشہور ہے ۔
لِنگ ۔ بکسر اول ران سے ناخن پا تک ... اور ہندی مین عضو تناسل ۔
لنگاک ۔ درشت و زبون و ناخوش ۔
لنجان ۔ صفاہان مین ایک ملک ہے ...
لنگن ۔ ...

لنگوٹہ - تہ بند چھوٹا جو کمر پر باندھتے ہین یہ لغت ہندی مستعمل بفارسی ہی بمعنی پناہ و پردہ اور لنگ یعنے عضو تناسل کے ڈھانکنے والا -
لَبنہ - بفتح اول ہر چیز جو مدور ہو مانند انار و نارنج وغیرہ -
لُبنہ - بضم اول فربہ موٹا مقابل لاغر کے -
لَبنجہ - بفتح خرام یعنے رفتار جو ناز و ادا کے ساتھ ہو -
لنگری - بڑا طشت بہت فراخ برتن جو لنگر خانہ میں رہتا ہو محسن تاثیر - منشین بہ بحر سفرہ شاہان کہ اندرو + گرداب شاہ کاسہ و طوفان لنگریست

لام با واو

لِوا - بکسر اول فوج کا علم اور نشان لشکر کا - ذوقی - رحلت از دنیا سے دون کردند و رفتند از جہان + سرفرازان زمانہ صاحب تاج ولوا -
لوقا - نام ایک حکیم یونانی کا جسنے قسطا نام کتاب احکام آتش پرستی مین تصنیف کی -
لوشا - نام ایک رومی حکیم کا ہی جو نقاشی و مصوری مین ثانی نہین رکھتا تھا -
لوچ یا - وہ لکڑی جو جولاہے کپڑا بننے کے وقت پانو نہین رکھتے ہین -
لوبیا - ایک غلہ کا نام ہی جو باقلا سے دانہ اسکا چھوٹا ہوتا ہی -
لوترا - وہ زبان جو دو شخص آپسمین بولین او سمجھین اور کوئی نہ سمجھ سکے -
لوحیا - یونانی زبان مین ہلیا اور درازنہ -
لوفا - ایک دوا ہی جسکو قنطوریون بھی کہتے ہین -
لواہب - جمع لاہب جسکے معنے شعلہ زن آگ کے ہین -
لوزیات - وہ حلوا جسمین مغز بادام ڈالے گئے ہون -
لوعات - دل کی سوزشین جو محبت مین ہون -
لوعت - جلنا دل کا دوستی مین -
لوت - بواو معروف برہنہ یعنے ننگا عریان تن -
لوت - بواو مجہول طرح طرح کے لذیذ کھانے اور لڑکا جو بے ریش ہو -
لوت الوت - طرح طرح کے کھانے لذیذ -
لوث - آلایش آسودگی - شیخ العارفین - بندہ جام شراب میم خرین ناکہ برد + لوث آلودگی از خرقہ پشمینۂ ما -
لوزینج - معرب لوزینہ -
لوچ - عریان و برہنہ یعنے ننگا - ملا طغرا - صاحب از پردہ حیا لوچی + ونترا بیچ و خواہر لوچی -
لوج - نام ایک ملک کا ولایت ایران مین اور وہ شخص جو احول ہو -
لواعج - جمع لاعجہ بہت سی سوزشین جو عشق و محبت و پیار مین عاشق کے دلمین ظاہر ہوتی ہین -
لوح - بضم اول وہ فاصلہ اور فرق جو آسمان اور زمین مین ہی -
لوائح - روشنیان جمع لائحہ اور نام ایک کتاب کا تصوف مین

لَوح - بفتح اول تختہ لکڑی کا ہو یا پتھر یا ہڈی کا اور چمکنا بجلی کا اور ظاہر ہونا ستارون کا - طالب آملی - مگر ز غمزۂ شمرین یہ تیشہ داد المابس + کر لوح فتنہ تراشید کوہکن نازک -
لوخ - وہ گھانس جس سے بوریا بناتے ہین -
لورکند - وہ مغاک جو بسبب اجراے پانی سیل کے زمین مین پڑجاتے ہین -
لوید - دیگ جسمین کوئی چیز پکائی جائے - نظامی - زری تا دہستان و خوارزم و جند +
لوند - خراب آدمی فاسق فاجر اور مغلم نعمت خان عالی جہان کی ہجو مین - خوشے نکنند از لوندی + ہر چند کہ مردمان خاف اند + از ضربت دستہا چو ہاون + سر تا بقدم بشکل نافند -
لور - وہ مغاک جو سیلاب سے زمین پر پڑجاتین اور کمان حلاج کی جس سے وہ روئی دھنتا ہی اور نام ایک قسم کی کشتی کا -
لوتر - ساختہ زبان جو دو شخص آپسمین بولین اور کوئی نسمجھے
لوراور - بہر دو واو دھی کا کپڑا -
لوز - بادام جو مشہور میوہ ہی -
لوس - تملق و چاپلوسی و خوشامد -
لوطوس - ایک دوائی کا نام ہی جسکو اند قوقی بھی کہتے ہین -
لوقس - رنگ سپید جو مقابل سیاہ کے ہی -
لوش - بیخبر و بیہوش اور کیچڑ اور گارا اور وہ شخص جسکا منہ ٹیڑھا ہو و چند گونہ
لواش - گھوڑے کی پچھاڑی اور وہ رسی جس سے نعل بندی کے وقت گھوڑے کا منہ اور لاتین باندھتے ہین - میر نجات - شیخ زاد لشدہ بوسہ چون لندس کن + اول بیروست لواشہ کن و پابندش کن -
لوط - مرسل پیغمبر تھے عورت ان کی کافرہ تھی اور قوم اغلام کی آفت مین گرفتار تھی آخر انکے شہر زمین سے اٹھائے گئے اور آسمان کے قریب لیجا کر پھینک دیے اور اسپر پتھرون کی بارش ہوئی -
لواخط - آنکھون کے دنبالے -
لوامع - روشنیان اور پرتوے اور نشان -
لوع - دودھ دوھنا اور پینا اور پینے والا -
لواف - رسیان بنانے والا جسکو فارسی مین شالنگی کہتے ہین - طاہر وحید - منم عاشق خستہ مستمند + ز لواف افتادہ ام در کمند + ز سوے کہ ور لسیمان بافتہ + رگم را بتار غمش تافتہ -
لوف - ایک دوا کا نام ہی جسکو فارسی مین پیل گوش کہتے ہین -
لوک - بضم اول و واو مجہول ایک قسم کے اونٹ کا نام ہی کہ بھاری پہاڑ

اُٹھاتا ہے اور وہ شخص جو زانو اور ہاتھ کے بل چلے جسطرح بچے چلتے ہین یا لنگ نہ چل سکتا ہو۔ **مسیح کاشی** - درین خرابہ من آن میزبان بے نانم که بخش خویش بہ سست و لنگ و لوک آرم + کشادہ ام بسخا این دو دست کوتہ لوچ + کہ خرج راخو ازین رشک در خدوک آرم -

لورانک - گھی کا کپہ -

لورک - حلاجی کا کمان اور کمان تیر چلانے کی -

لولی نیل - سال ننگ جو ترکو نمین مقرر ہے -

لول - بے شرم و بے حیا و بی شرمی و بے حیائی اور آفتابہ یعنے لوٹی دار -

لوم - بفتح اول ملامت کرنا و بخل و امساک -

لولوشم - بفتح شین معجمہ ایک پھول کا نام ہے - **نظامی** - برلشیم تنے ملک لولوشمی + رونده چو لولو برابر لشیمی -

لوکان - وہ جو زانون اور ہاتھون کے بل چلتا ہو -

لوریان - ایک قوم بازیگر کا نام ہے -

لولین - لوٹی دار آفتابہ لوٹی دار لوٹا - **داعی الجدانی** - ساقی قدح ما معین لو کجاست + آن آشنہ خدائے بین لو کجاست + خواہم کہ طہارتے دہم با دلین را + آن لولہ شکست لولئین لو کجاست -

لوخن - ماہ یعنے چاند -

لون - رنگ سپید ہو یا سرخ وغیرہ -

لوشن - کیچڑ جو حوض مین تہ نشین ہو -

لولو - مروارید لآلی اسکی جمع ہے -

لو - ایک قسم کا حلوا و پشتہ زمین و بلندی اور ہونٹھ یعنے لب -

لوالو - بے عزت آدمی -

لوزینہ - بادامی حلوا -

لواہشہ - فنون کشتی مین سے ایک فن کا نام ہے -

لوہرہ - گاؤمیش دشتی -

لولیشہ - کوٹا ہوا غلہ جو بھوسی سے جدا نہوا ہو -

لودہ - سبد یعنے ٹوکرا جسمین میوہ فروش میوہ بیچتے ہین -

لورہ - زمین سیلابی جسمین مغاک پڑے ہوے ہون

لوسانہ - چاپلوسی و فروتنی -

لوشابہ - چرب و شیرین و دلکش -

لوکہ - آٹا گیہون کا ہو یا کسی اور غلہ کا اور روئی جس سے بنولے جدا کیے ہوے ہون

لونہ - گلگونہ جو عورتین منہہ پر ملتی ہین -

لوہ - غلیواز یعنے چیل جو مشہور پرندہ ہے -

لوبزہ - نام اُس لڑکے کا جو ہابیل کے ساتھ توام پیدا ہوے تھے چنانچہ اقلیمیا قابیل کے ساتھ -

لولی - منسوب بہ لول جسکے معنی بیحیائی اور بے شرمی کے ہین - **حافظ** - فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شہر آشوب + چنان بردند صبر از دل کہ ترکان خوان یغمارا -

لوذعی - زیرک و دانا و عقیل -

لوطی - رند اور بچہ باز بیباک و نامقید -

لوری - ایک طائفہ بازیگرون کا نام ہے -

لوای - جھنڈا علم نشان فوج کا - **مولانا مظہر** - بہر جانب کہ خورشید لوایت سایہ افگندی + ملازم بودہ ام چون سایہ نور عالم آرا را -

لام با ہائے ہوز

لہب - آگ کا شعلہ -

لہیب - جلانے والی آگ -

لہراسپ - نام ایک بادشاہ کا ہے -

لہات - وہ گوشت پارہ جو انسان کے حلق مین لٹکتا ہے -

لہفت - لعبت جو لڑکیان کپڑے کی بناکر کھیلتی ہین -

لہج - دھوبیون کے کپڑے دھونے کا کُٹا -

لہز - اخیر مین زاے معجمہ ملنا اور کسیکی چھاتی پر مکہ لگانا -

لہف - افسوس کھانا غمناک ہونا -

لہلہان - ایک دوائی تخم کا نام ہے جسکو بالنگو بھی کہتے ہین

لہو - بازی یعنے کھیلنا جماع کرنا - **صفدر فوقانی** - عمر در لہو و لعب درباختی + نقد وقت خویش ضائع ساختی -

لہ - ترکی مین بمعنی با یعنے ساتھ -

لہنہ - ناشتا کھانا جو صبح صبح کھاتے ہین

لہجہ - نہار کھانا و وضع کلام و آواز خوش -

لہبلہ - ابلہ و نادان و خود پرست -

لہی - رخصت و اجازت -

لام با یائے

لیلا - سیاہ رنگ و معشوقہ قیس کی -

لیلیا - زندی زبان مین رات -

لینت - ملایمت و نرمی -

لیت - فارسی مین اسکے معنے کاشکے ایسا ہوتا -

لیامت - ملامت کرنا -

لیرت - خود آہنی جو جنگ کے روز سر پر رکھتے ہین -

لیث - بثاے مثلثہ شیر درندہ -
لیلاج - شطرنج کے موجد کا نام ہی - شیخ کاشی - گر تختہ زد شاہ
نابوت سر کشیرا لیلاج ہم بیاد زان تختہ برد کردن -
لیلنج - ایک مارز نیل کا جس سے کپڑے سیاہ کرتے ہین -
لینج - تانبے کا میل جو کان سے نکلتا ہی -
لیاذ - بذال معجمہ پناہ پکڑنا -
لیچار - مربا جو مختلف میون کا کہانڈ کے شیرے مین ڈالا جاتا ہی -
لیخت - کٹہرک لعاب دہان -
لیز - بزاے معجمہ وہ جگہ جس سے پانون پہسل جاے -
لیوس - سخت و بے آبرو -
لیثغوس - بتیسرے حرف ثاے مثلثہ سرسام بلغمی -
لیغ - بزدل و کم ہمت -
لیف - ریشہ پوست درخت خرما -
لیق - دوات کا صوف -
لیک - غلام بے ریش یا کنیز خوبصورت فضلا ادر لیس خوردہ -
لیگ - نام ایک مرغ کا ہی جسکو خرچال بھی کہتے ہین اور پیمانہ
جس سے غلہ وغیرہ ناپتے ہین -
لیک - احمق آدمی -
لیولنگ - برف جو آسمان سے برستی ہی -
لیام - بخیلان و بدبختان جمع لئیم
لیم - نرم گمان -
لین - نرمی مقابل سختی کے -
لیان - چمکارہ آئینہ اور تلوار کا -
لینذیون - نام ایک دوا کا ہی جسکو شیطرج کہتے ہین -
لیمو - مشہور ترش پہل ہوتا ہی -
لیلو - تالاب و آبگیر
لیقہ - بڑا کپڑا اور چیتھڑا اور صوف دوات کا - خلاق معانی -
ملکرلیق دوات شود درین سودا ہمی پیچید بر خویش زلف حور العین -
لیوہ - بروزن شیوہ احمق و ناداں - شیخ کاشی - من چون سفو
بیکس و بے آبروے و ریش + درین وحشت و صحرا ہم خاک لیوہ -
لیفہ - شیرہ درخت خرما -
لیلیٰ - قیس کی معشوقہ جنکی مجنون مشہور تہا - سے کہا شیرین کہا خسرو
یا لیلیٰ کیا مجنون ہم ... ایک وحشت کا رفرمائی -

لیالی - جمع لیل بہت سی راتین -

دوسری فصل

اُردو لغات کے ذکر مین

لام با الف

لاسا - وہ چپکنے والی چیز جس سے جانورون کو پکڑ لیتے ہین اور سریش جو ایک مشہور چیز ہی
لات - ایک پانون جسکو فارسی مین لگد کہتے ہین - مولف - جنکی ہوتی ہی
دوستی حق سے + وال دولت کو لات مارتے ہین -
لاج - شرم و حیا و ننگ و ناموس -
لالچ - حرص اور خواہش اور طمع -
لاڈ - ناز فارسی مین اور عربی مین دلال کہتے ہین اور جسنے ناز و نعمت مین پرورش
پائی ہو اُسکو لاڈلا بولتے ہین -
لاگ - تعلق و علاقہ و رابطہ و وابستگی و دشمنی و بغض و عداوت -
لال - سرخ جو ایک مشہور رنگ ہی -
لادو - وہ گھوڑا یا گدہا وغیرہ جسپر بوجھ لادا جاے -
لاکھ - سو ہزار کا عدد اور وہ لاکھ جس سے لکڑی وغیرہ رنگتے ہین -
لاٹھی - ہاتھ مین رکھنے کی چھڑی -
لالچی - حرص کرنے والا طمع کرنے والا -

لام با باے موحدہ

لپاٹیا - جھوٹھا اور جسکو بہت بکنے والا فضولگو -
لپ - مقدار کف دست -
لپٹ - گرمی آگ کے شعلہ کی اور خوشبو -
لپیٹ - پیچ حلقہ فارسی مین نورد -
لپیٹن - وہ کپڑا جسمین کوئی چیز لپیٹی ہو -

لام با تاے

لترا - سخن چین و نمام و غماز -
لتہا - وہ چارپایہ جسکو دولتی مارنے کی عادت ہو -
لتورا - نام ایک مرغ ابلق کا ہی جو فاختہ سے چھوٹا ہوتا ہی -
لٹیرا - لوٹنے والا غارتگر -
لٹ - زلفون کے بال -
لٹکن - آویزہ جو ایک زیور کا نام ہی -
لتہاؤ - لگد زدن کرنا ایک دوسرے کو دولتی مارنا -
لتہ - چیتھڑا کپڑے کا ٹکڑا کپڑے کا -

لتھیر۔ نام ایک قسم کے ...

لام با جیم

لجکا۔ غم و پیچ و تاب۔
لچھن۔ طور و روش طرز و طریق و کردار۔
لچھمن۔ نام راجہ رامچندر اوتار کے بھائی کا۔
لچہ۔ خراب آدمی بدچلن فاسق فاجر۔
لچنی۔ خراب عورت بدچلن۔

لام با دال

لدا۔ وہ بوجھا جو گدھا وغیرہ پر لادا جاوے۔
لدو۔ لادنے کے لائق گھوڑا گدھا وغیرہ۔
لڈو۔ ایک قسم کی شیرینی کا نام ہے۔

لام با رائے

لڑاکا۔ سب سے لڑنے والا۔
لڑبڑا۔ جسمین لزوجت ہو۔
لڑکا۔ خرد سال بچہ۔ قطعہ از مولف۔ جھوٹ جائینگے خود بخود سب ... + وقت آخر جو ہیرادم چھوٹا + ہوینگے صورت سے فقیر سب بیزار + زن و فرزند لڑکی و لڑکا
لڑ۔ کسی رسی یا تاگے کے چار تار مین سے ایک تار جسکو فارسی مین تاہ کہتے ہین
لڑکپن۔ خرد سالی بچپن نادانی ہے۔ مولف۔ ہوا بوڑھا مگر طبیعت مین + وہی بچپن وہی لڑکپن ہے
لڑائی۔ جنگ خصومت نزاع عداوت۔ ع۔ جتنا ہو ظلم و ستم جور و جفا منظور ہو + پر کبھی آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔
لڑکی۔ دختر جو خرد سال ہو۔
لڑکوری۔ صاحب اولاد عورت۔
لڑی۔ وہ رشتہ جسمین موتی پروئے ہوئے ہون۔ نعت از مولف۔ دانت وہ روشن ستارون کی لڑی باندھے ہوئے + موتیون کا گنج خوبی سے بھرا صل علیٰ۔

لام با سین

لسوڑا۔ وہ درخت جسکا پھل سپستان ہے۔
لس۔ چسپیدگی جس سے کوئی چیز چسپیدہ ہو جاتی۔
لسن۔ جسکو فارسی مین سیر عربی مین فوم کہتے ہین۔
لسی۔ چھاچھ جو مشہور چیز ہے۔

لام با شین

لشکر۔ فارسی لفظ ہے فوج بادشاہی۔

لام با کاف

لکڑہارا۔ لکڑی بیچنے والا۔
لکھا۔ نوشتہ شدہ مقسوم قسمت۔
لگاؤ۔ آمیزش و رابطہ و توسل و وسیلہ۔
لکڑ۔ چوب کلان بڑی لکڑی۔
لگام۔ باگ گھوڑے کی۔
لگان۔ کشتی کا لنگر مارنا اور موقع مراد پر پہونچنا۔
لگسی۔ لمبا بانس چوگان نما جس سے درخت سے میوہ اتارتے ہین۔
لکڑی۔ جسکو فارسی مین چوب کہتے ہین۔ قطعہ از مولف۔ غم سے چھوٹے وہ کسطرح جسکو + فکر ہو نون تیل لکڑی کا۔ کبھی دنیا سے دون کی پابندی + کبھی روز جزا کا اندیشا۔

لام با لام

للکار۔ شور پکار فریاد۔
للچاؤ۔ آرزومندی خواہش چاہ۔
للو پتو۔ خوشامد آرزومندی۔
للی۔ نامرد جو عورت پر قادر نہو۔

لام با میم

لم کنا۔ جسکے کان لمبے ہون۔
لم گردنا۔ جسکی گردن لمبی ہو۔
لم چھڑ۔ لمبے قد کا آدمی۔

لام با نون

لنبا۔ دراز قد کا آدمی احمق بے عقل۔ ع۔ لنبے احمق ہین مگر حضرت عمرؓ + ٹھگنے فتنے ہین مگر حضرت علیؓ
لنبوترا۔ دراز قد لنبے قد کا آدمی۔
لنجا۔ جسکے ہاتھ پاؤن بیکار ہون۔
لنڈورا۔ جسکی دُم نہو۔
لنگڑا۔ جسکی ایک لات بیکار ہو۔
لنگر۔ کشتی کا لنگر جس سے کشتی چلتی ہوئی ٹھہر جاتی ہے اور باورچیخانہ جہان عام کھانا تقسیم ہوتا ہو۔
لنگور۔ ایک قسم بندر کا ہے جسکی دم بہت لمبی ہوتی ہے۔
لنگوٹ۔ وہ چھوٹا کپڑا جس سے بنا ستر شرمگاہ ڈھانکتے ہین۔
لنگی۔ تہبند جو کمر پر باندھتے ہین۔
لنجی۔ بیدست و پا عورت۔

لام با واو

لوا - ایک جانور ہی جسکو عربی مین سلوی کہتے ہین تیتر سے چھوٹا ہوتا ہی -

لوبیا - ایک قسم غلہ کا ہی -

لوتھڑا - گوشت کا بڑا ٹکڑا -

لوٹا - ایک قسم کا برتن ہی جسکو آفتابہ فارسی مین کہتے ہین -

لولا - بواو معروف جسکے ہاتھ یا نون بیکار ہون -

لولا - بواو مجہول بیغیرت دیوث شرو -

لونڈا - بچہ کم عمر لڑکا -

لونیا - نمک بنانے والے جو ایک قوم ہندوستان مین ہی -

لوہا - مشہور دھات ہی جسکو آہن فارسی مین عربی مین حدید کہتے ہین -

لوٹ - غارت تاراج -

لونڈے باز - بچہ باز اغلامی -

لوگ - عام وخاص خلق خدا -

لونگ - مشہور چیز ہی جسکو قرنفل کہتے ہین -

لون - نمک جو مشہور ہی -

لو - تعلق خاطر وتوجہ اور گرم ہوا اور روشنی -

لوتھ - مردہ کی لاش اور جسم بیجان -

لوری - وہ کلمات جو زبان سے کہکر عورتین بچون کو سلاتی ہین -

لومڑی - مشہور جانور ہی -

لونڈی - کنیز پرستار خادمہ -

لام با ہے

لہنا - رقم گرفتنی اور مقسوم ونصیب -

لہار - آہنگر لوہے کا کام کرنے والا -

لہاس - وہ رستا جو کھجور کے پتے سے بٹتے ہین -

لہسن - جسکو سیر اور فوم کہتے ہین -

لہچون - لوہے کا برادہ -

لہولہان - خون سے بھرا ہوا -

لہو - خون جو بدن سے نکلتا ہی - سو دم لیگا کسطرح سے ہو جسکا گلا ہی بند + ہو گیا جینگا جسکے بدن مین لہو نہو

لہسنیہ - ایک قسم کے جواہرات کا نام ہی -

لام با یاے

لیپ - تر دوائی جو کسی ہلکے عضو پر لگائی جاتے -

لید - گھوڑے کا سرگین -

لینڈ - سخت پاخانہ آدمی کا -

لے پالک - متبنی جسکو بیٹا بنا کر پالتے ہین -

لیزم - نرم کمان -

لین دین - داد وستد جو آپس مین ہو -

لیکہہ - خط جو راہ و نہر وغیرہ کے چلنے سے زمین پر پڑجاتا ہی اور باریک انڈے جون کے جو کپڑے اور بالون کے ساتھ چپکے ہوے ہوتے ہین -

لیئی - جو گیہون کے سیدے کی بنا کر کاغذ اور چڑے کو لگاتے ہین -

تیسری فصل

فارسی اصطلاحات ومحاورات کے بیان مین

لام با الف

لاجورد قبا - معشوقون کے اوصاف مین لکہا جاتا ہی جیسے کہ گل پیرہن خصوصاً جسکا لباس نیلگون ہو - ابونصر نصیرای بدخشانی - بهر طوف حریم او سر دہ + روز وشب چرخ لاجورد قبا -

لالہ لب - محبوب کی تعریف مین بولا جاتا ہی

لاعلاج - لاعلاجا - ناچار اور ناگزیر - محمد سعید اشرف - دیدم کہ علاج جز بمے گلگون نیست + یک چند بیا لاعلاجا خوردم -

لالہ زار - لالہ زاران - مزید علیہ - قیدی کرمانی - بہر گریہ ابر تازہ بہار بخند گل وبشگفد لالہ زار - ولہ - وسید از آب چشم لالہ زاران + کہ میمانم بایام بہاران -

لالہ طور - طور کی آگ اور ذات کا جلوہ - صائب - اگرچہ لالہ طور ست روے روشن او + چراغ صبح بود باسیاض گردن او -

لالہ عذار - محبوب کے اوصاف مین بولا جاتا ہی -

لاے جگر - خون جگر جگر کا خون - قاسم مشہدی - آنجا کہ دید سیر لاے جگر بود + سائل دگر بخواب نہ بیند کرم را -

لابہ پرداز - لابہ گر - خوشامدی فریبی مکار - عرفی - خصمت چوز رو صفت لابہ گر آید + از سردی او تب شکنند شیر اجرم را -

لالہ بنا گوش - محبوب کے اوصاف مین بولا جاتا ہی - زلالی - بیا اے ساقی لالہ بنا گوش + کہ خلوت نشینان قدح نوش -

لالہ صد برگ - وہ پھول جسکو ہندوستان مین ہزارہ کہتے ہین شفیع اثر - بسکہ بربالاے ہم داغ محبت چیدہ است + دل برنگ لالہ صد برگ آید در نظر -

لالہ موم - وہ پھول مصنوعی جو موم سے بناتے ہین - مفید بلخی - نیم علاج طلب بہر سینہ مجروح + کہ مرہم ست مرا داغ ہمچو لالہ موم -

لالاے چشم - مردمک چشم آنکھ کی پتلی -

لالہ سرنگون - ایک قسم کا لالہ ہی -

لالۂ غلیان — وہ آگ جو غلیان پر رکھتے ہیں۔ محسن تاثیر۔ ہرزہ نفس زن وفا
سراغ ندارد + لالۂ غلیان نشان راغ ندارد۔

لاُئیدن — لاف مارنا ہرزہ گوئی کرنا۔

لافیدن — لاف مارنا۔

لاندن۔ لانیدن — ہلانا جھاڑنا۔

لاجرعہ — ایک ہی دفعہ پی جانا دم نہ لینا۔ ظہوری۔ جان از خمار رشک
ظہوری بلب رسید + کو رطل بزم ہجر کہ لاجرعہ سر کشیم

لافگاہ — لاف زنی کی جگہ اور موقع۔ صائب۔ دل دو نیم نداری بگوشہ
بنشین + بلافگاہ محبت بیک گواہ مرو

لالۂ بیکانی — قسم ایک پھول کا ہے۔ مغز فطرت۔ دوش مژگان خدنگ تو دم
آمد + چمن سینہ پر از لالۂ بیکانی شد

لالۂ چوغاشی — ایک قسم کا لالہ ہے۔ داراب بیگ جویا۔ خال ہندو سیہ
بر جسارش + چمن لالہ ہاے چوغاشی ست۔

لالۂ عباسی — گل عباسی جو مشہور پھول ہے۔ تاثیر۔ بر داند وہ زدل تہمت
زرداری ہم + داغ بر دل نبود لالۂ عباسی را۔

لام با باے

لب آفتاب — وہ دھوپ جو سایہ کے پاس ہو۔

لب لب — آواز کتے کے کھانے یا پانی پینے کی۔

لباس پرست — ظاہر پرست۔ سے۔ نہ اعز عزیز تر از کعبہ اے لباس پرست
خراب گشتہ دلی را برو عمارت کن۔

لب فلان چیز نیست دندان فلان چیز نیست — یعنے استعداد و لیاقت
و شائستگی و حوصلہ اس چیز کا نہیں رکھتا۔ مسیح کاشی۔ مارا لب چشیدن
صہبائے وصل نیست + این بادہ را مگر لب گل تواں چشید۔

لب خند و لب خندہ — نرم ہنسنا صرف دانت سپید کرنا۔ محمد سعید اشرف
دیدن روے تو زیبندہ بود آئینہ را + بہ تماشاے تو لب خندہ بود آئینہ را
طاہر وحید۔ برقع از رخ بیکطرف افگند + عالمی زندہ کرد از لب خند۔

لب لعل — لب لعلے۔ لب سرخ۔ محمود۔ لب لعل تو ہست آرام دل +
بر آید از و عاقبت کام دل + طاہر وحید۔ پیمانہ مہر بوسہ لبہاے لعلے ست +
صد بار پیش شیشہ می کاسہ بند کرد۔

لب آلودن — تھوڑا سا پی لینا زیادہ نہ پینا۔ شعر۔ ہیچ آب شراب ست
اے دلارام + مکن با آب شر آلودہ لب را۔

لباس گرداندن — لباس بدلانا۔ سے۔ تا شرم داشت منصب تقدیر داشتی
گرداندن لباس تو تغییر رنگ بود۔

لب باز گرفتن — سیر آشامیدن۔ لب ہٹانا۔ سعدی۔ لب از لب چو چشم
خروس ابلہی بود برداشتن بگفتن بیہودہ خروس۔

لب بدندان خستن و خائیدن و گزیدن — غصہ یا تعجب یا ندامت و
حیرت کی حالت میں لبوں کو کاٹنا۔ میرزا صائب۔ لین کرم دید یا خود شنید
تعجب کنان لب بدندان گزید۔ ولہ۔ لب چو خائی برائے کشتن من + خود
فلک پشت دست میخاید۔

لب برچیدن — بند کرنا لبوں کا واسطے رونے یا ہنسنے کے۔ باقر کاشی۔
خوش آن پیری کہ بر یاد جوانی + لبے برچینم و طفلانہ گویم۔

لب بستن — خاموش رہنا چپ رہنا۔ سے۔ چو گوش خلق بند ست
از نصیحت + ہمان بہتر کہ من ہم لب ببندم۔

لب تر کردن — تھوڑا سا پانی پینا۔ سعدی۔ چنان آسمان بر زمین
شد بخیل + کہ لب تر نکردند زرع و نخیل۔

لب بہ دندان کشیدن — چپ ہو جانا۔ ظہوری۔ لب بہ دندان کش از
حرف کنار + این حکایت درمیان عیب ست عیب۔

لب جنبیدن — لب ہلنا بولنے لگنا۔ حسین ثنائی۔ ہجران زدہ را لب
تبسم + جز در رخ دوستان نجنبد۔

لب چش کردن — چکھنا ذائقہ دریافت کرنا۔ صائب۔ بوسۂ شیرین
دہانان را مگر ہیچو قند + کردہ ام لب چش شیرینی چو دشنام تو نیست۔

لب خوش کردن — لب شیرین کرنا منہ میٹھا کرنا۔ عباس قلی۔ تلخ اندر کام
آدمیان در مذاق ہم + لب خوش نمیکنند بشہد وفاق ہم۔

لب دادن — بوسہ دینا رخصت دینا عہد و اقرار کرنا مرادف زبان دادن
ظہوری۔ لب بحرف نگار نتوان داد + رخ بخون جگر نگردہ نگار۔

لب دزدیدن — تبسم کرنا شرم کرنا۔ محمد اکبر دولت آبادی۔ بلب دزدی
دہان را غنچہ گون کرد + دہان غنچہ را یکبار خون کرد۔

لب زدن — خاموش ہونا چپ رہنا۔ میر خسرو۔ چو لب نلی بہی و درمیان
نگردانی + من آن شراب نگویم کہ جان بگردانی۔

لب شیرین کردن — ہنسنا مسکرانا۔ مفید بلخی۔ غنچہ اش ہر گہ لبے از خندہ
شیرین میکند + پرتوش روشن چراغ حسن پروین میکند۔

لب کسی گرفتن — بولنے نہ دینا چپ کرنا۔ میر خسرو۔ سخن گو پدار پیش او
تو دریا + روان آب لبہاے دریا بگیرد۔

لباس روغنی — چربیلا لباس حلوائیوں اور تیلیوں کی پوشاک۔ محمد قلی
سلیم۔ تو نگر آشناے عشق چون شد دشمن خویش ست + عندر نرکش
بہ آتش اگر لباس روغنی دارد۔

لباس شمعی - سبز لباس جسکو تیلیا ہو گنگیا کہتے ہیں۔
لباس قلمی - قلمی چھینٹ کا لباس۔

لام با تاے فوقانی

لت خوردن کار - برہم و درہم ہونا کام کا۔ ملا طغرا - دل گر از سینہ تو
کار غم از وی مطلب + لب خور دکار چو کاسہ ز دوکان بر خیزد۔
لتہ بدہان تپاندن - منھ کے آگے رومال رکھ لینا ہنسی وغیرہ کی حالت میں۔
لتہ چین - جو شخص پرانے چیتھڑے چنتا ہو۔
لت خوردن - مار کھانا۔
لت خوردن مہرہ - نرد کا مہرہ مارا جانا۔ سہ پنیست بیم از دخل ہم نقصان
مسعال گشتہ را + این ست از خوردن لت مہرہ تا در ششدر است۔

لام با راے مہملہ

لرزیدن - کانپنا کسی چیز کا غم کھانا ڈرنا اور شفقت کرنا۔ صائب - اقلاً
چرخ میلرزم با بروے خویش + جام لبریزیم بدست رعشہ دار افتادہ ام۔ ولہ
بدور خط از ان چاہ زنخدان بیش میلرزم + ہزار آسیب چہ حسن پایش بر جان بیش میلرزم

لام با شین

لشکر شناس - لشکر کا اندازہ کرنے والا اور عارض تخمینہ لگانے والا۔
نظامی - سپاہے نہ چندانکہ لشکر شناس + باندازۂ آن رساند قیاس
لشکر کش - لشکر کا افسر سپہ سالار۔ ظہوری - ویران نشود ولایت عقل
لشکر کش عشق گر جنون ست۔
لشکر شکوف - لشکر شکن - بہادر پہلوان جنگ آور لوگ۔ سعدی - کہ
لشکر شکوفان و مغفر شکاف + نہان چلچ چو بیند و بید امصاف - نظامی -
چنین ست در لشکرش تیغ زن + زہے لشکر آراے لشکر شکن۔
لشکر گاہ - لشکر کے اترنے کا مقام۔ میر معزی - گر گاری لشکری بر کوہسار
از چیز خویش + ابر نشواند کہ لشکر گہ زند بر کوہسار
لشکر پناہ - افسر لشکر کا۔ نظامی - بدان آمدن شاد مان گشت شاہ
از ان پہلوانان لشکر پناہ۔

لام با عین

لعل مذاب - سرخ شراب۔ حافظ - از پے لفرش ملیح ورلیوحسن طرب
خوش بود ترکیب زرین جام با لعل مذاب۔
لعل رنگدار - جس لعل میں رنگ ہو اور عیب ہو۔ مغز خطرات نشود جنون
خواہش پیمانہ نوشی چشم مست را + کند رنگدار موج بادہ لعل می پرستش را۔
لعبت باز - پتلیوں کا تماشا کرنے والا۔ میرزا بیدل - شوخیان لعبت ہا
در تماشا گردان + بلعبت باز نگر کز لب چادر کند بازی۔

لعاب شمس - سراب یعنی چمکتا ہوا ریتہ۔
لعل فلک - آفتاب۔
لعاب لعل - شراب سرخ اور آفتاب۔
لعاب نحل - مکھی کا لعاب یعنی شہد۔
لعل از سنگ زادن - مشقت سے ملنا کسی چیز کا۔
لعل خفتان - امیر حمزہ کی سمت چپ کے امرا میں سے ایک امیر کا نام جو
سیر نجات - زدست سپہ ساقی آمد بمجلس + بلک قاسم لعل خفتان ملینا۔
لعل روان - لعل سفتہ - شراب سرخ - نظامی - کہ لعل سفتہ بہ پیمانہ خو
تگے گوش پر لعل ناسفتہ کرد۔
لعل فشان - ساقی شراب پلانے والا۔ امیر خسرو - لعل فشان ساقی زرین کمر
گشتہ چو خورشید فلک لعل گر۔
لعبت خانہ - تصویر خانہ بت خانہ۔ میر معزی - بروے خویش کو سر
برزن من + چو لعبت خانۂ نوشاد دارد۔

لام با غین

لغت دان - لغت ساز - زبان دان - ملا طغرا اقوال کی لغیان
لغت ساز قاموس خواندگی ست + شفا دان علم نوازندگی ست۔
لغزیدن - پھسلنا لغزش کھانا۔ صائب - مگر گویا از ان آئینہ رخسار شد
صائب + کہ میلغزد زبان در حالت گفتار طوطی را۔

لام با قاف

لقمہ در گلو ایستادن فرو نمی رود - نہایت تجسیس و بخیل ہے کہ لقمہ کھا نہیں سکتا۔
کمال خجندی - اگر ببلغرستی زغم نعیم بکال + ہزار لقمہ کہ ببہ نمک سا چگونہ خورد
لقمہ آہن چشیدن - زخم تلوار کا کھانا۔
لقمہ آہن کشیدن - زنجیر پہننا۔

لام با کاف

لک و لنج - دہان لب یعنی ہونٹھ۔ فوقی یزدی - چمن نگرد سراب و لنجش
کر لب شہد و قند بادہ منتخب ست۔
لک و پک - اثاث البیت گھر کا اسباب۔
لکد بر ابر زدن - بادل پر لات مارنا غرور و تکبر کرنا۔
لکد بر گور حاتم زدن - سخاوت کا دعوے کرنا۔
لکد خوردن - لکد کوب خوردن - مار کھانا۔ الا وحشی - از دست روزگار
لکد کوب خورد سے عشق ہر کہ می برد ایام خود بسر
لگام اندا ختن - سرکشی سے باز رہنا۔
لگام بر اسپ کردن - کشیدن - نہادن - گھوڑے کو لگام دینا۔ میر معزی

چون بیچون شاہ مشرق پاے کرد اندر رکاب + کرد دست عزم تو پاے سبک لگام
ولہ - تا نہاد اقبال تو برگردن گردون لگام + ملک بے آرام و توسن ایام
گشت و آرمید - انوری - سگر نگولی کفایت تو کشید + بہ سر توسن سپہر لگام
لگام خائیدن - سرکشی و نافرمانی کرنا - میر خسرو - لاجرم در زیر ران بداے
تو + ابلقش اکنون ہمی خاید لگام -
لگام دادن - متوجہ ہو کر اطاعت میں لانا - نظامی - ہمہ ملک ایران مرا شد
تمام + بہندوستان داد خواہم لگام -
لگام از سر گرفتہ - بے لگام سرکش نافرمان - عشرتی - مرا ور خانہ از جنس سوا آے
لگام از سر گرفتہ استری ہست -

لام با میم

لمن الملک زدن - اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرنا تکبر و خودی کرنا - نظامی
لیست درین دائرہ دیر پاے + کو لمن الملک زند جز خداے - صائب -
فگند گوش بہ پروانہ معزولی خط + حسن غافل لمن الملک زنان ست ہنوز -

لام با نون

لنگر دار - بہت بھاری وزن دار - صائب - عشق می آرد دل افسردہ
را بالشور + مضطرب از طوفان بود دریاے لنگر دار ما -
لنگر شمشیر - سنگینی تلوار کی از روے قیمت و جوہر وغیرہ کے - داراب بیگ جویا
تا ازان ابرو کے خونریز بدل کارکنند + ترسم از لنگر شمشیر سبے تاب کسے -
لنگر گیر - لنگر دار کشتی جو لنگر کی گرانی سے ایک مقام پر استادہ ہو - آصف
بود معذور گر وجد آید سالک واصل + کہ کشتی نیست لنگر گیر چون گردید دریاے -
لنگر بخود گرفتن - اپنی جگہ پر قایم رہنا - صائب - بجز بر قصور جنون لنگر
نمیگیرد بخود + کے زسنگ کودکان دیوانہ شورش کم شود -
لنگیدن - لنگ کردن - آہستہ چلنا سفر میں کسی جگہ مقام کرنا - سنجر کاشی
طلب ابرم تیغ ست رہ در منزل اول + ز ہمراہی من لنگد خضر گر ہم سفر گردد -
صائب - ہر کرا در طلب ست زبانہ نشنید + ہست در قافلہ ریگ روان صائب لنگ
لنگوتہ بستن - دنیا چھوڑنا گوشہ نشین ہونا - شاہ داعی شیرازی - دل
بفراغت دہ و لنگوتہ بند + از جہت زر بہ جہان پوتہ بند -
لنگر انداختہ - مرد متحمل و بردبار -
لن ترانی - خطاب الہی جو موسی علیہ السلام کو بجواب درخواست رویت ربانی کے ہوا -

لام با واو

لوح تربت - وہ تختہ پتھر کا جو قبر پر نصب کرتے ہیں - قاسم مشہدی
قناعتش ہم و ندیدیم خاطر جمعی + از سنگ تفرقہ کردند لوح تربت ما -
لوح مرقد - لوح قبر - لوح مزار - وہ پتھر جو قبر پر نصب ہو - محسن تاثیر
مزار ما بہ بیابان کوہکن شہادت عشق + اگر لوح زوقید حق در سنگ بیستون نشنید
اردو - لوح مزار پہ یہی مصرع لکھ دیجئے + مرجانیگے پہ دل نہ کسی سے لگائیے
لوح مشق - تختہ مشق لڑکون کا -
لوح پاک - تختہ جو سادہ ہو - صائب - عالمے از راست گوئی دشمن ما
گشتہ اند + ما چہ میکردیم چون آئینہ لوح پاک را -
لوح طلسم - وہ تختہ جس پر نقش طلسم لکھا ہوا - شفیع اثر - زبس غبار
کدورت ز آسمان دیدم + بزیر خاک چو لوح طلسم پیچیدم -
لوح دیوان - وہ لوح طلائی جو کتاب کے آغاز پر بمقام بسم اللہ بناتے ہیں
شفیع اثر - بسکہ دارد طبع ارباب سخن افسردگی + سیہ ہر لوح دیوان یاد از لوح مزار
لوز ینہ لگا و دادن - بیل کو حلوا کھلانا بموقع کام کرنا -
لوح سادہ - سادہ لوح - وہ تختہ جس پر کچھ نہ لکھا ہو اور آدمی بیوقوف -
لوح ناخواندہ - علم لدنی -
لوح تعلیمی - لڑکون کی مشق کا تختہ - مولانا جامی - زخط سبزہ خاکش
لوح تعلیم + کشیدہ جوے آبش جدول سیم -

لام با یاے

لیلۃ البدر - چودھوین رات چاند کی جس رات چاند پورا دکھائی دیتا ہے -
لیلۃ القدر - وہ بزرگ رات جو اخیر دس رات ماہ رمضان میں آتی ہے اور
قرآن ناطق ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار ماہ کے برابر ہے - صفدر
فوقانی - دو ابرویش ہلال و چہرہ اش بدر + دو گیسویش سواد لیلۃ القدر -
لیسیدن - چاٹنا چنانچہ خاک لیس کاسہ لیس وغیرہ

چوتھی فصل

اردو محاورات کے بیان مین

لام با الف

لات جانا - بے تسبیح ہو جانا گاے بھینس وغیرہ کا اور دودھ موقوف ہو جانا کیونکہ وقت لات لگتا ہے بار برداری -
لات مارنا - نفرت کرنا بیزار ہونا ٹھوکر مارنا - جرات - ہو اہون جسکے لیے
مین خوار حیف وہ شوخ + کبھی نہ لات بھی آکر مزار پر ماری -
لاتون کا دیو باتون سے نہین مانتا - سرکش آدمی مار کھائے
بغیر سیدھا نہین ہوتا -
لاٹھی لو لگا کرنا - جوتی پیزار کرنا مارنا -
لاٹھی مارے پانی جدا نہین ہوتا - کسیکی دراندازی سے قریبی رشتہ دار
جدا نہین ہو سکتے
لاجواب کر دینا - بولنے نہ دینا بند کر دینا -

لاجون مرنا - لاج آنا - لاج لگنا - شرم کرنا لحاظ کھانا آبرو کے واسطے جیتے رہنا
لاحول پڑھنا - شیطان سے بچنے کے لیے دعا مانگنا خدا سے پناہ مانگنا
لاڈ لڈانا - چاؤ چوچلے میں پالنا ناز اٹھانا -
لارا لیری لگانا - لیت لعل کرنا - آجکل کرتے رہنا -
لاسا لگانا - کسیکے پیچھے کوئی آفت لگا دینا -
لاسے پر لگانا - فریب میں لانا فریفتہ کر لینا -
لاش پر لاش پڑنا - بہت سے آدمیوں کا قتل ہونا -
لاش ٹھوالنا - قتل کرنا مار ڈالنا -
لاف مارنا - شیخی کرنا جھوٹھی بڑائی کرنا -
لاکھا لگانا - جمانا - پان کھاکر ہونٹھ سرخ کر لینا -
لاکھ سر کا ہو جانا - قید کرنا ہٹ کرنا کسیکے کہنے کو خیال میں نہ لانا -
لاکھ کا گھر خاک کر دینا - مال و دولت برباد کر دینا -
لاکھ کا گھر خاک ہو جانا - مفلس ہو جانا کنگال ہو جانا تباہ ہو جانا
لاکھ من کا ہو جانا - وزن دار ہونا صاحب دولت ہونا قدر و منزلت بڑھ جانا
لاگ رکھنا - تعلق رکھنا دشمنی رکھنا آن بن رکھنا -
لاگ کھلانا - کوئی جادو کی ہوئی چیز کھلا دینا -
لاگ لگنا - عشق پیدا ہونا محبت قایم ہونا - میر جسکے دل کو تیری زلفون سے میان لاگ لگے + اسکی آنکھون میں جو رہی بھی ہو تو ناگ لگے
لاگو ہونا - مزاحم ہونا پیچھے پڑنا سر ہونا - میر حسن - اگر اب میں لاگو ہون اسکی کبھی + تو پھر چوک یہ بوجھیے تم تبھی
لال انگارا - غضبناک غصہ کی حالت میں - قطعہ از مولف - آدمی خاکی بنا تھا خاک سے + آگ کا پتلا بنا کس واسطے + اپنی طینت اور اصلیت کو بھول + لال انگارا ہوا کس واسطے -
لال پڑ جانا - سرخی پر آنا پک جانا غصہ میں ہونا - ۵ منہہ کے کھانے کی علامت ہے شفق کا پھولنا + لال وہ جھبیر ہوے رونا بھی کم ہو جائگا -
لال پیلی آنکھیں کرنا - غصہ ہونا غضبناک ہونا -
لال خان کے لکڑ سے باندھنا - پہلی بادشاہت کے وقت کوتوالی میں ایک بڑا لکڑ زمین میں گاڑا رہتا تھا مجرمون کو اسکے ساتھ باندھکر سزا دیتے تھے اسکو لال خان کا لکڑ بولتے تھے مارنا سزا دینا -
لال لنگوٹ والا - بوزنہ یعنے بندر -
لالہ کھیا کرنا - لالہ اور بھائی کہکے بات کرنا محبت اور پیار سے بلانا -
لالے پڑنا - نا امیدی ہونا آفت میں پڑنا - آتش - سیکھ ار لب یار کی تعریف کرون کیا + وہ لعل کہ دیکھے سے پڑین جان کے لالے -

لالی رہجانا - آبرو رہجانا سرخرو ہونا -
لال کتاب - حساب کتاب کی کتاب -
لاگ ڈانٹ - آن بن شکر رنجی -
لاگ لپیٹ - طرفداری حمایت فریب چھل مکر تعلق -
لاگدار - یار آشنا محبتی رشتہ دار -
لال بجھکڑ - بیوقوف احمق جو اپنے آپ کو عقلمند تصور کرے -
لال سوداگر - وہ سوداگر جو ادھر سے اسباب خریدے اور ادھر فروخت کر دیوے
لالون کا لال - نہایت پیارا عزیز دل عزیز -
لاکھ جی سے - بدل و جان ہزار جان سے -
لال پانی - سرخ شراب - مولف - کئے لاکھون مئے گلگون نے برباد سراپا آگ ہے یہ لال پانی -
لال پری - سرخ شراب - ۵ - روز شیشہ میں ترقی ہے یہان لال پری ساقی انجمن عیش بھی عامل ٹھہرا - مولف - ترا کچھ تماشہ ابی کا + لے اڑی اسکو جب وہ لال پری -
لالہ جی - ہندوئون میں عزت کا لقب ہے - ۵ - کوئی بھی آیا نظر باقی نہ وار دہر میں + جب میان صاحب گئے اور لالہ جی رخصت ہوے -

لام با بائے

لب بند ہونا - خاموش ہونا زیادہ تر بیٹھی کھانے سے ہونٹھون کا چپک جانا - مومن - کیون پوچھے حال انکی عاشق وگئے سے + ہو گئے ہین بند لب شیرینی لقد سے
لب چٹائی کرنا - زبان نکلنا لغو باتین کرنا -
لب گور ہونا - مرنے کے قریب ہونا -
لب لگانا - تھوک لگانا -
لب معشوق ہونا - تیر کا سوفار تک پہونچنا -
لبین لینا - مونچھین کترنا شرعی کرنا -
لپڑ لپڑ لپ لپ کرنا - بیہودہ بکنا بکو -
لپکا پڑ جانا - عادت ہو جانا چسکا پڑ جانا - وزیر - چشم لیلی کو یہ لپکا تھا نظر بازی کا + دشت میں قیس کو دیکھ آتی تھی آہو ہو کر -
لپکی پھینا - کچی سلائی کرنا -
لپ لپ کرنا - خوف کے مارے کانپنا -
لپٹوان بات کہنا - گول مول بات کہنا -
لپ جھپ - جلد جلد جھپٹ پٹ -
لپڑ دھون دھون - شور و غل تکرار -
لبون پر جان - قریب المرگ ہونا - ۵ - اب تو لو منہ سے پوچھ اسکا حال ہے + تیرا عاشق کی لبون پر جان ہے

لب ولہجہ۔ طرز گفتگو، انداز کلام۔

لام با تاے

لت پت۔ لتھڑا، پتھڑا۔ سن جانا، بھر جانا۔

لت ہونا۔ دو چیزوں کا آپس میں بخوبی مل جانا، عادت ہونا، خو پڑ جانا۔ اشک۔ انگشت آرزو سے وہ آج لت ہوئی + بارے مریض چشم میں اتنی سکت ہوئی۔ میر۔ عدم میں بھی یہ غم رہیگا کہ اوروں پر اب ستم رہیگا + تمھیں تو لت ہی ستانے ہی کی کسی پہ آخر جفا کروگے۔

لتے لینا۔ دھجیاں اڑانا، برے کرنا۔ آتش۔ آفریں صد آفریں دست جنوں + خوب ہی لتے لیے پوشاک کے۔

لٹس لوٹ مچانا۔ غارت کرنے لگنا، غدر مچا دینا، فساد برپا کر دینا۔

لٹک کر چلنا۔ معشوقانہ انداز سے چلنا۔ میر۔ سرو و تدرو دونو پھر آپ بن نہ آئے + گلزار میں چلا تھا وہ شوخ ٹک لٹک کر۔

لٹ جانا۔ غارت ہو جانا، نقصان ہونا۔ مولانا اکبر الہ آبادی۔ آیا بازار محبت میں جو سوداگر کوئی + مال سب اسکا ہوا تاراج سودا لٹ گیا۔

لٹو ہونا۔ مست ہونا، عاشق ہونا، فریفتہ ہونا۔

لٹھ مارنا۔ سونٹا مارنا، سخت گفتگو کرنا۔

لٹیا ڈبونا۔ کنوئیں میں لوٹا گرا دینا، پانی پینے کا ذریعہ تلف کر دینا، نقصان اٹھانا، ہمت ہارنا۔

لٹیا ڈوبنا۔ تباہ و برباد ہو جانا، بگڑ جانا۔

لٹے پٹے دن کاٹنا۔ مشکل سے گزارہ کرنا۔

لام با جیم

لچھن جھڑ جانا۔ صورت بدل جانا، چہرہ پر رونق نہ رہنا، بدشکل ہو جانا۔ آتش۔ روز وصال آنکھوں کو اپنے دکھائیگا + روز شب فراق کے لچھن جھڑے ہو۔

لچ بہادر۔ شہدا، لچا، شورہ پشت۔

لخت جگر۔ جگر کا ٹکڑا، بیٹا، فرزند۔ فغان۔ بوے کباب سوختہ آتی ہے خاک سے + دامن سے کیا گرا کوئی لخت جگر فغان۔

لچھے دار باتیں۔ مسلسل تقریر، پیچ در پیچ بات۔ سہ۔ زلف پیچان کی کیا کہوں تعریف + کیونکہ وہ لچھے دار باتیں ہیں۔

لام با حاے حطی

لحاظ اٹھا دینا۔ بے لحاظ و بے شرم ہو جانا۔

لام با دال مہملہ

لڈو دکھلانا۔ ضیافت کرنا، رشوت دینا۔

لڈو ملنا۔ فائدہ ہونا، مال ملنا۔

لام با راے

لڑائی باندھنا۔ بیر باندھنا، دشمنی کرنا۔ قطعہ از مولف۔ ہمارے بت بھی کیا بت ہیں خدایا + کہ پل میں خدائی باندھتے ہیں + نہیں رکھتے کسی سے بھی صفائی + زمانہ سے لڑائی باندھتے ہیں۔

لڑائی تلنا۔ لڑائی کا سر پر آ جانا، قریب الوقوع ہونا۔ انشا۔ جب تل گئی لڑائی ترازو کے تول پر + بالوں سے بانٹ پھوٹے دھڑوں سے دھڑے لٹے۔

لڑائی مارنا۔ لڑنا، جنگ کرنا، شکست دینا، جھگڑنا۔ میر۔ حیرت کی جگہ ہے یہ ہی بارے + کیا پوچھتے ہو مرتے ہیں عاشق ہمارے + مشہور ہے عشق نے لڑائی ماری + اسیر کہ کٹتے لوگ سب کے مارے۔

لڑائی مول لینا۔ خواہ مخواہ بے وجہ لڑنا۔ آتش۔ سوا صف بندی مژگان سے ظاہر + لڑائی لیں وہ آنکھیں ڈھونڈھ کر مول + مولانا اکبر۔ کسیکو چھیڑتے ہیں اور کسیکو گالی دیتے ہیں + غرض وہ جنگجو سب سے لڑائی مول لیتے ہیں۔

لڑکا بالا۔ عیال، اطفال، گھر کے لوگ۔

لڑ لگانا۔ وسیلہ پیدا کرنا، پس جانا۔

لڑ مرنا۔ سخت لڑائی کرنا، قتل ہو جانا۔ سہ۔ کوئی عاشق جفا پر اور کوئی ہے روے رنگیں پر + یہ دو لو کشتگان ناز لڑ مرتے ہیں آپس میں۔

لڑ میں رہنا۔ طرفداری و حمایت میں رہنا۔

لڑے فوج نام سردار کا۔ نوکر کام کرتے ہیں اور نام افسر کا ہوتا ہے۔ میر۔ قتل کرتی ہی مژہ شہرہ ہے چشم یار کا + جنگ کرتا ہے سپاہی نام ہے سردار کا۔

لام با شین

لستی لستی ہونا۔ کام کرتے کرتے تھک جانا۔

لشتم پشتم۔ ہر طرح جس طرح ہو سکا۔

لشکری بولی۔ کئی زبانیں ملکر ایک بنی ہوئی بولی۔

لام با طاے مہملہ

لطف اٹھانا۔ مزہ حاصل کرنا، لذت پانا۔ سہ۔ غم فرقت جو لوگ کھاتے ہیں + عشق کا لطف وہ اٹھاتے ہیں۔

لطیفہ چھوڑنا۔ دلپسند بات کرنا۔

لام با عین

لعل اگلنا۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنا۔

لعل لگ جانا۔ قیمتی ہو جانا، مرتبہ بڑھ جانا۔ ذوق۔ بوسے کو مانگتے ہی پھیرنے چتون کو لگے + ایسے کیا لعل لب غیرت گلشن کو لگے۔

لعل لگے ہوے ہونا۔ بڑی قیمتی ہونا۔ داغ۔ ہم اب سے لینگے بوسے ترے سامنے + کیا ایسے لعل ہیں ترے لب میں لگے ہوے۔

لعنت بھیجنا۔ پھٹکار کرنا۔ نفرت کرنا۔ حکیم انور لاہوری۔ خدا اسسے ہوگئی جنکو [illegible]
محبت + وہ اس دنیا کو لعنت بھیجتے ہین۔
لعنت کا مارا۔ ملعون مردود خلائق۔
لعنت ملامت کرنا۔ برا بولنا پھٹکارنا۔

لام با عین

لغت تراشنا۔ گڑھنا۔ نئے الفاظ دل سے پیدا کرنا۔
لغت [illegible] بولنا۔ [illegible] الفاظ [illegible] اپنی علمیت ظاہر کرنا۔

لام با فا

لفافہ بنا رکھنا۔ ظاہری زینت بنا کر لوگون کو دھوکا دینا۔
لفافہ کرنا۔ اصل راز نہ کھولنا پردہ مین بات رکھنا ہلکا ملمع کرنا۔
لفافہ کھل جانا۔ عیب ظاہر ہوجانا۔ وزیر۔ حسن عارض عارضی تھا کھل گیا + خط کے آنے سے لفافہ کھل گیا۔

لام با قاف

لقمان کو حکمت سکھانا۔ کسی لائق اور عقلمند آدمی کو نصیحت کرنا۔
لقمہ دینا۔ کسیکے منھ مین نوالہ دینا۔ بیچ مین چھیلی ڈالنا۔ کسیکی بات مین بول اٹھنا۔ فارج ہونا۔ رشوت دینا۔
لقمہ کرجانا۔ کھا جانا۔ ہضم کرجانا۔
لقوہ مارجانا۔ منھ ٹیڑھا ہوجانا۔

لام با کاف

لکڑیان دینا۔ مردہ جلانا۔
لکڑیان کھانا۔ مار کھانا خوب پٹنا۔ آبرو۔ جہان اس خو کی گرمی تھی وہان آگ کو غیرت + مقابل اسکے ہوجاتی تو آتش لکڑیان کھاتی۔
لکڑی پھینکنا۔ چوب بازی کرنا پٹا کھیلنا۔
لکھا پورا کرنا۔ قسمت کے دن کاٹنا۔
لکھا پورا ہونا۔ قسمت کا لکھا مل جانا۔
لکھ پیڑا۔ جس باغ مین بہت درخت ہون۔
لکھت پڑھت ہوجانا۔ تحریری اقرار ہوجانا۔
لکھے مو سے پڑھے خدا۔ بہت بدخط جسکو کوئی پڑھ نسکے۔ ناسخ تصویر صنم مین کرے کلک ازل + پنہان ہم اسیا نکا ہی خلل + جز عالم غیب کون جانے یہ راز + لکھے مو سے پڑھے خدا سچ ہے مثل۔
لکیر کا فقیر ہونا۔ پرانی رسمون کو ماننا۔ اپنی عقل کو اسمین دخل نہ دینا۔ سب تو [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ایل فقیر ہین [illegible] [illegible] [illegible] بیان فقیر [illegible] ہمین اس لکیر کے۔

لکیر پیٹنا۔ لکیر پیلنا۔ قدیم رسم پہ چلنا۔ نظیر۔ خیال لف کرتو اسے نقیر [illegible] کرگیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر۔
لگا رکھنا۔ رکھ چھوڑنا دم دعا لئے مین رکھنا۔
لگا رہنا۔ معروف رہنا مشغول رہنا لگھات مین رہنا۔
لگا کھانا۔ مقابلہ کھانا ٹکر کھانا۔
لگا لانا۔ دم دلاسا دیکر لے آنا۔ سہ۔ وحشی وہ ہین کہ ہمکو لگا لائی بوے گل لیجیی بہار مین نہ کسی سے چمن کی راہ۔
لگا لگانا۔ فروغ کرنا آغاز کرنا۔ جرات۔ کیونکر جرات لگائین ہم لگا + کہ فرشتے کا وہان لگاؤ نہین۔
لگا لینا۔ اپنی طرف مائل کرلینا محسوب کرلینا۔ جرات۔ جو لگا لینے کو وہ فتنہ دوران تو بلا + پہ طبیعت بھی غضب ہی ہے کہ لگ جائیگی۔
لگام دینا۔ چپ کرانا۔ ہاتھ چڑھانا تولنا بند کرنا [illegible]۔
لگا نا بجھانا۔ لگائی بجھائی کرنا۔ دو شخصون کو ادھر ادھر کی باتین سنا کر کبھی لڑائی کبھی صلح کرا دینا۔ جرات۔ لگا آتش جگر کو سوز الفت اب لگاتا ہے لگانا اسکو کہتے ہین بجھانا اسکو کہتے ہین۔
لگاوٹ کرنا۔ آمیزش کرنا ملاپ کرنا۔
لگائی کرنا۔ عورت کو گھر مین ڈالنا۔
لگ چلنا۔ بھڑ کر چلنا اڑ کر چلنا چھو کر چلنا۔ میر۔ خطر کر تو نہ لگ چل اے صبا اس زلف سے اتنا + بلا آئیگی تیرے سر جو اسکا ایک مو ٹوٹا۔ آتش۔ صبا کی طرح ہر اک غیرت گل سے ہین لگ چلتے + محبت ہی سرشت اپنی ہمین یارانہ آتا ہے۔ نظیر۔ کل لگ چلے جو ہمدم ہم یار سے زیادہ + دشنام دیکے جھڑکا سر بار سے زیادہ۔
لگی بجھنا۔ شوق پورا ہونا خواہش ملنا۔ بحر۔ سوز فراق یار کہون کسسے کیفیل میری لگی بجھیگی نہ ہرگز خلیل سے +
لگی بجھانا۔ کسیکی خواہش پورا کرنا۔ جرات۔ غرض یہ آتش دل اور بھی بھڑکی ہی نالے سے + لگی کو گرچہ اشک چشم کتنا ہی بجھاتے ہین۔
لگی لپٹی رکھنا۔ طرفداری کرنا۔
لگی نہ رکھنا۔ کچھ تعلق نہ رکھنا صاف صاف کہدینا۔ سہ۔ ہے تیری کان زلف معنبر لگی ہوئی + رکھے گی یہ نہ بال برابر لگی ہوئی۔
لکھ لٹ۔ فضول خرچ کھاؤ اڑاؤ۔
لگ بھگ۔ عنقریب قریب قریب۔
لگے ہاتھ لگتے ہاتھ۔ ساتھ کے ساتھ اسیوقت۔
لگے [illegible]۔ جو لوگ جوا کھیلتے ہین انکے ساتھ اوپر سے جوا بدنے والے۔
لگے [illegible]۔ پہلو بپہلو پاس پاس۔

لام با لام

للو پتو کرنا - خوشامد کرنا منت سے کام نکالنا -

للو نہ رہ سکنا - زبان نہ رہ سکنا بولتے جانا -

للو پنجو - احمق بیوقوف نالائق -

لام با میم

لمبا بننا - لمبا ہونا - چلدینا رخصت ہونا - رشک - قیامت ٹھہرے ہی بالائے موزونکی بلندی کا + سنے طوطی جو اسکو گلشن جنت سے لمبا ہو -

لمبا سفر کرنا - دور دراز ملکون کو جانا -

لمبا کرنا - رخصت کرنا وداع کرنا -

لمبیان کرنا - پرندونکا بلند چڑھ جانا گھوڑون کا دوڑ کر دور نکل جانا -

لمبی تاننا - بے خبر سو رہنا مر جانا -

لمبی چوڑی ہانکنا - شیخی کرنا گھمنڈ کرنا -

لمبی سانسین بھرنا - افسوس کرنا سرد دم کھینچنا مرنے کے قریب ہونا -

لم لگانا - الزام اور تہمت لگانا -

لام با نون

لنگر اٹھانا - کشتی کو چلانا -

لنگر جاری کرنا - غربا و مساکین کو کھانا ہر روز تقسیم کرتے رہنا -

لنگر ڈالنا - کشتی چلتی کو ٹھہرالینا -

لنگر لنگوٹ دینا - پہلوان کا شاگرد بنانا -

لنگوٹ کھولنا - ممانعت کرنا -

لنگوٹی بندھوا دینا - مفلس و محتاج کر دینا -

لنگوٹی کا ڈھیلا - زناکار عیاش -

لنگوٹی کا سچا - پرہیزگار پارسا -

لنگوٹی کھلنا - پردہ کی دیوار کا گر پڑنا -

لنگوٹیا یار - بچپن کی عمر کا دوست -

لام با واو

لوٹا اٹھانا - ادنی درجہ کی خدمت کرنا -

لوٹ پڑنا - غارت ہونا اندھیر ہونا ظلم ہونا -

لوٹ پوٹ ہو جانا - عاشق ہو جانا فریفتہ ہو جانا محبت مین بیقرار ہو جانا - جرات - اک چاند کی جھلک سے جو یہ پیٹ کی اوٹ ہی + کسو نکر [illegible] کہ دل لوٹ پوٹ ہی -

لوری دینا - بچے کو گیت گا کر سلانا -

لوکا لگانا - آگ لگانا -

لو لگ جانا - گرم ہوا کا لگ جانا -

لو لگانا - محبت اور پیار کرنا -

لو لگنا - تصویر قایم ہونا خیال رہنا - جرات - لو لگی تھی مجھے اے شمع تیرے نام کی آہ + خامشی مین بھی تو یہ ذکر فراموش نہ تھا -

لو لو بنانا - احمق اور بیوقوف بنانا -

لولین ہونا - کسی خیال مین مستغرق ہونا -

لونڈے بازی کرنا - اغلام کرنا -

لوہا بجانا - تلوار سے لڑنا -

لوہا برسنا - تلوار چلنا لڑائی ہونا -

لوہا تیز ہونا - لڑائی قایم ہو جانا -

لوہا لاٹھ ہو جانا - نہایت سخت ہو جانا -

لوہا لوٹنا - وقت پر کام نہ آنا کسی چیز کا -

لوہا کرنا - کپڑون کو استری کرنا صفائی دینا -

لوہا ماننا - کسیکی بہادری کے قایل ہو جانا - بحر - رہے سینہ سپر ہر دم جو ہر ای محبت کا + کبھی لوہا نہ مانا یار کی تیغ عداوت کا - ۵ - وحشت دل کیون نہ جو موم ہاتھ مین حداد کے + مانتا ہی قیس بھی لوہا میری زنجیر کا -

لوہے کے چنے چبانا - سخت اور دشوار کام لینا -

لوہے کی چھاتی اور پتھر کا جگر کر لینا - سخت محنت اور مصیبت کا بار اٹھانا -

لونڈھا یا کارخانہ ہی - بچونکا سا کھیل ہی -

لام با ہاے ہوز

لہار خانہ مین سویان بیچنے کو جانا - بیوقوفی کا کام کرنا لغو حرکت کرنا -

لہرا اڑانا - گانا - سریلی آواز سے گانا -

لہر اٹھنا - خیال پیدا ہونا موج اٹھنا - آتش - وہ بحر حسن جب فرقت کی شب مین یاد آتا ہی + ہمیں لہراتی ہی دلمین کہ چلکر ڈوب دریا مین -

لہر بہر ہونا - بے پروا ہونا خوش و خرم ہو جانا -

لہر چڑھنا - سانپ کا زہر چڑھنا -

لہر چھوٹنا - امنگ اور جوش اٹھنا -

لہرین گننا - دریا کی لہرین گننا بیفائدہ کام کرنا - ناسخ - آجائے اسکو دھیان آنے کی کہین یہ لہرین گنا کرون مین کہان تک کنار گنگ -

لہرین لینا - مزے مین مارنا خوشی منانا -

لہک لہک کر بولنا - خوش ہو کر بولنا -

لہنگا پہننا - عورت بن جانا -

لہو آنا - خون کے دست آنا -

لہو بگڑ جانا۔ خونی بیماری ہو جانا۔
لہو پانی ایک کر دینا۔ سخت محنت کرنا۔ آتش۔ رلاتا ہو وصال یار کا شوق
فراق اپنا لہو کرتا ہے پانی۔
لہو پینا۔ دق کرنا تکلیف دینا جان مارنا۔ میر۔ اب وہ جگر تپش سے تڑپتا ہے
تشنہ لب + مدت تلک جو میر کا لہو پیا کیا۔
لہو تھوکنا۔ منہ سے لہو جاری ہونا۔ آتش۔ عشق کہتے ہیں اسے ہیچ ابرو
کا + صورت زخم لہو تا دم آخر تھوکا۔
لہو ٹپکنا۔ خون گرنا خون نکلنا۔
لہو خشک ہو جانا۔ سخت دہشت یا غم ہونا۔ ناسخ۔ خشک ہو جاتا ہے سارا
لہو سننے کے ساتھ کوئی ناسخ کا جو مجھکو شعر آتا ہے یاد۔
لہو رونا۔ بجائے پانی کے خون رونا۔ چراغ تخلص دہلی۔ غم دست
حنائی میں شب و روز + لہو روتی ہیں گوہر بار آنکھیں
لہو سپید ہو جانا۔ محبت کا نام و نشان نہ رہنا۔ ناسخ۔ کیوں ہو گیا
اہل جہان کا لہو سپید + الفت کا کیا ہے جہان سے فرار رنگ۔
لہو کا پیاسا۔ خون کا پیاسا جانی دشمن۔ ظفر۔ جو پیئے دل کا نہ مجھسے لہو
پیتا + اس نگاہ اسکے لہو کے پیاسے کچھ بھی ہو۔
لہو کا جوش ہونا۔ محبت و ہمدردی کا جوش + میر۔ دم نکل جاتا ہے
دیکھ کر اپنا اسے نیر + آدمی سب پاس ہیں پہ بھی لہو کا جوش ہے
لہو کرنا۔ غصہ میں لانا تنگ کرنا خون کر دینا۔ جان صاحب۔ لال پیلی
اچھے غصے کی دکھا کر آنکھیں + کھاتا پیتا میں کیوں آپ لہو کرتے ہیں۔
لہو کے گھونٹ پینا۔ نہایت تکلیف برداشت کرنا۔ نظیر۔ ہیں جیسے
جوانی میں پیئے جام سبو کے + ویسے ہی بڑھاپے میں پیئے گھونٹ لہو کے۔
لہو لگا کے شہیدوں میں ملنا۔ کسی کام میں ذرا سا دخل دیکر پورا استحقاد
بن جانا۔ تیسیر۔ ناخن سے ابرو سی کا گلا اپنے ہی چھل گیا + وہ بھی لہو لگا کے
شہیدوں میں مل گیا۔
لہو لہان ہونا۔ خون آلودہ ہونا۔ مومن۔ آغوش گور میں گئے آخر
لہو لہان + آساں نہیں ہے آپ کے بسمل کا تھامنا۔
لہو لینا۔ فصد سے خون نکالنا۔
لہو موتنا۔ پیشاب کے رستے خون نکلنا۔
لہو میں ہاتھ رنگنا۔ مار ڈالنا قتل کرنا۔
لہو ہلکا ہونا۔ ڈرپوک ہونا خوفناک ہونا۔

لام یا بائے

لے اڑنا۔ کسی چیز کا لطافت زیادہ کر دینا رونق بڑھانا ابھر کا دینا۔

لیا گیا۔ شرمندہ ہوا خجل ہوا مجوب ہوا۔
لیا ہی نہیں پڑتا۔ بڑا مغرور اور متکبر ہے اسکے مزاج کی حد نہیں ملتی۔
لیا ہی نہیں جاتا۔ قابو میں نہیں آتا۔
لے بھاگنا۔ کسی چیز کو لیکر بھاگ جانا۔
لے بھاگو ہونا۔ لے کے بھاگ جانے والا۔
لے بیٹھنا۔ لے ڈوبنا۔ اپنے ساتھ دوسرے شخص کو بھی خراب کرنا۔ ...
خدا آنکھوں سے سمجھے دلکو بھی ساتھ اپنے لے ڈوبیں + نہیں تو پار تھا بیڑا
غریق بحر الفت کا۔
لیپنے کا نہ پوتنے کا۔ کسی کام کا نہ محض ناکارہ۔
لیتا بھولے نہ دیتا۔ نقد روپیہ کا سودا۔
لیت لعل کرنا۔ آجکل کرنا وعدوں میں دن گذارنا۔
لیٹ جانا۔ نرم ہو جانا نرم ہو کر کام نکالنا۔
لے دوڑنا۔ لیکے دوڑ جانا۔
لے دے کرنا۔ تنبیہ کرنا ڈانٹنا کوشش کرنا۔
لیر لیر کرنا۔ دھجیاں اڑا دینا پھاڑ ڈالنا۔
لیس ہونا۔ تیار و مستعد ہونا۔
لیک پیٹنا۔ پرانی رسم پہ چلنا۔
لیک سے بے لیک ہونا۔ راہ سے بے راہ ہونا۔
لیک لیک چلنا۔ راستی راستی چلنا۔
لیکھا ڈیوڑھا کرنا۔ آمد خرچ برابر کرنا۔
لے لگنا۔ رٹنا لگنا۔
لے لینا۔ گانا شروع کرنا آلاپنا۔ آبرو۔ تیشے بجا وے کو جب ہاتھ میں لی + مجنوں ہوا زمانہ پہ اسطرح کی لے لی۔
لے مرنا۔ تہمت و بہتان لگانا الزام دھرنا۔ بحر۔ کیا قہر ہے جو ہمکو کفن بھی
ہوا نصیب + وہ لے مرے کہ یار دوپٹا اٹھا لیا۔
لینا ہی جڑنا۔ لینے اور کتنا لگا آپس میں پھنس جانا گہری دوستی ہونا۔
لینے آنا۔ استقبال کو آنا۔
لینے کے دینے پڑنا۔ اچھا ہونے کی جگہ برا ہونا۔
لینک کھٹنک ہونا۔ لڑائی اور فساد ہونا۔
لیو چڑھنا۔ دیوار پہ کہگل ہونا۔
لینا ایک نہ دینا دو۔ حساب بیباق ہونا۔ نظیر۔ کوئی بھول کے بیٹھے
مسند پر کوئی بے نوائی و دولت کو جو اپنا ہو سمجھے اور جو مجھکو دے
لینا ایک نہ دینا دو۔ ... خرچ کا سامان ہو آگے روانہ ہوتا ہے

یعنی جیہی سال و متاع روپیہ پیسہ سرمایہ گھر کا سامان۔

پانچوین فصل

ادویات یعنے لغات متعلق بعلم طب کے بیان مین

لام با الف

لاکا ۔ یہ ایک گھانس کا نام ہی جو مکہ معظمہ سے لاتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک قابض اور مسخن ہی اور حابس سیلان خون اور پھل اسکا بواسیر کا قاطع ہی۔

لازورد ۔ معرب اسکا لاجورد جو مشہور پتھر ہی کاشغر سے لاتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک جالی اور صاف کرنے والا اخلاط کا کدورت سے مسہل سودا و دافع سودا مفرح و مقوی قلب قاطع رعاف رافع مالیخولیا و وسواس ہی۔

لاغرین ۔ یہ ایک نبات ہی مشابہ پائون خرگوش اسواسطے عربی مین اسکو رجل الارنب کہتے ہین طبیعت اسکی سرد و خشک شراب کے ساتھ پینا اسکا اسہال بند کرتا ہی ضماد اسکا محلل اورام حارہ ہی۔

لاذن ۔ رطوبت غلیظ لیس دار ہی کہ ساق اور پتون ایک پہاڑی درخت سے حاصل ہوتی ہی اور وہ درخت بقدر درخت انار کے ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم و خشک ملطف قوی و مسخن و مفتح افواہ عروق و مقوی ارواح و منضج رطوبات غلیظہ محلل صلابات و مسکن اوجاع باردہ و دافع درد سر ہی۔

لالہ سرنگون ۔ یہ ایک قسم کا لالہ پیازدار ہی اسکا پیاز دھنیا کے ساتھ کوٹ کر پانی نکالین اور پانی کو تیل مین ملاکر جوش دین یہانتک کہ پانی خشک ہو جاوے وہ تیل عرق النسا کے دفع کرنے مین مجرب گنا جاتا ہی۔

لاغیہ ۔ اسکا نبات شیردار مشابہ نبات ستھونیا کے ہی پتی گول پھول سرخ رنگ نرگس کے پھول کیطرح قسم کی کلی سپید ہیتی اور دکھاتی ہی تخم اسکا خشخاش کیطرح باریک ہی اسکے کاٹنے سے دودھ نکلتا ہی وہ جمع کیا جاتا ہی جو قوی تر ستھونیا سے ہی طبیعت اسکی گرم و خشک مسہل قوی و منقی و دافع استسقاے زقی پانی اسکے پتون کاٹنے کے ذریعہ سے مادہ مفسد کو نکالتا ہی۔

لالہ النعمانی ۔ قسم لالہ کی ہی پھول اسکا شقائق سے بڑا اور مانند پیاز کے طبیعت اسکی گرم تر مفرح و مسکر و منوم محرک باہ ہی۔

لامی ۔ یہ گوند ایک ہندی درخت کا ہی طبیعت اسکی گرم خشک مسخن و ملطف و مفتح سدہ اور پگھلانے والا بلغم کا ہی۔

لام با بائے

لبا ۔ گاڑھا دودھ گائے بھینس بکری وغیرہ کا جو تین روز تک بعد پیدا ہونے بچے کے دوہا جاتا ہی اور اسکی پیوسی بناتے ہین طبیعت اسکی سرد تر مسمن بدن و محرک باہ و دیر ہضم مولد خلط غلیظ مسدد قوی ہی۔

لبن النسا ۔ عورت کا دودھ یہ دودھ گدھی کے دودھ سے الطف ہی اگر عورت جوان اور صحیح الجسم کا ہو دختر والی کا دودھ سرد تر ہی اور لڑکے والیکا دودھ گرم تر ہی واسطے ترطیب اور تقویت دماغ و دفع بیخوابی مجرب ہی۔

لبلاب ۔ عشق پیچہ جو مشہور بیل ہی صغیر اور کبیر اور سپید اور سیاہ بہت قسم کا ہوتا ہی طبیعت اسکی سرد و خشک ملین و مسہل و مفتح و محلل و دافع درد و درد گوش و قرحہ امعا ہی۔

لبن اللقاح ۔ اخیر مین حاے حطی شیر شتر یعنے اونٹنی کا دودھ لطیف اور نہایت رقیق ہی مایل بشوریت بسبب کمی حرارت کے مسکہ اس سے نہین نکلتا طبیعت اسکی گرم خشک پینا اسکا مقوی بصر دافع ضیق و استسقاے زقی و طبلی ہی۔

لبخ ۔ اخیر مین خاے معجمہ یہ ایک بڑا درخت ہی مشابہ چنار پتی مائل بدرازی پھل چھوٹا۔

لبن الاسد ۔ شیر کا دودھ طبیعت اسکی نہایت گرمی اور تیزی مین ہی نہایت جالی و منفذ و مدر ہی۔

لبن البقر ۔ گائے کا دودھ یہ دودھ دہنیت و جبنیت و مائیت مین معتدل ہی غلظت اور رقت مین بھی معتدل ہی اور تمام دودھون سے بہتر ہی سواے بھینس کے دودھ کے اور کوئی دودھ اس سے زیادہ گاڑھا نہین ہی طبیعت اسکی معتدل گرمی اور سردی مین مقوی جوہر دماغ رافع نسیان و مالیخولیا ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لبقر کے حق مین فرماتے ہین۔ البقر لحمہ داء ولبنہ شفاء۔ یعنے گائے کا گوشت بیماری ہی اور دودھ شفا ہی۔

لبن الخنزیر ۔ خوک یعنے سور کا دودھ طبیعت اسکی سرد تر ہی دافع سل اور دق۔

لبن المعز ۔ شیر بز یعنے بکری کا دودھ مائیت اسمین غالب ہی دہنیت اور جبنیت کم بعض اسکو سرد کہتے ہین اور بعض اسکو گرم واسطے ترطیب دماغ و رفع یبس و بیخوابی مجرب ہی۔

لبن جاموس ۔ بھینس کا دودھ اسمین دہنیت غالب ہی اور ثقیل اور دیر ہضم ہی خلط غالب کے ساتھ مل جانا اسکا کام ہی۔

لبن حمار الوحش ۔ لبن الغزال ۔ گورخر اور ہرنی کا دودھ دونون گرم تر ہین اور محرک باہ و مقوی بدن۔

لبن الحامض ۔ چھاچھ یعنے لسی طبیعت اسکی سرد تر مرطب دافع تشنگی ہی۔

لبن الرماک ۔ گھوڑیون کا دودھ طبیعت اسکی گرم تر جالی و مفرح و مفتح ہی باہ کو بڑھاتا ہی طبیعت ملین کرتا ہی مدر بول و حیض ہی و منقی قرحہ رحم ہی۔

لبن ۔ فارسی مین شیر ہندی مین دودھ کہتے ہین تین جز سے مرکب ہی مائیت و دہنیت و جبنیت اور اکثین اجزا اسکے اعتبار سے [illegible]

اور رطوبت و یبوست انمین اجزا کی کمی بیشی سے شمار کی جاتی ہی طبیعت اسکی عموماً مرکب القوی ساتھ غلبہ حرارت اور رطوبت کے اور بھی گرم پہلے درجہ مین اور تر دوسرے درجہ مین اور تمام جانورون کا دودھ جالی اور دافع خلاط سوختہ اور مقوی و مسمن ہی۔

لبن الاتان۔ بہ تاے مثنات فارسی مین اسکو شیر الاغ و شیر خر مادہ اور ہندی مین گدہی کا دودھ کہتے ہین طبیعت اسکی سرد و تر ہی اگر بچہ مادہ ہو تو اور بھی زیادہ تر مفید ہی اور چاہیے کہ گرم گرم پیا جاے مرطب دماغ مفرح دل مقوی بدن فائدہ بخش امراض حارہ سے ہی۔

لبن الضان۔ اسکو فارسی مین شیر میش اور ہندی مین بھیڑ کا دودھ کہتے ہین دہنیت اور چکنیت اسپر غالب ہی گائے کے دودھ سے گاڑھا ہی طبیعت اسکی گرم تر مقوی جوہر دماغ محرک باہ دافع قرحہ ریہ و امعا و نفث الدم و تاثیر لودہ و سموم کی۔

لبن السودان۔ اکثر لوگ کہتے ہین کہ یہ فرفیون کے دودھ کا نام ہی بعض کہتے ہین کہ سودان سواے فرفیون کے ایک اور چیز ہی گوند کیطرح سیاہی مائل طبیعت اسکی گرم خشک زہر قاتل ہی سونگھنا اسکا رعاف جاری کرتا ہی اور کثرت استعمال سے مہلک۔ واضح ہو کہ اور ادویات شیر دار کو یتوعات کہتے ہین مانند مازریون سیاہ و فرفیون و سقمونیا وغیرہ سب یہ زہریلے ہین اور مسہل قوی شدت سے لفظ یتوعات یعنے یاے یا مین انکی بحث ہوگی انشاء اللہ۔

لام باے فوقانی

لتکو۔ پھل ایک درخت کا ہی جو بنگال مین بکثرت ہوتا ہی بقدر درخت الوچہ کے مزہ پھل کا خام ترش اور پختہ میخوش طبیعت اسکی سرد و تر مسکن صفرا و حدت خون ہی۔

لام جیم

لجالو۔ یہ گھاس نمناک زمینون مین پیدا ہوتی ہی جو دو قسم پر منقسم ہی ایک قسم جو خشکی مین بموسم برسات پیدا ہوتی ہی ایک گز تک اونچی شاخین پتلی پتی بہت چھوٹی دوسرے جو نالابون کے کنارون پر ہوتی ہی یہ زمین پر پھیل جاتی ہی اور بیچ مین ایک شاخ ان دونون کو اگر کوئی ہاتھ لگاے تو پتے اسکے آپس مین لپٹ جاتے ہین اور جو ہاتھ الگ کرین تو پھر کھل جاتے ہین اہل ہند اسکو عظیم النفع بلکہ کیمیا کی بوٹی تصور کرتے ہین طبیعت اسکی سرد و تر محلل اور جالی اور منضج و مفتح دافع فساد خون و صفرا و سودا اور پرانے زخمون کو اچھا کرتی ہی بواسیر کا علاج ہی۔

لحیۃ التیس۔ یہ ایک نبات جسکی ماہیت مین اختلاف ہی طبیعت اسکی معتدل گرمی اور سردی مین اور خشک دوسرے درجہ مین قابض اور قاطع نزف الدم و اسہال دموی و قرحہ ریہ مقوی معدہ ہی۔

لحم۔ گوشت جو مشہور چیز ہی ہر ایک حیوان کا گوشت الگ الگ تاثیر رکھتا ہی اور یہ اعلی غذا انسانی غذاون سے ہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے باب مین سید الطعام اللحم فرمایا ہی فوائد اسکے بیشمار ہین جو بڑی کتابون مین مفصل لکھے ہین بلکہ ہر ایک وحش و طیر کے گوشت کے فوائد الگ الگ درج کیے ہین۔

لام با خاے

لخنیس۔ یہ ایک قسم خیری بری کا ہی پھول اسکا بنفشی دانہ سیاہ اور تلخ طبیعت گرم و خشک مسہل قوی ہی اور دافع زہر عقرب اگر پھول اسکا عقرب کے آگے رکھدین فی الفور مر جاے۔

لسان الکلب۔ بعض اسکو بارتنگ کہتے ہین اور بعض حماض اور بعض سواے انکے ایک الگ نبات کہتے ہین جسکی ساق دو گز تک گرہ دار پتے مانند بارتنگ پھول بنفشی طبیعت گرم خشک ورم الطحال کا خاص علاج ہی۔

لسان الثور۔ اسکو اذان الثور بھی کہتے ہین جو ایک نبات ہی بو اسکی مشابہ لوبیا کے پتے چوڑے پھیلے ہوے زمین پر لزوجت زیادہ گاوزبان سے پتے اسکے خام اور پختہ کھانے مین آتے ہین طبیعت اسکی سرد و تر زبان کی ہر ایک بیماری کا یہ علاج ہی اور ہر ایک دنبل اور شبور کو جو سرخ اور سخت ہو دفع کرتے ہین۔

لسان الثور۔ فارسی مین اسکو گاوزبان بولتے ہین مشہور دوا ہی تازہ اور سبز گرم تر خشک مین رطوبت کم مایل بخشکی مفرح و مقوی ارواح حرارت غریزی کو زیادہ کرنے والی ملین طبع مسہل صفرا دافع سرسام و مالیخولیا ہی۔

لسان العصافیر۔ فارسی مین اسکو زبان گنجشک ہندی مین اندرجو کہتے ہین یہ ایک درخت کا پھل ہی پتے جسکے مشابہ پتے بادام کے بنگال مین بکثرت ہوتا ہی ایک تلخ دوم شیرین دو قسم پر منقسم ہی طبیعت اسکی گرم خشک مسکن ریاح دافع درد پہلو و خفقان و سرفہ و ضیق النفس ہی۔

لسان السمع۔ یہ ایک نبات ہی بقدر دو گز کے بلند شاخین پراگندہ پتے لمبے اطراف انکے تیز اور دندانہ دار آرہ کیطرح پھول بنفشی قبے گول طبیعت گرم خشک دافع سنگ گردہ و مثانہ ہی۔

لسان الابل۔ یہ ایک نبات ہی شاخین اسکی پراگندہ مایل بسپیدی پتے سدا بہار کے درخت کیطرح پھل اور چوڑا طبیعت سرد و خشک اسکے پتون کے خیساندہ کا پینا اور شاخ کا چبانا زبان کی لکنت کو دفع کرتی ہی قروح اندرونی کا علاج ہی۔

لسان الحمل۔ فارسی مین اسکو بارتنگ صغیر اور کبیر دو قسم پر منقسم ہی کبیر کے پتے مشابہ زبان بکری کے سبز لمبے اور تھوڑے چوڑے پھول زرد رنگ بیج گول صغیر ایسے ہی ہی مگر پتے چھوٹے ہین طبیعت سرد اور خشک دافع رعاف و جرح و درد گوش و درد دندان ہی۔

لسان۔ زبان جو مشہور عضو ہی فوائد اسکے جو انسان کو حاصل ہوتے ہین ظاہر ہین یہ عضو گوشت رخو غدودی سے مرکب اور رگین اور عصب عضلات اور

غشاوہ سے بنا ہی طبیعت اسکی گرم تر گوشت اسکا سریع الانحدار مرطب بدن ہی منی کو زیادہ کرتا ہی۔

لام با صاد

لصیقی ۔ یہ ایک خاردار ہی جو کپڑون کو چمٹتی ہی اس سبب سے لصیقی نام رکھا گیا ہی طبیعت اسکی گرم و خشک محلل ہی پینا اسکے جوشاندہ کا ساتھ شہد کے کھانسی کو دفع کرتا ہی اور ضماد ورم مقعد کو نافع ہی۔

لام با طین

لعاب ۔ آب دہن یعنے تھوک روزہ دار آدمی کے منھ کا تھوک درد گوش کو فائدہ دیتا ہی اور اگر کان مین کرم ہوتے ہین تو تھوک کے ڈالنے سے مرجاتے ہین اور اگر سانپ کے منھ مین ڈالین تو سانپ مرجاتا ہی۔

لعل ۔ اقسام یاقوت سرخ سے ہی پرانی کتابون مین اسکا ذکر نہین عرصہ تین سو برس کا گذرتا ہی کہ بسبب زلزلے کے بدخشان مین ایک پہاڑ پھٹ گیا اور لعل کی کان ظاہر ہوئی طبیعت اسکی گرمی اور سردی مین معتدل ہی مائل بحرارت و یبوست کھانا اسکا دلکو تفریح دیتا ہی اعصاب کو تقویت بخشتا ہی بواسیر کو دور کرتا ہی خفقان و وسواس و مالیخولیا کا علاج ہی ہر ایک جواہر سے قوی التاثیر ہی۔

لعبت بربری ۔ یہ ایک جڑ مشابہ سورنجان اور تیلی آس سے مانند لیسپستان کے ذائقہ مین تلخ اور تیز طبیعت اسکی گرم و خشک محلل ریاح قاطع بلغم دافع بواسیر مقوی معدہ ہی۔

لام با فاے

لفاح ۔ یہ دوا پھل بیروج کا ہی جسکا ذکر باے با سے مین مذکور ہو گا نر اور مادہ ہوتا ہی مادہ اپنے چوڑے پتون کے ساتھ زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہی اور جڑ اسکی دو عدد یا تین کا تصین آلیسین ملی ہوئی مشابہ بصورت آدمی اور نر کی پتے چقندر کے سے پھل بقدر کھیرے کے اور جڑ موٹائی مین بقدر ساعد طبیعت ان کی سرد اور خشک مجفف و مخدر مسکن غشیان قابض و مسکر و منوم و مسمن بدن ہی۔

لفش ۔ یہ ایک عالیشان درخت شام مین ہوتا ہی اسکی لکڑی سبز اور گیلی آگ مین فی الفور جلتی ہی اور خشک کو آگ کم اثر کرتی ہی طلا اسکے خشک پتون کا دافع برص و بہق ہی اور عصارہ تازہ پتون کا دافع داد

لام با قاف

لق لق ۔ یہ ایک پرندہ جانور کثیر الجثہ ربیع کے موسم مین یہ پہاڑ سے آتا ہی اور کنگورون کا گھر بناتا ہی سانپ اسکے بچون کا دشمن ہی اور یہ سانپ کو نگل جاتا ہی طبیعت اسکی گرم خشک کھانا اسکے گوشت کا دافع فالج و لقوہ

وقذر ہی ریاح غلیظہ کو رفع کرتا ہی

لام با کاف

لک ۔ گوند ایک گھانس کا ہی کہ ملک ہند مین اکثر ہوتی ہی سرخ رنگ مشابہ توت سرخ کے بعض درختون کی شاخ سے نکلکر جم جاتی ہی بعض دانے بقدر لیمو اور نارنج کے ہوتے ہین اسکو لاک خام کہتے ہین بیر اور پیپل اور برگد کے درختون سے بھی نکلتی ہی رنگ سرخ طرح طرح کے اس سے بنائے جاتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک جالی و محلل و منقی اخلاط و حابس ہی۔

لام با نون

لنبجیطس ۔ ایک نبات ہی جو بستانی اور صحرائی ہوتی ہی بستانی کے پتے چوڑے اور سرخ پھول سیاہ مشابہ ٹوپی کے جڑ مشابہ گاجر کے اور بری کے پتے مانند اسقولوقندریون کے اور خشن تر اس سے اور ڈنڈا اسکے بڑے زاید طبیعت گرم اور خشک بستانی کے جڑ کا پینا مدر بول ہی اور پینا خشک صحرائی کا تلی کی بیماری کو نافع ہی

لام با واو

لوبیا ۔ حبوب کا کو مشہورہ سے ہی اکثر شہرون مین ملتا ہی بیل اسکی عشق پیچ کیطرح ہوتی ہی پھول ریزہ بنفشئی اور پھل ایک غلاف مین باقلا کی طرح طبیعت اسکی گرم تر دیر ہضم مولد خلط غلیظہ مولد منی محرک باہ ہی۔

لوز المر ۔ کڑوے بادام طبیعت اسکی گرم اور خشک محلل اور جالی اور ازالہ اخلاط غلیظہ کے لیے نظیر ضماد اسکا ساتھ سرکے کے واسطے درد سر اور سیر اسکا واسطے تقویت بصر نافع ہی۔

لوز البربر ۔ یہ ایک قسم کا بادام لوز بری سے مشابہ ہی حب صنوبر سے کچھ بڑا طبیعت اسکی گرم خشک نہایت قابض روغن اسکا زیت السودان نام ہی جو دوا مین مستعمل ہی۔

لوز ۔ بادام شیرین مشہور چیز ہی طبیعت اسکی پہلے درجہ مین گرم تر اور معتدل کہتے ہین حافظ جو سر دماغ جالی اعضائے باطنی مقوہ باصرہ ملین طبع ہی شیرہ اسکا ساتھ شکر کے کھانسی و خشونت سینہ و حنجرہ کو دفع کرتا ہی ذات الجنب کا علاج ہی۔

لوخیبد لیطوس ۔ یہ ایک گھانس ہی جسکی پتی مشابہ پتون اسقولوقندریون کے ہین اور بیج مثلث شکل کے بری اور بستانی ہوتا ہی بری گرم زیادہ ہی بستانی سے اسکا ضماد دافع جرب ہی بلکہ ہر ایک قسم کے زخم کا علاج ہی۔

لوسیما جیوس ۔ یہ ایک نبات بے ساق ہی شاخین گرہ دار پتے مشابہ پتے بید کے پھول سرخ مائل بزردی طلائی رنگ طبیعت اسکی سرد خشک قاطع رعاف و سیلان حیض ہی اور دافع قرحہ امعا۔

لوف ۔ فارسی مین اسکو فیل گوش کہتے ہین یہ گھانس تین قسم منقسم ہی

ایک لوف کبیر اسکی ساق ابلق سانپ کیطرح ہوتی ہی اور پتی عشق پیچہ کی طرح طبیعت گرم خشک مخرج و مقطع اخلاط غلیظ و جنین - دوسری قسم لوف الجعد اور لوف صغیر ہی اسکی پتی لوف کبیر سے چھوٹی ساق بقدر ایک بالشت کے طبیعت اسکی گرمی مین کم اور خشکی مین قسم اول سے زیادہ دافع امراض سینہ و بواسیر ہی تیسری قسم کو اذان الفیل و فیل گوش کہتے ہین پتی اسکی مشابہ پتی کبیر کے طبیعت اسکی گرم خشک زیادہ دافع سرفہ و عسر النفس و نزلہ و منقی اخلاط غلیظہ ہی -

لولو - فارسی مین مروارید ہندی مین موتی کہتے ہین جو سمندر مین صدف کے پیٹ کے اندر قادر حقیقی کی قدرت سے پیدا ہوتا ہی باریک خشخاش کے دانہ تک اور بڑا چڑیا کے انڈے تک ہوتا ہی جسقدر گول اور روشن آبدار سفید ہو قیمت زیادہ پاتا ہی صراحی دار موتی بھی خوبصورت اور قیمتی ہوتا ہی طبیعت اسکی سرد خشک مفرح و ملطف و مقوی ہی روح کو راحت پہونچاتا ہی جسم کو فرحت دیتا ہی دافع وسواس و جنون و مالیخولیا و خفقان و خوف و حزن امراض قلب و ضعف معدہ و یرقان و حرقۃ البول وغیرہ ہی اسکے خواص طبیہ کتابون مین مفصل لکھے ہین -

لام با ہا ے

لہولو فو عزالقیس - یہ ایک عطری درخت ہی جسکو صوفی کپڑے دھونے مین استعمال کرتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک قابض و مانع سیلان مواد دافع نفث الدم و نزف الدم و اسہال و دردِ شانہ ہی اسکے زخمونکو اچھا کرتا ہی

لام با یاے

لیف البحر - یہ ایک چیز مشابہ سمندر کے اور ریزہ ریزہ ترازو سے سیاہ رنگ باریک ایسی ہوتی ہی چھوٹے گیند کیطرح بقدر ایک مٹھی کے مٹی کی موجون کے ساتھ دریا سے مغرب مین سے نکلتی ہی طبیعت اسکی گرم خشک ہی اسکو جلاکر آنکھون مین ڈالین تو ناخنہ اور بیاض کو دفع کرتی ہی دانتونکو چمکاتی ہی۔ لیشالولیس - اسکو کندریاتی بھی کہتے ہین اسواسطے کہ اسکی جڑسے کندر کی بو آتی ہی ذائقہ اسکا سوئف جیسا طبیعت اسکی گرم خشک محلل و ملین جالی دافع یرقان سرکہ کے ساتھ مدر بول و حیض ہی -

لیف - یہ عتادہ اور پردہ تاگون اور خشبی تارون سے کھجور کے درخت اور ناریل کے پھل اور مقل و سپاری وغیرہ پر ہوتا ہی بہتر اسمین لیف ناریل کا ہی اور بد ترین مقل کا طبیعت اسکی گرم خشک سرمہ اسکی راکھ کا آنکھ کی بیاض کو دور کرتا ہی نظر صفا ہوتی ہی منجن دانتون کو مضبوط کرتا ہی اسکا نوش استسقا کو دور کرتا ہی اور طلا اسکی راکھ کا جذام و برص کو دفع کرتا ہی -

لیمون - مشہور میوہ اور پھل ہی ترش اور شیرین اور نیم ترش ہوتا ہی اور تینون کی طبیعتین الگ الگ ہین شیرین گرم تر ہی جو پیاس کو تسکین دیتا ہی تپ کا صفرا بھی اس سے کرتے ہین دوسرا ترش دافع صفرا اور سرد خشک ہی اسکی سکنجبین بناتے ہین صفراوی تپون اور یرقان کو مفید ہی تیسرا نیم ترش یہ سرد تر اور صفرا شکن -

لیفیہ - یہ ایک گھانس سبز رنگ خاردار ہی پھل اسکا بھی مانند چھوٹے کھیرے کے خاردار رہتا ہی دو قسم کا ایک قسم مسہل قوی دافع حمیات ہی اور دوسرا زہر قاتل جسکے کھانے سے انسان مرجاتا ہی -

اٹھائیسوان باب

حرف میم کے بیانمین اسمین پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

فارسی و عربی وغیرہ لغات کے ذکر مین

میم با الف

ما - بدون ہمزہ عربی مین حرف نفی و کلمہ استفہام ہی - آیت قرآنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون -

ماء - عربی مین پانی جسکو فارسی مین آب کہتے ہین - آیت - وانزلنا من السماء ماءً فاحیا بہ الارض بعد موتہا -

ما - فارسی مین ہم اور ہمارا - لو حید ری - پدر سوز عشقت سینہ سوزان ما در شعلہ گوید دیدۂ گریان ما + با وجود قرب تم زلیبا طلب وصل در حیف بر مہجوری ماو اے بر حرمان ما -

مانا - شبیہ و نظیر و مانند ہونے والا -

ماوا - ماوی - جاے برگشتن و واپس آنے کا مقام یعنی اپنا گھر - خانہ بے خانمان خانہ است و ردا دہر آستان دولت ماوا ے ملجاے جہان شیخ اثر - تخیر و سایۂ اقبال ہمارا جوے + گیر دانکس کہ بسایۂ لطفش ماوا -

مانیا - ایک قسم جنون کا ہی جس سے بیمار مین درندون کی خصلت پیدا ہوجاتی ہی اور لوگون کو کاٹنے کو دوڑتا ہی -

ماشرا - ماشری بشین معجمہ ایک بیماری کا نام جس سے چہرہ اور پیشانی پر ورم پڑجاتا ہی

مالیخولیا - دماغ مین خلل آجانا ایک بیماری کا نام ہی -

ماخولیا - مخفف مالیخولیا کہ بکسر لام و سکون نون و ضم خاے معجمہ و واو معروف و کسر لام دوم ہی یونانی لفظ ہی معنے اسکی خلط سیاہ مین کیونکہ یہ بیماری خلل دماغ کے سودا سے پیدا ہوتی ہی اور سودا کا رنگ سیاہ ہی - ملا وحشی - ماخولیا گر نیستم چو یہم چرا خوں نخوارہ + کو قصد جان من کند قصد جان برائے او دہم -

ماجرا - سرگذشت و قضیہ و واقعہ و ہنگامہ و گفتگو و حالات زمانہ - درویش
والہ ہروی با عشق حسن بالفت نبود و نیست + این ماجرا زین ورق سادہ خواندہ ایم
ماثیثا - سریانی زبان مین نام ایک گھانس کا ہی جو نہایت بد مزہ ہوتی ہی
مارافسا - جو شخص سانپ کو بذریعہ منتر کے پکڑے منتری یا جادوگر -
ماسوا - وہ مخلوق جو سواے ذات خداوند جل و علی کے ہی حکیم انور
لاہوری - طالب ذات خداوند کریم + سکے کند رغبت بسوے ماسوا -
ماضی - جو حالت گذر چکی ہو قطعہ از مؤلف - فکر استقبال از دل کن
برون + باش فارغ از خیال ما فنا + دان غنیمت حال را در جملہ حال + گر
توئی از بندگان با صفا -
مابقا - جو بات باقی رہ گئی ہو -
مامن رضا - مشہد مقدس حضرت امام علی رضا جس جگہ مجرم جاتا ہی تو
گرفتار نہین ہوتا اس سبب اس مقام کو جاے امن رضا کہتے ہین [illegible]
امروز کہ نشان ندہد [illegible] خاک + مانند آستان ورت مامن رضا -
مارقیشیثا - یہ ایک جوہر ہی [illegible] آنکھون کی دوا مین مستعمل ہی جو چار قسم کا
ہوتا ہی ذہبی فضی نحاسی حدیدی ان مین سے ذہبی قسم اول ہی
مارکرا - ایک گھانس کا نام ہی جسکو مار چوبہ بھی کہتے ہین -
مالیا - ایک قسم کی [illegible] نام [illegible]
[illegible]
ماسبق - [illegible] گذشت [illegible]
[illegible] رسالت مآب [illegible] صواب
ماہتاب - مہتاب چاندنی چاند کی روشنی - [illegible] جلوہ کردی کہ
[illegible] آفتاب از طاق چرخ + دستی افشاندی ماہتاب [illegible]
[illegible] چرخ [illegible]
ماہ نخشب - وہ چاند جسکو حکیم ابن عطا المقنع [illegible]
سیماب سے بناکر چاہ مین کوہ سیام سے اندھیری رات مین نکالا تھا اور
روشنی اسکی چار فرسنگ تک جاتی تھی اور نخشب نام ایک شہر کا ہی ولایت
ماوراء النہر مین اور نخشب سے سمرقند تک تین کوس کا رستہ ہی -
مات - مرجانا مغلوب ہونا اور شطرنج بازون کی اصطلاح مین جب
شاہ کو حریف شکست دیوے اور کوئی خانہ شاہ کے واسطے باقی نہ رہے
تو کہا جاتا ہی کہ بازی مات ہوئی -
مائت - مرندہ یعنی مرنے والا -
مافات - وہ جو فوت ہو چکا ہو -
ماقوت - ایک قسم کے حلوا کا نام ہی -

ماہیت - حقیقت کیفیت حالت -
ماءالحیات - آب حیات -
ماست - جغرات دہی چھاچھ لسی سعدی - غریبی گرت ماست پیش آورد
دو پیمانہ آبست یک چمچہ دوغ + اگر راست میخواہی از من شنو + جہاندیدہ
بسیار گوید دروغ -
مالیت - قدر قیمت و قدر عزت رتبہ مسیح کاشی - دل ازان گشت گرانمایہ کہ
درد تو دروست + ورنہ معلوم بر ما و لو مالیت دل -
مؤنت - بروزن عذوبت مایحتاج معیشت نان و نفقہ محنت رنج و بار و مشقت
مؤالفت - الفت پکڑنا ملنا خوگر ہونا -
مواخات - برادری بھائی پن رشتہ داری -
ماج - ماہ یعنی چاند -
مارج - بکسر راے وہ آگ جو دھوان نہ رکھتی ہو اور نام نوع جن کے باپ کا
مارپیچ - لشکر کے علم کا پرچم اور وہ صورت جو مصور اس صورت سے کھینچے
ہین گویا چند سانپ آپس مین لپٹے ہوے ہین -
مایحتاج - جس چیز کی حاجت ہو -
ماچ - بوسہ اور ماچیدن اسکا مصدر ہی
ماچ سوچ - [illegible] چاٹنا -
ماجوج - یافث ابن نوح کی اولاد تاتاری لوگ -
مائدۂ مسیح - عیسی علیہ السلام کے لیے جو خوانچہ آسمانی اترا تھا اسمین
ایک مچھلی بریان [illegible] اور روغن [illegible] سے ٹپکتا تھا اسکے سر کے نزدیک
نمک [illegible] سرکہ ہوتا اور [illegible] طرح طرح کے سالن اور [illegible]
[illegible] روٹیان [illegible] زیتون [illegible] شہد [illegible]
[illegible] گوشت ہوتا -
[illegible]
ماخ - بکسر نون [illegible] حاتم سخی و بخشندہ -
ماح - سفیدی تخم مرغ کی اور مح بضم میم زردی بیضہ کی -
مادح - صفت کرنے والا مدح کرنے والا -
ماسخ - بکسر سین و خاے معجمہ ہر چیز جو بے مزہ ہو یعنی پھیکی چیز
ماخ - ضعیف و ناطاقت و کمینہ و بیدولت و خسیس و منافق و نزرقلب -
مالیخ - خیال خام خلل دماغ -
مانندہ - مانندہ ہمانندہ ہمانندہ - حرف تشبیہ و مثل ہی - قاسم مشہدی
بے روے تو خورشید فتاد از نظر من + مانندہ سیفی کہ بکیف رنگ [illegible]
لاف از نسب من زن کہ بمانند آئینہ + آدم [illegible] دیگران [illegible]

چرا شمع پر پیشت ببرہا ما ہ چھپا سر اپنا بگوید نشا قمر نہ از منشا آشکار + چو این ہاسم
ہم زین پدر ما در اند + چرا نہ باشند یکدیگر ند ۔

ماء الورد ۔ گلاب جو مشہور چیز ہی ۔

ماجد ۔ بزرگ بڑا ادب کے لائق ۔

ماخذ ۔ جس جگہ سے کوئی چیز لی جاے ۔

ماخوذ ۔ پکڑا ہوا لیا ہوا ۔ توحید ۔ مشو بدام طمع آدمی چرا ماخوذ + چرا
بہ بند مشو بندہ خدا ماخوذ + با بتدا ے عمل کن انزان عمل بہ پہنیر +
کزان مواخذہ باشی با نتہا ماخوذ ۔

ماہور ۔ موسیقی کے ایک شعبہ کا نام ہی ۔

مأخر ۔ جو چیز اخیر مین لائی گئی ہو اور نام ستائیسوین منزل کا منازل قمر سے

ماجور ۔ اجر دیا گیا ثواب دیا گیا ۔ صفدر فوقانی ۔ جبین شکر بر خاک
بحیز اے بندہ خاکی + چو عند اللہ ماجوری و عند الناس مشکوری ۔

ماوراء النہر ۔ توران کے ملک کا نام ہی ۔

مادندر ۔ باپ کی عورت کا باپ جو اسکی مان نہو ۔

ماحضر ۔ وہ کھانا جو مہمان کے لیے حاضر ہو بے تکلف کھانا در ولشانہ حاضری
سیر از میدی نیست النام سدار وزبی الغامے چنید باشو و خاصہ حق ماحضر عامی خنید

ماثر ۔ آثار اور نشان قدیم عمارات وغیرہ کی ۔

مارمہرہ ۔ وہ مہرہ جو سانپ کے سر سے نکلتا ہی ۔

ماثور ۔ اثر قبول کیا ہوا اور جزا دیا گیا ۔

مالک دینار ۔ لقب ایک ولی اللہ کا ہی جو کشتی مین سوار تھا ملاح کا ایک دینا
گم ہوگیا اور تہمت اس بزرگ پر قایم کی کہ تو نے چرایا ہی اور اسکو مار نے کو
سے دریا کی طرف دیکھا ہزارون مچھلیان آئین اور اتنے دینار کشتی پر پھینکے
کہ دینارون کے بار سے کشتی غرق ہو گئی اور وہ بزرگ صحیح و سلامت دریا سے
نکل آیا اس روز سے ان کا خطاب مالک دینار مقرر ہوا ۔

مامور ۔ امر کیا گیا حکم کیا گیا ۔ توحید ۔ چرا لسجدہ ہم گردن بنا زکشد +
پے عبادت حق شد چرا آدمی مامور ۔

مار ۔ سانپ جو مشہور جانور ہی ۔ توحید ۔ چو آن واحد شد از کثرت نمودار
بہر شالوق نمود از پردہ دیدار + گے از نور شد روشن گہ از نار + گے از مور
شد قنا ہر گہ از مار ۔

مادر ۔ والدہ جسکے پیٹ سے پیدا ہوا ہو ۔ حافظ ۔ دختران را ہمہ جنگ ست
صدل با مادر + پسران را ہمہ بدخواہ پدر می بینم

مادر مادر ۔ مان کی مان یعنے نانی ۔

ماخور ۔ شراب خانہ و قمار خانہ وغیرہ ۔

مازہ ۔ اخیر مین زد سے مجمہ وہ شگاف جو دیوار مین ہو ۔

ماشرز ۔ لوہارون اور مسگرون کے اوزار ۔

مایوس ۔ ناامید مایوسی کی حالت مین ۔ توحید ۔ گناہگار کند گرچہ
صد ہزار گناہ + ز فضل و لطف الٰہی نمیشود مایوس ۔

مانوس ۔ خو پکڑا گیا انس پکڑا گیا ۔ توحید ۔ شد از تعلق دنیاے بیوفا
فارغ + چو گشت خاطر انسان بہ بندگی مانوس ۔

ماس ۔ مخفف آماس جسکے معنی ورم کے ہین ۔

مالس ۔ یونانی مین سیاہ مقابل سپید کے ۔

مالطس ۔ وہ پتھر جسکے پاس رکھنے سے بد نظر نہین ہوتی ہندی مین نظر بٹو کہتے ہین

ماریلاس ۔ جلیاسہ جو ایک جانور ہی ۔

مالش ۔ ملنا حاصل مصدر مالیدن سے ۔ نظامی ۔ چنانت دہم مالش
از تیغ تیز + کہ با مرگ خواہی زمین یا گریز ۔

مارلش ۔ نام ایک تخانہ کا جو اصفہان کی نواح مین بنایا گیا تھا ۔

مالوش ۔ نام ایک پہاڑ کا ہی جسپر منوچہر تور کے پیٹ سے پیدا ہوا ۔

ماص ۔ ماہ یعنے چاند ۔

مائع ۔ وہ چیز جو رقیق ہو خشلا روغن و سرکہ و شہد وغیرہ ۔

ماہ مقنع ۔ ماہ نخشب جسکا ذکر تحریر ہو چکا ہی ۔

مانع ۔ یعنی مہمہ نام ایک جانور کا جو پانی کے کنارے رہتا ہی اور میغ یعنے
بادل اور بخار و غبار جو سردی کے موسم مین بعد کھلنے ابر کے ہوا مین ظاہر
ہوتا ہی آفتاب کے نکلنے سے پہلے جب سورج کی گرمی ہوتی ہی تو محو ہو جا
ہی ہندی مین اسکو کہیل کہتے ہین اور نام ایک قسم کے ابلق کبوتر کا بھی ہی ۔

مازاغ ۔ اشارہ بآیۂ کریمہ مازاغ البصر وما طغی یعنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے معراج مین بوقت قرب الٰہی اپنی آنکھ اور کسی طرف نہ پھیری
اور نہ نافرمانی کی ۔ نعتیہ از مولف ۔ زیب چشمش کحل مازاغ البصر +
مردمک روشن بنور ما طغی ۔

ماؤف ۔ جسکو کوئی آفت پہونچی ہو ۔

مالوف ۔ الفت پکڑا گیا خو پکڑا گیا ۔ توحید ۔ زمانہ تابع حکمت بجان و
دل باشد + بود بالفت سوے اگر دولت مالوف ۔

مالوف ۔ گھر کا مال اور سامان ۔

ماق ۔ آنکھ کا گوشہ جو ناک کی طرف ہو ۔

مارق ۔ گمراہ بدمذہب و لامذہب ۔

مالا یطاق ۔ جو شخص کسیکی طاقت و قدرت مین نہو ۔

مالک ۔ صاحب ملک کا اور نام اس سوداگر کا جسنے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئین سے

اسکا ابھائیون سے خریدا اور عزیز مصر کے پاس بیچا اور نام اس فرشتہ کا جو دوزخ کا موکل ہے ۔ توحید ۔ خدا است مالک ملاک و فالک فلاک + ہر آنکہ کرد عطا نور جان بتودہ خاک ۔

مالک ۔ والدہ مادر ماں ۔

مانزنک ۔ ایک جانور چلپا کی قسم سے ہے ۔

مانورنگ ۔ سوسمار جسکو ہندمین گوہ کہتے ہین اور وہ ایک مشہور جانور ہے ۔

مالانگ ۔ ایک قسم کے آڑو کا نام ہے جو مشہور میوہ ہے ۔

مانگ ۔ دری مین ماہ یعنے چاند ۔

مانورگ ۔ سرخاب جو مشہور جانور ہے ۔

مانوک ۔ چکاوک جو مشہور پرند ہے ۔

مال ۔ دولت خزانہ اور اہل حساب کے نزدیک ایک عدد کو اسکے نفس مین ضرب دینے سے جو حاصل ضرب ہو وہ مال ہے چنانچہ چار کو چار مین ضرب دیا تو سولہ حاصل ضرب ہوے ۔ توحید ۔ توئی ناظر توئی حاضر بہر حال + توئی لفظا و توئی معنی بہر فال تو می بخشی کسے را فقر و فاقہ + کسے را میدہی گنج زر و مال ۔

مآل ۔ بروزن مقال جاے رجوع اور بازگشت کا مقام اخیر اور انجام ۔ توحید ۔ خداوالی غیب دان لایزال + خبردار احوال ماضی و حال + ازل وابتدا سے ابتدا ہمہ انتہا را ابد آلش مآل ۔

مالامال ۔ بسیار یعنے بہت اور بھرا ہوا ۔ توحید ۔ یکے کرد و تہید ست و مفلس محتاج + بمال و جاہ دگر را خزانہ مالامال ۔

ماہول ۔ امید رکھا گیا ۔

ماکول ۔ کھایا ہوا کھانا وغیرہ ۔

مؤجل ۔ بروزن منور مہلت دیا گیا ۔

مأول ۔ بتشدید واو تاویل کیا گیا ۔

مایل ۔ میل کرنے والا خواہش کرنے والا اور شایق اور نام جزو اعظم فلک قمر صائب ۔ کجا مائل بہر دل گرد دابر و کہ من دارم + کسی چیدہ از یوسف ترازو کہ من دارم

مالاینحل ۔ جو چیز حل نہ ہو سکے اور وہ عقدہ جو کھل نہ سکے ۔

ماکل ۔ مصدر میمی خوردن یعنے کھانا ۔

ماحصل ۔ حاصل ہوئی چیز اور جو حاصل ہو میرزا باقر بیگ بغیر اینکہ پریشانیم بطول کشید + شکایت از سر زلفت چہ ماحصل دارد ۔

ماخول ۔ جسکو مالیخولیا خلل دماغ خبط طبیعت کی بیماری لاحق حال ہو ۔ اسیر لاہجی ۔ کے بود جز شاہد معنی ربذرا دیگر خیال + زاہد ماخولیا ہر دم در خیال دیگر است ۔

مالول ۔ وہ شخص جو غلامی سے مدارج بلند پر پہونچ گیا ہو ۔

ماتم ۔ سوگ جو کسیکے مرنے کا کیا جاے ۔ عرفی ۔ عادت عشاق جیست مجلس غم داشتن + حلقہ شیون زدن ماتم بہم داشتن ۔

مادام ۔ ہمیشہ نت نت ۔ اسیری لاہجی ۔ باشاہد معنی حریف و ہمدم + باچنگ و چغانہ ایم مادام ۔

مآثم ۔ جمع آثم بہت سے گناہ ۔

مام ۔ مادر و الدہ ما ۔

ماثوم ۔ گنہگار تقصیری ۔

ماعون ۔ زکوۃ مال کی اور جس چیز کے ساتھ معاونت ڈھونڈھین اور گھر کا اسباب ۔

مان ۔ درمنع کو چھوٹ بولنے والا ۔

مامون ۔ امن مین لایا گیا محفوظ اور بے ہراس اور نام خلیفہ کا جو ہارون خلیفہ عباسی کا بیٹا تھا ۔

مامن ۔ جاے امن امن کا مقام ۔

مارن ۔ سر بینی ناک کی نوک جسقدر نرم بلا استخوان ہے ۔

مافارقین ۔ ایک ملک کا نام ہے ۔

ماء معین ۔ وہ پانی جو جاری ہو اور پاک و صاف ۔

مابون ۔ وہ شخص جو علت ابنہ مین مبتلا ہو ۔

مازندران ۔ ملک طبرستان جو توابع ایران سے ہے اور قدیم زمانہ مین وہ ملک مسکن دیوون کا تھا ۔

ماچین ۔ ایک ملک چین کے جنوب کے سمت ہے اور فارسی مین وہ شخص جسکو بوسہ دیا ہو کہ ماچ کے معنی بوسہ کے ہین ۔ محسن تاثیر ۔ دلم در زلفش از فکر دہانش بہ تنگی آید + اگر در بند چین افتادہ ام در قید ماچینم

ماکیان ۔ یہ لفظ مفرد ہے معنے اسکے ایک مرغ خانگی ہین ۔ عرفی ۔ در لغت زکشت عدل تو گر دانہ چین شود شاید + کہ بیضہ در شکم ماکیان شود شیرین ۔

مادیان ۔ مفرد لفظ ہے ایک گھوڑی ۔

مان ۔ گھر اور گھر کا اسباب اور بمعنی ما البتہ ہمکو اور مجھکو اور صیغہ امر ماندن یعنے ٹھہرا اور چھوڑ نیز بمعنی باش و تشبیہ و نظیر و مانند ۔ شعر ۔ خانہ بخانہ خانہ خانہ دات + ما من و ان بلا کا شانہ است ۔

ماستین ۔ دو صد یعنے دو سو عدد ہین اور نام ایک اصول کا موسیقی مین ۔

مائین ۔ بفتح میم و کسر ہمزہ و سکون یاے تحتانی صدہا یعنے بہت سیکڑون ۔

مامیران ۔ ایک دوا کا نام ہے جو ہلدی کیطرح ہوتی ہے آنکھونکے علاج مین مستعمل ہے ۔

مؤتمن ۔ معتمد اور امین صاحب امانت ۔

مادون ۔ سواے اور فروتر ۔

ماء الجبن ۔ دود کا پانی جو بیما کو دیتے ہین ۔

مابین ۔ دو چیزون کے درمیان ۔

ماپرویں - جدوار جوایک دوا کا نام ہی -
ماغاریون - جنگلی سوسن یونانی زبان میں -
ماخان - نام ایک چینی پہلوان کا اور نام ایک بستی کا جو قلمرو شاہجہان آباد سے نزدیک ہی
مارتون - یونانی اور سریانی مین رازیانہ جو ایک مشہور دوا ہی -
مازریون - ایک دوا کا نام ہی جو مستسقی کو دیتے ہین -
مازن - پشت یعنے پیٹھ جسکو عربی مین صلب کہتے ہین -
مازون - مازو جو ایک دوا مشہور ہی -
ماشو - غربال یعنے چلنی جس سے آٹا چھانتے ہین - طغرا - منی از شرم ماشو دف
چو ماشوی ست + برای نان طرف سیدهٔ سرود ببیز -
ماکو - جولاہون کی نال جسمین سوت کی نلکی رکھکر کپڑا بنتے ہین -
مارو - دری زبان مین ماور یعنے ما جسکے پشت سے پیدا ہوا ہو -
مازو - نام ایک درخت کا ہی جسکے پوست سے چمڑا رنگتے ہین اور پھل دوا مین مستعمل ہی
ماہو - وہ لکڑی جو شتربان ہاتھ مین رکھتے ہین اور اونٹون کو اس سے
چلاتے ہین اور نام ایک امیر کا جو یزدجرد بادشاہ کیطرف حاکم سیستان اور خراسان
کا تھا جب یزدجرد نے فوج اسلام سے شکست کھائی اور مرو مین بھاگ کر
آگیا تو ماہوئی ترکستان کے خان کے ساتھ ملکر بادشاہ کو قتل کرادیا -
مائدہ - خوان جسمین تیار کھانے قسم قسم کے چنے ہوئے ہون - مولوی معنوی
مائدہ از آسمان شد عائدہ + گفت چون انزل علینا مائدہ -
ماشہ - لوہارون کا آہنی اوزار جسکو سنسی کہتے ہین اور بندوق کا توڑا جسمین
توڑے دار بندوق کا توڑا قایم کرکے رنجک کو آگ دیتے ہین اور ایک وزن
جو آٹھ سرخ یعنے آٹھ رتی کا ہوتا ہی اور بارھوان حصہ تولہ کا -
ماہچہ - وہ مدور شکل سونے یا چاندی کی جو چاند کیطرح بناکر بادشاہی علم پر نصب کرتے ہین
ماہیچہ - گیہون کے میدے کی سویان جو ایک قسم کا کھانا ہند مین بنایا جاتا ہی اور دودھ شکر کے
ساتھ کھاتے ہین عربی مین اسکو اطریہ اور فارسی مین رشتہ کہتے ہین -
ماشورہ - جولاہون کی نلی جسپر سوت لپیٹ کر کپڑا بنتے ہین اور کچا سوت جو نلکی پر
لپٹا ہوا ہو اور اسکو ہند مین پنڈیا کہتے ہین - مظفر کاشانی - یک چند
بشیراز زآگاہان باش + یک چند بسر در اصفاہان باش + القصہ میان
اصفہان و شیراز + ماشورہ دستگاہ جولاہان باش -
ماثورہ - خبر دیا گیا اور ادعیہ ماثورہ وہ دعائین ہین جو رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کے اصحاب سے منقول ہین -
ماشطہ - مشاطہ عورت سنگار کرنے والی جو اور عورتون کے سنگار کرے
ماسورہ - کنگھی کرنے والی کیونکہ مشط کنگھی کو کہتے ہین -
مولّدہ - ایک قوت کا نام ہی جو خون کو منی بناتی ہی اور بلا دست مادہ کو درست کرتی ہی

ماجدہ - بزرگوار عورت -
ماہمہ - برمہ ترکھانون کا جس سے لکڑی مین سوراخ کرتے ہین -
مادبہ - بفتح بائے موحدہ ضیافت -
مالستہ - مانند کیا گیا تشبیہ دیا گیا -
مارگزدہ - کالا سانپ کفچہ دار -
مازبردہ - دایہ اور وہ عورت جسکو ماں بنایا گیا ہو -
مایہ - اصل و مادہ و مقدار و کمیت اور مادہ جو مقابل نر کے ہی اور نام اس گاے کا
جو فریدون کو دودھ دیتی تھی و دستگاہ و سامان و بنیاد - مخلص کاشی -
دیدہ مخلص گویا آن نرگس فتان بخواب + کز نگاہش مایۂ صد حشر آفت می چکد
مادّہ - بتشدید دال اصل ہر چیز و سامان و ترکیب جو غیر کے واسطے مدد ہو -
ماضیہ - گذرا ہوا زمانہ اور گذری بات -
مارچوبہ - ایک گھاس ہی جسکو مارگیاہ بھی کہتے ہین اور عربی مین ہلیون کہتے ہین
زہر دن سانپ بچھو وغیرہ کا علاج ہی بیخ اسکی رازیانہ کی طرح ہوتی ہی اگر
پانی سے کبھی فوراً مرجاتا ہی یہ لکڑی سانپ کی صورت پر ہوتی ہی - خاقانی -
خاقانی آنکسان کہ طریق تو میروند + زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست
چون طفلی آرزوے ترازو نے زر کند + تا ہیچ یابد و کہ ترازو کند زپوست +
گیرم چو مارچوبہ کند تن بشکل مار + گو زہر بہر دشمن و گوہر بہر دوست -
مارنہ - ایک گھاس ہی جسکو لحیۃ التیس کہتے ہین -
ماسوچہ - ایک پرندہ کا نام ہی بقدر قمری کے -
ماشیہ - مواشی یعنے چارپایہ -
مافہ - وہ لکڑی جس سے دروازہ بند کر دیا جاتا ہی -
مالکا - ہ - خشک ایک حلوا جسمین طرح طرح کے میوے ڈالے جاتے ہین -
مالہ - معمارون کے کہگل کرنے کا اوزار -
مانہ - گھر کا اسباب -
ماہ - چاند اور مہینہ - حسن غزنوی - شاہ اقبال جنگ تو ہر ماہ باد +
اقبال را بپیش تو صدر راہ راہ باد - محمد سعید اشرف - اختر نسبت چو
رویت لفلک + دیدہ ام ماہش و بالا ترا -
مؤدی - ادا کیا گیا پہونچایا گیا -
مانی - ایک نقاش روم مین تھا پیغمبری کا جھوٹا دعوے کرتا اور کتاب ارژنگ
اُسنے تصنیف کی نقاشی و مصوری کو وہ اپنا معجزہ ظاہر کرتا بہرام شاہ
اسکو قتل کردیا - تو حسیدہ چو نقش کا تب قدرت بدید حیران ماند بشکل
آئینہ از حسن خویش مانی -
ماحی - محو کرنے والا دور کرنے والا -

مالایعنی - بے معنے بات -
مالی - پر کرنے والا اور ہونے والا اور شہد یعنے انگبین -
ماورائے - سوائے کسی چیز اور بات کے -
ماقی - بکسر قاف گوشہ آنکھ کا جو ناک کیطرف ہو -
ماہ جلالی - ماہ فروردین کہ آفتاب کو شرف اُس مین ہوتا ہے - سعدی -
اول اردی بہشت ماہ جلالی + بلبل گوینده بر منابر قضبان -
ماری - تری مین ہلاکت -
مائی - آبی جسکا تعلق پانی سے ہو -
ماہ یمانی - چہرۂ مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم -
ماسی - بے پروا و بیباک و نڈر آدمی -
ماہانی - ایک خراسانی پتھر ہے جو زرد اور سپید ہوتا ہے سکتہ اور لوا سیر کا علاج کر
ماہی - مچھلی جو دریائی جانور مشہور ہے - سعدی - قرص خورشید در سیاہی
شد یونس اندر دہان ماہی شد -
مابقی - جو چیز باقی رہگئی ہو -

میم باے موحدہ

مُبَرّا - بری ہوا ہوا بیزار کیوا ہوا پاک کیا گیا - دوقی - مبراست ذاتش
ز چون و چگون + منزا ز اندرون و برون -
مُبتغا - بضم اول چاہا گیا مانگا گیا -
مُبالا - مخفف مبالات پاک رکھنا -
مُبا - مخفف مباہ اور رودہ گوسپند جسمین چاول اور قیمہ بھرکر پکاتے
ہین پچھی کاشی - رودہ گندہ را کنند مبا + بود آن نیز روزئی غربا -
مُبارا - مخفف مبارات نفرت اور نا اتفاقی جو عورت اور خاوند کے درمیان ہو
مَبدا - بفتح اول ابتدا کے موقع اور آغاز کا مقام -
مُبدِا - بضم اول و دال مکسور اخیر مین ہمزہ ابتدا کرنے والا آغاز کرنے والا
پیدا کرنے والا یہ نام خداوند جل و علی کا ہے - آنانکہ بر او حمد بگویند +
یا مبدی و یا معید گویند -
مُباسطت - فراخی اختیار کرنا بے تکلفی کرنا -
مُباعدت - دوری و مفارقت جدائی -
مُبتغیات - آرزوئین التجائین
مُبَرّدات - سرد کرنے والی چیزین اور وہ دوائین جنکی تاثیر سرد ہے -
مُبرّات - ہر چیز مونث جو پاک کی گئی ہو -
مبہوت - حیران و سراسیمہ -
مبالات - پاک رکھنا اور اندیشہ کرنا -

مبارزت - بتقدیم راے مہملہ بر زاے معجمہ لڑائی جنگ فتنہ و فساد -
مُبادرت - دلیری کرنا جلدی کرنا شتاب اور تیزی سے کسی کام کو کر لینا -
مباشرت - جماع کرنا عورت کے ساتھ ہم بستر ہونا -
مبیت - شب گزران کرنا کسی گھر مین رات کاٹنا -
مَبات - رات کاٹنا اور وہ جگہ جہان رات کاٹین -
مباینت - ایک دوسرے سے جدا ہونا -
مباہات - ناز کرنا بڑائی کرنا - حافظ - دلا دلالت خیرت کنم براہ نجات +
مکن بفسق مباہات و زہد ہم مفروش -
مہبت - عار و ننگ عزت و آبرو -
مبعوث - اٹھایا گیا پیدا کیا گیا -
مباحث - جمع مبحث اور اہل فارس اسکو بمعنی بحث استعمال کرتے ہین سنائی
مباحثہ کردان حلقہ جنون میرفت + ورائے مدرسہ و قیل و قال مسئلہ بود -
مبہج - خوش و خرم -
مبتہج - خوش و خورسند -
مُباح - جائز اور روا اور حلال - سہ پیشوایان ملت الفت + خون
عاشق مباح میدانند -
مِبرد - بکسر اول ریتی جو ایک مشہور اوزار ہے -
مُبَرِّد - بضم اول و فتح ثانی و راے مشدد سرد کرنے والا تبرید اور بفتح
راے نام ایک فاضل نحوی کا -
مُبَتَّر - بضم اول و فتح ثانی و فتح تاے مشدد ابتر و دم بریدہ و بے اولاد و خراب -
مُبَشِّر - بضم اول و فتح ثانی و شین مشدد بشارت دینے والا خوش خبر سنانے والا -
مُبذِّر - فضول خرچ اسراف کرنے والا بے فائدہ کاموں مین روپیہ برباد کرنے والا -
مبتور - [illegible] کیا گیا -
مُباشِر - اختیار کرنے والا کسی کام کو اپنے ذمہ پر لینے والا جماع کرنے والا -
مُبار - رودہ گوسپند جسمین قیمہ و چاول وغیرہ بھرکے پکاتے ہین عربی مین اسکو عصیب
مبادر - جلدی کرنے والا پیشی کرنیوالا -
مُبتَصِر - صاحب بینائی تیز نظر -
مبرز - بتقدیم راے مہملہ بر زاے معجمہ بیت الخلا جاے ضرور پاخانہ -
مبارز - بتقدیم راے مہملہ بر زاے معجمہ بہادر سپاہی لڑنے والا -
مبسوط - فراخ کیا گیا اور نام ایک کتاب کا فقہ کے علم مین -
مُبدِع - پیدا کرنے والا کسی چیز کا -
مُبتدِع - بدعت کرنے والا -
مِبضع - بکسر میم و فتح ضاد نشتر جس سے خون نکالتے ہین -

مبیع - بفتح اول وکسر ثانی بیع کیا گیا فروخت کیا گیا بیچا گیا -
مبرقع - نام ایک نغمہ کا موسیقی مین - ملا طغرا - طرب کردہ چون ساز و رقص
خویش * مبرقع بتن زمین مکان خواندہ پیش *
مبلغ - بفتح اول منزل مقصود و حد و نہایت اور مقدار اکثر ہو یا زیادہ اور مبلغ
بروزن منقش پہونچایا گیا اور بکسر لام پہونچانے والا و بضم میم وسکون باے
موحدہ و فتح لام پہونچایا گیا صیغہ اسم مفعول ابلاغ سے اور بمعنی پہونچنے اور
کامل ہونے کے اور اہل فارس بتبدلے تعداد زر نقد کے اس کو استعمال کرتے
ہین - سعدی - ہمان لمند کریم کہ صید خاطر خلق * بدان ہمیکند و در کشم
بخویش منقش * ولیک دست نیارم زدن بدان سرزلف * کہ مبلغ دل خلق است
زیر ہر شکنش * معزی - بسر مبلغ عمر تکشیدہ برعدوے * کہ عشر آن بعمر
آید ہزار بار ہزار -
مستبرق - ہنا رہبر راستہ دکھلانے والا -
مبارک - برکت کیا گیا و خجستہ و بزرگ - ع - پے آن سرور مبارک سنا و ستد ہ
مبارک تخت و تاج سربلندی -
مبال - جاے بول پیشاب کی جگہ اور عضو تناسل مرد اور فرج عورت کی -
مباول - وہ زمین جس پر وہ مہینہ پانی سے آبیاری کی گئی ہو اور کسی نے وہان بول کیا ہو
مبتذل - ذلیل و خوار و بیقدر -
مبطل - باطل کرنے والا -
مبتل - منقطع ہونے والا ترک کرنے والا رونے والا -
مبدل - بدلا ہوا بدلا گیا -
مبرم - محکم و استوار و مضبوط -
مبرقم - پوشیدہ اور بانڈھا ہوا -
مبتسم - ہنسنے والا اور تبسم کرنے والا -
مبین - ظاہر کرنے والا ظاہر ہوا ہوا -
مبیّن - بکسر یاے تحتانی مکسور بیان کرنے والا -
مبرہن - حجت ساطع و دلالت قاطع سے باثبات پہونچا ہوا -
مباہات - ناز اور بڑائی کرنے کو - کاشی - ز لطف شدن کہ کنند
تفاخر * از رحمت و لطف تو باشد مباہان -
مبسوط - فراخ اور فراخی کیا گیا -
مبردہ - سرد کرنے والا سردی دینے والا -
مبطخہ - خربزہ جو مشہور پھل ہے -
مبعثرہ - بعد ہو سے منتشر پراگندہ و پریشان -
مباہلہ - بد دعا کرنا ایک دوسرے کو -

مبالغہ - زیادتی کرنا کسیکی مدح یا ذم مین -
مباحثہ - باہم بحث کرنا -
مبادلہ - بدلنا تبدیل کرنا -
مباہجہ - خوشی کرنا -
مباہی - ناز کرنے والا فخر کرنے والا -
مبقی - باقی رکھنے والا -
مبادی - ظاہر کرنے والا اسم فاعل مبادات سے -
مبیہی - بتقدیم باے موحدہ بریاے تحتانی قوت باہ پیدا کرنے والی چیز -
مبنی - بنا کردہ شدہ بنایا گیا -
مبانی - بنیادین -
مبتخل - بخیلی اور بخل کے ساتھ منسوب ہونا -
مبتدی - جو طالب علم کی ابتدائی التعلیم ہو -

باب تاے فوقانی

متکا - تکیہ گاہ جاے پناہ - سعدی - حبیب خدا اشرف انبیا * کہ
عرش مجید ش بود متکا -
متی - کب اور کیونکر اور جسوقت - حافظ - حضوری گر ہمیخواہی ازو
غائب مشو حافظ * متی ما تلق من تہوی دع الدنیا و اہملہا -
متمنی - آرزو کیا گیا -
متبنی - بیٹا بنایا گیا -
متوفی - مرگیا ہوا فوت شدہ ہوا -
متر - ہندی زبان میں بارش کا مینہ -
متھرا - مشہور ایک شہر ہند میں ہے -
متاب - واپس ہونا اور مقام مراجعت کا -
متالف - باہم ملا ہوا -
متعاقب - ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے والا -
متاعب - بہت سے رنج اور ماندگیان -
متعصب - مذہب مین سختی کرنے والا -
متعذب - شیرین و خوشگوار -
متانت - استواری و محکمی و مضبوطی -
متشابہات - وہ آیات قرآن مجید کے جنکے معانی مخفی ہین -
متمنیات - آرزو کیا گیا -
متبرکات - برکتین اور بابرکت چیزین -
متعنت - عیب گیر و نکتہ چین -

متابعت - فرمانبرداری کرنا۔
متفاوت - فرق کیا گیا۔
متیت - جولاہوں کی کنگھی
متوج - تاج پہنے ہوئے۔
متفرج - جائے سیر و تماشا سیر کا مقام خوشی کی جگہ۔
متموج - موجزن لہریں مارتا ہوا۔
مترشح - ٹپکتا ہوا۔
متلطخ - اخیر میں خائے معجمہ لتھڑنے والا آلودہ۔
متعود - خو پکڑنے والا عادت کرنے والا۔
متضاد - ضد کرنے والا مخالفت کرنے والا۔
متردد - فکر مند اندیشناک اور چلنے والا۔
متعبد - عبادت کرنے والا۔
متعند - عناد رکھنے والا دشمن و بدخواہ۔
متصاعد - بلندی پر جانے والا۔
متمرد - سرکش و نافرمان۔
متبلد - کند ذہن و احمق و بے خبر
مترصد - امیدوار
متلذذ - لذت حاصل کرنے والا۔
متکسر - توڑنے والا اور ٹوٹنے والا۔
متبحر - فاضل اجل بڑا عالم۔
متضرر - ضرر و تکلیف پہونچایا گیا۔
متضرر - ضرر پہونچانے والا۔
متشاعر - جھوٹ موٹھ شاعر بننا۔
متعذر - دشوار ہونا صاحب عذر ہونا۔
متنفر - نفرت کرنے والا۔
متبادر - پیشی پکڑنے والا اور تیزی سے دوڑنے والا۔
متعسر - نہایت دشوار اور تنگ۔
متحیر - حیرت کی حالت میں۔
متاثر - اثر قبول کرنے والا۔
متاخر - پیچھے رہنے والا۔
متصور - خیال میں لایا گیا۔
متغیر - ایک حالت سے دوسری حالت میں آیا ہوا۔
متفکر - فکر اور اندیشے میں۔

متکبر - غرور اور بڑائی میں آیا ہوا۔
متواتر - پے در پے بار بار۔
متوافر - وافر ہونے والا زیادتی اختیار کرنے والا۔
متجاوز - تجاوز کرنے والا حد سے گزرنے والا۔
متلبس - پوشاک پہننے والا چھپنے والا۔
متجسس - تلاش کرنے والا ڈھونڈھنے والا۔
مترس - وہ لکڑی جو دروازے کے پیچھے واسطے بند کرنے کے لگاتے ہیں
متنفس - کوئی شخص کوئی آدمی۔
متعطش - تشنہ یعنی پیاسا پانی کا۔
مترش - ڈاڑھی منڈا یہ لفظ بتصرف اہل فارس فارسی سے
عربی بنایا گیا ہے۔
متفتش - تفتیش کرنے والا ڈھونڈنے والا۔
متوحش - وحشت اختیار کرنے والا۔
متفحص - جستجو کرنے والا متلاشی۔
متخصص - خصوصیت رکھنے والا۔
متعرض - پیش آنے والا۔
متسلط - بفتح لام مشدد وہ شخص جس پر قبضہ و تسلط پایا ہو
متسلط - بکسر لام مشدد قبضہ و تسلط پانے والا۔
متساقط - گر جانے والا ساقط ہونے والا۔
متورع - پرہیزگار و پارسا۔
متوزع - بتشدید زائے ہوز پراگندہ و پریشان۔
متاع - اسباب اور جس چیز سے فائدہ پائیں۔
متفرع - کسی چیز سے شاخ کی طرح باہر نکلنے والا۔
متصدع - درد سر پانے والا۔
متسع - فراخ ہونے والا۔
متدرع - زرہ پوش۔
متضرع - تضرع و زاری کرنے والا۔
متبوع - پیروی و متابعت کرنے والا۔
متنوع - گوناگون ہونے والا۔
متمتع - فائدہ اٹھانے والا۔
متواضع - تواضع کرنے والا۔
متوقع - امید رکھنے والا۔
متضعف - بہت ضعیف ہونے والا۔

متکاثف - غلیظ اور موٹا ہونے والا۔
متصرف - قابض و دخیل ہونے والا۔
متصف - صفت کیا گیا۔
متلف - تلف و ضائع کرنے والا۔
متحف - تحفہ دینے والا۔
متعفف - عفیف و متقی و پارسا۔
متضائف - آپس میں نسبت رکھنے والے۔
مترادف - پے در پے بار بار اور ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے اور وہ دو تین لفظ جنکے معنے ایک ہوں چنانچہ قلب اور جان اور فواد کہ تینوں کے معنے دل ہیں۔
متلہف - غمناک اور افسوس کھانے والا۔
متعنف - بدخو و درشت گو۔
متاسف - افسوس کی حالت میں۔
متالف - الفت کرنے والا۔
متعارف - جان پہچان۔
متکلف - تکلیف دینے والا۔
متوقف - توقف کرنے والا ٹھہرنے والا۔
متمزق - بکسر زائے معجمہ مشدد ٹکڑے ہونے والا۔
متطرق - راستہ پانے والا۔
متفرق - فرق اور فاصلہ میں الگ الگ۔
متضائق - تنگی کرنے والا۔
متفق - اتفاق کی حالت میں۔
متحقق - تحقیق کیا گیا راست و درست۔
متعلق - تعلق کیا گیا لگاؤ رکھنے والا۔
متدارک - گوشمالی دینے والا حاجت روائی کرنے والا کامیاب ہونے والا لڑنے والا انبوہ کرنے والا۔
متبرک - برکت والا۔
متحرک - حرکت کرنے والا۔
متروک - ترک کیا گیا چھوڑ دیا گیا۔
متراک - نام ایک منزل کا ہے منازل قمر سے۔
متک - ترنج جو مشہور میوہ ہے۔
متکفل - ضامن اور ذمہ دار۔
متزلزل - کانپنے والا اور ہلنے والا۔
متخلل - خلل ڈالنے والا۔

متماثل - مشابہ و مانند۔
متفاول - فال لینے والا۔
متاہل - گھربار والا عیالدار۔
متمایل - میل اور خواہش کرنے والا۔
متداول - نوبت بنوبت لیا گیا۔
مترسل - خط بھیجنے والا۔
متحمل - بار اٹھانے والا۔
متعال - بلند ہونے والا۔
متامل - فکر اور اندیشے اور توقف میں۔
متبدل - تبدیل کیا گیا بدلا گیا۔
متجاہل - جان بوجھ کر بے خبر ہونے والا۔
متخیل - خیال کیا گیا۔
متشکل - صورت اختیار کرنے والا۔
متصل - پاس پاس۔
متوسل - وسیلہ پکڑا گیا۔
متوصل - وصل کیا گیا پیوند لگایا گیا۔
متوکل - خدا پر بھروسا کرنے والا۔
متیل - شمعدان بتی جلانے کا۔
متالم - دردمند و دردناک۔
متلاطم - طپانچہ مارنے والا دھکا دینے والا یہ لفظ دریا کی موجوں کے ذکر میں استعمال کیا جاتا ہے۔
مترجم - ترجمہ کرنے والا ایک زبان سے دوسری زبان میں اور بفتح جیم ترجمہ کیا گیا۔
متبسم - شگفتہ ہونے والا ہنسنے والا بے آواز ہنسنے والا۔
متراکم - ہجوم و انبوہ کرنے والا۔
مترسم - لکھنے والا اور رسم کرنے والا۔
متظلم - داد خواہ و فریادی۔
متسم - داغ کیا گیا نشان لگایا گیا۔
متحتم - واجب اور لازم۔
متعلم - شاگرد علم پڑھنے والا۔
مترنم - سرود کرنے والا۔
متمم - تمام کرنے والا کامل کرنے والا۔
متنعم - ناز و نعمت سے پرورش پانے والا۔

متخاصم - خصومت کرنے والا۔
متقدم - پیش ہونے والا۔
متکلم - کلام کرنے والا بولنے والا۔
متوہم - وہم کرنے والا۔
متہم - جسپر کوئی تہمت لگائی جاے۔
متدین - دیندار۔
متن - پشت و استوار و محکم اور جگہ بلند اور سخت اور وہ کتاب کی عبارت جسکی تشریح حاشیہ پر ہو۔
متین - استوار و محکم و مضبوط - لغتیہ از مولف - ہادی دین متین خیر الرسل + رہبر عالم محمد مصطفیٰ۔
متہاون - سستی کرنے والا کاہل۔
متحصن - قلعہ بند و قلعہ نشین۔
متقن - استوار اور محکم و مضبوط۔
متبائن - آپس سے جدا ہونے والے۔
متلون - رنگ برنگ جو ایک بات پر قایم نہو۔
متمکن - مکان پکڑنے والا ٹھہرنے والا۔
متکلمین - بہت سے کلام کرنے والے۔
متوطن - وطن پکڑنے والا سکونت کرنے والا۔
متاخرین - پچھلے زمانہ کے لوگ۔
متخاصمین - آپسمین لڑنے والے۔
متعین - جو بات قرار پا چکی ہو مقرر شدہ۔
متضمن - ضمن مین لینے والا بیٹ مین لینے والا شامل۔
متنبہ - خبردار و آگاہ کیا گیا۔
متداولہ - نوبت بنوبت لیا گیا دست بدست پھیرا گیا۔
متقنہ - استوار و محکم و مضبوط ہونے والا۔
متنوعہ - کئی قسم ہونے والا۔
متخیلہ - خیال کیا گیا اور نام ایک قوت دماغی کا ہو۔
متاجرہ - تجارت کرنا سوداگری کرنا۔
متجبرہ - ظالمون اور جبر کرنے والون کا فرقہ۔
متضادہ - آپسمین ضد کرنے والا۔
متناہیہ - کسی چیز کی انتہا کو پہونچنے والا۔
متتالیہ - پے درپے آنے والا۔
متدارکہ - پانے والا گم شدہ چیز کو۔

متہ - برمہ تر کھانون کا جس سے لکڑیمین سوراخ کرتے ہین۔
متعذبہ - خوشگوار اور شیرین کھانا اور عذاب کرنے والا۔
متارہ - آفتابہ ٹونٹی دار۔
متوجہ - توجہ کرنے والا کسی طرف منھ کرنے والا۔
متکی - تکیہ کرنے والا بھروسا رکھنے والا۔
متناہی - انتہا پر پہونچنے والا۔
متولی - صاحب ولایت مختار کار اور دوستی رکھنے والا۔
متمنی - آرزو کیا گیا۔
متعدی - تجاوز کرنے والا اپنی حد سے اور وہ فعل جو فاعل سے تجاوز کرکے مفعول تک پہونچے مقابل لازمی کے کہ اپنے فاعل سے تجاوز نہین کرتا۔
متواری - پوشیدہ ہونے والا - طالب آملی - دمے کہ عقرب کاکلش بجنبش آرد نیش + شود حسود لبسوراخ مار متواری۔
متوازی - برابر ہونے والا۔
متساوی - برابر ہونے والا۔
متصدی - آگے آنے والا۔
متاذی - ایذا اور تکلیف دینے والا۔
متعالی - بلند ہونے والا۔
متوالی - پے درپے آنے والا۔
متلالی - روشن ہونے والا۔
متلقی - ملاقات کرنے والا۔
متجلی - روشن اور چمکتا ہوا۔
متحلی - زیور پہنے ہوے آراستہ پیراستہ۔
مترقی - بڑھنے والا زیادہ ہونے والا۔
متراقی - افسون خوان منتری۔
متلاشی - پریشان و خراب و معدوم ماخوذ لاشے سے۔
متمادی - زمانہ دراز۔
متمشی - جاری اور روان - سعید اشرف - از پے ادمرواے کبک کے اے طور خرام + نیست کارے کہ زہر کس متمشی گردد۔
متشکی - شکایت کرنے والا۔
متقاضی - تقاضا کرنے والا۔

میم با ثاے مثلث

مثنّی - دوبارہ کیا گیا دوبارہ لایا گیا - ۵ - چو ثنائی او ز ... [illegible]
بزم یکتائی + نشد حاجت کہ بیند دیدہ مردم مثنی را۔

مثوبے - جاے آرام و قرارگاہ -
مثقب - بکسر اول برما جس سے نجار لکڑی مین سوراخ کرتے ہین -
مثالب - بہت سے عیب اور برائیان -
مثیب - پاداش دینے والا اور اعتدال مزاج پر آنے والا -
مثابہ - بفتح اول مقام مراجعت اور انبوہ کا جس جگہ بہت سے آدمی جمع ہون -
مثلب - بضم اول وہ راستہ جو بہار مین ہو جزا و پاداش اور اجر دیا گیا -
مثبت - بضم اول و سکون ثانی و فتح ثالث لکھا گیا اور ثابت کیا گیا -
مثبت - بضم اول و فتح ثانی و باے موحدہ مشدد مفتوح برقرار رکھا گیا
مثوبت - جزا نیکی کی -
مثوبات - نکوئی کی جزائین -
مثلث - تین حصے کیا گیا سہ گوشہ کیا گیا اور نام ایک خوشبو کا کہ مشک و عود صندل اور کافور سے بناتے ہین اور ایک قسم کی شراب اور وہ لفظ جسکے تین حرف ہون جیسا کہ مہر اور ماہ وغیرہ اور نام ایک شکل کا اشکال تعویذات سے -
مثمر - میوہ دار درخت -
مثرودیطوس - یونانی زبان مین ایک معجون کا نام ہے -
مثرودطاس - بڑا طاس جسمین عرب لوگ ثرید کھاتے ہین اور ثرید روٹی کے ٹکڑے شوربا مین بھگوے ہوے ہوتے ہین -
مثلثات الافلاک - آسمان کے بارہ برج جو تین تین آتشی خاکی آبی بادی ہین چنانچہ تین برج آتشی حمل اسد قوس اور تین برج بادی جوزا میزان دلو اور خاکی ثور سنبلہ جدی اور آبی سرطان عقرب حوت ہین -
مثقال - ایک وزن ہے ساڑھے چار ماشہ کا -
مثیل - امالہ مثال کا -
مثال - شبیہ و نظیر و تصویر و حکمنامہ قاضی و مانند و فرمان بادشاہی و پروانہ و مطلق حکم اور عالم مثال ایک عالم ہے فروتر عالم ارواح سے اور عالم خواب کو عالم مثال کہتے ہین - طاہر وحید - بوسیدہ ایم سینہ اش از روے پیرہن + از صدق در لباس مثالی گرفتہ ایم -
مثل - مانند اور مساوی جمیع صفات کو کہتے ہین اور مثال کو مساوات بعض صفات شرط نہین -
مثل - بفتحتین مانند و داستان اور قصہ و حکایت جو مشہور ہو - باقر کاشی -
مثل زن مثل زد کہ تخم بدی + سر البتہ بر آب نا بخردی -
مثمن - ہشت پہلو اور آٹھ حصہ کیا گیا -
مثنان - سریانی زبان مین گیہون دانہ کو کہتے ہین جو ایک قسم مازریون سے ہے -
مثابہ - مانند یہ لفظ واسطے تشبیہ کے لایا جاتا ہے اور اصل مین اسم ظرف ہے ثوب سے جسکے معنے بازگشت کے ہین -

مثالیہ - بادشاہی فرمان -
مثانہ - وہ اندرونی عضو جسمین پیشاب جمع ہوتا ہے -
مثلہ - کاٹنا کان اور ناک کا اور عذاب کرنا -
مثوبہ - جزا نیکی کی اور ثواب عبادت کا -
مثانی - سورہ فاتحہ کہ دو رکعت نماز مین دو بار پڑھی جاتی ہے -
مثنوی - وہ نظم جسکی ہر بیت مین دو قافیہ و ردیف ہون مولوی معنوی کی مثنوی مولوی معنوی + ہست قرآن در زبان پہلوی -

	میم با جیم	

مچلکا - ترکی مین وہ اقرارنامہ جو مجرم سے لکھایا جاے -
مجرا - بضم اول روان کرنا اور روان کیا گیا -
مجرا - بفتح اول روان ہونے کی جگہ -
مجتبی - برگزیدہ چنا ہوا - لعتیہ از مولف - مجتبی خیر الورا نور الہدی + صل علے احمد مرسل محمد مصطفی اصل علے -
مجازا - مخفف مجازات جزا دینا بدلہ دینا -
مجزا - پارہ پارہ اور جزو جزو کیا گیا -
مجاذیب - جمع مجذوب کی بہت سے دیوانے -
مجیب - اجابت کیا گیا -
مجاب - جواب دینے والا اور قبول کرنے والا -
مجتنب - پرہیز کرنے والا دور دور رہنے والا -
مجردات - عقول عشرہ و ارواح و ملایک -
مجملات - قرآن مجید کی وہ آیتین جنکے معانی تفصیل چاہتے ہین -
مجہورات - قاریونکے نزدیک حروف تہجی مین سے انیس حرف ہین سوائے دس حروف مہموسہ کے
مجانبت - یکسو ہونا ایک طرف ہونا -
مجاعت - بھوکا ہونا گرسنہ ہونا -
مجاملت - نکوئی کرنا -
مجامعت - ہم بستری کرنا جماع کرنا -
مجالست - ملکر بیٹھنا -
مجانست - ہم جنسی و ہمقومی کرنا -
مجاورت - ہمسائگی کرنا -
مجیئت - آمدن یعنے آنا -
مجابات - جوابی باتین -
مجازات - عوض دینا نیکی یا بدی مین -
مجتث - بیخ سے اکھاڑا گیا اور نام ایک بحر کا نظم کی انیس بحرون سے

مجّ - غلط ماش جو مشہور غلط ہی-
مَجّ - بہ تخفیف جیم مخفف ماج جسکے معنے چاند کے ہین اور کج یعنے ٹیڑھا-
مجنّح - بہ حاے حطی بروزن مفرح صاحب جناح یعنے بازو پردار جانور-
مجتہد - اجتہاد کرنے والا ارادہ صواب پیدا کرنے والا-
مجید - بزرگوار و گرامی-
مُجمّد - وہ رقیق چیز جو سردی سے جم جاے-
مجہود - جہد کیا گیا استطاعت و قدرت کیا گیا کوشش کیا گیا-
مُجعّد - مرغول بال پیچدار بال-
مجدد - نیا کرنے والا تازہ کرنے والا-
مجدود - صاحب بخت و روزی اور نام حکیم سنائی کا-
مجاہد - کفار کے ساتھ لڑنے والا-
مجد - بزرگی اور بزرگوار ہونا-
مجرد - اکیلا تارک الدنیا مُجرّد زن۔ سعدی - مجرد بمعنی نہ عارف بر لق+
کہ بیرون کند دست حاجت بخلق-
مجمر - بالکسر و بالضم انگیٹھی آگ جلانے کی اور عود سوز جسمین خوشبو جلاتے
ہین - آرزو - آن سپند گلشن آراے بہار آتشم + کز نسیم نالہ من گلشن مجمر شگفت
مجیر - دستگیر مددگار پناہ دینے والا-
مجدر - بروزن منور جسکو جدری کی بیماری ہو یعنے سیتلا کی بیماری اور منقش
مجذور - حساب مین حاصل ضرب رقم مثلاً دو کو دو مین ضرب کیا تو چار حاصل ہوئے
مجاور - ہمسایہ دیوار بدیوار رہنے والا-
مجبور - جبر کیا گیا زبردستی کسی کام پر لگایا گیا - توحید - زمال و دولت اولاد
دست بردارد + دم اخیر شود چونکہ آدمی مجبور-
متجاوز - تجاوز کرنے والا-
مجاز - راستہ اور گذرگاہ مقابل حقیقت کے - مولانا جامی - ولا تا کے
درین کاخ مجازی + کنی مانند طفلان خاکبازی-
مجوّز - بکسر واو تجویز کرنے والا-
مجوَّز - بفتح واو تجویز کیا گیا-
مجاہز - درستی کرنے والا اسباب و سامان کا-
مجسّ - بفتحتین و تشدید سین ہاتھ رکھنے کی جگہ اور ہاتھ رکھنا طبیب کا
بیمار کی نبض پر-
مجلس - بیٹھنے کی جگہ آرام کی جگہ-
مجالس - جمع مجلس کی بہت سی مجلسین-
مجوس - قوم آتش پرست جنکا پیشوا زردشت حکیم تھا - توحید -

وجود ذات و ہر جلوہ از شہود صفات + چو جان بپردہ جسم و چراغ در فانوس +
بہر طریق پرستد خداے واحد را + ہنود و مسلم و عیسائی و یہود و مجوس-
مجصص - گچ کیا گیا سپیدی کیا گیا-
مجامع - جمع ہونے کے مقام-
مجداف - وہ لکڑی جس سے کشتی چلاتے ہین ہندی مین اسکو بانہ اور چپا کہتے ہین
مجوف - جو چیز اندر سے خالی یعنے پولی ہو-
مجفف - خشک کرنے والا-
مجرک - مفت کام کرانا لوگون سے بغیر دینے اجرت کے بیکار کام لینا-
مجاجنگ - مصنوعی چرمی آلہ تناسل جسمین پیسے بھرے ہوتے ہین
اور شہوت پرست عورتین اس سے اپنی حاجت رفع کرتی ہین-
مجال - قدرت امکان طاقت - سعدی - مجال سخن تا نہ بینی زپیش +
بہ بیہودہ گفتن مبر قدر خویش-
مجمل - جو بات مفصل نہ کہی جاے تھوڑی لفظون مین بیان کیجاوے-
مجبول - جبلی اور طبعی اور پیدائی ہوئی-
مجہول - بے خبر و جاہل و نادان-
مجذوم - جسکو بیماری جذام کی ہو-
مجزوم - کاٹا گیا اور یقین کیا گیا
مجّان - مفت بغیر قیمت اور رائگان-
مجون - بیباکی و بے خوفی و شوخی-
مِجَن - بکسر میم و فتح جیم سپر یعنے ڈھال-
مجنون - صاحب جنون دیوانہ اور لقب قیس کا جو لیلی پر عاشق تھا - توحید
کسے مجنون گہے فرہاد گشتی + گہے شیرین شدی وگاہ لیلا + چو در یوسف
جمال خود نمودی + فدا جان کرد در عشقش زلیخا-
مجانین - بہت سے دیوانے-
مجمع البحرین - ایک مقام کا نام ہی جس جگہ دریاے روم و دریاے
فارس جمع ہوتے ہین اور موسے علیہ السلام اور خضر کی ملاقات اسی
موقع پر ہوئی تھی-
مجزو - نام ایک بحر کا ہی بحور نظم سے-
مجاہدہ - رنج و مشقت و محنت اور جنگ کرنا ساتھ کفار کے اسلام کے واسطے
مجنّدہ - جمع کیا گیا اور جگہ جمع ہونے کی لشکر و فوج کے ماخوذ تجنید
سے جسکے معنی لشکر جمع کرنے کے ہین-
مجمع علیہ - جس بات پر قوم کا اجماع ہو-
مجنّہ - نام ایک بازار کا مکہ معظمہ مین-

مجاوبہ - جواب دینا۔
مجرہ - کہکشان جو خط سفید آسمان پر نظر آتا ہی۔
مجسطی - نام ایک کتاب کا ریاضی کے علم مین مشتمل اصول و اشکال علم ہندسہ ہو جا ہے سکا بطلیموس حکیم ہی بعض اس علم کو حکیم اقلیدس کے ساتھ منسوب کرتے ہین اور کتاب مجسطی موجودہ حال نصیر الدین طوسی کا ترجمہ ہی
مجلی - روشن کرنے والا۔
مجازی - جو غیر حقیقی ہو۔
مجالی - روشن ہونیکا مقام جلا ہونے کی جگہ اور آئینہ جو جلا کے لائق ہو۔
مجاری - جاری ہونیکی جگہ بدر رو وغیرہ۔
مجی - آمدن اپنے آنا۔
مجبوری - جو رقم جا بین محسوب ہو جائے اور سلام و تعظیم محسن تاثیر مرا بکوہ تمکینی سر کو کار نیست از قسمت + کہ گر سیلاب خون گرم نگردد پیش او مجبورے - آرزو - گلو لش لوے گل گم مسکینا خود بدانہ معذور نمی + مجبور اے بلبل آن قیامت نازمیگرد۔
مجدی - ایک قسم کے خربزہ کا نام ہو محسن تاثیر - ہر جا رطب تر لیست مجدی آمنا گوے شہد مجدی لے۔
مجرائی - واجبی تنخواہ اور حاضر باش آدمی - فقیر اللہ آفرین لاہوری شب یاد تغافل پے صف آرائی ست + نقیب نالہ صد آگرا شک مجرائی ست۔

میم با حاے حطی

محابا - مروت و اعانت و امداد و صلح و پاس خاطر - صائب - روشندلان زیرک محابا نمی کنند + خورشید را ملاحظہ از زوال نیست۔
محار - محاری - موتیون کی راہی۔
محلا - محلی - آراستہ سنگار کیا ہوا زیور پہنایا ہوا اور خوبصورت چہرہ
محیا - چہرہ آدمی کا۔
محی الدینکے - امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔
محاکا - بات چیت باہمی گفتگو۔
محب - دوست پیارا مجتبی۔ تعیشہ از مولف - محبان خداے لایزالی بقرب حق محبان محمد۔
محراب - طاق اندرونی مسجد جسکے جاے جی یعنی جنگ کی جگہ ہیں گا چاکر اہل عبادت نفس سرکش سے ساتھ جنگ کرتے ہین۔ لعیشہ از مولف - سر ازو ازان جواب دہ بت پید بید + محراب عبادت سر نہادند۔
محسوب - حساب شمار مین لایا گیا۔ توحید - بیہوش روے منور زرطالب اے مطلوب + کہ خوب از ہمہ خوبان توئی محبوب خوب + رفیق اہل دلائی فقط

تو اے دلدار + محب اہل محبت تو ہستی اسے محبوب + تو نور حسن بخشا یوسف افزودی + تو نور دیدہ ربودی زدیدۂ یعقوب + نہ ہر شمار شمار تو در شمار آید + بہر حساب حساب تو میشود محسوب۔
محلب - دودھ دوہنے کا برتن اور نام ایک درخت کا جسکی لکڑین نہایت خوشبو ہوتی ہیں
محتسب - نائب قاضی کا جو شہر مین گشت کر کے لوگون کو ممنوع چیز سے منع کرتا ہی - سعدی - ورندا لی کہ در نہانش چیست + محتسب را درون خانہ چہ کار۔
محتجب - پردہ مین رہنے والا پوشیدہ چھپا ہوا۔
محبوب - بہت پیارا دوست - توحید - تو مطلوبے تو مرغوبے تو محبوب خوش اسلوبے + توئی در ابتدا طلبا توئی در انتہا منشا۔
محجوب - صاحب حجاب پردہ دار - توحید - فروغ نور تو آید نظر زہر پردہ توئی حجاب توئی حاجب و توئی محجوب۔
محمدت - ستائش وصفت و ثنا۔
محسنات - نیکیان اور نیک عورتین جمع محسنہ کی۔
محاملت - آپس مین بار آٹھانا۔
محتجبات - پردہ نشین عورتین۔
محاربات - بہت سی لڑائیان۔
محاکمات - مقدمے اور فیصلے۔
محکمات - وہ قرآن کی آیتین جسکے معنی صریح سمجھ مین آجائین
محاکات - باہمی گفتگو کرنا۔
محبت - دوستی کرنا پیار کرنا۔ سعہ - بقرب حق محبت میسر نا شد ہر بد بدرد و رنج و غم رہانند
محاذات - مقابل ہونا روبرو ہونا۔
محیات - زندہ کی ہوئی جماعت۔
محاضرات - تواریخ کا علم۔
محاورت - جواب دینا۔
محاورات - بولچال بیان۔
محاولت - طلب کرنا چاہنا۔
محرمات - ایک قسم کی چھینٹ ہی جسکو چھینٹ محرمات کہتے ہین۔ محمد سعید اشرف - ہنگام محرم است و بات ست دلم + بیزار ز گلزار حیات است دلم + از بس لب افسوس خم کشیدیم بر سر + از سر تا پا محرمات ست دلم۔
محنت - تکلیف رنج دکھ۔ مولف - چگونہ این مسافر دل بہ بند و محنت خانۂ دنیاے فانی۔

محروت ۔ درخت انجدان جسکے گوند کو حلتیت کہتے ہین۔
محدِث ۔ بکسر دال نیا پیدا کرنے والا اور بفتح دال نیا پیدا کیا گیا اور بے وجود
محدِّث ۔ عالم علم حدیث کا۔ قطعہ از مولف ۔ آمدند و باز رفتند از جہان
بادشاہان زمانہ نامدار + اہل ملک صاحب سیف و قلم + عالم و فاضل محدث بیشمار
محلوج ۔ وہ روئی جسمین سے بنولے نکالے ہوئے ہون یا روئی دُھنی ہوئی ہو۔
مح ۔ بہ حاے حطی مرغ کے انڈے کی زردی۔
محامد ۔ تعریفین اور نیک خصلتین محمدت کی جمع ہی۔
محمود ۔ تعریف کیا گیا اور ایک نام اسامی گرامی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
سے اور نام ایک بادشاہ عظیم الشان کا جسکو سلطان محمود غزنوی کہتے تھے اور
نام ایک بڑے ہاتھی کا جو ابرہہ کے لشکر مین تھا جو حبش سے کعبہ معظمہ کے انہدام
واسطے مکہ مین آیا تھا اور غیبی لشکر ابابیل نے اسکو مع لشکر کے برباد کردیا اور
نام ایک مشہور مسخرے کا جو ایران مین رہتا تھا۔
محمد ۔ تعریف کیا گیا اور نام نامی حضرت خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ کا صلی اللہ
علیہ وسلم نعتیہ از مولف ۔ خدا شد خود ثنا خوان محمد + ہمین بس در جہان شان محمد
محور ۔ بکسر میم و فتح واو گرد پھرنا اور نام اُس تیر یعنے لکڑی کا جسکے ذریعے
دولاب پھرتا ہے۔
محیر ۔ نام ایک پردہ موسیقی کا۔
محتکر ۔ غلہ فروش جو بامید گران ہونے غلے کے غلہ بھر رکھے سبب گران ہو تو
نفع اُٹھا کر فروخت کرے۔
محرور ۔ گرم مزاج صاحب حرارت۔
محشور ۔ اکٹھا کیا گیا حشر کیا گیا۔
محضر ۔ جاے حاضری حاضری کا مقام اور کاغذ جو کسی امر کی شہادت کیلئے
لکھکر گواہون کی گواہیان اسپر لکھائی جائین ۔ صورت و شکل ۔ صائب ۔
مجنون خویش بسرانجام مید ہد محضر + سیہ دلی کہ چو طاوس در خود آرائی است۔
محرر ۔ تحریر کرنے والا لکھنے والا کاتب بفتح راے اول لکھا گیا اور آزاد کیا گیا
محشر ۔ مقام اور وقت اکٹھا ہونیکا قیامت کا دن ۔ سعدی ۔ بمحشر گواہ گناہم
گر اوست + ز دوزخ نترسم کہ کارم نکوست۔
محذور ۔ خوف کیا گیا یعنے جس سے خوف آے۔
محظور ۔ بظاے معجمہ حرام کیا گیا منع کیا گیا۔
محقر ۔ ناچیز و حقیر
محترز ۔ احتراز کرنے والا پرہیز کرنے والا اپنے آپ کو بچانے والا۔
محبس ۔ مقام حبس قید خانہ ۔ ذوقی ۔ طالب حق فی الحقیقت تار ہا گردد
ز دم + پا بزنجیرست اندر محبس دنیا سے دون۔

محسوس ۔ جانا گیا دریافت کیا گیا ساتھ ایک حس کے حواس خمسہ سے۔
محروس ۔ حراست مین رکھا گیا نگاہ رکھا گیا۔
محشوس ۔ جلا ہوا آلودہ ہوا ہوا ماخوذ حش سے جو بفتح حاے و تشدید
شین آگ جلانے و براز و قضاے حاجت کے معنے رکھتا ہی۔
محیص ۔ خلاصی پانا و خلاص کرنا۔
محرص ۔ حرص مین ڈالنے والا۔
محرض ۔ بہ ضاد معجمہ ورغلانے والا کسیکو کسیکی لڑائی پر برانگیختہ کرنے والا۔
محیض ۔ جو عورت حیض مین ہو۔
محض ۔ صرف اور خالص۔
محیط ۔ احاطہ ڈالنے والا گھیرنے والا اور سمندر جسکو دریاے محیط کہتے ہین
اور نام کتاب امام غزالی کا۔ سعدی ۔ محیط ست علم ملک بر بسیط + قیاس
تو بر وے نگردد محیط۔
محظوظ ۔ بہرہ مند و صاحب نصیب۔
محتظ ۔ بہرہ یاب و صاحب قسمت۔
محفوف ۔ گردا گرد و پکڑا گیا۔
محذوف ۔ کاٹا گیا اور گھوڑا دم بریدہ۔
محرَّف ۔ بفتح راے راستی سے کجی کیطرف پھیرا گیا ٹیڑھا کیا گیا۔
محرِّف ۔ بکسر راے کج کرنے والا۔
محترف ۔ ہم کسب ہم پیشہ۔
محترق ۔ بکسر راے جلنے والا سوختہ ہونے والا۔
محقق ۔ بضم میم و فتح حاے حطی و قاف اول مشدد مکسور تحقیق کرنے
والا اور وہ شخص جو بات کو بدلیل ثابت کرے۔
محقوق ۔ راست و درست کیا گیا۔
محق ۔ بفتح میم و سکون حاے حطی باطل کرنا پاک کرنا۔
مُحِق ۔ بضم میم و کسر حاے وہ شخص جسکے حق سچا نب ہو۔
مُحاق ۔ بہر سہ حرکات میم گھٹنا چاند کا جو چند معین تاریخ سے شروع ہوتا ہے
اور تین روز اخیر ہر ایک چاند کے۔
محرق ۔ بضم میم و کسر راے جلانے والا اور بفتح راے جلایا گیا۔
محک ۔ بفتحتین و بکسر اول و فتح حاے سنگ زر کش جسکو ہندی مین کسوٹی کہتے
ہین ۔ صائب ۔ سفلگان را نزند چرخ چو نیکان بر سنگ + محک و سیم و
زر از بہر مس و آہن نیست۔
محراک ۔ بہت حرکت دینے والا اور افسوس کرنے والا اور نام اسمٰعیل علیہ السلام کا
محفل ۔ دوستون کی مجلس اور مجمع ماخوذ حفل سے جسکے معنی لوگون کے جمع

ہوتے ہین۔ توحید۔ مشو بصورت زیبا سے این جہان مائل + کہ نیست زر تو بجز از درد و رنج و غم حاصل + بزیب و زینت دنیاے دون مشو نازان + کہ ہست بہر دو سہ روز گرم این محفل۔

محافل۔ جمع محفل بہت سی مجلسین۔

محل۔ جگہ مقام قدر و منزلت و وقت۔ سعدی۔ منہ آبروے ریا را محل + کہ این آب در زیر دارد وحل۔ صائب۔ باران بے محل ندہد نفع کشت را + ہر وقت پیری اشک ندامت چہ فائدہ۔

محمل۔ بارگیر ہودج کجاوہ سواری کا۔ صائب۔ بہ لیلی منہم و اندر مجنون + راہ درین غافل + کہ دارد گفتگوے مردم دیوانہ محمل ہا۔

مُحال۔ بضم اول ناشدنی و نابودنی اور ناممکن امر۔

مَحال۔ بفتح اول مکان اترنے کے مکان جمع محل۔

مِحال۔ بکسر اول مکر و حیلہ

محلول۔ حل کیا ہوا۔

محتمل۔ احتمال کیا گیا گمان کیا گیا۔

محاول۔ حوالہ کرنے والا۔

محجل۔ گھوڑا سرخ رنگ یا سیاہ رنگ جسکے چارون پانون سفید ہون۔

محصّل۔ حاصل کرنے والا۔

محیل۔ حیلہ گر و مکار۔

محول۔ مصور کے وزن پر حوالہ کرنے والا سپرد کرنے والا۔

محمول۔ گمان کیا گیا خیال کیا گیا۔

محتوم۔ واجب کیا گیا۔

محتشم۔ صاحب حشمت بہت سے نوکرون والا۔

محرم۔ حرام کیا گیا اور نام ایک مہینے کا جسکی دسوین تاریخ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ جعفر زٹلی۔ گر جشن ماہ عید و غیرہ نباشد نصیب تو + این گریہ ہاے ماہ محرم غنیمت است۔

محرِم۔ بضم میم و کسر راے وہ شخص جسنے حرم مین داخل ہو کر احرام باندھا ہو

محرَم۔ واقف حال و واقف کار اور جسکے ساتھ نکاح حرام ہو۔ محمد سعید اشرف۔ محرم خود را بنا محرم نمودن خوب نیست + دختر زر را بہر محرم نمودن خوب نیست

محروم۔ بے نصیب بد قسمت بے بہرہ۔ حافظ۔ زسر و قد دلجویت مکن محروم چشمم را + بپاین سرچشمہ اش بنشان کہ خوش آب روان دارد۔

محکوم۔ فرمان بردار زیر حکم ماتحت۔ توحید۔ نہ فاسق ماند مایوس از عنایت + نہ فاجر ماند از الطاف محروم + خدا حاجت روا و خلق محتاج + خدا حاکم ہمہ مخلوق محکوم

محاجم۔ نام ایک دوا کا ہے جسکو مخلصہ بھی کہتے ہین وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اول بہار مین تین دن برابر ایک ایک مثقال اس دوا سے کھایا اور اس سال مین چند بار اسکو دشمنون نے زہر دیا مگر اثر نہوا۔

مِحَن۔ بکسر اول و فتح ثانی جمع محنت بہت سے رنج اور تکلیفین۔ توحید۔ چو عیش و عشرت در جہان ہمہ فانی ست + چرا ست بندہ گرفتار بند رنج و محن

محزون۔ غمناک اور اندوہگین۔ ذوقی۔ چون محنت فانی و عیشت فانی ست + در جہان محزون و غمگینی چرا۔

محجن۔ چوگان جس سے گیند کھیلتے ہین۔

محضرون۔ بہت سے لوگ جو حاضر ہون۔

محصن۔ جو مرد کسی عورت سے نکاح کرے۔

محی الدین۔ زندہ کرنے والا دین کا لقب حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سید سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی۔ مدحیہ از مولف۔ غوث اعظم قطب عالم پیر محی الدین لی + قرۂ چشم نبی فرزند دلبند علی۔

محسن۔ احسان کرنے والا نیکوکار

محاسن۔ جمع حسن نیکیان اور مردون کی ریش یعنے ڈاڑھی۔ سعدی۔ محاسن چو مردان نداری بدست + سزا جاے مردان نباید نشست۔

محو۔ زایل و معدوم و والہ و شیفتہ و عاشق۔ طالب آملی۔ بہ نقش کلک تو محو ند قدسیان طالب + چکیدہ گر ست این نہ زادۂ رقم ست۔

محشو۔ بھرا ہوا اور پُر ہوا ہوا۔

محفہ محاف۔ ہودج جسمین سوار ہوتے ہین۔ ہاتفی۔ بگفتا محافہ بدوش آورند + خم رودی را در خروش آورند۔

محبرہ۔ دوات جو جیبی قلمندان مین ہوتی ہے۔ یحیی کاشی۔ اپنے اور قلمندان کے مناظرہ مین + در آخر بدو گفتم اے سخرہ + چہ کردی تو باری بدین محبرہ۔

محجوبہ۔ ستر اور عورت۔

محلہ۔ اترنے کی جگہ اور مقام اور آبادی۔

محوطہ۔ احاطہ کی جگہ اور مقام نگاہداشت۔

محاربہ۔ جنگ و کارزار لڑائی۔

محاکمہ۔ دعوے و فریاد نالش جو حاکم کے پاس کی جاے۔

محکمہ۔ جاے حکومت عدالت کی کچہری۔

محیلہ۔ مکار عورت۔

محجمہ۔ استرہ جس سے حجامت کرتے ہین۔

محتالہ۔ مکار عورت۔

محروسہ۔ نگاہبانی کیا گیا حفاظت مین لیا گیا۔

محاورہ - آپسمین کلام کرنا جواب دینا۔

محاصرہ - حصار مین لینا قلعہ بند کر دینا۔

محترفہ - پیشہ ور لوگ اہل حرفت۔

محکیہ - حکایت کیا گیا۔

محمودہ - سقمونیا جو ایک تلخ دوا ہی۔

محادثہ - گفتگو کرنا۔

محتوی - محیط ہونے والا گھیرلے والا۔

محاذی - مقابل و روبرو۔

محی - زندہ کرنے والا۔

محرالی - ایک قسم کی تلوار کا نام ہی۔

میم با خاے

مخلا - مخلی - خالی کیا گیا اور ایک قسم کا نان خورش جو گوشت او ریاد نجان سے پکاتے ہین۔

مخیطا - سپستان جو مشہور دوا ہی ہندی مین اسکو لسوڑا کہتے ہین۔

مخاطِب - بضم میم و کسر طاے روبرو سخن کہنے والا اور مخاطب ہونے والا اخطاب کرنے والا کبھی اس سے عتاب کی مراد ہوتی ہی۔

مخاطَب - بضم میم و فتح طاے جسکو خطاب کیا جاے۔

مخلب - پنجہ جانور شکاری کا مثل باز و جرہ و شیر وغیرہ۔

مخالب - جمع مخلب پنجے شکاری جانورون کے۔

مخرب - خراب اور ویران کرنے والا۔

مخضب - رنگین کیا گیا خضاب کیا گیا۔

مخاطبات - مراسلات و مکاتبات گفتگوئین اور تقریرین۔

مخادعت - مکر و فریب۔

مخادعات - بہت سے مکر و فریب۔

مخدرات - پردہ نشین عورتین ماخوذ خدر سے جو بکسر خا ہی اور معنی اسکے پردہ کے ہین۔

مخدرات - بکسر دال بے خوابیان اور سستیان بدن کی۔

مخالطت - آمیزش اور ملاپ۔

مخافت - ڈرنا خوف کرنا۔

مخلات - توبرہ گھوڑے کا جسمین دانہ ڈالکر اسکو کھلاتے ہین۔

مخزونات - چھپی باتین اور مخفی ارادے۔

مخطورات - خطرے اور اندیشے جو دل سے اٹھین۔

مخالفت - عداوت و دشمنی بیر۔

مخافتت - آہستہ [illegible]

مخاصمت - عداوت و دشمنی بیر۔

مخلوقات - خدا کی پیدائش۔

مخنث - حیز یعنے وہ شخص جسنے آلۂ تناسل جو دکاٹ دیا ہو۔ ذوقی۔ محبت عاملات مردان مخنث است اگر در دلش محبت نیست۔

مَخرج - بفتح اول و سوم باہر نکلنے کی جگہ مقام خروج۔

مُخرِج - بضم اول و کسر ثالث باہر نکالنے والا۔

مخاج - ایک گھانس کا نام ہی جب اسکو چارپایہ کھاتا ہی مست ہوجاتا ہی۔

مخّ - بضم اول و تشدید خاے معجمہ سر کا مغز اور مشہور ہڈی مین ہوتا اور خلاصہ ہر چیز کا۔

مخضود - وہ درخت جسکے کانٹے کاٹ دیے ہون۔

مخلد - ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والا۔

مخطور - وہ خطرہ جو دل مین پیدا ہو۔

مخدِّر - بے حس اور سست کرنے والا بدن کا۔

مخبر - خبر دینے والا آگاہ کرنے والا۔ ذوقی - جہان از نیک و بد آگاہ گردید چو آمد مخبر صادق محمد۔

مخیَّر - بفتح یاے اختیار دیا گیا۔

مخیِّر - بکسر یاے اختیار دینے والا اور وہ آدمی جو صاحب خیر اور نیک ہو۔

مخمّر - بروزن منور گوندھا گیا خمیر کیا گیا۔

مخمور - شراب پیے ہوے مست و مدہوش۔ ذوقی - یکے فرزانہ و بیدار و ہشیار + دگر مستانہ و مدہوش و مخمور۔

مختصر - کوتاہ اور حرف کوتاہ محاورہ ہی۔ محسن تاثیر - تا نظر کار کند سر چمن ہی پیدا ہر کجا مختصرے از قد رعنا لی تو۔

مخنجر - بزاے معجمہ وہ نوک دار لوہا جو سوار اپنے موزہ کو لگاتا ہی تاکہ سواری کیوقت ایڑی لگانے مین گھوڑا تیز ہوکر چلے

مخمس - جو چیز پانچ حصے کی گئی ہو اور ایک قسم کی نظم جو مشہور ہی اسکے ہر ایک بند مین پانچ پانچ مصرع ہوتے ہین اور نام ایک قسم کا اصول موسیقی جسکو ہندی مین تال کہتے ہین۔

مخنوس - نام ایک حکیم یونانی کا ہی۔

مخدوش - چھیلا ہوا خدشہ مین پڑا ہوا وسواس مین آیا ہوا۔

مخروش - خراش مین پڑا ہوا۔

مخلص - صاحب اخلاص و خلوص۔

مختص - خاص کیا گیا۔

مخصوص - خاص کیا گیا۔

مخیص - بہ ضاد معجمہ وہ دہی جسمین سے مسکہ نکال لیا ہو و مرقبہ چھا چھ باقی رہ گئی ہو

مخاض۔ وہ درد جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورت کو ہوتی ہے۔
مخلط۔ بکسر لام مشدد ملانے والا۔
مخلط۔ بفتح لام مشدد ملایا گیا۔
مخلوط۔ ملایا ہوا۔
مخیط۔ بکسر میم وسکون خاے وفتح یاے سوزن یعنے سوئی۔
مخیط۔ سیا ہوا کپڑا
مخشط۔ بہو سیلہ مانگنے والا اور بسبب شرم وعار کے رات کو مانگنے والا۔
مخطط۔ جس کپڑے وکاغذ وغیرہ پر خطوط ہوں اور معشوق جسکے چہرہ پر خط کا آغاز ہو
مخبط۔ بضم میم وفتح خاے وفتح باے موحدہ مشددہ آپس میں ملا ہوا وخراب وتباہ۔ سعدی۔ چون مخبط شد اعتدال مزاج + نہ عزیمت اثر کند نہ علاج۔
مخاط۔ آب بینی ناک کا فضلہ۔
مخروط۔ چھیلا ہوا اور وہ جسم جو گاجر کیطرح ایک طرف سے موٹا اور ایک طرف سے پتلا ہو
مخلع۔ خلعت دیا گیا۔
مخلوع۔ باہر لایا گیا۔
مخترع۔ اختراع کرنے والا نئی بات پیدا کرنے والا۔
مخادع۔ مکر وفریب کرنے والا۔
مخالف۔ نام ایک پردہ کا موسیقی میں اور نام ایک فن کا کشتی کے فنون میں۔
مخلف۔ پیچھے چھوڑا گیا۔
مخلف۔ وہ اونٹ جو نو برس کی عمر سے بڑھ گیا ہو۔
مختلِف۔ بضم میم ولام مکسور اختلاف کرنے والا متفق کے مقابلے میں۔
مختلَف۔ بضم میم ولام مفتوح اختلاف کیا گیا اور وہ لغت جسکے معنے میں اختلاف ہو
مخوف۔ ڈرا ہوا اور خوفناک۔
مخاوف۔ بفتح میم وکسر واو خوف کی جگہ۔
مخمل باف۔ مخمل بننے والا۔ تاثیر۔ زیر دستان راحت از رنج زبردستان برند + خواب مخمل کرد ومخمل باف بیداری کشید۔
مخفف۔ تخفیف دیا گیا ہلکا کیا گیا۔
مخراق۔ وہ دُرّہ جو کپڑے سے بنا کر مجرم کو مارتے ہیں۔
مخرِّق۔ بضم میم وکسر راے مشدد ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا پھاڑنے والا۔
مخنق۔ بضم میم وسکون خاے وفتح نون گلا پکڑا گیا گلا دبایا گیا۔
مخنوق۔ جسکو خناق کی بیماری ہو۔
مخلوق۔ خدا کی پیدائش۔
مخذول۔ خوار کیا گیا مخاذیل اسکی جمع ہے۔
مختل۔ مخل۔ خلل یافتہ خلل پایا ہوا۔ علی خراسانی۔ گر بود الفضولی شدہ باشد معاف کن + لبسیار مختلم زپریشانی حواس۔ والہ۔ توبہ وزہد مختل گشود بہر شراب + جمعہ وشنبہ وماہ رمضان ہر ہفتہ یکے ست۔

مخلخل۔ بفتح ہر دو خاے مجموعہ وہ چیز جسکے اجزا آپس میں ملے ہوئے نہوں۔
مخال۔ منکر یعنے انکار کرنے والا۔
مخائل۔ جمع مخیلہ آثار وعلامات اور مقام خیال وگمان کا اور گمان لیجانا۔
مخمل۔ مشہور کپڑا ہے۔
مخیل۔ خیال کیا گیا۔
مخل۔ خلل ڈالنے والا۔
مخدوم۔ خدمت کیا گیا باپ پیر استاد وبزرگ۔ مثل۔ ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد + ہر کہ خود را دید او محروم شد۔
مخادیم۔ جمع مخدوم کی۔
مخیم۔ بفتح میم وسکون خاے وفتح یاے خیمہ برپا کرنے کی جگہ۔
مخیّم۔ بتشدید یاے مقام خیمہ۔
مختصم۔ خصومت کرنے والا۔
مختوم۔ مہر کیا گیا۔
مختتم۔ مہر لگایا گیا بند کیا گیا قفل لگایا گیا۔
مخاتیم۔ جمع مختوم کی۔
مخزن۔ جس جگہ خزانہ رکھا ہو۔
مخازن۔ جمع مخزن کی۔
مخزون۔ جو چیز خزانہ میں جمع ہو۔
مخزان۔ قوم ترسا کا عبادت خانہ۔
مختون۔ ختنہ کیا ہوا۔
مخطوبہ۔ وہ عورت جسکی کسی مرد نے خواستگاری کی ہو۔
مخدرہ۔ پردہ نشین عورت۔
مخرقہ۔ شرمندگی وتیرگی۔
مخیدہ۔ پھسلا ہوا اور خراب شدہ۔
مخاصمہ۔ خصومت اور دشمنی۔
مخیَّلہ۔ بضم میم وفتح خاے وفتح یاے مشدد مقام خیال یعنے دماغ۔
مخیِّلہ۔ بکسر یاے تحتانی نام ایک دماغی قوت کا۔
مخمصہ۔ اضطراب وبیقراری۔
مخمل دوخوابہ۔ ایک قسم کے مخمل کا نام کہ دونوں طرف اسکے پشم ہوتی ہے۔ صائب۔ اینجا بخواب غفلت وآنجا بخواب مرگ + چون مخمل دوخوابہ برو بالی ام
مخمل گورکہ۔ ایک قسم کی مخمل ہے۔ محسن تاثیر۔ تاثیر در لباس مراعنقی بنود

ذرا بیچہ داشتہ نقش گو کر لیا دہ ام۔

مخاطب ستان جو ایک مشہور پھل ہے ہند میں لسوڑیان انکا نام ہے
مخاصمہ۔ ایک گھاس کا نام ہے کہ ہر ایک قسم کا علاج ہے۔
مخاطرہ۔ خطرہ واندیشہ۔
مخطی۔ بے ارادہ کوئی خطا کرنے والا اور خاطی وہ جو بارادہ خطا کرے۔
مخاطی۔ ایک سوال اور ایک قسم بلغم کا جو شاید سینی ہو۔
مخططی۔ دو رنگ جو گا جیسے دوست ہر ایک طرف سے موٹی اور ایک طرف سے باریک
۔۔۔ رہائی وسلامتی۔
مخمل مشکی۔ سیاہ مخمل۔ خالص۔ از عدہ بر جلوہ خطت گیست برا
از مخمل مشکی کہ نوداری ہمہ رنگ ست۔
مخفی۔ پوشیدہ چھپا ہوا اور تخلص ایک عورت شاعرہ کا جسکا نام زیب النسا
تھا اور دیوان مخفی اسکا دیوان مشہور ہے۔

میم بادال

مداوا۔ دوا کرنا علاج کرنا۔ ے۔ لوئی وارو سے فرد مستمندان
مداوا۔ بہ دروں دردمندان۔
مدارا۔ صلح ودرستی کرنا رعایت کرنا۔ صاحب گلستان کہ گرودہ فاقہ
چندان نیست + بمو صبر کہ مدارا کند سلیمان ست۔ مولوی معنوی بلطف
حق بانو مدارا کند + چونکہ از حد بگذرد رسوا کند۔
مدحت۔ بکسر اول صفت وثنا وستائش۔
مداہنت۔ بخلاف اردو دل کے ظاہر کرنا نفاق سے جھوٹ بولنا چرب
زبانی وخوشامد کرنا سستی کرنا۔
مدرکات۔ سمجھی ہوئی ودرد انشتین۔
مداوات۔ دوا کرنا علاج کرنا۔
مداعبت۔ خوش طبعی کرنا۔
مدارات۔ صلح ورعایت کرنا۔
مدعیات۔ جمع مدعا۔
مدت۔ درازی وقت کی جسقدر گذرا ہو عرصہ ودیر۔ سعدی۔ دران
مدت کہ مارا وقت خوش بود + ز ہجرت ششصد وپنجاہ وشش بود + مراد ما
نصیحت بود گفتیم + حوالت با خدا کردیم ورفتیم۔
مدت عدت۔ ایک نکاح کے فسخ کے بعد جو مدت کسی عورت کی دوسرے
نکاح کے لیے مقرر ہوا سکو عدت کہتے ہیں چنانچہ مطلقہ کے لیے تین حیض
یا تین ماہ اور بیوہ کے واسطے چار ماہ دس روز اور حاملہ کے لیے
وضع حمل تک مقرر ہے۔

مداخلت۔ کسی کی شرکت ودخل دینا۔
مدارست۔ پڑھنا پڑھانا۔
مدافعت۔ دفع کرنا دور کرنا۔
مداومت۔ ہمیشگی کرنا۔
مداوات۔ دوا کرنا علاج کرنا۔
مدارج۔ بہت سے درجے۔
مدح۔ تعریف صفت وثنا۔
مداح۔ صفت کرنے والا تعریف کرنے والا۔ توحید۔ بذکر او ست ہمہ خلق
در جہان مشغول + زبانہ ہست ثنا خوان زبانیان مداح۔
مدیح۔ بروزن فصیح صفت وستائش۔
مدائح۔ تعریفین صفتین ستائش جمع مدح کی۔
مدید۔ دراز یعنے لمبا اور نام ایک بحر کا بحور نظم سے۔
مد۔ کشش افزونی ودرازی اور وہ خط جو الف ممدودہ پر لکھتے ہین
اور وہ خط جو حساب کی رقم پر کھینچتے ہین۔
مد۔ نام ایک پیمانہ کا جو دو رطل کا ہوتا ہے۔
مداد۔ سیاہی جس سے لکھتے ہین۔ ساحی۔ سیاہ خام اگر سپید ست
نورانی ست + مداد دودہ شمع وچراغ پیدا شد۔
مدد۔ یاوری کرنا حمایت ویاری کرنا۔ جمال الدین سلمان۔ بمردمی
نظر سے کن بمن کہ درویشم + بریہ مدد سے دہ مرا کہ دلریشم۔
مدار۔ جاے دور ومقام گردش ودائرہ وحلقہ۔ توحید۔ تو بہ عزیزت
بیک دم ست مدار + مدار زیادہ ازان در جہان امید قرار۔
مدر۔ بفتحتین کلوخ مٹی ڈھیلا اور زمین۔
مدر۔ بضم میم وکسر دال ورائے مشدد جاری کرنے والا بول کا۔
مدبر۔ بضم میم وسکون دال وفتح باے موحدہ بدبخت وبدقسمت یعنے
جسنے دولت کو پیٹھ دی ہو۔
مدبر۔ بضم میم وفتح دال وتشدید باے موحدہ مکسورہ صاحب تدبیر
وعقلمند ودانا۔ سعدی۔ مدبر کہ قانون بدی نہد + ترا می برد تا بدوزخ
دہد + مگو ملک را این مدبر بس ست + مدبر مخوانش کہ مدبر کس ست۔
مدبر۔ بتشدید باے مفتوح تدبیر کیا گیا اور وہ غلام جو اپنے مالک کے
مرنے کے بعد آزاد ہو۔
مدرار۔ بہت سا پانی گرانے والا اور بادل برسنے والا۔
مدروس۔ پرانا اور بیرولت اور چھپا ہوا۔
مدارس۔ بکسر را پڑھانے کی جگہ جمع مدرسہ کی۔

مدرّس ۔ درس پڑھانے والا استاد۔
مدراس ۔ وامق کے ایلچی کا نام ہے جسکو وامق نے خواستگاری کا پیغام دیکر عذرا اپنی معشوقہ کے پاس بھیجا اور عذرا نے ایلچی کی آنکھیں اپنی انگلیوں سے نکالکر اسکو اندھا کردیا تھا۔
مدہوش ۔ متحیر و سرگشتہ و حیران و مست و بیخبر۔ قطعہ از مولف ۔ ببین و در انقلاب چرخ گردان + بچشم عقل و ہوش اے مرد مدہوش + مگر یاد خدا از یاد تو رفت + کہ ہستی اینچنین از خود فراموش۔
مدافع ۔ دفع کرنے والا۔
مدقوق ۔ لاغر اور دبلا اور وہ شخص جسکو تپ دق کی بیماری ہو۔
مدقّق ۔ وہ شخص جو باریک کام کرے اور دلیل کو دلیل کے ساتھ ثابت کرے۔
مدرک ۔ سمجھنے والا اور حقیقت کو پہنچنے والا۔
مدبنگ ۔ دروازے کی پچھلی لکڑی جس سے دروازہ بند کرتے ہیں۔
مدخل ۔ بفتح اول و ثالث دخل کرنا اور داخل ہونا اور دخل کا مقام۔
مُدخِل ۔ بضم اول و کسر ثالث بخیل و ممسک۔
مداخل ۔ دخل کے مقامات و زر آمدنی۔
مدلِّل ۔ دلیل کے ساتھ ثابت کرنے والا۔
مدلَّل ۔ دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہوا۔
مدمِل ۔ زخم سے ریم نکالنے والا۔
مدلول ۔ دلیل کیا گیا۔
مدخول ۔ داخل کیا گیا۔
مدعم ۔ بعین مہملہ نام غلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
مدغم ۔ جو حرف اپنے ہمجنس میں آکر ادغام ہوجائے اور چھپا ہوا اور ملا ہوا اور درج کیا ہوا اور بمعنی متعلق ادغام کے گھوڑے کے منھ میں لگام دینا ہے۔
مدام ۔ ہمیشہ رکھا گیا ادامت کا اسم مفعول اور شراب۔
مدلہم ۔ بضم میم و سکون دال و فتح لام و کسر ہاے ہوز نہایت کالا اور تاریک۔
مدینۃ الاسلام ۔ لقب شہر کوفہ کا جو دار الملک عراق عرب کا ہے۔
مدار المہام ۔ مختار کل معتبر نوکر۔
مدین ۔ ایک شہر دریاے مغرب کے کنارے پر ہے۔ سعدی ۔ شنیدم کہ ذو النون بمدین گریخت + کہ بسیار شد کہ باران بریخت۔
مداین ۔ ایک شہر نوشیروان کا تختگاہ تھا اب اجڑ چکا ہے بابل کے علاقہ میں اسکے کھنڈرات ہیں اور عربی میں جمع مدینہ کی بہت سے شہر۔
مدہامتان ۔ سرسبز باغ۔
مُدُن ۔ جمع مدینہ بہت سے شہر۔

مدیون ۔ قرضدار جسکے ذمہ قرض ہو۔
مُدَوَّن ۔ بروزن ملون جمع کیا گیا۔
مدہون ۔ دباغت دیا ہوا چمڑا اور چکنا یعنے جسکو تیل ملا ہوا ہو۔
مدفن ۔ جس زمین میں خزانہ یا کوئی مردہ دفن کیا ہوا ہو مقام دفن۔
مدفون ۔ دفن کیا ہوا گاڑا ہوا۔ توحید ۔ چو گنج علم و ہنر ہست در دل مدفون + برآر مخزن عرفان بروں ازین مدفن۔
مدینہ ۔ شہر بود و وہ شہر جو مدینۃ النبی عرب میں مشہور ہے اور روضہ عالیہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں ہے۔ نعتیہ از مولف ۔ خدا باغ جنان را کردہ سرسبز + ز رنگ و بوے گلزار مدینہ۔
مدرسہ ۔ جاے تدریس پڑھنے پڑھانے کا مکان ۔ سعدی ۔ زاہد میان مدرسہ آمد ز خانقاہ + بشکست عہد صحبت اہل طریق را + گفتم میان زاہد و عالم چہ فرق بود + تا کردی اختیار از آن این فریق را + گفت او گلیم خویش برون می کشد ز موج + وین جہد میکند کہ بگیرد غریق را۔
مِدّہ ۔ بکسر اول ریم اور زرد آب جو زخم سے نکلتا ہے۔
مدرکہ ۔ ایک قوت کا نام ہے جسکے ذریعہ سے انسان ہر ایک چیز کی حقیقت کو پالیتا ہے۔
مدرونہ ۔ پاژندی زبان میں بہشت کا نام ہے جسکو عربی میں جنت کہتے ہیں۔
مُدَرَّہ ۔ بضم اول و فتح ثانی بیمار اور ناخوش۔
مدیٰ ۔ غایت و نہایت۔
مداوی ۔ علاج کیا گیا۔
مدنی ۔ مدینہ کے رہنے والے و لقب حضرت خاتم المرسلین محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم جنکا مسکن مدینہ تھا اور مدفن بھی مدینہ ہے۔ نعتیہ ۔ مرحبا سید مکی مدنی العربی + دل و جان باد فدایت چہ عجب خوش لقبی۔
مدعی ۔ دعوے کرنے والا۔

میم با ذال معجمہ

مذہب ۔ بروزن مکتب راستہ اور چلنے کا مقام و دین و آئین و طریق ۔ توحید ۔ ایکہ در ہر مذہب و ملت توئی مقصود ما + در عبادت خانہ دیر و حرم معبود ما۔
مذہَّب ۔ بضم اول و فتح دوم و ہاے مشدد زر اندود یعنے جسپر زر کا ملمع ہو۔
مذاب ۔ گلا ہوا گداز ہوا ہوا۔
مذہوب ۔ جسکو سونا لگا ہوا ہو یعنے ملمع ہو۔
مذنب ۔ گنہگار قصوروار۔
مذبذب ۔ متردد متفکر اور وہ شخص جسکی طبیعت ایک حالت پر نہو۔
مذلّت ۔ ذلیل اور خوار ہونا۔
مذمت ۔ بدگوئی کرنا۔

مذبح ۔ جس جگہ جانور ذبح کیئے جائین قصاب خانہ۔
مذبوح ۔ وہ جانور جو ذبح ہو چکا ہو۔
مذ ۔ ابتدا زمانہ عرب مین اور فارسی مین صاحب خداوند۔
مذکور ۔ ذکر اور ذکر کیا گیا۔ محمد سعید اشرف ۔ بپرواز حیرت رود رنگ
کبک + بہر جا کہ مذکور رفتار تست ۔
مذکر ۔ نر مقابل مؤنث اور مادہ کے ۔
مذاق ۔ ذائقہ مزا لذت اور ظرافت یعنے ہنسی ۔ توحید ۔ ز شہد و شکر دنیا
نیابد اطمینان + ز خوان معرفت حق ہر آنکہ یافت مذاق ۔
مذموم ۔ مذمت کیا گیا برا کہا گیا ۔
مذخورہ ۔ ذخیرہ کیا گیا ۔
مذمومہ ۔ ہر چیز بد اور زشت ۔
مذاکرہ ۔ باہم ذکر کرنا ۔
مذکی ۔ گلو بریدہ اور بسمل ۔
مذی ۔ وہ رطوبت جو شہوت کے غلبے کے وقت عضو تناسل سے نکلتی ہے ۔

میم با رائے

مرتجا ۔ امیدوار امیدوار کیا گیا ۔
مرا ۔ لڑنا جنگ کرنا خودنمائی کرنا ۔
مرحبا ۔ کلمہ تحسین ہے مہمان کی نسبت تعظیما کہتے ہین معنے اسکے فراخ شدن
یعنے چوڑا اور وسیع ہونا ۔
مردم گیا ۔ ایک گھانس کا نام ہے کہ بیخ اسکی آدمی کے چہرہ کیطرح ہوتی ہے
نر اور مادہ آپس مین لپٹے ہوے جو شخص اسکو زمین سے نکالتا ہے مرجاتا ہے اسلیئے
کتے سے کھینچ کر اسکو زمین سے نکالتے ہین اور کتا مرجاتا ہے عبد الغنی قبول
آدمی را بدتر از نخوت گنا ہے بیش نیست + گر بدار د مردمہ مردم گیا ہے بیش نیست ۔
مرغ مسیحا ۔ خفاش چمگادڑ ۔
مرایا ۔ جمع مرأت بہت آئینے ۔
مرلویا ۔ بازندی زبان مین خرمہرہ ۔
مرغوا ۔ فال بد و نفرین ۔
مروا ۔ فال نیک و دعائے خیر ۔
مرتا ۔ ترازو یعنے میزان ۔
مرزا ۔ مخفف میرزا امیرزادہ کسی دولتمند کا لڑکا ۔
مرغوب ۔ رغبت کیا گیا پسندیدہ ۔ توحید ۔ تمام خلق بتو راغب و تو ہی
مرغوب + زمانہ طالب و ذات مبارکت مطلوب + گہے بزیر لظر آئی و گہے بالا +
گہے بمشرق و مغرب گہے شمال و جنوب ۔

مرعوب ۔ ڈرایا گیا خوف دلایا گیا ۔
مرکوب ۔ سواری کیا گیا ۔ توحید ۔ جہان سوار و پیادہ رکاب دار تو اند +
عنان بدست تو دار ند راکب و مرکوب ۔
مرحب ۔ بہ حاے حطی فراخ و کشادہ ہونا ۔
مرطوب ۔ تر اور فربہ ۔
مراقب ۔ امیدوار اور ڈرنے والا اور گردن جھکانے والا مراقبہ کرنے والا ۔
مرلوب ۔ پرورش یافتہ ۔
مرسوب ۔ دُرد جو نیچے بیٹھا ہوا ہو ۔
مُرکّب ۔ بضم اول و کاف مشدد مفتوح سیاہی لکھنے کی ۔
مَرکب ۔ بفتح میم و کاف گھوڑا و کشتی وغیرہ جسپر سوار ہون ۔
مراکب ۔ وہ چیزین جنپر سوار ہون ۔
مرتب ۔ راست و درست کیا گیا درجہ بدرجہ لایا گیا ترتیب دیا گیا ہے
میرزا بیدل ۔ بہ دل از ام زبرق شعلہا ے آہ ساما نے مرتب کردہ ام از مصرع برجستہ دیوا
مرکب ۔ بکاف مشدد ترنج جسکو سنگترہ و رنگترہ بھی کہتے ہین اور کھٹے
اور میٹھے کے پیوند سے وہ میوہ پیدا ہوتا ہے مگر صحیح بفتح کاف ہے جو سیاہی
معنون مین ہے ۔ صائب ۔ حدیث زردی رنگم بواسطہ ار گذر دید
نہال خامہ دہد یک قلم مرکب بار ۔
مرتکب ۔ شروع کرنے والا کسی ممنوع کام مین اور سوار ہونے والا ۔
مرداب ۔ تالاب اور جھیل جو پر آب ہو ۔
مرغاب ۔ وہ رودخانہ جو مرو شاہجہان کے پاس سے گذرتی ہے ۔
مرقب ۔ ایک مستحکم قلعہ جو دریاے شام کے کنارے شہر بنیاس کے پاس ہے ۔
مرابطات ۔ باہمی رابطے اور متعلق ۔
مرافعت ۔ پیش کرنا دعوے کا حاکم کے پاس ۔
مرافعات ۔ عریضے جو بزرگون کی خدمتمین لکھے جائین ۔
مراسلات ۔ ہم رتبہ دوستون کے خطوط ۔
مرئیات ۔ آنکھون سے دیکھی ہوئی چیزین ۔
مرارت ۔ تلخی اور کڑوا پن ۔
مردشت ۔ ایک مقام کا نام ہے ۔
مرابحت ۔ نفع کے ساتھ بیع کرنا ۔
مراقبت ۔ چشمداشت و نگہبانی و حراست ۔
مراجعت ۔ واپس ہونا رجوع کرنا ۔
مراغبت ۔ رغبت و خواہش ۔
مرافقت ۔ رفاقت کرنا ہمراہی کرنا ۔

مرحمت - مہربانی کرنا - عربی - بالفنش ہست مے مرحمت + کوزہ یا رفتہ شو معصیت +

مروت - بروزن فتوت مردی و مردمی کرنا احسان کرنا - سعدی -
مروت نباشد بدی باکسے + کزو نیکوئی دیدہ باشی بسے -

مراعات - رعایت کرنا نگہ رکھنا گوشۂ چشم سے دیکھنا - میر حسن دہلوی
ہر چند ناز و شوخیت بسیار بسیار ست ہمی + گہ گہہ مراعاتے بکن احوال مارا اندکے -

مرامات - بہر دو میم مقاصد و مطالب -

مرآة - بکسر اول آئینہ -

مرقات - نردبان و زینہ -

مرغبات - مرغوب چیزیں -

مراضعت - ایک دایہ کا باہم دودھ پینا -

مرتبت - مرتبہ و درجہ و پایہ -

مثلث - ہر چیز جو سہ گوشہ ہو اور زمین باعتبار ابعاد ثلاثہ کہ طول و عرض و عمق ہے

مرج - خرابی و تباہی و چراگاہ دو زمین -

مراح - بفتح اول روان ہونا خوشی کا مقام راحت -

مراح - بضم اول وہ مقام جسطرف اونٹ جائیں اور آرام پائیں -

مراح - خوشی و نشاط -

مروح - بضم اول و تشدید واو مکسور خوشبودار اور خوشی دینے والا -

مروح - بفتح واو خوشی دینے والا -

مرح - خوش ہونا تکبر کرنا -

مربح - بہ تشدید باے موحدہ فائدہ مند و سودمند -

مرابح - فائدے بہت سے -

مرجوح - مغلوب -

مرتاح - صاحب راحت و نشاط -

مترشح - ٹپکنے والا برسنے والا -

مرغ مسیح - شپپر چمگادڑ -

مرغ صبح - بلبل و خروس -

مرخ - روغن ملنا اور نام ایک درخت کا -

مریخ - ساتوں ستاروں آسمانی سے نام پانچویں ستارے کا ہے حمل و عقرب اسکا گھر ہے بہرام بھی اسکو کہتے ہیں لوہے اور فولاد کو بھی کیمیا گر مریخ کہتے ہیں -

مرداد - فارسی مہینے کا نام ہے جس مہینے سورج اسد برج میں ہوتا ہے تقریباً ماہ بھادون - سعدی - شخصے نہ چنان کریہ منظر + کز زشتی او

خبر توان داد + گندہ بغلش نعوذ باللہ + مردار بآفتاب مرداد -

مرتد - مسلمانی سے پھرا ہوا -

مرمد - جسکو رمد کی بیماری ہو یعنے آنکھیں اسکی سرخ ہوں -

مردد - بضم میم و فتح راے و تشدید دال اول و سکون دال ثانی پھیر گیا واپس کیا گیا -

مرید - بفتح میم متمرد و سرکش و نافرمان -

مرید - بضم میم صاحب ارادت خواہشمند - سعدی - نخستین ابوبکر پیر مرید + عمر پنجہ بر پیچ دیو مرید -

مرقد - خوابگاہ سونے کی جگہ -

مرقد - خوابگاہ اور قبر -

مربد - بہ باے موحدہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ اور جس جگہ کھجوروں کو خشک کریں -

مرفد - کاسہ بزرگ بڑا کاسہ -

مرد - بفتح اول بے ریش ہونا اور حد سے گذرنا -

مرد - ہاتھ سے ملنا پانی میں تر کرنا اور تازہ میوہ درخت اراک کا -

مرصاد - فراخ راستہ -

مرصد - امید کی جگہ اور جاے نگہداشت -

مرشد - صاحب ارشاد سیدھا راستہ دکھلانے والا -

مرصود - امید رکھا گیا -

مراصد - جمع مرصد مقامات امید -

مرور - گذرنا اور جانا -

مراد - حاجت و خواہش جو دل میں ہو - نظامی - ازان خشت زرین شد او عاد + چہ آمد بجز مردن نامراد -

مراد - بکسر اول نام ایک پتھر کا ہے جو نہایت عجیب ہے کئی رنگ ایک گھڑی میں بدلتا ہے اسکی تاثیر یہ ہے کہ جسکے پاس ہو تمام دن جب تک سورج نظر آتا ہے جن اسکے تابع رہتے ہیں -

مروارید - موتی جو مشہور جواہر ہے اور عربی میں اسکو لولو کہتے ہیں -

مردود - رد کیا گیا نکال دیا گیا -

مر - عربی میں تلخ یعنے کڑوا اور نام ایک قبیلہ عرب کا اور نام ایک گوند کا جو ببول کے درخت سے لیا جاتا ہے -

مر - عربی میں ریسمان اور کلند اور گذرنا اور مرجانا اور فارسی میں بنجاہ کا عدد و بعدد و بسیار اور کبھی واسطے حسن کلام کے اور کبھی واسطے افادہ حصر کے آتا ہے - سعدی - مرا او را چو دیدم سر از خواب مست + بہ رو گفتم اے سرو پیش تو پست + ولہ - مرا او را رسد کبریا و منی + کہ ملکش قدیم ست و ذاتش غنی -

مریر۔ مرد توانا اور رسن جو سخت بٹا ہوا ہو۔
مرغزار۔ سبزہ زار اور مرغ ایک قسم کی گھانس ہی ہندی مین اسکو دوب کہتے ہین
مرغ سحر۔ بلبل یا خروس جو صبح کو بانگ دیتا ہی۔ سعدی۔ اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز + کان سوختہ را جان شد و آواز نیامد۔
مرمر۔ ایک قسم کے سپید پتھر کا نام ہی۔
مُردار۔ وہ جانور جو شرع کے احکام پر ذبح نہ کیا جاوے
مرار۔ ایک خاردار گھانس کا نام ہی۔
مرکوز۔ مضبوط بٹھلایا گیا قایم کیا گیا نیزہ زمین مین گاڑا گیا۔
مرجز۔ ایک قسم نثر کی تین قسام سے کہ مرجز و مسجع و عاری ہین۔
مرز۔ بفتح اول زمین آباد قابل زراعت اور سرحد خیابان اور موش یعنے چوہا اور نام ایک قسم کی شراب کا۔
مُرز۔ بضم اول سوراخ مقعد آدمی کا ہو یا کسی جانور کا و مباشرت و مجامعت
مرغش۔ نام ایک خطہ کا۔
مرکز۔ وہ نقطہ جو پرکار کے دائرے مین ہوتا ہی اور جگہ قایم ہونے کسی چیز کی
مَروس۔ تابع اور خادم و رعیت۔
مرس۔ وہ رسن جو گلے مین گاے بیل گتے وغیرہ کے باندھین و نام میوہ اور چوسنا بچہ کا اپنی انگلی کو و طبیب و کحال یعنے آنکھونکا علاج کرنے والا صائب۔ اگرچہ سگ بمرس بسکنند صیادان + کشیدہ است سگ نفس مرس مارا
مردوس۔ گندنا جو مشہور سبزہ ہی۔
مرطیس۔ ایک پتھر لاجوردی رنگ کا نام ہی گھسانے سے اس میں خمیر کی بو آتی ہی
مرزنجوش۔ ایک قسم کے ریحان خوشبو کا نام ہی معرب مرزنگوش چونکہ اسکی پتی چوہے کے کان کیطرح ہوتی ہی اسلیئے اسکا نام مرزنگوش رکھا گیا ہندی مین اسکو دونہ کہتے ہین۔
مرتعش۔ جسکو رعشہ کی بیماری ہو بدن کانپتا ہو۔
مرعش۔ بعین مہملہ بازندہ کبوتر۔
مرعش۔ بغین معجمہ ایک شہر شام مین ہی۔
مرشوش۔ ٹپکا ہوا چھڑکا ہوا۔
مرتش۔ رشوت کھانے والا۔
مراش۔ قے و استفراغ۔
مرصوص۔ استوار و مضبوط کیا گیا۔
مرخص۔ رخصت ہونے والا اور کرنے والا۔
مرتاض۔ صاحب ریاضت۔
مَربض۔ بہ باے موحدہ بکریون کے رہنے کی جگہ۔

مَروض۔ ریاضت دیا گیا محنت دیا گیا۔
مَرَض۔ بیماری۔
مریض۔ بیمار۔
مِرط۔ بکسر اول فقیرون کی گدڑی۔
مربط۔ مقام باندھنے کا ربط دینے کی جگہ۔
مَرتع۔ چراگاہ و سبزہ زار۔
مراتع۔ بہت سے چراگاہ و سبزہ۔
مُرقع۔ خرقہ و دلق درویشان جو ٹکڑے ٹکڑے سیے گئے ہون اور کتاب تصاویر کی۔ سعدی۔ بلقت بچہ کار آید و تسبیح و مرقع + خود را ز عملہاے نکوہیدہ مبرا کن
مربع۔ ہر چیز جو چار گوشہ اور عرض و طول مین برابر ہو اور ایک قسم کا نقش تعویذ جسکے سولہ خانہ ہوتے ہین اور ایک قسم گشت کا
مرابع۔ منازل و مکانات۔
مرصع۔ وہ زیور جسمین جواہرات نصب ہون۔
مرصوع۔ مرصع کیا گیا۔
مرتفع۔ بلند اور بلند ہونے والا۔
مرجع۔ جاے رجوع و مقام بازگشت۔
مرفوع۔ بلند رکھا گیا۔
مروع۔ ڈرایا گیا اور نگاہ رکھا گیا۔
مَرغ۔ بفتح اول ایک گھانس نہایت سبز ہی جسکو ہندی مین دوب کہتے ہین اور لیٹنا جانور کا گھانس مین۔
مُرغ۔ بضم اول ہر ایک پرندہ جانور اور آفتاب اور ایک قسم کی صراحی کا نام ہی۔ طاہر وحید۔ مرغے کہ خموش ست گرفتار نگردد + دام و قفس و رہ پروانہ نباشد
مَرغ۔ بفتحتین آب دہن یعنے تھوک۔
مرادف۔ کسیکے پیچھے بیٹھنے والا اور وہ دو لفظ جنکے معنے ایک ہون۔
مُروّق۔ بفتح واو صاف کیا گیا اور صفا شراب و پالودہ وغیرہ۔
مُروِّق۔ بکسر واو معمار اور چھت پر پردہ باندھنے والا۔
مِروق۔ بکسر اول و فتح واو تعجب مین لانا اور خوشحال کرنا۔
مراق۔ ایک غشائی پردہ کا نام ہی کہ جلد کے نیچے محسوس شکم ہی۔
مرفق۔ بکسر میم و فتح فاے آرنج یعنے کہنی کہ جو ساعد کا بازو کے ساتھ جوڑ ہی
مَرَق۔ شوربا گوشت کا۔
مُراہق۔ وہ لڑکا جو بلوغت کے قریب پہونچ چکا ہو۔
مرافق۔ مرفق کی جمع ہی۔

مرغک ۔ چھوٹا مرغ ۔
مردمک ۔ آنکھون کی پتلی ۔ سعدی ۔ کہ اے نور چشم مرا مردمک + یکے
مردمی کن بجان نمک ۔
مرتک ۔ نام ایک دوا کا ہی جسکو مردار سنگ کہتے ہین ۔
مرجمک ۔ وہ غلہ جسکو عربی مین عدس کہتے ہین ۔
مرگ ۔ موت مشہور لفظ ہی ۔ ہشیار باش خواجہ کہ از مرگ چارہ نیست +
غافل مشو کہ عمر عزیزت دوبارہ نیست ۔
مرگ بفتحتین آب بینی وہ غلیظ فضلہ جو ناک سے نکلتا ہی ۔
مرجل ۔ بڑی دیگ مسی ۔ طالب آملی ۔ پاس خطش نگذارد کہ بگرداند
رنگ + اگر از سوم تہی بر سر آتش مرجل ۔
مرتجل ۔ خطبہ کا شعر جو بدیہہ کہا جاے اور وہ لفظ جو ایک معنی سے دوسرے
معنی مین بغیر مناسبت کے نقل کیا جاے باوجود لحاظ معنے اول کے ۔
مرغول ۔ مرغولہ ۔ بروزن مقبول پیچدار زلفین اور پیچدار آواز جو گانے
مین نکالی جاوے اور آواز مرغون کی چہچہے ۔ در صحن چمن جو گل فشاند بلبلہ
مرغولہ بلبلان کشاد ند ۔ آصفی ۔ کنون کہ سرو پاے صنوبرہ +
کشد مرغ مرغولہ دلالہ ساغر ۔
مرسل ۔ بھیجا ہوا پیغمبر صاحب کتاب کا ۔
مرفہ الحال ۔ آسودہ حال
مراحل ۔ جمع مرحلہ بہت سی منزلین ۔
مرجوم ۔ سنگسار کیا گیا ۔
مرتسم ۔ نقش پکڑنے والا ۔
مرام ۔ مقصود و مراد ۔
مردم ۔ ایک آدمی اور بہت سے آدمی یہ لفظ مفرد و جمع دونو پر آتا ہی اور
آنکھ کی پتلی ۔ سعدی ۔ چو نامردم آواز مردم شنید + میان خطر جای بودن ندید
مرحوم ۔ رحمت کیا گیا رحم کیا گیا بخشا گیا مر گیا مقابل مردود کے ۔ توحید
از حکمش ملبشود موجود و معدوم + ہمہ خلقت چہ مردود و چہ مرحوم ۔
مرخم ۔ ترخیم کیا گیا اور وہ ایک کلمہ جو اخیر حرف اسکا گرا دیا جاے جیسے مانند
کا اخیر حرف دور کیا تو مان رہ گیا ۔
مراحم ۔ مہربانیان ۔
مراہم ۔ بہت سے مرہم ۔
مرز و بوم ۔ ولایت ملک وطن ۔
مریم ۔ نام مادر عیسے علیہ السلام ۔ نظامی ۔ ضمیر م نہ زن بلکہ آتش
زن ست + کہ مریم صفت بکر آبستن ست ۔

مرتہن ۔ وہ شخص جسنے کوئی چیز گرولی ہو ۔
مرکن ۔ تغار اور لگن ۔
مردان ۔ بے ریش لڑکے جمع امرد ۔
مرہون ۔ جو چیز گرو رکھی گئی ہو ۔
مرجان ۔ ایک جوہر سرخ رنگ جسکو ہندی مین مونگا کہتے ہین نیز بمعنی مروارید
مرزبان ۔ مالک ملک اور زمین کا ۔ سعدی ۔ وران بقعہ کان پیر ہشیار بود
یکے مرزبان ستمگار بود ۔
مرو شاہجہان ۔ خراسان مین ایک شہر ہی ۔
مرزغان ۔ پازندی زبان مین دوزخ جو مقابل بہشت کے ہی اور انگشتانہ
جسکو ہندی مین انگشتی کہتے ہین ۔
مرزگون ۔ آلت تناسل ۔
مرزن ۔ موش یعنے چوہا ۔
مرجو ۔ امید کیا گیا ۔
مرو ۔ نام ایک شہر کا خراسان مین ۔
مراغہ ۔ پھسلنے کا مقام جہان سے کوئی حیوان پھسل جاے اور نام ایک
شہر کا ولایت آذربایجان مین ۔ میر خسرو ۔ معاشران را بیے دور بادہ
مست کنند + مراغہ کردن خوبان لباچہ ہاے چنار ۔
مرتبہ ۔ رتبہ درجہ قدر توقیر عزت آبرو ۔ صائب ۔ گل مرتبہ عارض جانانہ
نگیرد + جاے لب ساقی لب پیمانہ نگیرد ۔
مرثیہ ۔ وہ تقریر جو کسی مردہ کے افسوس مین کہی جاے اور تعریف مردہ کی
ملا امیر غنی ۔ آن شوخ بہ قتل من دلخستہ میان بست + در مرثیہ ام معنی باریک توان بست
مردانہ ۔ مردون کی طرح بہادرانہ و دلیرانہ وغیرہ ۔ صائب ۔ صائب ز رہ
کہ قطع نگردد بعمرہا + یکگام پیش ہمت مردانہ من ست ۔
مردہ ۔ مرا ہوا مقابل زندہ کے ۔ ظہوری ۔ امید مردہ زندہ بدشنام
میشود + آہ از دعاے من کہ بمرگ اثر شکست ۔
مرہ ۔ بکسر اول خلط صفرا جو زرد رنگ تلخ مزہ ہی انسان کے جسم مین سواے
اسکے تین خلطین اور ہین سودا خون بلغم اور بمعنی قوت و توانائی و عقل و ہوش
مرۃ ۔ بفتح اول ایک بار ۔
مرارہ ۔ زہرہ ہر ایک حیوان کا یعنے پتا ۔
مرصوص ۔ محکم و استوار کیا گیا ۔
مرتبہ ۔ درست کیا گیا درجہ بدرجہ رکھا گیا ۔
مردہ ۔ بفتحات جمع مارد و لو سرکش اور متمرد لوگ ۔
مردہ ۔ بفتح میم و سکون راے شجاع و بہادر ۔

مرغولہ - پیچیدہ بال اور مرغون کی آواز اور گانے کی پیچیدہ آواز -
مروحہ - بادکش یعنے پنکھا -
مرسلہ - بھیجا گیا اور نام ایک زیور کا جسکو ہند میں ہار کہتے ہین -
مرضعہ - دایہ دودھ دینے والی -
مرحلہ - کوچگاہ اور مقام و منزل اور اسباب رکھنے کا مقام و مقدار مسافت چار فرسنگ اور وہ عمارت جو قلعہ کے باہر بناکر دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہین -
مراقبہ - امید رکھنا نگاہ رکھنا تراشنا گردن جھکانا -
مرصودہ - وہ کواکب جو بذریعہ رصد کے معلوم کیئے گئے ہین اور وہ ایکہزار پچیس ستارے ثوابت ہین -
مرافعہ - حاکم کے آگے دعوے پیش کرنا -
مراتب ستہ - چھ مقامات ایک احدیت دوم واحدیت تیسرے ارواح چوتھے ملکوت پانچوین عالم اجسام چھٹے عالم کمال الانسانی -
مراتب چارگانہ - شریعت طریقت حقیقت معرفت
مرانیہ - ایک درخت ہی جسکو مجوس بزرگ جانتے ہین -
مرجادہ - بہ دال مہملہ وہ چمڑا جسکو ہوا یا گھانس سے بھر کر اور اسپر سوار ہو کر دریا سے گذرتے ہین -
مرخشہ - بخس و نامبارک اور کلام و گفتگو -
مرزہ - چراغدان اور چوہا اور رگال لعمار و نکا اور نام ایک نبات کا جو دوائین مستعمل ہی
مرقیہ - شہر حمص کے پاس ایک قلعہ ہی -
مروریہ - جنگلی کاسنی -
مردہ - ایک خوشبودار پھول کا نام ہی -
مرعی - سبز گھانس اور چراگاہ -
مرئی - اخیر مین الف بصورت یا پالا گیا تربیت لیا گیا اور وہ میوہ جو قند مین ڈالکر رکھ چھوڑتے ہین -
مرتضی - پسندیدہ اور لقب حضرت علی چوتھے جانشین رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم و زوج بی بی فاطمہ علیہا السلام کا - سہ - لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ + المصطفے و المرتضے و ابناہما و الفاطمہ
مرضی - جمع مریض کی بہت سے بیمار -
مرتقی - بلند کرنے والے اور اوپر چلنے والے -
مروی - روایت کیا گیا -
مرطی - اشتر یعنے اونٹ -
مردم آبی - دریائی آدمی -
مرتشی - رشوت کھانے والا -

مردمی - مروت و رعایت -
مردی - بہادری پہلوانی - سعدی - شہ در مردی او رانہ در مردمی دوم درجہان کس شنید آدمی -
مربی - بہ یاے معروف پرورش کرنے والا -
مرضی - بہ یاے معروف رضامندی و پسندیدگی -
مری - جسم لحمی جو گلے کے اندر راستہ جانے پانی و طعام کا ہی و گوارادہ ہضم
مری - آبکامہ یعنے کانجی جو مصنوعی کھٹا پانی ہوتا ہی -
مرتضوی - ہر چیز جو منسوب علی علیہ السلام کے ساتھ ہو -
مراعی - رعایت کرنے والے اور نگہبان اور چراگاہین -
مردی - بکسر میم و دال مہملہ وہ بانس جس سے کشتی چلاتے ہین -
مرائی - ریا کرنے والا خودنما -
مرطوبی - فربہ بلغمی مزاج -
مراثی - جمع مرثیہ
مرگی - وبا جسمین بہت لوگ مرتے ہین -

میم با زاے معجمہ

مزکا مزکی - زکات دیا گیا پاک کیا گیا -
مزایا - جمع مزیت افزونیان و فضیلتین و عطایات و انعامات -
مزتیب - زیب دیا گیا یہ لفظ اہل فارس عربی و الونکا بنایا ہوا ہی -
مزاحمت - مزاحم ہونا تنگی کرنا کسی پر -
مزلت - بکسر زا کے لغزش کھانا پھسلنا -
مزلت - بفتح زاے پھسلنے کی جگہ
مزخرفات - وہ بہت سی چیزین جو جسطرح آراستہ کیے گیے ہون جمع مزخرف
مزیت - افزونی و زیادتی و ترقی علم و دولت مین یہ لفظ بفتح میم و کسر زا دو یا مشدد ہی
مزیتہ - بضم میم و فتح زاے روغن کی مالش کی گئی -
مزجات - تھوڑا اور بے اعتبار -
مزاولت - ایک چیز کو دوسری چیز کے نزدیک کرنا -
مزاحفات - وہ نظم کے بحر جنمین زحاف واقع ہوا ہو یعنے ساقط ہونا ایک حرف یا دو حرف کا اصلی رکن سے باہر جانا -
مزکت - سجدہ گاہ و عبادت گاہ -
مزدوج - ہمقرین اور آپسمین ملا ہوا
مزاج - آمیزش اور وہ کیفیت اور ... جو چند چیزون کے ملنے سے پیدا ہو مثلاً رنگ سرخ جو کتھا چونا اور برگ تنبول کی آمیزش سے پیدا ہوتا ہی اور وہ کیفیت جو اربعہ عناصر ... ان سے وجود مین

پیدا ہو شفیع اثر + بسکہ خونم باے گلرنگ سی آید بجوش + میخورد برہم مزاجم کر خورد مینا بہم
مزیج - امالہ مزاج جیسا کہ کتیب مال کتاب کا - نظامی - ستولی گوہر آباے چار آمیخت + مسلسل کن گوہران در مزیج -
مزج - ملانا ملنا چند چیز ونکا آپس مین -
مزاح - اخیر مین حاے حطی و بکسر اول خوش طبعی کرنا -
مزید - زیادتی و افزونی اور زیادتی اور افزونی کیا گیا - سعدی - چو دوزخ کہ سیرش کنند ار وقید + دگر بانگ دارد کہ ہل من مزید -
مزاد - بفتح اول توشہ دان مسافر کا -
مزاد - بضم اول زیادہ کیا گیا -
مزد - بضم اول اجرت و مزدوری - صائب - مزا توقع احسان زکار فرما نیست + کہ مزد کار من از ذوق کاری آید -
مزعفر - زعفرانی رنگ اور ایک قسم کا شیرین پلاؤ جسکو زردہ بھی کہتے ہین -
مزامیر - سارنگی طبلے چنگ وغیرہ جو گانے والون کے ساز ہین -
مزدور - اجرت پر کام کرنے والا -
مزورہ - بروزن منورہ نرم کھانا جو بیمار کے لیے پکایا جاے -
مزور - بکسر واو فریب کرنے والا -
مزمار - نے جو ایک ساز گانے والون کا ہے -
مزیت - سختی
مزار - زیارت کی جگہ قبر - لو مزار پر یہی مصرع کھہ اینگے + مر جاینگے پر دل نہ کسی سے لگا ینگے -
مزہر - وہ ساز جسکو عود کہتے ہین -
مزر - وہ شراب جو گیہون کا ورس و غیرہ سے بناتے ہین عربی مین اسکو نبیذ کہتے ہین
مزبور - از بر کیا ہوا یاد کیا ہوا لکھا ہوا -
مز - بفتح اول و تشدید زاے مکیدن یعنے چوسنا -
مز - بضم اول میخوش یعنے ترش و شیرین یا ہر چیز سکنجبین نارنج وغیرہ کھٹا میٹھا مزہ -
مز - بکسر اول افزونی و زیادتی -
مزرع - زراعت یعنے کھیتی - ذوقی - براز و حاصل شود در عاقبت + آنچہ اندر مزرع دل کاشتی -
مزارع - کاشتکار زمیندار -
مزلف - مجمع و مجلس و مقام انبوہ -
مزاحف - وہ رکن جو نظم مین غیر سالم ہو یعنے تغیر وقوع مین آیا ہو -
مزلف - بروزن منور زلف والا اور معشوق نو خط یہ لفظ بنایا ہوا فارسیون کا ہے علی خان موجی - مزلف چون شود دلبر بدولت میرسد عاشق + خط مشکین او خاصیت بال ہما دارد -
مزالق - لغزش کے مقامات -
مزدک - یہ ایک حکیم نیشاپور کا رہنے والا تھا قباد نوشیروان کے باپ کے وقت اسنے دعوے پیغمبری کا کیا اور اپنا نیا مذہب ایجاد کیا اصول اسکے مذہب کے یہ تھے کہ نور اور ظلمت دونون قدیم ہین نور کا فعل قصدا اور اختیار سے ہے اور فعل ظلمت کا اختیاری نہین بلکہ اتفاقی ہے آتش پرستی کے ملت کو اسنے زیادہ رونق دی او عورت کا نکاح ایک ہی مرد سے موقوف کیا اور حکم دیا کہ ہر ایک عورت ہر ایک مرد کے واسطے حلال ہے پابندی کی ضرورت نہین بلکہ ظلم ہے جس پاس دو عورتین ہوتین ایک اس سے کسی مجرد کو دلا دیجاتی مالدار آدمی مجاز نہو تا کہ مال اپنے پاس جمع رکھے اگر ثابت ہوتا تو وہ مال مفلس لوگون کو دلا دیا جاتا تھا کہ سب لوگ برابر آسودہ رہین سواے خزانہ شاہی کے کہ اسکے متعلق اخراجات کثیر ہین کسیکے پاس مال جمع نرہتا اس آزادی کو عام نے پسند کیا ہزارون لوگ اسکے مذہب مین داخل ہوے قباد بادشاہ بھی اسکا کمال معتقد ہوا قباد کی زندگی تک اسکا مذہب خوب رونق پر رہا مگر نوشیروان اسکے مخالف تھا جب یہ تخت نشین ہوا تو اسنے مزدک کو اسی ہزار آدمی کے ساتھ قتل کروایا
مزک - تاج یا دامن کا درخت -
مزنگس - ناخوشی و زشتی و مخنث و نامرد -
مزال - لغزش کا مکان پھسلنے کی جگہ -
مزیل - دور کرنے والا اور آثار اور نشان -
مزمل - کپڑے مین لپٹا ہوا او نام ایک سورۃ کا قرآن کی سورتون سے اور فارسی مین ٹوپی دار آفتابہ -
مزاحم - کسی پر تنگی کرنے والا مزاحمت کرنے والا رنج پہونچانے والا انبوہ کرنے والا
مزدحم - اژدحام و انبوہ کرنے والا -
مزمن - دیرینہ کہنہ پرانا اور لنگ اور ایک جگہ رہنے والا اور وہ شخص جسکے ہاتھ پانون بیکار ہون -
مزین - بفتح یاے تحتانی زینت دیا گیا آراستہ کیا گیا -
مزین - بکسر یاے زینت دینے والا اور حلاق یعنے نائی سر مونڈنے والا -
مزن - بضم اول باران یعنے مینہ اور سفید بادل -
مژگان - آنکھون کی پلکین - ابو طالب کلیم - سراپا یم زدرد آنچنان لبریز شیون شد + کہ از مضراب اشکم تار مژگان در فغان آمد -
مزدلفہ - نام ایک جگہ کا مکہ معظمہ مین -
مزبلہ - جس جگہ میلا پڑا ہوا ہو و جاے نجاست و سرگین -

مزدوجہ ۔ دو شخص آپس میں ملے ہوئے۔
مزادہ ۔ توشہ دان جسمیں ضروری چیزیں رکھی جائیں۔
مُزلِقہ ۔ لغزش دینے والا۔
مُزلَفہ ۔ نزدیک لایا گیا جمع کیا گیا۔
مزقہ ۔ جولاہوں کے کپڑے بننے کی نال۔
مزہ ۔ لذت جو کھانے سے حاصل ہو۔
مژہ ۔ آنکھوں کی پلکیں جسکی جمع مژگان ہے۔ والہروی ۔ سطر
مژہ را نگاہ طنازے و آگفتہ بعشوہ معنی راز۔
مزارہ ۔ چراغدان شمعدان۔
مزکہ ۔ بکسر اول سوائے تیرہ و تاریک۔
مزیدہ ۔ ایک کھیل کا نام ہے۔
مزی ۔ زیادتی و افزونی۔
مژدگانی ۔ وہ انعام جو کسی خوشخبری لانے والے کو دیا جاوے۔ ناوم
گیلانی ۔ بہارے پراثر دارم بشارت باد مستانرا + بگلشن خبر مژدگانیہا زابر و باد آوردم

میم با سین مہملہ

مسا ۔ مغرب یعنے شام کا وقت ۔ توحید ۔ سرنگوں ہست سران سرزمین
ہر روز و شب + بر درت خم گردن گردن کشان صبح و مسا۔
مستثنیٰ ۔ اخیر میں الف بصورت یائے تحتانی جدا کیا گیا باہر نکالا گیا خارج کیا گیا
مسیحا ۔ لقب حضرت عیسے علیہ السلام کا ۔ توحید ۔ مسیحا را ز روح خود دم
جان بخش بخشیدی + بموسے مرحمت کردی ز نور خود ید بیضا۔
مستوفا ۔ تمام پکڑا گیا۔
مسمّیٰ ۔ نام رکھا گیا۔
مسجد اقصیٰ ۔ بیت المقدس کا نام ہے جو شام کے ملک میں ہے۔
مسلوب ۔ سلب کیا گیا۔
مستوجب ۔ سزاوار اور لائق ۔ مؤلف ۔ میری تقصیر بخشو یا الٰہی
اگرچہ ہوں میں مستوجب سزا کا۔
مستطاب ۔ پاک اور طیب اور خوش۔
مستحب ۔ دوست رکھا گیا اور وہ فعل جو حضرت رسول صلے اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہ کیا
مستجاب ۔ جواب دیا گیا قبول کیا گیا۔
مستجیب ۔ اجابت کرنے والا۔
مستصحب ۔ صحبت رکھنے والا۔
مسیلمہ کذاب ۔ اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں
جھوٹا دعوے پیغمبری کا کیا اور حضرت صدیق کے وقت میں قتل ہوا۔

مستودعات ۔ امانتیں جو کسیکے پاس رکھی جائیں۔
مسامحت ۔ آسان جاننا اور سہل پکڑنا۔
مسألت ۔ بروزن منقبت مانگنا سوال کرنا۔
مساہمت ۔ شراکت کرنا سہیم ہونا۔
مسالمت ۔ باہم صلح و صفائی کرنا۔
مستعلیات ۔ وہ حروف جو زبان کو بوقت بولنے کے فک اعلی کیطرف اٹھا دیں
اور وہ سات حروف ہیں صاد و ضاد و طائے ظائے غین اور قاف اور خائے
مساہلت ۔ آسان پکڑنا۔
مُست ۔ بضم اول غم و فکر و اندوہ۔
مَست ۔ بے خبر و بیہوش مقابل ہوشیار کے ۔ ذوقی ۔ بادشاہان ملک مست
و اہل دولت مال مست + عابدان در قال مست و عاشقان در حال مست۔
مسکرات ۔ جن چیزوں کے کھانے سے سکر پیدا ہو بھنگ پوست افیون
مستلذات ۔ مرغوب چیزیں جنسے لذت ملے۔
مسافت ۔ دوری اور فاصلہ۔
مساحت ۔ پیمایش کرنا زمین کا۔
مساعدت ۔ یاری دینا مدد دینا۔
مسخنات ۔ گرم کرنے والی چیزیں۔
مسوات ۔ زمینداروں کے ایک اوزار کا نام ہے جو پنجہ کی شکل پر ہوتا ہے
اور اس سے زمین صاف کرتے ہیں۔
مسحات ۔ مٹی کھودنے کا اوزار۔
مسارعت ۔ جلدی و تیزی و شتابی۔
مساوِمت ۔ بکسر واؤ جو حرف چہارم ہے خرید کر رکھ چھوڑنا غلہ کا اس
امید پر کہ جب گرانی ہوگی فروخت کرکے نفع اٹھائینگے۔
مساوات ۔ حرف چوتھا واؤ برابری کرنا اور برابر ہونا۔
مسکنت ۔ مسکین ہونا درویش ہونا۔
مسکِت ۔ خاموش کرنے والا۔
مسئولات ۔ وہ مقدمات جو واقع میں موجود ہوں اور اکثر لوگوں کو
اسپر اطلاع نہو۔
مستنبطات ۔ باہر نکالی ہوئی چیزیں در مقامات باہر نکالنے کے۔
مسابقت ۔ سبقت لیجانا۔
مسارقت ۔ چوری کرنا۔
مسافرت ۔ سفر کرنا۔
مستبحث ۔ بکسر حائے حطی اٹھانیوالا۔

مستحث - بفتح حاے حطی اٹھایا گیا۔
مستغاث - فریاد کرنا انصاف چاہنا۔
مستغیث - فریاد کرنے والا۔ توحید۔ بشنود باگوش رغبت داستان
مستغیث + واقف حال درون درازدران مستغیث + زاستغاثہ بیش اہل
عدل کے بند زبان + گر رود اندر سر انصاف جان مستغیث۔
مستحدث - بفتح دال نیا پیدا کیا گیا۔
مستحدث - بکسر دال نیا پیدا کرنے والا۔
مستخرج - بکسر راے باہر نکالنے والا۔
مستخرج - بفتح راے باہر نکالا گیا۔
مسیح - لقب حضرت عیسے علیہ السلام کا۔ توحید۔ کند چہ چارۂ دل دردمند
عشقت را + کہ خود بدرد محبت مریض ہست مسیح۔
مسح - ہاتھ ملنا اور جماع کرنا۔
مساح - پیمایش کرنے والا۔
مستملح - نمکین اور شور۔
مسامح - صلح اور آسانی کرنے والا۔
مستراح - جاے آسایش و مقام راحت و بیت الخلا یعنی پاخانہ اور
بفتح میم و اضافت مست کے شرابی و مخمور۔
مستریح - آسودہ ہونے والا اور راحت حاصل کرنے والا خوش ہو لینے والا
مستقبح - زشت اور بدصورت۔
مستملح - چھوڑا گیا ہوا اچھا پایا ہوا۔
مسلح - ہتھیار پہنے ہوئے سلاحدار سپاہی۔
مسخ - اخیر میں خاے معجمہ اچھی صورت سے بدل کر بری صورت ہو جانا آدمی کا
بندر وغیرہ جانور بن جانا۔
مسلخ - جس جگہ پوست اتارا جاے۔
مسلوخ - وہ جانور جسکا پوست اتار گیا ہو۔
مسیخ - بے مزہ و بے لذت۔
مستمند - غمگین اور اندیشناک۔
مستبعد - بکسر عین دوری چاہنے والا۔
مستبعد - بفتح عین دوری چاہا گیا۔
مسد - بفتحتین درخت کا ریشہ اور ریسمان جو درخت خرما کی لیف سے
بنایا گیا ہو یا اونٹ کی پشم سے۔
مستسعد - نیک بختی و سعادت کا طلبگار۔
مستزاد - زیادہ کیا گیا اور وزن ایک قسم کا شعر میں جو ہر مصرع کے
اخیر میں کلمہ زیادہ وزن سے لایا جاتا ہی مثلاً نقش قدم از پردۂ اسرار
برآمد دل برد و روان شد۔
مسترد - واپس دیا گیا۔
مساعد - یاری و امداد دینے والا۔
مسہر - بروزن منور بیدار کیا گیا۔
مسند - بفتح اول بڑا تکیہ و بالش بزرگ۔ عرفی۔ نہاد چشم تو مسند
بہ پیشگاہ بہشت + اگر بریز نگین داشت بوستان نرگس۔
مسند - بضم میم و فتح نون روزگار و زمانہ اور متبنی یعنی پسر خواندہ اور
حرامزادہ اور وہ چیز جسکے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھیں اور پشت پناہ سمجھیں۔
مستبد - تنہا کسی کام کو کرنے والا۔
مستجد - نیا کرنے والا تازہ کرنے والا۔
مستند - سند پکڑا گیا بفتح نون اور بکسر نون سند پکڑنے والا۔
مستعد - کسی کام کرنے کو آمادہ و تیار۔
مستفاد - فائدہ حاصل کیا گیا سعادت پایا گیا۔
مستفاد - فائدہ پکڑا گیا۔
مسترشد - راست روی چاہنے والا۔
مسرد - موچیوں کا اوزار جس سے چمڑے میں سوراخ کرتے ہین۔
مسجد - سجدہ گاہ نماز پڑھنے کی جگہ۔
مسعود - صاحب سعادت اور نام ایک بادشاہ کا جو سلطان محمود
غزنوی کا بیٹا تھا۔
مستلذ - بضم اول و کسر لام اخیر میں ذال معجمہ لذت لینے والا اثر حاصل کرنے والا
مسخر - تسخیر کیا گیا فرمان بردار کیا گیا۔
مستقر - جاے قرار و آرام گاہ۔
مستور - چھپا ہوا پردہ میں آیا ہوا۔ توحید۔ شود جمال رخش جلوہ گر
ز پس پردہ + اگرچہ ہست بظاہر ز دیدہ ہا مستور۔
مستجیر - پناہ ڈھونڈھنے والا۔
مستعار - مانگی ہوئی چیز۔
مستعیر - عاریتاً کوئی چیز لینے والا۔
مسمار - لوہے کی میخ۔
مستشار - مشورت کیا گیا۔
مستجار - جس سے پناہ و امان مانگیں۔
مسیر - مصدر میمی جانا اور سیر کرنا و جاے رفتار۔
مستبشر - خوش ہونے والا۔

مستنکر - برا اور زبون۔
مستعد - آمادہ ہونے والا۔
مستکبر - متکبر اور گردن کش۔
مستمر - استوار اور روان اور ہمیشہ۔
مستظہر - صاحب زور اور پشت پناہ و قوی پشت و بے پروا۔
مسمر - جسمین لوہے کی میخین لگی ہوئی ہون۔
مسکر - نشہ دینے والی چیزین۔
مستبصر - بینا ہونے والا روشندل۔
مستتر - بروزن معطر پوشیدہ چھپا ہوا۔
مستنصر - نام ایک خلیفہ کا خلفاے عباسی سے۔
مستدیر - جو چیز مدور یعنے گول ہو۔
مسفر - روشن اور سپید۔
مسجور - بھرا ہوا اور مالامال۔
مستتر - چھپنے والا پردہ مین رہنے والا۔
مستشعر - دل مین خوف رکھنے والا۔
مستخبر - خبر ڈھونڈھنے والا۔
مسطر - خط کشی کا آلہ جسکے ذریعہ سے سطرین کتاب کی سیدھی لکھی جاتی ہین اور خط سیدھا آتا ہے۔ طالب کلیم - ہر کرا یا بد نوشتن نسخہ آداب فقر * تن را ز نقش بوریا مسطر زند۔
مسافر - سفر کرنے والا۔
مستاجر - اجارہ لینے والا۔
مستارہ - نام ایک خوشبودار پھول کا جسکو مروا کہتے ہین۔
مساس - مس کرنا چھونا جماع کرنا۔
مس - بفتح اول چھونا ملنا جماع کرنا اور فارسی مین مہتر اور بزرگ و طوق و زنجیر جو مجرم کو پہناتے ہین۔
مس - تانبا جو ایک مشہور دھات ہے۔ سعدی - کسے دید صحراے محشر بخواب * چو مس تفتہ روے زمین ز آفتاب۔
مستانس - انس و الفت پکڑنے والا اور خوگیر۔
مسدس - چھہ حصہ کیا گیا اور نام ایک قسم کی نظم کا جسکے ہر ایک بند کے چھہ مصرع ہوتے ہین۔
متوحش - وحشت کی حالت مین۔
مستنبط - نکالنے والا باہر لانے والا۔
مسمط - موتی پروے ہوے اور نام ایک صنعت شعری کا۔

مسلط - کسی کام پر مقرر اور اسپر دستیاب و غالب و زور آور اور بفتح لام وہ شخص جسپر کوئی افسر مقرر ہوا اور مغلوب و کمزور۔
مستیقظ - اخیر مین ظاے معجمہ بیدار اور ہشیار۔
مسبع - سات حصہ کیا گیا اور وہ نظم جسکا ہر ایک بند سات مصرع کا ہو۔
مسرع - تیز رفتار اور جلدی کرنے والا۔
مستودع - بفتح دال امانت کی جگہ۔
مستودع - بکسر دال امانت رکھنے والا۔
مسمع - گوش یعنے کان۔
مستبدع - بدیع اور عجیب۔
مسامع - بہت سے کان۔
مستطیع - صاحب استطاعت و قدرت۔
متبع - پیروی کرنے والا۔
مستطاع - فرمان بردار۔
متوسع - فراخ اور چوڑا۔
مستجمع - جمع کرنے والا۔
مسجع - سخن با قافیہ اور نام ایک صنعت شعری کا۔
مساغ - اخیر مین غین معجمہ جاری ہونا اور روان ہونا اور آسانی سے اتر جانا لقمہ کا گلے مین
مستحیف - ظلم کرنے والا زبردستی کرنے والا۔
مستخیف - بخاے معجمہ ڈرنے والا۔
مسرف - بیجا خرچ کرنے والا فضول خرچ - صفدر فوقانی - ربفضل مسرف نباشد ذات رب العالمین * چون بقرآن ست نازل لایحب المسرفین۔
مستغرق - بدل و جان مصروف متوجہ کسی کام مین غرق ہوا ہوا بالکل بیخبر
مساق - مقام چلانے کا۔
مسبوق - آگے بڑھا ہوا۔
مسترق - چرایا گیا۔
مستشرق - روشن اور چمکتا ہوا۔
مستوثق - استواری پکڑنے والا۔
مستحق - حقدار جسکا حق ثابت ہو چکا ہو۔ ابوطالب کلیم - عطاش مستحق و غیر مستحق نشناخت * ہنر و ابر چہ ویران چہ منزل آباد۔
مسلک - راستہ۔
مسالک - جمع مسلک بہت سے راستے۔
مستہلک - ہلاک ہونے والا۔

مُسکک - منھ چنگ جو منھ سے بجایا جاتا ہے نام ایک آہنی ساز کا ہے
مُستمسِک - پنجہ مارنے والا -
مِسک - مشک یعنے کستوری -
مِسواک - وہ لکڑی جس سے دانت صاف کرین - قاسم مشہدی - بآزادی وہان پاک قاسم کے سخن گوید + ز چوب سر و تر است اگر مسواک قاسم را -
مُستاصل - جڑ سے اکھاڑا گیا -
مُستاہل - سزاوار و لائق -
مُستذل - ذلیل اور خوار کیا گیا -
مَسال - بہت سے جوال وز جمع مسلہ معنے جیسکے سوزن کلان یعنے بڑی سوئی بزرگ
مُستحیل - محال و ناممکن و مشکل بات و حیلہ گزار -
مُستال - تسلی و دلاسا دیا گیا -
مُستقل - نہایت مضبوط و استوار -
مُستقبل - زمانہ جو آنے والا ہو -
مُستعجل - شتاب چلنے والا جلدی کرنے والا -
مَسیل - روان ہونا پانی کا -
مُسجّل - وہ قبالہ جسپر مہرین حکام کی ہون - نظامی - زلیسم خط - ورنیا لیش گری + مسجل باد ضمانے پیغمبری -
مُستطیل - لمبائی زیادہ اور عرض کم
مُسحل - بہ حائے حطی گورخر جو مشہور جانور ہے -
مَسئول - سوال کیا گیا مانگا گیا -
مسلول - برہنہ بہ لفظ سیف کے ساتھ مل کر سیف مسلول کہا جاتا ہے
نیز وہ شخص جسکو سل کی بیماری ہو -
مُستدل - دلیل مانگنے والا -
مُستبدل - بکسر دال بدلنے والا اور بفتح دال بدلا گیا -
مُسہل - آسان کرنے والا وہ دوا جو پیٹ کو جاری کرے دست لائے -
مُسلسل - زنجیر کے ساتھ باندھا گیا آپسمین پیوند دیا گیا اور زنجیرہ منقش کا جو عمارت کے چارون طرف لگاتے ہین اور وہ عبارت جسمین گرفتگی نہو - سید حسین خالص - مرزنجیر فکر حلقہ ذکرے بر ستم دہ + مسلسل گوے مدح خویش کن طبع جوانم را - طغرا - بے علاقہ نشنید - نفسے جیل متین + ہست تا دامن آن بردہ مسلسل گذر -
مستعیل - دو چشمہ تصویر -
مُستکل - منھ چنگ ایک ساز کا نام ہے جو منھ پر رکھکر بجاتے ہین -
مُستنام - سرگشتہ و حیران و بدنام -

مَسموم - جسکو زہر دی گئی ہو -
مَسام - باریک سوراخ جو انسان کی جلد مین ہین -
مُستقیم - سیدھا اور راست رو - حضرت حق بندہ سرگشتہ را + کرد قایم بر صراط مستقیم -
مُستخدِم - بکسر دال خدمت چاہنے والا -
مُستخدَم - بفتح دال جس سے خدمت مانگین
مُستدام - ہمیشہ اور ہمیشگی چاہنے والا -
مُستلزم - لازم پکڑنے والا -
مُسلم - جسنے دین اسلام قبول کیا ہو -
مُستضیٔ - روشنی مانگنے والا -
مُستتم - تمام اور تمام کرنیکا خواہشمند -
مُستشیم - سونگھنے والا -
مُسلّم - برقرار رکھا گیا اور سپرد کیا گیا - صائب - تا در الفت بر رو آشنائے بستہ ایم + جنت در بستہ را بر خود مسلم کردہ ایم -
مُستحکم - محکوم و مضبوط و استوار -
مُستہان - ذلیل اور خوار اور بیباک -
مُستہجن - مکروہ و زشت و عیبدار -
مُستعان - یاری و امداد مانگا گیا -
مُستعین - مدد مانگنے والا -
مُستبین - واضح و روشن و آشکار -
مِسن - وہ پتھر جسپر تلوار وغیرہ تیز کرین -
مُسِن - سالخوردہ ضعیف بوڑھا آدمی -
مِسکین - ناطاقت جو اپنی جگہ سے ہل نسکے و مفلس و محتاج -
مَسکن - بکسر مکان رہنے کی جگہ -
مُسکّن - تسکین دینے والا -
مُسمّن - فربہ بروزن محکم پر گوشت از روے خلقت و بروزن معظم فربہ کیا گیا اور بکسر میم موٹا کرنے والا -
مسلمان - مشہور لفظ ہے -
مُستحسن - نیک گنا گیا پسند کیا گیا اور بکسر سین نیک جاننے والا -
مسئلہ - درخواست کرنا اور پوچھنا -
مستحاضہ - وہ عورت جسکو ایام حیض سے زیادہ خون آوے -
مسرجہ - چراغدان -
مستمرہ - دائمی جو بات ہمیشہ سے ہوتی آئی ہو

مسیحہ - ایک جانور ہے جسکو مولا کہتے ہین۔
مستطاعہ - قدرت وطاقت رکھا گیا۔
مسائرہ - برابری پکڑنا۔
مسودہ - وہ تحریر جو بطور سرسری لکھی گئی ہو۔
مستانفہ - جدا و علیحدہ آغاز کرنے والا نئے سر سے لینے والا۔
مسبحہ - شہادت انگلی جسکو سبابہ بھی کہتے ہین۔
مستکرہ - زشت و زبون و ناخوش۔
مستانہ - مستون کیطرح اور جسکے حرکات و سکنات مستون کیطرح ہون - مرزا جلال اسیر - گر چمن مشرق آن جلوہ مستانہ شود + غنچہ در خواب پری بیند و دیوانہ شود۔
مسخرہ - ہنسی کرنے والا اور بھانڈ جو ایک قوم ہند مین ہے۔
مستہ - جور و ستم و غم و اندوہ اور نام ایک دوا کا ہے جسکو عربی مین سعد کہتے ہین۔
مسترخی - سست اور نا طاعت۔
مستقصی - کسی چیز کے نہایت کو پہونچنے والا۔
مستولی - کسی پر غالب ہونے والا۔
مسی - بضم اول و کسر ثانی بدکردار و بدافعال۔
مسحی - چمڑہ کا موزہ جس پر مسح جائز ہے۔
مستضی - روشنی پکڑنے والا۔
مستوفی - سر دفتر محاسبکان۔
مستلقی - پشت پر سونے والا۔
مستسقی - جسکو استسقا کی بیماری ہو۔
مستدعی - درخواست کرنے والا۔
مستوی - برابر و ہموار۔
مساوی - برابر اور جمع مسیئہ بدیان اور گناہ۔
مستکفی - کفایت چاہنے والا۔
مستغالی - فریادی اور داد خواہ۔
مسلی - بکسر میم و کسر لام مشدد نام ایک بیماری کا جس سے بیمار جانتا ہے کہ میرے جسم مین کوئی سوئیان چبھوتا ہے۔
مساعی - بہت سی کوششین۔
مسترضی - خوشنودی و رضامندی چاہنے والا۔
مستی - مشہور لفظ ہے جو شراب وغیرہ اشیائے نشی کے کھانے سے حاصل ہوتی ہے مقابل ہشیاری کے سوائے اسکے دولت کی مستی جوانی کی مستی وغیرہ - میر خسرو - چو شیران بر شکار انداز مستی + چو خوک و سگ مکن شہوت پرستی

مستعفی - معافی چاہنے والا بخشش مانگنے والا۔
مِسی - بکسر اول وہ چیز جو دانتون کو ملتے ہین - نعیمای قمی - مسی بمالد بدندان کہ از دل من و دیدہ + تبسم تو کند کار چشم سرمہ کشیدہ۔

میم باشین

مشتہا - آرزو و خواہش و مقصد۔
مشکلکشا - مددگار سختی کے وقت کام آنے والا - صائب - مشو ہم غنچہ دل مشکلکشاے خویش + کز منت نسیم صبا کرد وا غم۔
مشمشا - ایک قسم کے زرد آلو کا نام ہے۔
مشتہا - پاژندی زبان مین وہ روغن جو بکری کے دودھ سے نکلے۔
مَشرب - بفتح اول پانی یا شراب پینے کی جگہ مذہب و دین و طریق و آئین [illegible] پیشوا ہستی + توئی [illegible] مشرب بہر ملت۔
مِشرب - بکسر اول پیالہ اور کوزہ۔
مشوب - بروزن مفعول ملا ہوا اور مخلوط۔
مشارب - پینے کے مقام۔
مشیب - برہم و درہم ہونا آشفتہ ہونا۔
مشاورت - مشورت کرنا اصلاح و تجویز کرنا۔
مشایعت - یاری کرنا پیروی کرنا چند قدم رخصت کے لیے کسیکے ساتھ چلنا۔
مشکلات - مشکل باتین۔
مشتہیات - خواہش کی چیزین۔
مشکات - وہ فراخ طاق جسمین چراغ اور قندیل روشن کرتے ہین صحیح لفظ مشکوۃ واو اور تاے مدور کے ساتھ ہے۔
مشرقات - روشن چیزین اور آسمانی ستارے۔
مشتوت - بہر دو تاے فوقانی سوت جو کپڑے بننے کے لئے تیار کیا جاے۔
مشمومات - خوشبویان۔
مشتت - پریشان و پراگندہ۔
مشیت - تقدیر و خواہش ایزدی۔
مشت - مشہور لفظ ہے مٹھی جسکو ہندی مین کہتے ہین - ملا عبد اللہ ہاتفی - نہادند بر فرق ہم مشت را + شکستند در مشت انگشت را۔
مشاتمت - ایک دوسرے کو گالیان دینا۔
مشاکلت - ہم شکل ہونا مانند ہونا۔
مشقت - محنت رنج تکلیف - سعدی - مشقت نیرزد جہان داشتن + گرفتن بشمشیر و بگذاشتن۔

مُشنج - بضم اول ایک قسم کا غلہ ہی جسکو ہندی مین کراؤ کہتے ہین -

مِشنج - بکسر اول وہ بڑی مکھی جسکی دم مین کرم بھرے ہوسے ہوتے ہین جب زخم پر وہ بیٹھتی ہی کرم ہگ جاتی ہی تو زخم مین کرم پڑ جاتے ہین -

مَشائخ - جمع شیخ پیران دین طریقت کے رہنما بعض کے نزدیک شیخ کی جمع مشیخہ ہی اور مشیخہ کی جمع مشائخ لیس یہ لفظ جمع الجمع ہوا -

مَشہد - حاضر ہونے کی جگہ اور شہادت پانے کی جگہ اور نام ایک شہر کا ہی ایران مین جس جگہ مزار پر انوار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ہی اس لحاظ سے اسکو مشہد مقدس کہتے ہین - حکیم زلالی - مشہد پروانہ ہا تربت دیوانہا گرد شبستان او خاک بیابان او -

مَشید و مُشیّد - گچ کیا گیا محکم بنایا گیا گچ سے بنایا گیا بلند کیا گیا - کمال اسمعیل سایہ بان تو ظل عرش مجید + بارگاہ تو اوج قصر مشید -

مُشک بید - ایک قسم بید کا ہی جسکا پھول نہایت خوشبو ہوتا ہی اور اسکا عرق کھینچکر دوا مین استعمال کیا جاتا ہی اور ہر ایک لکڑی جو سیاہ رنگ ہو لفظاً دبیران نگر تا بروز سپید + قلم چون تراشند از مشک بید + نہان مرا آشکارا برند + بر گنجہ نگر تا بخارا برند -

مشتری - نوزنہ ترکھانون کا جس سے لکڑی صفا کرتے ہین -

مُشاہد - آنکھ سے دیکھنے والا -

مشہود - ظاہر اور برملا اور جو چیز آنکھ سے نظر آگئی ہو -

مُشعِر - بضم اول خبر دینے والا -

مَشعَر - بفتح اول و فتح ثالث قربانی کی جگہ اور حاجیون کی موتراشی کی جگہ اور عبادت کی جگہ -

مَشاعِر - مقامات قربانی و عبادت کی جگہیں -

مُشتدر - بروزن مکمل سخیہ و حیرت ناک یہ لفظ تراشا فارسی خوانون عربی دان کا ہی - کمال اسمعیل - بدان خدا کہ بجنبود ز سیر رقعہ مہر را بہ مشدر نقش ہفت و چہار -

مُشجّر - بروزن منور وہ کپڑا جسپر درختون کے نقش لکھے ہون -

مشکور - پسندیدہ و ستودہ -

مشار - اشارت کرنے والا -

مشاہیر - مشہور لوگ بزرگ و نامور -

مشہیر - صاحب شہرت و مصاحب -

مُشتَہر - بفتح ہاے ہوز شہرت دیا گیا -

مُشہّر - بروزن منور شہرت دیا گیا -

مُشمّر - کمر باندھنے والا واسطے دوڑنے کے -

مشمّر - بفتح دوسری میم کے اسپ تیز رفتار -

مُشوِّش - بکسر واؤ پریشان کرنے والا -

مُشوَّش - بفتح واؤ پریشان کیا گیا -

مِشمِش - زرد آلو و خوبانی جو مشہور میوہ ہی -

مَشاش - وہ شہد جسکو قوام دیکر خشک ٹکیا بنا رکھتے ہین -

مشخّص - تشخیص کیا گیا تجویز کیا گیا -

مُشیط - بضم اول و کسر اول شانہ یعنے کنگھی -

مُشاع - آشکارا اور ظاہر اور غیر منقسم

مَشارِع - راستے جنپر چلتے ہین -

مُشبَع - بفتح باے موحدہ سیر کیا گیا اور اسقدر کھینچکر پڑھا گیا کہ فتح سے الف اور کسرہ سے یاے اور ضمہ سے واو پیدا ہو -

مُشعشع و مُشعشعہ - وہ شراب جسمین پانی ملا یا جاے -

مُشتاع - ظاہر کیا گیا -

مُشنّع - ملامت کیا گیا برا اور زبون -

مُشرِف - بلند رتبہ اور منشیون کا افسر - سعدی - چو مشرف دو دست از امانت گذاشت + بباید برا و ناظرے کس گماشت + در او نیز او ساخت با ناظرش + ز مشرف عمل برکن و ناظرش -

مَشرَف - مقام شرف جگہ جو اونچی ہو -

مُشرّف - بزرگی دیا گیا -

مشغوف - بغین معجمہ شیفتہ اور عاشق -

مشعوف - بعین مہملہ چھپی بات دلکی بات -

مُشاق - مشق کرنے والا -

مَشاق - جمع مشقت کی بہت سی محنتین -

مُشفِق - شفقت کرنے والا اور مہربان -

مُشتق - ایک لفظ دوسری لفظ سے نکلا ہوا -

مُشوِّق - بکسر واؤ شوق مین لانے والا - بفتح واؤ شوق مین لایا گیا -

مشتاق - صاحب شوق و آرزومند - توحید - ببام چرخ بیک ساعت از زمین برسد + ببال شوق پرد از زمین اگر مشتاق -

مُشتَلِق - شکرانہ اور انعام جو کسیکو کسی امر مین دیا جاے یہ لفظ ترکی ہی سالک یزدی - آمد آن آرام جانہا بقراران مشتلق + مژدہ یا لوس از خاکساران مشتلق

مشرق - جاے طلوع و جاے ظہور - صائب - ز اشک آتشین خاکسار تر س + کہ بود مشرق طوفان تنور بیوہ زنی -

مشق - باربار کرنا اور مداومت کرنا کسی کام کا اسکی درستی کے لیے -

مشبک ۔ ہر چیز سوراخدار۔
مشک ۔ بضم اول کستوری جو مشہور چیز ہی ۔ لفظ بکسر اول بھی صحیح ہی
سعدی اگر ابلہی مشک را گندہ گفت + تو مجموع مشو کو پراگندہ گفت ۔
مشک ۔ وہ مشک جسمین سقا پانی بھر کر لاتا ہی اور پانی مین پیرنے والے
اسمین ہوا بھر کر اور منھہ بند کر کر پیرتے ہین ۔ جمال الدین سلمان ۔ ہمی نم
ہر شب بمشک دیدہ آب کوے دوست + آب مشک ہیچ سقا بر نتا بد بش ازین
ابو طالب کلیم ۔ ببحر ہست او چرخ مشک پر بادی ست + کہ بھر مشق شنا
بستہ بر میان لقضا ست ۔
مشنگ ۔ بروزن تفنگ نام ایک قسم کے غلہ کا اور چور اور راہزن ۔
مشترک ۔ وہ چیز جو دو شخصون کی ملکیت مین ہو اور نام ایک حس کا جو
حواس ظاہری و باطنی مین مشترک ہی
مشاسنگ ۔ وہ پتھر جو فلاخن مین رکھکر چلاتے ہین ۔
مشتنگ ۔ مفلس و پریشان حال و زرد و رہزن ۔
مشکک ۔ ایک دوا کا نام ہی جسکو عربی مین سعد کہتے ہین اور ہندی مین موتھہ
مشکنک ۔ ایک پرندہ کا نام ہی جو پانی کے کنارے رہتا ہی کبک سے چھوٹا ہوتا ہی
اور سفالک جو پانی کے بہاؤ سے زمین مین پڑ جاتا ہی
مشارک ۔ شریک ہونے والا ۔
مشکوک ۔ شک کیا گیا ۔
مشاکل ۔ ہم شکل ہونے والا اور ایک بحر کا نام ہی عروض کے انیس ۱۹ بحور سے ۔
مشتمل ۔ شامل ہونے والا گرداگرد ہونے والا محیط ہونے والا ۔
مشتعل ۔ بکسر عین مہملہ آگ جلتی ہوئی ۔
مشتغل ۔ بکسر غین معجمہ مشغول ہونے والا ۔ سعدی ۔ ز سوداے جانان
بجان مشتغل + بذکر حبیب از جہان مشتغل ۔
مشغول ۔ ایک شغل مین لگا ہوا ۔
مشتالی ۔ دلالی کرنا بدن کو ملنا چپی کرنا اور نام ایک فن کا فنون کشتی مین
و فریب و مکر و حیلہ اور خوش کرنا کسیکو جو غضب و غصہ کی حالت مین ہو
اشرف ۔ سالکان الکہ کوب حوادث نشوند + ماندگان راہ را مشتالی چار نشست
مشعل ۔ مشہور چیز ہی جسکو جلا کر روشنی کرتے ہین یہ ایک لکڑی ہوتی ہی جسکو
لتے باندھکر اور تیل سے بھگو کر جلاتے ہین ۔ جمال الدین سلمان ۔ نیز علیج
بحشر ہر دو راہ دگر + گر شمع بر نگند ر اسے منیر مشعل ۔
مشکل ۔ دشوار اور ناممکن امر کٹھن بات ۔ سعدی ۔ کسے مشکلے برد پیش علی
مگر مشکلش را کند منجلی ۔
مشمول ۔ شامل کیا گیا احاطہ کیا گیا ۔

مشاعل ۔ بہت سی مشعلین ۔
مشاغل ۔ بہت سے شغل ۔
مشلول ۔ جو شل ہو گیا ہو یعنے بدن اسکا بے حس و حرکت ہو گیا ہو ۔
مشام ۔ دماغ و مقدم دماغ جسمین قوت بوئیدگی یعنے سونگھنے کی قدرت
رکھی ہی ۔ سعدی ۔ نیاسا ید مشام از طبلۂ عود + بر آتش نہ کہ چون عنبر ببوید
مشام ۔ سونگھنے والا اور قوت شامہ ۔
مشعر الحرام ۔ مکہ معظمہ مین قربان گاہ کا نام ہی ۔
مشئوم ۔ بروزن مفسوم منحوس و بخیل ۔
مشموم ۔ سونگھی ہوئی چیز اور خوشبو ۔
مشائین ۔ راست رفتار اور نام ایک گروہ حکما کا کہ راست روی اپنی
بدلائل ثابت کرتے ہین ۔
مشحون ۔ پر کیا گیا بھرا گیا ۔
مشت زن ۔ پہلوان کشتی گیر ۔ سعدی ۔ یکے مشت زن بخت روزی ندا شت
نہ اسباب شامش مہیا نہ چاشت ۔
مشاطہ ۔ مشاطہ ۔ بتشدید و تخفیف شین شانہ کش عورت جو عروس کو آراستہ
کرتی ہی ۔ ظفرا ۔ مشاطہ زد بگرہ زار طرۂ ات ناخن + عجب کہ عقدۂ دل وا شود باسانی
مشاہرہ ۔ ماہواری مقررہ تنخواہ ۔ نور الدین ظہوری ۔ قباد قدر منوچہر
چہر دارائی + کز و مشاہرۂ بہمنی خورد بہمن ۔
مخشتہ ۔ وہ اوزار جس سے حلاج و سراج و صحاف وغیرہ کام کرتے ہین ۔
طاہر وحید ۔ سراج کی تعریف مین ۔ بکف مشتہ آن گل بے خزان + زدہ غنچہ
را ستہا بر زبان ۔
مشغلہ ۔ مجلس گفتگو و ہنگامہ و شور و غوغا ۔ میر معزی ۔ گوئی کہ چہ فرصت
مرا عاشق چون تو + طعنہ مزن اے ترک و مزن مشغلہ چندین ۔
مشاہدہ ۔ دیکھنا اور روبرو حاضر ہونا ۔
مشورہ ۔ آپس مین کسی بات پر تجویز و اصلاح و گنجائش کرنا ۔ یہ لفظ بفتح
میم و ضم شین و سکون واو صحیح ہی اور بسکون شین جو مشہور ہی غلط ہی ۔
مشافہہ ۔ نامہ پیام جو اعلے کی طرف سے ادنے کی طرف ہو ۔
مشرعہ ۔ پانی پینے کی جگہ ۔
مشافہہ ۔ روبرو ہونا اور روبرو بولنا ۔
مشربہ ۔ پانی پینے کا برتن ۔
مشاعرہ ۔ باہم بیٹھکر شعر پڑھنا ۔
مشعرہ ۔ جگہ شعر پڑھنے کی ۔
مشیمہ ۔ وہ رقیق پردہ جو بچہ کے اوپر ولادت کے وقت ہوتا ہی اور نام بچہ دانی

پردہ کا آنکھ کے ساتون پردون سے۔
مشارٌالیہ - جسکی طرف اشارہ کیا جاوے۔
مشعلہ - مشعل جو جلائی جاتی ہے۔
مشخنہ - ایک قسم کے حلوے کا نام ہے۔
مشقولیہ - وامق کی عورت کا نام ہے جو عذرا کا عاشق تھا۔
مشکوئیہ - بت خانہ اور بادشاہی حرم سرا اور نام ایک نوا کا ہے موسیقی سے۔
مشتری - خریدار اور نام ایک ستارہ کا جو چھٹے آسمان پر ہے اور اہل نجوم اسکو سعد اکبر و قاضی فلک کہتے ہین فارسی مین اسکا برجیس نام ہے اور ہندی مین برسپت گھر اسکا قوس و حوت اور شرف اسکا سرطان ہین۔
مشکوی - بادشاہی گھر اور بت خانہ۔
مشقی - وہ تختہ یا کاغذ جسپر کاتب مشق کرے۔ محمد سعید اشرف - چون ان آیکہ شوید طفل دروے مشقی خود را + ہزاران حرف در ہر قطرہ اشکم نہان دارم۔
مشکوفی - ایک قسم کے حلوے کا نام ہے۔
مشکی - ہر چیز جو سیاہ ہو اور نام ایک قبیلہ کا جو اصفہان مین رہتا ہے اور مسکن انکا مشکیون کا کوچہ مشہور ہے۔ محمد سعید اشرف - ہمہ با آبروی باز زیستے + عوام مشک و سادات حسینی۔
مشوی - بریان یعنے بھونا ہوا۔
مشی - نرمی سے چلنا۔
مشتہی - خواہش کرنے والا اور آرزومند۔
مشتہی - اسم فاعل متعدی بدو مفعول اشتہا پیدا کرنے والا۔
مشعلچی - مشعل والا مشعل روشن کرنا جسکا کام ہو۔

میم با صاد مہملہ

مصلا - جاے نماز اور نام میدان عیدگاہ شیراز کا جو نہایت سرسبز مقام ہے شعر - اگر ساقی اجازت بخشدت با بادہ رنگین + بشوق نماز عشق محراب مصلا را
مصفا - پاک اور صاف بے کدورت۔ توحید - تو گر دستی دل صافی دلا نرا + چو آئینہ مجلا و مصفا۔
مصطفے - برگزیدہ اور صاف کیا گیا اخلاق ذمیمہ سے اور خطاب حضرت سرور کائنات احمد مجتبے محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعتیہ از مولف - کرد حق از عرش بالاتر مقام مصطفے + سکہ اندر دین و دنیا زد بنام مصطفے۔
مصاب - مصیبت زدہ اور رنج رسیدہ۔
مصائب - مصیبتین سختیان رنج تکلیفین۔
مصب - پانی وغیرہ گرنے کی جگہ۔
مصاعب - دشواریان اور دشوار مقامات۔

مُصیب - صواب پانے والا اور اچھی طرح پہونچنے والا کسی کام کی حقیقت کو۔
مصحوب - ساتھ کیا گیا۔
مصلوب - سولی پر چڑھایا گیا۔
مصافات - دوستی و اخلاص۔
مصابرت - صبر کرنا ٹھہرے رہنا۔
مصفات - وہ آلہ جس سے کوئی چیز صاف کرین۔
مصمت - بھرا ہوا اور بھرا ہوا اور وہ زخم جو اندر سے بھر آئے اور ایک رنگ گھوڑا۔
مصمّت - بروزن مخمس خاموش کیا گیا۔
مصارعت - کشتی کرنا دو پہلوانون کا۔
مصلحت - نیک کام کرنا اور نیکی سوچنا۔ سعدی - پشت دوتاے فلک راست شد از خرمی + تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را + حکمت محض است گر لطف جہان آفرین + خاص کند بندہ مصلحت عام را۔
مصاہرت - داماد بنانا یا خسر بنانا۔
مصادمت - صدمہ پہونچانا۔
مصابرت - صبر کرنا۔
مصاحبت - صحبت کرنا۔
مصادقت - راستی پر آنا سچ بولنا۔
مصیبت - دکھ تکلیف حادثہ۔
مُصلح - اصلاح دینے والا نیکی پر لانے والا۔
مصالح - جمع مصلحت اور ساز اور سامان ہر چیز کا چنانچہ عمارت کا مصالح۔ سعدی - پس آنراز بہر مصالح شکست + کہ سلطان ظالم نگیرد بدست۔
مصباح - چراغ جس سے روشنی حاصل ہو اور پیالہ شراب کا جو علی الصباح پیا جاے۔ توحید - بہر معاملہ کان مصلح جہان خواہد + براے مصلحت بندگان کند اصلاح + بشرق و غرب جہان کرد مہر و مہ روشن + بر آرد روز یکے بہر شب دگر مصباح۔
مصابیح - جمع مصباح کی بہت سے چراغ اور نام ایک کتاب کا حدیث کے علم مین۔
مصحح - تصحیح کرنے والا صحت دینے والا۔
مصاعد - بلند مکانات۔
مصعد - بفتح اول بلند چڑھنے کی جگہ۔
مُصعّد - بضم اول و فتح صاد و تشدید عین مکسور اوپر کو جانے والا۔
مصاید - جمع صید خلاف قیاس چنانچہ محاسن جمع حسن۔
مصدر - جگہ صادر ہونے نکلنے کا مقام اور وہ کلمہ جس سے فعال و صفات اشتقاق کرین۔
مُصدّر - مقام رکھا گیا ابتدا مین لایا گیا۔

مِصر۔ بکسر اول ہر ایک شہر اور نام ایک ملک کا جسکا دار السلطنت فی زماننا قاہرہ ہی۔ سعدی۔ یکے پرسید زان گم کردہ فرزند + کہ اے روشن گہر پیر خردمند
ز مصرش بوے پیراہن شمیدی + چرا در چاہ کنعانش ندیدی۔
مُصِر۔ ہٹ کرنے والا ایک کام پر رک جانے والا۔
مَصِیر۔ پھرنا اور جگہ پھرنے کی۔
مَصدُور۔ صادر کیا گیا۔
مُصَوِّر۔ بکسر واؤ تصویر کھینچنے والا۔
مُصَوَّر۔ بفتح واؤ تصویر کھینچا گیا۔
مَصّ۔ بکیدن یعنے چوسنا۔
مَصُوص۔ مرغ بریان جسمین کرفس و زیرہ بھر کر پکاتے ہین اور سرکہ مین رکھتے ہین
مُصَدِّع۔ درد سر پیدا کرنے والی چیز اور جدا جدا کرنے والی۔
مِصراع مِصرع۔ بالف وبے الف دونون طرح کواڑ کے دروازہ کا ایک تختہ منجملہ دو تختون کے جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہی اسی سے مصرع ایک حصہ بیت کا ہوتا ہی اور دو مصرع پورا بیت۔ آرزو۔ گر شود فوارہ نخل مصرع دو ثابت + تخم اشکے در زمین شعر میکاریم ما۔
مُصَرَّع۔ بضم اول و فتح را سے مشدد مصرع لایا گیا۔
مَصنَع۔ قلعہ اور حوض و تالاب۔
مِصقَع۔ فصیح و بلیغ مصاقع اسکی جمع ہی۔
مَصرُوع۔ جسکو صرع یعنے مرگی کی بیماری ہو۔
مَصنُوع۔ بنایا گیا۔
مَصَاف۔ صفین قایم ہونے کی جگہ یعنے مقام جنگ اور جنگ اور لڑائی۔ سعدی۔ کہ لشکر کشایان مغفر شکاف + نہان صلح جویند و پیدا مصاف۔
مَصَاحِف۔ جمع مصحف بہت سے صحیفے۔ سعدی۔ پر طاؤس در اوراق مصاحف دیدم + گفتم این منزلت از قدر تو می بینم بیش + گفت خاموش کہ ہر آنکس کہ جمالے دارد + ہر کجا پاے نہد دست بدارندش پیش۔
مُصحَف۔ صحیفہ آسمانی کتاب قرآن مجید۔ صدر فوقانی۔ واللیل زلف عارض تابان ہی والضحی + چہرہ ہی کیا نمونہ ہی مصحف مجید کا۔
مَصَارِف۔ جمع مصرف صرف کرنے کے مقامات۔
مَصرُوف۔ نہایت متوجہ اور خرچ کیا گیا۔
مَصرِف۔ جاے خرچ اور خرچ کا مکان و بضم میم و کسر را سے صرف کرنے والا۔
مُصَنِّف۔ تصنیف کرنے والا۔
مِصدَاق۔ سچی تمثیل و گواہ و گواہی اور راستی کی دلیل۔ توحید۔ منبر و نصدق و راستی پا + کہ ہاشمی بہر اہل صدق مصداق۔

مُصَدَّق۔ راست کیا گیا سچ سمجھا گیا۔
مَصقُول۔ صاف اور روشن کیا گیا۔
مُصَیقَل۔ صاف اور روشن کیا گیا زنگ اتار گیا جلا یا گیا۔
مَصَاقِل۔ جمع مصقلہ ہی۔
مَصُون۔ بروزن زبون نگاہ رکھا گیا حفاظت مین لیا گیا۔
مِصرَان۔ دو شہر کوفہ اور بصرہ۔
مُصَادَرہ۔ جرمانہ اور تاوان لینا۔
مَصطَبہ۔ شرابخانہ۔
مُصَوِّرہ۔ یہ ایک قوت کا نام ہی جسکے ذریعہ سے عورت کے رحم مین بچہ آدمی کی صورت پکڑتا ہی۔
مُصَافحہ۔ بوقت ملاقات ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا۔
مِصقَلہ۔ صیقل کرنیکا اوزار۔
مُصَلّی۔ نماز پڑھنے والا نماز ادا کرنے والا۔ شرف بخاری۔ اے مصلی بیا طہارت کن + خانۂ دین خود عمارت کن۔
مِصرِی۔ مصری قند جو نہایت عمدہ ہوتی ہی منسوب بملک مصر۔
مُصطَکی۔ ایک دوا کا نام ہی جسکی تشریح فصل ادویات مین تحریر ہی۔
مُصطَفَوِی۔ منسوب بجناب مصطفے صلے اللہ علیہ وسلم چنانچہ حدیث مصطفوی اگرچہ اس لفظ مین واؤ کا زیادہ کرنا صحیح نہین مگر کلام متقدمین مین اکثر واقع ہی اسواسطے محل اعتراض نہین ہی

میم با ضاد معجمہ

مَضَی یا مَضِی۔ گذشت آنچہ گذشت گذرا جو گذرا۔ قطعہ از مولف۔ یکین یاد وقتیکہ از دست رفت + بگو بہر ماضی مضی ما مضی + بآئندہ چشم توقع مدار + غنیمت شمر حالت حال را۔
مَضَا۔ گذر جانا روان ہونا۔
مِضرَاب۔ زخمہ لوہے کے تار کا جو انگلی پر چڑھا کر ستار وغیرہ ساز بجاتے ہین۔ طالب آملی۔ منم کز فیض جانم خون شراب لالہ گون گردد + بہر شہ تاران کہ مضرابے رسانم ارغنون گردد۔
مَضَارِب۔ مضرب کی جمع مقام مارنے کا۔
مَضرِب۔ جاے ضرب مارنے کی جگہ۔
مُضطَرِب۔ بیقرار و بے آرام۔ مولف۔ چو ازین دنیاے فانی نیستی + در حصولش مضطرب باشی چرا۔
مُضَارِبت۔ مال کسیکو تجارت کے لیئے دینا اس شرط پر کہ جو نفع ہو آپسمین نصف نصف دونون کا ہو۔

مُضاجعت - باہم ایک جگہ سونا۔
مُضادت - ضد پر ہونا دشمنی کرنا۔
مُضافات - متعلق اور منسوب چیزین۔
مُضاہات - مانند و مثل ہونا۔
مَضلت - گمراہی کا مقام راستہ بھولنے کی جگہ۔
مضرت - ضرر دینے والی چیز۔
مضرات - ضرر دینے والی چیزین۔
مضحکات - ہنسانے والی باتین۔
مُضجّ - بضم میم و کسر ضاد و تشدید جیم فریاد اور نالہ کرنے والا بلند پکارنے والا۔
مُضمَر - بضم میم اول و فتح میم دوم دل مین رکھا گیا پوشیدہ رکھا گیا۔
مُضمّر - بفتح اول و فتح ثانی و تشدید ثالث وہ گھوڑا جو تیز رفتار و باریک کمر ہوا اور فربہ ہو۔
مَضار - جمع مضرت تکلیف و نقصان۔
مضمار - وہ میدان جسمین فربہ گھوڑون کو دوڑا کر دبلا کرتے ہین۔
مضامیر - جمع مضمار کی بہت سے میدان گھوڑونکی ریاضت کے۔
مُضطَر - بضم میم و فتح طاے مہملہ بے قرار و بے آرام۔
مُضَر - بضم اول و فتح ثانی نام ایک قبیلہ عرب کا
مُضِر - بضم میم و کسر ضاد و تشدید راے ضرر پہونچانے والا نقصان دینے والا۔
مَضَر - بفتح میم و فتح ضاد نقصان کی جگہ تنگی کا مقام۔
مضبوط - ضبط کیا گیا مستحکم و استوار کیا گیا۔
مَضجع - بفتح میم و جیم خوابگاہ۔
مضاجع - بہت سی خوابگاہین۔
مُضیع - ضایع کرنے والا۔
مضارع - وہ زمانہ جو حال و استقبال کو شامل ہو معنی سکے شریک و شبیہ ہونے والا۔
مُضاف - منسوب و متعلق۔
مضاعف - دو چند دگنا۔
مَضایق - بہت سے تنگ مکان۔
مَضیق - تنگ جگہ اور چھوٹا مکان۔
مَضحک - بفتح میم و فتح حاے مہملہ ہنسنا اور وہ شخص جسپر ہنسین۔
مُضحِک - بضم میم و کسر حاے مہملہ ہنسانے والا۔
مُضمحل - محو ہونے والا ناچیز اور سست۔
مُضِل - گمراہ کرنے والا۔
مَضموم - وہ حرف جسپر ضمہ یعنے پیش ہو۔

مضمون - درمیان پکڑا گیا تحریر یا تقریر مین لایا گیا - ملا طاہر غنی
از بسکہ شعر گفتن شد مبتذل درین عہد + لب بستن ست اکنون مضمون تازہ بستن
مضامین - بہت سے مضمون۔
مُضادہ - باہم ز رہونا مصدر باب مفاعلہ اور عورت باہم ضد کرنیوالی۔
مَضلہ - ضلالت و گمراہی کی جگہ۔
مضائقہ - بروزن معانقہ تنگ پکڑنا کسی کام مین - ملا وحشی - دکار ما
مضائقہ داشت ناخدا + کشتی بنوح و رخت بطوفان گذاشتیم
مُضغہ - گوشت کا ٹکڑا۔
مُضیٔ - بضم میم و کسر ضاد و یاے مشدد روشن ہونے والا اور روشن کرنیوالا
مَضاہی - مانند و مشابہ۔

	میم با طاے مہملہ	

مطایا - وہ چارپایہ جنکی پشت پر سوار ہون یعنے گھوڑا اونٹ خچر گدھا وغیرہ یہ لفظ جمع مطیہ کی ہے۔
مُطرّا - تازہ اور تازہ کیا گیا مصفا و آبدار۔
مَطا - پشت یعنے پیٹھ۔
مُطلّا - طلا کیا گیا ملمع کیا گیا یہ لفظ فارسیون و عربی والونکا بنایا ہوا ہے کہ اس چیز کو جسپر سونے کا ملمع ہو مطلا کہتے ہین - ملا طغرا - در تعریف
گلنار - چو عکس پنجہ زر کف تاک را + مطلا کند قبضۂ خاک را۔
مَطَب - شفاخانہ جہان طبیب بیٹھکر لوگون کا علاج کرتا ہو۔
مُطیَّب - خوشبودار اور پاک ہونے والا۔
مَطلب - بفتح اول جاے طلب و مقصود۔
مُطّلب - نام جد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مطرب - گانے والا قوال۔
مِطنت - درازی دینے والا بہت بولنے والا۔
مَطویات - پیچیدہ اور پوشیدہ باتین۔
مطعومات - کھانے کی چیزین۔
مَطرات - بارشین۔
مطاوعت - فرمانبرداری کرنا۔
مطارحات - باتین خوشامد و تملق کی۔
مطمح - بلند مقامات کی طرف دیکھنا اور جگہ بلند رکھنے نظر کی۔
مَطرح - وہ کیسہ و تھیلہ جسمین شکاری شکار کیے ہوے جانورون کو جمع کرتا ہے اور ہر ایک کیسہ جسمین کچھ ڈالکر حفاظت سے رکھین - نظامی
کہ چون با یدم مطرحے ساختن + شکارے دران مطرح انداختن۔

مَطبخ ۔ باورچیخانہ جہان کھانا پکاتے ہین ۔ میر معزی ۔ خرگز زندہ کار
کسے نکشاید + مطبخ زندوناں بکسی ننماید + گرد و زخرگہش برآید شاید
کز مطبخ او دو دہمی برنیاید ۔
مَطبوخ ۔ پکائی ہوئی چیز اور جوشاندہ ۔
مَطرود ۔ بروزن مردود چلایا گیا نکالدیا گیا ۔
مُطِرّ ۔ بضم میم و تشدید طاے مفتوح وکسر راے ایک و تیرہ برسنے والا
مِطرد ۔ بکسر میم چھوٹا نیزہ یعنے برچھی اور وہ کپڑا جو دوسرے کپڑے کے نیچے پہنین ۔
مَطر ۔ باران یعنے مینھ ۔
مِطر ۔ تری و تازگی ۔
مَطیر ۔ بروزن فعیل برسنے والا ۔
مُطیر ۔ بروزن مصور خجلت زدہ و شرمندہ اور وہ شخص جو پرندونکی تصویر لکھا کرے
مَطار ۔ اڑنا اور اڑنے کی جگہ ۔
مُطَرّز ۔ بروزن منور زینت دیا گیا ۔
مَطلس ۔ درہم و دینار بے سکہ و بے نقش ۔
مُطلِع ۔ بضم میم و تشدید طاے وکسر لام خبر دینے والا اطلاع کرنے والا ۔
مُطلَع ۔ بفتح لام خبر دیا گیا خبردار کیا گیا ۔
مَطلِع ۔ بفتح میم وکسر لام مقام طلوع یعنے جس جگہ سے کوئی ستارہ نکلے اور
پہلا بیت کسی غزل کا ۔ میر محمد علی رائج ۔ ہمچو خورشید کز و خط شعاعی شود
مطلعی میکنم انشاے و غزل میگردد ۔
مَطالع ۔ جمع مطلع اور نام ایک کتاب کا منطق مین ۔
مطبوع ۔ طبع کیا گیا ۔
مطامع ۔ جمع طمع خلاف قیاس چنانچہ محاسن جمع حسن ۔
مَطمع ۔ جاے طمع امید کی جگہ ۔
مَطبوع ۔ دلپسند و مرغوب طبع ۔
مُطاوِع ۔ فرمان برداری کرنے والا ۔
مُطاع ۔ فرمانبرداری کیا گیا ۔ سعدی ۔ شفیع مطاع نبی کریم + قسیم
جسیم نسیم وسیم ۔
مُطرّف ۔ وہ گھوڑا جسکا سر اور دم سپید ہو یا سیاہ و مزین و زینت دارہ ۔
مَطاف ۔ جاے طواف ۔
مطلق ۔ آزاد اور قید سے چھوٹا ہوا بے خصوصیت اور روان کیا ہوا ۔
مُطبّق ۔ طبقہ بطبقہ تہ بہ تہ ۔
مُطوّق ۔ طوق پہن کیا گیا ۔
مطول ۔ لمبا اور نام ایک کتاب کا ۔

مَطاعِم ۔ کھانے کی چیزین ۔
مطران ۔ بفتح وکسر اول سرگروہ قوم نصارا کا اور سرگروہ کفار کا ۔
مِطحن ۔ آسیا یعنے چکی ۔
مَطعون ۔ طعنہ دیا گیا نیزہ مارا گیا ۔
مطین ۔ بروزن مزین کہگل کیا گیا ۔
مطمئن ۔ تسلی کیا گیا آرام مین آیا ہوا ۔
مطارحہ ۔ صلاح و مشورہ کرنا خوشامد کرنا ۔
مطائبہ ۔ خوش طبعی کرنا ہنسی کرنا ۔
مطمورہ ۔ چھپایا گیا پوشیدہ کیا گیا و تہخانہ جو زمین کے اندر بنا ہو ۔
مطیہ ۔ سواری اور مرکب ۔
مُطوّعہ ۔ وہ جماعت جہاد کرنے والی جنپر جہاد واجب نہو ۔
مطالعہ ۔ کسی چیز کیطرف دیکھنا ۔
مطہرہ ۔ وضو کرنے کا آفتابہ ۔
مِطرقہ ۔ لوہارون کا آہنی ہتھوڑا ۔
مطالبہ ۔ طلب کرنا اور ڈھونڈھنا ۔
مُطربہ ۔ گانے والی عورت ۔
مَطبخی ۔ باورچی کھانا پکانے والا ۔
مَطوی ۔ آلپیٹن لپٹا ہوا ۔
مطاوی ۔ پیچیدگیاں اور شکن ۔

میم با ظاے معجمہ

مظاہرت ۔ پشتی دینا حمایت کرنا ۔
مظفر ۔ فتح مندی دیا گیا اور نام ایک بادشاہ کا ۔
مظاہر ۔ پشتی دینے والا مدد دینے والا ۔
مِظلّ ۔ سایہ بان سایہ کرنے والا ۔
مَظالم ۔ جمع مظلمہ بہت سے ظلم اور جور و رہ ۔ عدالت کی کچہری جہان ظالم کو
اسکے ظلم کی سزا دی جاتی ہے ۔
مظلم ۔ بضم میم وکسر لام تاریک اور بفتح میم وکسر لام مکان تاریک ۔
مظلوم ۔ جسپر کسی ظالم نے ظلم کیا ہو ۔ توحید ۔ خدا حاجت روا و خلق محتاج
خدا فرمان روا و خلق محکوم + بہر یک مور سے بخشد خدا زور + ز بہر ظالم
ستاند داد مظلوم ۔
مَظانّ ۔ گمان لیجانے کے مکانات یہ جمع کبھی واحد کے معنے بھی دیتی ہے ۔
مظنہ ۔ گمان اور شک و شبہ کی جگہ ۔
مِظلّہ ۔ سایہ بان سایہ کرنے والا ۔

متظلمہ ۔ دادخواہی کرنا ۔ نالش کرنا ۔

میم با عین مہملہ

معما ۔ اندھا کیا گیا چیستان پہیلی ۔ حافظ ۔ مدد از مطرب و می جوی کہ راز
از و ہرکس نگو ہکرکس نکشود و نکشاید بحکمت این معما را ۔
معہذا ۔ ساتھ اسکے باوجود اسکے ۔
معزا ۔ صاحب عزا سوگوار ماتم زدہ ۔
معادا ۔ بدال مہملہ عداوت رکھنا بار بار کرنا پے در پے کرنا کسی کام کو یہ لفظ
مخفف معادات ہے ۔
معرا ۔ عریان برہنہ ننگا بے لباس ۔ شعر ۔ برہنہ در لباس بادشاہی ست ہر
چو ہست از خیامہ تقوے معرا ۔
معا معلی ۔ رودہ یعنے آنتیں ۔
معا ۔ اسیوقت ساتھ ساتھ ۔
معائب ۔ بہت سے عیب جمع معیب جو مصدر میمی ہے ۔
معاقب ۔ عقوبت کرنے والا عذاب کرنے والا ۔
معیب ۔ بروزن منیر عیبدار عیب کرنے والا ۔
معاتب ۔ عتاب کرنے والا جھڑکنے والا ۔
معجب ۔ متکبر و مغرور و صاحب عجب خود پسند خود بین ۔
معرب ۔ کوئی عجمی لفظ عربی بنایا گیا ۔
معرب ۔ کسی حرف پر اعراب دیا گیا ۔
معقب ۔ بضم میم و تشدید قاف مکسور پیچھے ڈالا گیا ۔
معیوب ۔ عیب کیا گیا عیبدار بنایا گیا ۔
معتوب ۔ عتاب میں لایا گیا ۔
معذرت ۔ عذر چاہنا بہانہ لانا ۔
معاندت ۔ باہم دشمنی کرنا ۔
معدلت ۔ برابر تولنا عدل کرنا ۔
معیت ۔ ساتھ ہونا ہمراہ ہونا ۔
معیشت ۔ عیش کرنا زندگانی کرنا گذران کرنا ۔
معاونت ۔ یاری کرنا مدد کرنا ۔
معاشرت ۔ زندگانی کرنا عیش و عشرت کرنا ۔
معاودت ۔ عود کرنا پھر آنا ۔
معاقبت ۔ عقوبت و عذاب کرنا ۔
معاتبت ۔ عتاب کرنا جھڑکنا ۔
معظمات ۔ بڑے بڑے کام اور باتیں ۔

معضلات ۔ مشکلیں اور بند شیں ۔
معاضدت ۔ یاری دینا مدد دینا بازو بننا ۔
معرفت ۔ شناختن یعنے پہچاننا ۔ توحید ۔ رنگ و بوے آن گل رنگین
شناسد در چمن ہر کہ باشد عندلیب بوستان معرفت ۔
معونت ۔ یاری دینا مدد کرنا ۔
معادات ۔ عداوت آپس میں کرنا ۔
معصیت ۔ گناہ کرنا نافرمانی کرنا ۔ مخلص کاشی ۔ زابر لطفش لسکہ باران
عنایت می چکد ہر معصیت راگر بیفشار ند رحمت میشود ۔
معاطفت ۔ مہربانی کرنا ۔
معاقدت ۔ باہم ایک بات پر عہد کرنا نکاح کرنا ۔
معاوضت ۔ عوض لینا بدلہ لینا ۔
[illegible]
معلم ثالث ۔ شیخ ابو علی سینا حکیم ۔
معراج ۔ جاے عروج یعنے نردبان زینہ لوڑھی ۔ لغتیہ از مولف بلعدان
زمانہ سر فراز تاج تو ہر انبیا را سر بلند از پایہ معراج تو ۔
معارج ۔ نردبان اور زینہ ۔
معوج ۔ بضم میم و سکون عین و واو مفتوح و جیم مشدد کج او ناراست ٹیڑھا
معرج ۔ بالکسر نردبان زینہ سیڑھی ۔
معرج ۔ بفتح اول اوپر چڑھنے کی جگہ ۔
معرج ۔ بضم میم و فتح عین و تشدید راے مفتوح نام ایک نفیس کپڑے کا
اور معرج گر جولاہا جو اسکو بنتا ہے ۔ نظامی ۔ ز معراج او در شب ترکتاز ہر
معرج گران فلک را طراز ۔
معالج ۔ طبیب جو بیماروں کا علاج کرے ۔ لغتیہ از مولف ۔ اے معالج
چوں تو ئی چارہ گر بیچارگان ہر بخش از دست شفا بہر دل شیدا علاج ۔
معبد ۔ عبادت گاہ عبادت کی جگہ ۔
معابد ۔ جمع معبد عبادت گاہیں ۔
معید ۔ اعادہ کرنے والا ۔
معد ۔ بضم میم و کسر عین و تشدید دال آمادہ و مستعد و تیار ۔
معد ۔ بفتح اول خصیۃ الثعلب جو ایک مشہور دوا ہے ۔
معدود ۔ گنتی میں آیا ہوا تھوڑا سا ۔ توحید ۔ بہر حساب خداے یگانہ
محسوب است ہر شمار و احد مطلق بہر عدد معدود ۔
معتضد ۔ قوت پکڑنے والا طاقت لینے والا ۔
معاقد ۔ گرہ باندھنے کے مقامات ضمانت و عہد و نکاح کے موقعے ۔

مُعَبَّد۔ بضم میم وتشدید بائے مفتوح عبادت کیا گیا۔
مَعدُود۔ شمار کیا گیا اور سانس بھاان دیا گیا۔
مُعَربِد۔ جنگجو و بدخو۔
مَعاد۔ جائے بازگشت و عالم آخرت۔
مُعتَمِد۔ اعتبار کرنے والا اور بفتح میم اعتبار کیا گیا۔
مُعانِد۔ عناد کرنے والا دشمنی کرنے والا۔
مَعہُود۔ عہد کیا گیا قایم کیا گیا۔
مُعتاد۔ عادت کیا گیا اور عادت کرنے والا۔
مُعتَدِی۔ حد سے گذرنے والا تعدی کرنے والا۔
مُعقَد۔ گرہ دارا اور تعقید دو قسم ہے ایک لفظی جو موجب دشواری فہم معانی ہو دوسرے معنوی جو ظاہر پر دلالت نکرے اور یہ دونون فصاحت کے عیوب ہیں۔ محسن تاثیر۔ زرشکستہ مہر تابان لبسکہ در دل عقدہا دارد + معقد مطلعے از شعر خاقانی است پنداری۔
مَعبُود۔ عبادت کیا گیا ذات ربانی۔ توحید۔ بہر مذہب بہر ملت بہر دین + تو مقصودے تو مسجودے تو معبود + درین جلوہ گہ اہل نظارہ + گہے شاہد شدی وگاہ مشہود۔
مُعتَقِد۔ صاحب اعتقاد۔ سعدی۔ خوردن برائے زلیستن و ذکر کردن ست + تو معتقد کہ زلیستن از بہر خوردن ست۔
مَعقُود۔ عقد کیا گیا گرہ میں باندھا گیا۔
مَعاذ۔ جائے پناہ اور پناہ دینا۔
مِعیار۔ ترازو اور سنگ محک کسوٹی کا پتھر۔
مَعشَر۔ گروہ دوستون اور خویشون کا جنھوں ملکر زندگانی بسر ہو۔
مُعَشَّر۔ بضم میم وتشدید شین مفتوح دس حصہ اور دس پہلو کیا گیا۔
مَعاشِر۔ جمع معشر بہت سے گروہ دوستون اور خویشون کے۔
مُعسِر۔ بکسر سین تنگدست و درویش۔
مُعسَر۔ بفتح سین تنگ و دشوار گزار۔
مِعمار۔ عمارتین کرنے والا آبادی بڑھانے والا۔ سعدی۔ خدا ترس را بر رعیت گمار + کہ معمار ملک ست پرہیزگار۔
مُعَصفَر۔ جس چیز کو کسم کے پھولون سے رنگ کیا گیا ہو۔ مغربی۔ زینسے کجا عکس رخے تو ببیند + بنالش بود تا قیامت معصفر۔
مِعشار۔ وہ یک لینا یعنے دس روپیہ سے ایک روپیہ لے لینا یہ خراج شاہان سلف کے عہد مین لیا جاتا تھا۔
مُعَسکَر۔ فوج کے اُترنے کا مقام۔

مَعبَر۔ بفتح اول دریا کی رستہ جسکو گذر دریا کا کہتے ہین۔
مِعبَر۔ بکسر اول کشتی جسپر سوار ہو کر دریا سے اترین۔
مُعَبِّر۔ بضم میم وبائے مشدد مفتوح خواب کی تعبیر کیا گیا اور بکسر بائے تعبیر کرنیوالا۔
مَعابِر۔ کشتیان دریا سے اُترنے کی۔
مُعِیر۔ عاریت دینے والا۔
مُعاصِر۔ ہم عہد و ہم زمانہ۔
مِعجَر۔ اوڑھنی عورتون کی اور روپوش عورتون کا۔ الوری۔ از لطف و تاب خنجر ترکان لشکرت + در سر کشد لشکل زنان معجر آفتاب۔
مَغافِر۔ آلو کے درخت کا گوند۔
مَعاذِیر۔ جمع معذرت کی عذر بہانے حیلے۔
مُعتَبَر۔ اعتبار کیا گیا۔
مُعتَذِر۔ عذر کرنے والا۔
مَعذُور۔ عذر کیا گیا۔
مَعمُور۔ عمارت کیا گیا آباد کیا گیا بند کیا گیا۔ توحید۔ جوش بدرگہ والا ش سایلے حاضر بانگشت باب اجابت بروے او معمور۔
مُعجِز۔ عاجز کرنے والا نبی کی خرق عادت ولی کی کرامت جسکو دیکھکر منکر عاجز ہو جاتے ہین۔
مَعز۔ بفتح میم و سکون عین بز یعنے بکری جو مشہور چارپایہ ہے۔
مَعکُوس۔ نگونسار یعنے اُلٹا۔
مَعانِیس۔ بکسر نون کنواری لڑکیان۔
مَعارِس۔ وہ منزلین جہان مسافر اُترین۔
مَعاش۔ زندگانی کرنا اور وہ چیزین جنکے ساتھ زندگانی کرسکین مقام زندگانی و عالم دنیا۔ میرزا جلال اسیر۔ برات روزی ما رابما نوشتہ قضا بیاکی نظر خویش کمینیم معاش۔
مَعایِش۔ زندگانی کا اسباب و سامان۔
مَعشُوش۔ جمع کیا گیا کسب کیا گیا اور نام ایک صنعت کا شعری صنعتون سے۔
مُعطِش۔ پیاس لگانے والی چیز۔
مِعراض۔ جس تیر کے پر نہون فارسی مین اسکو تیر گز کہتے ہین اس تیر کے دونون سرے باریک اور درمیانی حصہ موٹا ہوتا ہے مرغون کو اس سے شکار کرتے ہین۔
مَعرِض۔ محل عرض و مقام اظہار۔
مُعارِض۔ جھگڑا کرنے والا۔
مُعتَرِض۔ جھگڑنے والا۔
مَعرُوض۔ عرض کیا گیا ظاہر کیا گیا۔

مست - فارسی مین با ہندی مین سا کھتر -
مُعَرِّف - تعریف کرنے والا پہچاننے والا اندازہ کرنے والا اور وہ شخص جو امراء کی مجلس مین حاضر رہتا ہی جو شخص آتا ہی اسکو اُسکے رتبہ و عزت کے مطابق نشست کی جگہ تجویز کرتا ہی اور امیر کے روبرو اسکا حسب نسب بیان کرتا ہی سعدی - نکرد قاضی درا و تیز تیز + معرف گرفت آستینش کہ خیز -
مَعرُوف - پہچانا گیا اور مشہور اور نام ایک بزرگ ولی کامل کا جو کرخ مین رہتا تھا - سعدی - نہ بینی کہ در کرخ تربت بسیت + بجز گور معروف معروف نیست -
معارف - بمقام شناخت کے اور آشنا اور صاحبان معرفت و اہل علم و فضل -
مِعلَف - گھوڑون کا آخور -
مُعتکِف - مسجد مین اعتکاف بیٹھنے والا سب کام چھوڑ کر عبادت کرنے والا -
معاف - عفو معافی درگذر نا کسی کے گناہ سے یہ لفظ صحیح معافی ہی -
مَعطُوف - پلٹایا گیا -
معتَرِف - اقرار کرنے والا -
مُعَلَّق - بضم میم و فتح عین و تشدید لام مفتوح لٹکا ہوا -
مُعَوَّق - باز رکھا گیا مشکل و دشوار -
مِعلاق - جس چیز سے کوئی چیز لٹکائین اور وہ لوہے کی میخ جس سے قصاب گوشت لٹکاتے ہین -
معشوق - جس سے کسیکا عشق ہو - توحید - جلوۂ معشوق از خود مینماید بچار سو + صاف چون آئینۂ دل گرد جوا ز انوار عشق -
مُعانِق - گلے لگنے والا بغلگیر ہونے والا -
معرق - پسینہ لانے والی چیز -
معارک - لڑائیون کے میدان جمع معرکہ کی -
مُعتمَد - اعتماد کیا گیا -
مِعوَل - لوہے کا اوزار جس سے پتھر توڑتے ہین -
مَعاقِل - سرحدین اور پناہ کے مقامات بہت سے قلعے اور دیوارین -
مُعامِل - معاملہ کرنے والا مشتاق و آرزومند اور خرید و فروخت کرنے والا -
مُعضِل - دشوار اور مشکل کرنے والا -
معقول - وہ چیز جسکو عقل پسند کرے -
مُعیل - عیالدار آدمی -
مُعطَّل - بیکار و بے روزگار - ذوقی - لطف حق عام ست بر شاہ و گدا + نیست معطل کے گذارو مر ترا -
مُعَقَّل - وہ اونٹ جسکا زانو رسی سے بندھا ہوا ہو ماخوذ عقال سے -
مُعَجَّل - جلدی کرنے والا اور جلدی کیا گیا اور بے مہلت -
مَعلول - وہ چیز جو علت اور سبب سے ثابت کی جاے -
مُعَلِّم اول - حکیم ارسطو جسکا نام ارسطا طالیس تھا -
مُعتَل - بیمار ہونے والا ماخوذ اعتلال سے -
معربل - عربدہ کرنے والا نخرہ کرنے والا - فوقی یزدی - یکے گلچہرہ یار نازنینی معربل گون نگاری خوش سرینی -
مُعتَدِل - جو چیز اعتدال پر ہو -
معتزل - گوشہ نشین الگ بیٹھنے والا -
معدول - برابر کیا گیا -
معمول - عمل کیا گیا -
مُعَلِّم - بتشدید لام تعلیم دینے والا اُستاد علم سکھانے والا اور فارسی مین ناخدا یعنے کشتی کا ملاح جو کشتی چلاتا ہی - سعدی - معلمت ہمہ شوخی و دلبری آموخت + جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت - صائب - اے معلم سر خود گیر کہ ما چون گرداب + قطع امید ز سر رشتہ ساحل گردیم -
مِعصَم - دست برنجن یعنے ساعد پہونچا ہاتھ کا -
مُعجَم - حروف تہجی مین سے جو منقوط حروف ہین -
مُعَمَّم - بضم میم و فتح عین و کسر میم مشدد صاحب عمامہ یعنے پگڑی باندھے ہوے -
مُعَزِّم - عزیمت خوان و افسونگر -
مَعلُوم - جس چیز کا علم ہو و مال و زر و درہم و دینار وغیرہ - توحید - کند تقسیم قاسم جملہ مقسوم + ببخشد بندگان را رزق معلوم -
مَعالِم - زمانہ و جہان -
مُعتَصِم - چنگل مارنے والا پنجہ مارنے والا -
مُعلَم - بضم میم و فتح لام نقشدار مخطط -
معصوم - صاحب عصمت نگاہ رکھا گیا گناہ و نجاست سے - توحید - نہ فاسق ماند مایوس از عنایت + نہ ایمن از عتابش گشت معصوم -
مَعدُوم - نابود کیا گیا عدم مین لایا گیا - توحید - بحکمش بشود موجود و معدوم + ہمہ خلقت چہ مردود و چہ مرحوم -
مَعان - یاری دینا مدد دینا -
مَعمعان - گرمی کے موسم کی شدت و تیزی -
معنون - عنوان کیا گیا دیباچہ بنایا گیا -
معن - عرب کے ایک سخی کا نام ہی -
معجون - گوندھا گیا خمیر کیا گیا اور وہ مرکب دوا جو شہد یا کھانڈ کے قوام مین ملائی جاے - سب - درد مند درد دل را چارہ سازان جہان + شربت دیدار و معجون محبت دادہ اند -

مَعِین - بفتح اول وکسر ثانی جاری اور روان۔
مُعِین - بضم اول مددگار اور یاری دینے والا۔
مُعَیَّن - بضم میم وفتح عین وتشدید یاے مفتوح مقرر و معین کیا گیا۔
مَعدِن - بکسر دال ہر چیز کی کان جمال الدین سلمان ۔ کان زر دست خاک
بر سر سکندر یعنے کہ او ۔ آب دریا برد وقصد خون معدن کردہ است۔
مَعَادِن - بکسر دال جمع معدن کی۔
مُعَاوِن - بکسر واؤ مددگار۔
مَعفُو - عفو کیا گیا بخشدیا گیا۔
معافہ - بتشدید فاے باز رکھنا کسی چیز سے اہل فارس سکون تخفیف ہاے
استعمال کرتے ہین - ظفرا - ز عتاب گذاشت خود را معاف ۔ نگرد دیدۂ
خون ز گلنار صاف -
معدہ - اندرونی اعضا مین سے ایک عضو کا نام ہے جسمین کھانا ہضم ہوتا ہے
سعدی - معدہ چون پشت شکم در خواست ۔ سوند رو ہمہ اسباب راست۔
معرفیہ - صفاہان مین ایک قبیلہ کا نام ہے۔
معرکہ - جاے ہجوم وانبوہ مردم ولشکر و فوج و میدان جنگ - عرفی -
بر در عشق مچین معرکۂ عقل فضول ۔ طفل را شیوہ بازیچہ حرام ست اینجا -
مُعَاہَدَہ - عہد باندھنا اقرار کرنا۔
معانقہ - بغلگیر ہونا گلے ملنا۔
مِعبَلہ - تیر کا پھل جو لمبا اور چوڑا ہو۔
معصرہ - جسمین کوئی چیز ڈالکر نچوڑین۔
معشوقہ - پیاری عورت مگر فارسی مین یہ ہاے تانیث نہیں ہے بلکہ زائد
ہے - سلیم - مفلس چو شد بکم رود باو آورد ہم ۔ معشوقہ روز بینواے ست خانہ
معجزہ - خرق عادت جو نبی سے ظاہر ہوا اور کرامت جو ولی سے - زلالی -
لعلت بہ تبسمی شکستہ ۔ صد معجزۂ پیمبری را۔
معائنہ - آنکھون سے دیکھنا۔
معتوہ - وہ شخص جو کبھی دیوانہ ہو اور کبھی ہوشیار۔
مُعَذَّبہ - عذاب کیا گیا۔
معاملہ - آپسمین کام کرنا عمل کرنا۔
معتزلہ - ایک گروہ فرقہ کا نام ہے جنکا قول ہے کہ دنیا اور آخرت مین دیدار
الٰہی ممکن نہین ہے نیکی خدا کی طرف سے ہوا اور بدی نفس کیطرف سے اور مرتکب
کبیرہ کا نہ مومن ہے نہ کافر چونکہ ابن عطا امام اس فرقہ کا شیخ حسن بصری کا شاگرد
تھا اسنے اپنے کلام سنکر فرمایا اعتزل عنی یعنے تو جدا ہو گیا ہے ہم سے اس روز سے
اس فرقہ کا نام معتزلہ مشہور ہوا۔

مُعَالجہ - علاج جو کسی بیماری کا کیا جاے۔
معمورہ - بستی آبادی شہر گانون۔
مَعنی - قصد کیا گیا اور جگہ قصد کرنے کی اور اصل مطلب و مدعا۔
معانی - جمع معنی کی اور نام ایک علم کا جسپر بلاغت کلام منحصر ہے۔
مُعَافی - بضم اول صیغہ اسم فاعل عفو کرنے والا۔
مُعَزّی - بضم میم وفتح عین وکسر زاے مشدد تعزیت کرنے والا ماتم کرنے والا
مُعِزّی - بکسر عین منسوب بمعز کہ نام خدا کے تعالے کا ہے اور نام ایک بادشاہ کا
اور تخلص ایک شاعر کا۔
مُعطی - عطا کرنے والا۔
معلم ثانی - ابو نصر فارابی حکیم جسنے ارسطو کی یونانی کتابون کو عربی مین ترجمہ کیا۔
معدنی - وہ چیز جو کان سے نکلی ہوا ور نام ایک کپڑے سرخ رنگ کا۔
معتنی - بیمار دار اور مہتمم
متعالی - بلند اور بہت اونچا۔
مَعَالی - بلندیان اور اونچائیان۔
معروری - جو برہنہ پشت گھوڑے پر سوار ہو۔
معنوی - باطنی اصلی اندرونی - مولوی - مثنوی مولوی معنوی
ہست قرآن در زبان پہلوی -

	میم با غین معجمہ	

مُغْتَرّا - سرایش سے جسکا پاگیا تعجب کیا گیا۔
مغنیسا - ایک سیاہ رنگ مٹی کا نام ہے جو کوہ کاشان سے لاتے ہین۔
مُغضِب - صاحب غضب غضب دلانے والا۔
مَغضُوب - غضب کیا گیا۔
مَغلُوب - جسپر کوئی غالب ہوا ہو۔
مُغَادَرَت - غدر کرنا بیوفائی کرنا۔
مغفرت - بخشش بنیاہ معاف کرنا - فرید الدین عطار - مغفرت دارد امید
لطف تو ۔ زانکہ خود فرمودہ لا تقنطوا۔
مُغیث - فریادرس۔
مغاشا - ایک دوا لکڑی کا نام ہے۔
مُغمَد - پوشیدہ کیا گیا۔
مَغْفَر - ایک سبزہ کا نام ہے جسکو زعرور بھی کہتے ہین بعضون کے نزدیک خار بیلکون
بادنجان کو بولتے ہین جسکا ہندی مین بیگن اور بتادن نام ہے۔
مغدد - غدود جو گوشت مین ہوتا ہے۔
مِغفَر - خود آہنی جو جنگ کے وقت سپاہی سر پر پہنتا ہے - سعدی - چو باری کرشمہ

مغفر وجوشنم + چو یاری نکر داختر روشنم
مُغِیر۔ غارت کرنے والا۔
مغبر۔ غبار آلودہ و تیرہ رنگ۔
مغرور۔ صاحب غرور متکبر۔ لوحید۔ کجا بفخر قدم بوسیش رسد سرکش +
کہ نیست لائق قرب وصال حق مغرور۔
مغفور۔ بخشا ہوا جسکے گناہ بخشدیے گئے ہون۔
مُغمِز۔ آنکھ اور ابرو سے اشارہ کرنے والا غمازی کرنے والا۔
مغموز۔ متہم و معیوب۔
مغز۔ گودا دماغ کا اور ہڈی کا گودا۔ نورالدین ظہوری۔ ہمہ مغز درپوست
میکاہش + تولی دو ستش دوست میدا رمش۔
مغرس۔ جس جگہ درخت لگائیں۔
مغشوش۔ خیانت کیا گیا اور چیز غیر خالص۔
مغص۔ پیچش شکم و پیچش ناف۔
مغتبط۔ مغبوط۔ محسود جسپر کوئی حسد کرے۔
مغ۔ عمیق و ژرف کنوان تالاب دریا۔
مُغ۔ آتش پرست آگ پوجنے والا۔ سعدی۔ چہ زنار مغ بر میانت چہ
دلق + کہ در پوشی از بہر پندار خلق۔
مغلاغ۔ گیند جس سے لڑکے کھیلتے ہین۔
مغرف۔ ہاتھ سے پانی اٹھانے والا۔
مغلاق۔ زنجیر جس سے دروازہ بند کرین۔
مُغلق۔ بند کیا ہوا دروازہ۔
مغلوق۔ بند کیا ہوا دروازہ۔
مغروق۔ غرق ہوا ہوا۔
مغرق۔ جگمگا چمکول۔
مغاک۔ وہ گڈھا جو زمین میں ہو۔
مغلول۔ غل گردن میں ڈالے ہوے۔
مغزل۔ دوک یعنے تکلا جس سے سوت کاتتے ہین۔
مغول۔ ترکی میں نام ایک قوم تاتاری کا ہی جسکے معنی شریر اور جنگلی کے
ہین سادہ دل بھی اسکے معنی ہین۔
مغسل۔ غسل دینے والا۔
مغسول۔ غسل دیا گیا۔
مغتنم۔ غنیمت جاننا۔
مغموم۔ غمناک اور اندوہگین۔

مغابن۔ بن ران یعنے جہان سے ران شروع ہوتی ہے۔
مغیلان۔ درخت ببول جسکو ہندی مین کیکر کہتے ہین۔
مغبون۔ غبن کیا گیا۔
مغان۔ جمع مغ بہت سے آتش پرست۔
مغلظہ۔ غلیظ اور موٹا اور سخت اور استوار کیا گیا۔
مغلطہ۔ بطاے مہملہ غلطی کا مقام۔ مولوی معنوی۔ باریک شد انجا
سخن ہم می نگنجد در دہن + من مغلطہ خواہم زدن انجا روا باشد وغا۔
مغبوطہ۔ پیچدار بال مجعد زلفین اور حسد کیا گیا۔
مغرہ۔ سرخ رنگ مٹی جسکو ہندی مین گیرو کہتے ہین۔
مغکدہ۔ آتش خانہ آتش پرستون کا۔ میر معزی۔ در مغکدہ گر دفتر مدح
تو بخوانند + بیزار شود ہیربدا ز زند و ز پا زند۔
مغز بیہ۔ مغز و دماغ۔ ادیب صابر۔ بے فکرت تو نور نباشد در آفتاب +
بے نعمت تو مغز نروید در استخوان۔
مغموسہ۔ بادنجان کا سالن۔
مغندرہ۔ مسہ جو آدمی کے جسم پر نکلتا ہے۔
مغالطہ۔ غلطی میں ڈالنا۔
مغنیہ۔ گانے والی عورت مطربہ۔
مغربی۔ جو چیز مغرب زمین کی ہو جیسا کہ زر مغربی وغیرہ۔
مغنی۔ گانے والا امرد مطرب۔
مُغنی۔ بے نیاز کرنے والا یہ اسم خدا کے اسامی گرامی سے ہے۔
مغیری۔ چیلنے والا اور فرح بخش پیدا کرنے والا اور غلہ اننے والا کسی جنگ
مغیری۔ ایک قسم حلوا کا ہی جسمین بادام وغیرہ مغزیات ڈالتے ہین۔
مغشی۔ جسپر غشی کی حالت ہو۔

میم با فا

مفاجا۔ اچانک ناگہان۔
مفاجات۔ اچانک ناگہان۔
مفاخرت۔ فخر کرنا ناز کرنا بزرگی اور ہنر مین۔
مفاوصت۔ بصاد مہملہ باہم راز کہنا مشورہ کرنا بیان کرنا۔
مفاوضات۔ بضاد معجمہ وہ مکتوب جو اعلیٰ ادنے کو لکھین اور مراسلات
جو ادنے اعلیٰ کی طرف تحریر ہون۔
مفردات۔ حروف تہجی جو الگ الگ لکھے جاتے ہین۔ س۔ چون در ابجدت
ز مفردات آمد + وقت مشق مرکبات آمد۔
مفروضات۔ فرض کی ہوئی چیزین اندازہ کی ہوئی۔

مُفت - اسیر و زیر دست و رائگان، اور وہ چیز جو بے محنت و رنج و بغیر قیمت
حاصل ہو جاے - ابوطالب کلیم - شاد ست بخت بد کہ بمفتم زدست داد
کوئی مرا فروختہ یوسف خریدہ است -
مفلوج - جسکو فالج کی بیماری ہو۔
مُفَجَّج - بضم میم و سکون فا و کسر جیم اول خام و پختہ جو چیز پکائی نگئی ہو
مقابل منضج کے -
مُفَرِّح - جس چیز سے فرحت حاصل ہو اور وہ معجون مرکب جو شیرین
و خوش ذائقہ و خوشبو و مقوی دل و جگر ہو۔
مُفَضِّح - رسوا و بدنام کرنے والا -
مفتاح - کلید جس سے قفل کھولتے ہیں اور نام ایک کتاب کا علم معانی میں -
مفاتیح - مفتاح کی جمع ہے -
مُفتَح - جگہ کھولنے کی فتح کا مقام -
مفتوح - کھولا گیا فتح کیا گیا - توحید - در امید بمفتاح لطفِ تو مفتوح
کشادہ از تو بروے زمانہ باب فتوح + شود بفضل تو گلزار نار ابراہیم نجات
یافت ز گرداب آب کشتی نوح -
مُفَسِّخ - اخیر میں خاے معجمہ ایک درد کا نام ہے جس سے بیمار جانتا ہے کہ وہ
عضو پھٹا جاتا ہے جسمیں درد ہوتا ہے -
مَفسوخ - فسخ کیا گیا اگلی صورت بگاڑی گئی یا عہد توڑا گیا -
مفقود - گم کیا گیا نابود کیا گیا - توحید - تو بودی بے شک و ازبیہ چون
نبد وقتے کہ بود بود و نابود + سکتے موجود را کردی تو معدوم + سکتے
مشہور را کردی تو مفقود -
مُفتقِد - گم کیا گیا -
مُفرد - اکیلا تنہا بندہ فرمانبردار -
مُتفکّر - فکر کرنے والا -
مُفتقِر - مفلس و محتاج -
مَفخَر - مصدر میمی فخر کرنا ناز کرنا -
مَفَر - بھاگنے کی جگہ -
مفطور - پیدا کیا گیا پھیلا گیا -
مُفتخِر - فخر کرنے والا شیخی کرنے والا -
مُفسّر - تفسیر کرنے والا بیان کرنے والا -
مُفطِر - روزہ کھولنے والا -
مُفقِر - محتاج کرنے والا -
مفروز - جدا کیا گیا -

مَفاز - پہونچنے کی جگہ -
مفاوز - بہت سے مقامات پہونچنے کے -
مُفلِس - تنگدست نادار آدمی -
مفرش - جس جگہ سونے کے کپڑے رکھیں -
مُفتّش - ڈھونڈھنے والا تفتیش کرنے والا -
مفشوش - سست بے عقل بیہودہ -
مفروض - فرض کیا گیا اندازہ کیا گیا -
مُفَوِّض - بضم میم و کسر واو سپرد کرنے والا اور بفتح واو سپرد کیا گیا -
مُفِیض - فیض پہونچانے والا -
مُفرِط - کثیر اور بہت -
مفرغ - بہ غین معجمہ جاے فراغت اور پانی ڈالنے کی جگہ -
مَفروغ - ریختہ شدہ گرایا گیا -
مُفَرِّق - بضم میم و کسر راے مشدد پراگندہ کرنے والا فرق ڈالنے والا -
مَفرِق - سر کے بالوں میں جو درمیانی خط ہوتا ہے ہندی میں اسکو مانگ کہتے ہیں -
مُفِیق - افاقہ میں لانے والا ہوشیار کرنے والا -
مَفارِق - جمع مفرق سر کی مانگیں چوٹیاں -
مُفارِق - فرق کرنے والا -
مفترق - علیحدہ اور فرق کرنے والا -
مفروق - فرق کیا گیا -
مفلوک - فلک زدہ بدنصیب بدقسمت -
مفکوک - فک کیا گیا جدا کیا گیا -
مفلاک - مفلس نادار تنگدست -
مُفَضِّل - زیادہ کیا گیا بزرگی دیا گیا و بکسر ضاد معجمہ زیادہ کرنے والا -
مَفضول - فضیلت دیا گیا افضل بنایا گیا -
مَفصِل - بہ صاد مہملہ جوڑ کی جگہ اور پیوند کا مقام -
مُفَصَّل - بروزن منور تفصیل کیا گیا -
مَفاصِل - بہت سے جوڑ اور پیوند -
مفتول - سوت کاتا ہوا اور پیچیدہ ڈورا سوت یا ریشم یا کلابتون کا -
مَفعول - فعل کیا گیا کام کیا گیا -
مُفَخَّم - بزرگ کیا گیا عزت دیا گیا سمجھا گیا -
مفہوم - سمجھا گیا -
مفتون - بفتح اول [illegible] سے مفتوح فتنہ برپا کیا گیا
فتنہ ڈالا گیا - فساد اٹھایا گیا -

مفتون - فتنہ ڈالا گیا عاشق و فریفتہ -
مفتنین - فتنہ انداز لوگ -
مفطن - سمجھانے والا فہمایش کرنے والا -
مفلستان - ناداروں و تنگدستوں کی جگہ - ملا فوقی یزدی بزم
عیش زر پرستان سخت بر من تنگ شد خیمہ عشرت ازان در مفلستان میزنم
مفاوضہ - سپرد کرنا شراکت کرنا برابری کرنا و خط و مراسلہ و مکتوب -
مفر غہ - پانی گرنے کی جگہ -
مفردہ - اکیلا تنہا -
مفازہ - رہائی کا مقام فیروزی کی جگہ -
مفارہ - سوراخ موش چوہے کا سوراخ -
مفاصلہ - باہمی فرق -
مفسدہ - فساد و لگا بگاڑ -
مفتری - افترا پرداز کسی پر تہمت کرنے والا بہتان اٹھانے والا -
مفضی - پہونچا یا ہوا مباشرت کرنے والا -
مفتی - فتوے دینے والا -

میم با قاف

مقتدا - پیشوا امام سرگروہ - نعتیہ از مولف - مقتدائے انبیا خیر الورا اعلی
احمد مرسل محمد مصطفی صلی علی -
مقلیا ثا - سریانی زبان میں تخم ترہ تیزک عربی میں جسکو حب الرشاد
بولتے ہیں اور ہندی میں ہالون -
مقلبا - ایک آش کا نام ہے -
مقلونیا - خیار دراز یعنی ککڑی -
مقتضا - چاہا گیا خواہش کیا گیا -
مقتضب - کاٹا گیا اور نام ایک بحر کا نظم کی بحروں سے -
مقرب - نزدیک کیا گیا بزرگی دیا گیا خاص دوست و ہمنشین -
مقلوب - الٹا یا گیا پلٹا یا گیا -
مقنب - وہ کھاتا جسمین بتاسلی ہوئی ہو -
مقیت - توانا روزی دینے والا محافظ و گواہ و حاضر -
مقاومت - برابری کرنا مقابلہ پر آنا -
مقدرت - قدرت و طاقت و توانائی -
مقت - دشمنی و عداوت -
مقتنیات - اسباب و سامان ضروری اور سرمایہ کیا گیا -
مقامات - مراتب و قواعد و حکایات و محاورات اور نام کتابوں کا مثل
مقامات حریری و مقامات بدیعی وغیرہ -
مقاسات - رنج کھینچنا محنت کرنا -
مقالت - گفتگو کرنا -
مقاربت - نزدیکی کرنا مباشرت کرنا -
مقارنت - قرین ہونا نزدیک ہونا -
مقبوح - دور رکھا گیا برا اور زبون -
مقابیح - بہت قباحتیں اور برائیاں -
مقصد - مطلب مقصود اور جائے ارادہ -
مقصود - قصد و ارادہ کیا گیا -
مقاصد - جمع مقصد اور نام ایک کتاب علم کلام میں -
مقام محمود - ایک مقام کا نام ہے مقامات قرب الہی سے جہاں حضرت رسالت
مآب صلے اللہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے اور قیامت کے دن جائینگے -
مقلد - پیروی کرنے والا کسیکے پیچھے چلنے والا -
مقعد - بیٹھنے کی جگہ اور دبر یعنی براز نکلنے کی جگہ -
مقاعد - مقامات نشست -
مقود - بکسر اول اور واو مفتوح ریسمان و پالہنگ -
مقالید - جمع مقلید تالیاں قفل کھولنے کی جسکو فارسی میں کلید کہتے ہیں -
مقر - بفتحتین و تشدید راے جاے قرار -
مقر - بضم اول و کسر ثانی اقرار کرنے والا -
مقشر - پوست اتارا ہوا بروزن منور -
مقامر - قمار کھیلنے والا و حریف -
مقطر - بروزن منور قطرہ قطرہ ٹپکایا گیا -
مقور - بروزن منور قوارہ دار کیا گیا -
مقعر - عمیق چاہ و مغاک -
مقاطر - ٹپکانے والا -
مقصور - کوتاہ کیا گیا کفایت کیا گیا -
مقادیر - اندازے جمع قدر -
مقاہیر - قہر کیے گئے -
مقصر - قصور شمار گنہگار -
مقرر - قرار دیا گیا - جمال الدین سلمان - ہر کہ در کوئے ہوایت می نہد
پائے ہوس - روز اول ترک سر با خود مقرر میکند -
مقابر - مقبرہ کی جمع ہے بہت سی قبریں -
مقتدر - صاحب قدرت و طاقت - زبردست -

مقدار - اندازہ -
مقدور - قدرت کیا گیا طاقت قوت -
مقہور - قہر کیا گیا -
مقر - بفتح اول و سکون دوم ایک گھاس تلخ کا نام ہے جسکا صبر بناتے ہین
مقوقس - ایک طوقدار پرندہ کا نام ہے و لقب حاکم مصر و اسکندریہ
جو نصارا تھا اور مسلمان ہوا تھا -
مقیاس - اندازہ اور وہ آلہ جس سے اندازہ لین -
مقتبس - آگ لینے والا اور روشنی پکڑنے والا -
مقولس - ہر ایک چیز جو ٹیڑھی ہو -
مقناطیس - سنگ آہن ربا چمک پتھر جو مشہور ہے پتھر ہے
مقرنس - عالیشان عمارت و منقش اور پاڑ ہو جسپر معمار بیٹھتے ہین -
مقدس - پاک مرد یا پاک چیز
مقدمۃ الجیش - لشکر کا افسر
مقیش - بروزن مشوش سونے چاندی کے تار جو چوڑے کئے ہوئے ہون -
ملا طغرا - طلا و زیبا ہین مشوخ مل + مقیش گر ریخت زر تار گل -
مقتنص - شکار کرنے والا قید کرنے والا کسب کرنے والا -
مقص - گھوڑے کی اگاڑی جس سے اسکے دونون ہاتھ باندھے جائین اور
وہ رسی جس سے گاے کے دودھ دوھنے کے وقت پاؤن باندھین -
مقبص - گھوڑے باندھنے کی رسی -
مقراض - قینچی کترنی جس سے کوئی چیز کترین - مولف - مگر اسے ستمگر
از دوستان و ام + بخوان القرض مقراض المحبت -
مقرض - جو کپڑے قینچی سے کترے جائین -
مقروض - قرضدار بندہ بیندار -
مقبوض - قبض کیا گیا قبضہ مین لیا گیا -
مقط - قطزن جسپر قلم کو قط لگاتے ہین -
مقرط - گوشوارہ پہنایا گیا زینت دیا گیا -
مقنع - بروزن طمع وہ شخص جسکی بیٹے سے عطائے چاند مصنوعی چاہ نخشب
سے نکالا تھا - وہ بڑا ہوشیار شخص تھا -
مقاطع - اجارہ پر لینے والا و مقام انتہا و اتمام -
مقطع - قطع کرنے والا -
مقطع - قطع کیا گیا کاٹا گیا -
مقطع - کترنی یعنی مقراض اور نام ایک داد کا کشتی میں اور آخری بیت
ہر ایک غزل کا -

مقاطیع - جمع مقطع کی -
مقطوع - قطع کیا گیا -
مقراضک - فنون کشتی مین سے ایک فن کا نام ہے - فوقی یزدی - قدرتم
چون با پسیران زبردستی تہمد + فن مقراضک ہمی بر پوردستان می نہم
مقال - گفتگو کلام باتین -
مقبل - قبول کرنے والا اور صاحب اقبال و دولت و بفتح باے قبول کیا گیا -
مقتل - جاے قتل -
مقاتل - جنگ کرنے والا -
مقل - بفتح اول سخن چینی کرنا مثل ابولنا -
مقل - گوندا ایک درخت کا جسکو گوگل کہتے ہین و فقیر و درویش -
مقل - جمع مقال گفتگوئین وگرز و گوپال -
مقلقل - بیقرار اور شراب -
مقول - زبان آلہ گفتگو -
مقیل - سونا چاشت کا اور وقت چاشت کا -
مقابل - روبرو آنکھون کے سامنے - ظہوری - چو با عارضت دف
مقابل شود + دل ماہ داغ از جلا اجل شود -
مقاتل - لڑنے والا -
مقتول - قتل کیا گیا -
مقام - بفتح و ضم میم کھڑا ہونا اور کھڑے ہونیکی جگہ اور نام ایک پردہ موسیقی کا
صائب - چون تیر تا بہ فتکنم ہیچ جا مقام + بیچارہ رہروی کہ شود ہم سفر مرا -
مقدم - بفتح میم سفر سے واپس آنا قدم رکھنیکا وقت اور جگہ -
مقدم - آگے چلنے والا اور دلیر و رگوشہ آنکھ کا جو ناک کیطرف ہو -
مقدم - پیش کیا گیا اور بکسر دال پیش کرنے والا -
مقسم - جاے تقسیم
مقسم - نراونٹ -
مقتحم - اختیار کرنے والا اور غالب و زبردست و بفتح حا کسی چیز مین ڈالا گیا -
مقوم - بروزن مصور قیمت کرنے والا درست و قائم رکھنے والا -
مقیم - قائم شدہ و ثابت قدم اور پایرجا - حافظ - آنکہ جز کعبہ مقامش
نہ بد از یاد رخت + بر در میکدہ دیدم کہ مقیم افتادست -
مقسوم - قسمت کیا گیا بانٹا گیا -
مقام ابراہیم - کعبہ مین ایک پتھر ہے جسمین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے
قدم مبارک کے نقش منقوش ہین -
مقبرہ - مردہ کی قبر -

مقلقلہ۔ صراحی کی آواز جو شراب نکالنے کے وقت آتی ہے۔
مقاسمہ۔ سوگند کھانا۔
مقلد پیشہ۔ نقال و رقاص۔
مقصورہ۔ چھوٹا حجرہ عبادت کرنے کا۔ سعدی ؎ شنیدم کہ پیسے درآمد زدشت + بمقصورۂ عابدے درگذشت۔
مقابلہ۔ برابری کرنا و روبرو ہونا۔
مقدمہ۔ بکسر دال مشدد آگے چلنے والا اور لشکر پیشرو اور وہ مطلب جو کسی حاکم کے روبرو ظاہر کیا جاے اور بفتح دال پیش رکھا گیا۔
مقنعہ۔ چادر باریک ایک عرض کی۔
مقراضہ۔ ایک قسم دو شاخہ تیر کا اور نام ایک قسم کے حلوے کا۔
مقرعہ۔ تازیانہ چابک گھوڑے کا۔
مقلہ کا سۂ چشم جو سفیدی و سیاہی کے اور ابن مقلہ ایک خوش نویس کا نام ہے جسنے چھ قسم کے خط ایجاد کیے تھے۔
مقارنہ۔ جمع ہونا دو ستارون کا ایک برج مین۔
مقایسہ۔ قیاس کرنا۔
مقدونیہ۔ یونان مین ایک شہر ہے جو اسکندر رومی کا تختگاہ تھا۔
مقاتلہ۔ جنگ لڑائی۔
مقالہ۔ گفتگو کلام تقریر بیان۔
مقدسہ۔ پاک عورت۔
مقفیٰ۔ قافیہ کیا گیا۔
مقری۔ معلم جو لڑکون کو قرآن پڑھائے اور کور مقری وہ قرآن پڑھانے والا جو اندھا ہو۔ سعدی ؎ بیر یقتا سلہ جنبی مکنہ + کور مقری بخوابنی چشم روشن۔
مقتدی۔ پیروی کرنے والا۔
مقتضی۔ تقاضا کرنے والا۔
مقضی۔ تمام کیا گیا گذرا نا گیا۔
مقتفی۔ پیچھے سے آنے والا۔
مقتنی۔ سرمایہ دار اور سرمایہ دینے والا۔
متقنی۔ کار بزکرنے والا۔
مقدمہ نحو زمخشری۔ نام ایک کتاب کا نحو کے علم مین جو جار اللہ زمخشری نے تصنیف کی جو صاحب تفسیر کشاف تھا۔
مقرضی۔ ایک قسم کے حلوے کا نام ہے۔
مقوی۔ قوت دینے والی غذا یا دوا۔
مقی۔ سقے لانے والی چیز

میم با کاف

مکتسب۔ بکسر سین اپنی کوشش سے حاصل کرنے والا۔ اپنے کسب سے پیدا کرنے والا۔
مکتسب۔ بفتح سین حاصل کیا گیا۔
مکبّ۔ بضم اول و کسر کاف منھ پر گرنے والا اور منھ پر گرانے والا۔
مکبّ۔ بفتح کاف منھ پر گرایا گیا۔
مکوکب۔ بضم میم و فتح ہر دو کاف ستارے لگائے گئے۔ روشن کیا گیا کیسی چیز مین چاندی سونے کی میخین لگائی گئین۔
مکعّب۔ چارگوشہ کیا گیا اور عورت نارپستان۔
مکاسب۔ بہت سے کسب اور پیشے۔
مکروب۔ غم و اندوہ کی حالت مین۔
مکاتب۔ وہ غلام جو اپنے مالک کی رضا سے قیمت اپنی اپنی کمائی سے مالک کو ادا کرکے آزاد ہو جاے۔
مکتوب۔ لکھا ہوا خط یا کتاب۔
مکتب۔ تعلیم و تدریس کی جگہ۔
مکونات۔ مخلوقات و موجودات۔
مکنت۔ قدرت و طاقت و تونگری۔
مکاوحت۔ کوشش کرنا۔ دشمنی کرنا گالی دینا۔ بدگوئی کرنا۔
مکرمت۔ بزرگی و نوازش۔
مکاشحت۔ دشمنی کرنا۔
مکیدت۔ بداندیشی و عداوت۔
مکانت۔ مرتبہ و عزت قدر و توقیر۔
مکافات۔ برابر ہونا برابر کھڑا ہونا و پاداش و سزاے اعمال بد۔ سعدی ؎ مکافات موذی بمالش مکن + کہ بیخش بر آورد باید زبن۔
مکالفت۔ رنج و محنت و آزار۔
مکاتبت۔ لکھنا تحریر کرنا۔
مکانات۔ بہت سے مکان۔
مکاہنت۔ کاہن ہونا فال بین ہونا۔
مکث۔ بفتح اول و آخر مین ثاے مثلثہ ٹھہرنا توقف کرنا درنگ کرنا۔
مکث۔ توقف و درنگ۔
مگرمچھ۔ نہنگ جسکو عربی مین تمساح کہتے ہین دریائی جانور مشہور ہے اور مشترک ہندی اور فارسی مین۔ شفیع اثر ؎ گردن شکستہ کہ بہ نسبت وزیر اوست + از پاے تا بسر جو مگرمچھ ہمہ گلوست۔
مکاید۔ جمع مکیدہ بدسگالی و بداندیشی۔

مکید - کید کرنے والا یا مکر و فریب کرنے والا۔
مکثار - کثرت سے بولنے والا بکواسی۔
مکسور - ٹوٹا ہوا اور کسر دیا گیا اور وہ حرف جسپر زیر کی حرکت ہو۔
مکفر - کفارہ دینے والا اور کافر کہنے والا۔
مکرر - بار بار کیا گیا فضول خرچ و فرومایہ - میرزا زکی ندیم - لب قندش مکرر ہا شکستہ + ز شکر خندہا شان عسل را - خان خالص - در چشم کہ با ہمہ بے حاصلے چرا + دنیا بچشم خلق مکرر نمیشود۔
مکر - فریب حیلہ و بہانہ مولوی معنوی - مکر دیگر آن وزیر از خود بہ بست + وعظ را بگذاشت در خلوت نشست۔
مگر - فارسی میں یہ ایک حرف استثنا ہے - نظامی - مگر کا آتشی بر فروزند لعل + در آتش نہند از پے شاہ لعل۔
مکابر - اپنی بزرگی جتلانے کے واسطے بحث کرنے والا۔
مکدر - غبار آلودہ و صاحب کدورت۔
مکنوز - ذخیرہ کیا گیا خزانہ کیا گیا چھپایا گیا امر۔
مکیاز - امرد یعنے بے ریش و حیز و مخنث اور لیشت پا - پانوں کی پیٹھ۔
مکد نیطیس - وامق کے باپ کا نام ہے جو عاشق عذرا کا تھا۔
مکناس - جاروب جس سے مکان صاف کرتے ہیں۔
مکیس - امالہ مکاس کا تنگی و توقف کرنا خرید و فروخت میں۔
مکنس - خس و خاشاک جو جاروب سے جمع کیا جاے۔
مکاس - توقف کرنا کسی جنس کی بیع میں بانتظار اسکی گرانی کے ملا ہاتفی - پذیرفت کالا چو نرخ تمام + مکاس فروشندہ باشد حرام۔
مگس - مکھی جو مشہور جانور ہے اور وہ آہنی دانہ جو بندوق کے لب پر ہوتا ہے اور تفنگچی سر کرنے کے وقت اسپر نظر رکھتا ہے تاکہ نشانہ پر گولی لگے - نعمت خان عالی - مگس چون بہ بندوق گردید راست + بگفتش کہ نغمہ دشمن کجاست۔ سعدی - مگس وار از پیش شکر بجور + براندندی و بازگشتی بفور۔
ملتہف - پناہ ڈھونڈھنے والا۔
مکفوف - لپیٹا ہوا پیراہن اور عروض میں سات حرف والا رکن جسکا آخری حرف گرا دیا جاوے چنانچہ مفاعیلن سے نون گرا دیا تو مفاعیل باقی رہگیا۔
مکشوف - جو بات کشف سے معلوم ہو۔
ملوک - جولاہوں کی نال جس سے کپڑا بنتے ہیں۔
مک - چھوٹا نیزہ جسکا سر دو شاخہ ہوتا ہے فارسی میں اسکو ژوپین بھی کہتے ہیں۔
مگ - پازندی زبان میں درخت خرما یعنے کھجور کا درخت۔
مکبول - بہ باے موحدہ بند کیا گیا قید کیا گیا۔

مکلل - چمکتا ہوا اور شمع اور تاج سر پر رکھا ہوا۔
مکحل - بروزن منور سرمہ سا یعنے وہ آنکھیں جنمیں سرمہ کیا ہوا ہو۔
مکحل - بروزن محکم سرمہ دان جسمیں سرمہ رکھا جاے۔
مکحول - سرمہ کیا گیا۔
مکیل - پیمانہ سے ناپا گیا۔
مکاییل - جمع مکیال کی بہت سے پیمانے۔
مکمل - تمام اور کامل اور پورا۔
مکیال - پیمانہ جس سے غلہ ناپتے ہیں۔
مکل - بفتح اول و ر سی میں زلو یعنے جونک کو کہتے ہیں جو ایک مشہور آبی کرم ہے اور آدمی کا خون چوس لیتا ہے۔
مکارم - جمع مکرمت بزرگیان۔
مکرم - نوازش کرنے والا۔
مکرم - بزرگ کیا گیا گرامی کیا گیا۔
مکتوم - پوشیدہ کیا گیا۔
مکون - پیدا کیا گیا۔
مکان - جگہہ محل سکونت - رہنے کی جگہہ - توحید - شد از نور تجلاے خداوندی جہان روشن + زمین روشن زمان روشن مکین روشن مکان روشن + بوقت گفتگو از نور ذکرش ہر زبان روشن + مصفا جملہ مضمون شستہ تقریر و بیان روشن۔
مکنون - پوشیدہ رکھا گیا سعدی - تو آن در مکنون یک دانہ کہ پیرایہ سلطنت خانہ۔
مکین - مکان دار صاحب مکان - توحید - ہست سرگردان بحکمش مہر وماہ سرنگون شام و سحر چرخ برین + والی ہر ملک و ہر شہر و دیار + مالک ہر یک مکان و ہر مکین۔
مکامن - پوشیدہ جگہہ۔
مکران - ایران کے علاقہ میں یہ ایک مشہور شہر ہے اور اس کے پاس ایک دریا جاری ہے اور ایک پتھر کا اسپر پل باندھا ہوا ہے جو عجائبات روزگار سے ہے بڑا تعجب یہ ہے کہ جو شخص اس پل سے گذرے اسکو قے آجاتی ہے اور وہی شخص اس پل سے گذر جاتا ہے جسکو قے کرنا منظور ہوتا ہے گذرنے والوں نے بہت علاج کیے کہ پل سے گذر کر قے نہ آسکے مگر قے ضرور ہو گئی۔
مکمن - گھات کی جگہہ چھپنے کا مکان۔
مکمون - پوشیدہ چھپا ہوا۔
مکر - جولاہوں کے ایک اوزار کا نام ہے۔

مکابرہ - اپنی بزرگی دوسرے شخص پر ظاہر کرنا۔
مکتسبہ - کسب کیا گیا حاصل کیا گیا۔
مکرعہ - پانی کی مشک۔
مکنسہ - جاروب جس سے مکان صاف کرین۔
مکتب خانہ - لڑکون کے پڑھنے کی جگہ۔ صائب - نامباد آگاہ از ذوق
گرفتاری شوند + میکنم آزاد طفلان را ز مکتب خانہ ہا۔
مکارہ - مکروہات بہت سے رنج اور تکلیفین۔
مکارہ - عورت بہت سے مکر کرنے والی۔
مکاتبہ - آپسمین خط کتابت کرنا۔
مکاشفہ - جنگ کرنا۔ برملا دشمنی کرنا۔ اور ظاہر ہونا اسرار و انوار غیبی کا کسیکو بر
مکروہ - جو امر طبیعت کو ناگوار گذرے۔
مکہ - مشہور شہر ہی جہان کعبہ معظمہ واقع ہی۔ بکہ بھی اسکو کہتے ہین۔
مکرنہ - ایک گھانس کا نام ہی جسکو عربی مین لحیۃ التیس کہتے ہین۔
مکتسی - بضم اول و سین مکسور گودڑی پہننے والا۔
مکاری - خر بندا اور کرایہ دینے والا۔
مکتسبی - حاصل کیا گیا۔
مکفی - کفایت دینے والا۔
مکتفی - کافی اور پسند کرنے والا۔
مکافی - مساوی و برابر۔

میم با لام

ملجا - جگہ پناہ کی بھروسے کا مکان۔ مولف - مکانداری برائے بیکسانان
بہر بیکس تو ئی ملجا سے و ماوا۔
ملا - یعنیتجات ظاہر و آشکارا۔ مولف - نور ذات پاکت اے رب کریم جلوہ
بخشد در خفا و برملا۔
ملا - بضم اول و تشدید لام بھرا ہوا علم و فضل سے بڑا عالم۔
ملتجا - جائے پناہ اور پناہ لینا۔
ملکا - بفتح میم نام ایک مجتہد قوم ترسا کا۔
ملا الاعلی - فرشتگان عالم علوی۔
ملجکا - قصد و ارادہ۔
ملکونا - پازندی زبان مین پادشاہ و فرمان فرما۔
ملوخیا - گل خطمی جو مشہور دوا ہی۔
ملونیا - خیار دراز یعنے ککڑی۔
ملبب - بھرا ہوا لبالب یہ لفظ تراشا ہوا اہل فارس عربی دانونکا ہی۔

ملتہب - جلتی ہوئی آگ۔
ملاعب - بازیین کھیلین۔
ملقب - لقب دیا گیا۔
ملہوب - جلتی ہوئی آگ۔
ملاحت - نمکینی اور سانولا رنگ معشوق کا جو نہایت مطبوع ہوتا ہی۔
ملکت - بادشاہی و فرمان روائی۔
ملکات - جمع ملکہ ہر چیز کے حاصل کرنے کی طاقت و قوت۔
ملاست - نرمی و صفائی و ہمواری۔
ملابست - ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھنا۔ ایک لباس ہونا۔
ملامست - دو چیزون کو آپسمین گھسانا۔ جماع کرنا۔ مباشرت کرنا۔
ملبوسات - بہت سے کپڑے اور لباس۔
ملایمت - نرمی و سازواری۔
ملتفت - التفات کرنے والا۔ متوجہ ہونے والا۔
ملت - دین مذہب طریق روش - توحید - تو ئی محبوب ہر عاشق تو ئی
مطلوب ہر طالب + تو ئی معبود ہر مذہب تو ئی مقصود ہر ملت۔
ملکوت - بادشاہی اور تصرف و عالم فرشتگان اور عالم معنی جسکا نام عالم
ارواح و عالم غیب و مقام عبادت فرشتگان و طاعت بے قصور و بے فتور
ستدی - غم فرزندونان و جامہ و قوت + بازدارد ز سیرت ملکوت۔
ملاقات - آپسمین ملنا۔
ملامت - برا بولنا جھڑکنا چشم نمائی کرنا۔
ملازمت - کسیکے پاس رہنا نزدیک رہنا۔
ملالت - فکر و اندیشہ و دلگیری۔
ملاطفت - مہربانی کرنا۔ نرمی کرنا۔
ملک الموت - موت کا فرشتہ جسکا نام عزرائیل ہی۔
ملوث - آلودہ۔ اور پلیدی سے بھرا ہوا۔
ملخ - اخیر مین جیم فارسی نام ایک گھانس کا ہی جسکے کھانے سے چارپایہ مست
ہوجاتا ہی۔
ملیح - نمکین اور سانولا رنگ مقابل صبیح کے۔
ملح - نمک جو مشہور چیز ہی۔
ملیح - بضم اول و کسر لام مبالغہ کرنے والا۔
ملاح - کشتی چلانے والا نا خدا۔ توحید - خدا بدیدۂ بے نور نوری بخشد
بشاہراہ ہدایت خدا نہد مصباح + نجات کشتی نوح از بلاے طوفان یافت
دران جہاز چو گردید خود خدا ملاح۔

ملواح - وہ جانور جو پنجرے مین ڈالکر دام کے پاس رکھا جاے اسلیئے کہ اسکو
دیکھکر اور جانور بھی آئین -
ملاخ - اخیر مین خاے معجمہ نام ایک شہر کا نیز نام ایک جزیرہ کا - سعدی -
زتاج ملکزادہ در ملاخ + شبے لعل افتاد در سنگ لاخ -
ملیخ - وہ پتھر جو فلاخن مین رکھکر چلاتے ہین -
ملخ - ٹیڑی جو مشہور جانور ہی - سعدی - نہ در کوہ سبزہ نہ در باغ شخ +
ملخ بوستان خوردہ مردم ملخ -
ملحد - بیدین جو بار بار ہو مذہب خدا سے پھرا ہوا -
ملتجا - پناہ کی جگہ -
ملاذ - پناہ کی جگہ بھروسے کا مقام -
ملاذ - بتشدید لام لذیذ چیزین -
ملک عنبر - دکن کے بادشاہون سے ایک بادشاہ کا نام ہی -
ملک نیمروز - رستم جو حاکم سیستان کا تھا اور نیمروز سیستان کے ملک کا نام ہی
ملماز - ملمیز - ایک زردشتی کا نام ہی جس سے زرد کپڑے رنگتے ہین -
ملبوس - لباس جو پہنا جاے -
ملابس - جمع ملبس بہت سی پوشاکین -
ملتبس - پوشیدہ لباس پہنے ہوے -
ملماس - لکھنے کا قلم -
ملخص - پاک کیا گیا خلاصہ کیا گیا مختصر -
ملاط - گارا اور چونہ جو دیوار مین لگایا جاتا ہی -
ملتقط - بضم میم و فتح قاف چنا گیا رفو کیا گیا اور اٹھایا گیا اور بکسر قاف
رفو کرنے والا - اٹھانے والا -
ملحوظ - لحاظ کیا گیا - دیکھا گیا -
ملمع - چمکتا ہوا - اور چاندی یا تانبے کا برتن یا زیور جسپر سونے کا رنگ
چڑھایا جاے - گلٹ کیا ہوا - نظامی - چو گشت آن ملمع قبا جاے او +
بدستی کم آمد ز بالاے او -
ملتاع - بضم میم جلانے والا سوزندہ و مشتاق و حریص و خواہشمند -
ملہوف - اندوہگین و مظلوم -
ملق - بفتح اول و کسر دوم زبان سے چاپلوسی و تملق کرنے والا اور دل سے دشمن -
ملصق - چسپان ہونے والا -
ملحق - پیوست ہونے والا -
ملاصق - جمع ملصق کی -
ملک - بفتحتین فرشتے - جامی - ملک شرمندہ از نادانی خویش + فلک
حیران ز سر گردانی خویش -
ملک - بفتح میم و کسر لام بادشاہ - سعدی - ملک را دل خویشتن راست زد +
کہ دستور ملک اینچنین کس سزد -
ملک - بکسر میم و سکون لام وہ چیز جو کسیکا حق ہو - سعدی - آنچہ در ملکت
بود از ملک و مال + ناگہان آید برا و وقت زوال -
ملک - ولایت - سرزمین - نظامی - ملکشاہ زان داد چوگان بمن + کہ تا
زو کشم ملک بر خویشتن - توحید - مالک و ملک و خداوند جہان + صمد لم
اکبر خدائے لایزال -
ملیک - مالک و خداوند و صاحب -
ملاک - اصل ہر ایک چیز کا جس سے وہ چیز قایم ہو -
ملایک - فرشتے بہت سے - سعدی - ازین کم بارہ عابد فریبے + ملایک
صورتے طاؤس زیبے + کہ بعد از دیدنش صورت نہ بندد + وجود پارسایان را شکیبے
ملوک - بہت سے بادشاہ - سعدی - ملوک از نکونامی اندوختند + ز پیشینگان
سیرت آموختند + تو در سیرت پادشاہی خویش + سبق بردی از پادشاہان پیش -
ملنگ - بروزن پلنگ بیخود و بیہوش - استادیسی - ز جا جست چون
آتشے بیدرنگ + دل از بارہ عشق مست و ملنگ -
ملا جلال - منطق مین ایک کتاب کا نام ہی -
ملل - جمع ملت بہت سے دین اور مذہب -
مل - شراب - حافظ - در حلقہ گل و مل خوش خواند دوش بلبل + ہات الصبوح
هبوا یا ایہا السکارا -
ملال - غم فکر اندیشہ -
ملک الکلام - لقب ملک قمی مصاحب ابراہیم عادل شاہ کا جو مصنف ظہوری کا تھا
ملثوم - بوسہ دیا گیا - چوما گیا -
ملثم - بضم میم و فتح ثاے مثلثہ چوما گیا -
ملتہم - وہ زخم جو اچھا ہو کر اسکے دونون کنارے ملگئے ہون -
ملتثم - بوسہ کی جگہ اور چوما ہوا -
ملحم - ایک ریشمی کپڑے کا نام ہی جو نہایت ملایم ہوتا ہی -
ملتزم - ایک جگہ نزدیک کن یمانی محاذی کعبہ ہی حاجتمند وہان جاکر دعا مانگتے ہین
ملوم - ملامت کیا گیا -
ملازم - حاضر باش و نوکر اور مستعد - سعدی - ملازم بدلداری خاص و عام +
ثنا گوے حق بامدادان و شام -
ملام - ملامت کرنا - اور جگہ ملامت کی -
ملہم - الہام کرنے والا - اور دل مین ڈالنے والا - اور بفتح ہا - سے الہام کیا گیا -

ملائم - نرم و موافق طبع و مناسب۔
ملتقم - لقمہ کھانے والا۔
ملزوم - لازم پکڑا گیا۔
ملوین - دن اور رات۔
ملون - رنگ آمیزی کیا گیا۔
ملقن - تلقین کیا گیا۔
ملعون - لعنت کیا گیا۔
ملاعین - لعنت کیے گئے۔
ملآن - پُر کیا گیا۔
ملتان - ایک مشہور شہر ہے۔
ملکان - خضر علیہ السلام کے باپ کا نام ہے۔
ملتین - بہت نرم۔
ملاطیہ - نام ایک شہر کا ہے روم مین۔
ملتحمہ - آنکھ کا بیرونی طبقہ سات طبقات آنکھوں مین سے۔
ملازہ - وہ گوشت کا ٹکڑا جو حلق مین آویزان ہے ہندی مین اسکو کوا اور کاگ کہتے ہین۔
ملاحظہ - آنکھ کے گوشہ سے دیکھنا۔
ملاطفہ - نیکی کرنا و مکتوب و مراسلہ و خط۔
ملکہ - بفتحات طاقت جو کسی شے کے حاصل کرنے کے لیے انسان کی طبیعت مین ہو جس سے وہ اس کام کو بخوبی حاصل کرے۔
ملکہ - بفتح میم و کسر لام بادشاہ عورت۔
ملاعنہ - لعنتی لوگ پھٹکارے ہوے لوگ۔
ملازادہ - نام ایک کتاب کا ہے جو علم معانی مین ملازادہ نے لکھی ہے۔
ملاحدہ - جمع ملحد بہت سے بیدین۔
ملک شاہ - سلجوقی خاندان مین یہ بادشاہ عظیم الشان تھا اسکا وزیر نظام الملک علم و فضل و سخاوت و شجاعت مین لاثانی تھا۔
ملائکہ - فرشتے۔
ملاعبہ - کھیلنا کھیل کرنا۔
ملعقہ - چمچہ و قاشق اور نام ایک وزن کا۔
ملہی - غافل کرنے والا کھیل مین لگانے والا۔
ملاہی - بہت سی کھیلین - اور بازیان۔
ملک قمی - ملک الشعراے پایہ تخت سلطان ابراہیم عادل شاہ بادشاہ بیجاپور جسنے ظہوری کو لڑکی دی تھی۔
ملتوی - پیچ و پیچ پیچ ہونے والا - اور نام ایک قسم کی حرکت نبض کا ہے۔

ملتانی - منسوب بہ ملتان۔
ملتجی - پناہ ڈھونڈھنے والا التجا کرنے والا۔
ملی - تونگر و مالدار۔
ملاحی - انگور کی ایک قسم کا نام ہے - محسن تاثیر - نقل و شکر و مے و صراحی آ
مفتون و ملامت ملاحی۔
ملاقی - ملاقات کرنے والا ملنے والا۔

میم با میم

ممالکت - بادشاہت سلطنت - سعدی - ترا ممالکت پایداری کند
اگر معدلت دستیاری کند۔
ممات - موت مرگ مرجانا - ؎ گروش گردون دون را کے بود پای
ثبات * در قلیل و در کثیر و در حیات و در ممات۔
مماثلت - مثل ہونا - مانند ہونا۔
ممازجت - اختلاط و ارتباط۔
ممانعت - منع کرنا باز رکھنا۔
ممراضیت - مریض ہونا۔
ممقوت - دشمن پکڑا گیا غضب مین لایا گیا۔
ممایزت - فرق کرنا - جدا کرنا - الگ کرنا۔
ممارات - بفتح اول گذشتہ باتین۔
مُمارات - کسیکے ساتھ جانا - عداوت و لڑائی - و ستیزہ کرنا۔
مماشات - ہمراہی کرنا - ملکر راستہ پر چلنا۔
مماطلت - دفع الوقتی کرنا - فرصت کرنا پیچھے ڈالنا کسی کام کا۔
ممارست - کوشش کرنا - تلاش کرنا - تجربہ کرنا۔
ممزوج - ملا ہوا آمیزش جیسے شیر مین شکر یا شراب مین گلاب - صائب
مے ممزوج را از ظرف بہتر میتوان خوردن * ز چشمش شد فزون تر فیض لعل آبدار او
ممتزج - ملنے والا - ملاپ کرنے والا۔
مملوح - شور - اور نمکین یعنی جسمین نمک ڈالا گیا ہو۔
ممزج - ایک کپڑا قسم کتان سے ہے۔
ممدوح - صفت کیا گیا۔
ممسوح - مسح کیا گیا۔
مماسخ - مسخ کرنے والا صورت بگاڑ دینے والا۔
ممتد - کھینچا گیا - دراز کیا گیا۔
ممہد - بچھایا گیا اور بکسر ہاے ہوز بچھانے والا۔
ممرد - بروزن منور درخشان و سادہ و ہموار

مُمِد - مدد کرنے والا -
مُمَدّد - وہ درد جس سے پٹھے کھنچے جاتے ہین -
مُمکن الوجود - عالم موجودات -
مُمَجَّد - بزرگی دیا گیا - بزرگ کیا گیا -
مَمَر - راستہ گذرگاہ سبب واسطہ -
مُمطِر - برسنے والا -
مُمیِّز - تمیز کرنے والا - جدا کرنے والا - بُرے کو اچھے سے -
ممتاز - جدا کیا گیا - الگ کیا گیا - توحید - خدا نمود بر ولیش در اجابت باز
ہر آنکہ دست دعا پیش حق نمود دراز + بعجز والفت واخلاص وبندگی گرود +
ببندگان خدا بندۂ خدا ممتاز -
مُمَاس - آپس مین گھسایا گیا - فارسی مین بلا تشدید سین مغاک - وزمین پست -
ممشوط - کنگھی کیا گیا -
ممتنع - رد کیا گیا - باز رکھا گیا -
ممنوع - منع کیا گیا - روکا گیا -
ممضوغ - چبایا گیا -
ممالک - بادشاہی مقام جمع مملکت -
مملوک - ملک کیا گیا - غلام بنایا گیا - سعدی - کہ مملوک وے بودم اندر
قدیم + خداوند زر بود واملاک وسیم -
مُمسِک - صاحب امساک تنگدست بخیل کنجوس -
ممالیک - جمع مملوک بہت سے غلام -
مُمَاثِل - مانند ہونے والا -
مُمِل - ملول کرنے والا -
مُمتحِن - امتحان لینے والا آزمائش کرنے والا اور بفتح حاے آزمایا گیا -
ممنون - احسان مند کیا گیا -
ممتہن - ذلیل وخوار کیا گیا - اہانت کیا گیا -
مُمکِن - پیدا ہونے والا - ظاہر ہونے والا -
مِملان - آذربائیجان کے ایک بادشاہ کا نام ہی جو ممدوح حکیم قطران کا تھا -
مَملو - بھرا ہوا پُر کیا ہوا - میر معزی - ایکے خاطر پاک وار د معزی +
بمدح تو مملو بشکر تو محشو -
مُمَوَّہ - سونا چڑھایا گیا ملمع کیا گیا - اور وہ جھوٹ جسکو سچ بنا کر ظاہر کیا جائے -
مِمسحہ - گلمالہ معماروں کا -
مُمضی - گذرا ہوا - روان کیا ہوا -
مُمتلی - پُر یعنے بھرا ہوا -

میم با نون

مِنا - بکسر اول مکہ معظمہ مین ایک بازار کا نام ہی اور قربانی کرنیکا مقام -
مُنا - بضم اول جمع منیہ - امیدین - آرزوئین -
مَنا - بفتح اول مقدار - واندازہ - وبرابر - ومخفف منازل -
مِنسا - عصا ہاتھ کی لکڑی -
مَنشا - جگہ پیدا ہونے کی اور ہونے کی جگہ اور ارادہ - وعزم جو دل سے پیدا ہو
منقلا - وہ فوج جو پیشرو لشکر کی ہو -
مَنشیا - وہ خادم جو آتشکدہ کی خدمات پر آتش پرستون کیطرف سے مامور ہوتا ہے
منسکیا - قمار اور قمار خانہ -
منکوب - صاحب نکبت خراب بدحال - وسختی رسیدہ -
منتخب - چننے اور چھکنے والا - اور بفتح خاے چنا گیا اور برگزیدہ -
مَنکِب - کتف ودوش یعنے مونڈھا -
منجلات - وہ گڑھا جسمین گندا پانی جمع ہوا کرے - سعدی - اگر برکنہ
پر کنند از گلاب + سگے در روے افتد کند منجلاب -
مَناقِب - اوصاف حمیدہ نیک تعریفین - نعتیہ از مولف - وہ عالی منزلت
والا مناقب + رسول اللہ کے اصحاب واحباب -
مَنصِب - قایم ہونے کی جگہ رتبہ وعہدہ جو امرا کو بادشاہ دیتا ہی یہ لفظ
بکسر صاد صحیح ہی اور بفتح صاد غلط -
مُنسکِب - پانی چھڑکنے والا - رونے والا -
منتاب - تائب ہونا کسی کی جگہ کھڑا ہونا -
منتسب - منسوب کرنے والا -
مندوب - وہ لفظ جو کسی مصیبت کیوقت بطور نوحہ کوئی زبان پر لائے -
مَناکِب - جمع منکب بہت سے دوش - اور کتف -
منقلب - واژگون ہونے والا - الٹنے والا - اور بفتح لام واژگون ہونا -
اور التنا - اور جگہ الٹنے کی -
منسحب - کھچ جانے والا -
مناکیب - خراب وبدحال لوگ -
منوب - نیابت کیا گیا -
منشعب - شاخ در شاخ ہونے والا - اور نام ایک کتاب کا صرف کے علم مین
مناسب - منتسب نسبت رکھنے والا لگاؤ رکھنے والا -
منصوب - نصب کیا گیا - لگایا گیا - حرکت زبر کی دیا گیا - کھڑا کیا گیا
منسوب - نسبت کیا گیا -
منتصب - منصب پانے والا - عہدہ پانے والا -

مثقوب ۔ سوراخ کیا گیا نقب لگا یا گیا۔
مناسبت ۔ باہم نسبت رکھنا۔
مناومت ۔ ندیم ہونا ہمنشین ہونا۔
منافرت ۔ حسب و نسب کی بزرگی کے اثبات کے لیے حاکم کے پاس جانا ۔ نفرت کرنا
منعوت ۔ صفت کیا گیا۔
منافات ۔ آپس سے جدا ہونا نفی کرنا اور نقیض و ضدیت جو باہم رات اور دن اور گرمی اور سردی کے ہی۔
منشآت ۔ مسودات ۔ و عبارات و تصنیفات ۔
منیت ۔ آرزو و مقصود۔
منیت ۔ موت و مرگ۔
منقصت ۔ نقصان و عیب۔
منقضت ۔ بضاد معجمہ نقض و شکستگی۔
منحوت ۔ چھیلا ہوا تراشا ہوا۔
منحت ۔ تیشہ اور رندہ ترکھانون کا۔
منحات ۔ تیشہ اور رندہ ترکھانون کا۔
منامات ۔ خوابہا بہت سے خواب۔
منبت ۔ اُگنے کی جگہ پیدا ہونے کی جگہ۔
منہیات ۔ وہ افعال جو شرعاً ممنوع ہین۔
منات ۔ نام ایک بت کا جسکو ہذیل و خزاعہ و قبایل عرب کے پوجتے تھے۔
مولف ۔ شہنشاہ دین سرور کائنات کہ شکستند و پست لات و منات۔
منفعت ۔ نفع و سود ۔ فائدہ۔
منت ۔ نیکی کرنا ۔ احسان کرنا ۔ حافظ ۔ بروے یار نظر کن ز دیدہ منت دار
کہ کار دیدہ ہمہ از سر بصارت کرد۔
مناکحت ۔ نکاح کرنا ۔ سوراخ کرنا۔
منازعت ۔ نزاع و خصومت کرنا۔
منقبت ۔ صفت اور تعریف۔
منزلت ۔ قدر اور رتبہ اور درجہ ۔ میر معزی ۔ سخا را منزلت دادی سخن را
قیمت افزودی + خداوند سخا ورزی ہنر مند سخندانی۔
مناظرات ۔ وہ بحثین جو آپسمین کی جائین۔
مناجات ۔ وہ دعائین جو خدا کی جناب مین کی جائین۔
منبعث ۔ برانگیختہ ہونے والا۔
منطقۃ البروج ۔ بڑا دائرہ آسمانی جسمین بارہ برج واقع ہین۔
منسوج ۔ بنا ہوا کپڑا۔

منتج ۔ نتیجہ دینے والا۔
مندرج ۔ درج کیا گیا۔
مندمج ۔ داخل ہونے والا۔
منہج ۔ کھلا ہوا راستہ۔
مناہج ۔ کھلے ہوے راستے۔
منہاج ۔ راہ راست و کشادہ۔
منسج ۔ بنا ہوا کپڑا وغیرہ۔
منج ۔ بڑی سبز مکھی جو کرم لگتی ہی۔
منضج ۔ بضاد معجمہ پکانے والا پختہ کرنے والا ۔ اور وہ دوا جو مادۂ مفسد کو قابل اخراج کرے۔
منبج ۔ معرب منبنام ایک شہر کا ہی شام مین۔
منفرج ۔ خوش و کشادہ اور سوراخ دار۔
منقح ۔ بضم اول و تشدید قاف مفتوح و حاے حطی پاک کیا گیا۔
منسرح ۔ آسانی و روانی کیا گیا اور نام ایک بحر کا بحور نظم سے۔
منشرح ۔ کھلا ہوا ظاہر ہوا ہوا۔
منفخ ۔ بکسر میم و فتح فاے لوہارون کی کھالین جس سے آگ سلگاتے ہین۔
منفخ ۔ بضم میم و تشدید فاے مکسور وہ چیز جسکے کھانے سے پیٹ مین ہوا پیدا ہو
منسوخ ۔ بیکار و نابود کیا گیا۔
منتسخ ۔ بکسر سین نسخہ لینے والا اور نسخہ پڑھنے والا اور بفتح سین نسخہ لیا گیا ۔ اور رد کیا گیا
مناخ ۔ خوابگاہ و مقام آسودگی۔
منفسخ ۔ فاسد و تباہ۔
منبخ ۔ وہ پتھر جو فلاخن مین رکھکر چلائین۔
منقاد ۔ مطیع و فرمانبردار۔
منعقد ۔ بندھا ہوا۔
منسد ۔ بند ہونے والا۔
من یزید ۔ وہ جنس جسکا کھلا بیعانہ ہو جو خریدار قیمت زیادہ دیوے وہ لیجاوے
منشد ۔ شعر پڑھنے والا۔
منتضد ۔ برگزیدہ اور چیدہ۔
منجمد ۔ جما ہوا پانی یا روغن وغیرہ۔
منتقد ۔ نقد لینے والا۔
منفرد ۔ اکیلا اور تنہا۔
منذد ۔ پردہ پھاڑنے والا اور راز ظاہر کرنے والا۔
مند ۔ صاحب خداوند چنانچہ ارجمند و دولتمند و حاجت مند و دردمند وغیرہ۔

منفذ ۔ راستہ جو جاری ہو ۔
منافذ ۔ بہت سے راستے ۔
منقار ۔ مرغون کی چونچ جس سے دانہ کھاتے ہین ۔ توحید ۔ جو آن واحد شد
از نشت منودار بر شاپن نمود از پردہ دیدار + گشتے مشوق گشت وگاہ عاشق
شد گرد بیدل گاہ دلدار + گہ از گل کرد ظاہر حسن رنگین + گر از سبزہ ہویدا شد
گرا ز خار + گہے در وصف گل بکشاد در باغ + بشکل عندلیب زار منقار ۔
منشار ۔ آرہ جس سے لکڑی چیرتے ہین ۔
منذر ۔ ڈرانے والا اور نام رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم اور بفتح ذال ڈرایا گیا ۔
منظر ۔ مقام نظر آنکھ اور چہرہ انسان کا اور دریچہ جو گھر کی دیوار مین ہو ظہوری
زمین آسمان منظرا ز منظرش + در فتح بر ملک باز از درش ۔
مناظر ۔ جمع منظر بہت سی صورتین اور دریچے اور آنکھین ۔
منخر ۔ بکسر میم و فتح خاے سوراخ بینی ۔
منکر ۔ بضم اول و فتح کاف بد و قبیح و ناشائستہ و نامشروع اور نام ایک فرشتہ کا
دو فرشتون سے جو قبر مین سوال کے واسطے آتے ہین ۔
منکر ۔ بکسر کاف انکار کرنے والا ۔
منجر ۔ کھینچا جانے والا ۔ ظہوری ۔ منجر بکفر نا شود اعتقاد شان + شان
ترا خواص نگویند یا عوام ۔
منار ۔ چراغدان اور بلند جگہ جہان چراغ جلائین اور روشنی کے ستون
اور مسجد ون کے بلند منار جسپر چڑھکر اب اذان کہتے ہین پہلے انپر شاید روشنی
کیجاتی ہوگی اسواسطے انکو منار کہا جاتا ہے ۔
منبر ۔ جسپر مسجد مین امام کھڑا ہوکر خطبہ پڑھتا ہے اور واعظ بیٹھکر وعظ کہتا
ہے میر خسرو ۔ جز قد او ز بالش ہیچ حرفے سر نزد + گوئیا از چوب سروی
بہر واعظ منبر ست ۔
منیر ۔ روشن چمکتا ہوا چمکدار ۔ توحید ۔ حور ز حسن طلعتش پرتو جگون
روشن از نور رخش ماہ منیر ۔
منظور ۔ نظر کیا گیا دیکھا گیا ۔ صائب ۔ ازان ابماے تو خط میتوان
دل برگرفت اما + دل مجروح راحت نمک مجروح میدارد ۔
منشور ۔ پراگندہ ہوا ہوا مشہور ہوا ہوا اور فرمان بادشاہی جو لطف و
عنایت کے مضمون مین ہو ۔ سعدی ۔ گر آلنست منشور فرمان اوست +
ور انیست توقیع فرمان اوست ۔
مناشیر ۔ بہت سے بادشاہی فرمان ۔
منتشر ۔ پراگندہ و پریشان ۔
منابر ۔ منبر کی جمع ہے جسپر کھڑے ہوکر خطیب خطبہ پڑھتا ہے سعدی ۔

اول اردی بہشت ماہ جلالی + بلبل گوینده بر منابر قضبان ۔
مندبور ۔ چوتھا حرف باے موحدہ درمانده و پریشان حال کثرت حرکت اور رفتار سے
منوچہر ۔ نام پسر ایرج پسر فریدون کے پوتے کا بہشت کے چہرے والا ۔
مناصر ۔ یاری دینا ۔ مدد دینا ۔
منکدر ۔ تیرہ و غبار آلودہ ۔
منکسر ۔ توڑنے والا ۔
منصور ۔ فتح دیا گیا اور حسین حلاج کے باپکا نام جو ولی کامل تھا اور مغلوب الحال
ہوکر کلمہ انا الحق زبان پر لایا اور علمانے اسکو صلیب پر چڑھایا لوگ اسکو منصور
کہتے ہین جو مصلوب ہوا حال آنکہ اسکا نام حسین بن منصور تھا ۔
منثور ۔ بہ ثاے مثلثہ وہ موتی جسمین سوراخ نکیا گیا ہوا اور متفرق اور
پراگندہ اور وہ کلام جو منظوم نہو ۔
مناخر ۔ دونون سوراخ ناک کے ۔ سعدی ۔ لیس انکہ دہن شوے و بینی شوے
مناخر بانگشت کوچک بخار ۔
مناخیر ۔ چوبی بینی دروازے کے تختون کی جسپر وقت بند کرنے دروازہ کے
ایک تختہ قایم ہوجاتا ہے اور دوسرا اسکے نیچے رہتا ہے ۔
منحدر ۔ بہ حاے حطی اوپر سے نیچے اترنے والا ۔
منفطر ۔ پھٹ جانے والا ۔
منقر ۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ۔
منقر ۔ بڑا پیالہ شراب پینے کا ۔
منکور ۔ نام ایک پہاڑ کا دشت قبچاق مین اور اسمین ایک چشمہ ہے کہ بہت
تھوڑا پانی اسمین رہتا ہے مگر جسقدر نکالتے جاؤ کم نہین ہوتا ۔
منوہر ۔ دلفریب و خوبصورت آدمی یہ لفظ ہندی ہے ۔
منور ۔ روشن اور چمکتا ہوا ۔
منتہز ۔ فرصت پانے والا غنیمت گننے والا ۔
منغمس ۔ غرق ہوا ہوا ۔ ڈوبا ہوا ۔
مندرس ۔ پرانا اور فرسودہ اور پرانا کپڑا ۔
منکوس ۔ سرنگون و نگونسار ۔
منطمس ۔ نیست اور محو ہونے والا ۔
منگلوس ۔ نام ایک شہر کا ہند مین جسکی نواح مین ہاتھی بہت ہوتے ہین ۔
منش ۔ خوے اور سرشت ۔ کمال اسمعیل ۔ اے زرایت ملک و دین در
نازش و در پرورش + اے شہنشاہ فریدون فر و اسکندر منش ۔
منفاش ۔ بہ فاے موحدہ موچنہ جس سے بال اکھاڑتے ہین ۔ سعید اشرف ۔
گر منافق صفتے موے وجاعت گردد + بہر نتفش و زبانی ست بہ از صد منفاش ۔

منفوش - بہ فائے موحدہ روئی اور ابریشم جو دھنی جائے۔
منجوش - مبدل منجوق ماہچہ علم وہ چاند کی شکل جو علم پر بناتے ہیں۔
منقش - نقش کیا گیا۔
منقوش - نقش کیا گیا۔
مندلیش - نام ایک قلعہ کا خراسان میں۔
مناص - بھاگنا۔ بازپس ہونا۔ اپنے آپ کو بچانا اور بھاگنے کی جگہ۔
منصوص - وہ امر جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔
منغص - تیرہ و غبار آلودہ و ناخوش۔ سعدی۔ منغص بود عیش آن تندرست + کہ باشد بہ پہلوے بیمار سست۔
منغمص - ڈوبا ہوا پانی میں بیٹھا ہوا پانی میں۔
منقوص - ناقص کیا گیا۔
منقرض - مقراض کیا گیا۔ کتر گیا۔ ٹکڑے کیا گیا۔
منخفض - نشیب میں پڑا ہوا پست ہونے والا۔
منقبض - بندھا ہوا قبض میں آیا ہوا۔
مناقض - ایک دوسرے کے مخالف۔
منوط - کسی چیز کے ساتھ وابستہ اور متعلق اور آویختہ۔
منخرط - اطراف تراشکر صفا کیا گیا آراستہ اور درست ہونے والا اور کسی چیز میں داخل ہونے والا۔
منبسط - کشادہ ہونے والا کھنچ جانے والا۔ خوش و خرم ہونے والا۔
منیع - منع کرنے والا محکم و استوار جس میں کسیکی دخالت نہو۔
مناع - منع کرنے والا باز رکھنے والا۔ سعدی۔ چو مناع خیر این حکایت بگفت + ز غیرت بپوشید رازگ بخفت۔
منقلع - اکھڑنے والا۔
منوع - منع کرنے والا۔ باز رکھنے والا۔
منقنع - قناعت کرنے والا۔
منبع - چشمہ پانی وغیرہ کا۔
منابع - بہت سے چشمے۔
منتجع - نیکوکار اور وہ جگہ جہاں پانی اور گھانس ہو۔
منطبع - چھاپا ہوا۔ نقش کیا ہوا۔
منافع - بہت سے فائدے۔
مندفع - دفع ہونے والا۔
منازع - نزاع کرنے والا کھینچ کرنے والا۔
منقطع - قطع ہونے والا۔

منع - باز رکھنا۔
منصبغ - اخیر میں غین معجمہ رنگین ہونے والا۔
منیف - بروزن شریف پاک و بزرگ و بلند و زیادہ۔
منعسف - دور ہونے والا معقولیت کی سمت سے۔
منکشف - کھلنے والا برہنہ ہونے والا۔
منحرف - برگشتہ ہونے والا۔
منعطف - پھرنے والا۔
منصرف - ایک حال سے دوسرے حال میں ہونے والا اور نحو لوگوں کے نزدیک وہ اسم جو کسرہ اور تنوین کو قبول کرے اور غیر منصرف وہ جو کسرہ اور تنوین کو قبول نہ کرے۔
منصف - انصاف کرنے والا آدھا آدھ بانٹ دینے والا۔
منسوج باف - جولاہا۔ زری کا کام کرنے والا۔ سعدی۔ چہ خوش گفت شاگرد منسوج باف + چو عنقا برآورد و پیل و زراف۔
مناف - نفی کرنے والا۔
منجنیق - قلعہ کی دیواروں کو توڑنے کا آلہ جو قدیم زمانہ میں تھا اور وہ ایک بڑا فلاخن ہوتا تھا جس میں بڑے پتھر رکھکر دشمن کی دیواروں پر پھینکتے تھے۔ نظامی۔ خرابیش دائم نہ زین لشکرست + کہ این منجنیق از در دیگرست۔
منجوق - صورت چاند کی جو علم پر نصب کرتے ہیں۔
منشق - شق ہونے والا ٹکڑے ہونے والا۔
منفق - نفقہ دینے والا خرچ دینے والا۔
منخرق - پھٹنے والا۔
منطیق - فصاحت سے کلام کرنے والا۔
منطق - گفتگو کرنا۔ اور نام ایک علم کا۔
منطق - کلام کرنے والا۔
منطوق - سخن و کلام۔
منطبق - مطابق و برابر و موافق آنے والا۔
منافق - وہ شخص جو دل سے دشمن اور زبان سے دوست ہو۔ س۔ ہر کس باشد منافق لعین + مقامش بود اسفل السافلین۔
منفک - جدا ہونے والا۔
[illegible] - [illegible] ہونے والا۔
منہمک - مبالغہ کرنے والا کوشش کرنیوالا۔
مناسک - حاجیوں کی عبادت کے مقامات و اوراد و ارکان حج جو حاجیوں کو ادا کرنے واجب ہوتے ہیں چنانچہ طواف کعبہ اور سعی درمیان صفا و مروہ اور ٹھہرنا عرفات میں و قربانی و احرام وغیرہ۔

مُندرک - پارہ پارہ ٹکڑے ٹکڑے اور ارزانی اور خسارہ اسباب تجارت کا۔
مُنسلک - پرویا جانا - لڑی باندھی جانا۔
مُنہلک - اپنے آپ کو ہلاک مین ڈالنے والا۔
مُندرک - جو رقم خرچ مین پڑ جاوے۔
مَنک - وہ پتلی گھانس جس سے جاروب بناتے ہین۔
منجنک - جست مارنا - اور گہوارہ یعنے مہد اور شہد کی مکھی۔
منجنیک - فلاخن کلان پتھر مارنے کا معرب اسکا منجنیق ہے۔
منفرک - چھوٹا پیالہ شراب پینے کا۔
منگ - ماش جو ایک مشہور غلہ ہے۔
منگک - قمار اور لاف وگزاف۔
مِندل - بروزن صندل وہ خط جو عزایم خوان عزیمت پڑھنے کے وقت اپنے گرد کھینچ لیتے ہین تاکہ موکل عزیمت کے انکو صدمہ نہ پہونچائین - ملا طغرا شعر
چو عازم تسخیر آفتاب رخش + زخط اشک وفا مندل عزایم کن
منزل - جائے نزول و آمدن یعنے اُترنے کی جگہ گھر اور مکان - صائب - بیہزر
بہشت روے من منزل کجا گیرد + کہ از رضوان بہشت جاودان را رونما گیرد
منقل - آتشدان جسپر نقل کے کباب بناتے ہین - سنجر - کہ دردرون شعلہ گہ
شعلہ دردرون + سنجر کہے سمندرم وگاہ منقلم
منہل - چشمہ پانی وغیرہ کا۔
مناہل - جمع منہل کی چشمہ جس سے چارپائے پانی پیتے ہین۔
منزَل - بضم میم وفتح زاے کسی جگہ پر آتارا گیا۔
منازل - جمع منزل کی اُترنے کے مقامات - سعدی - سلاطین عزلت
گدایان حی + منازل شناسان گم کردہ پے۔
مندمل - وہ زخم جو اچھا ہونے کو ہو۔
منجل - درانتی جس سے زراعت کاٹتے ہین۔
منعّل - بضم میم وفتح نون وعین مہملہ مشدد وہ چیز جو نعل کی صورت پر بنی ہوئی ہو
منحل - کشادہ ہونے والا۔
منخل - غربال یعنے چھلنی آٹا چھاننے کی۔
مندیل - دستارچہ جو سر پا کمر پر باندھین یعنی رومال اور وہ کپڑا جو سیا ہوا ہو۔
منحول - وہ شخص جو دوسرے شخص کے شعر کو بلا تغیر الفاظ ومضمون اپنے نام پر چھپے
منوال - وہ لکڑی جسپر جولاہے بنا ہوا کپڑا لپیٹتے جاتے ہین - وطور
و دستور و طریق و طرز۔
منال - کسی چیز کے حاصل کرنے کا موقع ومکان واراضی وملک وجاگیر
وزراعت جس سے فائدہ ہوتا ہو - ذوقی - مکن تکیہ بر ملک ومال ومنال +

گر در یکدم دو ہمہ پایمال۔
منجیل - کاہل وسست وبد اعتقاد۔
منفعل - شرمندہ وخجل۔
منتقل - ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا۔
منگل - بروزن جنگل پاہندی زبان مین چور اور راہزن۔
منفصل - فیصل پائے ہوئے۔
منقول - نقل کیا گیا - مقابل معقول کے۔
مناَم - خوابگاہ سونے کی جگہ - سف - در لحد خسپد چو مرد حق پرست
سر بزدار دو گر بار از منام۔
منعم - دولتمند مالدار آدمی - سعدی - منعم بکوہ ودشت وبیابان غریب نیست
ہر جا کہ رفت خیمہ زد وبارگاہ ساخت
منغام - بہت بخش کرنے والا۔
منتسم - ہوا لینے والا خوشبو حاصل کرنے والا۔
منہزم - جنگ سے بھاگ جانے والا شکست کھانے والا۔
منہدم - گرجانے والا ویران ہونے والا۔
منسجم - پانی یا آنسو جو روان ہو۔
منجم - روشن اور چمکتا ہوا۔
منخرم - ناک کٹی ہوئی اور کان مین سوراخ کیے ہوئے۔
منتقم - انتقام لینے والا عوض لینے والا۔
منتظم - راست اور درست ہونے والا۔
منضم - پیوند ہونے والا ضم ہونے والا۔
مناظم - انتظام کی جگہ بہت سی - اور بہت سے درستی کے مقامات
منتم - سخن چین غماز۔
منعدم - نیست اور نابود ہونے والا۔
منظوم - نظم کیا گیا - پرویا گیا۔
منقسم - تقسیم کیا گیا - بانٹا گیا۔
منقصم - ٹوٹا ہوا ختم کیا گیا۔
منسم - بفتح میم وسکون نون وفتح سین مہملہ ایک خوشبودار گھانس کا نام ہے
منان - نیکی کرنے والا ایک نام اسامی خداوند جل وعلی سے ہے - توجہانی
تو سلطانی تو جہانی تو منانی تو سبحانی + خبر گیر غریبانی بحد رستاچہ د رخسر
منون - زمانہ مرگ وحوادث روزگار
منن - بہت سے احسان جمع منت اور ذوالمنن نام خدا تعالیٰ کا۔
منتن - بدبو اور گندہ چیز

منکبین - ہر دو کتف یعنے مونڈھے -
منخرین - دونوں سوراخ ناک کے -
من - بکسر اول فارسی مین انا اور ہندی مین اسکے معنے ہے -
من - بفتح اول فارسی مین آنکس او کیست اور ہندی مین وہ شخص او
وزن ہی اور وزن چالیس سیر کا اور فارسی مین ضمیر متکلم واحد ہی جو کبھی نا
بھی آجاتا ہی - جامی - بجائے نیل من بودی چہ بودی + زپا بوسش من
آسودمی چہ بودی - جمال الدین سلمان - بادشاہا در بہار دولتت من بینوا
ہستم آن بلبل کہ چون عنقاست مثل من عدیم -
من - بفتح اول و تشدید ثانی نعمت و بنا احسان رکھنا اور ہر ایک شیرین چیز
جو بطور شبنم آسمان سے برستی ہو مثل شیر خشت و ترنجبین وغیرہ -
منہیان - خبر دینے والی -
منتو - ایک قسم کے کھانے کا نام ہی جسکو کیپاے کو جک بھی کہتے ہین اور وہ
دنبہ کی اوجڑی کے ٹکڑون کو آپسمین سیکر اور اسمین چاول و مصالح بھر کر
پکاتے ہین - ملا منیر پر خوار کی ہجو مین - لشود ہیچ سیر از منتو + سخت
بالذ جست منتو -
مندو - ہندوستان مین ایک شہر ہی -
منادمہ - باہمی صحبت او ہمنشینی -
مندف - دُھنی ہوئی روئی اور گالا روئی کا -
مندہ - ارزانی اور خسارہ مال کا -
منصوبہ - بازی نرد سے ساتوین بازی کا نام ہی اور شطرنج اور درستی خوبی
ہر ایک کام کی - ملا طغرا - بر فکری شاہ شاہ را کام دہد + رخ طرح بشطرنجی یا مم
دہد + منصوبہ درین عرصہ کہ چیدست چنین + کز دل برد آرام و دلارام دہد -
منصوریہ - یزد مین ایک جگہ کا نام ہی - محسن تاثیر - از مرقد سروران مشہور
منصوریہ ست دار منصور -
منصہ - ظاہر ہونے کی جگہ اور وہ تخت جسپر عروس کو جلوہ دیتے ہین -
منسفہ - وہ آلہ پنج شاخہ لکڑی کا جس سے غلہ کوفتہ کو بھوسی سے جدا کرتے ہین -
مناظرہ - ایک دوسرے کیطرف دیکھنا صحبت کرنا تقریر کرنا کسی امر مین بحث کرنا -
منطقہ - کمربند جس سے کمر باندھتے ہین ہندی مین پٹکا کہتے ہین -
منکوحہ - نکاح کی ہوئی عورت -
منیژہ - نام دختر افراسیاب جسپر بیژن پسر گیو عاشق تھا اور افراسیاب نے
بیژن کو کنوئین مین بند کر دیا تھا اور رستم نے جا کر چھڑایا تھا -
منارہ - ستون روشنی کا -
منطوقہ - کلام و سخن -

مناصفہ - آدھو آدھ کر دینا -
منقلہ - آتشدان انگیٹھی -
مناحہ - بہ حاے حطی نوحہ کرنا ماتم کرنا اور مقام ماتم اور نوحہ کا -
منزہ - پاک کیا گیا برائی سے دور کیا گیا -
منافسہ - رغبت کرنا کسی چیز مین بطریق مساوات معارضہ کرنا حسد لیجانا -
منبہ - آگاہ و خبردار -
مناقشہ - نزاع کرنا آپسمین جھگڑنا -
مناصلہ - برابری کرنا تیر اندازی مین اور مسافت -
منکسرہ - شکستہ حال ابتر و پریشان -
منتجوسہ - رومی زبان مین سنبل رومی کا نام ہی جو ایک جڑ سپید
خوشبودار ہوتی ہے -
منتہ - چہرہ کا فک اسفل یعنے نچلا جبڑا -
منظومہ - نظم کیا گیا پرویا گیا -
منیہ - آرزو و مطلب و مقصد -
منحنی - خمیدہ و کوز پشت یعنے کبڑا و ضعیف و کمزور و ناتوان -
منطوی - لپیٹا ہوا -
منسی - بھولا ہوا -
منقی - پاک و صاف کیا ہوا -
منافی - نیست و نابود کرنے والا -
منتفی - نیست و نابود ہونے والا -
منفی - نیست و نابود کیا گیا -
منوی - نیت کیا گیا -
مناہی - باز رکھا گیا منع کیا گیا ممنوعات سے -
منی - بہ تشدید یاے تحتانی عربی مین آب پشت یعنے نطفہ -
منی - بہ تخفیف یاے فارسی مین تکبر و غرور - صفدر فوقانی - نفس خودرا
اگر تو انسانی + باز دار از غرور و کبر و منی -
منبلی - بد اعتقادی و منکری و کاہلی -
منہی - خبر دینے والا -
منہی - بفتح میم نہی کیا گیا باز رکھا گیا اور بد و ذبول -
منزوی - ایک طرف ہونے والا او گوشہ نشین -
منجلی - روشن اور آشکار یعنے ظاہر -
منطفی - سرد ہونے والی آگ چراغ گل ہونے والا -
منثنی - بہ ثاے مثلثہ سرنگون و دوتا -

مُنشی - آغاز کرنے والا انشا کرنے والا۔
مُنادِی - ندا کرنے والا آواز دینے والا۔ حکیم شفائی۔ تو بجلوہ چون درآئی
اجل از سر ترحم + ہمہ جا کند منادی پئے احتراز کردن۔
منزلی - مسافت مقدار یک منزل۔ سالک یزدی۔ از ما با سیران چمن باد
بشارت + کز بیضہ بیک منزلے دام رسیدیم۔

میم با واو

مُواسا - یاری کرنا رعایت اور صلح کرنا۔ مولوی معنوی۔ لطف حق با تو
مواساہا کند + چونکہ از حد بگذری رسوا کند۔
موسےٰ - لغوی معنی اسکے استرا اور نام ایک نبی مرسل جنکا کلیم اللہ خطاب تھا
بند از خمسہ نعتیہ از مؤلف۔ تو احمد مختار ہے تو سید ابرار ہے + عالی تری سرکار ہے
اونچا ترا دربار ہے + جمشید خدمتگار ہے دارا وظیفہ خوار ہے + یوسف غلام زار ہے
موسے عصا بردار ہے + عیسےٰ ترا بیمار ہے گھر ہی ترا دار الشفا +
مَولےٰ - آزاد کرنے والا اور غلام یاری دینے والا اور صاحب۔ سعدی۔ چہ نامے
کہ مولائے نام تو ام + درم ناخریدہ غلام تو ام۔
موصیٰ - وصیت کیا گیا۔
موفا - وفا کیا گیا و تمام و کمال۔
موتےٰ - مرے ہوئے لوگ۔
موش خرما - گلہری جو ایک مشہور جانور ہے۔ ملا طغرا۔ موش خرما بدل
جمع ناز دبر نخل + گر ببیند زلیس مرطرفش کردہ کمین۔
مومیا - مومیائی مشہور دوا ہے۔ عرفی۔ گرت امید درست ست خویش را
بشکن + کہ مومیائے آدم شکستگی باشد۔
موجب - بکسر جیم لازم کرنے والا۔
مواجب - وجہ معین جو ہر مہینے نوکروں کو دیتے ہیں۔ میر خسرو شیراز
بخشش شود گرچہ مواجب جدا گست ہنے کس آید فراہم ہیچ نے لو تم
موکب - بادشاہ کی اردلی کے سوار جو سواری کیوقت ہمراہ ہوں۔ میر خسرو
در لغت۔ بموکب وارلیش ما موس اکبر + خرامان گشتہ چون طاؤس الور۔
مواکب - جمع موکب۔
مُؤدِّب - بضم اول و کسر دال ادب سکھلانے والا۔
مُؤدَّب - بفتح دال ادب دیا گیا۔
مُواظبت - ضبط میں رکھنا ہمیشہ ایک کام کرتے رہنا۔
موالات - دوستی و پیوستگی اور پے در پے کرنا کسی کام کو۔
مواسات - یاری و غمخواری کرنا۔
مواصلت - ملنا۔ وصل کرنا۔

مَوات - جسم بیجان اور زمین خشک۔
موت - مرجانا۔ فوت ہوجانا۔ سعدی۔ گزیند فرزانگان است فوت
کردرطب نبرند داروے موت۔
مُواخات - برادری کرنا بھائی بننا۔
مودّت - دوستی کرنا۔ پیار کرنا۔
موہبت - بخشش کرنا ہبہ کرنا۔
مواطات - موافقت کرنا۔
موعظت - وعظ کہنا اور نصیحت کرنا۔
موزات - مقابلہ کرنا برابری کرنا۔
موشگافی - باریک بینی گرانی۔
مُوازرت - بتقدیم زائے معجمہ بر رائے مہملہ وزارت کرنا وزیر ہونا۔
مُوادعت - وداع کرنا۔
موثرات - اثر کرنے والی چیزیں۔
موامرت - مشورہ کرنا تجویز سوچنا۔
موافقت - موافق ہونا متفق ہونا۔
موالفت - الفت کرنا۔
موانست - انس کرنا۔
موجودات - خدا کی مخلوقات۔
مواریث - میراث کی جمع۔
مُورِث - میراث پہونچانے والا۔
مُورِث - اٹھانے والا۔ روشن کرنے والا مشتعل کرنے والا۔
مَورُوث - ورثہ کیا گیا۔
مؤنث - عورت مقابل مذکر کے۔
موج - دریا کا جوش اور لہر۔ ابو طالب کلیم۔ درین دریائے بے ساحل
کلیم از من چہ می آید + کنارا فتادہ اینجا بازوے موج از شنا کردن۔
مواج - موجیں مارتا ہوا۔ توحید۔ بچار سوے جہان ابر رحمتش بارد
بشرق و غرب زمین بحر قدرتش مواج۔
موشح - زیور پہنایا گیا آراستہ کیا گیا۔
مورخ - تاریخ جاننے والا۔
مَولِد - بفتح اول جائے ولادت پیدا ہونے کی جگہ۔
مُولِّد - بضم اول و فتح ثانی و تشدید لام مکسور پیدا کرنے والا۔ جلانے والا
مُولَّد - بفتح لام مشدد دو غمزہ آدمی اپنے جنس شخص کی ماں جنبش کی ہو اور باپ عرب کا
مورود - ورد کیا گیا۔ وظیفہ کیا گیا۔ وارد کیا گیا۔

مَولُود - بچہ جو ماںکے پیٹ سے پیدا ہوا ہو نر ہو یا مادہ لڑکا ہو یا لڑکی۔
موالید - جمع مولود بہت سے فرزند اور نباتات وجمادات وحیوانات۔
مَوعِد - وعدہ کرنا اور جگہ وعدہ کرنے کی۔
مواعید - جمع میعاد کی وعدہ کرنا جگہ وعدہ کی اور زمانہ وعدہ کا۔
موعود - وعدہ کیا گیا۔
مودود - دوست رکھا گیا۔
مواجید - حالتین اور ذوقین جو صوفی کرتے ہین جمع وجد خلاف قیاس۔
مُوجِد - پیدا کرنے والا۔
موجود - جو ہر وقت آنکھ کے روبرو ہو - توحید - دران زمان کہ بند کا نقد و
قلم موجود + بلوح قدرت حق بود ہر رقم موجود + چرا نہ عاشق حق پیش بت کند
سجدہ + کہ ہست جلوہ حسنش بہر صنم موجود۔
مُوبِد - حکیم ودانشمند ملت آتش پرستان اور ترکی مین [illegible]۔
مواد - اصل ہر چیز کا اور مادہ۔
موائد - جمع مائدہ بہت سے خوانچے۔
موکد - بفتح کاف مشدد تاکید کیا گیا۔
مَورِد - بفتح میم وکسر راے وہ جگہ جس سے آدمی اور چار پائے پانی پیئین اور
جس جگہ مسافر اُترین اور نام ایک درخت خوشبو کا جسکو فارسی مین اسمار کہتے
ہین - شاعر در تعریف کند + چو زلف دلبران مورد گیسو تاب خوردہ + چو عہد
دوستان سالخوردہ استوار۔
مُوفُور - زیادہ کیا گیا - وافر کیا گیا
موسیقار - نام ایک ساز کا ہی اور نام ایک پرندے کا ہی کہ اُسکی چونچ مین
سوراخ بہت ہین جب بولتا ہی تو طرح طرح کے راگ اُس سے نکلتے ہین۔
مؤثر - تاثیر کرنے والا یا اثیار کرنے والا۔
موسِر - صاحب یسر - دولتمند مالدار۔
مُؤتمِر - فرمانبردار اور مشورت کرنے والا۔
مُؤخر - آنکھ کا گوشہ جو کان کی طرف ہی۔
مُوَفِّر - بکسر فاے مشدد زیادہ کرنے والا اور بفتح فاے زیادہ کیا گیا۔
موش کور - شبپر جو مشہور جانور ہی۔
مور - چیونٹی جو مشہور ہی - سعدی - مہیا کن روزی مار و مور + اگر
چند بے دست و پا اند و زور۔
مُوجَز - بزاے معجمہ کوتاہ ومختصر اور نام ایک کتاب کا طب کے علم مین۔
مُوز - مشہور درخت ہی جسکے میوے کو کیلا کہتے ہین۔
مَوِیز - انگور کی ایک قسم کا نام ہی جسکو خشک کرکے رکھ چھوڑتے ہین دوا مین مستعمل ہی

مونس - دوست ہمنشین۔
مُؤسِّس - بنیاد رکھنے والا استوار کرنے والا۔
مُوحِش - بروزن مصور وحشت دینے والا۔
مورش - کانچ کی باریک پوت جسکی لڑیان بروکر عورتین پہونچیان
اور گوشوارہ بناتی ہین۔
موکش - درنگ وتوقف جو کسی کام مین کیجاے۔
موش - چوہا جو مشہور جانور ہی عربی مین اسکو فار کہتے ہین۔
مواعظ - بہت سے وعظ اور نصیحتین۔
مَوقِع - واقع ہونے کی جگہ گرنے کی جگہ۔
مُوَقَّع - بتشدید قاف توقیع کیا گیا - بلند کیا گیا۔
مواقع - جمع موقع کی۔
[illegible]
مُوَدِّع - وداع کرنے والا رخصت کرنے والا۔
مُوَزِّع - پراگندہ کرنے والا۔
مولع - حریص کیا گیا۔
موضع - جگہ مکان گھر وغیرہ۔
موضوع - بنایا گیا۔
مونغ - گبر یعنے آتش پرست جسکو مغ بھی کہتے ہین۔
مُوقِف - کھڑے ہونے کی جگہ اور میدان - عرفات جس جگہ حاجی جاکر ٹھہرتے ہین
مَواقِف - مقام ٹھہرنے کی جمع موقف کی۔
مولِف - الفت دینے والا اور جمع کرنے والا متفرق چیزون کا اور بفتح
لام مشدد جمع کیا گیا۔
مُوَظِّف - بکسر ظاے وظیفہ کرنے والا - اور وظیفہ دینے والا۔
مُوَصَّف - صفت کیا گیا۔
موقوف - ٹھہرایا گیا - توحید - بے معالجہ درد دل لصاحب درد + دہ
طبیب نہ معجون نہ شربت ونہ سفوف + کہ ہست داروے دردش درین
شفاخانہ + بوصل حضرت محبوب ہر زبان موقوف۔
موتلف - خو پکڑا گیا - الفت پکڑا گیا۔
موفق - توفیق دینے والا۔
موثق - محکم ومضبوط۔
مواثیق - جمع میثاق وہ عہد جو مضبوط ہون۔
موق - آنکھ کا گوشہ جو ناک کی طرف ہو۔
مولفک - موڑنے والا - الٹاے جانے والا سرنگون کیئے جانے والا۔

موشک ۔ ایک جانور چوہے کی قسم سے ہے جسکو چھچھوندر کہتے ہیں نیز نام ایک قسم کی آتشبازی کا ۔ ملا طغرا ۔ چو موشک واکند آہم ز آتشبازی شوق بود در دست مژگان ہر طرف مہتابی اشکم ۔
موک ۔ مطلق نیش عقرب کا نیش ہو یا کسی اور زہریلے جانور کا ۔
مونرک ۔ ایک قسم کا پھل ہے جو مصر میں پیدا ہوتا ہے ۔
موصل ۔ بفتح میم وکسر صاد نام ایک شہر کا عراق کے ملک میں ۔
مُوصل ۔ بضم میم وکسر صاد وصل کرنے والا و بفتح صاد وصل کیا گیا ۔
مورچال ۔ مورچل ۔ وہ مورچے جو واسطے جنگ اہل قلعہ کے اسکی نواح میں بناکر دشمن سے لڑتے ہیں ۔
مؤمل ۔ امیدوار ۔
مؤجل ۔ مہلت دیا گیا ۔ وقت بڑھایا گیا ۔
مؤکل ۔ جسکے سپرد کاروبار ہوں ۔ و بکسر کاف سپرد کرنے والا ۔
مُول ۔ عورت کا معشوق رہنا اور ٹھہرنا اور ناز و غمزہ اور حرامزادہ آدمی اور عربی میں عنکبوت و مال و سامان ۔
مُوہم ۔ وہم اور غلطی میں ڈالنے والا ۔
موسوم ۔ نام رکھا گیا نشان کیا گیا ۔ توحید ۔ کبیر ست و بصیر ست و قدیر ست توانا و قدیم و حی قیوم + بہر وصف است آن خلاق موصوف + بہر اسم ست ذات پاک موسوم ۔
مؤلم ۔ دردمند کرنے والا ۔
مُوثم ۔ گنہگار و مجرم ۔
موسم ۔ وقت اور موقع اور زمانہ اور بہار ۔
موم ۔ مشہور چیز ہے جو شہد سے نکلتی ہے ۔ قطعہ از مؤلف صلح کن با نیک و بد اے مرد دین + در جہان رنگین بہر یک رنگ باش + موم شو با ہر کہ باشد موم دل + سنگ باشد ہر کہ با او سنگ باش ۔
موطن ۔ جائے وطن سکونت کی جگہ ۔
موازین ۔ جمع میزان بہت سے ترازو ۔
موتمن ۔ امانت دار ۔
موقن ۔ یقین کرنے والا ۔
موذن ۔ بانگ نماز کہنے والا ۔ سعدی ۔ موذن بانگ بے ہنگام برداشت + نمیداند کہ چند از شب گذشت ست + درازی شب از مژگان من پرس + کہ یکدم خواب در چشمم نگشت ست ۔
موزون ۔ وزن کیا ہوا نہایت درست ۔ میر خسرو ۔ بخرمنہا شکر سنجید ترازو + لبت چون خندہ موزون نماید ۔

موجان ۔ خواب آلودہ آنکھیں ۔
موران ۔ جنگلی گاجر جسکو زردک بھی کہتے ہیں ۔
مورجان ۔ فارس میں ایک پہاڑ کا نام ہے اسمیں ایک غار ہے اور چشمہ چشمہ سے اسیقدر پانی نکلتا ہے جسقدر مطلوب ہو یعنے ایک آدمی کو پینا ہو تو ایک آدمی کی مقدار اور اگر سو آدمی کو پینا ہو تو سو کی مقدار نکلتا ہے زیادہ ایک قطرہ نہیں نکلتا ۔
موزان ۔ نرگس کا پھول جو نیم شگفتہ ہو ۔
مولیان ۔ نام ایک نہر کا ہے بخارا میں ۔ استاد رودکی ۔ یاد جوے مولیان آید ہمی + یاد یار مہربان آید ہمی ۔
مُو ۔ بال سر اور ڈاڑھی وغیرہ کے ۔ جامی ۔ اگر ہر موے من گردد زبانے + ز تو رانم بہر یک داستانی ۔
مَو ۔ بلی کی آواز اور بلی مشہور جانور ہے جسکو فارسی میں گربہ اور عربی میں سنور کہتے ہیں اور یونانی زبان میں نام ایک دوا کا ہے جو ایک گھانس کی جڑ ہے ۔
مولو ۔ ہرن یا کسی اور جانور کا سینگ جو اندر سے پولا ہوتا ہے اور جوگی اور قلندر اسکو بجاتے ہیں ناقوس کو بھی مولو کہتے ہیں ۔
موسیچہ ۔ ایک مرغ سفید قمری کے برابر ہوتا ہے بعض صوفیہ یعنے مولا کو سیچہ کہتے ہیں ۔
مُوازنہ ۔ کسیکے ساتھ ہم وزن ہونا ۔
موقنہ ۔ صاحب یقین عورت ۔
مودعہ ۔ سونپا گیا ۔
موافعہ ۔ بضاد معجمہ باہم شرکت کرنا ۔
مومی الیہ ۔ جسکی طرف ایما ہو ۔
مواجہ ۔ روبرو ہونا مقابل ہونا ۔ مسعود سعید سلمان ۔ اگر مواجہ آید عداوت نشناسی + کہ ہیچ وقت ندیدی از او مگر کہ قفا ۔
موجہ ۔ خوب و پسندیدہ اور وہ شخص جسکی طرف متوجہ کیا جاے ۔
موچینہ ۔ بال نکالنے کا اوزار جو نائی رکھتے ہیں ۔
موالید ثلاثہ ۔ جمادات ۔ حیوانات ۔ نباتات ۔
موادعہ ۔ وداع کرنا ۔
مُولہ ۔ شیفتہ و عاشق و دیوانہ اور نام ایک قسم کے بید کا جسکو بید مجنون کہتے ہیں ۔
مواخذہ ۔ پکڑنا گرفت کرنا ۔
موینہ ۔ پوستین ۔
مورچانہ ۔ وہ زنگ جو لوہے کو لگ جاتا ہے ۔ سعدی ۔ آہنے را کہ مورچانہ بخورد + نتوان برد ازو بصیقل زنگ ۔
مورچہ ۔ بہت چھوٹی چیونٹی ۔

موبانہ ۔ مورچانہ جو لوہے کو لگ جاتا ہی۔
موزہ ۔ ایک قسم کی جوتی کا نام ہی۔
موژہ ۔ غم واندوہ و مصیبت۔
موسنہ ۔ زنبور جو نیشدار جانور ہی۔
موکدہ ۔ تاکید کیا گیا۔
مونہ ۔ ہر ایک چیز کی طبعی خاصیت مثلاً آگ کی خاصیت حرارت اور ہوا کی خاصیت برودت اور پانی کی رطوبت اور مٹی کی خاصیت یبوست۔
مولوی ۔ صاحب مالک و مخدوم۔
مواشی ۔ بہت چلنے والا جانور اور چارپایہ۔
موذی ۔ پہونچانے والا ادا کرنے والا۔
موری ۔ پانی کا بدرو اور لوٹے کی ٹونٹی۔
موازی ۔ مقابل اور محاذی یعنی روبرو۔
موالی ۔ بہت سے دوست اور بہت سے صاحب جمع مولے کی۔
مومیائی ۔ مشہور دوا ہی جو شکستہ عضو آدمی کو کھلاتے ہین ایک کانی اور دوسری مصنوعی ہوتی ہی۔
موسیقی ۔ راگ کا علم گانے کا طرق۔
موئی ۔ بال جو مشہور چیز ہی۔ حافظ ۔ از عنبر و بنفشہ تر بر سر آمدست آن موے مشکبار کہ در پاے ہشتہ۔
موذی ۔ ایذا دینے والا تکلیف پہونچانے والا۔ سعدی ۔ سخن آخر بدہان میگذرد موذی را سخنش تلخ نخواہی دہنش شیرین کن۔
موروثی ۔ جو بات باپ دادے سے چلی آتی ہو۔

میم با ہاے

مہرگیا ۔ ایک گھاس کا نام ہی اسکی جڑ کی شکل انسان کی سی ہوتی ہی جو کوئی اس جڑ کو اپنے پاس رکھے خلق خدا اسپر مہربان رہتی ہی ہندی مین اسکو لکھمنی اور موہنی کہتے ہین۔ صائب ۔ ہر چند خط تو افزود مرا مہر فزود سبزہ خط تو و مہرگیا ہر دو یکے ست۔
مہنا ۔ گوارا اور ہاضم و خوش مزا۔ میر معزی ۔ دین پیغمبر بجمال تو مزین اے ملک شہنشہ بجمال تو مہنا۔
مہیا ۔ حاظر و موجود و آمادہ۔ سعدی ۔ مہیا کن روزی مار و مور ہ گر چند بیدست و پا اند و زور۔
مہرا ۔ بخوبی پختہ ہوا ہوا۔
مہر شفا ۔ تپ کا تعویذ یا گنڈا جو بیمار کے گلے مین باندھتے ہین۔
مہرب سگریز گاہ بھاگنے کی جگہ۔

مہروب ۔ بھاگا ہوا۔
مہیب ۔ وہ چیز جس سے انسان کو ہیبت معلوم ہو اور خوف پیدا ہو یہ لفظ بفتح میم صحیح ہی اور بضم میم غلط۔
مہذب ۔ بکسر ذال پاک۔
مہذب ۔ بفتح ذال پاک کیا گیا اور نام ایک کتاب کا۔
مہب ۔ جگہ ہوا کے چلنے کی۔
مہتاب ۔ چاند کی روشنی یعنی چاندنی۔ سعید اشرف ۔ فیض پیران چو نو جوانان نبود مہتاب و ہلال و بدر یکسان نبود۔
مہراب ۔ کابل کے بادشاہ کا نام ہی جسکی لڑکی کے پیٹ سے رستم نامور پہلوان پیدا ہوا۔
مہتاب ۔ تھوڑا تھوڑی صورت خوفناک [illegible]
مہارت ۔ استواری و چالاکی و [illegible] اور واقفیت جو کسی کام مین ہو۔
مہابت ۔ بیم و ترس ہیبت و بزرگی و شان و شکوہ اور تاتاری مغل قبیلہ انکو مہابت کہتے ہین۔ محمد قلی سلیم ۔ صحبت با خلایق جمع چون گرد دبلا باشد مہابت پیش فیلے راکہ از زنجیر مے آید۔
مہلت ۔ درنگ و توقف و آہستگی۔ میر معزی ۔ چرخ نگذارد کہ در مقصود تو مہلت رود بخت نپسندد کہ باشی مدتے در انتظار۔
مہت ۔ سنگین اور گران۔
مہاجرت ۔ ہجرت کرنا وطن چھوڑنا۔
مہیج ۔ اٹھانے والا اور غبار اٹھانے والا۔
مہجہ ۔ جان اور روح جمع مہج۔
مہند ۔ وہ تلوار جو ساخت ہند کی ہو۔
مہد ۔ گہوارہ و تخت و خوابگاہ عروس مثلاً چھپر کھٹ وغیرہ۔ سعدی ۔ چو دیرینہ روزی برآورد عہد جوان دولتے سر برآرد ز مہد۔
مہاد ۔ خوشی کا فرش جو کسی نیک موقع مین بچھایا جاے۔
مہ آباد ۔ نام ایک شخص کا جس نے عجم مین دعوے پیغمبری کا کیا اور ایک کتاب پیش کی اور کہا کہ مجھکو آسمان سے اتری ہی نام اس کتاب کا دساتیر تھا۔
مہشید ۔ چاند کی روشنی جیسے کہ خورشید ہی۔
مہتر ۔ قوم کا سرگروہ بزرگ آدمی۔
مہونڈر ۔ نام ایک جگہ کا ہندوستان مین جس جگہ سے نمک سفید نکلتا ہی۔
مہذار ۔ بیہودہ گو۔
مہاجر ۔ ہجرت کرنے والا وطن چھوڑنے والا اور وہ لوگ جنھون نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ چھوڑا اور مدینہ مین سکونت اختیار کی۔

مِہر ۔ بکسر اول محبت اور آفتاب جہان تاب ۔ توحید ۔ کند طواف در بارگاہ
شام و پگاہ + باوج چرخ گہے مہر گاہ نیر ماہ ۔
مُہر ۔ بضم اول نگینہ انگشتری کا جسپر کسیکا نام کندہ ہو ۔ محمد سعید اشرف ۔
زداغ بندگی مرتضےٰ علی اشرف + بمہر شاہ رسانیدہ محضر خود را ۔
مَہر ۔ بفتح اول زر کابین جو عورت کو مرد نکاح کیوقت دیتا یا مقرر کرتا ہی ۔
مہار ۔ وہ چھوٹی سی لکڑی جو اونٹ کی ناک مین دیجاتی ہی جو بجاے
لگام کے ہوتی ہی ۔ سعدی ۔ بلفت اربدست منست مہار + ندیدکسم بارکش در قطار
مہجور ۔ جدا ہوا ہوا الگ ہوا ہوا ۔ حکیم انور لاہوری ۔ چو جانان از رگ
جان ست نزدیک + چرا انسان بود محروم و مہجور ۔
مہتر ۔ سردار سر گروہ مقدم ۔ ولہ ۔ سرنگون بر آستان یار شو + در سرا
تا مہتر و بہتر شوی ۔
مہور ۔ ایک سپید پتھر کا نام ہی اگر اسکو گھس کر مصروع کو پلائین تو صرع
کی بیماری دفع ہو جاے نیز نام ایک گھانس کا ہی جو دوا مین مستعمل ہی ۔
مہیر ۔ پازندی زبانمین چاند جسکو عربی مین قمر کہتے ہین ۔
مہموز ۔ معیوب عیبدار اور وہ کلمہ جسکا ایک اصلی حرف ہمزہ ہو ۔
مہماز ۔ مہمیز ۔ وہ لوہا جو سوار کے جوتے کی ایڑی کے ساتھ لگا یا جاے اور
اس سے گھوڑے کو ہانکین ۔ ملا ہاتفی ۔ گران شد رکاب و سبک شد عنان
فرس خورد مہمیز و دشمن سنان ۔
مہندس ۔ جو علم ہندسہ و اشکال کا عالم ہو ۔ اندازہ کرنے والا ۔ نظامی ۔
مہندس لبے جو ید از راز شان + نداند کہ چون کردی آغاز شان ۔
مہراس ۔ نام پدر الیاس پیغمبر علیہ السلام اور ہاون جسمین ہر ایک چیز کوٹتے
ہین چوبی ہو یا آہنی یا برنجی اور وہ پتھر جو اندر سے پولا ہو ۔
مہبط ۔ اترنے کا مقام ۔ نازل ہونے کی جگہ ۔ سعدی ۔ امام رسل پیشواے
سبیل + امین خدا مہبط جبرئیل ۔
مُہَجِّع ۔ بضم اول و کسر جیم سونے والا نیند کرنے والا ۔
مَہجَع ۔ بفتح اول و فتح جیم خوابگاہ ۔
مُہلِک ۔ ہلاک کر دینے والی بیماری ۔
مہالک ۔ ہلاک ہونے کے مقامات ۔
مہتوک ۔ وہ شخص جو مر چکا ہو یعنے مردہ مقابل زندہ کے اور عربی مین
ہتک کیا گیا اور بے پردہ ۔
مُہَک ۔ وہ درخت جسکو سوس کہتے ہین در اصل السوس اسکی جڑ ہی ۔
مُہَلِّل ۔ تہلیل کرنے والا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ۔
مَہبِل ۔ عورت کی شرمگاہ کا سوراخ اور دہان فرج ۔

مُہمَل ۔ بضم میم اول و فتح میم ثانی چھوڑ دیا گیا متروک و بیکار کیا گیا ۔
مَہُول ۔ خوفناک جس سے ڈر معلوم ہو ۔
مَہبَل ۔ خوف کی جگہ ۔
مَہَل ۔ بفتحتین آہستگی و توقف و درنگ ۔
مُہل ۔ بضم اول مس گداختہ گلا یا ہوا تانبا اور بفتح اول و کسر ہاے صیغہ نہی
فارسی مین جسکے معنے ہین مگذار اور ہندی مین چھوڑ ۔
مَہَلہَل ۔ بفتح میم و فتح ہر دو ہاے ہوز وہ شخص جسکو زہر ہلاہل دیا گیا ہو ۔
مہایل ۔ پہلوی لین افیون جسکو تریاک بھی کہتے ہین ۔
مَہزول ۔ لاغر اور دبلا ۔
مہموم ۔ غمگین اور اندوہناک ۔
مَہَام ۔ جمع مہم بہت سی مہمین ۔
مہم ۔ امر عظیم اور سخت کام ۔
مہدوم ۔ نام ایک پرندہ کا ہی جسکی دم بہت بڑی ہوتی ہی اور اسکی دم کے
تیر بناتے ہین اور وہ کبوتر جو سب سیاہ ہو اور دم اسکی سپید ہو ۔
مُہَنزَوم ۔ شکست دیا گیا ۔
مہتمم ۔ اہتمام کرنے والا کسی کام کا ۔
مُہان ۔ اہانت کیا گیا ذلیل اور خوار کیا گیا ۔
مِہین ۔ بکسر تین فارسی مین بزرگتر بڑا آدمی ۔
مَہین ۔ بفتح میم عربی مین سست و ضعیف و حقیر و خوار ۔
مُہین ۔ بضم میم خوار رکھنے والا ۔
مُہَیمِن ۔ بیخوف کر دینے والا دوسرے شخص کو اور گواہ صادق اور دوست
مہربان یہ نام حضرت باری تعالےٰ کا ہی ۔
مہرگان ۔ جب تک آفتاب برج میزان مین رہتا ہی ۔
مہرجان ۔ معرب مہرگان ہی ۔
مہران ۔ نام ایک دوا کا ہی ۔
مہمان ۔ مشہور لفظ ہی عربی مین اسکو ضیف کہتے ہین کبھی مہمان مہمانی
کے معنے بھی دیتا ہی ۔ میر خسرو ۔ روزی اگر آنکہ بمہمان من آید + دوران
فلک در تہ فرمان من آید ۔ سنائی ۔ شکر بجا آر کہ مہمان تو + روزی خود میخورد از خوان تو
مہاجن ۔ بڑا دوکاندار ۔ ابو طالب کلیم ہندوستان کی تعریف مین ۔
فتادہ در دکان یک مہاجن + ہمہ سرمایہ دریا و معدن ۔
مہربان ۔ صاحب مہر و محبت ۔ نظامی ۔ بران مہربان شد جہاندار چست
کہ خبر نام او نیامدی بر زبان ۔
مہجو ۔ ہجو کیا گیا برا بولا گیا ۔

مہمہ۔ بیابان یعنے جنگل۔

مہمہ۔ وہ کام جو فکر اور اندیشے مین ڈالدے اور وہ کام جو ضروری ہو۔

مہموسہ۔ وہ حروف تہجی جو نرم اور پست پڑھے جائین چنانچہ سین وشین وتاے فوقانی وحاے مہملہ وثاے مثلثہ وکاف عربی وخاے معجمہ وصاد مہملہ وفاے وہاے ہوز سواے انکے اور حروف سب مجہورہ ہین۔

مہوینہ۔ بڑا اور بزرگ۔

مہنہ۔ خراسان مین ایک گانون مولد انوری ہی۔

مہجہ۔ جان کو روح اور خون جو دل کے اندر ہی اور خلاصہ ہر چیز کا۔

مہچہ۔ وہ چاند کی شکل جو علم پر بناتے ہین۔

مہلکہ۔ ہلاکت کا مقام۔

مہرہ۔ جنکو ہندی مین منکا کہتے ہین اور عربی مین کرہ اسپ اور گھوڑون کا بچہ اور بفتحتین جمع ماہر۔

مہ۔ چاند۔

مہ۔ بزرگ اور بڑا۔

مہنانہ۔ بوزنہ یعنے بندر جو مشہور جانور ہی۔

مہی۔ عربی مین آمادہ کرنے والا۔

مہی۔ فارسی مین سرداری وبزرگی۔

مہربانی۔ شفقت ولطف اور ایک قسم کا کپڑا جو نہایت لطیف ہوتا ہی۔ نظامی۔
شعر۔ از مہربانی بدرود وست + درون رفت پیشش بہ زانو نشست۔

مہتدی۔ ہدایت کرنے والا اور بفتح دال ہدایت کیا گیا۔

مہتابی۔ منسوب بمہتاب چنانچہ کتان مہتابی اور وہ عمارت جو حوض اور دریا کے کنارے چاندنی کی سیر کے لیے بناتے ہین اور نام ایک قسم کی آتشبازی کا۔

مہدی۔ بفتح اول ہدایت کیا گیا اور بضم اول ہدایت کرنے والا۔

مہمانی۔ ضیافت ودعوت جو کسی کی کیجاوے۔

میم با یاے

میرزا۔ سردار امیر کا بیٹا۔ عبد الرزاق فیاض۔ بدین وسیلہ کہ میرزا سعید ما شناست + چہ خوب کرد کہ فیاض رفت از دل ما۔

مینا۔ بفتح اول مشہور جانور ہی سارک کی قسم ہی جو طوطی کی بولی بولتی ہی یہ لفظ ہندی ہی۔ شاہد گیلانی۔ شعلہ در سایۂ زلفت گل شب بو گردد + بطرمی پیش تو مینا سخنور گردد۔

مینا۔ بکسر اول شیشہ شراب کا اور نام ایک جوہر سبز جو سیاہ بھی ہوتا ہی اور نام ایک رنگ کا جو چاندی سونے کے زیور پر کرتے ہین۔ ابو طالب کلیم۔ بے بادہ دل ز سیر چمن وا نمی شود ہلکل چاشنین سبزہ ومینا نمیشود۔

میثا۔ نام ایک قسم کے ریاحین کا ہی جو ہمیشہ سبز رہتا ہی اور عربی مین اسکو حی العالم کہتے ہین۔

میزاب۔ پرنالہ جس سے گھر کی چھت کا پانی بارش کے وقت بہتا ہو۔

میت۔ مرا ہوا مردہ۔ بیجان۔

میمنت۔ برکت اور سعادت۔

میقات۔ وعدہ کی جگہ اور مقام احرام باندھنے کا حج کے لیئے۔

میراث۔ مردے کا مال جو اسکے وارث کو حاصل ہو۔

میخ۔ کیلا لوہے کا یا لکڑی کا عربی مین اسکو وتد کہتے ہین۔ ملا طغرا برافکی تعریف مین۔ تراشیدہ شد میخش از نخل طور + بہ بیماری مردم چشم حور۔

میلاد۔ ولادت کی جگہ اور وقت اور نام ایک شہر کا اور ایک پہلوان کا۔

میعاد۔ وعدہ کرنا جگہ وعدہ کی زمانہ وعدہ کا۔

میمند۔ نام ایک قصبہ کا ہی مضافات غزنین سے۔

میسر۔ آسان کیا گیا سہل کیا گیا۔ سعدی۔ ترا کے میسر شود این مقام کہ فیضت بود عام ور خاص وعام۔

میسر۔ قمار یعنے جوا جو کھیلتے ہین۔

میزر۔ تہ بند وچادر ودستار ومندیل۔

میسور۔ آسان اور آسان ہونا۔

میر۔ مخفف امیر دولتمند اور حاکم۔ سعدی۔ در میر ووزیر وسلطان را بے وسیلت مگرد پیرامن + سگ ودربان چو یافتند غریب + این گریبان گرفت وآن دامن۔

میز۔ وہ چوکی جسپر کھانا چناجاے۔

میس۔ نام ایک درخت کا ہی جسکے میوہ کو لوطوس کہتے ہین۔

مینوس۔ نام ایک بادشاہ کا ہی کہ بادشاہی سے گر کر فقیر ہوا پھر فقیری سے بادشاہی کو پہونچا۔

میخوش۔ کھٹا میٹھا میوہ ترنج وغیرہ۔

میش۔ بھیڑ وچکیادار جسکو گوسفند کہتے ہین۔

میغ۔ ابر یعنے بادل سیاہ برسنے والا۔ شعر۔ زیک دست خود گوہر افشان چو میغ + بیک دست بر دشمن آہختہ تیغ۔

میثاق۔ عہد وپیمان واستواری۔

میق۔ گریان روتا ہوا۔

میلک۔ ایک کپڑے کا نام ہی جو شہر نوشاد سے لاتے ہین۔

میخک۔ قرنفل یعنے لونگ۔

میل۔ بفتح اول عربی مین جھکنا خم کھانا ہلنا خواہش اور توجہ۔

میل۔ بکسر اول فارسی مین سرمچو جس سے آنکھون مین سرمہ ڈالتے ہین اور مسافہ صیلہ

ثلث فرسنگ کا یعنے ایک کوس ور چار ہزار قدم رہوار اونٹ کا اور وزن دو آ
لکڑی جسکو مگدر کہتے ہین۔

میکال۔ میکائیل۔ نام ایک مقرب فرشتہ کا جو روزی رسانی پر موکل ہی۔

میشوم منحوس و نامبارک صحیح بہ لفظ مشوم و مشؤم ہی۔ مسیح کاشی۔ ہر
ہنر مندا این جہان شوم ست + زان نیم شادمان ازین میشوم۔

میم۔ حروف تہجی مین سے ایک حرف ہی جسکے عدد چالیس ہین۔

میمون۔ خجستہ و مبارک اور فارسی مین بوزنہ۔ میر معزی۔ صد ہزاران سال
میمون باد جشن مہر و ماہ + ہر شہنشاہے کہ وار د صد ہزاران مہر و ماہ۔

میان۔ وسط ہر ایک چیز کا اور غلاف کارد و شمشیر و مخفف ہمیان اور ہندوستان
مین کلمہ ادب و تعظیم۔ مولوی معنوی۔ چون زبانم گرفت خونریزی + ہمچو شمشیر
درمیان کردم + بابا فغانی۔ آب کہ بستہ اند بر لب او دہان تست + نقدے کہ آن
بدست نیاید میان تست + اردو۔ کہین اک بال سا پتلا نہان ہی + میان
دیکھو میان اسکی کہان ہی۔

میلان۔ طبیعت کی خواہش ور توجہ۔

میامن۔ بہت سے یمن اور برکتین۔

میزبان۔ صاحب ضیافت و دعوت کا۔

میدان۔ کھلی ہوئی زمین عمارت سے خالی۔ سعدی۔ فردان بنیم اوصاف
شدہ از حساب + تنگی دزین تنگ میدان کتاب۔

میامین۔ اشخاص و اشیاے مبارک و صاحب یمن۔

مین۔ جھوٹ بولنا۔

میتین۔ بکسر میم و یاے مجہول و کسر تاے فوقانی وہ آلا آہنی جس سے پتھر مین سوراخ کرتے ہین۔

میزان۔ ترازو تولنے کا اور نام ایک برج کا بروج آسمانی سے۔ سعدی۔ کرم
کن کہ فردا چو میزان نہند + منازل بمقدار احسان دہند۔

میگون۔ ایک رنگ کا نام ہی جو سرخی مائل ہی۔

مینو۔ عالم علوی و بہشت و آسمان اور آبگینہ رنگین جو زیوروں کے کام
آتا ہی مینا بھی اسکو کہتے ہین اور زمرد جو ایک سبز رنگ جوہر ہی۔ نظامی۔ بیکے
سنگ مینائے مینو سرشت + بزیبائی و خرمی چون بہشت۔

میلاؤ۔ شاگرد جو کسی استاد سے علم پڑھتا یا ہنر سیکھتا ہو۔

میو۔ پہلوی مین مو یعنے بال جسکو عربی مین شعر کہتے ہین۔

میاہ۔ بہت سے پانی جمع ماء۔

میوہ۔ پھل درخت کا۔ سعدی۔ درخت کہن میوہ تازہ داشت + کہ شہر
از نکوئی پر آوازہ داشت۔

میمنہ۔ طرف دست راست اور وہ فوج جو جنگ مین اطراف راست ہو۔

میسرہ۔ تونگری و کشادگی و طرف دست چپ۔

میذنہ۔ اذان کہنا اور اذان کہنے کی جگہ۔

میمونہ۔ نام ایک فن کا فنون کشتی مین سے۔

میدہ۔ بہت باریک آٹا مخفف مائدہ۔ طغرا۔ بصحراے دور از غبار عناد
بہ نزدیک فیلے گذارم قباد + ز رف نقش پالیش چو در دل گذشت + صدا
در نے انبان تن میدہ گشت۔

میانجی۔ قاصد اور ایلچی اور ایلچی گری اور مصلح جو دو شخصون مین صلح کرا دے
نظامی۔ سپہ بہ کہ برنا بود زانکہ پیر + میانجی کند چون رسد تیغ و تیر۔ ولہ۔ اگر
در میانجی دلیر آمدم + بہ از زر و بہ از نزد شیر آمدم۔

میخی۔ درویشون کا خرقہ جو سپید ہوتا ہی اور درخت اسمین سیاہ ہوتی ہی
مئی۔ شراب جو مشہور چیز ہی۔ نظامی۔ بفیروزی آن بت مشکبوے +
مے و مشک می ریخت بر طرف جوے۔

دوسری فصل

اردو لغات کے ذکر مین

میم با الف

ماما۔ محبت پیار الفت دوستی۔ س۔ بڑھتی ہی ماما [illegible]
باپ کی الفت سے ماکی ماما۔

ماتھا۔ جسکو فارسی مین پیشانی عربی مین جبین و جبہہ کہتے ہین۔ حکیم محمد انور
لاہوری۔ سرخرو دنیا و دین مین ہین وہی جنکے ماتھے پر ہی سجدہ کا نشان

مالا۔ تسبیح جو مشہور چیز ہی عربی مین اسکو سبحہ کہتے ہین۔

ماما۔ خدمتگار عورت جو گھر مین خدمت کرتی ہو۔

ماندا۔ بیمار سقیم الحال مریض۔

مانڈا۔ پردہ سفید جو آنکھون پر آجاتا ہی اور ایک قسم کی پتلی روٹی جو شادی کے
موقع پر پکائی جاتی ہی۔

ماہی توا۔ وہ ظرف جسمین مچھلی بھونی جاتی ہی۔

مان۔ والدہ جسکے پیٹ سے کوئی پیدا ہوا ہو۔ س۔ دوستو جنت کی خواہش
ہو اگر + ڈھونڈلو زیر قدم مان باپ کے۔

ماچا۔ چارپائی پلنگ جسپر سوتے ہین۔

مایا۔ طاقت قوت قدرت۔

ماپ۔ پیمانہ کسی چیز کا جس سے وہ چیز ناپی جائے۔

مار۔ زد و کوب کرنا پیٹنا۔

مارمار۔ زیادہ تر مارنا۔

ماس ۔ گوشت جو ایک مشہور چیز ہی۔
مالنس ۔ آدمی جسکو عربی مین مالنس و رانا س و رالنس کہتے ہین۔
مانگ ۔ خواہش اور فرق جو سر کے دونون اطراف کے بالون کے درمیان رکھا جاتا ہی
ماموں ۔ مان کا بھائی جسکو عربی مین خال وخالو کہتے ہین۔
مائین ۔ درخت گز کے پھل کا نام ہی۔
مان ۔ زور طاقت مدد حمایت بھروسا۔
ماشہ ۔ ایک وزن کا نام ہی جو آٹھ رتی کا ہوتا ہی۔
ماچی ۔ وہ لکڑی کا آلہ جو بوقت قلبہ رانی کے بیلون کے گلے مین ڈالتے ہین۔
مالی ۔ باغبان جو باغ کا خبر گیر ہوتا ہی۔ حکیم محمد انور لاہوری ۔ عرب اور عجم
محمد ہین والی + محمد ہین بستان جنت کے مالی۔
ماچھی ۔ مچھلیان پکڑنے والا اور بیچنے والا۔
مائی ۔ والدہ مادر مان۔

میم با تاے

متاسا ۔ وہ شخص جسکو زور کا پیشاب آیا ہوا ہو۔
متوالا ۔ شراب پیے ہوے مخمور مست ۔ مولانا اکبر لاہوری ۔ عاشق
حق شراب عشق سے ہی مست ہر دم ہمیشہ متوالا۔
متوڑا ۔ وہ شخص جو رات کو بستر مین پیشاب کر دے اس بیماری کا نام البول فی الفراش ہی
متانا ۔ موٹا ہونا ۔ فربہ ہونا۔
متنکا ۔ مٹی کا خم
متھا ۔ بلویا ہوا دودھ جس سے مسکہ نکالتے ہین۔
متلا ۔ موٹا آدمی۔
متھیا ۔ ہل کا دستہ جو زمین کی کاشت کیوقت ہاتھ مین پکڑتے ہین۔
مت ۔ عقل دانائی ہوش ۔
مٹر ۔ مشہور غلہ ہی عربی مین اسکو کرسنہ اور فارسی مین کسنگ کہتے ہین۔
مٹھور ۔ لمبا مٹکا اور بڑا خم
مٹھاس ۔ شیرینی حلاوت میٹھا مزہ۔
متلی ۔ بدمزگی طبیعت کی اور طبیعت کا قے کرنے پر آمادہ ہونا۔
متھنی ۔ وہ لکڑی کی رئی جس سے دودھ کو بلو کر مسکہ نکالتے ہین۔
مٹھائی ۔ شیرینی جو حلوائی بناتے ہین۔
مٹھولی ۔ جلق یعنے مشت زنی۔
مٹھی ۔ ہاتھ کی مٹھی مشہور لفظ ہی۔
مٹی ۔ خاک ۔ صفدر فوقانی ۔ تکبر کسپہ ہی اور یہ بڑائی + کہ ہی
انسان فقط مٹی کا پتلا۔

میم با جیم

مجرا ۔ سلام بندگی تعظیم۔
مجا ۔ وہ گوشت جسمین ہڈی نہو۔
مجلا ۔ شریر آدمی منافق۔
مچھر ۔ مشہور نیش دار جانور ہی۔
مچھندر ۔ بندر نچانے والا۔
مچان ۔ وہ لکڑی جو دیوار مین واسطے لٹکانے کپڑا وغیرہ کے لگائی جاتی ہی
مجیٹھ ۔ مشہور لکڑی ہی جس سے سرخ رنگ کپڑون کو دیتے ہین۔
مجرائی ۔ سلام اور بندگی کرنے والا۔
مچھلی ۔ مشہور آبی جانور ہی۔

میم با راے مہملہ

مرغا ۔ خروس جو ایک مشہور جانور ہی۔
مرگ چھالا ۔ ہرن کا چمڑا۔
مرگ چھونا ۔ ہرن کا بچہ۔
مرنا ۔ مرجانا فوت ہوجانا۔
مڑورا ۔ پیچ دینا بہین لانا ۔ بانٹنا۔
مرچ ۔ مشہور چیز ہی جسکو فلفل کہتے ہین۔
مردار ۔ وہ جانور جو خود بخود مرجاے ذبح نکیا جاے۔
مرن ٹھور ۔ جس جگہ کوئی مرجائے۔
مروڑ ۔ پیچش کی بیماری۔
مرچنگ ۔ یہ ایک لوہے کا ساز ہی جو ہونٹھون پر رکھکر بجاتے ہین اصل
نام اسکا منہ چنگ ہی مرچنگ غلط مشہور ہی
مردنگ ۔ یہ ایک عجیب و غریب ساز ہی جو ہند مین بجایا جاتا ہی۔
مرگ ۔ بفتح اول مرجانا فوت ہونا۔
مرگ ۔ بکسر اول آہو یعنے ہرن۔
مرتبان ۔ یہ ایک برتن مٹی کا بنایا جاتا ہی اور روغنی کرکے اسمین اچار و
مربی وغیرہ ڈالا جاتا ہی چینی کے مرتبان بھی اکثر دیکھنے مین آئے ہین۔
مردہ ۔ مرا ہوا مقابل زندہ کے۔
مرغابی ۔ مشہور جانور ہی جو پانی پر تیرتا ہی۔
مرغی ۔ مادہ خروس۔
مرگی ۔ ایک بیماری کا نام ہی جسکو عربی مین صرع کہتے ہین جب دورہ
کرتی ہی تو آدمی مرتے مرتے بچتا ہی۔
مری ۔ وبا جو مویشی مین پڑتی ہی۔

میم با زاے معجمہ

مزا۔ ذائقہ لذت جو کسی چیز میں ہو۔ مولانا اکبر۔ غم کو ہم کھاتے رہے اور ہم کو غم کھاتا رہا ہم چلے بس زندگی کا سب مزا جاتا رہا۔
مزدور۔ اجرت پہ کام کرنے والا۔
مزدوری۔ اجرت جو مزدور کو ملتی ہے۔

میم با سین مہملہ

مسخرا۔ ہنسانے والا نقال بھانڈ وغیرہ۔
مسکا۔ وہ خریطہ یعنی تھیلا جو بیل کے منھ پہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ کسی کی کھیتی میں منھ نہ ڈالے چھینکا بھی اسکو کہتے ہیں۔
مسوڑا۔ بن دندان جسکو عربی میں لثہ کہتے ہیں۔
مسّا۔ زائد گوشت جو جسم پہ پھنسی کی صورت پر اکثر بہ رنگ سیاہ نکل آتا ہے عربی میں اسکو ثؤلول کہتے ہیں۔
مسور۔ مشہور غلہ ہے جسکو عدس کہتے ہیں۔
مسواک۔ دانتوں کی صاف کرنے والی لکڑی جسکو دتون بھی کہتے ہیں۔
مستول۔ کشتی کا ستون۔
مسخرا پن۔ ہنسانا مسخری کرنا۔
مستی۔ بیخبری و بیہوشی جو شراب وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔
مسلمانی۔ مسلمان ہونا اسلام میں آنا۔
مستری۔ معماری کا کام کرنے والا اور معماروں کا افسر۔
مسہری۔ پردہ دار چارپائی جسکو چھپر کھاٹ بھی کہتے ہیں۔
مسّی۔ جو دانتوں کو ملتے ہیں۔
مسّی روٹی۔ چنے یا ماش وغیرہ کی روٹی۔

میم با کاف

مکا۔ گھونسا جو کسیکو مارا جائے۔
مکھڑا۔ خوبصورت چہرہ محبوب کا۔
مکر۔ فریب دغا حیلہ بہانہ۔
مکار۔ فریب کرنے والا۔
مگدر۔ وہ بھاری اور وزن دار لکڑی جو طاقتور آدمی اپنی طاقت کا امتحان لینے کے لیے اٹھاتا ہے۔
مکھن۔ تازہ روغن جو دودھ کو بلو کر نکالتے ہیں۔
مکو۔ ایک بوٹی کا نام ہے جسکو عربی میں عنب الثعلب کہتے ہیں دوا میں مستعمل ہے۔
مکڑی۔ مشہور جانور ہے جو جالا تنتی ہے۔
مکھی۔ مشہور جانور کی قسم کا ہے شہد کی مکھی اسیکے اقسام میں سے ہے۔

میم با لام

مُلّا۔ مسجد کا امام صاحب علم۔
مِلاپ۔ آپس میں ملنا دوستی محبت پیار اور اختلاط۔
ملاح۔ کشتی چلانے والا۔
ملنسار۔ سب سے محبت کرنے والا ملنے والا۔
ملنگ۔ فقیروں کا گروہ۔
ململ۔ ایک قسم باریک کپڑے کا ہے۔
مُلیدہ۔ ایک قسم کھانے کا ہے۔
ملاحی۔ وہ اجرت جو دریا سے اتارنے کے بعد ملاح لیتا ہے۔
ملائی۔ جو دودھ پر آجاتی ہے۔
ملیٹھی۔ نام ایک دوا کا ہے جسکو عربی میں اصل السوس کہتے ہیں۔
ملونی۔ آمیزش جو کسی چیز میں کیجائے چنانچہ غلہ میں غلہ ملا دینا۔

میم با میم

ممولا۔ مشہور پرندہ ہے جسکو عربی میں صعوہ کہتے ہیں۔
مَمّا۔ وہ عضو جس سے دودھ نکلتا ہے اور بچہ پرورش پاتا ہے۔
مُمانی۔ وہ عورت جو ماموں کی زوجہ ہو

میم با النون

منجھلا۔ درمیانہ لڑکا یعنی بڑے سے چھوٹا اور چھوٹے سے بڑا۔
منجھولا۔ درمیانہ برتن نہ بڑا نہ چھوٹا۔
مندا۔ نقصان خسارہ جو کسی چیز میں ہو۔
منڈا۔ وہ چارپایہ جسکے سینگ نہوں۔
منکا۔ پتھر یا کانچ کی منکی اور آدمی کی پشت کی منکی جو گردن سے متعلق کی جاتی ہیں میر حسن۔ جو منکی تھی منکی انھیں کردیت ہ بنا جلد جلد اور پہنچ ناگہ
منمنا۔ سیاہ اور تلخ دانہ جو گیہوں میں ملا ہوا ہوتا ہے۔
منھ پھٹ۔ بے حیا بے لحاظ زبان دراز۔
منتر۔ افسوں جو جادوگر پڑھتے ہیں۔ فرد۔ سانپ زلفوں کا پکڑا جاتا ہے کسکیکے فریب و منتر سے۔
منڈیر۔ دیوار کا بالائی حصہ۔
منگیتر۔ مانگا ہوا جا لگیا خواستگاری کیا گیا منسوب۔
منزل۔ پورا سفر تمام دن کا ہے۔
منگل۔ مریخ ستارہ جو پانچویں آسمان پر ہے۔
مَن۔ طبیعت دل روح اور جان۔
منجن۔ وہ دوا جو دانتوں کو ملی جائے۔

منشور - فارسی مین دہان عربی مین فم اسکو کہتے ہین -
منگنی - خواستگاری عورت کی جو قبل از نکاح ہوتی ہے
منڈی - بڑا بازار جس مین بکثرت خرید و فروخت ہوتی ہے -
منتری - منتر پڑھنے والا جادوگر -

میم با واو

موتھا - ایک خوشبو گھانس کی جڑ کا نام ہے -
موتیا - ایک خوشبودار پھول کا نام ہے -
موٹا - فربہ پر گوشت -
موہنا - معشوق محبوب پیارا -
مونگا - ایک دریائی جوہر کا نام ہے جسکو مرجان اور گلی کہتے ہین -
مونڈھا - فارسی مین دوش اسکا نام ہے -
موت - مرگ اجل -
موت - پیشاب -
مورت - بت مٹی کا ہو یا پتھر وغیرہ کا -
موج - دریا کی لہر
موچ - بال آجانا پاؤن کے پٹھے مین لسبب گرنے اور کج ہو جانے پاؤن کے -
مور - طاؤس جو مشہور جانور ہے
موڑ - کج اور پھیر جو کسی راستہ مین ہو
مونگ - ماش سبز ایک مشہور غلہ ہے
موا بادل - اسفنج جو مشہور چیز ہے
موسل - غلہ کوٹنے کی اکھلی اور دستہ -
مول - قیمت اور معاوضہ ہر چیز کا -
موم - وہ موم جو شہد سے نکلتا ہے
مونڈن - سر منڈانا بال اتروانا -
موہن - دوست پیارا -
موٹھ - مشہور غلہ ہے بواو مجہول -
موٹھ - بواو معروف تلوار کا قبضہ -
موچنہ - بال اکھاڑنیکا اوزار -
مورکھ - احمق نادان -
موم جامہ - وہ کپڑا جسپر موم چڑھا دیا جاوے -
مونچھ - مونچھ کے بال فارسی مین سبلت -
موتی - مشہور جوہر دریائی ہے فارسی مین مروارید عربی مین لولو کہتے ہین -
موٹی - فربہ عورت -

موچی - کفش دوز جوتی سینے والا -
موشاکنی - ایک بوٹی ہے جسکی پتی چوہے کے کانون کیطرح ہوتی ہے -
مولی - مشہور چیز ہے فارسی مین اسکو ترب کہتے ہین -
موگری - میخ ٹھوکنے کا آلہ جو لکڑی کا بنایا جاتا ہے -
مودی - وہ دوکاندار جو کسی امیر کے نوکرون کو روزمرہ خوراک دینے کیلیے مقرر ہو
موری - بدر رو پانی نکلنے کا -
مومی - جو چیز موم کی بنی ہوئی ہو چنانچہ موم کی بتی وغیرہ -
موسی - مان کی بہن خالہ -

میم با ہاے ہوز

مہاسا - وہ پھنسیان جو نوجوانون کے رخسارون پر نکلتی ہین -
مہنگا - قحط کا وقت گرانی کا زمانہ -
مہنا - طعنہ جو کسیکو دیا جاوے -
مہلا - وہ مرد جسکے حرکات زنانہ ہون -
مہوا - یہ ایک درخت ہے جسکے تخم کا تیل کھینچا جاتا ہے اور پھول کھائے جاتے ہین
مہینا - تیس دن کا ایک سال کے بارہ مہینے
مہاوت - فیلبان ہاتھی کا نوکر ہاتھی چلانے والا -
مہر - حق کابین جو نکاح کیوقت حق عورت کا مقرر ہوتا ہے
مُہر - جو کاغذ وغیرہ پر لگائی جاتی ہے اور صاحب مُہر کا اسمین نام کندہ ہوتا ہے
مہک - خوشبو
مہنگ - گرانی غلہ وغیرہ کی -
مہاجن - بڑا دوکاندار ساہوکار -
مہین - باریک رشتہ یا کوئی اور چیز باریک -
مہرہ - وہ پتھر جس سے کاغذ وغیرہ کو جلا دیتے ہین اور صاف کرتے ہین -
مہتابی - ایک قسم کی آتشبازی کا نام ہے -
مہندی - حنا جس سے عورتین ہاتھ پیر سرخ کرتی ہین - شعر - کرینگے ہاتھ
قاتل اشارا ہے تو مہندی خون بہا دیگی ہمارا -

میم با یاے

میٹھا - شیرین اور ذائقہ دار - شعر - اس شکر لب کی تلخ باتین ہین لیک
ملتا ہے ذائقہ میٹھا -
میلا - ناصاف و چرکین کپڑا وغیرہ - انشا - نزاکت اس گل رعنا کی
کیا لکھون انشا + نسیم صبح جو چھو جا تو رنگ ہو میلا -
میل خورا - سیاہ یا کسی اور رنگ کا کپڑا جو میلا ہوا ہوا معلوم نہو -
مینڈھا - مینڈھا بھیڑ کا نر جو لڑا سے جاتے ہین -

مینڈ - کچی دیوار جو کھیتی کی حفاظت کیلیے بنائی گئی ہو۔
مینڈک - آبی جانور ہے جسکو غوک اور ضفدع کہتے ہین۔
میل - چرم و ریم اور وہ میل جو بدن سے اترتا ہے۔
میاؤن - بلی کی آواز۔
میان - ایک تعظیم کا لفظ ہے۔
میانہ - جو درمیان ہو۔
میدہ - باریک آٹا گیہون کا۔
مینھہ - بارش باران رحمت الٰہی۔
میانی - میانگی - وہ حصہ ازار کا جو شرمگاہ پر آتا ہے خشتک بھی اسکو کہتے ہین۔
میتھی - مشہور سبزہ ہے جسکو فارسی مین شنبلیت کہتے ہین۔
میرزئی - صدری چھوٹی جو قبا کے نیچے پہنتے ہین۔
میری - ہر ایک کام مین سبقت لیجانے والا۔
میمنی - سینگین بکری اور ہرن اور اونٹ اور بھیڑی۔

تیسری فصل

محاورات و مصطلحات فارسی کے بیان مین

میم با الف

مادر بخطا - یہ ایک گالی ہے جو اہل فارس ایک دوسرے کو دیتے ہین۔ ارسلان بیگ - مشک گوید بخالش سر دعوی وارد + این عجب نیست ازین ہندوی مادر بخطا
ماہ سیما - نہایت خوبصورت محبوب - صائب - دل روشن زہم پاشید آخر چشم صائب را + کتان کے پردۂ آن ماہ سیما میتواند شد۔
ماہ لقا - خوبصورت محبوب - لعتیہ از مولف - آن مہر طلعتے کہ خجل آفتاب ازوست + وان مہ لقا کہ کرد دو شق ماہتاب را۔
مال غائب - وہ مال جسکا مالک حاضر نہو اور بادشاہی خزانہ مین امانتاً رکھا ہو - مخلص کاشی - ملک دنیا را کہ ہر کس بیخبر وزری صاحب ست - بادشاہان عاریت دارند مال غائب ست۔
مال کاسب - بہت ارزان مال - محمد قلی سلیم - اے دل نماند خیز کالا کے عاشقی + جز در متاع آبلہ کان مال کاسب ست۔
مالک رقاب - گردنون کا صاحب خداوند و خطاب حضرت رسالت مآب علیہ السلام والصلوٰۃ - نورالدین ظہوری - گردنم سر فراز مے سزد ار دہ طوق مالک رقاب میخواہم۔
ماہ در عقرب - چاند برج عقرب مین نیک کام کرنا ایسے موقع مین ممنوع ہے۔
مال صامت - مال خاموش زر و نقرہ وغیرہ۔

مال وجہات - نقد و جنس و اسباب و اشیا - حسین خان خالص - سبحان ہر کہ زر و ترا ز آفتاب زر وست + مال وجہات مملکت شیروان صبح۔
ماہ طلعت - محبوب کی تعریف مین لکھا جاتا ہے۔ لعتیہ از مولف - پردہ از رخ چون فگند آن ماہ طلعت وقت شام + لب شعر ب شد عیان بر بام گردون آفتاب
ماشورہ عاج - معشوق کی گردن۔
مار خانگی را نمی کشند - مثل مشہور ہے کہ گھر کا آدمی کیسا ہی ظالم ہو اسکو کوئی نہین مارتا - شفیع اثر - با وجود بیم و آفت چون شود دشمن و خیل + ہیچ مار خانگی دیگر نباید کشتنش۔
مار گزیدہ از ریسمان می ترسد - جسکو سانپ نے کاٹا ہو وہ رسی سے ڈرتا ہے مثل ہے - طاہر غنی - ز تار رشتۂ گیسوے دلبران ترسد + چسان کہ مار گزیدہ ز ریسمان ترسد۔
مال کاسد - جس مال کا کوئی خریدار نہو۔
ماء الورد - گلاب جو پھولون سے نکالا جاتا ہے۔
مار گیر - حیلہ گر اور مکار آدمی - محمد صالح شوشتری - حرف زنار سر زلف تو در وزد ابدست + از کجا این مار گیر آموختہ افسون مرا۔
ماہ پیکر - محبوب کی تعریف مین بولا جاتا ہے۔ لعتیہ از مولف - مہر و مہ طلعت گوشہ حکم تو گردیدہ اند + چون رخت اے مہر طلعت ماہ پیکر دیدہ اند۔
ماہ مصر - حضرت یوسف علیہ السلام - صائب - ز مصر غیر لیسر ہیچ ماہ مصر کے + چنان شود کہ چراغ پدر کند روشن۔
مایہ دار - چند اول لشکر جو سب کے پیچھے ہو اور سرمایہ دار لیجئے دولتمند۔
مایہ ور - صاحب دولت و علم و فضل - صائب - عشق اول بدل سوختہ آدمزادہ مایہ ور شد زدل آدم و برآدم زاد۔
مالیوف - گھر کا اسباب اور ضروری سامان اور وہ سب مال جو کسی کے قبضہ مین ہو - ملا طغرا - شاید اے تاک از لبسہم بہرہ باشد ترا + از چہ رو مالیوف خود صرف دختر میکنی۔
مال ناطق - بولتا ہوا مال گھوڑا اونٹ گائے بھینس بکری بھیڑ وغیرہ۔
مار مہرہ - کنڈلی دار سانپ جو اپنے آپ کو مٹی مین چھپائے رکھتا ہے صرف سر جو بقدر مونہ کے دانے کے ہوتا ہے خاک سے باہر ہوتا ہے اگر کوئی شخص مونہ کا دانہ جانکر اٹھاتا چاہے تو کاٹ کھاتا ہے۔
ما قل و دل - تھوڑا کلام جسکے معانی بہت سے ہون۔
ماء اللحم - گوشت کا عرق جو ادویہ ادویات ملاکر نکالا جاتا ہے اور اکثر بیمار اور تندرست پیتا ہے
ماجرا کردن - ماجرا رفتن - حقیقت بیان کرنا اول یا رسالہ کرنا - سچ کا کوئی اسے آنکہ با شکستہ دلان ماجرا کنی + ما نزدہ ایم گر بکشی ورہا کنی - حافظ

گرد لم از غمزۂ دلدار بازی برد برد + در میان جان و جانان ماجرا رقت رفت
مار بدست دیگری گرفتن - کوئی مشکل کام دوسرے شخص کے ہاتھ سے کرانا اور خود تحسین کا مستحق ہونا - سلطان علی ربی - شنیدہ اند چہ خونہا خوردہ ام در طرہ آرائی + بدست دیگرے افسونگر من مار میگرد -
مار بستن - سانپ کو پکڑنا بند کرنا - مخلص کاشی - زبان خصم نتوان کرد کوتہ جز بخاموشی + با فسون دگر این مار را کے میتوان بستن -
مار خوردہ - غم کھانا رنج اور محنت اٹھانا - مسیح کاشی - نامم ہمہ لخت سینۂ بریان ست + آبم ہمہ اشک دیدۂ گریان ست + گو زہر کشد کسیکہ انیش آب ست گو مار خورد کسیکہ انیش نان ست -
مال بکوری رفتن - بے پروائی و بے خبری و بیوقوفی سے مال برباد ہو جانا - محسن تاثیر - اہل دولت تنگ چشمانند و مال این گروہ + ہمچو نقد عمر نابینا بکور رفتہ میرود -
مالیدن - کان ملنا حلق ملنا تنبیہ دینا سزا دینا تکلیف دینا - سعدی - شنیدم گوسپندے را بزرگی + رہانید از دہان و دست گرگے + شبانگہ کارد بر حلقش بمالید + روان گوسپند از وے بنالید + کہ از چنگال گرگم در ربودی چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی -
ماندن - رہنا ٹھہرنا - غلام غوث اعظم مفلس و بے زر بمی ماند + اگر ماند دمے ماند دم دیگر نمے ماند -
ماہ را از طشت آب جستن - غیر ممکن کام کرنا - صائب - از حقیقت دور ماندن صائبا سہو در مجاز آوردہ ایم + ماہ را دائم ز طشت آب میجوئیم ما -
ماہ جبین - محبوب کی تعریف میں کہا جاتا ہے - صفدر فوقانی - تخت دلبری سفر نشینی - دلبری مہربانی مہ جبینی -
ماہ کنعان - یوسف علیہ السلام - صائب - بے دل ہینا فریدہ پردۂ غفلت + بر ماہ کنعان اگر در زیر یک پیراہنے -
ماہ نو کردن - نیا چاند دیکھنا - مخلص کاشی - منزدی روزہ شناش خندہا بر صبح عید + ماہ را ہر کس بروے دلربا نو کنید -
ماہ نو - ہلال پہلی رات کا چاند - محسن تاثیر - فلک بعد از ین تاثیری از سیاہ پوست + کہ خلخال مہ نو خوب بر پاے تو مے رسید -
ماتم دیدہ - سوگ اور ماتم کی حالت میں - صائب - ازان چون زلف ماتم دیدگان ژولیدہ زنجیر م + کہ چون برگ خزان دیدست زود دست تدبیرم
مال دادہ - جو چیز قیمتاً خریدی گئی ہو خصوصاً غلام زرخرید - مخلص کاشی - اے دل بمال خود دادہ مزن لاف اعتبار + زان رو کہ قیمتے نبود زرخریدہ را -
ماہ پارہ - چاند کا ٹکڑا نہایت خوبصورت - مولانا اکبر لاہوری - باوج دلبری روشن ستارہ + ببرج دلستانی ماہ پارا -
ماہ سحاب آلودہ - جو چاند بادل سے نظر آتا ہو - شیخ العارفین - نکتان طاقتم را پردہ داری میکند حسنش + زخش در شام خط ماہ سحاب آلودہ را ماند
ماہ شکستہ - ماہ نو نیا چاند - صائب - جام شراب مرہم دلہائے خستہ است + خورشید مومیائی ماہ شکستہ است -
ماہیابہ - ایک قسم کے کھانے کا نام ہے جو مچھلی سے بناتے ہیں اور شہر لار میں وہ اکثر بنایا جاتا ہے - سعید اشرف - بچشین چرب رو و مسہل خوار جوشش غثیان ماہیابۂ لار -
مارا ہم ازین نمد کلاہی - مثل ہے یعنے جو نعمت خدا نے تمکو دی ہے ہمکو بھی اس سے حصہ ملے + محمد قلی سلیم - اے فقر خوش ست کسوت تو مارا ہم ازین نمد کلاہی -
مارگیری - حیل و فریبی و مکار و حیلہ گر ہونا - اسماعیل ایما - آخر رقیب سالوس آن طرۂ رسا را + ترسم بدست آرد از لب کہ مار گیرست -
ماہ خرگاہی - جس چاند کے گرد ہالہ ہو - شالی تکلو - زد ندا آتش غیرت بماہ خرگاہی + ز سینہ ئے کہ باطراف یاسمین بستند -

میم با باے موحدہ

مبارک بندہ آزاد مسکین - مثل ہے نیک غلام کو آزاد کر - نظامی - بشنو و با عاشقی را شاد مسکین + مبارک بندۂ آزاد مسکین -
مبانی نہادن - بنا کرنا کوئی مکان بنانا - درویش والہ ہروی - بامداد بنائے فکرت نہادم + زرشت متانت سخن را مبانی -
مبادی عالیہ - عقول عشرہ -
مبارکبادی - مبارکباد - تہنیت اور خوشی کے موقع پر جو مبارکباد دیجائے علی خراسانی - وصل یاران ظاہر از نزدیک شد کامشب وطم + میدہد سر لحظہ از شادی مبارکبادمن - حکیم زلالی - خلیل اللہ اندر سلخ خونریز دلشنبا مبارکبادی قربان بماہ عید قربان -

میم با تاے فوقانی

متاع کس میاب - نایاب جنس - متاع کس مخر - وہ جنس جسکا کوئی خریدار نہو - عارف - در چار سوے دہر نشان وفا مجوے + کاینجا متاع کس مخر و کس میاب نیست -
متاع روئے دست - متاع سر دست - وہ گھٹیا مال جو نفیس مال سے پہلے خریدار کو دکھایا جاتا ہے - عرفی - تا فسید ابلہان را از متاع روئے دست + آسمان پیش از تو یوسف را ببازار آورد -
متاع نیک از مہر دکان پسند ست - مثل ہے جنس جس دکان کی نیک ہو

پسندیدہ ہی۔ خواجہ کاتبی۔ دوکان حسن یوسف گر لبیہ شد تو مانی + باید متاع نیکو از ہر دوکان کہ باشد۔

متاع آب بردار۔ متاع آبدار۔ وہ جنس جسکی قیمت اصل قیمت سے زیادہ کرین سلیم۔ زینہار کہ از دکان ایام + آتش نخرے کہ آب دارد۔

متاع پردار۔ اڑتی ہوئی جنس جسکے خریدار بکثرت ہون۔ سعید اشرف۔ ہنر فساد و فضیلت شکستہ بازارست + ہمان سخن کہ متاع دروغ پردازست۔

متاع غرور۔ حیض کا لتہ جو عورتین ایام حیض مین شرمگاہ پر رکھتی ہین اور اسی لحاظ سے عالم دنیا۔ داراب بیگ جویا۔ لبسرخ و زرد جہان دل منہ کہ پیوستہ + مراد مرد لفو ریست از متاع غرور۔

مترش۔ ریش تراشیدہ داڑھی منڈائی ہوئی یا کترائی ہوئی۔ ملا مفید بلخی۔ ہر گل کہ خار خار طمع سر نہد از و + در دیدہ بد قماش چو روئے مترش ست۔

متاع بزر نزدیک۔ جو جنس جلد فروخت ہو۔ باقر کاشی۔ سر گرانی مکن ایجان ز خریدار ما + کاین متاعی ست کہ بسیار بزر نزدیک ست۔

متاع تنگ۔ نایاب جنس جو تلاش سے حاصل ہو۔ مخلص کاشی۔ زلیخا ست متاع دل چنین گر تنگ خواہد شد + زقحط دل میان دلربایان جنگ خواہد شد۔

متاع روان۔ وہ جنس جو بکتی ہو۔ مخلص کاشی۔ نشد بالا و ماغم ہرگز از جوش خریداران + متاعم چون روان گردید از سرمایہ کم کردم۔

مترس از بلائے کہ شب درمیان۔ مثل ہی جو مصیبت کل آنے والی ہو اسکا غم آج نہ کھانا چاہیے کہ رات درمیان ہی خدا جانے رات بھر مین کوئی نئی صورت پیدا ہو۔ قطعہ۔ چو گردد عیان انقلاب دگر + بہر وقت و ہر ساعت و ہر زمان سپند لیش ز ان غم کہ فردا بود + مترس از بلائے کہ شب درمیان۔

مثقہ بر خشخاش نہادن۔ مثقہ بر ذرہ نہادن خشخاش و ذرہ پر پیمانہ رکھنا یعنی اسکو جھینا کمال غور و باریک بینی کرنا محسن تاثیر۔ آن چشم چہ شد کہ مثقہ بر ذرہ نہاد + گوش شنوا و ناے بیناے کو۔

متاع آبدیدہ۔ متاع آب زدہ۔ ناکارہ اسباب اور خراب جنس۔ نادم گیلانی۔ او یا کرامنی اسے گل زچشمہ حسن تو نیست۔ کہ ہست لالہ و گل اغدار و آبزدہ + سالک قزوینی متاع لخت دل از چشم اعتبار افتاد + دگر کہ میخرد این جنس آبدیدہ ما۔

متاع غرقی۔ مرد کا آلہ تناسل تشنیع اثرا یا عورت کی شرمگاہ مین۔ ہر چہ بود نیش ز نقد و جنس و کسا و + قیمت این متاع غرقی داد۔

میم با ثائے مثلثہ

مثل شدن۔ مشہور ہونا۔ مثل ہونا۔ صائب۔ ز زخم من بر عنا لی مثل شد تیغ خونریزش + کشد اندام پیدا آب چون در جویبار افتد۔

میم با جیم

مجمرہ سوز۔ مجمرہ گردان۔ خادم جو آگ کی انگیٹھیان روشن کرنے پر مقرر ہو۔ نور الدین ظہوری۔ سپہر مجمرہ گردان براے دفع گزند + سپند پر تو خورشید یاد میسوزد۔ جمال الدین سلمان۔ صبا بست غالیہ سا سے نسیم مجمرہ سوز + شمال چہرہ کشاے زلال آئینہ دار۔

مجلس گفتن۔ وعظ کہنا نصیحت کرنا۔

مجلس نویس شدن۔ حضور نویس ہونا۔

مجرد روی۔ اکیلا چلنا۔ اکیلا رہنا۔ نظامی۔ مجرد روی را بجاے رساند + کہ از او دوا و ہیچ با او بماند۔

محتسب را درون خانہ چہ کار۔ مثل ہی یعنی کسیکے اندرونی معاملات مین کیا دخل ہی اگر محتسب ہو وہ بھی مجاز نہین۔ سعدی۔ ورندانی کہ در نہانش چیست + محتسب را درون خانہ چہ کار۔

محرم غار۔ یار غار نہایت دوست جانی دوست۔ محمد جان قدسی۔ پیوستہ ز یک جیب بر آرند سر خویش + شمشیر تراتیغ اجل محرم غارست۔

محنت خور۔ وہ شخص گزارہ جسکا رنج و محنت سے ہو۔ نظامی۔ بیکیسا ہے آن می کہ محنت برست + بچون من کسے دہ کہ محنت خورست۔

محض غلط۔ جسمین کچھ صحت نہین۔ سنجر کاشی۔ گر بسر یارست نزاع سنجر + محض غلطست این نہ کس او نہ کس ماست۔

محاسن از آسیا سفید کردن۔ چکی کے آٹے سے داڑھی سفید کرنا یا وجود بڑی عمر کے بیوقوف ہونا۔ یحیی شیرازی۔ من چو سرگرم مستی بودن گرد جہان گشتن + مگر چون خود محاسن را سفید از آسیا کردم۔

محاصرہ کردن۔ تنگ کرنا حصار مین بند کر دینا باہر نکلنے نہ دینا۔ جمال الدین سلمان۔ اگر محاصرہ آسمان کند رایت + بیکدو ماہش ہر نہ حصار بکشاید۔

محبت باختن۔ عاشق ہونا محبت سے پیش آنا۔ حافظ۔ صنعت مکن کہ ہر کہ محبت نہ راست باخت + عشقش براے دل در معنے فراز کرد۔

محشا کردن۔ کسی کتاب کا حاشیہ لکھنا۔ ہاشم صبوری خوانساری۔ صفحہ روے بتان را خط محشا می کند + یعنی آری نکتہ دان از لفظ پیدا می کند۔

محمل راندن۔ ہودج اور کجاوہ کھینچنا۔ فیضی۔ بردیدہ ز گریہ کاروان راند + صد محمل غم بدل نہان راند + ہم مرحلہ زمین برید + ہم محمل آسمان کشید۔

محمل بستن۔ کجاوہ اور ہودج باندھنا۔ حافظ۔ مرا در منزل جانان چہ امن و عیش چون ہر دم + جرس فریاد میدارد کہ بربندید محملہا۔

میم با دال

مدد کردن طبیعت۔ نکل جانا برا زاور فضلہ کا۔ محمد سعید اشرف۔
ہر جواب نکتہ طبع سقیم تو + درماندہ ایم بلکہ طبیعت مدد کند۔
مد نظر۔ جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔
مداد فروش۔ سیاہی بیچنے والا۔ سیفی۔ روز من از مداد فروشی گر
شب ست + تنہا ز بخت نیست کہ علت مرکب ست۔
مد بلبل۔ بلبل کی آواز اور نالہ۔ طغرا۔ صریرے کہ از کلک نے گل کند +
خط فرو را مد بلبل کند۔
مدارا کردن جامہ۔ دیر تک خدمت کرنا۔ مخلص کاشی۔ گردون ہزار
جامہ تن تار تار کرد + این نیلگون قبا چہ قدر با مدارا کرد۔
مد سرمہ۔ سرمہ کی سیاہ دھاری جو آنکھ میں لگاتے ہیں۔ شفیع اثر۔
ز چشم خلق نیفتادہ ہنوز اثر + چو مد سرمہ سیہ روزئی تو در نظر ست۔
مد نگاہ۔ درازی اور دور رسی نظر کی۔ میر نجات۔ خلق مشغول دعا
گوے مدنگہت + متوجہ ہمہ بر آیۂ خط سبیست۔

میم با ذال معجمہ

مذاق زدن۔ اپنی بیتابی کا اظہار معشوق سے آگے کرنا۔
مذہب کردن۔ دین و آئین کرنا۔ میر خسرو۔ گیرم کہ تو خونخوارہ بیگانہ
نخواہی + خون ریختن خلقے مذہب نتوان کردن۔
مذکر سماعی۔ کہنے سننے کے واسطے مرد یعنے وہ مرد جو عورت کے حکم میں ہو۔

میم با راے

مرد آزما مرد افگن۔ بہادر پہلوان زور آور۔ محسن تاثیر۔ ہمہ کرشمہ
گز کوہ را کمر بشکست + گمان لطافت مرد آزماے من دارد۔ صائب۔
در شیشہ گردون نیست کیفیت چشم او + این ساغر مرد افگن مینائے دگر دارد۔
مرغ قبلہ نما۔ طائر قبلہ نما۔ وہ جانور کی شکل جو قبلہ نما میں بنا کر رکھتے ہیں اور منہ اُسکا ہمیشہ
قبلہ کی طرف رہتا ہے۔ محسن تاثیر۔ دلے کہ در قفس سینہ طوف کعبہ کند + چو مرغ قبلہ نما در حرم تسلی نیست
راضی۔ طالب حق غم ایام نبیند کہ چیست + طائر قبلہ نما دام نمیداند چیست۔
مرہم بہا۔ وہ روپیہ جو کسی مجروح کو زخم کے علاج کے واسطے دیتے ہیں۔
عبد اللہ ہاتفی۔ ثنا گفت بر کار استادشان + ز مرہم بہا خون بہا دادشان۔
مروارید شب تاب۔ نہایت روشن موتی۔ میر خسرو۔ زر افشاندی و مروارید
شب تاب + فشاندی تا سرم در آتش و آب۔
مرتبہ اول حساب۔ ایک سے دس تک۔
مرتبہ دوم حساب۔ عشرات دس سے سو تک۔
مرغ دوست۔ ایک مرغ کا نام ہے جو طوطی کی طرح باتیں کرتا ہے۔ رضی

شیرازی۔ زبان تا در دہان دارم حدیث دوست میگویم + چو مرغ دوست
تا دم میزنم یا دوست میگویم۔
مرکز چرخ۔ کرہ زمین کا۔
مردان مرد۔ بہت دلاور و صاحب زور و جنگ آزما جو اور مردوں سے
شجاعت و دلاوری میں فائق ہوں۔ نظامی۔ روا رو بر آمد ز راہ نبرد + ہزاہز
در آمد بمردان مرد۔
مرد کار آمد و مرد کاری۔ وہ مرد جس سے کوئی نمایاں کام ظہور میں
آیا ہو۔ محسن تاثیر۔ بجز فرہاد کو را تیشہ آخر بکار آمد + درین ویرانہ دہ
یک مرد کار آمد نمے آمد۔
مرسل پیوند۔ زینت بخش اور زیب دینے والا۔ نظامی۔ سابقہ سالار
جہان قدم + مرسل پیوند گلوے قلم۔
مرغ چمن زاد۔ ایک مرغ ہے جو ہمیشہ باغ میں رہتا ہے۔ میر خسرو۔ چرا
بنالد این مرغ چمن زاد + مگر او نیز از یاران جدا شد۔
مرغ فلانے دوست میخواند۔ یعنے فلاں شخص بڑی خوشی کی حالت میں ہے۔
خان خالص۔ ہر طرف ابر بہاری نشاء افزاے مل ست + مرغ بلبل دوست
میخواند مگر فصل گل ست۔
مرگ نو مبارکباد۔ جب کوئی نئی بات ظہور میں آتی ہے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے۔
غنیمت۔ بمکتب آمد آن طفل پریزاد + مبارکباد مرگ نو باستاد۔
مرغ نبرد۔ بہادر دلاور و جنگ آزمودہ۔
مرغ آتشخوار۔ کبک یعنے چکور۔
مرغ نامہ بر۔ کبوتر اور ہدہد۔
مردۂ فلان چیز۔ عاشق فلاں چیز کا۔ سالک قزوینی۔ زان لب کہ مردۂ
نفسش آب زندگی ست + دشنام خشک ہم بدعا گو نمیرسد۔
مرغ آتشباز۔ ایک قسم کی آتشبازی کا نام ہے۔ حکیم شفائی۔ کسے کہ گرم
غمہاے تو چون من برنمیگردد + بجنگ شعلہ آری مرغ آتشبازی آید۔
مرغ انداز۔ وہ لقمہ جو چبائے بغیر کوئی حلق میں نکل جائے۔ محمد حسین
شہرت۔ میتواند کرد مرغ انداز یکجا فیل را + دانہ ہر کس تناول کرد از خوان طمع۔
مرغ دست آموز۔ وہ مرغ جو ہاتھ پر پالا جائے۔ سو۔ آشنائے ہم نشانی
برق خرمن سوز را + بال کوتاہی ندارد مرغ دست آموز را۔
مردہ کش۔ مردہ اٹھانے والا۔ محسن تاثیر۔ از مردہ رسم مردہ کشی کس
ندیدہ بود + زاہد چرا ملازم نعش و جنازہ است۔
مرگ موش۔ سم الفار سنکھیا جو ایک معدنی زہر ہے۔ فوقی یزدی۔ بیا
ساقی آن دشمن ہوش بیار + وزان مرگ موش خرد کش بیار۔

مردہ ذوق - جسکا حسن اور ذوق جاتا رہا ہو - نورالدین ظہوری
تبسم کہ مردہ ذوق شمارند خضر را + جان دادنی ز شوق تو روزی ہوس نکرد
مردہ رنگ - جسکا رنگ بسبب خوف یا غم وغیرہ کے مردہ کیطرح ہو گیا ہو
تسلیم میرزہ گوے چند ہمچون سرخوشان انجمن + مردہ رنگی چند ہمچون کشتگان یادیہ
مرد آہنگ - مرد گیر - ایک ہتھیار کا نام ہی جو چوگان کی طرح سرنگون ہوتا ہی
مرد ارسنگ - ایک قسم کا پتھر ہی - عبدالغنی قبول - جیفۂ دنیا ندارد
پیش پا رنگے کہ لعل میشود مردار سنگ + از دست استغناے ما -
مرحبا زدن و کردن و گفتن - خوشی کی حالت مین کسی شخص یا کسی چیز کے
روبرو آنے پر مرحبا کہنا کیونکہ یہ لفظ عین خوشی کی حالت مین بولا جاتا ہی
امیر خسرو - با دشمن کہ تیر جفا بر کمان نہند + چون دوستان ز دیدہ و دل
مرحبا کنیم - خواجہ سلمان - طریق عشق مے بوسے خرد را الوداعی گو
بساط قرب میجوے بلا را مرحباے زن -
مربع نشستن - چار زانو بیٹھنا - صائب - ز بیتابی گرہ نکشود از
کار سپند من + مربع در دل آتش نشستم تا چہ پیش آید -
مرد گیران - یہ ایک جشن آتش پرست ہر سال ماہ اسفندار ا خیر پانچوین کو
کرتے ہین اسروز مرد اور عورتین متکلف لباس پہنکر جمع ہوتی ہین عورتون کو
اختیار ہوتا ہی کہ جس مرد کی بغلمین چاہین جا بیٹھین اور داد عیش دین کوئی
انکو مانع نہین ہوتا بلکہ سب دیکھکر خوش ہوتے ہین -
مُردن - مرنا فوت ہونا رحلت کرنا دنیا سے چل دینا - سعدی - بچہ کار
آیدت جہانداری + مردنت بہ کہ مردم آزاری -
مرصع زبان - فصیح کلام شیرین زبان خوش تقریر - طالب آملی معلے
کلام ہمصفے ضمیر + ملیح بیان و مرصع زبانم -
مرغ آمین - یہ ایک فرشتہ ہی جو ہمیشہ ہوا مین اڑتا اور آمین آمین
کہتا ہی پس جس شخص کی دعا اسکے آمین کہتے وقت زبان سے نکلتی ہی
فوراً مستجاب ہو جاتی ہی - حسن رفیع - گلشن عاشق دعا گو را + بلبلے بہ
ز مرغ آمین نیست - مولانا بہشتی - دعاے ما باجابت نمیشود نزدیک
کشید زلف تو در دام مرغ آمین را -
مرغ زرین - مشہور مرغ ہی -
مرغ سحر خوان - بلبل -
مرغ مجنون - وہ مرغ جسنے مجنون کے سر مین گھونسلا بنایا تھا -
محمد عرفی - زان دل شوریدہ را بر تارک سر می نہم + کاشیان مرغ مجنون
شد دل شیداے من -
مرکب چوبین - تابوت لکڑی کا - نظام دست غیب - شیرین سوار
شعلہ را چہ کار ہ تابوت روز مرگ + آتش چسان بمرکب چوبین سوار شد -
مرغ حق گو - ایک مرغ کبوتر کی قسم سے ہی جو حق حق کہا کرتا ہی - ظفرا
دل مرغ حق گو مگر خون شود + کہ از جنگش این نغمہ بیرون شود -
مرغان اولی اجنحہ - ملایک آسمانی اڑنے والے فرشتے -
مرغ بسم اللہ - وہ بسم اللہ جو کسی مرغ کی صورت پر لکھا ہو - سعیدا ملکین -
ز یک عضو من از دست نباشد خالے + سر تا پا حق چو مرغ بسم اللہم -
مردم آبی - دریائی آدمی - ملا حسین آشوب - نقد اشکم ز ابر و را از مردم
چشمم ربود + گرد لا گردم کہ باج از مردم آبی گرفت -
مردم داری - ظاہرداری و پاس خاطر - س - ز دست ما ازین پاس
دلہا بر نمی آید + بزنگ سر مہ مردم داری از ما بر نمی آید -
مرصع خوانی - ساختہ تقریر کرنا قصہ خوانی کی تمہید رنگین کلامی و خوش
سخنی - س - قصہ قبضۂ شمشیر تو دارم ہمیان + گوش کن گوش کہ رنگم مرصع خوانی
مرغ کاغذی - پتنگ اور کنکوا جو لڑکے ہوا مین اڑاتے ہین - سید
خالص حسین - شوق پروازی کہ من با نامہ خود دیدہ ام + دیدہ ام آخر کہ
مرغ کاغذی خواہد شدن -

	میم با زاے معجمہ	

مژگان آفتاب - آفتاب کے خطوط شعاعی - میرزا صائب - این بوستان
کیست کہ مژگان آفتاب + چون خار گردن از سر دیوار میکشد -
مژگان دراز - محبوب کی تعریف مین بولا جاتا ہی - ظہوری - جفا بر شد
اے شوخ مژگان دراز + مزن دست بر نرگس چشم و ناز -
مزہ کش - نہایت لذیذ و متلذذ - حسین ثنائی - ہمچو طفل گرسنہ پیر
خرد + مزہ کش از سر پستان من ست -
مزاد کردن متاع - جنس کا نرخ بڑھا دینا قیمت زیادہ کر دینا - طغرا -
متاع اوست آنچنان مزاد کنم + کہ ہیچکس نکند جرات خریداری -
مژگان فرنگ - محبوب کی تعریف مین کہا جاتا ہی - ہیجو د جامی - ہیچو
چون بنگر چشم آن مژگان فرنگ شند + قلم را ز پے نرگس کند در وقت تحریر
مزاجدان - وہ شخص جو کسی کے مزاج کا واقف ہو - میر جملہ
شہرستانی - کنارہ جوے از این مشت استخوان شدہ اند + سگان این
سر کو خوش مزاجدان شدہ اند -
مزار بستن - مقبرہ بنانا - گور تیار کرنا - نورالدین ظہوری - کفن
پروانہ را از پردۂ فانوس می باید + مزارش را کسے کاش در پای لگن بندد -
مژہ شکستن - ڈالنا تبدیل کرنا - سعید اشرف - چو شکستہ بخت واژون
مژہ شراب مارا + بشراب وا نگندہ نمک کباب مارا -

مژگان برہم زدن - پلکیں آپس میں مارنا۔ صائب - مژگان بہم مزن کہ از افتادن خشت + آئینہ کہ حسن تو در بر گرفتہ است۔

مژگان بستن - آنکھیں بند کرنا۔ میرزا بیدل - دیدہ واکردن قیام و بستن مژگان قعود + در تماشایت سراپا طاعتم از چشم خویش۔

مژگان بہم آوردن و سودن - آنکھیں بند کرنا۔ داراب بیگ جویا - گہ از غلط از بس تازگی مژگان بہم سودن + کم از دندان فشردن نیست بر لبہاے سیگونش۔ نور الدین ظہوری - حاصل جمعیت اسباب بجز غیرت نبود + صفت ما بیدل کہ مژگانے بہم آوردہ ایم

مژہ کشادن - آنکھیں کھولنا۔ طالب آملی - بر جلوہ شیرین چہ گشایم مژہ از دور + چون طاقت آشفتگی کوہ کنم نیست۔

مژدہ دہ و مژدہ رسان - خوشخبری دینے والا البشارت پہونچانے والا۔ امیر خسرو معراج کے ذکر میں - مژدہ رسان گفت بمژدہ پذیر + کا ورد آہنگ بعرش سریر باد بدین مژدہ دلم ہر نفس + مژدہ دہم نیز تو باشی و بس۔

مژگان سیاہ - محبوب کی تعریف میں کہا جاتا ہے۔ رضی دانش - سیہ شد روزم از مژگان سیاہان + ندیدم راستی زین کج کلاہان۔

مزاج گوئی - وہ شخص جو دوسرے شخص کے مزاج کے مطابق کلام کرے۔ سعدی - حکایت بر مزاج مستمع گوئی + اگر دانی کہ دارد با تو میلے + ہر آن عاقل کہ با مجنون نشیند + نگوید جز حدیث روے لیلی۔

میم با سین مہملہ

مست طافح - نہایت مست۔

مسقط الراس - وطن زاد بوم جاے ولادت معنے اسکے جگہ گرنے سر کی چونکہ ولادت کے وقت پہلے ماں کے پیٹ سے سر زمین پر آتا ہے اس لحاظ سے جاے ولادت کو مسقط الراس کہا گیا

متساوی الاضلاع - کوئی چیز مثلث ہو یا مربع وغیرہ مگر گوشے اسکے برابر ہوں

مستقل خانہ - منکوحہ عورت۔ حکیم شفائی در ہجو فکرے - تخم حرمزہ مستقل خانہ سالہاست باشد + کہ از و بہرہ ترا تا بقیامت باشد۔

مسجد آدینہ - وہ مسجد جسمیں جمعہ کی نماز ہو۔ صائب - ہر چند بر زمین در دل با فشہ کنند + زاہدان بمسجد آدینہ میرود

میم با شین معجمہ

مشک پیچ - زلف کی تعریف میں لکھا جاتا ہے۔

مشتے کہ بعد جنگ یاد آید بر کلہ خود باید زد - مثل ہے یعنے جو کام وقت پر نکیا جاے اس پر پشیمانی لا حاصل ہے کہ کیوں نہ کیا۔

مشک سود - رخسار و قلم و زلف کی تعریف میں بولا جاتا ہے۔ شیخ العارفین - دربن فکرم کہ تعلیم جبین سازم سجودش را + بداغ دل ہم یاد عذار مشک سودش را

مشکین پرند - رات اور بادل کی تعریف میں لکھا جاتا ہے۔ نظامی - علم بر کش اے آفتاب بلند + خرامان شو اے ابر مشکین پرند۔

مشک را کافور کردن - سیاہ کو سفید کیا۔ قطعہ از مولف - کرد موے خالق اکبر سپید + از رخت داغ سیاہی دور کرد + باز در فکر سیہ کردن مباش + چونکہ مشکت را خدا کافور کرد۔

مشت افشار - نرم چیز جسکو مٹھی میں پکڑ کر نچوڑیں اور ایک قسم انگوری شراب کا

مشکبار - زلف اور خال کی تعریف میں لکھا جاتا ہے۔

مشک دوز - مشک سینے والا۔ سیفی - دلدار مشک دوز کہ دو پارہ شد جگر + چون گفتمش کہ دوز دلم ساخت پارہ تر۔

مشت و درفش - لڑنا ضعیف کا قوی کے ساتھ ایسا ہی جیسا کوئی مکا درفش پر مارے اور اپنے ہاتھ کو زخمی کرے۔ میر محمد علی رائج - ضبط آہ دل پر آبلہ مشت ست و درفش + صحبت درد تو و حوصلہ مشت ست و درفش

مشک پاش - زلف کی تعریف میں لکھا جاتا ہے۔

مشخص - تشخیص کیا گیا اور نا مشخص وہ جو ایک وضع اور ایک حالت نہو۔ ابو طالب کلیم - ہمچون کلیم دیگر یک نا مشخصے کو + آگاہ و مست غفلت مشغول و بیکار

مشکین خط، مشکین کلالہ، مشکین کمند - محبوب کی تعریف میں بولتے ہیں۔ صفدر فوقانی - دید جام مے گلگون پیاپے + بہر شب ساقی مشکین کلالہ

مشرف - بلندی کو پہونچنے والا اوپر سے دیکھنے والا اور وہ عمارت جو دریا کے کنارے واقع ہو۔

مشرف بر مرگ - جو شخص نزع کیحالت میں ہو۔ عرفی - قدم چون رنجہ فرمودی ز بالینم مرو زودت + بغایت سخت قہم بر مرگ بنشین یکدمے دیگر۔ ملا لکھی ملوری - باسپیدیکہ بالعل لبت خواہد مشرف شد ہمے از کام صراحی رفتہ در پیمانہ می قصد۔

مشک رنگ - زلف کی تعریف میں لکھا جاتا ہے اور سبزہ رنگ معشوق کی صفت میں

مشعل وادی کلیم - وہ درخت جس سے حضرت موسی علیہ السلام کو جلوہ انوار الہی نظر آیا

مشت بتاریکی زدن - پوشیدہ کام کرنا۔

مشت بیضہ کردن - مکا بند کرنا کسیکے مارنے کے لیے۔ میر نجات - جان من اول فتح ست بترس از تنگ و تازے + بیضہ کن مشت و بران گردن سخت بتوز

مشت زدن - گھونسا مارنا مکا لگانا۔ علی ترکمان - تا با آتشکدہ از قحبت دین مشت زدیم + تیشہ لغزہ بر و خمہ زر دست زدیم + غیر در عرصہ ما جا نتواند کردن + شیر بگو پیران بیشہ کہ ما مشت زدیم۔

مشق گرفتن - مشق کرنا ایک کام کو بار بار کرنا بہت کرنا۔ طالب آملی - بین چگونہ ز سیہ پیچ و تاب موے آتش + کہ من ز موے میان مشک پیچ و تاب شدم

مشکل کشیدن - رنج اور تکلیف کھینچنا۔ علی خراسانی - ہم اجل با من

تنہا قفل ترا دو ہم بحر یار + بانکے جہان پر از محنت و مشکل است

مشورت باکلاہ کردن - بے مشورت کوئی کام نکرنا اگر کوئی اہل مشورہ نہو تو ٹوپی کے ساتھ مشورہ کر لینا - محمد قلی سلیم - بے ترک سر چو عشق نمیشود + کنج نشین و مشورتے باکلاہ کن -

مشعل کشان - مشعل بجھانے والے دشمن بدخواہ اور نام ایک قوم کا کہ جب چند لڑکیان اور لڑکے اُنکے جوان ہوجاتے ہین تو رات کو ایک مکان مین لڑکیون کی اوڑھنیان رکھکر چراغ گل کر دیتے ہین اور لڑکون کو کہتے ہین کہ ایک ایک اوڑھنی اندھیرے مین اُٹھا لاؤ پس جو لڑکا جسکی اوڑھنی اُٹھا کر لاتا ہے وہ لڑکی اُسکی عورت ہوجاتی ہے - نظامی - چو کردی چراغ مرا نور دار + زمن باد مشعل کشان دور دار -

مشک ریختن در چیزے - خوشبودار کرنا - شفیع اثر - بہر زینت زعفران حل کرد نرگس در قدح + وز برادت زلف سنبل ریخت مشک تر در آب -

میم با صاد مہملہ

مصحف مذہب - وہ قرآن شریف جسکو سونا لگا ہوا ہے - میر محمد علی رائج - دین باخت ہر کہ دولت دنیا بر و فزود + مصحف ز خوف دزد مذہب نکردہ ام

مصحف یاقوت - وہ مصحف کہ یاقوت خوشنویس کا لکھا ہوا ہو - محمد حسین شہرت - یلبس نوشتہ حدیثے بخط ریحانی + کہ من بمصحف یاقوت ہم سخن دارم -

مصحف خصم او گردد - بددعا ہے کہ قرآن شریف اُسکا دشمن ہوجاوے - محسن تاثیر - خط خوبان خصم عاشق برآزرد گردد + کہ یا رب کرد نفرینش کہ مصحف خصم او گردد -

مصرع تند - مصرع برجستہ - ملا طغرا - چون شمع کو بہ شعلہ نظم زبان بسوز + نقصان مباد مصرع تندر رسیدہ را -

مصلحت دید - صواب دید اور نیک تجویز - حافظ - مصلحت دید من آنست کہ یاران ہمہ کار + بگذارند و خم طرہ یاری گیرند -

مصرع تیز - مصرع ریختہ - مصرع برجستہ و تند - اوجی نظیری - عزیزان بکف وقت من + گر بود دشمن الماس کز ناخن گیر ست -

مصلحت اندیش - دوست خیرخواہ - شعر - اندرین دوران کسے یار محب بیش نیست + دیر زمانہ دوستدار مصلحت اندیش نیست -

مصرع تنگ - بہت چھوٹا مصرع - ظہوری - وہم در کیے مصرع تنگ جا + زرو خلعت و اسپ و باغ و سرا -

مصاف شکن - فتح مند بہادر پہلوان - میر معزی - معز دین ہدی خسرو مصاف شکن + خدایگان جہان شہر بلوک شکار -

مصحف خوردن - قرآن کی قسم کھانا - محمد سعید اشرف علاضش

راز خم کردی باز ہنگر سینہ ہوی دو حبابست + وفا الست سپید اعلی مصحف مخورید -

مصحف سپید شدن - قیامت کے قرب سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ قرآن شریف سے حروف اُڑ جاینگے اور کاغذ سپید رہجا ئیگا - سیدہ خط زدی تراش جہان در ندامت ست + مصحف سپید گشت نشان قیامت ست

مصرع پیچیدہ - وہ مصرع جسکے معنی تامل سے دریافت ہون - سلیم - ہر کسے بیرون نمی آرد سرے از زلف او + شانہ دانستہ این مصرع پیچیدہ را

مصلحت خواہ - خیر خواہ نیک خواہ - نظامی - بران وارم اے مصلحت خواہ من + کہ باشد سوے مصلحت راہ من -

مصافگاہ - لڑائی کی جگہ - میر معزی - مخالفان ترا در مصافگاہ جدال ہمیشہ ہست بشمشیر مرگ ضرب رقاب -

مصرع آمدہ - مصرع برجستہ - وہ اچھا مصرع جو بغیر فکر کے بہم پہونچ جاوے - طاہر وحید - دیوان پر از مصرع برجستہ شوخی ست + آن ترکش پر تیر بران قامت موزون - محمد افضل ثابت - مصرع آمدہ چون قد خود موزون سرو عاشق سخنے تازہ غزلخوان شدہ -

مصیبت خانہ - غمخانہ ماتم خانہ سوگ کا گھر - میرزا صائب - آسمان سنگدل را چشم اشک آلود ساخت + دود آہے کز مصیبت خانہ ما شد بلند

مصحف بغلی - چھوٹی تقطیع کا قرآن جو زیر بغل رکھین حمایل بھی اسکو کہتے ہین - صائب - عزیز دارد دل پارہ پارہ مارا + کہ شمع را پر پروانہ مصحف بغلے ست -

میم با طاے مہملہ

مطلع دو لخت - وہ مطلع جسکے دونون مصرعون کا مضمون الگ الگ ہو ایک کے ساتھ دوسرے کا تعلق نہو چنانچہ - صائب - اے روے چون بہشت ترا کوثر آئینہ + رخسار آتشین ترا مجمر آئینہ -

مطبخ سفید داشتن - باورچیخانہ طعام سے خالی رکھنا - میر خسرو - نیست توان خورد کہ گاہے نبید + کاسہ سیہ دارد مطبخ سپید -

مطلق العنان - مطلق خرام - صرف اشارہ پر چلنے والا گھوڑا صاف چلنے والا باگ چھوٹی ہوئی - نظامی - چو وہم از ہمہ سو سے مطلق خرام چو اندیشہ در تیز رفتن تمام - صائب - غبار در دل ہیچ آفریدہ نگذارم اگر چہ سیل مرا مطلق العنان سازند -

میم با عین مہملہ

معرکہ ساز و معرکہ گیر - دنگل بنانے والا کشتی کے لیے یا طاس یا بازیگے واسطے یا بندر نچانے کے خاطر - سلیم - افتد زسبکہ طشت کسے بر نفس ز بام + روے زمین چو معرکہ طاس باز شد -

معلق زن - ہوا مین معلق رہنے والا آدمی ہو یا کبوتر وغیرہ - نظامی - ہمان پاے کوبان کشمیر زاد + معلق زن از رقص چون گرد باد -

معاملہ رفتن - معاملہ کردن - باہم لین دین کرنا سوداگری کا - حافظ - مجوز طالع مولود من بجز رندی + کہ این معاملہ با کوکب ولادت رفت -

معدہ انبار بودن - شکم پرست و پرخوار ہونا - سعدی - بکے زان میان معدہ انبار بود + ز پرخواری خویش پرخوار بود -

معدہ تنگ کردن - بہت سا کھانا کھانا - سعدی - بجز سنگدل کے کند معدہ تنگ + چو بیند کسان بر شکم بستہ سنگ -

معرفت شنیدن - عرفان کا کلام سننا - حافظ - بیا و معرفت از من شنو کہ در سخنم + ز فیض روح قدس نکتۂ سعادت رفت -

معشوق پران - وہ شخص جو ہر روز نیا معشوق بنائے - سلیم - حیف باشد کہ ز بیمہری تو شکوہ کنیم + ما کہ معشوق پران ہمچو کبوتر بازیم -

معما گشادن - معما حل کرنا -

معنی بیگانہ - وہ تازہ معنی جو پہلے کسی نے نہ باندھے ہوں - صائب - صائب ز آشنائی عالم کنارہ کرد + ہر کس کہ شد بمعنی بیگانہ آشنا -

معنی پیچیدہ - وہ معنی جو آسانی سے سمجھے جائین - ملا منیر پان کی صفت مین - بو صفش معنی پیچیدہ بستم + طلسم سبزہ اش پیچیدہ بستم - مخلص کاشی - غیر لسان نیست ضعیف قابل فتراک عشق + دیگرے رین معنی پیچیدہ سرو کو -

معشوق زور بینوائی معشوقہ روز بینوائی - وہ معشوق جو مفلسی و بینوائی مین سازگار ہو - شفیع اثر - بے وصل نیست عاشق چون بود بے جدائی + باشد خیال جانان معشوق بینوائی - محمد قلی سلیم - مفلس چو شدیم رو با دادوم معشوقہ روز بینوائی ست خدا -

معشوق خیالی - وہ معشوق جسکا ہر وقت خیال رہے اور تصور بندھا رہے - فغان خالص - نباشد گر سر یاری بما آن لا ابالی را + کسے از دست ما نگرفتہ معشوق خیالی را -

	میم با غین معجمہ	

مغز خر خوردہ است - نہایت بیوقوف اور احمق ہے - کمال اسماعیل - خلق گویند مغز خر خوردہ است + ہر کرا احمقی تمام بود -

مغز در سر ندارد - بالکل احمق اور بیوقوف ہے - ذوقی - چہ فہمد نکتۂ اہل خرد را + ہر انکو مغز اندر سر ندارد -

مغز دار - صاحب مغز مقابل بے مغز - طاہر وحید - دران ساعت کہ از وصف لب شیرین سو دکام + بدہ یا رب زبان مغزداری ہمچو بادام -

مغز بردن - بیدماغ کرنا بہت سا بولکر تنگ کر دینا - سعدی - جنجوال ز ہول اربپیچید + مغز ما بردو حلق خود بدرید -

مغز تر کردن - مغز تر کرنا کسی اچھی بات کے سننے سے فرحت پانا - نظامی - بگفتارش مغز را تر کنم + بگفت کسان مغز در سر کنم -

مغز دیدہ بر مژگان دویدن - آنسو بہنا گریہ و زاری کرنا - طالب آملی - بگو تا خود چہ در خاطر خلیدست + کہ مغز دیدہ بر مژگان دویدست -

مغز روشن کردن - دماغ کو درست اور صحیح الفکر کرنا - نظامی - چنان گویدا این نامۂ نغز را + کہ روشن کند خوانندش مغز را -

مغز استخوان - وہ مغز جو ہڈی کے اندر ہوتا ہے - باقر کاشی - شب تا سحر ستادہ بیکپا در انجمن + مغز قلم گداختہ در استخوان شمع -

مغز شیر برآوردن - نہایت طاقت و زور سے کسی کام کو کرنا - سعدی - بروز معرکہ ایمن مشو ز خصم ضعیف + کہ مغز شیر برآرد چو دل ز جان برداشت -

مغز پوسیدہ - بہت ضعیف و سالخوردہ - نظامی - تو اے مغز پوسیدہ سالخوردہ + ز گستاخی خسروان باز گرد -

مغلوبہ - الجھن ہو جانا دو لشکرون کا بوقت لڑائی کے - ظہوری - ز مغلوبہ گرد دیکے روے داشت + دل و گردہ کوشش در جنگ و مشت -

	میم با فاے	

مفرد سوار - یکہ تاز جنگی سوار - لڑویا بہادر - نظامی - خبر داد عارض کہ شش صد ہزار + برآمد دلیران مفرد سوار -

مفرح دادن - مفرح رساندن - فراغت پہونچانا کام سے فراغت دینا - نظامی - رحیقم برقص آورد آب را + عقیقم مفرح دہد خواب را + ولہ - نشاط اندر آرد بخوانندگان + مفرح رساند بدانندگان -

مفرح گری - فرحت پہونچانا خوشی دینا - ملا طغرا در لوحیار - ندید از غمش تا مفرح گری + بقہقہ نیفتاد کبک دری -

	میم با قاف	

مقابل کوب - وہ شخص جو اپنے ہمسر کو پست کرے بلند ہونے دے - محسن تاثیر - ہر بلندی را مکافاتے مقابل کوب ہست + میخورد بر سکہ زر تا سکہ بر زر میخورد -

مقری تسبیح - تسبیح کا امام جو لمبا مہرہ ہوتا ہے - محسن تاثیر - محض شہرت بہ بزرگی کس حجت نیست + کسے از مقری تسبیح اذان نشنیدست -

مقراض گر - مقراض یعنے قینچی بنانے والا - طاہر وحید - چہ گویم من از وصف مقراض گر + کز و شد صرار ریزہ ریزہ جگر -

مقنع انداز - بر قع پوش پردہ دار - میر خسرو شیرین کی تعریف مین - کلہ دار ست چون شاہان سرفراز + ز بیر رسم عروسان مقنع انداز -

مقابلہ کردن - روبرو کرنا - برابر کرنا - سنجر کاشی - ضمیر پاک تو باد

ضمائر خلق اگر مقابلہ کرے مہندس تقدیر بلسان عکس در آئینہ منتقش
ویدہمی + دور و تصور خلق از نقیر واز قطمیر

مقراض بر سر کسے راندن - نوازش کرنا قدر و منزلت بڑھانا عزت بخشنا - جمال الدین سلمان - آنکہ بخشیدش کلاہ و بر سرش مقراض راند
گر سرش برد نشاید بعز ز ہلکش تافتن -

مقراض زدن - مقراض کردن - قینچی - کترنا کسی چیز کو قینچی سے - شیرازی
بستند ملایک کمر از صدق و یقین + در خدمت شمع روضۂ خلد آئین مقراض بیا
باحتیاط زن اے خادم + تر سم بپیری شہ پر جبرئیل امین - اسماعیل ایما -
ببسکہ نتوانم بیکبار از جوانی دل برید + میانم مقراض ہر مو کہ میگردد سپید

مقامر پیشہ - مقمر پیشہ - قمار کھیلنے والا - باقر کاشی - آن مقمر پیشہ ...
تا زم کہ او + مہرہ ام در عین ششدر میزند -

میم با کاف

مکان علیا - ساتوان آسمان - ارادت خان واضح - ادریس را مکان علیا جو مغفرت + دار جنین بیا اسیری چہ اعتبار -

مکرباز - فریبی آدمی اور مکار - مولوی معنوی - ہمرگی وبنبلی وجمع
ما ز + چون کنی پنہان لبشید لے مکرباز -

مکر بہ آب زدن - رونا اور روکر کسی کو فریب مین لانا - محسن تاثیر - مائل فریبہ گریۂ زاہد نمی خورد + این مکر تازہ الیست کہ بر آب میزند -

مکیدن - چوسنا - شیخ - تا تمام شب وصل تو آید + بانم چون شمع ہمیلدا ز ذوق دہن را -

مگس پراندن - بیرونقی و سرد بازاری جنس تجارت کی - کلیم - کار کلیم با
آنجا مگس پرانی ہمر جا کہ دل زیار شیرین شمایل افتد -

مگس ران - چوری اور مورچھل جو مکھیان اڑانے کے لئے بناتے ہین - صائب
جلوۂ رنگین ندارد عاقبت ہشیار باش + شہپر طاوس را آخر مگس ران میکنند -

میم با لام

ملک سیرت - ملک نہاد - اچھا آدمی - بھلا آدمی - نیک آدمی -

ملامت گر - ملامت کرنے والا - مولانا مظہر - بر آشفت و بزد برابرو گرہ
کشادہ زبان در ملامت گری -

ملا شدن آسان و آدم شدن مشکلے - یہ ایک مثل ہے - صفدر خوقانی - فاضل و ملا شدن آسان ترست + لیک مشکل تر بود انسان شدن

ملکات فاضلہ چارگانہ - حکمت - شجاعت - عفت - عدالت -

ملکات ردیہ ہشتگانہ - حسد - بغض - بخل - حرص - کینہ - غضب - کبر - بیحیائی -

میم با نون

من راہ - مجھکو فارسی مین مرا اسکا مخفف ہے - آصفی قلی خان -
نے الحقیقت دشمنی من را چو رنگ آئینت + زردی روے مرا از دست بیداد ونان

منقار وقت وساعت - گھڑی جس سے وقت معلوم کرین - محمد سعید اشرف - غم شوقت عالم از اثر بد و لیست لیت + منقار وقت و ساعت گردون گسست -

من بعد - بعد ازان اسکے پیچھے - حافظ - من بعد چہ سودار قدمی رنجہ کنید یار
کز جان رمقے در تن رنجور نماندست -

منجنیق انداز - پتھر چلانے والا گولی مارنے والا - بدر چاچی نگر کوٹ کے
قلعہ کی تعریف مین ہے برجش او ہمہ جو لوان منجنیق انداز + ذر ون او
ہمہ حوران آفتاب لقا -

من در چہ خیالیم و فلک در چہ خیال - یعنی مین کس خیال مین ہون اور میرے مقسوم کس خیال مین ہین - ع - من در چہ خیالیم و فلک
در چہ خیال + کارے کہ خدا کرد فلک را چہ مجال -

منقار گل - زبان جسکے ذریعہ کلام کرتے ہین - نظامی - جان تراشیدہ
بمنقار گل + شکرت خائیدہ بدندان دل -

منادی زن - وہ شخص جو آواز دہل کے ساتھ منادی کرے - مولانا
جامی - منادی زن منادی برکشیدہ + کہ این عبری غلام زر خریدہ -

منت بجان - منت بسر - کسیکا دل سے احسان ماننا احسان قبول کرنا -

منحصر شدن - بند اور قایم ہوجانا کسی امر کا کسی شخص کی ذات پر -
اسیری لاہجی در مدح شیخ نوربخش - منحصر شد ہبری بر ذات او + ثبت
منشور جہان آیات او -

منزل کردن - کسی جگہ پر اترنا مقام کرنا - فردوسی - سوم منزل آنشا
آزاد مرد + لب دجلہ شہر بغداد کرد -

من ترازو - وہ سوراخ جو ترازو کی شاہین کے درمیان ہوتا ہے اور
اسمین تاگا ڈالتے ہین اور تولنے کیوقت اس رشتہ کو ہاتھ مین پکڑ لیتے
ہین - ملا طغرا - زمن کشمکش دارد این جسم زار + ترازو بے من بود بے قرار -

منادی گاہ - جس جگہ پر منادی کیجائے - مولوی معنوی - در منادی گاہ
کن این کار تو + پر سرا ہے کہ باشد چار سو -

منزل گاہ - خاص مکان نزول کا - حافظ - کس ندانست کہ منزل گہ
معشوق کجاست + اینقدر ہست کہ بانگ جرسے می آید -

منزل آراے - منزل کے آراستہ کرنے والا - میرزا
صائب - فگندہ است ترا در منزل آراے + وگرنہ گنج
بملک خراب نزدیک ست -

میم با واو

موجِ سراب - وہ پانی کی سی موج جو چمکتی ہوئی ریگ مین نظر آتی ہے - صائب - صائب از فرد روان باش کہ چون موجِ سراب + رو بدریاے عدم می بردا این قالبہا -

موش بعصارہ میرود - نہایت ضعف کی حالت مین کہا جاتا ہے - ظہوری - رسید کار بجاے ز ضعف و بے قوتی + کہ موش خانۂ من راہ میرود بعصا -

موجدار - صاحب موج جسمین موج ہو - نور الدین ظہوری - در آب سخن آتشے بر لکار + کہ گرد و نفس شعلۂ موجدار -

موج زار - مقام موج جس جگہ سے موج ظاہر ہو - عرفی - بحر عطاے تو جواہر شمار + بے اثر یار طلب موجزار -

موجِ گوہر - موج گہر - وہ موج جو موتی سے ظاہر ہوتی ہے - میرزا بیدل - تا زنگ سخن بر دل غفلت کیش ست + از زخم زبان خود چو سوسن ریش ست - بیخبر پاس نفس از دل روشن مطلب + گوہر گرہ رشتۂ موج خویش ست - محمد قلی سلیم - چو دریا کاسہ چوبین در میان اش + دل موج گہر تا آسمانش -

مور سوار - وہ چیونٹی جو بڑی ہوتی ہے اور رستے لینے پانون رکھتی ہے - طاہر وحید - در او مرکب و زین مردان کار + بود جمع یکجا چو مور سوار -

موے چون دستار - سر کے سپید بال - صائب - ز آہ ہو تا جدا شد نافہ - چون دستار شد مویش + غم پیری در جوانی آدمی را پیر میسازد -

موے مستعار - اون کے موباف جو عورتین اپنے سر کے بالون مین گوندھ لیتی ہین - طالب آملی - در چمن بے شبنم لطف تو آید در نظر + شاخ سنبل بے طراوت ہمچون موے مستعار -

موجِ خیز - مشہور لفظ ہے - صائب - در موجِ خیز گل چمن آرا نہان شدست + آب از ہجوم سنبل و ریحان پدید نیست -

موے نرگس - وہ بال جو نرگس کے غنچے کے ساتھ نرگس کے قلم سے نکلتے ہین اور پھول اسکے اوپر ہوتا ہے - عرفی - اگرچہ لیلی باغ ست لیک مجنون وار + نہادہ بر سر مو موے آشیان نرگس -

مور ہمان بہ کہ نباشد پرش - مثل ہے چیونٹی کو جب پر نکلتے ہین تو جلد مر جاتی ہے -

موئی خاف - بواو مجہول و تاے ہندی و خاے معجمہ نام ایک طنبور کا ہے جو ابراہیم عادلشاہ حاکم بیجاپور کے پاس تھا بادشاہ اسکو بہت عزیز رکھتا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجاتے تو اس طنبور کو تخت روان پر رکھکے پیچھے اوسکے ادب نقارہ دیا جاتا تھا ہوتا امرا اور دربار اسکی تعظیم بجالاتے سنجر کاشی نے بادشاہ کے قصیدہ مدح مین طنبور کی ایسا لکھا ہے سنجر کاشی - روہ ست کرشن و تسلیم زبان موئی خاف + کہ شاہ چون جلفاش گرفتہ در دامن + در کہ ہر زاہش صدف بود شاید + کہ جان فشاند نش از مہر قبایہ با در -

موشکاف - صاف - بعقل و ہوش باریک بین نکتہ فہم سخن سنج - صائب -

از طبع موشگاف فہم شانہ پشت دست می خاید + بگرد مرکے رسد ہمچون صبا ہر باد پیمانی -

موجِ ریگ - ریگستان کی موج کہ ہواسے ہمیشہ اسکی صورت بدلتی رہتی ہے - صائب - گرفتار محبت روے آزادی نمی بیند + کہ موج ریگ زنجیرست بر دلہاے صحرا -

موے کلک - موقلم - مصورون کا قلم کہ جس سے وہ مصوری کا کام کرتے ہین - میرزا بیدل - مصور جلوہ نتواند بہ نقش میالش را + گر انتار نظر سازند موے کلک تحریرش -

موزہ و گل - درماندگی و پاے بندی - اوحد الدین انوری - تا دی شل او مثل موزہ و گل بود + اکنون مثل او مثل موے و خمیرست -

موجزن - موج مارنے والا دریا - نور الدین ظہوری - موجزن دریاے عصیان ناخدایم حیدرست + بادبان کشتی ما دامن پیغمبرست -

مور چہ بے زدن - داڑھی کے بالون کو بیخ سے نکلوا دینا - نور الدین ظہوری - در عشوہ فروختن رواجیش نماند + بر کشور دین و دل خراجیش نماند + او را بشکر لبش مور چہ بے + جز مورچہ بے زدن علاجیش نماند -

مور در پیراہن ریختن - بیقرار و بے آرام کرنا - ناظم ہروی - فلک را دید صاحب نفس و مغرور + ز انجم ریخت در پیراہنش مور -

مور در طاس افتادن - مبتلا ہونا کسی مصیبت مین پھنس جانا نکلنا مشکل ہو جانا - محمد قلی سلیم - چیست در قید فلک حال خلایق دانی + مو چیند کہ گرفتار طلسم طاس اند -

مور میان - موے میان - معشوق کی تعریف مین بولتے ہین - ابو طالب کلیم - با مور میانی سر و کارست دلم را + کو خرمن آرام سلیمان ز میان برد -

موزہ در پا آوردن - مضطرب و سراسیمہ ہونا - میر خسرو - اگر سرمایۂ شاہی و تجارست + نشہ آن باشد کہ چون کوہ استوارست + بہر کارے نیارد موزہ در پاے + بہر بادی نجنبد چون خس از جاے -

موش در انبان داشتن - چوہے کو غلہ دان مین رکھنا اپنا نقصان کرنا - شرف الدین شفائی - خدا آگاہ تا آن بد سگان رو بہ باز + کہ دارم از حیلش سوخن غصہ در انبان + نہاد شیشہ تزویر ابطاقچہ + کہ کوسہت از دست حیلہ شیطان -

موش دندان - ایک قسم کے ریشمی کپڑے کا نام ہے نقش جسمین چوہے کے دانتون کیطرح ہوتے ہین سنجاف موش دندان بھی اسکو کہتے ہین - سعید اشرف - با سواد شب بیاض صبح تا ممزوج شد + دامن صحرا سنجاف موش دندان یافتہ -

موکب روان - نوکر چاکر خادم جو سواری کے ساتھ ہون - نظامی - بہار و نیشن خضر و موسے دو وان + مسیحا چہ گویم بموکب روان -

موم برافروختن - شمع روشن کرنا - نظامی - بنو خشندہ از گرمی فشان کو م بروغن زبانی برافروخت موم -

موبرآوردن زبان۔ بات کرنے سے عاجز ہوجانا۔ حکیم زلالی۔ زلب گفتم سخن خوشاب گردید + زبانم موبرآورد و لفہمید۔

مو از کف برآمدن۔ بہت مدت گزر جانا + ور مقصود حاصل نہونا کمال اسمٰعیل۔ موبرآمد ز کف و زلف تو نامد بکفم + زین چنین بخت کہ من وارم و زین خو کہ تراست۔

موبراندام خاستن۔ بر بدن برخاستن۔ بدن پر بال کھڑے ہوجانا بسبب بیماری یا صدمہ کے۔ میر خسرو۔ سخن زخاستن خط مشکبار تو گفتم + بخاست موے براندام نافہ ہاے خطا را۔ شیخ سعدی۔ راست چون بانگش از دہن برخاست + خلق را موئے بر بدن برخاست۔

مو برلبستن۔ آمادہ و مستعد ہونا کسی امر پر یا واسطے چلنے کسی سمت کے۔ نظامی۔ بسر جیلتے فتنہ بربست موئے + بسوے آبجگاہ تو آورد روے۔

موتراشیدن۔ بال کترنا یا منڈانا۔ محمد طاہر۔ زد ور ساختن ابرام سفلہ گرد بیش + کہ زود رستن موازپے تراش بود۔

مو در آسیا سفید شدن۔ باوجود بوڑھے ہونے کے بیوقوف ہونا۔ محمد قلیم۔ پیر بچہ و طفل خندہ بند بسر باکشند + چون صبح موے ماشدہ در آسیا سفید۔

مو در میان نگنجیدن۔ نہایت محبت و اختلاط ہونا بے تکلف دوستی ہونا۔ بالکہ نسبت ست زلفش را + بلکہ مو در میان نمی گنجد۔

مو ستردن۔ بالوں کو مونڈنا۔ آرزو۔ قلندر کے شود منعم باین زینت فروشیہا + سر و کارے ندارد با ستردن موے چینی ہا۔

موگشادن۔ سر کھولکر ماتم کرنا۔ آرزو۔ کنون کہ روز سیہ خلق را بپیش آید + تو ہم بماتم عشاق خویش موبکشا۔

موگرفتن۔ موکشیدن۔ مشہور الفاظ ہین۔ علی خراسانی۔ ہر کس بقدر خویش ازان زلف بہرہ یافت + مشاطہ سعی کرد وے شانہ موگرفت۔ کمال خجندی۔ شد قد لبست بمیکدہ اش بردمو کشان + پیری کہ از مرید بہ سال موگرفت۔

موج سرمہ۔ سرمہ کی دھاری۔ میرزا بیدل۔ چو موج سرمہ نہانم بچشم خوش نگہان + زحلقہ رم آہو طلب سراغ مرا۔

موسئی نگاہ۔ تیز نگاہ جو لائق دیکھنے انوار تجلیات الٰہی ہو۔ ابن شیخ ازعالم نورست بہ بینید + موسے نگہان آتش طورست بہ بینید۔

موئے ژولیدہ۔ پریشان بال۔ صائب۔ عنیست از خود برآیان جہان بپروالیش + موے ژولیدہ خود ہر کہ لسبرے بندد۔

موئے پیالہ۔ باریک درز یعنے بال جو چینی کے پیالے مین پڑجاتا ہی اور مانع اسکی آواز کا ہی۔

موئے دیدہ۔ وہ زائد بال جو آنکھ مین پیدا ہوجاتے ہین ہند مین انکو پڑبال کہتے ہین اس بیماری سے انسان بہت تکلیف پاتا ہی۔ مولوی معنوی۔ بود آدم دیدۂ نور قدیم + موئے در دیدہ بود کوہ عظیم۔

موئے کلاہ۔ وہ سموری و قاقمی تیغہ جو ٹوپی کے گرد لگایا جاتا ہی۔ سالک یزدی۔ دوشینہ آمدآن مہ خود سر سیاہ مست + صد فتنہ می چکید ز موئے کلاہ او۔

مویہ۔ نوحہ و گریہ و بکا و ماتم اور مویہ گر نوحہ گر۔ بابا فغانی۔ برخیز مویہ گر کہ نداری دم مسیح + این جو بت جانگداز کشیدن چہ فائدہ۔

موشک دوانی۔ فتنہ انگیزی و خرابی۔ وحشی۔ بتاراج برگ درختان زہر سو + کند موذی باد موشک دوانی۔

موم دلی۔ نرم دلی اور رحم۔ طالب آملی۔ چنان زعشق کم آزار گشتہ ام طالب + کہ شیشہ موم دلی یاد گیرد از سنگم۔

مومی۔ مومین۔ جس چیز کو موم لگایا گیا ہو چنانچہ موم جامہ وغیرہ۔ جمیع سیاہ اشرف۔ باتر بیائے حسودان حریر نرمی میکنم۔ جامۂ مومین بود بسیب یاران علاج۔

موئے بینی۔ و موئے دماغ و موئے زیاد و موے لب وہ شخص مکروہ و نام جو مخل صحبت اور سبب بیدماغی ہو۔ ملا طاہر غنی۔ نباشد بے سر زلفے سپید بوئیدن مشکم + کہ بوئے نافہ باشد موے بینی بیدماغان را۔ حلیم۔ بلوے گل موے دماغ ضعیف من + ناصح مدہ زصندل خود دردسر مرا۔ صائب۔ دیدۂ آئینہ را جوہر بود موئے زیاد + پاک کن چون صوفیان از علم رسمی سینہ را۔ قدسی۔ برخیز لتشوق از جہان بیرون شو + موئے لب روزگار بودن تا کے۔

مو چیدن۔ بہر چیزے۔ زینت دینا کسیکو۔ مسیح کاشی۔ وست آن قادر نقاش بنازم کہ زصنع + خوش بطرح عجبے چیدبران ابرو موئے۔

موئے چینی و موئے کاسۂ چینی۔ وہ بال جو چینی کے برتن مین آجاتا ہی۔ میرزا بیدل۔ شکست خاطر روشن ضمیران چارہ نپذیرد + کہ موئے کاسۂ چینی بود مشکل تراشیدن۔

میم با ہاے ہوز

مہر نبوت۔ وہ نقش جو حضرت رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کے دو ش مبارک پر تھا۔ ظہوری خاک کربلا کی تعریف مین۔ چو این نقش مہر خلوت گرفت + شباہت بمہر نبوت گرفت۔

مہر طلعت و مہر فروغ مہر اندود۔ محبوب کی تعریف مین۔ والہ ہروی کے چمن بحوست چون آئینہ رو سے مہر اندود نیست + نرگس اشگفتہ چون آن چشم خواب آلود نیست۔

مہرۂ گیسو۔ بند یعنے گیسو بند یہ ایک مہرہ سیاہ رنگ ہوتا ہی جو دفع نظر کے لیے اطفال کے بالون مین پرو رکھتے ہین ہند مین نظر بٹو اسکو کہتے ہین۔

مہر انبار۔ وہ تعویذ جو لکڑی پر لکھکر غلے کے ڈھیر مین رکھتے ہین تاکہ دشمن کے تصرف سے محفوظ رہے مہر خرمن بھی اسکو کہتے ہین۔ شفیع اثر۔ سر دست بردندمن ایمن ست کاشن حسن + کہ خال روئے تو مہر ست خرمن گل را۔

مُہردار - صاحب مُہر جسکی تحویل مین بادشاہی مُہر ہو اور نگینہ جسمین نام کندہ ہو۔ طالب آملی - چو مُہر تو دارم چہ حاجت بمہرم + ہر امہر داری بہ از مہردار
مُہر پرور - مُہر پرورد - مُہر گسل - مُہر ور - مشہور الفاظ ہین - حافظ - خورشید خاوری کند از رشک جامہ چاک + گر ماہ مہر پرور من در قبا رود -
نظامی - سبزہ جوانی جو ابھر بود + کر دش و لش مہر پرور بود - ظہیر فاریابی - نماز خفتن مست و خراب ولا یعقل + در آمد از در م آن ماہ روے و مہر گسل -
سعدی - چو طفلے کہ زالش ندارد خبر + نگہ داردش مادر مہرور -
مُہرۂ صغیر - سنکہ جو بچھایا جاتا ہی - سالک یزدی - بہ پردۂ دل خود لیک نا پچیدم + لیس زپاک دلم مہرۂ صغیر بود -
مُہرۂ مار - وہ مُہرہ جو سانپ کے سر مین سے بہم پہونچتا ہی - حافظ - گر چنین در حلقہ سجدہ زلفش افعی بتار او + مہرہ نتوان بردن آسان آنکہ از اسوی (؟)
مُہد بوس - تعظیم و تکریم - نظامی - نہاد ند نامش پس از مہد بوس + بفرمان اسکندر اسکندروس -
مُہرۂ تریاک - زہر مہرہ جو مشہور چیز ہی - میر حسن دہلوی - مہرۂ تریاک را بسیار رغبت می نہند + توازان لب مہر بکشا مہرۂ تریاک چیست -
مُہر وصل - وہ مُہر جو دو کاغذون کے جوڑ پر لگائی جائے - محسن تاثیر - مانند مہر وصل سند بہر اعتبار + با مہر خامشی بلب خویشتن زنیم -
مُہر سلیمان - یہ ایک نگینہ تھا جسپر اسم اعظم کندہ تھا اور اُسی کی تاثیر سے دام و دد وحش و طیور و عناصر جن و انس حضرت سلیمان کے حکم مین تھے - محمد قلی سلیم - ز دست رفت دل بیدر پے شراب افتاد + فغان کہ مہر سلیمان ز کف در آب افتاد -
مُہر کردن - مہر لگانا بند کرنا - صائب - گر چہ سنگ و تیغ را مژگان او + گر دست مہر بوے خون می آید از چاہ زنخدانش ہنوز -
مُہرۂ از کف بیرون فشاندن - مغلوب ہونا اور سرمایہ ہاتھ سے دینا - نظامی - سپہر از کمین مہرہ بیرون جہاند + ستارہ زکف مہرہ بیرون فشاند -
مُہرۂ از کمین بیرون جہاندن - غالب آنا اور مدعا پر پہونچنا -
مُہرۂ برچیدن - بازی کا ختم ہونا - صائب - رفت چون دندان امید زندگی بے حاصل ست + بر سر بازی آخر مہرہ چون برچیدہ شد -
مُہرۂ در طاس افتادن - مشتہر ہونا کسی امر کا عام و خاص مین شاہان کے وقت ایک طاس اور مہرہ ہفت جوش سے بنایا جاتا تھا بادشاہ کی سواری کیوقت مہرہ طاس مین ڈالا جاتا تو توپ کی سی آواز ہوتی اور لوگ خبردار ہو جاتے کہ بادشاہ سوار ہوا - حکیم نزاری - صداے عشقم از صندوق گردان + برآمد تا فتاد این مہرہ در طاس -
مُہرۂ در ششدر بودن - بند ہونا مہرہ کا بازی مین -

مُہرۂ در گردن جمع شدن - ٹوٹ جانا گردن کا -
مُہرۂ ریختن - مہرہ پھینک دینا بازی کھیلنے مین کھیلنا ترک کرنا - خاقانی - من مہرۂ مہر تو نریزم + الا کہ بر پرد استخوانم -
مُہرۂ گلین - کرۂ زمین کا - انوری - چون دُر در آب جو چندین مہرۂ گلین + گر بازہ دارم از مژہ اشکبار دست -
مہم بگیر و کردن - تمام کرنا اور سرانجام دینا کام کا اور فارغ ہونا - ظہوری - کار خود از طرف امروز یکسو میکنم + وصل یا مردن مہم خویش بگیرو میکنم -
مہتاب بگز پیمودن - ناممکن کام کرنا -
مُہر سجدہ - مُہر نماز - خاک کربلا کی ٹکیا جو شیعہ امامیہ مذہب کے لوگ نماز کیوقت سجدہ کی جگہ پر رکھ لیتے ہین اور سجدہ اسی پر کرتے ہین - محمد قلی سلیم - وجود خاکی ما مہر سجدۂ ملک است + بحیرتم کہ سرشتند درین چہ دید خدا -
مُہر نامہ - وہ مہر جو خط پر لگائی جاتی ہین - تحسین - ز مہر نامہ اش گردید معلوم + کہ زو مہر کسے کو در افتاد داغ ست -
مُہرۂ زدہ - وہ مہرہ جو بازی مین حریف مارے - حسن بیگ انیسی - مانند مہرۂ زدہ ام دست روزگار + از عرصۂ وصال تو بیرون نشاندہ است -
مہمان خانہ - مہمان کدہ - مہمان سرا - مسافرون اور مہمانون کے رہنے کا مکان - سعدی - زر قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم + ز التفات بمہمان سرا دہقانی - ابو طالب کلیم - سراے جہان چیست مہمان کدہ + کہ جودش در او میہمان آمدہ - فوقی - نہ گیرد آنکہ ما اندر و نشانہ + کتاب و مسجد و مہمان خانہ -
مہمل کدہ - عالم دنیا جو فانی محض ہی - فوقی یزدی - ایکہ مست ساغر ہوشے درین مہمل کدہ + روکہ دارد روے تو تمنا سے عالم ہشیار -
مُہر الٰہی - خدائی مُہر - ملا شفیع یلخی - باشد اقبال دگر کس خط خوبان را لب یاقوت بتان مہر الٰہی باشد -

میم با یاے

میان پا - میان پاچہ - شلوار و ازار و پاجامہ اور شرمگاہ عورت - حکیم شفائی ہجو مین - بیند انگشت بدامادہر چہ خواہی ہست + در آستین میان پاے و خترش تیار - میر م سیاہ - سلیم بمیان پاچہ او بیش کشد + زیرا کہ میان پاچہ کس تنگ ترست -
میل طلا - سونے کے کڑے جو عورتون کے ہاتھون مین پہنائے جاتے ہین سونے کے کنگن بھی اسکو کہتے ہین - محمد سعید اشرف - در دست یار میل طلا حظ کوفی ست + نقش و نگار رنگ حنا خط کوفی ست
مے بہ نا - شراب جو رسیدہ ہو مقابل شراب کہنہ کے -

میر شب - شب میں شہر کو توال رات کو گشت کرنے والا - طاہر وحید - چون رود هر کس بکار سے من بہ زدی میروم + دیده ام بهتر زماه چار ده میر شب -
می بر دست - می بر کف - ہاتھ پر شراب - میر معزی - می و نیا رگون چون آب حیوان باد بر دست + که مجلسگاه تو خرم چو نزهتگاه رضوان شد + حافظ - ودیدمش و وش که سرمست و خرامان میرفت + جام می بر کف و در مجلس رندان میرفت -
میر سلاح - سلاح خانہ کا داروغہ - میر خسرو - چون فرس افسار تا خر میبرد + میر سلاح اسلحہ را پیش برد -
میل گنبد - کلس طلائی جو گنبدون پر نصب کیا جاتا ہی - سالک قزوینی امام موسی رضا علیہ السلام کے روضہ کی تعریف میں - دیده شد لبریز فیضش روشنان چرخ را + تا بمیل گنبدت افتاد چشم آسمان -
میخوار - میخواره - شراب پینے والا - حافظ - میخواره و سرگشته و رندیم و نظر باز + وانکس که چو ما نیست درین شهر کدام است -
می شکر - قند سے شراب جو ہند میں کھینچی جاتی ہی - طالب آملی - مگو که باده انگور درد سر دارد + که آب غوره ضرف بر سر شکر دارد -
می کافور - وہ شراب جسمین رفع حرارت کے لیے کافور ڈالا گیا ہو -
میر بار - دربار کا داروغہ جسکی معرفت لوگ دربار میں حاضر ہوں - میر حسن دہلوی - گفته اے میر بار قصه شہرے لشاه + حال غریبان بگو سے لوب الشان رسید -
میر شکار - شکاریون کا افسر - ظهوری - بر من خیال میر شکار سے حرام باد + در صید باز رشته زیاسے مگس کشم -
میراث خوار - وہ شخص جو کسیکے مرنے کے بعد اُسکے متروکہ مال کا حقدار ہو - ظهوری - لقارا از ان سست دل بر قرار + که دارد لبسان تو میراث خوار -
مینا کار - وہ شخص جو مینا کا کام بنا سکتا ہو - طاہر غنی - شیشه ما محتسب از لسکه بر دیوار زد + کرد مینا کار آخر خانه خمار را -
مے شیراز - شراب شیرازی - محمد قلی سلیم - در صفاهان نتوان بے مے شیرازی بود + اہل دریا همه محتاج بآب شهرند -
میخ دوز - بہت مضبوط اور استوار - صائب - اگر نکرد وقار تو پافشرد برا و + چرا شد ست چنین میخ دوز جرم زمین -
میر مجلس - مجلس کا مالک وصاحب مجلس - خواجه آصفی - میر مجلس همه را باده بدستور دهد + نیست دوریکه قوی حیف نماید ضعیف -
مے کش - مے کہنہ یعنی پرانی شراب مقابل شراب برنا کے - درویش واله هروی - واله ار پیر شد جوان ست سخن + در مے کهنه لشاء برنائیست -
میر آتش - توپخانہ کا داروغہ - آرزو - لشکر اہل سخن را خسروم + آرزو میر آتشم شیخ آذری ست -

میر آش - خوان سالار یا باورچی -
میش مرغ - ایک آبی پرندہ کا نام ہی جسکو چرغال بھی کہتے ہیں -
میم مطوق - کنایہ از مُہرِ مقعد - نظامی - آنچه درین حال صدوفی ست میم مطوق الف کوفی ست -
میدان سنگ - قزوین میں ایک مقام کا نام ہی - محمد قلی سلیم - باز قزوین در دلم بگذشت واز ہندوستان + شیشه ام میدان کشید و جست تا میدان سنگ -
میل فرسنگ - نشان میل کا جو پختہ شاہی سڑکون پر بناتے ہیں اور ہندسہ تعداد میل کا اسپر لکھا ہوا ہوتا ہی - محمد قلی سلیم - در بیابان شوق چون مجنون + گرد با دست میل فرسنگم -
مینا رنگ - سبز رنگ - میرزا صائب - این چه لطف ست که چون سرو شود مینا رنگ + از لبغل گیری آئینه تن سیمینش -
میر عدل - عدالت کا داروغہ - ابو طالب کلیم - ستم در روزگار ش میر عدل ست + سر زلف بتان زنجیر عدل ست -
میر منزل - لشکر کے قیام و کوچ پر جو داروغہ مقرر ہو - طالب آملی - از کوچ ما زمام ہمت + بر تافته میر منزل ما -
می آشام - شراب پینے والا - ابو طالب کلیم - مے آشام محبت پیمانہ شمار نمیدارد + بجز ہیئتاله بر لب ساغر دیگر نمیدارد -
مے بے احتساب خوردن - بغیر حد شرعی کے شراب پینا - حسن بیگ رفیع - از عشق بے مشقت لذت نمیتوان یافت + می را نگو بدانیم بے احتساب خوردن -
مے را بآب قند کشیدن - شراب شربت میں ملا کر پینا - محمد قلی سلیم - شراب اے گل رعنا نہفته چند کشی + پیاله نوش و مے را بآب قند کشی -
مے بر دوش رفتن - شراب پینا - حکیم فردوسی - شب اور و صبر آمد و ماه و گمشد + ز گفتن بیا سا و بر دار سے -
میخانه بر دوش کشیدن - ہر وقت شراب کے شغل میں رہنا - سالک قزوینی - جنون خوش میکشد دیوانه را + که بر سر میکشد میخانه را -
می در گریبان کردن - زبردستی سے شراب پلانا - سالک یزدی - ساقی بیا که مستی و ایمه که سستانم کنند + خوبم آہم را بشکنند می در گریبانم کنند -
میستان - شراب خانہ - زلالی - گل رو لیش گداز بخور شید میستان لبش با لغز اجیده -
میان لبستن - کمر باندھنا مستعد ہونا کسی امر پر - طاہر غنی - آن شوخ بقتل من وخسته میان لبست + در مرتبه ام معنی باریک توان بست -
میان بکردار کمان کردن - جھکنا کر تعظیم کرنا - میر معزی - گر نه فرستی زفلک ماه نو جبین + ز نهیپال فرستی سپواران لشکری - بهر خدمتگر

میان کردہ نگزدار کمان + پیش تو بستہ بخدمت بمیان ہر کمری۔
میان دادن۔ قوت دینا امداد کرنا۔ بابا فغانی۔ تو میان دہی و گرنہ
بخیال دہنگجد + کہ میان کمر کردانی من سے ادب کنایم۔
میدان دادن۔ جگہ خالی کرنا واسطے کسیکے از روے تعظیم۔ صائب۔
سہل باشد نبرد کردن تاختی دربیستون + پیش برق تیشہ من کوہ میدان میدہد
میدان لبسر درآمدن۔ آخر ہونا عمر کا۔
میدان طرح دادن۔ جلدی اور تیز روی کرنا۔ صائب۔ بہ شعلہ
بیتابی دل ہر کہ سوارست + میدان فنا طرح تواند لبسر داد۔
میر چوپان۔ مشہور رئیس شبانان بخطاب امیر حسین چوپان پدر خواجہ اویس
ممدوح خواجہ سلمان۔ جمال الدین سلمان۔ پیش زین چون گلہ در صحرا
گیتی مردمان + خویشتن را گرگ یکدیگر ہمی پنداشتند + چون بنود این گلہ را
از حفظ چوپانی گزیر + میر چوپان را بچوپانی بر دیگماشتند۔
میر سامان۔ خانساماں جسکے تعلق متفرق کام کسی امیر یا بادشاہ کے ہوتے ہیں
اور افسر باورچیخانہ کا۔ ملا آفرین لاہوری۔ گرچہ خط راہ تبسم بلبش تنگ
گرفت + میر سامان نگہ عشوہ طراز است ہنوز۔
میر دیوان۔ نائب و پیشکار کچہری۔ محمد جان قدسی۔ چون سلیمان
خواہمت شاہا کہ ارباب نظر + بر درت صدر چون سلیمان میر دیوان یافتہ۔
میغ لبستن۔ بادل پیدا ہو جانا۔ نظامی۔ زتاب نفس پر ہوا بست
میغ + جہان سوخت از آتش برق تیغ۔
میل در چشم کشیدن۔ میل در نظر کشیدن۔ نابینا کرنا اندھا کرنا۔
حافظ۔ آنکہ روشن بد جہان بینش بدو + میل در چشم جہان بینش کشید۔ صائب۔
چشمی بنظر میل کشد ہمت را + بے نیازی بجگر داغ نہد احسان را۔
میل در سرمہ زدن۔ آنکھوں میں سرمہ ڈالنا۔ نظامی۔ چو در سرمہ زد
چشم خورشید میل + فرو ریخت گوہر بدریاے نیل۔
مینا شکستن۔ شیشہ یا صراحی توڑنا۔ میرزا بیدل۔ ساقی امشب چہ
بلا ریخت بہ پیمانہ ہوش + کہ شکستم بدل از قلقل مینا مینا۔
میکدہ۔ شراب خانہ۔ ذوقی۔ تا قیامت ماند اندر اضطراب پیچ و تاب +
میکشی کو میخورد زین میکدہ جام شراب۔
میخ کدہ۔ دار الضرب۔
میر دہ۔ گاؤں کا مالک اور زمیندار۔
میر سپاہ۔ فوج کا بخشی۔
میر قافلہ۔ کاروان کا سردار۔ صائب۔ عشق ست میر قافلہ عالم وجود +
چرخ سیاہ نہی جرس کاروان اوست۔

میل سرمہ۔ جس سے سرمہ آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ فرید لاہوری۔ میل
میل سرمہ دان سے کیوں ہی چشم یار کو + بن عصا چلنا ہی بھاری مردم بیمار کو
مینا خانہ۔ شیشہ خانہ۔ آرزو۔ زود مینا خانہ افلاک را برہم زند +
پیش حشمت دل شکستن بازی طفلانہ بود۔
مے انگوری۔ می تاکی می عنبی۔ وہ شراب جو انگور سے نکالی جاتی ہے
مے پیما۔ شراب پینے والا۔ نصیرائی بدخشانی۔ زمی خوردن ندارم
انبساطے + دران مجلس کہ می پیماے من نیست۔
می دیناری۔ می قرمزی۔ اقسام شراب ہیں۔ میر معزی۔ پوشید باغ
جامہ زنگاری + جامی بیار پر مے دیناری۔ نظامی۔ نشاطے قرمزی
ساختند + بساط ہم از قرمز انداختند۔
مے ستہ منی۔ ایک قسم تیز شراب کا ہی کہ تین من شراب کو آگ پر جوش دیتے
ہیں ایک من کے ہیں خشک ہو جاتی ہی تو کام میں لاتے ہیں۔
میان خالی۔ مفلس غریب نادار۔ مسیح کاشی۔ اگرچہ نیست چو من
در جہان میان خالی + گراز میان بروم میشود جہان خالی۔
میرالی۔ جو کسیکے ورثہ کا مستحق ہو۔
میرزا کبیری۔ ایک قسم عمدہ خربزہ کا ہی۔ محسن تاثیر۔ کس را نبود جو
طفل پیری + از لذت میرزا کبیری۔

چوتھی فصل

اصطلاحات اردو کے بیان میں

میم با الف

ماں بہن کرنا۔ کسیکی ماں بہن کو گالی دینا۔
مات کرنا۔ شطرنج کی بازی جیتنا۔
ماتھا پھوٹنا۔ درد سر ہونا۔
ماتھا ٹیکن کرنا۔ ظاہرداری سے سلام کرنا۔
ماتھا رگڑنا۔ سجدہ کرنا حد سے زیادہ منت و سماجت کرنا۔
ماتھا مارنا۔ سر مارنا کسی کام کے لیئے۔
ماتھے جانا۔ الزام عاید ہونا سر لگنا سر پڑنا۔
ماتھے مارنا۔ کسیکو کوئی چیز ناراضی کیحالت میں دینا۔
مائی میں رلنا۔ جسم کا فنا ہو جانا خاک میں مل جانا۔ قطعہ از مؤلف
دوستو فانی سرائے دہر میں + آج جو آیا ہی وہ کل جائیگا + جسم جو پیدا
ہوا ہی خاک سے + ایک دن مٹی میں وہ رل جائیگا۔
ماجھی بینا۔ قصاب کی اصطلاح میں جبیں روپیہ اور ماجھی اسے اٹھارہ روپیہ

مادر بخواہی کرنا۔ کسیکو مان کی گالی دینا۔
مارا پڑنا۔ قتل کیا جانا مارلیجانا آتش۔ مارا پڑا مین جنبش ابروے یار سے + رتبہ شہید کا تیری شمشیر سے ہوا۔
مار تارنا۔ مارڈالنا مرنے کے قریب کردینا تباہ و برباد کردینا۔
مارا جانا۔ قتل ہونا تباہ ہونا برباد ہونا سے۔ جائیگا جو کوچہ سفاک مین + اکیدن بے موت مارا جائیگا۔
مارا مارا پھرنا۔ مارے مارے پھرنا۔ واہی تباہی پھرنا خراب حال تعین پھرنا۔ میر۔ جو مرتے ہین سپر انکا نہین ٹھکانا + کیا جانیئے کہان وہ پھرتے ہین مارے مارے۔
مارا مار کرنا۔ محنت و جانفشانی کرنا غضب کیحالت مین ہونا۔
مار پڑنا۔ زد و کوب ہونا پٹنا کوئی مصیبت پڑنا۔
مارتے مارتے بھور کردینا۔ مارتے مارتے صبح کردینا۔
مارتے مارتے گٹھڑی کردینا۔ بہت سا مارنا۔
مار رکھنا۔ مار لینا۔ کسی کے مال کو ناجائز طور پر دبالینا۔ فریفتہ کرنا موہ لینا قریب مین لانا۔ میر۔ عالم کو مار رکھا ہی با قد کوز لپشت + زاہد یہ کاٹ ہی تیری تیغ دو دم کا۔
مار کھاجانا۔ دھوکے یا فریب مین آجانا۔
مار کھانا۔ پٹنا اور فریب سے روپیہ کمانا۔
مارنا۔ کسیکو زد و کوب کرنا۔
مار ڈالنا۔ کسیکو قتل کرنا۔
مار مرنا۔ کسیکو مار کر مرجانا۔
ماس نوچنا۔ کسیکو نہایت تنگ کرنا۔
ماش مارنا۔ ماش کے دالون پر سحر پڑھکر مارنا۔ یار علی۔ بلگئی گر کوئی بنگالی کی او باش نہین + بھیڑ بن جاؤگے مارے گی جو دو ماش نہین۔
ماشہ تولہ ہونا۔ ایک حالت پر قیام نرہنا سے۔ کل رحم مین اگر تھا تو بس ہی غضب مین آج + ماشہ گھڑی مین تولہ ہی زردار کا مزاج۔
مالکھو دوڑنا۔ ایک بات کا جلد مشہور ہوجانا۔
مانگے پیٹ سے لیکر نہین کوئی آتا۔ ہر ایک چیز دنیا مین آکر حاصل کرنا ہی انسان مانکے پیٹ سے کوئی چیز لیکر نہین آتا۔
مال اُڑانا۔ مال مارنا۔ دولت حاصل کرنا عمدہ تین کھانا عیش کرنا آتش۔ سامنے آنکھون کے پھرون ہی بیٹھا یار کو + مال مارا ہمنے لوٹا دولت دیدار کو۔
مالا مال کردینا۔ نہال کردینا دولتمند بنادینا۔ حکیم انور لاہوری۔ خدا نکلوم کو حاکم بنائے + خدا مفلس کو مالا مال کردے۔
مال چکھنا۔ مال سب بلد جا صرف کرنا سے۔ باقی ہو نہ دلکا کوئی ٹکڑا نہ جگر کا + چکھا غم دلدار نے سب مال ہمارا۔
مال ہیر پھیر کرنا۔ مال ہضم کرجانا غبن کرنا غصب کرنا خیانت سے لینا۔
مالش کرنا۔ ملنا جلادینا صفا کرنا۔
مال کٹنا۔ چوری جانا لٹ جانا مال کا کثرت سے فروخت ہونا۔
ماما پختریان کھانا۔ کچی پکائی کھانا خیرات کی روٹیان کھانا۔
مان ڈھلنا۔ غرور جاتے رہنا۔
مان رکھنا۔ بھروسا رکھنا عزت و آبرو قایم رکھنا۔ نعتیہ از مولف سعی + دنیا مین یا رسول اللہ ہم فقط تیرا مان رکھتے ہین۔
مان مرجانا۔ فخر جاتا رہنا عاجز ہوجانا۔
مانگ اُجڑنا۔ عورت کا خاوند مرجانا بیوہ ہوجانا۔
مانگ بھرنا۔ کنگھی چوٹی کرنا۔
مانگنا۔ سوال کرنا طلب کرنا۔
ماننا۔ قبول کرنا پذیرا کرنا۔
مانگ بھری ہونا۔ سہاگن ہونا خاوند والی ہونا۔
مانگ پٹی مین لگا رہنا۔ بناؤ سنگار مین مصروف رہنا۔
مانگ تانگ کر کام چلانا۔ ادھر ادھر سے کام چلانا گھر کا مال صرف نکرنا۔
مانگ چیرنا۔ ازالہ بکر ہونا۔
مانگ نکالنا۔ چوٹی کے بالونکو سنوارنا۔
ماتمت مچانا۔ شور و غل مچانا۔
مانیون بیٹھنا۔ شادی کے دن قریب پہونچنا اور دولہا دولھن کا اپنے اپنے گھر مین میلی کچیلی یا زرد پوشاک پہن کر بیٹھنا۔
مال مست۔ مالدار اور بے پروا سے۔ مال مین ہین مست انسان مالدار + عاشقان حضرت حق حال مست۔
ماچا توڑ۔ کاہل سست آدمی جو ہر وقت چارپائی پر پڑا رہے۔
مارا مار۔ کشاکش دھکا پیل۔ رشک۔ کوچہ گیسو مین کیون جاؤن مین سودائی نہین + پیچ ہی اندھیر ہین غوغا ہی مارا مار ہی۔
مال تال۔ اسباب سامان روپیہ پیسہ میر یا برق۔ راہ عدم مین کوئی کسیکا نہین معین + خالی ہین مال تال سے ہر ہمسفر کے ساتھ۔
مائی کالال۔ اپنی مان کا پیارا بیٹا سورما بہادر عابد زاہد بھلا آدمی۔
مارے خان۔ بہادر رستم وقت۔
ماکا دودھ۔ شیر مادر حلال چیز

مال زادہ۔ حرام کا بچہ پیشہ وار عورت کا بچہ۔
مانگ جلی۔ بے نصیب رانڈ بیوہ عورت۔ جان صاحب۔ دل جلی مانگ جلی کو کہہ جلی ہوں بٹو کیا ہوا منہ سے نکلتا جو دھواں رہتا ہے۔

میم باباے موحدہ

مبارک سلامت ہونا۔ شادی کے موقع پر بدھائیاں ملنا۔

میم باتاے مثناہ

مت ماری جانا۔ عقل اور ہوش جاتے رہنا۔ نظیر۔ بنکھٹ کو بہار اگر اسواری گئی ہے + تو وہاں بھی لگے ساتھ یہی خواری گئی ہے + سنتے ہیں کہ ہنستی ہوئی پنہاری گئی ہے + لو دیکھو بڑھاپے میں یہ مت ماری گئی ہے
مٹر لگانا۔ پریشانی اور دقت میں پڑ جانا۔
مٹر گشت کرنا۔ بیفائدہ پھرتے رہنا بچے کا پھول بن کے ساتھ خاموش بیٹھے رہنا ملاقات ہونا چار آنکھیں ہونا۔ نظیر۔ بےچین تھا دل ... ہے بس ہوا اور شوق کی مٹر گشت ہوئی + بازار گلی اور کوچوں میں ہر ساعت ہیرا پھیری ہوئی + تھی جاہ نظر پھر دیکھنے کی جس جاگہ پر مٹھ بھیڑ ہوئی۔ ٹک دیکھ لیا دلشاد کیا خوشوقت ہوے اور چل نکلے۔
مٹھ مارا جانا۔ بگڑ جانا خراب ہو جانا۔
مٹھ مار دینا۔ خراب کر دینا بگاڑ دینا۔
مٹھیاں بھرنا۔ چپی کرنا پاؤں دبانا۔
مٹانا۔ محو کر دینا۔
مٹنا۔ محو ہو جانا۔
متھنا۔ دودھ کو بلونا مسکہ نکالنے کے لیئے۔
مٹھی گرم کرنا۔ روپیہ رشوت کا لوگوں کی نظر سے چھپا کر کسیکی مٹھی میں دینا یا لینا
مٹی پر لٹرنا۔ زمین پر لوٹنا۔
مٹی پکڑنا۔ جگہ پکڑنا جم جانا مقام کرنا۔ س۔ فنا ہو کر بھی کوے یار سے اٹھنا نہ تھا لازم + ہمیں مٹی پکڑ کر پشتہ دیوار ہونا تھا۔
مٹی خوار ہونا۔ مٹی پلید ہونا۔ بےعزت ہونا بےآبرو ہونا کشکش میں آنا۔ نظیر۔ دل اُدھر سینے میں تڑپے جی اِدھر بیزار ہے + کیا کہیں اب تو بہت مٹی ہماری خوار ہے
مٹی ٹھکانے لگنا۔ مردے کا تجہیز و تکفین ہونا دفن ہو چکنا۔ مولف۔ کوے جاناں بن گیا مدفن مرا + اب مری مٹی ٹھکانے لگ گئی۔
مٹی خراب کرنا۔ خراب کرنا بگاڑنا دق کرنا ستانا۔ س۔ اس ہند غم میں بند کیا مجھکو کس لیئے + آدم بنا کے کیوں مری مٹی خراب کی۔

مٹی دینا۔ مردے کو دفن کرنا۔ ناسخ۔ کل نہ دیگا کوئی مٹی آن کو + آج جو زر کو دبا رکھتے ہیں۔
مٹی ڈالنا۔ خاک ڈالنا۔
مٹی ڈلوانا۔ مال مسروقہ حاصل کرنے کے لیئے خاک اندازی کرانا۔
مٹی عزیز کرنا۔ گور گڑھا کرنا دفنانا۔ آتش۔ قبول خاطر مردم ہوا تو کسطرح + عزیز تیری کریں شیخ و برہمن مٹی۔
مٹی کر دینا۔ میلا کر دینا خراب کر دینا بگاڑ دینا ناکارہ کر دینا۔ مولانا اکبر لاہوری۔ حق نے وہ پیدا کیا تھا تیرا جسم + جسمیں تھا نور محبت بھر دیا + اپنی غفلت سے مگر اے بیخبر + تو نے اس سونے کو مٹی کر دیا۔
مٹی کے مول بیچ ڈالنا۔ نہایت سستا مال فروخت کر دینا قطعہ از مولف۔ تو نے دنیا کے نکمے کام ہیں + وقت تنہا بیچ کر دیا کس واسطے بیچ ڈالا اسطرح مٹی کے مول + یہ جواہر بے بہا کس واسطے۔
مٹی میں ملجانا۔ خاک در خاک ہو جانا۔ مولف۔ جتنے پیدا ہوے مٹی سے + مل گئے بیشمار مٹی میں۔
مٹی میں مٹی کا ملجانا۔ خاک میں خاک کا پیوست ہونا۔ قطعہ میر سنگھ مٹی میں مٹی ملگئی + اور ہوا میں ہوگئی داخل ہوا + قطرہ پانی کا گیا دریا میں مل + آگ سے جب ہو گیا وصل آگ کا + رہگیا اسوقت کیا باقی ضمیر + غیر انوار خداے کبریا۔
مٹی ہو جانا۔ خاک ہو جانا۔ آتش۔ خدا کے واسطے اے آسمان جو اکسیر کے دھوے وہوے نہ کہیں ہو مرا کفن مٹی۔
مٹی کی مورت۔ مٹی کا بت اور جسم آدمی کا۔ حکیم انور لاہوری۔ فرشتوں نے کیا فی الفور سجدہ + بنی مٹی سے جب آدم کی صورت + کہ اس مورت کے ہر جلوے سے اسدم + مصور کی نظر آتی تھی صورت۔ ذوق۔ سیرت کے ہم غلام ہیں صورت ہوئی تو کیا + سرخ و سپید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا۔
مٹیا پھولس۔ کمزور ناتوان لاغر نکما۔
مٹی کا مادھو۔ مورکھ بیوقوف بیجان بت مٹی کا۔

میم باجیم

مجرا کرنا۔ سلام کرنا بندگی کرنا۔
مجھ میں آیا۔ میرے ذمہ پڑا میں ضامن ہوں۔
مچکا پڑنا۔ بازار سرد ہو جانا قیمت اجناس کی کم ہو جانا۔
مچھلیاں پڑنا۔ بہت موٹا ہو جانا۔
مجذوب کی بڑ۔ دیوانہ کا بے معنے کلام۔

مچھر کی جھول - کم قیمت چیز۔

میم با حائے حطّی

محاورہ پڑنا - عادت ہوجانا روزمرہ ہوجانا۔
محرم کی پیدائش - وہ شخص جو ہمیشہ غمناک اور رنجیدہ نظر آئے۔
محل خاص - جس محل مین خاص بیگمات شاہی قیام پذیر ہون۔

میم با خائے معجمہ

مخمل سا - نہایت نرم اور ملایم۔
مخمصہ مین پڑنا - کسی جھگڑے مین پڑنا۔ میر - عجب مخمصے مین ہون جور فلک سے + حوادث کے تیرون کا سینہ نشان ہی۔

میم با دال

مدپر آنا - مستی پر آنا پک جانا بالغ ہونا۔
مدو بانٹنا - مزدورون کی تنخواہ بانٹنا۔
مدرسہ کی انیٹ - وہ طالب علم جو مدت مدید سے مدرسہ مین رہتا ہو اور کوئی صورت ترقی کی ظہور مین نہ آئے۔

میم با رائے

مرچین لگنا - ناگوار گزرنا برا معلوم ہونا۔ ذوق - لگتی مرچین سے کبابون کو ہین کیا گیا سنکر + دل بریان سے مرے سوز محبت کے فرے۔
مرد کی صورت - پردہ نشین ہونا عورت کا۔
مردنی چھانا - مردہ کی سی حالت ہوجانا۔ میر - بزم مین آپ تو چلے اے رشک صبح + شمع کے منہ پہ بھی چھائی مردنی۔
مردنی مین جانا - کسیکے ماتم مین شریک ہونا۔
مردون کی ہڈیان اکھیڑنا - گذشتہ حالات بیان کرنا پرانی قصے کہنا
مردہ کر دینا - لاغر و کمزور کر دینا۔ سہ - تیری فرقت نے مردہ کر دیا ہی + مسیحا آؤ اور اسکو جلاؤ۔
مر رہنا - کسی کام کا نہ رہنا ناکارہ ہوجانا سو رہنا سست رہنا۔ آتش - ہمیشہ شام سے ہمسائے مر رہے آتش + ہمارا نالۂ دل گوش کو فسانہ ہوا۔
مرزا بے پروا - نہایت بے پروا۔
مرزا پھویا - نازک اندام آدمی۔
مرغی کا - مرغی کا جنا ایک قسم کی گالی ہی جو مکتب وار استاد بچون کو دیتے ہین
مُردون کا تھیلا - موٹا آدمی۔
مرگ مارنا - مرگ ہرن کو کہتے ہین معنے اسکے ہرن کا شکار کرنا ہی کسی موقع پیچھے کو اپنے دام مین لانا نیز یہ رسم ادا کرنا کہ جس شخص کے گھر بیٹا پیدا ہو وہ چھٹی روز زچہ کی چارپائی پر کھڑا ہو کر زچہ کا خاوند چھت مین تیر مارتا ہی اس رسم کو مرگ مارنا کہتے ہین۔
مرمت کرنا - مار پیٹ کرنا۔
مرمٹنا - مرجانا کسی پر اپنی جان قربان کرنا تباہ و برباد ہوجانا۔ مولانا کرم - اچھا ہوا کہ مین غم جانان مین مرمٹا + جھگڑا مٹا فساد مٹا شور و شر مٹا۔
مری پڑنا - وبا کا پھیلنا موت کا بازار گرم ہونا۔
مرجھانا - پشیمان ہونا غمگین ہونا کملا جانا۔
مڑجانا - واپس ہونا مٹ جانا۔
مڑنا - کسی برے کام سے توبہ کرنا۔
مری کھل جانا - سوت کے تار کا بل نکل جانا رنجیدگی دور ہونا صفائی ہوجانا۔ بحر - ہم بھی کم ملتے تھے جب تک جی مین بل رکھتے تھے تم + اب وہ مری کھل گئی الفت کا ڈورا بڑھ گیا۔
مرزا مزاج - شہزادون کی سی طبیعت بڑا نازک مزاج۔
مرہٹی کھس کھس - مرہٹون کے راج کی لیت و لعل آج کل امیدوار کی مٹی خراب بد انتظامی ابتری۔
مرد معقول - اچھا آدمی عقلمند دانا۔
مردے کا مال - وہ مال جو آدمی مرکر چھوڑ جاتا ہی سستا مال۔ قطعہ مولانا اکبر لاہوری - چھوڑ جائیگا یہان تو اسے بخیل + اپنا گنج سیم و زر مال و منال۔ تیرے جلتے ہی بہت آجائینگے + کھانے والے ہونگے جو مردے کا مال۔
مرغی کا گو - ناکارہ حقیر اور نکما آدمی۔
مرنے کی بھی فرصت نہین ہوتی - کام بہت ہی جس سے موت کی بھی فرصت نہین ہوتی۔ یار علی - باجی یہ نہ ملنے کے گلے سچ ہین ولیکن مرنے کی بھی فرصت نہین ہوتی مجھے گھر سے۔

میم با زائے

مزاج پوچھنا - خیر و عافیت کا حال دریافت کرنا۔
مزاج کرنا - تکبر کرنا غرور کرنا۔ شرر لکھنوی - اٹھائین جا کے گلستان مین ناز کس کس کا + مزاج کرتا ہی گلچین بھی باغبان کیطرح۔
مزاج مین آنا - تکبر و غرور مین آنا دل مین آنا خیال مین آنا۔
مزاح کرنا - ہنسی کرنا۔
مزے لینا - آڑے ہاتھ لینا۔
مزا اٹھانا - مزا پانا - لذت پانا ذائقہ پانا سزا پانا۔
مزا پڑنا - عادت ہوجانا لت پڑجانا۔ سید علی الفت - شکر تلخ کہا زبان پر ہی جسکو + تمھارے لبون کا مزا پڑ گیا ہی۔

مزا چکھانا ۔ مزا دکھانا ۔ بدلا لینا لطف دکھانا ۔ یار علی ۔ کرکے یار انکو چکھا دون رنڈی بازی کا مزا + لیکن اسے خبر نہین آتا بڑھا نا شیں سمجھے + س ۔ جو دل دکھا رہا ہو مزا ہر گھڑی مجھے + آنکھون سے سو برس بھی دکھایا نہ جائیگا ۔

مزے اڑانا ۔ مزے لوٹنا ۔ عیش کرنا چین اڑانا چین کرنا ۔ تلخ ۔ خواب مین سارے مزے وصل کے ہم لوٹتے ہین + بند آنکھین ہین مگر بند کوئی کام نہین ۔

مزے مین آنا ۔ نہایت خوش ہونا چاؤ مین آنا ۔ شوق ۔ اچھی آتی ہے اختلاط پر صفائے + خوب نام خدا مزے مین آئے ۔

میم با سین

مسی بہن اینٹ الٹ کر دھنا ۔ چونا لگانا ۔ قسم کھانا ۔ سوگند کھانا ۔

مسکرانا ۔ ہنسنا ۔

مسمار کرنا ۔ کوئی دیوار گرا دینا ۔

مسند کا گدھا ۔ بیوقوف امیر ۔

مسیحائی کرنا ۔ معجزہ دکھانا مردہ کو زندہ کرنا ۔ حکیم محمد انور لاہوری ۔ درد دل سے جان بچ جاے تیرے بیمار کی + لے مسیحا آپ کر آکر مسیحائی کرو ۔

مسی کاجل کرنا ۔ سنگار کرنا ۔

مسی کرنا ۔ بازاری کسبن نا کتخدا کی تقریب ازالہ بکر اپنی کنیز یا دختر کے برادری کو جشن دینا ۔

مسی ہونا ۔ بازاری کسبن عورت کے سرفراز ہونے کی تقریب جشن ہونا ۔ س ۔ ہمکو عاشق لب و دندان کا سمجھکر آسنے + دقعہ بھیجا ہی کہ ہی آج ہماری مسی ہونا ۔

مسا کرکے ۔ نہایت مشکل سے دقت سے ۔

مشت مارے جانا ۔ اپنی دھن مین چپ چاپ چلے جانا ۔

مشعل لیکر ڈھونڈھنا ۔ نہایت درجہ کی تلاش کرنا ۔

مشکین باندھنا ۔ دونون ہاتھون کو الٹا کر پشت کے ساتھ باندھنا ۔ ذوق ۔ خطا تو دل کی تھی قابل بہت ہی مار کھانے کی + تری زلفون نے مشکین باندھکر مارا تو کیا مارا ۔

میم با صاد مہملہ

مصری کھلانا ۔ چھیڑ مارنا ۔ فسل کرنا نسبت کرنا منگنی کرنا شربت پلانا ۔

میم با طاے مہملہ

مطلب کی گھات چلنا ۔ اپنے فائدے کی چال چلنا ۔

مطلب ہو جانا ۔ مقصود حاصل ہو جانا کام تمام ہو جانا ۔

مطلع صاف ہو جانا ۔ بادل پھٹ جانا آسمان نکل آنا ۔ ستارہ ۔ ہر ماہ وش محفل مین گرم لاف تھا + صبح وہ خورشید رو نکلا تو مطلع صاف تھا ۔

میم با عین

معمول کے دن ۔ حیض کے دن یعنی جنمین عورت کو ہر مہینے خون حیض کا آجاتا ہی ۔ رنگین ۔ ہر مہینے مین گزرتے تھے مجھے معمول کے دن + بارے اب کی تو مرے ٹل گئے معمول کے دن ۔

معرکہ کا آدمی ۔ بہادر جنگجو لڑنیا ۔ بڑا آدمی ۔

میم با غین معجمہ

مغز چھو لگانا ۔ خالی کرنا ۔ پھرانا ۔ مارنا ۔ کسیکو بہت دیر تک ایک بات سمجھاتے جانا بار بار وہی بات کہنا ۔

مغز چلنا ۔ دیوانہ ہو جانا پاگل ہونا ۔

مغز سے اتارنا ۔ کوئی نئی بات سوچنا ۔

مغز کو چڑھنا ۔ نشہ ہو جانا بیہوش ہو جانا مست ہو جانا ۔

مغز کھا جانا ۔ بہت سی لغو باتین کرنا ۔

مغز کے کیڑے جھڑنا ۔ جوتیان کھانا درست ہو جانا ٹھیک بن جانا ۔

مغز کا جوش نکل جانا ۔ کمزور و کم طاقت ہو جانا ضعیف ہو جانا ۔

مغلظات بکنا ۔ فحش گالیان دینا ۔

مغلی بیماری ۔ لمبی بیماری تپ دق ۔

میم با قاف

مقدر چمکنا ۔ طالع روشن ہونا بھلے دن آنا نحوست جاتی رہنا ۔ صفدر رامپوری ۔ ورد اک معصوم ہوئی بخت کا اختر چمکا + دن کھیرے عاشق شیدا کا مقدر چمکا ۔

میم با کاف

مکھیان اڑانا ۔ مکھیان جھلنا ۔ مکھیان مارنا ۔ بیکار بیٹھے رہنا کچھ کام نہ کرنا سست اور کاہل ہونا ۔

مکھیان بھنکنا ۔ کسی جنس کا خریدار نہ ہونا اور بسبب نہ ہونے خریدار کے مکھیون کا اسپر ہجوم رہنا ۔

مکھم رہنا ۔ ہار جیت بازی مین نہونا یکسان رہنا ۔

مکھم مین کہنا ۔ رمز و کنایہ مین بات کہنا اشارہ مین بات سمجھا دینا ۔

مکھی مار ۔ وہ بیکار آدمی جو بیٹھا ہوا مکھیان مارا کرتا ہی ۔

مکھی چوس ۔ وہ شخص جو نہایت بخیل ہو اپنے کھانے پینے مین وہ پیسہ خرچ نکر سکے ۔ قطعہ از مولف ۔ کھانے پینے سے بھی عاری ہی مدام جو بخیل و ممسک و منحوس ہی + دین اور دنیا مین محروم ابد +

آدمی کنجوس مکھی چوس ہے۔
مکر چاندنی – پچھلی رات کی دھندلی سی چاندنی جو صبح ہونے کا دھوکا دیتی ہو۔ ذوق – ریش سفید سے ہو عیاں ظلمت فریب + اس مکر چاندنی میں مکر نا گمان صبح۔

میم با لام

ملاحظہ والا – صاحب مروت بھلا آدمی جسکی خاطر ہر کوئی کرے۔
ملاحی گالی دینا – بغیر نام لیے گالی دینا۔
ملائیاں اڑانا – کھانا – مزے مزے کی غذائیں کھانا مزے اڑانا۔
ملک ملک کر چلنا – خوشی کے ساتھ مٹکتے ہوئے اور اتراتے چلنا۔
ملولی آنا – ملولی اٹھنا – افسوس یا پچھتاوا یا رنج پیدا ہونا۔
ملانا – دو چیزوں کو آپس میں وصل کرنا۔
ملنا – مل جانا – وصل ہو جانا۔
ملے پنج – آٹھ برس سے زیادہ عمر کا گھوڑا۔
ملی بھگت ہے – سازش ہے جنگ زرگری ہے۔

میم با نون

من اٹکنا – من الجھنا – کسی سے پریت و عشق و محبت ہو جانا۔
من بھاری کرنا – رنجیدہ ہونا۔
من بھاونا – دلپسند مرغوب پیارا ساجن دلدار۔
من پھٹ جانا – ان بن ہونا رنجیدگی ظاہر ہونا۔
منت بڑھانا – گنڈا یا تعویذ بعد گذرنے میعاد مقررہ کے بچے کے گلے سے اتار ڈالنا۔
منتر دینا – گرو منتر دینا – چیلا بنانا۔
منجدھار میں پڑا ہونا – عین سمندر کے اندر پھنس جانا بلا میں مبتلا ہونا۔
منجھیلا ڈالنا – منجھلے میں ڈالنا – کسی کام کو دیر و توقف میں ڈال دینا۔
من جیتنا – اپنے جی کو اپنے بس میں کر لینا۔
من چلا – ہمت والا بہادر جرات – لگا جاتا ہے جرات اس بت خونخوار سے + سچ ہے وہی دم عشق کا مارے جو ایسا من چلا ہووے۔
منچلے ہونا – شکر رنجی و رنجیدگی ہونا۔
منڈ چڑا پن کرنا – زبردستی سے لینا چھین لینا غصب کرنا۔
منڈکری مارنا – گھٹنوں میں سر دیکر جھک جانا – میر حسن – گئی منڈکری مار آخر کو لیٹ + پھر کھٹ کے کونے میں منہ سر لپیٹ۔
منزل دینا – مردے کو قبر پر پہنچانا۔
منزل ہونا – جماع کے وقت انزال منی کا خارج ہونا۔

منظور نظر ہونا – نگاہ پر چڑھ جانا پسند ہونا۔
منکا ڈھلنا – منکا ڈھلکنا – گردن کا ایک طرف جھکنا نزع کی حالت ہونا۔ آتش – امید اب باقی نہیں ہے اسکے آنے کی + ادھر ڈھلنے لگا دن اور ادھر ڈھلنے لگا منکا۔ میر – گئی کب یاد اسکی نزع میں بھی میر کے دل سے + اسیکا نام تھا ہمراہ بھی جب منکا ڈھلکتا تھا۔
منکا میلا – من کا کھوٹا – فریبی کپٹی مکار دھوکے باز منافق۔
من کچا کرنا – ہمت ہارنا دل ٹوٹنا۔
من کھٹا ہونا – طبیعت بیزار ہونا۔
من الکھوٹا ہونا – [illegible] ہر ایک چیز کے کھانے کو جی چاہنا – [illegible] ہو جانا [illegible] ہونا امڈ آنا۔
من کے لڈو پھوڑنا – خیالی پلاؤ پکانا دلیلیں کرنا۔
من کی من میں رہنا – جی کی جی میں رہنا۔
منگنی دینا – ستار دینا۔
من لینا – دل لینا عاشق بنانا۔
من مارنا – کسی مصیبت پر صبر کرنا۔
مین مین کرنا – کسی کام کو سستی کرنا خوبی سے کام نہ دینا۔
منھ اتر جانا – لاغر ہو جانا۔ صبا – ترے شب چہار دہم کے بناوٹ سے + دو دن میں ماہتاب کا بھی منھ اتر گیا۔
منھ اٹھانا – کسی طرف کو روانہ ہونا۔ آتش – جوش جنوں میں دیکھے پیچھے نہ مڑ کے پھیر + منھ جس طرف کو صورت دریا اٹھا دیا۔
منھ اجلا ہو جانا – سرخرو ہو جانا آبرو رہ جانا [illegible] ہو جانا۔
منھ مارنا – کسی امر میں دخل دینا۔
منھ تھامنا – منھ مارنا – لیے کے منھ پھیر دینا یا گالیاں دینا۔
منھ آنا – منھ میں چھالے پڑ جانا۔ میر – بجری کٹی تیرے درد دل میں + میر ایسی کچھ کہتے روبرو اس شوخ کے قاصد کا منھ آیا۔
منھ باندھ کے بیٹھنا – چپ بیٹھنا آمد و رفت سے [illegible]۔
منھ بگاڑنا – منھ چڑانا ذائقہ خراب کرنا یا مارنا پیٹنا سزا دینا۔
منھ بگڑنا – چہرہ متغیر ہونا ذائقہ خراب ہونا پلٹ لی منھ چڑا جانا۔
آتش – غنچہ کا روبرو سے دہن منھ بگڑ گیا + دیکھا وہ قد تو خاک میں شمشاد گڑ گیا۔ میر – بوسہ لبوں کا مانگتے ہی منھ بگڑ گیا + کیا اتنی میری بات تمکو برا لگا۔
منھ بنانا – منھ بنا لینا – منھ کھلا ڈالنا ناک بھوں چڑھا لینا [illegible] بدل لینا ناز یا غصہ سے – میر – اب تو جب نہ [illegible]

منھ کو بنا جانتا ہے۔ ولہ۔ سو بار یون تو غیرون سے کرتے ہو ہنسکے بات + مجھ
منھ بنا رہے ہو ہماری ہی بار کو۔
منھ بند کرنا۔ خاموش کرنا رشوت دینا۔
منھ بند ہو جانا۔ خاموش ہو جانا زخم کا بھر جانا۔ ناسخ۔ تیر سے نالے
نکلتے ہین پیالے ہجر مین + منھ مرا ہوتا نہین مثل لب سوفار بند۔
منھ بنوانا۔ اپنے منھ کو لائق جانے کسی مجلس یا کلام کرنے کے بنانا قابلیت
پیدا کرنا۔ آتش۔ تری صورت سے ہنستا تھا نہ لازم + گلون نے منھ کو
بنوا یا تو ہوتا۔
منھ بھر آنا۔ بادی کے سبب منھ مین پانی بھر آنا۔
منھ بھرائی دینا۔ زبان بند کرنے والی چیز دینا لینے رشوت وغیرہ جس سے
دشمن کی زبان بند ہو جاتی ہے۔
منھ بھر دینا۔ رشوت دیکر خاموش کر دینا۔
منھ بھر کے گالیان دینا۔ فحش گالیان دینا۔
منھ پر بسنت پھلنا۔ چہرہ زرد ہو جانا۔
منھ پر تھوک دینا۔ ملامت کرنا۔
منھ پر جانا۔ خاطر کرنا لحاظ کرنا۔
منھ پر چڑھنا۔ مقابل ہونا گستاخ ہونا۔ آتش۔ تمھارے تیغ کے
زخمون کے ماسوا کوئی + بہادرون کے جو منھ چڑھے مجال نہین۔
منھ پر رکھنا۔ چکھنا سو روپیہ رکھ دینا۔ میر۔ خط سے رکھو کہ اسمین بہت
ہین قباحتین + رکھین تمھارے منھ پر نہ تم کو پیار لگے۔
منھ پر شفق پھولنا۔ چہرہ پر سرخی آجانا۔
منھ پر لانا۔ ذکر کرنا ظاہر کرنا۔
منھ پر مہر یا قفل لگانا۔ بولنے نہ دینا۔ جرات۔ آگے آواز اپنی جب در پر
سنا جاتے ہو تم + منھ پہ میرے مہر خاموشی لگا جاتے ہو تم۔
منھ پر مہر لگی ہوئی ہونا۔ منھ بند ہونا۔ ذوق۔ بیٹھے بھرے ہوئے ہین
خم مے کیطرح ہم + پر کیا کرین کہ مہر ہے منھ پر لگی ہوئی۔
منھ پر ناک نہ ہونا۔ بے شرم و بے لحاظ ہونا۔
منھ پر ہوائیان اڑنا۔ چہرہ کا رنگ اڑ جانا متحیر ہونا۔ جگر۔ آہ سوزان
دل پر داغ سے شعلون جو اگر + آگ ہوائی بھی مہتاب کے منھ پر چھوٹے۔ شوق۔
غم نے کی دل سے کچھ ادائی سی + منھ پہ چھٹنے لگی ہوائی سی۔
منھ پڑنا۔ کہا یا جانا نصیب مین ہونا کام آجانا مشہور ہو جانا۔
منھ پسارنا۔ پھیلانا۔ ہکا بکا اور حیران رہجانا طمع اور لالچ کرنا۔
منھ پکڑنا۔ منھ بند کرنا۔

منھ پھر جانا۔ کھانے کی خواہش نہ رہنا شکست کھانا۔ ذوق۔ پھرا
سیل حوادث سے کوئی مردون کا منھ + شیر سید ھا تیرتا ہے وقت رفتن آب مین
منھ پھلانا۔ منھ سجانا ناراض ہونا۔
منھ پھوڑ کر۔ منھ سے بولکر دلبری کرنا۔ ذوق۔ توڑنے گل کو سحر کو
جب چمن مین تو ڑ کر + مین بھی حاضر ہون کہا غنچہ نے یہ منھ پھوڑ کر۔
منھ پھیرنا۔ منھ موڑنا۔ الگ ہونا کنارہ کرنا آنکھین بدلانا۔ نظیر۔
اب آگے بڑھا پے نے کیا ہائے یہ اندھیر + جو دوڑ کے ملتے تھے وہ اب جاتے
ہین منھ پھیر۔ آتش۔ نہ ہم پھر ینگے ہزار آپ ہم سے منھ پھیرین + ہمین سہل
ہمین بیوفائی مشکل ہے۔
منھ تکنا۔ حسرت کی نگاہ سے دیکھنا۔ شوق۔ کوئی ہنسی پہ سر پٹکنے لگا
کوئی حسرت سے منھ کو تکنے لگا۔
منھ توڑنا۔ مارنا شرمندہ کرنا ذلیل کرنا۔
منھ تھتھانا۔ پھلانا سجانا۔ روٹھنا ناراض ہونا۔ رنگین۔ شکوے
جو میرے گھر رنگین + منھ تھتھا کر یہ بولی اس ڈھب سے + خیر سے جاؤ
یہان سے گھر اپنے + دشمنون کو بخار ہے شب سے۔
منھ جوڑنا۔ کانا پھوسی کرنا کھسر پھسر کرنا چپکے چپکے مشورہ کرنا۔
منھ جھٹلانا۔ کچھ کھلا دینا تاشتا کرنا۔
منھ جھٹک جانا۔ منھ اتر جانا لاغر ہونا۔ آتش۔ کسکے سر مین ہو درد
میرا منھ جھٹکا + کسکے پانو مین موچ آئی سر پٹکا۔
منھ جھلسنا۔ کسیکا منھ جلا دینا آگ لگا نا رشوت دینا۔ ذوق۔ یہان تک
عدو زمانہ ہے مردلیر کا + جھلسے ہین منھ شگار کیئے پر بھی شیر کا۔
منھ چاٹنا۔ پیار کرنا خوشامد کرنا۔
منھ چڑانا۔ منھ بنانا نقلین لگانا یا کھجانا۔ آتش۔ پری سے چہرے کے
اوپر نہین ہے لہراتی + یہ منھ چڑاتی ہے گیسوئے یار کھو نگھٹ کا۔
منھ چڑھنا۔ گستاخ بے ادب سر چڑھنا۔
منھ چڑھنا۔ بے ادب و گستاخ ہونا مقابل ہونا۔ صبا۔ میری طرح
اسے بھی ملا دے نہ خاک مین + آئینہ اس صنم کے بہت منھ چڑھے نہین۔
منھ چلانا۔ کھانا اور کاٹ کھانا۔
منھ چلنا۔ کوئی چیز کھاتے رہنا بولتے رہنا۔
منھ چومتے ہی گال کاٹنا۔ ابتدا ہی مین نقصان دیا۔
منھ چوم کر چھوڑ دینا۔ عزت کے بعد ذلیل کرنا۔ داغ۔ چوس لیتے ہین
مرے زخم زبان پیکان + چھوڑ دیتے ہین یہ منھ چوم کے سوفارون کا۔
منھ چھپا کا منھ پر نقاب لینا۔ میر۔ کوئی تا امید نہ کرتے نگاہ ۔۔

سو تم ہم سے منھ ہی چھپا کر چلے۔
منھ چھونا۔ بکلا دینا بظاہر کوئی چیز مانگنا۔ س۔ بھلا وہ اور دیتا بوسۂ لب + فقط چھوتا تھا ہمکو یار کا منھ۔
منھ خشک ہونا۔ بسبب پیاس یا دہشت کے زبان خشک ہونا مومن شرمندہ ہیں مرسے مومن کہ ہنگام جواب + خوف سے منھ اور زبان ہر سخن خشک ہے۔
منھ در منھ کہنا۔ روبرو تقریر کرنا۔
منھ دکھانا۔ ملنا سامنے ہونا۔ میر۔ وصل میں رنگ اڑ گیا میرا + کیا جدائی کو منھ دکھاؤنگا۔
منھ دھونا۔ منھ صفا کرنا وضو کرنا۔ داغ۔ فلک نے خوب خدمت لی ہمارے دیدۂ تر سے + کہ ہر آنسو نے منھ دھویا شب مہتاب بھر اسکا۔
منھ دیکھتے رہجانا۔ حیران و مایوس ہوکر رہجانا۔ کسی ... اپنے پہلو سے وہ جب اٹھکے چلا اے جرأت + کیسے منھ دیکھتے اور رہگئے مایوس سے ہم۔
منھ دیکھکر اٹھنا۔ علی الصباح کسیکے چہرہ پر نظر پڑنا۔ سحر۔ اللہ نے جمال دکھایا حبیب کا + منھ دیکھکر اٹھے تھے کسی خوش نصیب کا۔ ذوق۔ جس جگہ بیٹھے ہیں با دیدۂ نم اٹھے ہیں + آج کس شخص کا منھ دیکھکے ہم اٹھے ہیں۔
منھ دیکھنا۔ چہرہ دیکھنا آئینہ سے منتظر اور امیدوار ہونا۔ سحر۔ مقبول کوئی عرض گنہگار کی نہیں + منھ دیکھتے ہیں میری دعا میں مجیب کا۔
منھ دیکھکر کہنا۔ منھ دیکھے کی سی کہنا۔ شیریں طرفداری اور خوشامد کی باتیں کرنا۔
منھ ڈالنا منھ دینا۔ پاک برتن میں کتے وغیرہ کا منھ ڈالکر پلید کرنا۔
منھ ڈھانکنا۔ پردہ کرنا عورتوں کا۔ سحر۔ نہ کہتا تھا میں اے سیر جان کبھی دو لگا تو گیا ہوگا + ہوا غم کسکو میرا کیوں روبا کیسے منھ ڈھانکا۔
منھ زرد یا فق ہونا۔ خوف یا غم سے رنگ چہرہ کا متغیر ہوجانا۔ ذوق۔ سینہ میں بوالہوس کے بھی تھا آبلہ مگر + نشتر کا نام سنتے ہی منھ زرد ہوگیا۔
منھ زوری کرنا۔ زبردستی کرنا گالیاں دینا۔
منھ سرخ ہوجانا۔ غضب سے لال ہوجانا۔
منھ سجانا۔ رنجیدہ ہونا۔
منھ سکیڑنا۔ ناراض ہونا۔
منھ سنبھالنا۔ زبان کو روکنا۔
منھ سوکھنا۔ زبان خشک ہونا۔
منھ سے بات لپکنا۔ کسی کی زبان سے بات نکلنے سے پہلے وہ بات بیان کر دینا۔ شوق۔ یہی بتلانے کو تھا میں بھی گھات + چھین لی گویا میرے منھ کی بات۔
منھ سے بات نکلنا۔ اتفاقاً زبان سے بات نکلنا بے ارادہ بات کہدینا۔ س۔ تجربے میں اپنے دنیا میں یہ آئی بات ہے + بات جو منھ سے نکلجائے پرائی بات ہے۔
منھ سے بات نہ نکل سکنا۔ خوف کے مارے زبان بند ہوجانا ہے
منھ سے بس کرنا۔ انکار کرنا۔ ذوق۔ منھ سے بس کرتے نہ ہرگز یہ خدا کے بندے + گر حریصوں کو خدا ساری خدائی دیتا۔
منھ سے بولنا۔ منھ سے پھوٹنا۔ بات کہنا جواب دینا بولنا۔ س۔ کھلتی نہیں گل کی بدمزاجی + غنچے نہیں منھ سے پھوٹتے ہیں۔
منھ سے پھول جھڑنا۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنا۔ آتش۔ پھول جھڑتے ہیں مرے منھ سے جو او دہن ... بیان + گلشن چھوڑ یا تیری محفل میں گلچیں ہو گیا۔
منھ تری دینا۔ منھ کو ٹانکے لگا دینا بند کر دینا۔
منھ سے منھ لگانا۔ بوسہ لینا چومنا۔
منھ کا پھوڑا۔ بدزبان منھ پھٹ۔
منھ کا کچا۔ بد لگام گھوڑا۔
منھ کالا کرنا۔ اپنے آپ کو بدنام کرنا۔
منھ کا میٹھا۔ شیریں زبان۔
منھ کرنا۔ روبرو ہونا سامنے ہونا۔ میر۔ آن نے پہچان کر ہمیں مارا + منھ نہ کرنا ادھر تجاہل تھا۔
منھ کو زہر لگ جانا۔ افیون وغیرہ کھانے کی عادت ہوجانا۔ داغ۔ لیتا ہوں بوسہ لب کا خط سبز کے عوض + ہے زہر اندلو مرے منھ کو لگا ہوا۔
منھ کو لہو لگنا۔ حرام اور رشوت کھانے کی عادت ہوجانا۔
منھ کھل جانا۔ بدزبان ہوجانا گستاخ ہوجانا۔
منھ کھلوانا۔ بولنے کے واسطے مجبور کرنا۔ جرأت۔ دیکھ ادھر کو نہیں کہا تھا غیروں کو مت آنے دو + چپ رہو منھ کھلواؤ نہ میرا جانے دو بس جانے دو
منھ کھولنا۔ بے پردہ ہونا کلام کرنا زبان درازی کرنا۔ مومن۔ بات پوری بھی منھ سے نکلی نہیں + آپ نے گالیوں پہ منھ کھولا۔
منھ کی کھانا۔ سزا پانا گوشمالی پانا۔ شوق۔ لیں ہر اک سے جو کبھا لاؤگے + اک نہ اک روز منھ کی کھاؤگے + برق۔ نہ گیا دل سے شوق بوسۂ لب + بارہا آپ نے منھ کی کھائی ہے۔ شوق۔ عزت اللہ نے بچائی آج + ہم تو سمجھے تھے منھ کی کھائی آج۔
منھ کیلنا۔ جادو کے زور سے خاموش رکھنا اور منھ نہ کھولنے دینا سانپ کا منھ کیلنا زہر کی تاثیر نہ ہونے دینا رشوت دینا۔

منھ کی لوئی اُتر جانا۔ بے پردہ و بے حیا ہو جانا۔
منھ لال کرنا۔ منھ پر تماچہ مارنا گلگونہ ملنا۔
منھ لال ہو جانا۔ پان کھانے یا غصہ کے سبب منھ لال ہو جانا۔
منھ لپیٹ کر پڑ رہنا۔ بیمار یا غمگین ہونا۔
منھ لگانا۔ دوست بنانا التفات کرنا۔ آتش۔ سبوے و شیشہ و خم کسکی کی نہ پابوسی + کسی نے منھ نہ لگایا مجھے سواے قدح۔
منھ لگنا۔ گستاخ ہونا عادی ہونا برابری کرنا۔
منھ مارنا۔ جلد جلد کھانا منھ بند کرنا محروم رکھنا۔ بحر۔ خوان نعمت سے کبھی خط نہ اٹھائینگے بخیل + مال کھا سکتے ہیں لقد کرنے منھ مارے ہیں۔
منھ سکوڑنا۔ پھیر لینا ناک بھوں چڑھانا۔
منھ موڑنا۔ روگردانی کرنا توجہ نکرنا۔ صبا۔ منھ موڑنا بتان حسین سے
منھ میٹھا کرنا۔ کسی نیک تقریب میں شیرینی تقسیم کرنا۔ آتش۔ جسکو ہی بوسہ اس لب شیرین کا رہ گیا + میٹھا منھ کو تیرے سکھوا رہے کیا۔ جرأت۔ کبھی انعام نت پاتے ہیں ای شیرین دہن تجھسے + کبھی تو ایک بوسے سے ہمارا منھ بھی میٹھا کر۔
منھ میں پانی بھر آنا۔ کسی چیز پر طبیعت کی خواہش ظاہر ہونا۔ آتش۔ بھر آئے دیکھ کے منھ میں کسطرح پانی + تمھاری ناف کا چشمہ دہن کا چاہ بھی ہے۔
منھ میں پانی چوانا۔ نزع کی حالت میں بیمار کے منھ میں پانی ٹپکانا۔ ذوق۔ منھ میں گر پانی چوا دے یار اپنے ہاتھ سے + مرگ کی تلخی سے کم شیرین شربت آب بقا کوئی شربت نہیں۔
منھ ہی منھ میں پڑھنا۔ آہستہ آہستہ پڑھنا۔
منھ میں تنکا لینا۔ نہایت منت کرنا۔
منھ میں زبان نہونا۔ کم زبان و کم سخن ہونا۔ آتش۔ تجھسا کوئی زمانہ میں شیرین بیان نہیں + آگے ترے سخن کے منھ میں زبان نہیں۔
منھ میں گھنگنیاں بھر جانا۔ بول نسکنا۔ ذوق۔ نہ ڈال آبلے گرمیٔ فغان منھ میں + کہ چپکا بیٹھ رہوں بھر کے گھنگنیاں منھ میں۔
منھ نہ پڑ جانا۔ شرم یا کسی اور سبب سے بول نسکنا۔ ۵۔ شکوہ کرنے گئے تھے گو ان سے دیکھا منھ پڑا نہ منھ اپنا۔
منھ نکل آنا۔ لاغر ہو جانا دبلا ہو جانا۔
منھ ہی منھ میں کہنا۔ آہستہ آہستہ بولنا۔ جرأت۔ منھ ہی منھ میں کہتے ہیں ہم وہ ہاں تنگ دیکھ + ہاے لب سے لب ملا کیونکر مزا لے جائیے
منھیا بولنا۔ اچھا شگون ہونا۔

منھ بولتی مورت۔ نہایت عجیب مورت کہ منھ سے بولتی معلوم ہوا کہ انسان جو حیوان ناطق ہے۔
منھ دیکھے کی پریت۔ ظاہری محبت اور باطل الفت۔ ۵۔ یون تو منھ دیکھی کی ہوتی ہے محبت سبکو + پیچھے جو یاد کرے اسکو وفا کہتے ہیں۔
منھ پر۔ روبرو سامنے مقابل۔
منھ زور۔ جو بے سوچے سمجھے بات کہے منھ پھٹ اور منھ چھٹ بھی اسکو کہتے ہیں
منھ چور۔ نہایت شرمناک کسی سے نہ ملنے والا کسیکو منھ نہ دکھانے والا۔
منھ لود یکھو۔ اسکی صورت تو دیکھو چہرہ دیکھو۔ ۵۔ متاع حسن ارزان آجکل ہے + لگا لاخط میان کا منھ تو دیکھو
منھ کالا ہو۔ یہ ایک بددعا ہے۔ یار علی۔ اچھا ہوا ایسی چوٹی کا منھ کالا
منھ لپیٹے روٹیاں جو چیرا کر ازار ہیں۔
منھا منھ۔ لبالب۔ کنارہ تک بھرا ہوا۔ ناسخ۔ بھر جائے اگر بادہ منھا منھ نکرون بس + میخواری میں ہے ظرف مرا خم سے زیادہ۔
منھ کلا دیکھی۔ خوبصورت جسکے چہرہ دیکھنے سے خوشی حاصل ہو۔
منھ اٹھائے۔ منھ اٹھا کر۔ اندھا دھند بلا تحاشا منھ اونچا کرکے۔ ۵۔ دور منزل ہے راستہ ہے تنگ + تو کہاں منھ اٹھائے جاتا ہے۔ رجرأت۔ منھ اٹھا کر نہ چلو اونٹ کی چال ہے بلو + کھاتے اندھوں کی طرح راہ میں ٹھوکر کیوں ہو۔
منھ اندھیرے۔ علی الصباح قبل طلوع آفتاب۔
منھ بند کلی۔ غنچہ ناشگفتہ اور کنواری عورت۔
منھ زبانی۔ حفظ یاد از بر۔
منھ دکھائی۔ وہ زیور یا نقد جو عروس کو پہلے روز دیتے ہیں۔
منھ دھو رکھے۔ اپنی صورت بنائے کہ اس نعمت کے لائق وہ نہیں ہے۔ جرأت۔ کوئی دل مانگتا تھا تو کہتے تھے ہم منھ دھو رکھے + اب تو آب اشک سے اپنا ہی منھ دھونا پڑا۔

	میم با واو	

موپر آنا۔ میوہ کا پختگی پر آنا۔
موت آنا۔ اجل آنا مرگ آنا۔ قطعہ از مولف۔ ہر گھڑی ہر وقت ہر شام و سحر + سر پہ ہے نقارہ بجتا موت کا + جسگھڑی پیدا ہوا تھا آدمی + ساتھ ہی قاصد تھا آیا موت کا۔
موت کا پسینہ آنا۔ نزع کیوقت کا پسینہ۔ شوق۔ ہچکی آتی ہے سرد سینہ ہے + ماتھے پر موت کا پسینہ ہے۔
موت کا چلو ہاتھ میں دینا۔ پیشاب کا چلو دینا جو خوردسال بچون کی

نسبت کہتے ہیں کہ اُن سے سوائے موت کے چلو کے اور کچھ نصیب نہیں۔
موت نکلنا۔ بہت ڈرنا نہایت خوف کرنا پیشاب نکلنا۔
موتی پرونا۔ شعر کہنا نظم لکھنا فصاحت و بلاغت سے کلام کرنا رونا آنسو بہانا۔ غالب۔ وہاں خود آرائی سے تھا موتی پرونے کا خیال، یہاں ہجوم اشک میں تار نگہ نایاب تھا۔
موتی چھیدنا۔ موتی بیدھنا۔ موتی کو سوراخ کرنا باکرہ کا ازالہ بکارت کرنا۔
موتی کی سی آب جانا۔ بے آبرو و بے توقیر ہونا۔ میر تقی۔ گر کر اسکی گلی کی خاک میں مفت + اشک کے موتی کی سی آب گئی۔
موتیوں سے منہ بھرنا۔ بخشش کرنا مال و دولت سے نہال کر دینا۔ سودا۔ نہ ہیں کس کی تمجید نے وہ جو ترا کھولا لکھا ہے سبحان گلوں کو اشک کا منہ تیرے قطرے جو بھرتے ہیں۔ ولہ۔ جسکی دریا دلی ایسی کہ بنا خوان سخا موتیوں سے بھرے جاتے ہیں صدف وار دہن۔
موٹا جھوٹا پہننا۔ غریبانہ لباس پہننا۔
موٹا دکھائی دینا۔ بصارت کا کم ہو جانا۔
موٹھ چلانا۔ کسی پر جادو کرنا۔
موٹھ چلنا۔ جادو چلنا سحر کا موثر ہونا۔ برق۔ نہ پہونچا کبھی یار تک دست وہم + یہاں موٹھ ساحر کی چلتی نہیں۔
موٹھ مارنا۔ ہاتھ سے کبوتر پکڑنا جادو کرنا کسی کے مال میں سے مٹھی بھر کر چلا دینا۔ سودا۔ دل چلون زخم نہاں تیغ نگہ نے مارا + موٹھ جیسے کسی پر کوئی دشمن مارے۔
موج مارنا۔ لہریں مارنا بہنا۔ آرزو۔ دریائے اشک اپنا جب سر تو اوج مارے + طوفان نوح بیٹھا گوشہ میں موج مارے۔
موجود ات۔ حاضری لینا پڑتا لنا۔
موجیں کرنا۔ عیش کرنا مزے اڑانا۔ حاتم۔ مثال بحر موجیں مارتا ہے + لیا ہے جسنے دنیا سے کنارہ۔
موچھوں پر تاؤ دینا۔ ہاتھ پھیرنا۔ غرور و تکبر کرنا اترانا گھمنڈ کرنا بکھیڑا۔ تاؤ موچھوں پہ دیا کرتے ہیں زاہد کے حضور + تیری بخشش پہ جو رکھتے ہیں گنہگار گھمنڈ۔
موچھوں سے چنگاریاں نکلنا۔ غضب و غصہ کی حالت میں ہونا۔
موذی پنا۔ موذی پنا کرنا۔ بخل کرنا کنجوسی کرنا نہ خود کھانا نہ کسیکو دینا۔
مورچہ مارنا۔ لڑائی مارنا دشمن کو شکست دینا۔
موزون کرنا۔ شعر لکھنا وزن درست کرنا۔
مسوس کے کھا جانا۔ دغا فریب سے مال مارنا۔
موسلا دھار برسنا۔ سخت بارش ہونا۔
موسلوں ڈھول بجانا۔ زور سے ڈھول بجانا۔

موقع کو نہ جانے دینا۔ موقع ہاتھ سے نہ دینا۔ وقت پر کام آنا۔
مول لگانا۔ مول تول ٹھہرانا قیمت مقرر کرنا سودا کرنا بھاؤ قایم کرنا۔
مول لیکے چھوڑ دینا۔ ناچیز سمجھنا غلامی کے لایق بھی نہ تصور کرنا۔
موم کرنا۔ ملایم و نرم کرلینا۔
موم ہو جانا۔ ملایم و نرم ہونا۔ داغ۔ ہیں وہ بیدرد آتش غم سے پگھلتے ہیں پہاڑ + موم ہو جاتا ہے جو آتا ہے پتھر زیر پا۔
موسیائی نکالنا۔ سخت محنت کرانا زد و کوب کرنا۔
مونڈ مارنا۔ سر مارنا۔
مونڈ منڈانا۔ سر کے بال استرے سے اترانا کسی گرو کا چیلا ہونا۔ کیبر۔ مونڈ منڈرائے جو گئے کھائے نگن بھرے جو بھینسا + کھلڑی اوپر ایکو بال من جیسے کا تیسا۔
مونڈی کاٹنا۔ سر کٹنا۔
مون سادھنا۔ چپ رہنا خاموشی اختیار کرنا۔
مونگ کی دال کھانے والا۔ بزدل ڈرپوک دوکاندار لالچی۔
موئے جیتے اکھاڑنا۔ پرانے قصے بیان کرنا مرے ہوے اور زندوں کو برا بولنا۔ شوق۔ موئے جیتے اکھاڑ ڈالونگی + ملکوں کیڑے جھاڑ ڈالونگی۔
موئیا سا پیٹ۔ نہایت نرم و ملایم پیٹ۔
موم کی ناک۔ جو شخص اپنی بات پر قایم نہو۔
موچھ کا بال۔ سچا آدمی راست گو آدمی ہر ایک بات میں خبر کہنے والا۔
موم دل۔ نرم دل رحیم بردبار۔
موٹا قلم۔ جلی قلم لکھنے کا۔
موم ہو گئے ہیں۔ نرم دل ہو گئے ہیں۔
مونگ کی پھلیاں۔ نہایت نازک انگلیاں۔
موتیوں کا نوالہ۔ عمدہ اور قیمتی غذا۔
موچی کا سکہ۔ سی ہوئی جوتی۔
موٹی اسامی۔ دولتمند مالدار۔
موٹی بات ہے۔ قریب الفہم ہے۔
مولا دولا ہے۔ فیاض سخی بے پروا ہے۔
مونڈ مٹے والی۔ کسبی رنڈی۔
موئے پر سو دُرّے۔ مرے ہوئے آدمی پر سو تازیانے لگانے غریب پر ظلم کرنا۔
موئی مٹی کی نشانی۔ کسی مری ہوئی عورت یا مرد کی نشانی لڑکی یا لڑکا وغیرہ۔

میم با ہائے ہوز

مہا اپور اس - کنونہین کا ش بڑے میان بڑے حضرت جنا بعالی -
مہا مانس بیچنا - غلام بیچنا بردہ فروشی کرنا -
مہتاب کا کھیت کرنا - چاند اور چاندنی نکلنا - برق - یون ترے رخ سے عیان ہی ترے تن مین مہتاب و کھیت جسطرے کرتا ہی چمن مین مہتاب
مہرا کرنا - عیا کرنا -
مہرا ثم دینا - مہر لگوانے کی رسم کی رقم ادا کرنا اجرت دیکر گواہی کرانا
مہرے پر رکھنا - نشانہ پر رکھنا -
مہیا ان بولنا - نرمی سے کلام کرنا -
مہنگی سے مہرا - گران فروش -
مہورت کرنا - وقت اور ساعت مقرر کرنا -
مہینا چڑھنا - مہینے کی تنخواہ کا روپیہ چڑھنا حیض کے دن نکلنا دیکر آنا
مہین گنہرا - نہایت بدمعاش -
مہینے سے ہونا - حیض سے ہونا -
مہا پرش - اچھا آدمی -
مہا برہمن - اچھا برہمن مردے کا مال لینے والا -
مہرا ابیحی برہمی - ہندی کی ردہ پوشی کی -
مہا مائی - دیوی ماتا -

میم با یا

میان سے باہر ہونا - تلوار کا میان سے نکلنا - غصہ کا بے قابو ہونا
میان سے کھینچ لینا نکالنا - کسی کے قتل کے ارادہ سے تلوار میان سے نکال لینا - سیمرے - دو آنکھیں کس قدر مین کہ تلوار کھنچ ہوا سکی بلند ہو
گرم اس سفاک کی میان سے کھینچی ابھی -
میان مین کرنا - تلوار کو میان مین ڈال لینا -
میٹھا بولنا - خوشی اور آداب سے بولنا -
میٹھا پوییا - نرم رفتاری گھوڑے کی -
میٹھا منہ کرنا - شیرینی کھلانا رشوت دینا -
میٹھا میٹھا - تھوڑا تھوڑا خفیف سا - جیسا - کہ میٹھا سا درد اس کی تیز کی چھری کو ترستا نہ لہو دل مین کیا کہوں اک میٹھا میٹھا درد ہوتا ہی
میٹھا ہونا - شیرین ہونا لالچ یا فائدہ ہونا - ذوق - حرف تلخ اس لب شیرین سے مرا ایک بات مین آ دونا ہے سنتے ہین ہم کچھ تو ہی میٹھا مجکو
میٹھی مار مارنا - اسطرح سے مارنا کہ خون نہ نکلے مگر بدن قیمہ ہو جائے -
میٹھے منہ ہونا - میٹھی باڑھ ہونا - تلوار یا چھری کا تیز ہونا -

بخیہ - تلی ہر گز سے ہرگز مجھے اندیشہ نہین + سیکھو مجھے چھیڑ کار کرو ایسا بست
میٹھی نظرون سے دیکھنا - محبت کی نگاہ سے دیکھنا - ناسخ - تو مجھے بھی میٹھی نظرون سے
وہ کیا دیکھے مجھے + اس پری کی آنکھین ہین بادام تلخ -
میخ مارنا - کسی کے کام مین حارج ہونا کھانچی مارنا -
میدان جانا - قضائے حاجت کو جانا -
میدان چھوڑنا - لڑائی سے بھاگ جانا -
میدان دینا - فراخ زمین کردینا اور دور ہٹ جانا -
میدان کرنا - جنگ کرنا لڑنا -
میدان مارنا - لڑائی جیتنا -
میدان مین آنا - جنگ کو آنا -
میدہ سا - نہایت باریک -
میزان بیٹھنا - موافقت آنا معاملہ ہونا -
میکا بسانا - خاوند کے گھر سے نکلکر عورت کا اپنے مان باپ کے گھر جانا -
میلا اجڑنا - میلا لگنا - لوگون کا ہجوم ہونا -
میلا کرنا - گندہ کرنا غلیظ کرنا خراب کرنا پاخانہ پھرنا -
میلا کرنا - سیر تماشا کو جانا لطف اٹھانا
میل خورا - وہ کپڑا جو کپڑون کے نیچے پہنا جاتا ہی اور صابن جس سے کپڑے دھوئے جاتے ہین -
میل لانا - اداس ہونا طبیعت مین رنجیدگی لانا -
میلی سر سے ہونا - عورت کا حیض سے ہونا - راحت - ہون میلی سر سے تجھے دھونا ضرور ہی + صحنک مین شامل بے لوا ہونا ضرور ہی کسکے بخیا
مینا کاری چھانٹنا - غور سے دیکھنا ہر ایک چیز کی بھلائی اور برائی کو جانچنا
مینڈکی کو زکام ہوا - چیونٹی کو بھی پر لگے - شوق - اور یا تو لکا اب پیام ہوا + مینڈکی کو بھی لو زکام ہوا -
مینڈھا اچھلنا - دریا مین بڑی بڑی موجون کا ظاہر ہونا - بحر - بحر غم نے کھائی ٹکر ایسی موج اشک کی + ہر بھنور چکر اگیا مینڈھا اچھلکر گیا
مینڈھا لڑانا - شراکت اور ساجھا کرنا -
مینڈھے لڑانا - بھیڑون کو آپس مین لڑوانا خانہ جنگی کرانا -
مین میکھ نکالنا - فال بینی کرنا اپنے آپ کو وہم مین ڈالنا ہر ایک کام مین نکتہ چینی کرنا -
میدہ و شہاب - سرخ و سپید نہایت حسین -
مے پرست - جسکو شراب پینے کی عادت ہو -
میٹھی نیند - بیفکری کی نیند جوانی کی نیند -

میک ڈمبر۔ بڑا خیمہ اور بادل اور نام ایک قسم کی پالکی کا جو ہاتھی پر کسی جاتی تھی۔
میٹھا برس۔ اٹھارھوان برس عمر کا۔
میر آتش۔ سلاح خانہ کا داروغہ
میر فرش۔ وہ وزن دار پتھر جو فرش کے گوشوں پر رکھدیتے ہیں۔
میٹھا ٹھگ۔ فریب دینے والا مکار جو میٹھی باتین کر کے ٹھگ لے۔
میل میل۔ ہاتھی کے چلانے کی آواز۔
مین مین۔ ہنکار غرور گھمنڈ۔
میاں مٹھو۔ سادہ لوح بھولا بھالا آدمی اور خطاب طوطی کا اور نام ایک مجذوب کا جسکے مرنے کی تاریخی رباعی یہ ہے۔ رباعی۔ میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے ذکر حق میں سدا رہا کرتے ہو کے پیر مرگ تک جو آیا کچھ نہ بولے سوائے حق حق کے۔
میاں آدمی۔ بھلا آدمی نیک آدمی۔
میاں بھائی۔ ایک عورت سے دو آشنا آپس مین میاں بھائی ہوتے چنانچہ ایک میان مین دو تلوارین۔
میانجی۔ معلم مکتب پڑھانے والا۔
میٹھی بولی۔ شیرین زبان۔
میٹھی چھری۔ منافق آدمی جو بظاہر میٹھی میٹھی باتین کرے اور باطن مین دشمن ہو۔
میدہ کی لوئی۔ نہایت ملایم پیٹ۔
میرا ماتم کرے۔ مجھے روئے۔ میرا حلوا کھائے۔ میری چھتی کھائے۔ بازاری فاحشہ عورتین اپنے آشناؤن کو اسطرح کی قسمین دیتی ہین اور کہتی ہین کہ اگر تو فلان کام نکرے تو میرا ماتم کرے وغیرہ وغیرہ۔
میرا لہو پئیے۔ یہ بھی ایک جملہ قسمیہ ہے۔ ذوق کہتا ہے خنجر قاتل سے یہ گلو میرا کہے جو مجھ سے کرے تو پئیے لہو میرا۔

پانچوین فصل

لغات متعلق بعلم طب کے بیان مین

میم با الف

ماء۔ فارسی مین آب ہندی مین اسکو پانی کہتے ہین جو ایک عنصر اربع عناصر بسیط سے ہے اور فائدے اس سے جو انسان کو حاصل ہین از قولہٖ تعالیٰ وجعلنا من الماء کل شیٔ حی اسپر گواہ ہے پانی کے بہت سے اقسام ہین بارش کا پانی نہر کا پانی چشمہ کا پانی حوض کا پانی سمندر کا پانی کنوئین کا پانی وغیرہ

انکی تاثیرین الگ الگ طبیہ کتب مین تحریر ہین بخوف طوالت درج نہین کیا گیا
مالیا۔ یہ ایک درخت شام کی ولایت مین اسکے پتے واقع سمیت ہین یعنے سانپ کے زہر کا علاج ہے اور لکڑی زہر قاتل ہے ہندی مین اسکو ... کہتے ہین
مامیثا۔ یہ ایک قسم کی جنگلی خشخاش ہے پھول اسکا زرد ہوتا ہے پھول کو کوٹ کر ٹکیان بنا رکھتے ہین اسکو عصارہ مامیثا اور شیاف مامیثا کہتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک قابض ورادع و محلل دافع درد سر وخفقان واسہال صفراوی و سمن بدن ہے
مارماہی۔ یہ ایک مچھلی ہے سانپ کی طرح لمبی جسکو فارسی مین مارماہی کہتے ہین یہ اور مچھلیون کیطرح پانی سے اور ... طبیعت اسکی گرم ... اسکا گوشت باہ کو بڑھاتا ہے اور درد پشت کو دور کرتا ہے۔
ماہی زہرہ۔ مشہور ہے ماہی زہرہ ہے جو کہ ... اسکا ... مچھلی کو مار دیتا ہے اسلئے اسکا زہر ماہی نام رکھا ہے یہ ایک گھانس شیر دار ہے طبیعت اسکی گرم خشک مسہل قوی اقسام بلغم کا محلل ریاح دافع درد مفاصل و نقرس وعرق النسا ہے۔
ماء القداح۔ عرق نارنج کا جو گلاب کیطرح کھینچا جاتا ہے عرق بہار بھی اسکو کہتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک دافع دردسر وامراض ردیہ ہے۔
ماعز۔ مشہور جانور ہے جسکو فارسی مین بز اور ہندی مین بکرا بکری کہتے ہین گوشت اسکا عام وخاص کھاتے ہین نہایت لذیذ ہوتا ہے طبیعت اسکی گرم تر صالح الکیموس مولد خون لطیف ہے۔
ماس۔ مشہور اور قیمتی پتھر ہے جسکو فارسی مین الماس اور ہندی مین ہیرا کہتے ہین نہایت سخت اور خشک ہر ایک رنگ کا ہوتا ہے سپید اور زرد اور سیاہ وسرخ اور خاکی لیئے نیلا سپید بکثرت ملتا ہے بے رنگ اور بے رگ بڑی قیمت پاتا ہے طبیعت سرد اور خشک ہے پاس رکھنا اسکا دلکو قوت دیتا ہے دافع خوف و دہشت ہے زہر قاتل ہے تھوڑا کھانا اسکا بھی مار ڈالتا ہے۔
ماش۔ مشہور غلہ ہے جو کھانے مین آتا ہے طبیعت اسکی سرد مایل بخشکی کثیر الغذا مولد خلط صالح بطئی الانحدار ہے۔
مازریون۔ یہ ایک درخت خیزدار کا ہے بقدر درخت سماق کے اور تین قسم پر منقسم ہے ایک کے پتے سفید اور بڑے اور نازک اسکو ... کہتے ہین دوسرے کے پتے زرد زیتون کے پتون سے چھوٹے فارسی مین اسکا ہفت رنگ نام ہے تیسری قسم کی پتے سیاہ ان تینون مین سے مستعمل سفید پتون والا ہے طبیعت اسکی گرم و خشک جالی ومنقی ومسہل قوی ہے۔
ماسفود دان۔ ایک قسم ریحان کا ہے نہایت خوشبو طبیعت گرم خشک

سب افعال و خواص اسکے سنبل ہندی کے سے ہین مشہور مین خوشبوئی کیلیے و استعمال رکھتے ہین۔

ما انکسا الحجرین ۔ یہ ایک جانور ہی جسکو فارسی مین لوتیار اور ہندی مین لکا کہتے ہین پانی کے کنارے رہتا ہی سپید رنگ اور چھوٹی مچھلیان کھاتا ہی طبیعت اسکی گرم و خشک گوشت اسکا غلیظ مولد ریاح قوی کنندہ و محرک باہ ہی۔

ماالعسل بالماء القراطین ۔ ماء العسل یعنے شہد اور پانی پکایا ہوا یونانی لغت ہی ماء یعنے شہد اور قراطین یعنے پانی ہی ایک حصہ شہد اور دو حصہ پانی ملاکر پکاتے ہین دو تہائی رہجانیکو آگ سے اتارلین اور بقدر الحاجت کام مین لائین طبیعت اسکی گرم تر مقوی اعضا سے باردہ و امراض باردہ دافع درد مفاصل و قراقر شکم مدر بول و حیض ہی۔

مامیران ۔ یہ دوا ہلدی کی قسم سے ہی ساق اور شاخین اسکی نبات کی زمین سے اونچی ہی مشابہ لبلاب کے پتے گول سفید یا مائل بزردی و لزوجت کی جڑ ہلدی سے چھوٹی اور پتلی گرہ دار غیر مستقیم ہوتی ہی ریشہ دار خراسان اور ہند مین پیدا ہوتی ہی بہتر وہ ہی جو چین سے لاتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک ہی ہزارون خواص اسکے درج کتب طبیہ ہین سب سے بڑا خاصہ یہ ہی کہ آنکھون کو روشن کرتی ہی ناخنہ و تاریکی دور کرتی ہی آنکھ کی ہر ایک بیماری کا علاج ہی۔

ماہودانہ ۔ اسکو حب السلاطین و حب الملوک بھی کہتے ہین مسہل قوی ہی درد مفاصل و نقرس کو دفع کرتا ہی زیادہ کھانا منع ہی اور اسہال کی کثرت سے ہلاکت کا اندیشہ۔

مال کنگنی ۔ مشہور دوا ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک مقوی دماغ و قوت حافظہ و ذہن دافع درد مفاصل و نقرس و عرق النساء و امراض باردہ رطبہ دماغی ہی۔

میم با تاے مثلثہ

مثلث ۔ یہ ایک قسم کی شراب ہی کہ تین حصہ انگور کا پانی اور ایک حصہ خالص پانی ملاکر جوش دین ایک حصہ جل جائے تو اتارلین پینا اسکا مولد خون صالح مقوی ہاضمہ دافع ذات الجنب و ذات الصدر و چیچک و مقوی باہ مگر کثرت اسکی مضر ہی۔

مثنان ۔ یہ نبات دو قسم پر منقسم ہی ایک کی شاخین بہت سی اور لمبی بقدر دو گز کے اور پتے مازریون کے سے ساتھ رطوبت لیس دار کے پھول سپید اور پھل سرخ جسکو حب دانہ و گرم دانہ کہتے ہین پتے اور بیج اسکے مستعمل ہین طبیعت اسکی گرم و خشک اور مسہل قوی بلغم کا ہی۔

مصدر ہے اور امعاے گرم کو نکالتا ہی دوسری قسم کی نبات بقدر دو بالشت کے بلند ہوتی ہی پھول زرد طبیعت اسکی گرم و خشک ہی مسہل بلغم خام کا ہی اور استسقا کو نہایت مفید۔

میم با جیم

مجنج ۔ بضم میم و سکون جیم و فتح نون و سکون حاے حطی ایک بوٹی کا نام ہی جو قسم ریاحین سے ہی طبیعت سرد خشک حابس اسہال و سیلان خون ہی۔

مجوقان ۔ یہ جڑ کسی نبات کی ہی جو شہر مجوقان سے لاتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک ساتھ قوت مسہلہ کے ہر ایک قسم نزلہ اور درد مفاصل و امراض گردہ و قولنج کو نافع ہی۔

میم با حاے حطی

محروث ۔ بیخ انگوزہ مشہور چیز ہی باضم مصفی معدہ محلل ریاح مانند حلتیت کے ہی۔

میم با خاے

مخ ۔ وہ مغز جو ہڈی کے اندر ہو طبیعت اسکی گرم تر ملین و مرخی اعضا کثیر الغذا مسمن بدن ہی۔

مخیض ۔ چھاچھ جسمین سے مسکہ نکل چکا ہو طبیعت اسکی سرد تر مسکن غلیان خون محرک باہ محرورین و مشتہی و مسمن و دافع حرارت و سوزش معدہ ہی۔

مخلصہ ۔ یہ دوا اعلے تریاق سانپ کے زہر کا ہی باعتبار اماکن مختلف کے مختلف شکلین اسکی ہوتی ہین طبیعت اسکی گرم خشک قولنج دفع کرتی ہی معدہ کو تقویت دیتی ہی ہر ایک قسم کے زہر خصوصا سانپ کے زہر کا علاج ہی۔

میم با دال

مداد ۔ مرکب یعنے وہ سیاہی جو کاجل و گوند وغیرہ سے لکھنے کیلیے بناتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک قابض مجفف و حابس دم دافع شقاق و گرم۔

میم با راے

مرقشیشا ۔ یہ ایک پتھر نہایت روشن و مصفا ہوتا ہی عربی مین حجر النور فارسی مین سنگ روشنی ہندی مین سونا مکھی کہتے ہین ذہبی و فضی و نحاسی و حدیدی ہوتا ہی جس کان مین پیدا ہوتا ہی اسی سے منسوب کیا جاتا ہی اور کانی جوہر اسمین نمودار ہوتے ہین قوی سب سے ذہبی ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک محلل و جالی و قابض ہی سرمہ اسکا محرق و غیر محرق آنکھ کی روشنی کیواسطے مجرب علاج ہی تعلیق اسکا باعث دفع

خوف شدید و دہشت کا ہونا

مرداسنج ۔ معرب مرداسنگ یہ ایک مصنوعی پتھر ہی جو اجساد سبعہ (سے) سواے لوہے کے بنایا جاتا ہی مزاج اسکا خشک مایل بگرمی کھانا اسکا زہر قاتل ہی اگر مرہمون مین داخل کیا جاتا ہی کہ کاٹنے والا گوشت فاسد کا اور جمانے والا اچھے گوشت اور بند کرنے والا زخمون کا۔

مرمازاد ۔ یہ ایک نبات ہی جسکی ایک ساق بقدر بالشت کے پھول بنفشی مایل بسبزی چھوٹی پتی طبیعت گرم و خشک مقوی دماغ دافع درد سر بلغمی مقوی جگر محلل ریاح ہی۔

مر ۔ عربی لغت ہی ہندی مین اسکو بول بضم با کہتے ہین ایک درخت کا گوند ہی جو مغرب کی سمت سے لاتے ہین درخت اسکا بلند اور خوبصورت گرہ دار بانس کیطرح ہوتا ہی بعض جگہ اسکے پتے ... مین تلخ گوند اس سے کئی طرح سے نکلتا ہی ایک گوند تو وہ ہی جو درخت کو چھیلتے ہین اور نیچے برتن رکھدیتے ہین گوند درخت سے نکلکر برتن مین جمع ہوتا ہی اسکو مرصاف کہتے ہین اور جو خود بخود درخت سے نکلتا ہی اسکو مرالطایج بولتے ہین اور جو درخت کی پوست کو جوش دیکر نکالتے ہین اسکو سیہ سایہ مرطیشی کہتے ہین یہ اچھا نہین ہوتا طبیعت اسکی گرم و خشک یہ دوا دویہ جلیلہ عظیم النفع سے ہی ہزارون فائدے اسکے کتابون مین مذکور ہین

مرار ۔ یہ ایک کانٹا گرمی کی ابتدا مین پیدا ہوتا ہی پتے اسکے مشابہ پتے چقندر کے ہوتے ہین پھول اسکا زرد اور تخم کسوث کے تخم کیطرح ہوتا ہی طبیعت اسکی معتدل حرارت مین اور خشک ہی دافع درد پہلو و ضعف جگر و جرب و حکہ مدر بول و حیض ہی۔

مرمر ۔ مشہور پتھر ہی رخام بھی اسکو کہتے ہین اسکو جلا کر راکھ اسکی دانتون ملین تو دانت مضبوط رہتے ہین۔

مرماحوز ۔ یہ پہاڑی بوٹی ہی ساق اسکی ایک بالشت پتی لمبی اور گول رنگ تیرہ پھول زرد مائل بسبزی طبیعت گرم خشک ملطف و محلل شراب مین اگر اسکو ڈالکر پیئین تو نشہ زیادہ ہوتا ہی۔

مرسطس ۔ ایک درخت بقدر قد آدم ہوتا ہی پتی باریک بال کیطرح تیز اور تلخ طبیعت گرم و خشک طلا اسکا سانپ اور بچھو وغیرہ زہردار جانورون کے نیش پر لگائین تو زہر دفع ہوجاتا ہی عسر ولادت کے وقت اگر اسکی لکڑی عورت ہاتھ مین رکھے تو بچہ فی الفور باہر آجائے وزن دو اوقیہ پانی اسکا زہر قاتل ہی

مرسیطس ۔ یہ ایک پتھر سیاہ خطدار اور ہلکا ہوتا ہی اگر اسکو پیس کر پیئین تو شراب کی بو آتی ہی دافع وجع الفواد و درد پشت ہی۔

مرزنجوش ۔ یہ ایک نبات ہی جسکے پتے چوہے کے کانون کیطرح ... مرزنگوش ہی معرب اسکا مرزنجوش ہی ... طبیعت اسکی گرم خشک محلل و منضج جالی و ... دافع درد سر و درد اسہال بلغمی و مالیخولیا و لقوہ ہی۔

مرغ ۔ نام ایک گھانس کا ہی جسکو دوب کہتے ہین دافع قے و زہر مار و زہر کژدم و سوزش سینہ ہی۔

مران ۔ یہ ایک درخت عرب کی زمین مین ہی سب اجزا اسکے تلخ اور لکڑی سخت ہی طبیعت گرم خشک جوشاندہ دافع زہر مار ہی۔

مرجان ۔ مشہور چیز ہی جسکو ہندی مین مونگا بولتے ہین دریائی جواہر مین سے ایک جوہر ہی جو سمندر مین بطور درخت پیدا ہوتا ہی سرخ اور سپید اور سیاہ ہوتا ہی ایک ہاتھ بڑا ہوتا ہی ... پتے اور پھل نہین ہوتا بہتر سرخ رنگین چمکتا ہوا اور بہت خراب سیاہ طبیعت اسکی سرد اور خشک قابض و مجفف و جالی تعلیق اسکا معدہ پر معدہ کی بیماریون کو نافع ہی

مرارہ ۔ فارسی مین اسکو زہرہ اور تلخہ ہندی مین پتا کہتے ہین اور وہ ایک عضو اعضاے اندرونی سے ہی اور صفرا اسمین جمع رہتا ہی طبیعت اسکی گرم و خشک اور خواص ہر ایک جانور کے پتے کے الگ الگ درج کتب طبیہ ہین

مرعزی ۔ مرعز مین ایک قسم کی بکری ہوتی ہی جسکے بال دراز ہین اور بالون کی جڑ مین باریک بال ہوتے ہین انکو پشم مرعز کہتے ہین جو نہایت قیمتی ہوتی ہی اسکے کپڑے کا پہننا ہر ایک مزاج کے موافق ہی مقوی گردہ و محرک باہ ہی

مری ۔ یہ ایک قسم کی روٹی جو کے آٹے کی پکائی جاتی ہی جسمین اور بہت سے اشیا ممزوج ہوتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک القصہ مین لذیذ

	میم با زاے معجمہ	

مرز ۔ اقسام ہیتر سے ہی جو مصر مین جانورون سے بنائی جاتی ہی ہندی مین اسکو لوزہ کہتے ہین۔

مزمارالراعی ۔ ایک نبات مشابہ بارتنگ ساق باریک بدون گرہ کے جڑ سیاہ نمناک زمین مین پیدا ہوتی ہی طبیعت گرم خشک جالی و محلل اورام دافع سموم مفتح سدہ دافع سنگ گردہ و مثانہ ہی۔

	میم با سین	

مسحوقونیا ۔ عربی مین اسکو ماء الزجاج اور فارسی مین کف آبگینہ کہتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک نافع بیاض چشم و ظلمت بصر و نافع جلا دہندون کو اور قاطع گوشت فاسد اور خشک کرنے والی زخمون کی ہی

مسیر ۔ کدو کا مربا واضح جسکا بقراط ہی شہد اور قند مین ڈالا جاتا ہی نہایت لذیذ ہوتا ہی طبیعت عسلی کی مائل بگرمی اور قندی کی معتدل ملطف اخلاط و مدر فضلات مسمن بدن محرک باہ ہی۔

مِسک۔ فارسی مین اسکو مشک اور ہندی مین کستوری کہتے ہین ایک قسم کا ہرن ہی جسکی ناف مین خون منجمد ہوکر مشک پیدا ہوتی ہی اور وہ ہرن چین اور ختن کے پہاڑون مین رہتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک مفرح ومقوی دل ودماغ وتمام اعضاے رئیسہ بڑھانے والی حرارت غریزی طاقت دینے والی اعضاے ظاہری اور باطنی کو مصفا کرنے والی حواس ظاہری وباطنی کی ہی۔

مستعجلہ۔ بعض کے نزدیک یہ بوزیدان بعض کے نزدیک سورنجان ہی بعض کے خیال مین نوع لعبت بربری اور وہ ریشے ہین آپسمین لپٹے ہوے سخت مربع شکل اگر انکو آپس سے جدا کرین لکڑی اسکی مربع متساوی الاضلاع دیکھی جاتی ہی بہتر اسکی شیرین اور سخت اور خوش جوہر ہی مستعجلہ اسکو اسواسطے کہتے ہین کہ تقویت باہ مین یہ بہت جلدی کرتی ہی طبیعت اسکی گرم تر مقوی اعصاب وقوت باہ ہی عضو تناسل کو سخت کرتی ہی۔

میم با شین معجمہ

مِشمِش۔ یہ ایک پھل ہی فارسی مین اسکو زردآلو کہتے ہین خشک کیا ہوا تازہ سے بہتر ہی طبیعت اسکی سرد تر ملین طبع مسکن تشنگی مسہل صفرا دافع تپ صفراوی ہی

مشکطرامشیع۔ ایک قسم کا پودینہ پہاڑی ہی باغی پودینہ سے پتی بڑی اور گول خوشبو اور خشونت زیادہ طبیعت اسکی گرم اور خشک یہان تک کہ اگر شیردار بکری اسکو کھا جاے تو اسکا دودھ خون ہوجاتا ہی پینا اسکا مخرج رطوبات غلیظہ مقوی اشتہا مفتح قولنج مدر بول وحیض ہی۔

مشط الغول۔ یہ ایک نبات شاخدار ہی پتلی پتلی جسکی شاخین ہندی مین اسکو کنگھی کہتے ہین پتی اسکی دھنیا کی سی بغیر پھل اور پھول کے طبیعت گرم وخشک محلل قوی ریاح غلیظہ ومفتح سدہ ہی پینا اوقیہ پینا اسکے پانی کا واسطے دفع سم باولے کتے کے مجرب ہی۔

مشک دانہ۔ یہ ایک چھوٹا دانہ بقدر مسور کے ہند مین پیدا ہوتا ہی طبیعت اسکی سرد خشک آنکھ کو روشن کرتا ہی دافع ثقل معدہ وریاح معدہ وبرص وسیلان منی ورعاف۔

مَصُوص۔ ایک طرح کے کباب کا نام ہی جسکے بنانے کے کئی ترکیبین ہین جو صالح الغذا سریع الہضم ہی۔

مصطگی۔ گوند ایک درخت کا جو شام اور روم اور نواح ارمنیہ مین ہوتا ہی طبیعت گرم اور خشک ملطف ومحلل وجالی وقابض ومقوی اعضاے رئیسہ جاذب رطوبات دافع صداع ونزلات باردہ ووسواس ومالیخولیا ہی۔

میم با ضاد

مَصَّص۔ جنگلی انار جو بستانی انار سے چھوٹا اور شیرین ہوتا ہی صنوبر اور ہو مین کثیر الوجود ہی یہ کوئی بہت بڑا درخت نہین ہوتا بلکہ زمین سے نکلکر دوچار ہاتھ بلند ہوتا ہی تو پھول سرخ نکل آتا ہی پھول جھڑجاتا ہی تو انار بننا شروع ہوجاتا ہی اسکی جڑ کا طلا ہر ایک ضرب کے صدمہ کے درد کو تسکین دیتا ہی۔

میم با غین معجمہ

مغنیسیا۔ ایک پتھر کا نام ہی جسکو فارسی مین سنگ کاسہ کہتے ہین کہ کاسہ گر اس سے پیالون کو رنگ کرتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک پینا اسکا مقوی معدہ ومنقی رطوبات دافع سنگ مثانہ وگردہ وعسر بول ہی۔

مغاث۔ یہ ایک جڑ لمبی اور موٹی ہی سیاہی مایل طبیعت گرم وخشک محلل وقابض ومقوی اعصاب مسمن بدن ہی۔

مغرہ۔ یہ ایک مٹی سرخ وتیرہ مایل بزردی ہی جو روم سے لاتے ہین ہندوستان مین بھی ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم خشک قابض ومجفف اور حابس ہی نفث الدم کا علاج ہی معدہ اور امعا کے کرمون کو مارتی ہی حیض کو بند کرتی ہی۔

میم با قاف

مُقل۔ مشہور چیز ہی جسکو ہندی مین گوگل کہتے ہین یہ گوند ایک درخت کا ہی جو سمندر کے کنارے سندھ کے ملک مین بہت ہوتا ہی جو مایل بسرخی وتلخی ہی اسکو مقل ازرق کہتے ہین اور جو مایل بزردی ہی اسکو مقل الیہود بولتے ہین اور جو مایل بہ تیرگی وکثافت وسیاہی ونرمی ہی وہ ناکارہ ہی اور بادنجانی رنگ مقل عربی نام ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک جالی ومحلل دافع درد گلو وسرفہ وضعف جگر وعرق النسا ہی۔

مقل مکی۔ یہ پھل ایک درخت کا ہی جو خرما کی درخت کیطرح ہوتا ہی طبیعت اسکی سرد وخشک قابض ومقوی معدہ حابس اسہال وسیلان خون دافع تقطیر البول ونفث الدم ہی۔

میم با کاف

مکھارہ۔ لغت ہندی ہی اسکو تال مکھانہ بھی کہتے ہین اسکا نبات تالابون مین ہوتا ہی پھول اور پتے اسکے نیلوفر کیطرح ہوتے ہین بعد کم ہونے پانی کے جڑ اسکی بقدر چقندر کے نکال لیتے ہین پوست اسکا سیاہ اور اسکے جوف خانے خانے مین ایک بیج سیاہ اور بیج کا مغز سپید اور شیرین اور لزج تازہ کچا کھاتے ہین اور خشک کو بریان کرکے طبیعت اسکی گرم تر مقوی بدن وباہ ہی منی کو زیادہ کرتا ہی۔

میم با لام

مِلح۔ نمک فارسی مین اور لون ہندی مین اسکا نام ہی مشہور چیز ہی حاجت تشریح کی نہین اور کئی اقسام مین منقسم ہی چنانچہ ملح اسود وملح طبرزد وملح سانبر وملح المر وملح الجبین وملح اندرونی وملح رشیدی وملح نفطی وملح ہندی وغیرہ تفصیل سب کی کتب طبیہ مین درج ہی۔

میم با نون

منّ - ایک قسم شبنم کا ہی جو درختون پر ہوا سے گر کر منجمد ہو جاتا ہی ذایقہ مین شیرین مثل ترنجبین و گزانگبین و شیرخشت وغیرہ جو سمتی درختون پہ منعقد ہوتی ہی مانند شکر العشر کے سم ہی اور جو نباتات قابضہ پر منجمد ہوتی ہی قابض ہی اور مسہل پر مسہل -

منج زراوشان - یہ ایک تخم اجواین کی طرح ہی بعض کے نزدیک جنگلی خیری کا تخم ہی -

میم با واو

مومیا - مومیائی مشہور چیز ہی جو بعض پہاڑون سے نکلتی ہی بہترین وہ قسم ہی جو کوہ داراب توابع فارس سے نکلتی ہی پہلے پہل فریدون کے وقت مین اس عجیب و غریب چیز کو معلوم کیا گیا اور تجربہ اور امتحان ہوا طبیعت اسکی گرم اور خشک مقوی ارواح و دل و مفرح و محلل مواد بارد و مقوی اعضا ظاہری و باطنی مجفف رطوبات معین باہ حافظ بدن سریع النفوذ ٹوٹے ہوئے جوڑون کو پیوند کرنے والی دافع فالج و رعشہ و لقوہ و جراحت مثانہ و سلسل البول وغیرہ امراض اندرونی و بیرونی ہی -

مورنج - ہندی لفظ ہی سرکندہ بھی اسکو کہتے ہین سرد اور خشک ہی اسکے جوشاندے کے ساتھ غرغرہ کرنا جوشش دہان اور مسوڑون کے ورم کو دور کرتا ہی دافع بواسیر خونی و ریحی و درد گردہ و مثانہ ہی

موز - مشہور میوہ ہی جسکو کیلا کہتے ہین طبیعت اسکی گرم تر جالی اور کثیر الغذا دیر ہضم مولد خون مسمن بدن ہی -

مونہ جڑ - ایک گھانس کی ہی خوشبو اور رنگ مین مشابہ غار الفیون کے مایل بزردی و تلخی وحدت مقدونیہ ملک روم سے لاتے ہین طبیعت گرم اور خشک قابض و ملطف و منوم دافع نزلات ہی -

موسنی جڑ سنبل کی جو ہنوز نہ پھولا ہو سیاہ و سپید طبیعت اسکی گرم اور خشک دافع ضیق النفس و مقوی باہ اور زیادہ کرنے والی منی کی ہی -

مول سری - یہ ایک درخت قدآور اور خوش منظر ہندوستان مین ہوتا ہی پھول اسکا بقدر عناب کے پھول چھوٹا اور چوڑا اور گول خوشبودار برسات مین پھولتا ہی طبیعت اسکی گرم خشک اور پھل سرد خشک حابس سیلان منی دافع حرقت البول و آتشک و درد دندان و درد سر ہی -

مونڈھی - مشہور ہندی دوا ہی کثیر المنافع طبیعت اسکی گرم تر ساتھ قوت قابضہ کے مقوی اعضاے رئیسہ دافع خفقان و توحش و یرقان ہی -

میم با ہاے

مہا سنگ چقماق مشہور پتھر ہی طبیعت اسکی سرد و خشک دافع بیاض چشم ہی

مہلبیہ - لذیذ غذاؤن سے ایک غذا کا نام ہی کہ چانول کے آٹے اور دودھ اور شکر سے بناتے ہین طبیعت اسکی گرم تر دافع مالیخولیا و جنون و درد سر ہی -

میم با یاے

میفختج - بضم میم و سکون یاے و ضم فاے و سکون خاے و فتح تاے و جیم اخیر مین انگور کا پانی کہ پکاتے ہین زیادہ دو تہائی سے نہ جلے طبیعت اسکی گرم خشک ملین طبع محرک باہ دافع درد گردہ و مثانہ ہی -

میسنون - یہ ایک حجری جسم لمبا تخم خرما کی مقدار پر سپید خاکستری رنگ جو قسم زبد البحر سے ہی طبیعت اسکی گرم و خشک دافع استسقا و ورم الکلی و درد گردہ ہی -

میس - یہ ایک عالیشان درخت ہی پھل اسکا بڑا مرچ سے خوش مزہ و خوشبو مثلث مایل بزردی لکڑی سرخ و سیاہ سخت اور خوشبو طبیعت اسکی گرم خشک پھل دافع سرفہ و مقوی معدہ و قرحہ امعا ہی -

میبہ - شراب انگوری کے اقسام سے ایک شراب ہی مفرح و منشی و مقوی معدہ

میعہ سائلہ - یہ گوند ایک درخت کا ہی بہت خوشبو معطر اسکے درخت کو عبہر کہتے ہین طبیعت گرم اور خشک مقوی و محلل ریاح و ملین دافع سرفہ و زکام و خدر ہی اور میعہ یابسہ اسی درخت کے گوند کا نام ہی جو اسکی لکڑی کے اجزا کو نچوڑ کر نکال لیتے ہین -

انیسوان باب

حرف نون کے بیان مین اس مین پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات عربی و فارسی وغیرہ کے بیان مین

نون با الف

نا - حرف نفی کا ہی [illegible] جیسے ناپاک و نامرد و ناسمجھ و ناانصاف و ناتوان وغیرہ - سعدی - امید ہست بستگان مخلص که ناامید نگردند ز آستان آلہ

ناشتا - نہار علی الصباح وہ وقت جو ابھی کچھ کھایا نہو - درویش والہ ہروی - سینہ از داغ ناشتا شکن ہست چاک تا زدے گریبان بست

نان حلوا - نام ایک کتاب کا جو مثنوی مصنفہ مولانا بہاء الدین آملی بجواب مثنوی مولوی روم

ناخدا - مخفف ناؤ خدا کشتی کا مالک جہاز چلانے والا ملاح بقیہ از صفحہ

بیشک رسد بساحل امید روز حشر + چون ناخدائے کشتی امت محمد ست -
نازا - ہر ایک حیوان کی مادہ جو بچہ دینے کے لائق نہو -
ناپیدا - چھپا ہوا جو ظاہر نہو -
نابینا - اندھا جو دیکھ نہ سکتا ہو - قطعہ از مولف - خاکساران جناب
احمدی + خاک سے عزّ العزیز سونا بن گئے + جتنے نادان تھے ہوے اہل شعور
جتنے نابینا تھے بینا بن گئے -
نا روا - ناجائز شرع کے برخلاف -
ناسزا - نازیبا نالائق -
ناکدخدا - جسکی ہنوز شادی نہ ہوئی ہو -
ناب - فارسی مین خالص و صاف و بیغش اور عربی مین ناقہ پیر یعنی بوڑھی
اونٹنی اور چارپاؤن کے اگلے دانت جنکو دندان نیش کہتے ہین - ذوقی
نوش کن جام محبت نیش کر + مست زین رنگین شراب ناب شو -
ناصیہ - پیشانی اور قائم کرنے والا -
نائب - قائمقام پیشکار - درویش والہ ہروی - اے جہرہ طراز خاک
گردون + نائب کرم خدائے بیچون -
ناکب - اوندھا ڈالنے والا رنج پہونچانے والا -
ناسوت - عالم اجسام و عالم موجودات و عالم شریعت -
ناشرات - تند ہوائین اندھیرے -
نابت - اگنے والا اور اگانے والا -
ناکاج - یکایک اچانک ناگاہ - حکیم سوزنی - بے فکرت مداحی صدر تو
ہمہ عمر + حاشا کہ زنم یک خرہ را بر خرہ ناکاج -
ناہج - راستہ چلنے والا کشادہ راستہ پیدا کرنے والا -
نارنج - معرب نارنگ جو ایک مشہور میوہ ہی
ناسج - کپڑا بننے والا جولاہا -
ناف پیچ - پیچش کا درد جو ایک مشہور بیماری ہی -
ناضح - اخیر مین جاے حطی شتر آب کش وہ اونٹ جسپر پانی لادکر لاوین -
ناصح - نصیحت کرنے والا -
ناطح - سینگ مارنے والا جانور -
ناکح - نکاح کرنے والا -
ناچخ - چھوٹا نیزہ اور تبر جو سپاہی زین کے ساتھ باندھ لیتا ہی نظامی -
چنان زد بر و ناچخ نہ گرہ + کہ ہم کالبد سفتہ شد ہم زرہ -
ناسخ - منسوخ کرنے والا دور کرنے والا لکھنے والا -
نافخ - ناف وسط شکم کا سوراخ -

نافوخ - بیخ سوسن جنگلی -
نافخ - پھونکنے والا -
ناورد - جنگ لڑائی مقابلہ میدان - سعدی - بہ پیکار دشمن دلیران
فرست + دلیران بناورد شیران فرست -
ناقد - صراف روپیہ کھرے کھوٹے کو پہچاننے والا -
نارد - چچڑی جو ایک جانور ہی اور گائے بیل اونٹ وغیرہ کے جسم کو چمٹکر خون پیتی ہی
ناہد - جوان لڑکی جسکے پستان ابھر آئے ہون -
ناہید - ستارہ زہرہ مشتری جو تیسرے آسمان پر چمکتا ہی اور اسکو مطربہ فلک کہتے ہین
نافذ - جاری ہونے والا -
ناہار - ناشتا جو ابھی کچھ چیز کھائی نہو -
ناسور - جو زخم ہمیشہ بہتا رہے -
ناصر - یاری دینے والا مددگار -
ناظر - دیکھنے والا اور افسر منشیون کا جو دفتر مین مقرر ہو - سعدی
چو مشرف دو دست از امانت گذاشت + بباید بروناظرے کس گماشت +
ور او نیز در ساخت باخاطرش + ز مشرف عمل برکن و ناظرش -
نافر - نفرت کرنے والا بھاگنے والا -
ناقور - سنکھ اور نلے جسکو بجاتے ہین -
نادر - وہ چیز جو کم بہم پہونچ سکتی ہو عجیب و غریب -
ناطور - نگہبان و پاسبان
نار - عربی مین آگ جو چار عنصر سے ایک عنصر ہی اور فارسی مین مشہور
میوہ ہی - سعدی - زینہار از قرین بد زنہار + وقنا ربنا عذاب النار
ناشر - پراگندہ کرنے والا نشر کرنے والا -
ناشز - اخیر مین زائے معجمہ بالانشین بلند بیٹھنے والا -
ناز - استغنا و بے پروائی و بددماغی اور لورستہ درخت سرو صنوبر
سعدی - پیش کسے رو کہ طلبگار تست + ناز بران کن کہ خریدار تست -
ناموس - عصمت و عفت و عزت و حرمت و نیکنامی و تدبیر اور فرشتے
اور جبرئیل علیہ السلام و قاعدہ و دستور -
ناکس - بکسر کاف عربی مین نگونسار و سرنگون -
ناکس - بفتح کاف فارسی مین نااہل و فرومایہ کمینہ - سعدی شمشیر
نیک ز آہن بد چون کند کسے + ناکس بتربیت نشود اے حکیم کس +
باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست + در باغ لالہ روید و در شورہ بوم خس -
ناخس - ایک بیماری اور درد کا نام ہی جس سے بیمار کو معلوم ہوتا ہی
کہ کوئی اسکے جسم مین سوئی چبھو رہا ہی -

ناؤس - بروزن طاؤس آتشخانہ آتش پرستون کا -

ناس - آدمی یہ لفظ مفرد اور جمع دونون پر آتا ہی -

ناقوس - نرسنگا اور سنکھ جو ہنود عبادتگاہون مین بجاتے ہین -

نالیوس - نام ایک ساز کا جسکو موسیقار بھی کہتے ہین -

ناعس - اونگھنے والا یعنے جسکی آنکھ مین نیند بھری ہوئی ہو -

نان خورش - لازمہ جو روٹی کے ساتھ کھائین - سعدی - یکے نان خورش جز پیازی نداشت + چو دیگر کسان برگ سازی نداشت -

ناعش - زندگانی بخشنے والا -

نالش - رونا چلانا فریاد کرنا -

ناقص - ناتمام اور وہ چیز جو کامل نہو - حسن سنجری - کیم بخشش بخرمن - وو دنیا جامع صدق و صفا + کاملان را بر کامل ناقصان را دہنا -

ناقض - اخیر مین ضاد معجمہ جھاڑنے والا ہلانے والا جنبش دینے والا -

ناشط - خوشی کرنے والا نشاط مین آنے والا -

ناحفاظ - بے شرم و بے حیا و فاسق فاجر - حکیم سنائی - یک جہان ناحفاظ و نابینا + در عبادت فرخج و ناز یبا -

ناصع - بلسر صاد مہملہ خالص -

ناف - مشہور لفظ ہی ہندی - صفا - سینہ شکم دریا سے سیاب + از ناف اذنا دہ اندر رہ حلقہ گرداب + تہ نافش سخن گفتن محال ست + کہ دور از دیدہ وہم و خیال ست -

ناصف - نصف کرنے والا آدھوآدھ بانٹنے والا -

ناہق - نر گدھا -

ناسق - انتظام کرنے والا بندوبست کرنے والا -

ناحق - جو بات سچ نہو -

ناطق - بولنے والا کلام کرنے والا - صائب - نہ بند دحجت ناطق زبان منکران ورنہ + زعیسی روئے شرم آلود مریم بود گویا تر -

نازک - تراشیدہ و موزون و خوبصورت و نرم و پاکیزہ - صائب بیسواے - صد رنگ گل از سر لگار سے دستہ لبست + لبکہ رنگ چہرہ آن ماہ سیما نازک ست -

ناوک - ایک قسم کے چھوٹے تیر کا نام ہی - حافظ - ہم چون ناوک غمزہ کشاید + دل مجروح بیمارم سپر باد -

ناک - کلمہ نسبت ہی اور افادہ معنی اتصاف کا بھی کرتا ہی چنانچہ خطرناک و غمناک و اندیشناک وغیرہ - حکیم زلالی - بے اظہار عشق آرزوناک + چو لعل از کان تہمت دامن پاک -

ناخنک - ناخنہ نام ایک بیماری کا ہی جو آنکھ مین ظاہر ہوتی ہی - عبد العزیز عارف - شمع محفل کنم اندم کہ دل روشن را + ماہ لونا خنک دیدہ مشہور ونرا -

ناسک - عبادت کرنے والا قربانی کرنے والا -

نال - وہ باریک تار جو قلم کے اندر سے نکلتا ہی اور نیشکر اور نلے جو اندر سے پولی ہو - میر معزی - سوختہ بیشتر تو دشمن چو نیش صور نگاہ + نمود پیش تو حاسد چو پیش آتش نال -

ناسپال - انار کا پوست -

ناغول - نردبان زینہ - پوڑی - سیڑھی -

نارجیل - ناریل کھوپرا جو ایک مشہور درخت ہی -

نازل - اترنے والا -

ناقل - نقل کرنے والا -

نائل - پہونچنے والا حاصل کرنے والا -

ناعم - نرم و ملایم اور نام ایک قلعہ کا خیبر کے قلعون سے -

نائم - بحالت خواب یعنے سویا ہوا -

نادم - منفعل و شرمندہ و پشیمان -

ناظم - صاحب انتظام نظم لکھنے والا موتی پرونے والا - شاہ ابو المعالی لاہوری - ناظم ابن سالک دُرہاکے ثمین + راجی رحمت معالی خیردین -

نارون - بفتح واو یہ نام ایک انار کے درخت کا ہی جسکا پھول صد برگ یعنے بہت بڑا ہوتا ہی اور نام ایک درخت پر برگ و سایہ دار و لبضم واو نارون یعنے انار کا درخت - حکیم ارزقی - ناروان کرد ارقدست آن ملب چون ناروان + ناروان بار دو شکم در فراق ناروان - مولانا جامی - آنار آن تاج تارک نارون را + کہ می بخشد لوی نارکین را -

نازنین - صاحب ناز خوب و پسندیدہ - میر خسرو - ناگوشی چو برگ یاسمین تر + بر و اندام از گل نازنین تر + شیخ العارفین علیہ الرحمہ - تو قدبناز برافراز تا زپاے در فتم + چو زلف سجدہ کنان پاے نازنین تو بوسم -

ناودان - پرنالہ جسکے راستے کسی چھت کا پانی گرتا ہو -

ناربن - انار کا درخت -

ناخن - مشہور لفظ ہی عربی مین اسکو ظفرہ اور ہندی مین نکہ کہتے ہین - عبد العزیز عزت - شعار کار کشایان ملال خاطر نیست + گرہ چگونہ کند جادو ابروے ناخن -

نان - عربی مین خبز ہندی مین روٹی - حکیم انور لاہوری - ہمچو مہروماہ ہر شام و سحر ابر در دونان مرو بہر دونان -

ناژو - چنار یا سرو کا درخت -

ناجو - صنوبر کا درخت -

ناخن لیو - ایک قسم کا سیپ ہوتا ہی جو ناخن کی صورت ہوتا ہی [illegible]

خوشبودار عطریات اور مجونات مین ڈالا جاتا ہی جس عورت کا حیض بند ہو اسکا دھوان عورت کے اندام نہانی مین پہونچائین تو فوراً جاری ہوجاتا۔

نارو۔ ایک پرندہ خوش آواز بلبل کیطرح ہوتا ہی جسکو جل ککھی کہتے ہین۔

نالو۔ وہ گیت جو عورتین بچون کے سلانے کیوقت گاتی ہین۔

ناو۔ پانی کی نہر اور ہر چیز جو اندر سے پولی ہو اور پیٹ خالی اور رخنہ و سوراخ و کشتی و جہاز کوچک اور گھر کا پرنالہ۔

نازو۔ گربہ یعنے بلی جو مشہور جانور ہی۔ شیخ ارزی۔ چون قسمت ارزاق کند شیر فلک را + باورچی خوان تو زند لقمہ کہ نازو۔

ناخنہ۔ آنکھ کی بیماری کا نام ہی جس سے زائد گوشت سفیدی پر ظاہر ہو جاتا ہی۔

نایزہ۔ لولہ آفتابہ یعنے لوٹے کی ٹوٹی۔

نازلہ۔ سختی و آفت و حادثہ۔

نائبہ۔ حادثہ و واقعہ و تپ گرم۔

نالہ۔ بلند آواز جو سوز دل سے نکلے۔ صائب۔ ہر خسے قیمت ندانند نالۂ شبگیر را + مردے باید کہ داند قدر این شبدیز را۔

نائحہ۔ گریہ و نالہ و مصیبت۔

ناصیہ۔ پیشانی کے بال اور مطلق پیشانی۔ عرفی۔ پاسے کوبان بحرم رفتم وعیبم کردند + بر در دیر مغان ناصیہ کوبان رفتم۔

نانخواہ۔ ایک تخم کا نام ہی جسکو ہندی مین اجوائن کہتے ہین۔

ناظورہ۔ محبوبہ و معشوقہ منظور نظر۔

ناودہ۔ بفتح واو لکڑی کا پرنالہ جس سے پانی کسی گھر کا گرتا ہو۔

نافلہ۔ وہ عبادت جو سوا سے فرض و واجب و سنت کے ہو۔

نابہ۔ شراب خالص۔

نامیہ۔ وہ قوت جسکے ذریعہ سے حیوانی و نباتی جسم عرض و طول و عمق مین بڑھتے جاتے ہین۔

ناصرہ۔ غیر خالص سونا و چاندی اور کھوٹا روپیہ اور پیسہ و کلام ناموزون۔

ناحیہ۔ کنارہ اور طرف اور نواح۔

ناجیہ۔ صاحب نجات و رہائی۔

نابغہ۔ تخلص ایک شاعر کا ہی جو مداح نعمان بن منذر کا تھا۔

نائرہ۔ آگ کا شعلہ اور دشمنی اور بھاگنے والا۔

نافہ۔ وہ چمڑا جسمین کستوری جمع ہوتی ہی اور ہرن کی ناف سے زمین پر گر پڑتا ہی۔ نظامی۔ سر نافہ در بیت اقصے کشاد + زنافہ زمین سر بااقصے نہاد۔

نامہ۔ خط اور کتابت جو کسیکے نام پر لکھی جاوے۔ نظامی۔ چو چین شد زنامہ سیاہ سرے مرد + من آن نامہ را برکشایم نورد جرات۔ ککھیو نامہ حال لکا دیکھیو نامہ سپید + خط نہین ہیچ ہین لکھنے نالہ سرانو مجھے

ناقہ۔ بفتح مادہ اونٹنی۔ فرید الدین عطار۔ انکہ اعدا را بدریا درکشید + ناقہ را از سنگ خارا برکشید۔

ناشی۔ بشین معجمہ پیدا ہونے والا اور نوجوان۔

ناسی۔ بسین مہملہ بھول جانے والا۔

ناہی۔ نہی کرنے والا منع کرنے والا باز رکھنے والا۔

نائی۔ وہ نے جسکو بجاتے ہین اور گلو و حلقوم اور کوچہ اور عربی مین نخود کرنا اور دور کرنا۔

نامی۔ مشہور و معروف آدمی نامور و نامدار۔

ناجی۔ صاحب نجات عذاب سے رہائی پائے ہوے۔

ناری۔ آگ کی پیدا لیش جن دیو پری۔

ناشپاتی۔ مشہور میوہ ہی۔

نادی۔ ندا کرنے والا آواز دینے والا۔

نافی۔ نفی کرنے والا نیست کرنے والا۔

نون باے موحدہ

نبا۔ خبر و اطلاع۔

نبات۔ گھاس و سبزہ اور درخت جو زمین سے اُگے ہون اور ایک قسم کی شکر یعنی جسکو مصری کہتے ہین لغت خان عالی بے تعلق شوکہ قناوی چو مسیر یزد نبات + قاسے امروز بیساز د کہ فرد الشکند۔ مولف فیض اسبہ این کہ از صحن چمن بلبشکفد گلزار و مید ید نبات۔

نبت۔ پیدا ہونا گھاس و سبزہ کا۔

نبالت۔ بزرگواری و خبرداری و مشہوری۔

نبوت۔ نبی ہونا پیغمبر ہونا راہنما ہونا۔ لغتیہ مولف۔ اے نبی بر تو نبوت ختم گشت + سید ابر تو سیادت شد تمام + خاتم پیغمبرانی یا رسول + بیشبہ لاریب بیشک لاکلام۔

نباہت۔ چمک دمک شان و شوکت۔

نباج۔ وہ دو عورتین جو ایک مرد کے نکاح مین ہون آپسمین نباج ہین نباغ و انباغ بھی انکو کہتے ہین۔

نباح۔ بحاے حطی آواز سگ یعنے کتے کی آواز۔

نبرد۔ جنگ لڑائی فتنہ و فساد۔ سف۔ نشنید در خانہ مثل زنان + نبرد آزمایان و جنگ آوران۔

نبذ۔ بذال معجمہ تھوڑی سی چیز اور بقیہ کسی چیز کا۔

نبیذ - وہ شراب جو خرما اور جو وغیرہ سے بناتے ہین ہندی مین اسکو بوزہ کہتے ہین۔
نبایر - پوتے یعنے بیٹون کے بیٹے۔
نبیرہ - فرزندزادہ یعنے پوتا۔
نپور - کرنا سے خورد یعنے چھوٹی نفیری بجانے کی۔
نبس - دخترزادہ یعنے دھوتا۔
نبراس - چراغدان لالٹین وغیرہ سامان روشنی کا۔
نباش - کفن دزد جو قبرون کو کھود کر مُردون کے کفن چرالیتا ہو کفن کش بھی اسکو کہتے ہین۔
نبارش - وہ چوبی ستون جو چھت کے شکستہ شہتیر کے نیچے بطور استحکام کے قایم کیا جاے۔
نبض - رگ شریان جو متحرک رگ ہوتی ہی اور اطبا اسکی حرکت سے بیمار کا حال دریافت کرتے ہین - آرزو - نبض نگاہ میطپد از جوش آرزو + گر آمد تو مژدہ بچشم رسیدہ است۔
نباض - طبیب معالج چارہ گر۔ ؎ - چارہ گر را در داین بیچارہ کند اضطرار نبض من مضطر کند نباض را۔
نبع - جاری ہونا پانی کا چشمہ سے۔
نبوغ - نکلنا پانی کا زمین سے۔
نبائغ - بہ غین معجمہ وہ عورتین جو ایک خاوند کے نکاح مین ہون۔
نبق - بیری کے درخت کا پھل مفرد اسکا نبقہ ہی۔
نبسک - نبشک - قرضدار اور وام دار۔
نباک - پانی نکلنے کی جگہ۔
نبیل - نبیلہ - بزرگ و دانا و نیکو فرز و خوبصورت۔
نبایل - نیکو کاریان بھلائیان اور بھلے لوگ۔
نبل - بفتح اول و سکون ثانی خبردار ہونا تیر چلانا اپنی طرف کھینچنا۔
نبل - بفتح اول و دوم بزرگ اور خرد۔
نبہ - بفتح اول و را خیر مین ہاے ہوز آگاہ ہونا خبردار ہونا۔
نبہ - بفتح اول و کسر ثانی و ہاے ملفوظ نام غلام پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم جسکو حضرت نے آزاد کر دیا تھا۔
نبیرہ - بروزن صغیرہ پسرزادہ و دخترزادہ۔
نبلہ - بضم اول استنجے کا ڈھیلا۔
نبردہ - دلاور و بہادر آدمی۔
نبیہہ - بروزن فعیل خبردار اور خبردار کرنے والا شخص۔

نبیرہ - پوتا اور دھوتا۔
نبی - پیغمبر جو نبوت کا درجہ رکھتا ہو - سعدی - شفیع مطاع نبی کریم + قسیم جسیم نسیم وسیم
نباتی - شیرین اور نام ایک رنگ کا جو سبز ہوتا ہی - نعمت خوان عالی شد جلوہ گر آن رنگ نباتی شب مہتاب + دارد فرہ این عیش کہ شیرست و شکر ہم

نون با تاے مثناۃ

نتائج - جمع نتیجہ بہت سے نتیجے۔
نتاج - بچہ جننا نتیجہ نکالنا پیدا لیش۔
نتاس - خوش و خرم اور خوشی اور خوشحالی۔
نتف - بال اکھیڑنا۔
نتن - بدبو اور بری ہوا۔
نتین - ہر ایک چیز جو بدبو ہو۔
نتو - بضم اول و دوم بلندی و ارتفاع و عزت و آبرو۔
نتیجہ - باہر نکالا ہوا اور تراشا ہوا۔

نون با ثاے مثلثہ

نثا - خبر و اطلاع۔
نث - پھیلانا ظاہر کرنا۔
نثار - تصدق کرنا گرانا جھڑکنا جھاڑنا - نظامی - ؎ ز گوہر جان نثار کنم + ثنا خوانی چار یارش کنم۔
نثر - پراگندہ کرنا پھیلانا اور وہ سخن جو وزن و قافیہ و ردیف نرکھتا ہو۔
نثرہ - نام دو ستارون کا برج اسد مین جو منازل قمر سے آٹھوین منزل ہی۔

نون با جیم

نجبا - جمع نجیب شریف اور نجیب لوگ۔
نجوا - نجوی - راز اور بھید۔
نجیب - مرد اصیل و شریف اور نیک خو و نیک ذات۔
نجائب - بہت سے اونٹ نجیب جمع نجیب کی جسکے معنی ہین برگزیدہ کے ہین - در رویش والہ ہروی - ؎ نجیبان تو کالبستہ ویلہ ز ادراہ + وز [illegible] افزون وزر [illegible] صدری [illegible] از قفا۔
نجابت - اصالت و بزرگواری - مولف - در شریفان جہان بر نجیبان زمان + شد شرافت - [illegible] نجابت بر علی۔
نجاست - پلید ہونا ناپاک ہونا - مولف - از تعلق ہاے دنیا دور باش + جسم خود را زین [illegible] [illegible]
[illegible] نجاست + [illegible]

نجات - رستگاری ورہائی وخلاصی - مولف - سر بند بر آستان
بندگی + تا شود از بند غم حاصل نجات -
نجاح - بہ حاے حطی رستگاری و فیروزی وحاجت روائی -
نجح - بضم اول وحاے حطی مقصود حاصل ہونا حاجت برآنا -
نجار - بلند زمین پہاڑی علاقہ اور نام ایک ملک کا عرب مین درمیان
حجاز و عراق کے جسکی زمین بہ نسبت یامہ وحجاز کے بلند ہی و آرایش
خانہ و غلبہ کرنا رنج و یکھنا و خوشی و خرمی -
نجاد - تلوار کا پرتلہ جو گردن مین حائل ہوتا ہی -
نجار - درود گر بڑھئی ترکھان لکڑی کا کاریگر - س - اگر چہ ست در
چوب تعجب نیست + چو باشد راست دست صنع نجار -
نجیر - گز مازک یعنے درخت گز کا میوہ جسکو حب الاثل بھی کہتے ہین -
نجس - پلید ہونا اور پلید ہونا اک - قطعہ از مولف - مرد طامع
و حریص ولئیم + در جہان ہر کہ چون مگس باشد + صورت سگ بچشم اہل نظر +
از ہمہ چیز با نجس باشد -
نجف - نام ایک شہر کا جہان حضرت علی علیہ السلام کا روضہ عالیہ ہی
مولف - کار فرماے جہان شاہ نجف + روشن اندر کن فکان ماہ نجف -
نجاق - ایک سلاح یعنے ہتھیار کا نام ہی جسکو فارسی مین نجک کہتے
ہین - سوزنی - از چشم اگر بران چچک تو چکد سر شک + ترکی کن تکشتن
من ہر بکش نجک -
نجل - نسل واولاد وفرزند -
نجوم - بہت سے ستارے جمع نجم -
نجم - ستارہ آسمانی - فرید الدین عطار - صانعی کز طین سلاطین
میکند + نجم را رجم شیاطین میکند -
نجوان - زعفران جو مشہور چیز ہی -
نجدہ - شجاعت و دلیری -
نجاشی - حبش کے بادشاہ کا نام ہی جو ہمعصر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھا -
نجومی - جوتشی و جوتشی یعنے علم نجوم کا عالم - س - خبر جسکو نہین ہی
اپنے گھر کی + فلک کی کیا خبر دیگا نجومی -

نون با ہاے حطی

نحیب - رونے کی آواز -
نحوست - نحس ہونا بدی پر ہونا - س - مجھسے رنجیدہ ہین وہ غیرت
ماہ ہی نحوست مگر ستارے کی -
نحافت - لاغری و نا توانی وکمزوری -

نحلت - عورت کا حق مہر بلا طلب ادا کرنا اور حسنہ قرض اور بخشش
بے منا وضہ اور وہ مذہب جو باطل ہو -
نژند - نژند - اندوہگین وغمناک و افسردہ و پژمردہ و قہر آلودہ -
نحر - اونٹ ذبح کرنا اور سینہ پر مارنا -
نحریر - بروزن دلگیر دانشمند اور زیرک -
نحاریر - بہت سے دانشمند -
نحاس - مس جو مشہور دہات ہی اور ہندی مین اسکو تانبا کہتے ہین
اور دھوان جو بغیر آگ کے شعلہ کے ہو -
نحس - صاحب نحوست -
نحیف - لاغر وکمزور وعاجز و درماندہ - توحید - بزور دست جوانی و قوت
بازو + ہیچ نیچہ ہر بندہ ضعیف و نحیف -
نحول - لاغر ہونا گر از ہو جانا گل جانا -
نحل - بفتح اول وہ مکھی جس سے شہد حاصل ہوتا ہی -
نحل - بکسر اول مذہب وملت وطریق باطل جمع نحلت -
نحو - طرف اور راستہ و مانند اور نام اُس علم کا جس سے اعراب
کلام عرب کے معلوم ہو سکین -
نحلہ - بضم اول بخشش وعطا وصدقہ -
نحلہ - بفتح اول کابین دینا عورت کا -
نحی - بکسر اول مشک پانی کی جو بکری کے چمڑے سے سی جاے -

نون با خاے

نخشب - نام ایک شہر کا ترکستان مین ابن عطا حکیم کا مسکن جس نے
اس شہر کے کنوئین سے ایک چاند شب تاریک مین نکالا اور چاندنی اسکی
چار فرسنگ تک پہونچتی تھی -
نخل تابوت - بوان مردہ کا - شانی تکلو - کشتہ عشقم آن نیست کہ در
شہر کسے + نخل تابوت مرا بیند و شیون نکند -
نخوت - بزرگی و تکبر و ناز و غرور - حافظ - رقیب در گذر و بیش ازین
مکن نخوت + کہ ساکنان در دوست خاکسار انند -
نخست - اول پہلے - سعدی - اگر طالبے کاین زمین طے کنی نخست
اسب باز آمدن پے کنی -
نخ - تار ابریشم اور سوت وغیرہ کا اور صف لشکر و قطار فوج - سعدی -
بجوشید لشکر چو مور و ملخ + کشیدند از کوہ تا کوہ نخ -
نخود - چنون کا غلہ جو مشہور ہی - سیفی - اے صبا گر بگذری بر یار
گندم گون من + گر نخود پرسد بگو از ماش پرسی زینہار -

نخجیر - لوہے کا میل جسکو ریم آہن کہتے ہین۔
نخیر - بکسر تین ناک کی آواز عربی ہین۔
نخیز - بفتح اول بروزن قفیز فارسی ہین وہ زمین جو کھیتی کے لایق ہو
اور اسمین تخم بو کر اور جگہ زراعت کو لیجاتے ہین یعنے پنیری بوتے ہین جب سبز
ہوجاتے ہین تو وہان سے اکھاڑ کر اور پھیلا کر دوبارہ بوتے ہین جیسے کہ دھان
اور تماکو وغیرہ کے پنیری لگائی جاتی ہی اور بعد سرسبز ہونے کے اکھاڑتے
اور پھیلا کر لگاتے ہین۔
نخچیر - شکار کرنا اور شکار کیا گیا اور جانور جو شکار کے لایق ہو۔ نظامی
شکار افگنان و شتہا در نوشت + ہمیکرد نخچیر بر کوہ و دشت۔
نخیز - اخیر مین زا سے بمعنے آدمی فرمایہ و کمینہ۔
نخاس - وہ بازار جسمین غلام بکتے ہون۔ سعدی - منت بندہ خود
و ملک سیر + بدست آدم این را بہ نخاس بر۔
نخاع - حرام مغز جو جانور کی پشت کی ہڈی مین ہوتا ہی۔
نخع - آب بینی ناک کا فضلہ۔
نخل - درخت خرما کھجور کا درخت اور ہر ایک درخت - صبحی و آتش
زعفران کشور ما گرچہ بسیار آورد + نخل صندل در وسر در عہد ما بار آورد۔
نخیل - کھجور کا ایک درخت اور بہت سے درخت کھجور کے - سعدی
چنان آسمان بر زمین شد بخیل + کہ لب تر نکردند زرع و نخیل۔
نخیل - چٹکی بھرنا انسان کے جسم کو دو انگلیون کے ناخن سے۔
نخستین - اول پہلے پہل - سعدی نخستین ابو بکر پیر مرید + عمر
پنجہ بر پیچ دیو مرید۔
نخجوان - نام ایک شہر کا۔
نخلہ - ایک درخت کھجور کا۔
نخالہ - سبوس گندم وغیرہ جو بورا بعد چھاننے کے چھلنی سے نکلتا ہی۔
نہارہ - ناشتا اور نہار علی الصباح جو ہنوز کچھ کھایا نہو۔
نخشہ - حجت و دلیل و برہان۔
نخکلہ - سخت قسم کا جوز یعنے اخروٹ جسکا مغز نہایت محنت سے نکلے۔
نخودی - ایک قسم کے رنگ کا نام ہی جو چنے کے رنگ پر ہوتا ہی۔
نخری - سب سے بڑا بچہ پہلا بچہ۔
نخجوانی - ہر ایک چیز منسوب بشہر نخجوان اور نام ایک نفیس کپڑے کا جو
نخجوان مین بنتا ہی محسن تاثیر - دلم بست تا خیز بند زلفی ہکہ ہر تار و لیش بود نخجوانی

نون با دال مہملہ

ندا - بکسر اول آواز کرنا بلانا - کو حمید - خا لبوس در گوش شاہ و گدا + صد

در بندگی تصحیح ... + ورد عاشقوا لی ہر دل نیاز + ورثنا ... ہر ...
ندما - جمع ندیم کی بہت سے ہمنشین۔
ندب - بفتحتین سبقت لیجانا بازی نرد مین۔
ندب - بفتح اول مردہ پر رونا۔
ندرت - تنہائی و کمی اور عجیب و غریب ہونا۔
ندادت - تری و نمناکی۔
ندامت - نادم ہونا پشیمان ہونا۔ امیر شاہی سبزواری - کشتم ہوس
ندیم عشقت + خود عاقبتم ندامت افتاد۔
ندِّ - بکسر اول و تشدید ثانی مانند و ہمتا و نظیر اور نام ایک بت کا۔
ندیر - منفرد و تنہا و غریب۔
ندیم - امرا اور بادشاہون کا ہمنشین۔
ندم - پشیمانی و ندامت - سعدی - چنان دادہ نقش دل بردم + کہ
ہستی زدو و قش ندیم و ندم۔
ندمان - پشیمان و نادم۔
ندبہ - نوحہ و شیون۔

نون با ذال معجمہ

نذارت - خوف اور ڈر۔
نذیر - ڈرانے والا دھمکانے والا اور لقب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ
وآلہ واصحابہ وسلم - نعتیہ از مولف - محمد بشیر و محمد نذیر و محمد
علیم و محمد خبیر
نذر - بفتح اول جو چیز اپنے اوپر واجب کرلیا جاسے مثل روزہ و صدقہ خدا کے
واسطے اور طعام فاتحہ بزرگون کی روح کے ... اور ... جو بادشاہون
اور امراؤن کی ملاقات کے وقت پیش کیا جاوے۔
نذر - بفتح اول و ضم ثانی جیران اور ڈرتا ہوا خوف کھاتا ہوا۔
نذیرہ - بفتحتین ڈر خوف۔
نذل - بروزن خلل احمق رذل و ... فوقی ... اپنا سے
... کی مذمت مین - ہم رفعت پناہ لیکے کی + جہ ... نیک ... ا

نون با راے مہملہ

نرگس شہلا - وہ نرگس جسکے پھول مین زردی کی جگہ سیاہی ہوتی ہی
سعدی - گل رحسن بار صفت شرمندہ اندر بوستان + در چمن از فرقت
ہر نرگس شہلا خجل۔
نرخ - قیمت قدر مرتبہ درجہ - سعدی - ہر دو عالم قیمت خود گفتہ نرخ
بالا کن کہ ارزانی ہنوز۔

نرد ۔ یہ ایک بازی مقابل شطرنج کے ہے ۔ ملا طغرا ۔ بہار آوران نرد باز
الست + زعود قماری لباطنی بدست ۔
نر ۔ مقابل مادہ کے جیسا کہ عورت کے مقابل مرد ہے اور مذکر کے مقابل
مونث ۔ نظامی ۔ منم شیرزن گر تو ئی شیر مرد + چہ مادہ چہ نر شیر وقت نبرد ۔
نرگس ۔ نرجس ۔ ایک پھول کا نام ہے ۔ نظامی ۔ دمان نرگسین حرف
کان باغ داشت + ملکِ چشم او کحل مازاغ داشت ۔
نرگ ۔ بکاف فارسی پہلوانون کے زور کرنے کا مقام اور وہ حلقہ جو شکار
جو شکار کے گھیرنے کے لیے ہو ۔
نراک ۔ ہمیشہ و دائم ۔
نرسک ۔ نام ایک غلہ کا جسکو عربی مین عدس اور ہندی مین مسور کہتے ہین
نرک ۔ بکاف فارسی نام ایک مہرہ [illegible]
قدرتی لکھے ہوئے ہوتے ہین پلنگ کے پیٹ سے [illegible] اور اسکو پلنگ کی
دم سے نکالتے ہین عربی مین اسکا حجر النمر نام ہے اس مہرہ مین بڑے بڑے
خواص ہوتے ہین اسورہ چشم پر اگر اسکو گھس کے لگائین تو فوراً اچھا ہو جاتا ہے
اگر عورت تھوڑا گھسکر پی لے کبھی حاملہ نہو جس مرد کے پاس یہ مہرہ ہو اسکے
نطفہ سے کسی عورت کو حمل نہین ہوتا اگر یکبری کے دودھ مین اسکو ڈالین
دودھ اسیوقت پھٹ جائے اور جس تنور مین روٹیان چسپان ہوتی
اسکے نزدیک لانے سے سب روٹیان دیوار سے الگ ہوکر گر پڑتی ہین
نروک ۔ [illegible] حرف واو ایک سبزی کا نام ہے جو لعبت بربری کہلاتی
ہے اسکا کھانا بھی مانع حمل ہے ۔
نرجیل ۔ ایک ابریشمی کپڑے کا نام ہے جو حبش مین بنتے ہین ۔
نرم ۔ ملایم مقابل سخت کے ۔ مولف ۔ سخت باہر سخت شو با نرم نرم
سرد شو با سرد و با هر گرم گرم
نرم نرم ۔ آہستہ آہستہ آرام سے ۔ مولف ۔ رسیدم نرم نرم اندر مقام
کنج تنہائی + نہادم پا دران جا لو نسر [illegible] آہستہ آہستہ
نریمان ۔ رستم کے دادا کا نام ہے ۔
نردبان ۔ زینہ لوہڑی سیڑھی عربی مین اسکو سلم و معراج کہتے ہین ۔ خواجہ
آصفی ۔ بام قصر وصال اوست بلند + نردبان خیال ما کوتاہ ۔
نرہ ۔ نر مقابل مادہ و عضو تناسل ۔
نرگسی ۔ یہ ایک قسم کا قلیا پکایا جاتا ہے جسمین گوشت کے اندر انڈے مع بیضہ کے رکھے جاتے ہین
نرسی ۔ نام ایک شاہزادہ کا ہے ۔

نون با زاے معجمہ

نزاکت ۔ یہ لفظ اہل فارس نے نازک کے لفظ سے بطور عربی تراشا ہے ۔

محمد قلی سلیم ۔ صد نزاکت بسکند بر شرمت کو سلیم + جام می از ابدستش چو بین نیخورد
نزہت ۔ بے عیبی و پاکیزگی و نکوئی ۔
نزاہت ۔ بے عیبی و پاکیزگی ۔
نزد ۔ نزدیک پاس قریب ۔ سعدی ۔ پسند آمدش حسن گفتار مرد + بنزد
خودش خواند و اکرام کرد ۔
نژاد ۔ اصل اور نسب سے ۔ ز آبا و اجداد فرخ نژاد + شہنشا
با حشمت و عدل و داد ۔
نژند ۔ بفتح و کسر اول غمناک و سرنگون و پست و خوار و سرگشتہ و حیران
ظہوری ۔ بشہر عشق و جنون ذاتی عالم کہ خورند بقسم گیر بی خاطر نژند آنجا ۔
نزر ۔ بہت تھوڑا اور قلیل ۔
نزار ۔ لاغر اور کمزور ۔
نزغار ۔ بانگ و فریاد و نعرہ ۔
نزع ۔ کسی چیز کو اسکی جگہ سے باہر کھینچنا اور جان کندن کی حالت جو
آخیر وقت انسان پر ہوتی ہے ۔ سعدی ۔ شنیدم کہ در وقت نزع روان
بہرمز چنین گفت نوشیروان + کہ خاطر نگہدار درویش باش + نہ در بند
آسایش خویش باش ۔
نزاع ۔ دشمنی بیر عداوت ۔ صائب ۔ نیستم از سبحہ و زنار جنگ ما دگر
ورنہ [illegible] نزاع از [illegible] سبحہ و زنار بیزارم ۔
نزف ۔ جریان خون جو ایک بیماری ہے اور کھینچنا پانی کا کنوئین سے ۔
نزدیک ۔ پاس قریب ۔ سعدی ۔ نہادش سحر بوسہ بر دست و پا
که نزدیک ما چند روز بیا ۔
نزنگ ۔ وہ جالی جسمین شکار کے جانور پکڑے جاتے ہین ۔
نزل ۔ ضیافت و مہمانی ۔
نزول ۔ اترنا نیچے آنا ۔ شائی تکلو ۔ وجودم را نزول درد و غم کن
لبش تا آن نزول جائے تو باشد ۔
نزم ۔ وہ بخارہ جو سردی کے موسم مین علی الصباح ہوا مین ظاہر ہوتا ہے
اور کچھ نظر نہین آتا ہندی مین اسکو کہیرا اور کوہیل کہتے ہین ۔
نژادہ ۔ اصیل و شریف و نجیب ۔
نزہ ۔ پاک عیب سے تازہ اور خوب ۔
نزولی ۔ بادشاہ اور امرا کے اترنے کا مقام ۔
نزدیکی ۔ نزدیک ہونا پاس ہونا قریب ہونا ۔

نون با سین مہملہ

نساء ۔ عورتین خلاف قیاس اسکا مفرد کوئی پایا نہین جاتا ۔

نسیاً منسیا - بھول چوکا ہوا یاد سے گیا ہوا -
نسیب - بروزن نقیب صاحب نسبت عالی نسب شریف و نجیب -
نسب - اصل و نژاد و شرافت آبائی - بند مخمس در نعت از مولف -
عاصی جو تھے امت کے سب بخشے گئے تیرے سبب + تو مہرباں
ہو جائے جب پھر کیا ہی بخشش ہے عجب + اے صاحب حلم و ادب
اے دافع رنج و تعب + فخر عجم فخر عرب عالی نسب والا حسب + امی
لقب محبوب رب + شق القمر [illegible] -
نسبت - لگاؤ تعلق علاقہ - حافظ - ز شرم آنکہ بروی تو نسبتش کردند
سمن بدست صبا خاک در دہان انداخت - قطعہ از مولف - کجا
دنیا کجا عشق الٰہی + کجا ہر چیز ناپاک و کجا پاک + چہ با ہستی تعلق نیستی را
چہ نسبت خاک را با اوج افلاک -
نسمات - خوشبوئیں اور خوشبودار ہوائیں -
نسوت - عورتیں -
نسمت - روح و جان -
نسیج - ایک قسم کے بافتہ حریری کا نام ہے -
نسائج - بنے ہوئے کپڑے جمع نسیجہ -
نساج - بننے والا جولاہا -
نسج - بافندگی یعنے کپڑا بننا -
نسخ - انیس میں خاص جیجہ زائل کرنا و دور کرنا کسی چیز کا اور نام ایک
خط کا جو شش خطوط اختراع کردہ خواجہ عماد الدین یاقوت معتصمی
سے ہے چونکہ اس خط کے ایجاد ہونے سے اور خطوط منسوخ ہو گئے تھے
اسلیے اسکا نام خط النسخ رکھا گیا -
نُسخ - بضم اول جمع نسخہ بہت سے نسخے اور لکھے ہوئے کاغذ -
نسر - کرگس جو مشہور جانور ہے اور نام ایک بت کا -
نسترن - سیوتی کا پھول جو مشہور ہے -
نسطورس - نام ایک شخص مجتہد عیسوی مذہب کا -
نسر طائر - ایک آسمانی شکل کا نام ہے جو اڑتی ہوئی کرگس کی صورت پر ہے
نسار - خس پوش سایہ بان جو دھوپ کے لیے زمیندار کھیتوں پر بناتے ہیں
نسار - وہ حوض جس میں انگور کا شیرہ نچوڑ کر جمع کرتے ہیں -
نسوار - وہ شخص جسنے صبح سے چاشت تک کچھ نہ کھایا ہو -
نسناس - یہ ایک حیوان نصف آدمی کی شکل پر ہے چنانچہ ایک کان
ایک آنکھ ایک ہاتھ ایک پاؤں رکھتا ہے اور ہاتھ اسکے سینہ پر لگا ہوا ہے
عربی زبان میں کلام کرتا ہے نواحی عدن و عمان میں بہت سے ملتے ہیں

اور ہر ایک [illegible] اسکو [illegible] کرکے [illegible] -
نس - ہوش و شعور و عقل -
نسر واقع - ایک روشن ستارہ کا نام ہے قطب جنوبی کی سمت -
نسف - بفتح اول اکھاڑنا بنیاد کا -
نسف - بفتحتین نام ایک شہر کا -
نسق - روش و دستور و طریق - ملا طغرا - انگشتر اونگین نسق
دیدہ ئیک باغ جہان را نسق -
نستعلیق - ایک بہت ہی خط کا نام ہے جو خط نسخ و تعلیق سے
بنایا گیا [illegible] مشہور ہوا -
نسکیہ - [illegible] -
نستال - [illegible] جو پیٹ میں ہو -
نسل - آل اولاد بال بچے -
نسیم - نرم ہوا خوشبودار ہوا - حافظ - اے نسیم سحر آرامگہ یار کجاست
منزل آن مہ عاشق کش عیار کجاست - طالب آملی - زانگشتم نسیم
فردوس می آید + شنیدم سحر بند گریبان کہ واکردم -
نسیم - گھر کا روشندان جو روشنی کے لیے رکھا جاتا ہے -
نسائم - جمع نسیم بہت سی خوش ہوائیں -
نسیان - فراموش کرنا بھول جانا -
نسرین - سیوتی کا پھول - ظہوری - خدمت نو بہار مجالس ادب +
فخر نسرین رخان فرخاری -
نسوان - بہت سی عورتیں -
نشو - نرم و ہموار -
نسیہ - جو نقد نہ ہو ادھار اور وعدہ اسکی ادا کا بعرصہ بعید کیا جاوے -
نسخہ - لکھا ہوا کاغذ - نظیری نیشاپوری - روئے نکو معالجہ عمر
کوتہ است + این نسخہ از بیاض مسیحا نوشتہ ایم -
نسمہ - وہ جو دیوار کے بنانے میں ایک دوسرے پر لگایا جاتا ہے -
نسفی - منسوب بہ نسف نام شہر کا -
نسودی - وہ لوگ جو زراعت پیشہ ہیں واضح ہو کہ جمشید نے اپنی رعایا
کو چار اقسام میں تقسیم کیا ایک کا نام کاتوری رکھا انکو حکم ملا کہ خدا کی
عبادت کرین اور علم پڑھین لوگون کو سیدھا راستہ خدا کا دکھائین دوسرے
فرقہ کا نام منیاری رکھا انکو فوج کی خدمت پر مامور کیا تیسری کا خطاب
نسودی قرار پایا ان کے متعلق زمینداری ہوئی چوتھا فرقہ خادم
مقرر ہوا جو خدمت کے بغیر کچھ کام نہ کرتے تھے -

نون باشین

نشاء - بفتح اول وسکون ثانی وہمزہ بالا الف جہان عالم پیدا کرنا اور پیدا ہونا
نشاء - فارسی مین مستی اور وہ کیفیت جو شراب پینے سے حاصل ہو -
میرزا بیدل - آخر زگریہ نشہ شوقم بلند شد * شک لفذر حلپید کہ جام شراب داد
نشیب - پستی اور زمین پست - سعدی - زعشن را نماند از نہیب
زبالا انہاد نہ بسر و رنشیب -
نشاب - تیرگر تیر بنانے والا -
نشب - مال ناطق ہو یا صامت -
نشد - کسی گم ہو گئی ہوئی چیز کو ڈھونڈھنا -
نشات - زمین سے نکلنا کسی پودے کا پیدا ہونا اگنا -
نشانج - چٹکی بھرنا دو انگلیون اور ناخنون سے کسیکے جسم کو -
نشید - شعر پڑھنا آواز بلند کرنا -
نشتر - مخفف نیشتر وہ اوزار آہنی جس سے فصد کھولتے ہین -
نشر - بفتح اول خوشبو اور دوسری بار سبز ہونا گھانس کا اور کاٹنا
لکڑی کا آرہ کے ساتھ اور بچھانا وظاہر کرنا -
نشر - بفتحتین پراگندہ ہونا اور پراگندہ شدہ ایک آدمی یا بہت
سے واحد و جمع یکسان -
نشخوار - بروزن دشوار گاے اور اونٹ اور بکری وغیرہ جو اپنے
کھائے ہوئے چارہ کو پھر معدہ سے نکالکر دوبارہ چباتے ہین ہندی مین
اسکو جگالی اور پاگال کہتے ہین - کمال اسمٰعیل - دوسال شد کہ
[illegible]
[illegible] ظاہر ہونا -
[illegible]
[illegible] ڈھونڈھنا عزت چاہنا بلند ہونا -
[illegible] ساتھ -
نشر - [illegible]
نشاط - خوشی و خوشحالی - نظامی - نشاط رفت و جوانی بسر رسید
[illegible] جوانی بسر رسید -
نشط - بفتح اول [illegible] اپنی طرف کھینچنا -
نشاف - [illegible] چھون و دلوانگی و ضبط -
نشف - بفتح اول جذب کرنا کھینچنا -
نشف - بفتحتین ایک قسم کا سیاہ پتھر ہے -
نشف - بکسر اول سر کا سکہ اور لکڑی کا پیالہ -

نشوق - وہ رقیق دوائین جو ناک مین ڈالین -
نشوق - سونگھنا -
نشاک - ژندی زبان مین کھانڈ شکر -
نشک - درخت صنوبر جو مشہور درخت ہے -
نشبل - کسی چیز کو ہاتھ ڈالنا اور دو چیز کو آپس مین جوڑ دینا -
نشبیل - کنڈے آہنی جس سے مچھلی پکڑتے ہین
نشل - دو چیزون کو آپس مین پیوند دینا -
نشیم - مخفف نشیمن آشیانہ مرغ و آرامگاہ و مکان و مسکن -
نشیمن - مقام نشست و آرامگاہ و مرغون کا گھونسلا - میان ناصر علی
شہرت ماست علی شعلہ بر جستہ برق * شرارست کہ در سنگ نشیمن دارد -
نشان - نشانے - نشانہ مشہور الفاظ ہین اور معنی معروف - حافظ
ہیچ ست آن دہان کہ نبینم از و نشان * موے ست آن میان و ندانم کہ این
چہ موست * کمال خجند - من آن نیم کہ بقاصد دہم نشانہ خویش * کہ سازد
زپیے مدعا بہانہ خویش - والہ - چہ پرسی چہ داغ ست این بر دل تو * خود
کردہ آن نشانے تو دانی -
نشاتین - بروزن کتین دونون جہان دنیا و آخرت -
نشو - پیدا ہونا ظہور مین آنا -
نشارہ - برادہ یعنے بورا لکڑی و ہاتھی دانت وغیرہ کا -
نشاستہ - میدہ گیہون کا جو پانی مین بھگو کر نکالا جاتا ہے اور فالودہ
اس سے بنایا جاتا ہے -
نشا - [illegible] جو بچون کے گلے مین باندھتے ہین -
نشتہ - بروزن لپشہ ایک قسم شراب کی -
نشکردہ - آہنی اوزار موچیون کا جس سے چمڑا کاٹتے ہین ہندی مین
اسکو رانبی کہتے ہین -
نشیمنہ - نشست و آرامگاہ - سالک یزدی - سرے بدام تقفس نبست
شاہباز ان زد * زرست شاہ ازل کین بہین نشیمنہ کا -
نشوہ - [illegible] ہوشیاری کے -
نشیمہ - [illegible] کا -

نون با صاد مہملہ

نصاب - [illegible] مال جس پر زکوۃ دینا فرض ہو اقل درجہ اسکا دو سو درم
نقرہ اور سونا بیس مثقال ہے -
نصب - بفتح اول برپا کرنا و دشمن رکھنا اور حرکت فتح یعنے زبر کی -
نصب - بضم اول و دوم وہ بت جو پرستش کے لیے قایم کیا جاے -

نصیب - وہ بات جو قایم و مقرر ہو چکی ہو تبدیلی اسکی ممکن نہو حصہ و بخت و طالع و مقسوم - سعدی - وگر در دہد یک صلاے کرم + عزازیل گوید نصیبے برم -
نصفت - بفتح اول و دوم و سوم عدل و انصاف کرنا -
نصرت - یاری کرنا اور یاری دینا - میر معزی - نصرت الدین چون عمر دین را ہمی نصرت دہد + عز دین در عز دین کوشد ہمی چون مرتضے -
نصیحت - پند و اندرز اور باز رکھنا کسیکو ایسے کام سے جو اسکے لیے ضرر رسان ہو - مولف - ہر کہ گوش حق نیوشش دادہ اند + بر نصیحت باشدش ہر وقت گوش -
نصوح - صاف و خالص و محکم و استوار اور توبۂ نصوح مضبوط توبہ -
نصاح - نصیحت کرنے والا -
نصایح - بہت سی نصیحتیں -
نصح - پند و نصیحت -
نصیح - ناصح نصیحت کرنے والا -
نصر - بفتح اول یاری دینا مدد کرنا -
نصیر - یاری دینے والا اور مددگار اور نام حضرت علی المرتضے کے ایک عاشق وفدائی کا جو حضرت کو خدا کہتا تھا اور حضرت اسکو قتل کرا دیتے اور وہ پھر زندہ ہو جاتا اور علی کو خدا کہنا شروع کر دیتا چند بار قتل ہوا اور پھر زندگی پائی - خواجہ آصفی - زغمزۂ لب آن فتنۂ عجم دیدم + ز شہسوار عرب آنچہ بر نصیر گذشت -
نص - ظاہر کرنا کھولنا اور وہ قرآنی آیات جن سے کسی چیز کی نیکی اور بدی واضح ہو جائے -
نصوص - جمع نص کی ہے -
نصع - بہ عین مہملہ چمڑا جانور کا -
نصف - آدھا جیسا کہ دو کا نصف ایک -
نصیف - چادر نادوختہ ایک عرض کی اور نصف حصہ ہر چیز کا -
نصل - تیر اور نیزہ کا پھل آہنی -
نصال - بہت سے پھل نیزے اور تیر کے -
نصیبہ - نصیب قسمت مقسوم - اسیری لاہجی - چون از ازل نصیبہ ما عشق یار بود + در عشق او مگو کہ مرا اختیار بود -
نصرانی - عیسائی مذہب کا آدمی -
نصیری - یہ ایک فرقہ ہے نصیر کا جو عاشق وفدائی علی المرتضے کرم اللہ وجہہ کا تھا اور حضرت کو خدا کہتا اور اس جرم میں چند بار قتل ہو ہو کر زندہ ہوا -
نصفی - چھوٹا پیالہ شراب کا -

نصارے - عیسائی فرقہ -

نون با ضاد معجمہ

نضوب - جلد بیا رواں ہونا مرنا گم ہونا -
نضارت - نضرت - تازگی و آبداری و رونق و زینت -
نضج - پک جانا میوہ کا درخت پر اور مادہ خام کا جسم میں کسی دوا کے ذریعہ -
نضار - طلائی خالص سونا زرد رنگ -
نضیر - تازہ و آبدار -
نضر - تازگی و آبداری -

الف با طاے

نطاۃ - نام ایک قلعہ کا خیبر کے قلعوں سے -
نطح - سینگ مارنا بھیڑ بکری وغیرہ جانوران شاخدار کا -
نطع - بساط چمڑے کی یعنے چرمی فرش جو بوقت گردن مارنے کسی مجرم کے شاہی فرش کے اوپر بچھا لیتے ہیں اور فرش چرمی جو فقیر اپنے پاس رکھتے ہیں - حیاتی گیلانی - دیری ست کاز محبات سر آمدہ ایم + بر کشتن خویشتن دلیر آمدہ ایم - بر نطع سیاست قضا دست افشان + زود آمدہ ایم گرچہ دیر آمدہ ایم -
نطف - جمع ہے نطفہ کی -
نطاق - وہ کمر بند جو کمر پر باندھا جاتا ہے - جمال الدین سلمان - خجستہ باد ترا تاج و تخت سلطانی + بہ بندگیت سلاطین ملک بستہ نطاق -
نطق - گفتگو اور کلام جو آپسمیں کریں - حافظ - بوصف روے تو حافظ چگونہ نطق زند + کہ چون صفات الٰہی وراے ادراکی -
نطول - کسی دوا میں جوش دیا ہوا پانی بیمار عضو پر بطور علاج کے ڈالنا -
نطو - تنہا دوری اور خاموشی -
نطفہ - آب منی یعنے منی کا پانی - سعدی - زابر افگند قطرۂ سوے یم + ز صلب آورد نطفۂ در شکم -
نطعی - چرمیں تنبان جو کشتی گیر پہلوان پہنتے ہیں - اشرف مشہدی - کہ بہر جلوۂ شب نگش آسمان + گستردہ است نطعی گوہر فشان برف -

نون با ظاے معجمہ

نظام الاولیا - حضرت پیر نظام الدین چشتی دہلوی بداونی جنکا محبوب الٰہی و سلطان المشائخ و نظام الاولیا خطاب ہے یہ بزرگ خواجہ فرید گنج شکر پاک پتنی کے خلیفہ تھے - مصرعہ - محبوب خدا ہے جن ولشبہ حضرت سلطان نظام الدین - منظور گروہ اہل نظر حضرت سلطان نظام الدین -
نظافت - پاکیزگی و خوبی -

نظارت - نظر کرنا دیکھنا گرد آوری کرنا -
نظامت - انتظام کرنا بندوبست کرنا -
نظر - دیکھنا اور بحث کرنا - توحید - ہر کرا باشد بروے دلربا پنہان نظر + آیدش از پردہ جان چہرہ جانان نظر
نظار - نظر کرنے والا دیکھنے والا - اسیری لاہجی - ہر لحظہ کنی جلوہ دیگر پے نظار + زان جلوہ دیکھے مومن و دیگر شدہ ترسا -
نظیر - صاحب نظر و مانند و مثال - توحید - ہست ذات پاک آن رب قدیر + لاشریک و بے مثال و بے نظیر
نظائر - مثالیں مانندیں -
نظیف - حلال و پاک و طاہر
نظم - باہم ملنا پرویا جانا بہت سے موتیوں کا ایک رشتہ میں اور موزون کلام باقافیہ و ردیف - ہندی - ز نظم پارسی ہندی رساندی + بہر خورد و کلان پیر و جوان فیض -
نظام - بندوبست انتظام ملنا ملانا - ۵ - براہ عاقبت ہادی ہمالک و مملکت کو والی + نظام الدین تو در دنیا نظام ملت و دینی - حافظ - بسر جہان بجام بگذار + کین رشتہ از و نظام دارد -
نظارہ - بلاتشدید دیکھنا - حافظ - روا مدار خدایا کہ در حریم وصال + خوبند بادہ حریفان و من نظارہ کنم -
نظارہ - بتشدید ظائے معجمہ دیکھنا - میرخسرو - نظر در یار مشغول است و جان در بار بربستن + تو اے نظارگی دانی کہ من نظارہ دارم -
نظری - ایک قسم علم حکمت کی ہے جسکو حکمت علمی بھی کہتے ہین یعنے تفسیر حقایق موجودات -
نظارگی - نظر کرنے والا دیکھنے والا - نظامی - دران معرکہ از سر بارگی + ہمین بود بر سرد و نظارگی -

نون با عین

نعما - اسم جنس نعمت دولت مال -
نعنع - پودینہ جو ایک مشہور چیز ہے -
نعاب - بچہ زاغ کوے کا بچہ -
نعیب - آواز زاغ کوے کی آواز -
نعمت - مال و دولت و حشمت و فراغت - مؤلف - بندہ محتاج و تو حاجت روا + من گرسنہ صاحب نعمت توئی -
نعت - وہ تعریف جو رسول صلے اللہ علیہ وسلم کی کی جائے - مؤلف - شعر یہ نعت خوانی سنکے سرور + کہینگے سب مسلمان آفرین باد -
نعوت - بہت سی تعریفین رسول صلے اللہ علیہ وسلم کی -
نعومت - نازکی و نرمی -
نعاج - میش مادہ و دنبی -
نعج - سپیدی - خالص - گرانی دل کی -
نعوذ - پناہ مانگتے ہین -
نعاس - نیند مین ہونا - اونگنا -
نعوس - شتر مادہ شیر دار و دودھوالی اونٹنی -
نعاش - غنودگی کی حالت مین ہملے سے بھی یہی معنے رکھتا ہے -
نعش - مردہ کی لاش جسم بیجان - سعدی - سگے را گر کلوخے بر سر آید + ز شادی بر جہد کین استخوان است + اگر نعشے دو کس بر دوش گیرند + لئیم الطبع پندارد کہ خوان ست -
نعناع - پودینہ جو مشہور چیز ہے
نعیق - بروزن رفیق بانگ زاغ کوے کی آواز -
اعلک - ایک قسم کے پیالہ کا نام ہے
نعل - جوتی جو پانوں مین پہنین اور وہ آہنین نعل جو گھوڑے کے سم پر نصب کرین - نظامی - ز نعل سمندان پولاد نعل + زمین را ز جنبش بر افتاد نعل -
نعال - جمع نعل -
نعم - بکسر نون و فتح عین جمع نعمت بہت سی نعمتین -
نعم - بفتحتین بہت اچھا بہت بہتر اور چار پایہ گائے بیل اونٹ وغیرہ
نعائم - منازل قمر سے بیسواں منزل کا نام ہے
نعیم - بہشت و نیکی و خوبی و مال و منال - عرفی - آنکہ از روضہ لطف تو شود فیض پذیر + کے بود حیرت فردوس ز لب ناز نعیم
نعمان - نام ایک عرب کے بادشاہ کا ہے جسکے باپ کا نام منذر تھا اور اسنے شاہ بہرام گور کے لیے ایک کوشک سمنار معمار سے بنوایا تھا و نام حضرت ابو حنیفہ امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا -
نعلین - دو جوتیاں دونوں پانوں کی -
نعجہ - میش یعنے بھیڑی اور دنبی -
نعامہ - شتر مرغ جو مشہور جانور ہے -
نعرہ - بلند آواز - نظامی - بزد نعرہ بر وے کہ اے زاغ پیر + عقاب جوان آمد آرام گیر -
نعلچہ - ایک زیور کا نام ہے جو بصورت ہلال کے مرصع بنایا جاتا ہے اور بچین اسکو ٹیکا کہتے ہین - میرخسرو - ناصیہ طفل را ست نعلچہ گوہرین ہلال

صفت خسروان ہست نغل فرس داشتن۔

نعامی۔ جنوب کی ہوا۔

نعی نعیت۔ موت کی خبر۔

نون با غین

نغوشا۔ گبر و آتش پرست کافر لامذہب۔

نغمات۔ جمع نغمہ خوش آوازین۔

نغز۔ خوش و پسند و پاکیزہ۔ نظامی۔ ز ہر باغ آرم گلے نغز بوے + ز ہر گل گلابے در آرم بجوے۔

نغزک۔ ہر ایک چیز جو عجائب ہو اور نام ہندی میوہ کا جسکو آم اور انبہ کہتے ہیں۔

نغاک۔ ابلہ اور نادان۔

نغوشاک۔ گبر و آتش پرست۔

نغوک۔ کافر لامذہب۔

نغل۔ وہ مکان جسمین چارپایوں کو رات کو باندھا جاے۔

نغم۔ جمع نغمہ بہت سے راگ۔

نغام۔ زشت و ناخوش و تیرہ رنگ و سیاہ فام۔

نغنغہ۔ لطیف آواز و نغمہ و سرود۔

نغمہ۔ خوش آواز راگ کی آواز۔ سعدی۔ آواز خوش از کام و دہان لب شیرین + گر نغمہ کند ور نکند دل بفریبد۔

نغولہ۔ زلف اور پیچیدہ بال یعنے جوڑا۔ نظامی۔ نغولہ سیہ برلالہ ز عنبر + ز گوش آویزہ کردہ لولوے تر۔

نغولی۔ فکر و باریک بینی اور غور۔

نون با فاے

نفرت۔ رمیدگی اور بیزاری طبیعت کی۔ علی خراسانی۔ درین نفرت سراے ہو اسا ار علاوے او عجب نبود اگر نفرت کند غول بیابانی۔

نفحات۔ خوشبوئین جو ہوائین۔

نفخات۔ جمع نفخہ پھونکنے والی چیزین مثلاً لہارون کی کھالین وغیرہ۔

نفت۔ ایک قسم کا تیل ہے جو زمین سے نکلتا ہے۔

نفاثات۔ جادوگر عورتین جو سحر رشتہ کی گانٹھون پہ پھونکتی ہین۔

نفاست۔ خوبی و پسندیدگی و لطافت۔

نفسانیت۔ خودغرضی و خودمطلبی۔

نفطت۔ چیچک آبلہ جو ایک مشہور بیماری ہے۔

نفث۔ پھونکنا اور فضلہ کسی چیز کا منہ سے پھینکنا۔

نفج۔ لکھنے کا کاغذ پہلوی زبان مین اور عربی مین وہ بلندی جو عورت کے گلے کی کرتی مین بسبب بلندی پستان کے معلوم ہو اور وہ شخص جسکے منہ سے بات کرنے کے وقت تھوکین اڑتی ہون۔

نفروج۔ لکڑی کا بیلنا جس سے روٹی چوڑی کرکے پکاتے ہین۔

نفح۔ بہ حاے حطی خوشبو اور خوش ہوا اور سونگھنا خوشبو کا۔

نفائح۔ بہت سی خوشبوئین۔

نفخ۔ ہوا سے بھر جانا پھول جانا اور نکل جانا گوز کا۔ فوقی یزدی۔ سفرہ پیش ہر ناکس میفگن بر زمین خود را + کہ چیدہ نفخ بیجد در شکم از نان بریانش۔

نفوخ۔ وہ خشک دوا جو ناک مین پھونکین۔

نفاد۔ بہ دال مہملہ سوکھ جانا خاتمہ پر آنا۔

نفاذ۔ جاری ہونا نامہ و پیام و فرمان کا اور چل جانا تیر کا۔

نفوذ۔ گذرنا اور جاری ہونا اور موثر ہونا یعنے اثر کرنا۔

نفاذ۔ رواج اور شتہار اور اجراے کسی چیز کا۔

نفر۔ تین سے دس تک آدمی اہل فارس ایک کو بھی نفر کہتے ہیں یعنے نوکر و چاکر۔ ظہوری۔ بہوا یت نفور م از دگران + نسیم من نفر پرستارم۔

نفور۔ بضم اول و دوم نفرت کرنا بھاگنا۔ اسیری لاہجی۔ در جمال نور بخش و اسیری کشتہ است + انچنان حیران کہ از ہر دو جہان دارد نفور۔

نفور۔ بفتح اول و ضم ثانی نفرت کرنے والا۔

نفیر۔ فریاد و فغان نالہ و زاری۔ سعدی۔ نہ من کردم از دست جورت نفیر + کہ خلقے ز خلقت بہ تنگ است گیر۔

نفاس۔ زچہ کو بعد ولادت بچہ کے جتنے دن خون آتا رہے ان دنوں کو ایام نفاس کہتے ہین۔

نفائس۔ جمع نفیسہ اچھی چیزین۔

نفس۔ بفتحتین دم لینا سانس لینا۔ سعدی۔ نفس می نیارم زد از شکر دوست + کہ شکرے ندارم کہ در خورد اوست۔

نفس۔ بفتح اول جان و روح و حقیقت ہر شے و ہستی و خلاصہ ہر چیز اور نفس ناطقہ جو تین قسم پر منقسم ہے نفس امارہ جو انسان کو بدی پر امر کرتا ہے نفس لوامہ یہ نفس انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے نفس مطمئنہ جو خدا کی یاد اور تصور مین اطمینان حاصل کرتا ہے۔

نفوس۔ جمع نفس بہت سے نفس۔

نفیس۔ بہت عمدہ چیز۔

نفض۔ بہ ضاد معجمہ افشاندن یعنے جھاڑنا۔

نفط۔ وہ تیل جو زمین سے نکلتا ہے سیاہ اور سپید دو قسم کا ہوتا ہے۔

نفاع۔ نفع پہونچانے والا۔

نفع - فائدہ سود جو کسی چیز سے حاصل ہو - صائب - باران بے محل
ندید نفع کشت را + در وقت پیر اشک ندامت چہ میکند -
نِفاع - بہ غین معجمہ بڑا پیالہ -
نَفاق - بفتح اول و دوم رواج پانا شہرت پانا کسی جنس و متاع کا خریدار ہونا -
نِفاق - بکسر اول دو روئی یعنے دل سے دشمنی اور بظاہر دوستی - توحید
در جہان با نیک و بد کن اتفاق + تا نمانند در دلت بغض و نفاق + شور تفرقہ
خلق اندر رنج و غم + تا کنند با تو زبانہ ارتفاق -
نفل - وہ عبادت جو سوائے فرض اور واجب اور سنت کے ہو -
نفول - دور دلبعید و عمیق و فہم و غور -
نفرین - بددعا و لعنت - سعدی - نخواہی کہ نفرین کنند از پست
نکو باش تا بد نگوید کست -
نفقہ - اہل و عیال کا خرچ -
نفخہ - ایک بار پھونکنا -
نفحہ - خوشبو -
نفاجہ - مربع ٹکڑا جو قبا کے زیر بغل لگاتے ہیں -
نفطہ - آبلہ اور چیچک -
نفی - دور کرنا نکال دینا اور دور ہونا شہر سے نکال دینا -

نون با قاف

نقا - پاکیزگی و صفائی و درستی - سے - پاک دارد سینہ از گرد و غبار
پاسوا + اہل نقوے متقی مرد نقی اہل نقا -
نقبا - جمع نقیب نقیب لوگ -
نقدا - فی الفور اسی وقت نقد وقت -
نقاب - گھونگھٹ پردہ حجاب - فیضی فیاضی - از چہرہ نقاب گل
کشادہ + آئینہ بدست باغ دادہ -
نقب - سوراخ جو دیوار وغیرہ میں کیا جائے - صائب - عاجزم
در کرد خویش کشودن صائب + ہنگہ نقب از مژہ در سینہ خارا زدہ ام -
نقاب - بتشدید قاف نقب لگانے والا سوراخ کرنے والا -
نقیب - وہ شخص جسکو کسی خاندان کا حسب نسب معلوم ہو یہ لوگ
امراء کی سواریوں کے آگے چلتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ فلاں خاندان کے
نواب اور فلاں قوم کے چشم و چراغ کی یہ سواری ہے -
نقمت - عقوبت و کینہ و عذاب -
نقابت - بکسر اول تعریف و صفت -
نقابت - بفتح اول تعریف کرنا -

نقرات - گانا سرود کرنا ہندی میں اسکو تنگ اور کڑی کہتے ہیں -
نقاوت - پاکیزگی و صفائی -
نقاہت - کمزوری ضعف ناتوانی -
نقیصت - نقصان عیب بدی -
نقد - درہم و دینار و زر مسکوک اور چاندی سونا بے آمیزش نے ادہار کے
مقابل نسیہ کے - طالب آملی - ہر نقد عشوہ کہ لبش ز آستین فشاند +
حسرت بدیدہ دیدہ بدل دل بجان سپرد -
نقاد - صراف روپیہ پرکھنے والا -
نقود - جمع نقد کی بہت سے نقد -
نقار - بکسر اول کینہ و عناد و بغض -
نقیر - اصل و حسب و چابک -
نقارہ - بروزن عطار خاتم بندی کا کام جو عمارت پر کیا جاتا ہے یعنے
پھول بوٹے اور نقوش و تصویریں ہاتھی دانت اور پتھر اور تانبے کی
بنا کر عمارات میں لگاتے ہیں -
نقوماچس - ارسطو حکیم کے باپ کا نام ہے -
نقرس - ایک درد کا نام ہے جو پانوں کی انگلیوں میں ہوتا ہے -
نقش - صورت و نگار اور نام ایک سرود کا جو خراسان کے قوالوں نے
ایجاد کیا ہے اور قوالوں بانہی سرود کا جو اپنی مراد سر آئے اور بمعنی لیاقت
دستار و اریحی و حرز و تعویذ - سے - لباس زرکش شاہی چہ نقشہا دارد
تن برہنہ ما نقش بوریا دارد - توحید - کرد بر نقشیکہ اول کاتب تقدیر
نقش + از و گر کاتب بدان خوبی نشد تحریر نقش + کن نگین روشن با نوار
محبت در جہان + تا کہ باشد ہر نگینے نقش تو عالم گیر نقش -
نقاش - نقش لکھنے والا -
نقوش - بہت سے نقش -
نقص - کم ہونا کم کرنا نقصان و زیان یہ لفظ بفتح اول صحیح ہے -
مجد ہمگر - ہزار نقص کہ بر سر و لیت لائق لسبت + ہزار طعنہ کہ بر جاہ کردہ [illegible]
نقائص - جمع نقیصہ سخن جھگڑے عیب و بد خوئے -
نقض - بہ ضاد معجمہ توڑنا عہد کا - علی خراسانی - وصال یار بما بسکہ
نقض پیمان کرد + بعہد لعل رسا ندیم عہد قربی را -
نقیض - توڑنے والا اور مخالفت ایک دوسرے کی -
نقاط - بکسر اول جمع نقطہ کی -
نقع - گرد و غبار -
نقوع - وہ پانی جسمیں دوائیں ترکیجائیں -

نقیع - پانی سے بھیگا ہوا -
نقیق - مرغیون کی آواز -
نقل - بفتح اول ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا کسی چیز کو لے جانا -
نقل - بضم اول جو شراب نوش شراب کا پیالہ پیکر تغیر ذائقہ کے لیے کوئی
چیز شیرین یا نمکین وغیرہ کھاتے ہین -
نقول - بہت سی نقلین -
نقال - نقل کرنے والا اور وہ فرقہ جسکو ہند مین بھانڈ کہتے ہین -
نقصان - کمی خسارہ زیان -
نقارہ - نوبت و کوس مشہور لفظ ہے موجد اسکا اسکندر رومی ہے - ؎
شاہ در میدان چو نقارہ نواخت + لشکر بدخواہ را آوارہ ساخت -
نقرہ - گلائی ہوئی چاندی -
نقطہ - مشہور لفظ ہے -
نقاوہ - برگزیدہ و خلاصہ -
نقلہ - نقل کرنے والے -
نقبہ - خارش کی بیماری -
نقیعہ - جو ضیافت کسیکو سفر سے آنے پر دیجائے -
نقشہ - مشہور لفظ ہے -
نقارچی - نوبت نواز - سیفی - ؎ نقارچی من بشہر شہرت او ست + گذشت نوبت خوبان عصر نوبت ما -
نقصانی - مزید علیہ نقصان اور یائے زاید - درویش والہ ہروی ؎
ز تنگ عرصگی فکر چیز بہدست تو + نمیرہ سخن از تنگنائے نقصانی -
نقطری - ایک حکما کا فرقہ ہے کہ خدائے آفرینندہ جسم و جان کا جسم ثابت
کرتے ہین فرقہ مجسمہ بھی انکو کہتے ہین -

نون با کاف

نکبا - وہ ہوا جو تین طرف سے چلے اور وہ جہاز کے حق مین نہایت بد ہے -
نکیسا - نام ایک مطرب کا جو خسرو پرویز کا نوکر تھا -
نکب - رنج و سختی نکوب اسکی جمع ہے -
نکبت - خواری و رنج و بدبختی و خرابی - محمد سعید اشرف - قدر گم گشتہ
شود در جہان عزیز نا خن اگر + دراز شود نکبت آورد -
نکات - جمع نکتہ بہت سے نکتے -
نکایت - دشمن کو تکلیف پہونچانا -
نکت - بضم اول و فتح ثانی جمع نکتہ -
نکت - بفتح اول زمین کو کھودنا اور کشتی مین حریف کو سر کے بل گرانا -

نکہت - خوشبو -
نکث - بثائے مثلثہ بکسر اول رسی یا شے کا تارنا اور عہد توڑنا اور مطلق توڑنا -
نکاح - سوراخ کرنا جماع کرنا اور ایجاب و قبول جو عورت و مرد مین وقوع
مین آتا ہے - محمد قلی سلیم - دختر تاک حلال آمدہ در خانہ ما + این نکاحیست
کہ در عالم بالا بستند -
نکد - مرد بدفال و بدشگون -
نگار - نقش و معشوق و بت و تصویر - نظامی - چنان برکشیدی و
بستی نگار + کہ بزران نیارد خرد در شمار -
نکد - ناسپاسی و ناخوشی -
نکس - بضم اول عود کرنا بیماری کا بعد صحت کے پھر بیمار ہو جانا -
نکس - سرنگون کرنا اور سر کے بل گرنا -
نکوہش - طعنہ دینا ملامت کرنا - سعدی - اگر سخت آمد نکوہش زمن +
بانصاف بیخ نکوہش بکن -
نگارش - لکھنا نقش کرنا -
نک - پھٹکری جو مشہور چیز ہے اور بکاف فارسی تگ نالو جسکو کام
بھی کہتے ہین -
نکال - عقوبت و رنج و تکلیف -
نکل - لوہے کا کڑا جو مجرم کے پاؤن مین ڈالتے ہین - نوجہ - گبر و
نکول - سوگند کھانا قسم اٹھانا -
نگون - الٹا خم کھائے ہوئے - ظہیر فاریابی - از دو رگیت جدا لشوم
من باختیار + گرچہ از فاقہ رایت ہم نگون کنند -
نگران - منتظر اور راستہ دیکھتے ہوئے -
نگین - نگینہ مشہور لفظ ہے ؎ دلم محبوراز لعل لب آن نازنین باشد
چو خاتم خانہ ام معمور از خشت نگین باشد -
نکرہ - ناشناسی و ناشناختگی مقابل معرفہ کے جسکے معنے شناختن کے ہین -
نکتہ - سخن پاکیزہ و لپسندیات - صائب - یک نقش بیش نیست نگنجہائے
سادہ را + دارد ہزار نکتہ موزون عقیق تو -
نگاہ - نظر معشوقانہ جو عاشق کے حال پر معشوق کرے یا غنی مفلس کی
نسبت - میرزا طاہر وحید - سخن چگونہ کنم زان جبین نورانی + کہ عکس
موج نگاہ است چین پیشانی -
نکوہ - عیب جو و بدگو و ملامتی -
نگارینہ - معشوق و محبوب -
نگارین نامہ - یہ ایک عجیب و غریب فارسی مثنوی میرزا ابراہیم و داد مشوق

ومعشوق کی داستان ہین راے کنھیا لال ہندی نے لکھی ہی جو اسن زمانہ ہین اپنا نظیر آپ ہی۔
نکوئی۔ نیکی بھلائی خوبی۔ س۔ نکوئی کن نکوئی کن نکوئی + کہ تا یابی تو از حق سر خروئی۔

نون با میم

نما۔ پھولنا پھلنا بڑھنا ظاہر ہونا دیکھا جانا اور دکھلانے والا۔ مولف۔ بہر گمراہان دین یا مصطفے + رہنماے رہنماے رہنما۔ مولف۔ خار و گل را در گلستان جہان + ہست زان ابر کرم نشو و نما۔
نمنیر۔ مبالغہ کرنے والا تھوڑی بات کو بڑھا کر کہنے والا۔
نموذج۔ معرب نمونہ کا۔
نمرود۔ ایک کافر بادشاہ کا نام جسنے اپنی فوج جمع کر کر پیغمبر کو کہلا بھیجا کہ تو اپنے خدا کو کہو کہ اپنا لشکر میرے مقابلہ کے لیئے میدان مین لاوے پیغمبر نے دعا کی اور مچھرون کا لشکر حاضر ہوا وہ مچھر جسکو کاٹتا تھا آدمی فوراً مر جاتا تھا نمرود نے اپنے محل مین دھوان کر دیا تا کہ کوئی مچھر میرے گھر مین نہ آئے خدا کے حکم سے وہ دھوان ہوا لگا لگ گئی اور ایک مچھر نمرود کی ناک مین گھس گیا اور مغز اسکا کھا کر ہلاک کر دیا۔ نظامی۔ چو برداری از ریگذر دو وراہ + خورد پشہ مغز نمرود را۔
نمود۔ اظہار نشان وعلامت ورونق وزیب وزینت۔ توحید۔ عدم نیست وجود ہمہ وجود نیست + غرض بملک وجود این نمود بود نیست۔
نمد۔ بروزن صمد مشہور لفظ ہی اور یہ ایک قسم کا فرش اون سے بنایا جاتا ہی۔
نمر۔ پلنگ جو ایک مشہور درندہ ہی۔
نمیر۔ بروزن نقیر خوشگوار پانی۔
نمار۔ ایما و اشارت۔
نماز۔ مسلمانون کی ہر روزہ پنج وقت عبادت جو فرض ہی۔ سعدی۔ کلید در دوزخ ست آن نماز + کہ بر روے مردم گذاری دراز۔
نمش۔ بفتح اول مکر و حیلہ و دغا بازی اور عربی مین ایک بیماری کا نام ہی اور بہاری گاے کو اکثر یہ بیماری ہو جاتی ہی اور بدن پر نقطے سیاہ و سرخ پڑ جاتے ہین۔
نمالیش۔ دکھلاوٹ ظاہر داری۔
نمص۔ بال چکنے موچنے سے نکالنا۔
نمط۔ روش وطرز وطریق اور نگین بساط شطرنج کا نیز ایک سرود کے پردہ کا نام ہی۔ سعدی۔ گر تو قرآن بدین نمط خوانی + ببری رونق مسلمانی۔
نمالق۔ جمع نمیقہ بہت سے مکتوب۔
نمارق۔ جمع نمرقہ بالش وتکیہ۔

نمناک۔ مزہ حلاوت لذت۔ فردوسی۔ چہ سالت شدا سے خواجہ ہست پاک + ہی وجام وآرام شد بے نمناک۔
نمک۔ مشہور چیز ہی اور لذت اور مزے کے معنے دیتا ہی۔ حافظ۔ آب حیوان یافت حافظ از نمک دان لبت + گرچہ ہرگز کس نیابد آب حیوان از زکات۔
نمتک۔ بتائے مثناۃ ایک جنگلی میوہ ہی عربی مین جسکو زعرور کہتے ہین اگرچہ صورت اسکی سیب کی سی ہوتی ہی مگر سیب سے چھوٹا ہوتا ہی۔
نمشک۔ کچا دودھ اور مسکہ اور قیماق یعنے بالائی دودھ کی۔
نمتک۔ بہر دو نون یہ ایک جوہر ہی مرجان سے ملتا ہوا بعض کے نزدیک ایک قسم کا مرجان ہی۔
نمل۔ مور یعنے چیونٹی اور نام ایک بیماری کا ہی جس سے بدن پر پھنسیان نکل آتی ہین۔
نمد مالی۔ نمد گر۔ نمد بنانے والا۔
نموم۔ نمام غماز چغلی کرنے والا۔
نمام۔ غماز چغلی کرنے والا۔
نمیم۔ غماز چغلی باز۔
نم۔ تری ورطوبت اور تر اور مرطوب۔ شفیع اثر۔ باستین گر نیست نم اشکم از جبین + آب دیدہ شست زرخسارہ ام غبار۔
نمکین۔ نمکینہ۔ نمک دار چیز۔
نمد زین۔ جو گھوڑے کی پشت پر باندھتے ہین۔
نمایان۔ ظاہر اور آنکھون کے سامنے وواضح وآشکارا۔ میرزا صائب۔ بچشم پاک کرد آئینہ تسخیر آن پریرو را + چنین فتح نمایانی ز اسکندر نمی آید۔
نمون۔ دکھلانے والا ظاہر کرنے والا۔ علی خراسانی۔ حال خود خیر ز رولیش نتواند دیدن + نشود آئینہ حسن نمون ہر کس۔
نمو۔ پھولنا بڑھنا زیادہ ہونا۔
نمیقہ۔ ہر ایک کاغذ لکھا ہوا اور نمق کے معنے لکھنے کے ہین۔
نمرقہ۔ بالش یعنے چھوٹا تکیہ۔
نمونہ۔ اصل مین یہ لفظ نمودہ تھا یعنے دکھلایا ہوا۔ میر خسرو۔ آنکہ بست این نمونہ بر گل تو + کرد جانم بدست فتنہ گرو۔
نملہ۔ ایک بیماری کا نام ہی جس سے بدن پر پھنسیان نکل آتی ہین۔
نمشیہ۔ عقیدہ واعتقاد۔
نمامی۔ چغل بازی بدگوئی عیب گوئی۔
نمازی۔ پاک وصاف وشستہ۔ نظامی۔ سنان بازی سر نیزہ بازیگنان + بخون رنگ دشمن نمازی کنان۔

نون با نون

ننگ۔ عیب وعار وشرم وحیا۔ میرزا صائب۔ فرہاد بدنگر دکہ خود را

ہلاک کرو + عشق غیور ننگ شرکت نمی کشد۔
نگین۔ بروزن شت وسادہ وبرہنہ۔

نون با واو

نوا۔ بفتح مطلق آواز اور نام ایک مقام کا دوازدہ مقامات موسیقی سے
و اسباب وسامان ولشکر وسپاہ ولشکر وسپاس و فرزند و نبیرہ وپیشکش و
نذرانہ وسازکاری و قوت و خوراک وگرفتاری وقید۔ نظامی۔ بہر خار
چون گل صلائے زنم + بہر خمہ چون نئے نوائے زنم۔ حافظ۔ مغنی
کجاے صلاے بزن + بما بینوایان نوائے بزن۔
نواسا۔ دختر زادہ دھوتا۔
نواب۔ بفتح اول وتشدید واو نیابت کرنے والا۔
نواب۔ بضم اول وتشدید واو نیابت کرنے والی۔
نوائب۔ جمع نائبہ مصیبتین اور تکلیفین۔
نوب۔ جمع نوبت کی باری ہے
نوات۔ خستہ خرما کھجور کا بیج۔
نوابت۔ زمین سے اُگنے والی چیزین گھانس درخت وغیرہ۔
نوبت۔ کرت ومرتبہ و وقت۔ سعدی۔ سبزہ در سید و خشک شدہ
گل شکفت وریخت + بلبل ضرورت است کہ نوبت دہد بزاغ۔
نوشت۔ لکھت تحریر پیچیدہ ولوردیدہ
نوافج۔ جمع نافج جو معرب نافہ کا ہے
نوج۔ بجیم تازی ایک درخت کا نام ہے جسکو کاج کہتے ہین۔
نوبیچ۔ عشق پیچہ جو مشہور بیل ہے
نوح۔ نام پیغمبر مرسل جنکی قوم پانی کی طوفان مین ہلاک ہوئی سعدی
چہ غم دیوار امت راکہ باشد چون تو پشتیبان + چہ باک از موج بحر آنراکہ
دارد نوح کشتیبان ہے
نوند۔ بفتحتین تیز رفتار گھوڑا۔
نوشاد۔ ایک شہر کا نام ہے
نوید۔ خوش خبر وبشارت۔ حافظ۔ بیا کہ رایت منصور بادشاہ رسید
نوید فتح وبشارت بمہر وماہ رسید۔
نورد۔ پیچ وتاب وبساط وفرش اور وہ لکڑی جسپر جولاہہ بنا ہوا کپڑا لپیٹتے
جاتے ہین وتہ وجنگ وخصومت ولالق و دامن پیراہن وگوشہ وسور
نظامی۔ گرم بشکنی در نہی در نورد + کف خاک خواہی زمین خواہ گرد وسولہ
چو پیران شود نامہ ہا سوے مرد + من این نامہ رابرکشایم نورد۔
نود۔ نوے نود ہا نیان دس کم سو ست۔ گر پیر نود سالہ بمیرد عجبے نیست +

این ماتم سخت ست کہ گویند جوان مرد۔
نور۔ بفتح اول بروزن تور وجو شگوفہ سپید۔
نور۔ بروزن حور روشنی اور چمک۔ نظامی۔ زخورشید روشن
توان جست نور + کہ شد سایہ را سایہ زین کار دور۔
نوبہار۔ ایک آتشکدہ کا نام ہے
نوکر۔ چاکر جو ماہواری تنخواہ پاتا ہو + سعدی۔ اسپ ونوکر توان
وجوندہی + نرود اسپ ونوکرت نرود۔
نوش آذر۔ ایک آتشکدہ کا نام ہے
نوار۔ وہ چوڑا فیتہ جس سے چارپائی و پلنگ وغیرہ بُنتے ہین۔
نوشادر۔ ایک مشہور دوا ہے
نوائر۔ جمع نائرہ بہت سے شعلے آگ کے۔
نوذر۔ نام پسر منوچہر بادشاہ۔
نوشہر۔ یہ ایک قصبہ شروان کے پاس ہے
نوادر۔ جمع نادر بہت سی کمیاب چیزین۔
نوز۔ مخفف ہنوز ابھی اسیوقت۔
نوروز۔ پہلی تاریخ ماہ فوردین جسروز سورج برج حمل مین داخل ہوتا ہے
پہلے آتش پرست بادشاہ جشن کرتے تھے اور اس زمانہ مین مسلمان
قوم شیعہ عید کرتے ہین۔ نظامی۔ بجشن فریدون و نوروز جم کہ
شادی ربود از جہان نام غم۔
نوامیس۔ جمع ناموس۔
نوش۔ نوشین۔ نوشینہ۔ نہایت لذت دار شیرین خوش مزہ
وخوشگوار۔ طالب آملی۔ بخیری ہر چہ کنم نوش وبال ست مرا + نی ازگیر
خون درشتہ ست حلال ست مرا۔ میر مغربی۔ یکروز بے خمار نباد
دو چشم او + گوئے کہ ہر شبے نوشین کشد ہے
نوازش۔ مہربانی حاصل مصدر نواختن اور نوازش کرنے والا
اوحد الدین انوری۔ انیست اقبال کہ باز آمدی اندر اقبال + تا جہانی
زتو افتاد در اقبال ونواز۔
نوط۔ آویختن لٹکنا۔
نوع۔ مشہور لفظ ہے جسکے معنے قسم کے ہین۔
نوخاغ۔ ایک شہر کا نام ہے
نوغ۔ دشت قبچاق کے پاس ایک مقام ہے
نوف۔ وہ آواز جو پہاڑ اور بلند عمارتون سے اپنی آواز کے جواب
مین آتی ہو اور شور وغوغا۔

نوق - ناقہ کی جمع اونٹنیان -

نوک - سر قلم و کارد و خار و خنجر و سنان و نیزہ وغیرہ اشیا جنکا سرا تیز ہوتا ہے -

نَوَل - بفتح نون و سکون واو عطا بخشش تصدق و نثار عربی ہین -

نُول - بضم نون و واو مجہول فارسی ہین مرغ کی چونچ اور آفتابہ کی ٹونٹی -

نواخل - جمع نخل بہت سے درخت کھجور کے -

نوال - عطا و بخشش و عنایت - توحید - میکند تقسیم گنج سیم و زر + حضرت قاسم بہر اہل سوال - تنگدستان را فراخی میدہد + چون کشاید آن سخی دست نوال -

نوم - خواب کی حالت یعنے نیند - سعدی - الانا لغفلت بختیی کہ نوم حرامست بر چشم سالار قوم -

نوان - زمان و جنبان و لرزان و کوز پشت و دوتا و کہنہ و لاغر و آگاہ و ہوشیار -

نون - مخفف کنون اور عربی مین مچھلی و شمشیر اور نام ایک شہر کا - اور دوات اور سیاہی اور ربات اور چاہ زنخدان اور نام ایک حرف کا حروف تہجی سے جسکے عدد پچاس ہین -

نوشیروان - ایک مشہور و عادل بادشاہ کا نام ہی - سعدی - چو نوشیروان عدل کرد اختیار + کنون نام نیک ست ز و یادگار -

نوشین - بروزن رنگین داماد یعنے جسکی نئی شادی ہوئی ہوا و خطاب امرا و وزرائے سلطنت کا - جمال الدین سلمان - جمشید عہد شیخ حسن آفتاب جاہ + دارائے ملک پرور نوئین صف شکن -

نوآئین - ہر چیز مرغوب و عجیب و دلچسپ و پسندیدہ اور حاکم جونئی آئین ایجاد کرے - گذارندہ این نوآئین خیال + ہم از نیکنامان زدی ماہ و سال -

نوشین - شیرین و ذائقہ دار ہے - منفعل در مجمع شیرین لبان + شہد و شکر از لب نوشین تو -

نوشدارو - ایک مرکب معجون کا نام ہی -

نو - ہر ایک چیز نئی مقابل کہنہ کے - حافظ - مطرب خوش نوا بگو تازہ بتازہ نو بنو + بادہ دلگشا بجو تازہ بتازہ نو بنو -

نواخانہ - قید خانہ جسمین ملزم قید کیے جاتے ہین - سعدی - بیوی گرت عقل و تدبیرست + ملکزادہ را در نواخانہ دست -

نوالہ - لقمہ کھانے کا جو انسان کھاتا ہی - محمود - آسان ز خوان وصل تو کس بہرہ نیافت + مشکل توان گرفت بدست این نوالہ را -

نوبادہ - ہر ایک چیز جو تازہ اور نئی ہو - فیاض - تا گلبن نوبادۂ عشقیم و نبا شد + جز نالۂ بلبل گل ما رہ سے سبز ما -

نوچہ - ہر ایک چیز جو نو خاستہ و نو پیدا ہوا -

نوحہ - ماتم اور شیون کی آواز - امیر خسرو - با دل خویش در دو خود گویم + نوحہ بر سوگوار خویش کنم -

نورہ - چونہ جسکے ملنے سے بال بدن سے اتر جاتے ہین - سعید اشرف - عریان تنش از باد و زان میلرزد + خو کردہ چو شاخ ارغوان میلرزد + او بے پروا بنورہ مالی و مرا + دل بہر آن موے میان میلرزد -

نوشابہ - نام ایک عورت کا ہی جو سکندر رومی کے وقت ملک بردع کی فرمان فرما تھی - نظامی - دگر بار نوشابۂ ہوشمند + ز نوشین لب خوش بگشاد بند -

نوشہ - بضم اول خوش اور خوشی اور تیمار و تیمار داری - فردوسی - ہمہ بین خاک خونخوار کس + ترا نوشہ از راستی باد و بس -

نوشہ - بفتح اول نوجوان بادشاہ اور داماد یعنے جسکی نئی شادی ہوئی ہو -

نوبہاری - نام ایک لڑکا کا ہی مو سیقی مین -

نوی - بفتح نون تازہ ہونا نیا ہونا - نظامی - زیادت زنار بخرہا کے نوی + یہودی و نصرانی و پہلوی -

نوی - بضم اول عربی مین قرآن مجید -

نوائے - بفتح اول اور آخر مین الف بصورت یائے تحتانی خستہ یا گٹھلی یعنے کھجور کا بیج - سعدی - عسل دادت از نحل و من از ہوا + رطب دادت از نخل و نخل از نوا -

نوبتی - نقارچی کوس نواز - میر خسرو - مگر بر نوبتی خواب استیلا کرد کہ امشب خاستن را وقت کم کرد -

نوری - ایک جانور کا نام ہی جو قرمزی رنگ چمکدار اسکے پر مین طوطی کی چونچ کی رنگت پر تمام بدن اسکا سرخ ہی طوطی کی طرح باتین بھی سیکھ جاتا ہی اور نیز نام ایک قسم کے زرد آلو کا -

نورانی - روشن اور چمکتا ہوا -

نواصی - جمع ناصیہ پیشانی کے بال -

نواحی - جمع ناحیہ کنارے اور حدود زمین اور ولایت کے -

نواہی - جمع نہی کی یعنے وہ امور جو شرع مین ممنوع ہین -

نون با ہائے ہوز

نہا - عقلین اور دانشین -

نہیب - نہیبو - بروزن فریب ترس و بیم اور خوف اور رعب - میر خسرو - در فشت در خراسان و سپاہت بر در ماچین + رکابت در شمالستان و نہیبت در حجاز آمد -

نہیب - بروزن نقیب ڈاکو و قزاق و غارتگر -

نہب ۔ مال غنیمت لوٹ کا مال۔

نہیب ۔ بفتح اول غنیمت و غارت ۔

نہ گفتہ ۔ [illegible] بہ نشانا لاغری اور سوکھ کی گھسنا لو پسیدہ ہونا

نہمت ۔ بروزن ہمت بانڈھنا قصد اور ارادہ کرنا خواہش مند کرنا و مقصد و مطلب و مراد ۔

نہضت ۔ اٹھنا قصد کرنا کوچ کرنا ۔

نہفت ۔ پنہان یعنے پوشیدہ اور نام ایک شعبہ موسیقی کا ۔

نہایت ۔ انجام اور آخیر ایک چیز کا معلم ۔ ایکہ ہستی و بدایت ابتدا و نہایت ذات پاکت انتہای انتہا ۔

نہج ۔ بالفتح عربی مین راہ راست ۔ [illegible]

ناہ ۔ در لیش واله ہروی ۔ [illegible]

ناہ دل تنگ گل از روے کشاد ۔

نہاد ۔ بنیاد و خلقت و جسم و وجود ۔ سعدی ۔ چو شور طرب در نہاد آمدش ٭ ز دہقان و دشنیم یاد آمدش ۔

نہاوند ۔ نام ایک شہر کا عراق عجم مین اور نام ایک پردہ کا موسیقی مین سعدی ۔ در پردہ عشاق نہاوند مجاز ست ٭ از سیخ و مطرب مگر و ہر سینہ

نہار ۔ عربی مین روز یعنے دن اور فارسی مین وہ شخص جسنے صبح سے کچھ نکھایا ہو ۔ مخلص ۔ گر بجو صبح صاف بود اشتہاے تو ٭ با قرص آفتاب توانی نہار کرد ٭ توحید ۔ شکر حق است بندہ کن لیل و نہار ٭ تا شوی از زاہدِ دنیا رستگار ۔

نہر ۔ مشہور لفظ عربی کی نہر جسکی جمع انہار ہے

نہی منکر ۔ منع کرنا ممنوعات شرعیہ سے ۔ سعدی ۔ گر نہی منکر برآید ز دست ٭ نشاید چو بیدست و پا بان نشست ۔

نہار ۔ سا نگرا جو گلے کی بکریون کو بار و ریپنے حاکر کرے ۔

نہوش ۔ کاٹنا سانپ کے وغیرہ کا دانتون سے ۔

نہوص ۔ کوچ کرنا روان ہونا حرکت کرنا ۔

نہیق ۔ گدھے کی آواز ۔

نہیق ۔ کرفس لما جوایک دوا ہی اور پانی مین پیدا ہوتی ہے

نہنگ ۔ شعرای جو قدمین بہت لمبا ہوتا ہی دریائی ہی ایک جانور پر وہ غالب ہوتا ہی پشت اسکی کشتی کیطرح سخت ہوتی ہی دانت بیشمار رکھتا ہی کھانے کے وقت بالائی جبڑا اسکا حرکت کرتا ہی نیچے رکھین دیتا ہی نیچے نکلنے کے بعد جو بچہ پانی مین آجاے نہنگ ہوتا ہی اور جو خشکی مین رہتا ہی سقنقور کہلاتا ہی

نہال ۔ موزون درخت اور نو رستہ اور وہ شخص جو اپنے ارادہ میں پنہا ہوا اور لبسترا اور توشک اور فرش ۔ طاہر غنی ۔ ز نقش پاے [illegible] قالی را ٭ نہال ساختہ سرو قدرت نہالی را ۔ حافظ ۔ صبح [illegible] افتاد از دلبران وفا مطلب ٭ گناہ باغ چہ باشد چو این نہال نرست ۔

نہشل ۔ زرد گ صحرائی یعنے جنگلی گاجر جسکو شقاقل بھی کہتے ہین

نہل ۔ نام ایک پہلوان تورانی کا ۔

نہم ۔ نوان عدد گنتی مین ۔

نہنبن ۔ بضمتین و سکون نون و فتح موحدہ دیگ کا سرپوش ۔

نہالین ۔ توشک و فرش و بستر ۔

نہان ۔ پوشیدہ [illegible] حافظ ۔ دل زمن بردو [illegible]

[illegible]

نہ ۔ نفی مین اسکے معنے معیت [illegible]

نہ ۔ نو عدد مین ۔

نہ ۔ شہر گانون بستی ۔

نہ سپردہ ۔ ایک قسم کا قمار ہی جسکو ہندی مین نو تیروی کہتے ہین ۔

نہبہ ۔ بضم اول و حرف تیسرا باے موحدہ لوٹنا غارت کرنا ۔

نہسہ ۔ عقل اور دانش اور ہوش ۔

نہی ۔ منع کرنا باز رکھنا ۔

نہاری ۔ وہ کھانا جو صبح صبح کھایا جاے ۔ نظام ۔ [illegible] با شرم میہمانی [illegible] توسہ خواہم نہاری ۔

نون با یاے

نیا ۔ باپ کا باپ یعنے دادا اور مان کا باپ یعنے نانا اور مان کا بھائی یعنے ماموں و قدر و عظمت و رتبہ ۔ سپہر بغدی ۔ نام حسان [illegible] از پدرش زندہ شدہ است ٭ کہ پیرو [illegible] نیا ۔

نیر آ ۔ [illegible] زبان مین آتش یعنے آگ جو ایک مشہور عنصر ہے

نیشا ۔ اجوائن جو مشہور تخم ہی [illegible]

نیاب ۔ [illegible] جنگلی [illegible] ہین

نیات ۔ [illegible]

نیابت ۔ نائب ہونا قائم مقام ہونا کسی کی جگہ پر [illegible]

نیت ۔ [illegible] ارادہ کرنا کسی بات کا [illegible] لکھا [illegible] اپنے عزم [illegible] [illegible] [illegible] خود [illegible] چون [illegible] آیا ۔

نیرنج – معرب نیرنگ ہے یعنی افسون۔

نیاسح – رونا پیٹنا نوحہ کرنا۔

نیر – بفتح اول نہایت روشن اور چمکتا ہوا چاند سورج [illegible]

[illegible] نیر اکبر [illegible]

[illegible] رحمت للعالمین۔

نیر – بکسر اول و یائے معروف وہ لکڑی جو ہل چلانے کے وقت بیلونکے گلے پر باندھتے ہیں۔

نیلوفر – مشہور پھول ہے جسکا ہندی میں نیلا پھول نام تھا اہل فارس کے استعمال سے نیلوفر بنا لیا گیا شعرائے فارس نے نیلوفر کو بھی اپنے اشعار میں باندھا ہے۔ بسر کرد در عشق روئے آفتاب [illegible] نیلوفر [illegible]

[illegible] تسلیم باشی

[illegible] زعفران مردہ [illegible]

نیشکر – گنا جو مشہور چیز ہے۔ قاسم مشہدی – گیاہ تلخ بود چون تو نیشکر کارد * ویران زمین کہ شود خاک این دل غمناک۔

نیشاپور – خراسان میں ایک شہر ہے جسکی نواح میں فیروزہ کی کان ہے۔

نیمروز – سیستان کے ملک کا نام ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اسکو آدھے دن میں آباد کرایا تھا۔

نیاز – حاجت و آرزو۔ ملا طغرا – نیاز تازہ وہ کشا بزلف یار انگشت * کہ ہیچ فسون نتوان بر دست یار انگشت۔

نیشتر – لبلاب جو مشہور بیل ہے اور اسکو عشق پیچہ بھی کہتے ہیں [illegible]

نیایش – زاری و ستایش و تحسین و دعا و عجز و تضرع۔ نظامی – [illegible] خطبہ نیایش گری * سجل با مصطفے پیغمبری۔

نیوش – سن اور سننے والا۔ نظامی – چہ پنداری اسے مرد آسان نیوش * کہ آسان برآید روان کردگوش۔

نیش – مشہور ہے یعنی کہ نیش زنبور و نیش کژدم اور باریک نوک ہر ایک [illegible] صائب – [illegible]

[illegible] صائب [illegible] کردہ۔

نیاق – جمع ناقہ بمعنی اونٹنیان۔

نیشوق – آلوچہ جو مشہور میوہ ہے یہ لغت یونانی ہے۔

نیجو – نیلوفر جو مشہور پھول ہے یونانی لغت ہے۔

نیلگون – [illegible] صائب – بلائے آسمانی تو بہ کردارم [illegible] نرگس نیلوفری نیز رنگ [illegible]

نیکب – بفتح اول [illegible]

نیکی – بکسر اول [illegible]

[illegible]

[illegible] کا نام ہے

نیل – بفتح اول بروزن سیل یافتن یعنی پانا حاصل کرنا۔

نیال – نام ایک بادشاہ اور غلام کا۔

نیل – بکسر اول مشہور چیز ہے جس سے سیاہ کپڑے وغیرہ رنگتے ہیں اور نام ایک رود کا جو مصر میں جاری ہے۔ صائب – یوسف از غیرت آن نرگس نیلوفر رنگ * بدر رفت تا مصر کہ در نیل زند [illegible]

نیپال – ایک پہاڑی ملک کا نام ہے جس میں کستوری [illegible]

نیام – عربی میں جمع نائم کی ہے یعنی سونے والے اور [illegible] نام بہت [illegible]

[illegible]

نیلم – ایک جوہر قیمتی کا نام ہے جو نیلگون ہوتا ہے

نیم – آدھا اور نام ایک درخت کا جو ہندوستان میں بہت ہوتا ہے تلخ ذائقہ۔ سعدی – [illegible]

نیکر یا نیش [illegible]

نیاکان – آبا و اجداد بزرگ لوگ۔

نیرین – دو ستارے چاند سورج۔

نیران – جمع نار آگ کے شعلے۔

نیلان – [illegible] خواب میں۔

نیسان – نام ساتویں مہینے کا رومی مہینوں سے جس مہینے میں آفتاب برج حمل میں ہوتا ہے اور اسی مہینے کی بارش سے سیپ کے پیٹ میں موتی قرار پکڑتا ہے۔

نیستان – جنگل جسمیں بہت سے نی ہوں۔

نیرو – قوت طاقت زور توانائی۔ میر معزی – بہ نیرو کردن لشکر شکست [illegible] شد * بہ یاری و دادن یزدان ولیکن گفتی ہمہ جان شد۔

نیزہ – برچھی مشہور ہتھیار جنگی ہے۔ ابوطالب کلیم – در کف شاہ جہان آن آئی صاحبقران * نیزہ را بین جلوہ گر چون برق لامع از سحاب * نے غلط گفتم کفش خورشید اوج رحمت ست * نیزہ زرین بود خط شعاع آفتاب۔

نیلہ – وہ گھوڑا جو کبود رنگ ہو۔

نیمچہ – کوتاہ لباس صدری و فتوی اور چھوٹی تلوار اور بندوق۔ مجیر الدین بیلقانی – سبزہ گر نیمچہ برآب نہد باکے نیست * [illegible]

[illegible]

نیم - ہر چیز کا آدھی ہے اور طرف اور جانب اور نا تمام اور معلوم کی [illegible]

[illegible] ... چوں نیمان

ہو جانا بشو و ہوش از ان نیم دل مرا -

نیچہ - نے کوچک یعنے بانسری جو بجاتے ہیں -

نیفہ - بند کش ازار کا جسکو ازار بند بھی کہتے ہیں و پوستین و لقیحیت

نی - بکسر اول حرف نفی ہے - نظامی - ہمو داوز پور سر فت [illegible]

نی انجیان چند ما -

نی - بفتح اول بانس اور ہر ایک لکڑی جو [illegible]

[illegible] معنوی [illegible]

وز جدائی ہا شکایت میکند + کز نیستان تا مرا ببریدہ اند [illegible]

مرد و زن نالیدہ اند

دوسری فصل

اردو لغات کے ذکر میں

نون با الف

نار - [illegible] فارسی اردو میں مستعمل ہے اور حرکات جو معشوق [illegible]

ناس - تماکو وغیرہ کی ناس جو لوگ ناک میں چڑھاتے ہیں -

ناک - جسکو فارسی میں بینی اور عربی میں انف کہتے ہیں مشہور عضو ہے

ناگ - [illegible] مشہور جانور ہے -

ناریل - مشہور پھل ہے جسکو نارجیل بھی کہتے ہیں -

ناسپال - انار کا پوست -

نال - وہ ماس جو دایہ لڑکے کی ناف سے کاٹتی ہے -

نانہال - مادری خاندان نانا ماموں و خالو وغیرہ -

[illegible]

[illegible]

[illegible] کہتے ہیں

نانی - ماں کی ماں -

ناڑی - نبض یعنے متحرک رگ -

ناتی - پسر دختر نواسا -

نائی - سر مونڈنے والا بال اتارنے والا -

نون با [illegible]

[illegible]

صورت دکھاتا ہے [illegible] اصلی [illegible] ثابت ہوتا ناہے -

ناٹا - پستہ قد آدمی جسکو عربی میں قصیر کہتے ہیں -

ناندا - وہ سوراخ جو عضو تناسل میں ہوتا ہے فارسی میں جسکو [illegible]

[illegible] عربی میں احلیل کہتے ہیں -

ناکا - وہ راستہ جس سے شہر میں داخل ہوں -

نانا - ماں کا باپ جسکو فارسی میں پدر مادر کہتے ہیں -

ناپ - مقدار ہر ایک چیز کی جو از روے پیمائش کے ہو -

ناج - وہ غلہ جو کھانے میں آتا ہے گیہوں اور چنا وغیرہ -

ناچ - ناچنا رقص کرنا -

نامرد - نالائق مرد خالف ڈرپوک اور جو عورت پر قادر نہو [illegible]

[illegible] باطن خالی از درد + وہی مرد نہیں کہلاتا ہے نامرد -

ناند - [illegible] کا جسمیں رنگریز کپڑے رنگتے ہیں -

نال - جولاہوں کے ایک ہتھیار کا نام ہے جسمیں سوت کی نلی رکھکر کپڑا [illegible]

بنتے ہیں عربی میں اسکو منسج کہتے ہیں -

ناسور - وہ زخم جو ہمیشہ جاری رہے [illegible] رونا کیا اپنی آنکھوں [illegible]

[illegible] ہوگیا + آنکھیں خدا نے دی تھیں یہ ناسور ہوگیا -

دیکھ لیا [illegible] میں [illegible] واہ واہ

نٹ - بازی گر رسن باز -

[illegible] - ایک زیور کا نام ہے جو عورتیں [illegible]

نون با جیم

[illegible] والا [illegible]

[illegible] نکال لیا جائے

[illegible] قصد [illegible]

نون با خاے

[illegible] مشتاق [illegible]

[illegible] عربی میں [illegible] ہیں

نون با دال

ندا - [illegible] غالب ہو -

ندی - رود نہر پانی کی -

نون با راے

[illegible]

[illegible] بہار [illegible]

نزار - [illegible] آمیز شاکسی اور چیز کے -
نتھنا - ناک کی نالی جسمین سے سانس آتی ہی -
نستعلیق - [illegible] عربی مین اسکو [illegible] کہتے ہین -
نر - مرد مقابل مادہ کے جسکو عربی مین فحل کہتے ہین -
نراس - نا امیدی و محرومی -
نرگس - مشہور پھول ہی -
نرکل - ایک گھانس ہی جو پانی مین پیدا ہوتی ہی اور اس سے بوریے بناتے ہین
نرم - مقابل سخت کے -
نرخرا - گلے کی نلکی جس سے آدمی کھانا کھاتا اور سانس لیتا ہی عربی مین اسکو حنجرہ کہتے ہین -

نون با سین

نسوت - ایک دوا ہی [illegible]
نس - رگ جسکو عربی مین عرق کہتے ہین -

نون با شین

نشہ - وہ حالت جو شراب کے پینے اور مسکرات کے کھانے سے ظاہر ہوتی ہی
نشان نشانہ نشانی - مشہور لفظ ہی

نون با قاف

نقارہ - مشہور لفظ ہی -
نقارچی - نقارہ بجانے والا

نون با کاف

نکما - ناکارہ و بیکار آدمی -
نکیلا - ہر ایک چیز جو نوکدار ہو -
نکسیر - ناک سے خون آنا -
نگ - نگینہ جو انگشتری مین نصب کیا جاتا ہی - تالو - کام
نکیل - جو اونٹ کی ناک مین ڈالکر مہار اسکی ساتھ باندھتے ہین -

نون با لام

نلی - وہ باریک نے میانہ خالی جسپر جولاہے سوت لپیٹ کر پود کا سوت تار مین چلاتے ہین -

نون با میم

نمتا - ہوشیار و آگاہ و خبردار مقابل مست کے -
نمک - مشہور چیز ہی -
نمکدان - نمک رکھنے کا برتن -
نمدہ - مشہور چیز ہی -

نمونہ - وہ نقل جو اصل کے مطابق ہو -

نون با نون

ننگا - برہنہ عریان جسکے بدن پر کپڑا نہو - ننگا اور [illegible] کا میں [illegible]
کبھی [illegible] ہو بھر دسا جسکو اس رزاق ہے
نند - شوہر کی بہن -

نون با واؤ

نوبت - نقارہ جو بجایا جاتا ہی -
نواڑ - چوڑا فیتہ جس سے چارپائی وغیرہ بنی جاتی ہی
نوکر - ملازم تنخواہ دار آدمی -

نون با ہاے ہوز

نہ - کلمہ [illegible] حرف کی [illegible]
[illegible] کلمہ نفی ہی -
نہاری - صبح کا کھانا [illegible]
نہالی - فرش جو چارپائی پر بچھایا جاتا ہی سونے کے واسطے -
نہائی - لوہارون اور مسگرون کے ایک اوزار کا نام ہی جس پر وہ لوہا اور مس کوٹتے ہین -
نہرنی - نائیون کا وہ اوزار جس سے ناخن لیتے ہین -
نہتھے - بیدست و پا نکمے اور ناکارے آدمی -

نون با یاے

نیا - مقابل کہنہ ہر چیز جو جدید اور نو اور تازہ ہو -
نیارا - نادر و عجیب اور جدا و علیحدہ -
نیاریا - وہ شخص جو زرگرون کی خاک دھوکر چاندی سونا نکالتے ہین
نیلا تھوتھا - مشہور چیز ہی -
نیولا - مشہور جانور ہی -
نیند - خواب نوم سونے کی حالت - س - دیدۂ اہل بصیرت مین کہان آتی ہی نیند - بخت بیداران عرفان کو کہان بھاتی ہی نیند -
نیل - جس سے کپڑے رنگتے ہین -
نین - آنکھین چشم عین -
نیاو - عدل و انصاف و داد -
نیو - بنیاد دیوار کی -
نیل کنٹھ - مشہور پرندہ ہی -
نین مٹی - وہ عورت جو ہر بات پر رو دیوے -

تیسری فصل

فارسی محاورات و اصطلاحات کے بیان میں

نون با الف

نا پروا - بیباک و بے اندیشہ و بے غرض - میر خسرو - جوان و شوخ و فراموشکار و ناپرواست + زمان زمان ز من خستہ اش کہ یاد دہد -

ناروا - جو چیز درست اور رائج اور روان ہو - فوقی یزدی - زرین سرا چہ عرض نارواست جنس ہنر + چہ در نظر خرو گاؤ چہ دلدل و چہ براق -

ناسزا - ناسزا اور نالائق غرضا یہ احمق - سعدی - ناسزائے را چو بینی بختیار + عاقلان تسلیم کردند اختیار -

نارون بالا - نارون قد - محبوب کی تعریف میں بولا جاتا ہے - میر یحیی - نماز شام کہ رفت آفتاب سوئے نشیب + برمن آمدہ ای کہ نارون بالا + حکیم سوزنی - پری دیدار حورے نارون قد + سرو رفتار ماہی یاسمین خد -

نازک ادا - نازک خیال - نازک دماغ - نازک طینت - نازک طبیعت - نازک کمر - نازک مزاج - نازک مشام - نازک مشرب - نازک میان - نازک دل - نازک بدن - محبوب کی تعریف میں بولے جاتے ہیں - طالب آملی - یک شیوہ حاصلم ز لو نازک ادا نشد + گویا دل شہید مرا خونبہا نبود - میرزا جلال اسیر - چو مضمونیکہ در دل بگذرد نازک خیالی را + سخن بر دم بگردد آن لب خاموش میگردد - ملا طاہر غنی - چنان آن نازنین نازک دماغ ست + کہ او را بوئے گل دود چراغ ست - میرزا صائب - مغیلان پائے نازک طینتان را در حنا دارد + چہ غم دارد زخار آنکس کہ آتش زیر پا دارد - میان ناصر علی - تو اے نازک طبیعت میری دل را نمیدانی + کہ خندین کاروان نا می آید بدبالش - آرزو - سجدہ سہل نازک کمران + باقدم دست و گریبان شدہ است - آگرہ دانشمی نازک مزاجیہائے طبعش را + درون سینہ ہائے آہ را زنجیر میکردم - طالب آملی - بسکہ در بر بی نسیمی گشتہ ام نازک مشام + نکہت گلہائے باغ از خار صحرا آیدم - وکہ - صاف ساغر بادار زانی بنازک مشربان + ستکہ محنت پرورم دردیا ایاغم آرزوست - صائب - نیست چون نازک میانے او لطف آشفتہ ام + رشتۂ شیرازہ از موئے کمر باشد مرا - ولہ - نشست و خاست چو شبنم دریں گلستان کن + ہشو بخاطر نازک دلان گران زنہار -

نام خدا - تحسین اور تبرک کے طور پر یہ کلمہ کہا جاتا ہے اور کبھی تحسین اور آفرین کے مقام پر - نعمت خان عالی - دل لبستہ ام چو سبحۂ زاہد ہزار جا + از بس شدست زلف تو نام خدا بلند -

نان با - روٹی بیچنے والا جسکو طباخ کہتے ہیں - ملا مفید بلخی - آتش روئے نان با لب سر + در تنور دلم نگشدہ شرر +

ناشکیب - بے صبر و بیقرار و مضطرب - واضح - دادم ز دست بار دل ناشکیب را + دیدم مگر بخواب قد دلبر زیب را -

ناصواب - بری بات مقابل صواب کے - سید حسین اشرفی - صواب ست باد و شدن سوئے گل + اگرچند گوید لبے ناصواب -

ناصواب - ناجائز بات و ناروا - سعدی - بدر کرد ی از بارگہ خدا حبش فرو کوفتند بنا و اجبش -

نایاب - جو چیز کم دستیاب ہو - ابو طالب کلیم - جنس نایابی بدین خوبی لبا لم کس ندید + در جہان قحط و فانرخ و فا ارزان گشتہ -

ناخن آفتاب - آفتاب کے شعاعی خط - ہما قانی - چشم سہیل و ناخن آفتاب وزنے + کا آتش و تند او دہ بانی و باد و باوری -

ناف روز و ناف شب - میانہ روز و میانہ شب - میرزا صائب - خیمہ لیلی ست در دشت بیاض مردمک + باز ناف روز روشن شد دل شب آشکار - نظامی - شب از ناف خود عطر سائے کشاد + جہان زیور روشنائی نہاد -

ناخواست - ناخواہ - بے خواست و بے اختیار بے طلب و بے تلاش - مولوی معنوی - آنچنان کز عطسہ و از خامیاز + این دہن گردد بنا خواہ از تو باز + ارادت خان واضح - بیدماغ نازپردازی تغافل پیشہ ہے عذر بالبسیار مباش دل ناخواست را -

ناداشت - مفلسی و محتاجی و نادار ی - ابو المؤید - دل ناداشت پرزخون باشد + ساغر عیش او نگون باشد -

نادرست - مقابل لفظ درست کے - دانشمند خان عالی - بہر شکست کار چیست اندیشہ سبب کہ نادرست اند -

ناگرفت - وہ امر جو ضروری ہو - میر خسرو - قامتش چہ رست دل لشگانم و حالش کنم + ناگرفت آن تیر گر بگر و زور شست افتدم -

نازمست - باضافت قلب مست ناز - طالب آملی - بندۂ آن ناز مستانم کہ از یاقوت شان + خندۂ نازک بیرا و نکتہ موزون میچکد -

نازل شدن بہا و نرخ و قیمت - کم ہو جانا بہا اور قیمت کا اصل قیمت سے - مخلص کاشی - میشود از غفلت افزون رتبۂ اہل لباس + قیمت مخمل شود نازل چو خوابش کمترست -

نازفراخ - نازک مزاج - محبوب کی تعریف میں بولا جاتا ہے - فغانی

بسیار مکش این نفس گرم فغانی + شاید که تحمل نکند ناز فراق ست۔

نان کلاغ۔ ایک دوائی گھانس کا نام ہے جسکے تخم کو روٹی پر لگاتے ہیں گو اسکو دوست رکھتا ہے اسواسطے اسکا نام نان کلاغ رکھا گیا عربی مین اسکو خبز الغراب اور شجرۃ الکافور کہتے ہیں تیس زمین یا بونہ گاؤ بولتے ہیں۔ مولا ناجامی۔ باغبان گر بزند بانگ بہ باغ + قرص انجیر شود نان کلاغ۔

نالہ سنج۔ وہ شخص جو ہر وقت روتا رہے۔

نالہ سرد۔ آہ سرد عاشق کی۔ مرزا طاہر وحید۔ بس بود باعث گمنامی نالہ سرد + نگذارد کہ بگوشے تو خبر گرم شود۔

نابرید۔ وہ شخص جسکا ختنہ نہوا ہو یہ لفظ تحقیر و توہین کے مقام پر بولتے ہین۔ محمد جان قدسی۔ کنون قطع بہ حرف آن نابرید + کہ در آتشخد قصہ خواہی شنید۔

نابود۔ نابود مند۔ معدوم و مفلس و نادار و کمزور۔ توحید۔ بود بیشک ولاریب موجود + مجرد و فقیکہ بود بود و نابود۔ ہمایون۔ تو کوتاہ دستی و نابود مند + مزن دست در شاخ سرو بلند۔

ناپسند۔ جو چیز پسند خاطر نہو۔ سعدی۔ اگر صد عیب دارد مرد در رو + رفیقالش یکے از صد نخوانند + وگر یک ناپسند آید ز سلطان + ز اقلیمے باقلیمے رسانند۔

نامراد۔ وہ شخص جسکا مقصود حاصل نہو۔ نظامی۔ وزان خشت زرین شداد عاد + چہ آمد بجز مردن نامراد۔

ناہوشمند۔ بے عقل بیہوش بیخود۔ عبد اللہ ہاتفی۔ وزیران کج بین ناہوشمند + رسانند در شاہ و ملکش گزند۔

ناخن خود میخاید۔ یعنی بخیل و خسیس و لئیم ہے۔

ناخن خورشید۔ سورج کے خطوط و شعاعین۔ محمد اسحاق شوکت۔ ہزار حیف کہ از کار خویش شبنم ما + گرہ بناخن خورشید وا نکردہ گذشت۔

ناخن ندارد کہ پشت خود بخارد۔ نہایت مفلس و تنگدست و پریشان حال ہے۔

نامرد۔ جو چیز کسیکے ساتھ منسوب و متعلق ہو چنانچہ کوئی لشکر کسی مہم پر نامزد کیا جاوے یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ منسوب ہو۔ طالب آملی۔ بجز از جاشنی خندہ ام + نامزد گریۂ زارم کنید۔

نان گر بہ تیر میزند۔ نان میگوید و جان میدہد۔ یعنے نہایت مفلس و نادار ہے۔ سراج الشعراء۔ درین زمانہ کہ جرات نشان افلاس ست + سپاہی است زند ہر کہ نان گر بہ تیر۔ سیفی بخاری۔ تا بہ نقد جان بہت خباز من نان میدہد + عاشق بیچارہ نان میگوید و جان میدہد۔

ناتوان گیر۔ ظالم و زبردست۔ عبد الغنی قبول۔ اگرچہ شیوۂ بہتر ز دستگیری نیست + مگیر دست کسے را کہ ناتوان گیرست۔

نادار۔ مفلس و تنگدست و بیدولت۔ عبد اللہ ہاتفی۔ ز لشکر آن ہراسان سپاہ + چو نادار از دیدن قرضخواہ۔

نادر برابر۔ نالایق و ناشایستہ۔ نعمت خان عالی۔ گل کجا بار وے یار مین برابر میشود + بلبل انجا گفتگو نادر برابر میکند۔

ناشکر۔ جو محسن کا شکر ادا نکرے۔ عرفی۔ ز نافرمانی و ناشکری حق + ہزاران عید و یک قربان ندارد۔

ناکردہ کار۔ جسنے کام نہ کیا ہو۔ ملا طغرا۔ چسان کار مکشا ید از روزگار + بنا کردہ کارے فتادست کار۔

ناگوار۔ جو چیز کھانے کے بعد ہضم نہو نامطبوع و ناپسند۔

ناخن گیر۔ وہ آہنی اوزار جس سے نائی ناخن لیتے ہین۔

ناہنجار۔ بے راہ اور گمراہ۔

نازگر۔ ناز کرنے والا محبوب۔ میر معزی۔ نازگری خوش زبان پاک بری شوخ چشم + عشوہ دہی دلفریب بوالعجبے اوستاد۔

نالہ صنوبر۔ وہ آواز جو ہوا چلنے کے وقت صنوبر کے پتون سے نکلتی ہے۔ صائب۔ این نالہ زاری کہ صنوبر دارد + بہار نسیم صبحی نیست کہ از بار دل ست

نامدار۔ مشہور و معروف آدمی۔ میر معزی۔ واجب کند کہ مرتفع و محتشم بود + ایوان نامور خداوند نامدار۔

نام گستر۔ جو اپنے نام کو مشہور کرے۔ استاد فرخی۔ مبارزی ملکی نام گستری کہ بود + ہمی بنازد ایران و مجلس و میدان۔

نامور۔ صاحب نام و عزت و آبرو۔ نظامی۔ باین نامۂ نامور دیر باز + بماند براو نام اورا دراز۔

نان سوزن دار۔ وہ روٹی جسکے کھانے سے تکلیف ہو گلے سے نہ اترے۔ صائب۔ روینتی تابد ز حرص از نان سوزن دار سگ + دیدہ ہائے نرم را از تیزی دربان چہ باک۔

نان کور۔ نہایت خسیس و کمینہ آدمی۔ شرف شفروہ۔ پیش این ہر دو دست چون بحرین + ابر نان کور مفلس ست و گدا۔

ناچار۔ لاعلاج ولا بد۔

ناگزیر۔ ناچار و لا علاج۔

ناہموار۔ جس زمین مین نشیب و فراز ہو۔

ناموس اکبر۔ لقب جبرئیل علیہ السلام۔

ناسازنے۔ مخالف و ناموافق۔

ناخن روز - آفتاب عالمتاب - خاقانی - برنهد ناخنہ چشم شب ناخن روز + کنند ناخن روز از حنائے صبح خضاب -

ناز و نیاز - حرکات و سکنات جو حسن و عشق کے درمیان ظہور میں آئیں -

ناوک انداز - ناوک زن - تیر چلانے والا - میرزا معز فطرت - نتوان دیدن زخال گوشہ چشمت سویدا را + نگاه ناوک انداز تو از بس دلنشین باشد - میر خسرو - ناوک زنے چو غمزه او در زمانہ نیست + جز جان من خدنگ بلا را نشانہ نیست -

نارس - کچا میوه اور خام شراب جو پینے کھانے کے لائق ہو - قدسی - ہمت لئیم مرا محروم کرد از کار خویش + میوه نارس نصیب دست بینوایان نارساست -

ناسپاس - کافر نعمت جو محسن کے احسان کا شکر ادا نکرے - نظامی - سپاس خدا کن کہ نا سپاس + نگویند نامرد ایزد شناس -

ناہراس - نڈر جسکو کسیکا خوف نہو - بابا فغانی - صد بار تیغ قہر کشیدی و ہمچنان + می آید از پئے تو دل ناہراس من -

ناتراش - ناتراشیده - احمق نادان بیوقوف - نظامی - یکے ناتراشی کہ بر روے رسید + ز زخمے رگ زندگانی برید + ہمان خوردگان ناتراش دگر + چنین چنبر را خاک خار بہ سر - سعدی - یکے ناتراشیده در مجلسے + برنجد دل ہوشمندان بسے -

ناخوش - خوش کے مقابلہ پر - حسن بیگ رفیع - عمر گر خوش گذرد زندگی خضر کم ست + ور بنا خوش گذرد نیم نفس بسیار ست -

نازبالش - نازبالین - ایک قسم کے تکیہ کا نام ہے - صائب - در خاک و خون کشید مرا ترک زاده + مژگان بناز بالش دل تکیہ داده - طغرا آنکی تعریف میں - اگر بناز بالین او انگر ست + وے مسند او ز خاکستر ست -

نان ریشہ فروش - روٹیوں کے ٹکڑے بیچنے والا - سیفی بدیعی - آنکہ چون شاه گل آراستہ اش می بینی + شوخ نان ریشہ فروش ست بصد شیرینی + قند سر در قدمش مانده و از روے نیاز + پیش او مشک و گلاب آمده با مسکینی -

نامشخص - جو ایک وضع اور حالت پر نہو -

ناف ارض - ناف خاک - ناف زمین - ناف عالم - مکہ معظمہ اور کعبہ - جمال الدین سلیمان - ہم از مشک نافہ عبد مناف از ناف ارض + داده از تبریز خلقش بوئے تا چین و خطا ست - ولہ - زرے کا دمی را کند بیمناک + چہ در صلب آتش چہ در ناف خاک - نظامی - سر نافہ در بیت اقصےٰ کشاد + ز ناف زمین سر باقصےٰ نہاد - ولہ - قدم بر سر ناف عالم نہاد + لیسے نافہ کز ناف عالم کشاد -

ناقبول - جو چیز قبول نہو - ملالی - خریداران کہ در بازار ناز ند بلا را ما + ناقبول آزادی سازند -

ناکام - ناچار و ناگزیر و ضروری - حافظ - دست رنج تو ہمان بہ کہ شود صرف بکام + دانی آخر کہ بنا کام چہ خواہد بودن -

نامردم - ناکس و نالائق آدمی - سعدی - چو نامردم آواز مردم شنید + میان خطر جائے بودن ندید -

نا ملایم - نہایت سخت -

ناچخ زن - نیزه یا برچھی مارنے والا - میر خسرو - شب تیره در صحن نگارگون + چو ہندوئے ناچخ زن آمد برون -

ناخن زدن - ناخن مارنا - نورالدین ظہوری - تار از رگ جان بہ تبسم بر قانون درد + میزند خوش ناخنے در سینہ افغان ما -

ناخن انداختن - ناخن رساندن - کسی ساز کو بجانا - نصیرائی بدخشانی - ذره و خورشید گو برقص آید دو ربیت + ناخن مضراب بر تار رباب انداختیم - درویش والہ ہروی - حسن بر تار محبت چون رساند ناخن + نالہ ساز گست چہ از نقره چہ از آہن تا دو -

ناخن بدندان ماندن - حیران اور متعجب رہنا - نزاری قہستانی - بدلیشان از غنیمت داد چندان + کہ خلقی ماند زو ناخن بدندان -

ناخن بریدن - ناخن چیدن - ناخون کاٹنا ناخن لینا - میرزا بیدل - از تیغ مرگ عاشق رنگ بقا نبازد + عمر دوباره گیرد چون ناخن از بریدن -

ناخن گرفتن - ناخن لینا اُتارنا - حاجی گیلانی - ناکس یاد سر جو شود دست زورآور + ناخن چو شد بلند گرفتن سزائے اوست -

ناخن بر یکدیگر زدن - ناخن بہم زدن - دو شخصون کو آپس میں لڑا دینا - صائب - چو مژگان ہر دو عالم را بہم افگند از شوخی ہا + ہمان ناخن زند بر یکدگر چشم فسون سازش - وحشی - تا میان بلبل و قمری شود غوغا بلند + میزند ناخن بہم از باد در گلزار گل -

ناخن بسنگ آمدن - کسی مشکل و مصیبت میں پھنس جانا - صائب - بسنگ ناخن ہر تشنہ لب کہ می آید + دہان آبلہ پا پر آب میگردد -

ناخن بند بودن - کسی چیز کے متعلق ہونا - طاہر غنی - از رشک کند باد صبا بر سر خود خاک + در زلف تو شد بند مگر ناخن شانہ -

ناخن زن - موثر ہونے والا تاثیر کرنے والا - سنجر کاشی - ناخن زن نسیت بوسے گلے بر مشام ما + ہان اے حکیم چیست علاج زکام ما -

ناخن گذاشتن - خوف کھانا ڈرنا مغلوب ہونا۔ صائب - من کیم صائب کہ دست از آستین بیرون کنم + در بیابانی کہ ناخن میگذارد شیر ہا -

ناخنک زدن - چٹکی لینا چٹکی بھرنا۔ شرف الدین شفائی - تنگ شکرت از لبسکہ ناخنک زدہ است + نماندہ است در انگشت نیشکر ناخن

نارستان - محبوب کی تعریف مین لکھا جاتا ہے - نظامی - بنارستان بدست آورد + کہ بر نارستان شکست آورد -

نازآفرین - ناز کی پیدا کرنے والا اور ناز سے پیدا ہوا ہوا - صائب - زان قد ناز آفرین در ہر دلے اندیشہ است + این نہال شوخ را در ہر زمینے ریشہ است -

ناف افتادن - ناف گسیختن - بیجا ہوجانا ناف کے عضلات کا جو لسبب اٹھانے سنگین بار یا زور کرنے کے زیادہ طاقت سے وقوع مین آجاتا ہے - حاجی محمد جان قدسی - زسہم کمان رنگ خورشید ریخت + زبیم سنان ناف گردون گسیخت -

ناف بریدن - ناف زدن - ناف گرفتن - ناف کاٹنا بچہ کا بعد ولادت کے - صائب - ناف مرا بنغمۂ عشرت بریدہ اند + چون نے نمیزنم نفسے بے ترانۂ -

ناف بیابان - ناف دشت - عین جنگل جہان آبادی نہو - صائب - اہل دل او سیت کہ در وسعت خلق افزاید + کعبہ آنست کہ در ناف بیابان باشد - نظامی - طلسمی برانگیزم از ناف دشت + کہ افسانہ سازند زان سرگذشت -

ناف پیچیدن - ناف پیچ - وہ پیچش جو ناف مین پیدا ہوتی ہے - زلالی - زالماس روان طفل اشکم + بہ تیغ کوہ پیچد ناف دریا -

نام زیرو زبر کردن - نام ستردن - نام از عالم تہی کردن - نام بہ تیغ زدن - نام برداشتن - گمنام کرنا محو و ناپدید کرنا - استاد فرخی - بشمشیر از جہان برداشت نام خسروان یکسر + نماند از بیم آن شمشیر ملک آراے گیتی بان - نظامی - بجشن فریدون و نوروز جم + کہ شاہی ستد از جہان نام غم - ولہ - کہ شاہ جہان چون جہان رام کرد + ستم را ز عالم تہی نام کرد -

نام بر چیزی افتادن - کسی بات مین مشہور ہونا - نظامی - چو قسمت خوران راکنی رام خویش + بران قسمت افتادہ دان نام خویش

نام برآوردن - نام برآمدن - مشہور ہونا شہرت پانا - درویش واله ہروی - خالت لسبب روزی ما نام برآورد + در صبح فرورفت و سر از شام برآورد - صائب - چون آفتاب از نظر گرم عمر ماست

صائب برآمدست برآفاق نام ما -

نام برداشتن - نام برکردن - نام روشن کرنا - میرزا بیدل - گران جان را نباشد ہیچ نسبت با سبکروحان + نگین را نشود تا لب تہی گر نام بردارد -

نام بردن - کسیکو یاد کرنا - عرفی - منم آن سحر بیان سحر کنز مدد طبع سلیم + نبرد ناطقہ نام سخنم بے تعظیم -

نام حلقہ کردن - حلقہ بر نام کشیدن - خط کسیکے نام پر کھینچنا اور اسکو دائرہ اعتبار سے نکال دینا - سالک قزوینی - بر دائرہ اش حلقہ کند نام خرد را + زنجیر کہ یک سطر ز انشائے جنون ست -

نام دادن - نام کردن - نام نہادن - نام رکھنا مشہور کرنا - میر معزی - ہر کہ از پاسخ من و از ناز او آگاہ شد + نام من فرہاد کرد و نام او شیرین نہاد - باقر کاشی - من جوہری و سفلہ خریدار و وقت تنگ + باقر درین دیار بگو نام چون کنم -

نام گذاشتن - نام چھوڑ جانا یعنے کوئی یادگار چھوڑنا - سعدی - قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت + نوشیروان نمرد کہ نام نکو گذاشت -

نان از تنور سرد پختہ برآمدن - کسی امر عجیب کا وقوع مین آنا - صائب - نیست ممکن پختہ کس زین خاکدان آمد برون + از تنور سرد ہیہات ست نان آید برون -

نان بدیوار زدن - نان بر دیوار لستن - نان در تنور سرد لستن - بیفائدہ کام کرنا - صائب - میردم صائب ازین عالم افسردہ برون + نان خود چند چو خورشید بدیوار زنم - ولہ - شد ہیوند تن افسردہ دل یکسان بخاک + واے برخامی کہ نان خویش بر دیوار لست شفیع اثر - با دل افسردہ لاف دا غداری میزنی + ہیچکس ہرگز نہ بند در تنور سرد نان -

نان زدن - نان شکستن - روٹی کھانا کھانا تناول کرنا - ؎ - نان خود با ترہ و دوغ زنی + بہ کہ بر خوان شہ آروغ زنی - مفید بلخی - کے تواند دیگرے را بہرہ مند از خویش کرد + آنکہ او نشکستہ بر خوان پدر نان درست -

نان در آب زدن - روٹی پانی سے بھگو کر کھانا - محمد قلی سلیم - خاک باد ابر سرش نام قناعت گر برد + چون صدف ہر کس کہ نان خشک را در آب زد -

نان خوردن و نمکدان شکستن - نمک حرام ہونا کفران نعمت کرنا - جمال الدین سلمان - زود بگیر و نمک دیدہ آنکس کہ او + نان و نمک خورد و رفت نان نمکدان شکست -

نان در خون افتادن - نان بخون تر شدن محروم و بے نصیب

ہونا۔ صائب۔ گرد کلفت از دل فرہاد جوے شیر شست + درمیان
عشقبازان نان او در خون فتاد۔ و لہ۔ از صفائے دل بناشد حاصلے
درویش را + نان بجون ترمیشود صبح صداقت کیش را۔
نان در روغن افتادن۔ مقصود حاصل ہونا مطلب برآنا۔ شفائی
ہنوز شد ہیچ جز خون دل من + عمت را خوش فتادہ نان بروغن۔
نان لاکو۔ ایک قسم کی روٹی کا نام ہی جو گیلان مین پکاتے ہین۔
محمد قلی سلیم۔ نعمت ہند فراوان بود اما نزود + یاد گیلان زدل و حسرت نان لاکو
نالو۔ ایک گیت کا نام ہی جو عورتین بچہ کے سلانے کیوقت گاتی ہین۔
حکیم آذری۔ تا خوب رود خصم تو بہ بستر جا و ید + در مہد سقر ... نالو۔
نافہ بو۔ وہ شخص جسکے منہہ سے بد بو آتی ہو کیونکہ نافہ کے ... بدبو
ہوتی ہی اور پوست متعفن اسی لحاظ سے سخن چین کو نافہ بو کہتے ہین۔
نظامی۔ جہان جوے چون دیدکان یافہ گو + زیافہ کند خویش را نافہ بو۔
نافہ مو۔ وہ ضعیف العمر جسکے بال نافہ کے بالون کیطرح سپید ہون۔
طاہر وحید۔ عطار النش عبیر بو بند + ہر چند کہ پیر نافہ مو بند۔
نادیدہ۔ ندیدہ خسیس و لئیم و بخیل۔ نادم گیلانی۔ گاہ میخندم
ز عشرت گاہ مینالم ز خوف + در وصال دوست ہمچون مردم نادیدہ ام۔
مسیح کاشی۔ چشم من سیر ز انگشت مسیح + من گدائے ندیدہ را ماتم۔
ناسگالیدہ۔ بے سوچی سمجھی جو بات ہو۔ سے۔ گر نہ ایمن از سپہر کہن
ناسگالیدہ ہیچ کار مکن۔
ناگاہ۔ ناگہان۔ ناگہانی۔ ناگاہان۔ یکایک بغتۃً اچانک سیری
لاہجی۔ جام تحیش کہ ناگاہ میدہد + میدان یقین کہ بر دل آگاہ میدہد
جمال الدین سلمان۔ قلت مال و منال و کثرت اہل و عیال + قرضدار و
بینوا کردند ناگاہان مرا۔ و لہ۔ ہمہ روز زین پیش دلشاد بودی + چہ بود
کہ غمگین شدے ناگہانی۔
نارباغ سینہ۔ پستان عورت کے۔ صائب۔ در نارباغ سینہ
حلاوت نماندہ است + امروز دست زوست کہ سیب ذقن گرفت۔
ناف ہفتہ۔ روز سہ شنبہ یعنے منگل کا دن۔ انوری۔ روزی خوردن
و شادی و نشاط و طرب ست + ناف ہفتہ ہست اگر غرہ ماہ رجب ست۔
نامبردہ۔ جسکا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ فردوسی۔ بر لشکر نامبردہ بجنگ +
ہزاران جہان دیدہ و تیز چنگ۔
نان راہ۔ زاد راہ راستہ کا خرچ۔ محمد قلی سلیم گھوڑے کی تعریف
مین۔ وید بخصم تو تا نان راہ ملک عدم + بکاسہ سم خود میکند ز نعل خمیر
ناوردگاہ۔ جنگ اور لڑائی کا مقام۔ سے۔ روان کردہ شد فوج شیران
جنگ + بناوردگاہ دلیران جنگ۔
نازل منزل۔ قائم مقام۔
ناتلنگی۔ ظلم و ستمگاری و مفسدی۔ حسن بیگ طہرانی۔ نیست
یک ذرہ رحم در دل تو + میکشی ناتلنگ می آئی۔
ناتوانائی۔ کمزوری اور عاجزی۔ درویش والہ ہروی۔ بجز ما چہ بینی
گرافتد جمیعت را + تماشاے توانائی کنی از ناتوانائی۔
ناداشتی۔ بے حیائی و بیمروتی۔ میر شرف قزوینی۔ فلک راست
آئین ناداشتی + جہان زود خشمی ست بر آشتی۔
نادانی۔ حماقت و بیوقوفی۔ سے۔ چہ بندی دل درین دنیا بہ بیہوشی
نادانی و چون ناگہ مرگ ... خوری آندم پشیمانی۔
نادیدگی۔ مفلسی و ناداری و تنگدستی حماقت و بیوقوفی۔ مخلص کاشی۔
خواند از نادیدگی خلق جہان را تنگ چشم + کہنہ پوشی گر بقدر سی قبا تو کہند
نارائے۔ احمق۔ بیوقوف۔
ناسازی۔ مخالفت و ناموافقت۔
ناسفتہ گوہر مژگانی۔ آنسو۔ طالب آملی۔ دو دیدم پیش و گفتم
خیر مقدم آنکہ افشاندم + بپالیش مشتی از ناسفتہ گوہرہائے مژگانی۔
نامرادی۔ محرومی و کم نصیبی۔ آصفی۔ ہمہ شب آصفی و ہیہات دعا
بر آسمان وارد + ز روے نامرادی ماندہ سر در پاے دیوارت۔
ناچخ دہ منی۔ ناچخ سہ منی۔ اقسام پر زور کمان جو مشکل سے
کھینچی جاتی ہین۔ میر خسرو۔ ز پولاد چین ناچخ دہ منی + بگردان
بر از بہر گردن زنی۔ میر معزی۔ بروز نخ سہ منی جان فزاے و مجلس
بناچخ سہ منی جان رباے در میدان۔
نارنج نوروزی۔ وہ نارنج جو نوروز کے دن بادشاہون کے حضور
مین بطور نذر گذرانتے ہین۔ نظامی۔ زنارم کہ نارنج نوروزی ہست
کرانجت گوئے کرا روزی است۔
نان زنجبیلی۔ ایک قسم کی روٹی کا نام ہی جسمین زنجبیل ڈالتے ہین۔
طاہر وحید طباخ کی تعریف مین۔ عجب ہست کو نان آنماہ رو + شود
زنجبیلی ز تندی خو۔
نان مسی۔ یہ ایک قسم کی روٹی ہند مین پکائی جاتی ہی چنے اور
ماش اور گیہون کا آٹا ملا کر اور نمک مرچ ڈالکر پکاتے ہین۔
عبد الغنی قبول۔ ز قحط مفلسان در کورہ ہند + بدلان
مسی ہم کیمیا شد۔
نامتناہی۔ بے پایان و بیشمار۔

نون با باے

نبض خورشید - خطوط شعاعی آفتاب کے۔ ملا منیر۔ ز روے او گر روشن باد جاوید + رگ جان سخن شد نبض خورشید۔

نبض چیزی بچنگ افتادن - بدست آوردن بدست آمدن - کسی چیز کی حقیقت پر واقف ہونا ماہیت سمجھنا۔ صائب۔ برہنہ از رو آن تیغ بارہا رفتیم + کہ نبض فکر مرا چون قلم بچنگ افتاد - ولہ مسکینم سیر گل از چاک گریبان قفس + نبض گلشن را بدست آوردہ ام از خار و خس - ولہ گرم گرد راہرو چون نبض رہ آید بدست + نیشتر خون را سبک جولان کند در زیر پوست۔

نبردگاہ - جنگ کا میدان مصاف گاہ - انوری - از کنار نبردگاہ افق + چون بدست غروب داد زمام۔

نبرد آزماے - جنگ آزما بہادر پہلوان - نظامی - نبرد آزماے جہاندیدہ گفت + کہ پیروزی آن پہلوان راست جفت۔

نون با تاے مثناۃ

نتوان - یعنے نتوان کرد نہین کرسکتے - عبد اللہ ہاتفی - برآراست سالار مصری سپاہ + سپاہی کہ نتوان بسویش نگاہ۔

نون با ثاے مثلثہ

نثار گر - نثار کرنے والا تصدق کرنے والا - حسین ثنائی - باز تیغ زبان سخن گہر ست + سخنم بر سخن نثار گر ست -

نون با خاے معجمہ

نخل عزا - نخل ماتم - نخل محرم - ماتم کا سامان اور تابوت جو بنایا جاتا ہے - شفیع اثر - صبح ہر روز از صف مغرب برافروزد لوا + تا فلک بندد بہ برگ خرمی نخل عزا - صائب - برگ عیش حسن از دامان پاک عاشق ست + نخل ماتم میشود شمعی کہ بے پروانہ شد - محمد سعید اشرف - بچنگ جلوہ او نخل باغ کے آید + اگرچہ نخل محرم شود سراپا تیغ -

نخل تابوت - محرم کا تعزیہ وغیرہ جو کسی ماتم کے موقع پر بناتے ہین - ثنائی تکلو - کشتہ عشقم و آن نیست کہ در شہر کسے + نخل تابوت مرا بیند و شیون نکند -

نخلبند - باغبان اور وہ شخص جو درختون کی صورت موم سے بناتا ہے - صائب - خزان ز سردی آہم چو بید میلرزد + اگرچہ در نفسے نخل صد چمن بندد -

نخل پیوند - وہ درخت جو دوسرے درخت کے ساتھ پیوند کیا جائے - سلطان علی بیگ - دو دل از عشق چون باہم شود بند یکے + گردد دو دلی چون نخل پیوند -

نخل دار - سولی چڑھانے کی لکڑی یعنے صلیب - صائب - سرفرازان جہان در پیش ما سر می نہند + تا چو نخل دار از خود برگ و بار افشاندہ ایم

نخود بریز - نخود پز جیسے بھون کر بیچنے والا - طاہر وحید - نخود پز آن روے بیچون بہشت + دل خستہ ام را بآتش برشت -

نخل شمع - نخل موم - مشہور ہین - صائب - رفتہ پایم بگل از دیدہ تر چشم تر خویش + نخل شمعم کہ بود ریشۂ من در سر خویش - ابو طالب کلیم - روے گرمی چو نہ بینیم بکس وانشویم + نخل مومیم بجز شعلہ کہ چینید برما -

نخ براے کسے تافتن - کسی کے واسطے سوت کا تار ریسمان بانٹنا - نور الدین ظہوری - نخ دودی بے پروانہ شمع نرم میتابد + کہ چون در آتش افتد ساختن بر سوختن بندد -

نخاس خانہ - وہ بازار جسمین جاندارون کی تجارت ہوتی ہو -

نخچیر گاہ - شکار گاہ -

نخوت کدہ - غرور و تکبر کا مقام - درویش والہ ہروی - این بزرگان کہ دماغ ہمہ نخوت کدہ است + ز خصے نیست کہ از جملہ بہم خبرے -

نخالہ گوی - ہرزہ و بیہنی گوی - ظہوری - بودی نخالہ گوے دم از مدح شہ زدی + خود را دقیقہ سنج سخن میکنی -

نخل پیش عماری - عماری کا پردہ - محمد جان قدسی - ز رقعہاے عزیزان شوم مرقع پوش + چو نخل پیش عماری بکوچہ و بازار -

نون با راے مہملہ

نرگدا - موٹا تازہ فقیر مہیب شکل و قوی ہیکل - میر الٰہی - سیاہ شہر زبان روکنیم کز ہمہ روے + خوش اندمادہ گدایان ز نرگداے جنگ -

نرم دست - ایک قسم کے کپڑے کا نام ہے جو نہایت ملائم ہوتا ہے -

نرم بیز - وہ چھلنی جسکے سوراخ تنگ ہون -

نرگسین حرف - اس حرف کے معنی ظرف کے ہین اور ترکیب یا اور نون کی نرگس کے ساتھ نسبت کے واسطے ہے - نظامی - در آن نرگسین حرف کان باغ داشت + مگر چشم او کحل ما زاغ داشت -

نرود میخ آہنی در سنگ - مثل ہے یعنے سخت دل کے دل مین نصیحت اثر نہین کرتی - سعدی - با سیہ دل چہ سود گفتن وعظ + نرود میخ آہنی در سنگ -

نرم چشم - بیرو و بیحیا و بے لحاظ - ظہوری - درگذرم ز شرم عنان + نرم چشمان چہ سخت رو یانند -

نرم لگام - فرمانبردار گھوڑا - اوحد الدین انوری - باد برروے جنیبت کش فرمانت روان + فلک تیز عنان تابد نرم لگام -

نرد بانی افگندن۔ نرد بانی در راہ نہادن۔ رستے چلتے ہوے
ایسی باتیں کرنا تاکہ راستہ اس شغل میں کٹ جاے۔ طالب
آملی۔ مکن عمر اد رخموشی تباہ + زگفتار بنہ نردبانی بیرا ہ۔ محمد قلی سلیم
بگوشم کش چو گوہر داستانی + چو موج افگن برین رہ نردبانی۔
نرم خو۔ پسندیدہ خو نیک مزاج۔ میر حسن دہلوی۔ انصاف میدہم
کہ چو روے تو روے نیست + گل در مزاج لطف چو تو نرم خوے نیست۔
نرم رو۔ آہستہ رو مقابل گرم رو نرم چلنے والا۔ میرزا صائب۔ چو
ریگ روان نرم روان ماندہ نگردند + وا ماندگی راہ نوردان زشتاب ست۔
نرم شانہ۔ نرم گردن۔ مطیع و فرمانبردار ضعیف و سست و کاہل۔ نظامی
زنجیر الف چارۂ دلہاے سرکش ست + زنجیر موم سنگ شود نرم شانہ تر۔
نظامی۔ وہ شخص ایسی انداز تو آے بہوش + بیچے نرم گردن و گرسفتہ گوش۔
نرم گردہ۔ نرم آہن۔ نرم شمشیر۔ ڈرپوک خائف بزدل آدمی
نظامی۔ کہ در من چہ نرم آہنے دیدہ + کہ پولاد او را پسندیدہ۔ ولہ
سختی پنجہ شیران + کوفتہ مغفر نرم شمشیران۔
نرگسہ۔ وہ نرگس کا پھول جو پتھر اور عاج سے بنا کر عمارت پر لگاتے
ہیں تاکہ خوبصورت معلوم ہو۔ حمید لونکی۔ گرد نرگسدان گردون
بین ہزاران نرگسہ + ہر طرف زین نرگسہ صد گلستان آمد پدید۔
نرمادگی۔ جو قفل میں ہوتی ہے ہندی میں اسکو جھڑ کہتے ہیں۔ محمد سعید
اشرف ہست زائل ہند ابیک شایش سادگی + کار شان بستن بود چون
قفل در نرمادگی۔
نرم گومی۔ نرم زبان۔ آہستہ بولنے والا۔ نظامی۔ چو بالین
پرستندہ شد نرم گوے + از و بیشتر مہربانی مجوے۔

نون با زاے معجمہ

نزہت گر۔ نزہتگاہ۔ پاک کرنے والا صفائی و تازگی بخشنے والا
اور پاکیزہ و مصفا مکان۔ عرفی۔ نزہتگاہ معنی میہمان شو تا زاستغنا
مگس را بادزن در دست بر اطراف خوان بینی۔ ولہ شست نتوے
لباس گیتی را + عدل نزہتگر تو صابون باد۔

نون با سین

نسیم باد۔ ہوا جسکو نسیم کہتے ہیں۔ اوحد الدین انوری۔ نسیم باد
باعجاز زندہ کردن خاک + ببرد آب ہمہ معجزات عیسیٰ را۔
نستعلیق حرف زدن۔ کتابی قاعدہ کے بموجب کلام کرنا
باقاعدہ گفتگو کرنا۔
نسرین بدن۔ نسرین تن۔ نسرین رخ۔ نسرین بر۔ نسرین
روے۔ نسرین عذار۔ نسرین سیرت۔ نسرین بناگوش۔
محبوب کی تعریف میں بولے جاتے ہیں۔ سالک قزوینی۔ در دو دار
صفحۂ گل سبزہ را نسرین بناگوشی + تاب تیغ نشست آن بیروت صفحہ
قرآن را۔ ظہوری۔ خدمت تو بہار مجلس او + فخر نسرین ریحان
فخاری۔ ولہ گریبان نسرین عذاران چین + رخ ماہرویان جاور زمین
نستعلیق گوے۔ باقاعدہ تقریر کرنے والا۔ محمد سعید اشرف۔
ز نستعلیق گو یاقوت لب ریحان خطے داغم + گر انگشت شہادت
میکشد خط بر غبار من۔

نون با شین معجمہ

نشان تنہا۔ نشان مردی۔ آلہ تناسل۔ محسن تاثیر۔ ہر کس کہ
بجھی دہر ہیز ند + دارد نشان مردی اگر کدخدا شود۔
نشستن خانہ و بنا۔ گر جانا گھر اور مکان کا۔ محمد سعید اشرف۔
از نشیندگان کسے چو نماند + عاقبت خود نشست خانۂ ما حسین ثنائی
برکوہ ابر حلم تو گر سایہ افگند + ہمچون بناے تازہ کند در زمان نشست۔
نشستن شراب۔ جوش کم ہو جانا شراب کا۔ سلطان قلی بیگ
رہی۔ تو چون بجوش در آئے شراب بنشیند + تو چون سوار شوی آفتاب بنشیند
نشاط پرست۔ نشاط مند۔ خوش رہنے والا۔ ابو الفیض فیاضی
ورنہ چمن از نشاط مندی + انثار نظر بہ نخل بندی۔
نشست۔ باہمی صحبت و اتحاد اور حاصل مصدر نشستن کا۔ نظامی
چو با دیو دارد سلیمان نشست + کند باد و انگشتری را ز دست۔
نشستن تب و رنج۔ زائل ہونا تپ اور بیماری کا۔ محسن تاثیر
از وصل لبت شوق دل از پا ننشیند + این تب بدواے مسیحا ننشیند۔
نشستن صورت کار۔ کام بن جانا مطلب و مراد حاصل ہونا۔
قاسم خان۔ آزردہ ہجرت نشد از نامہ تسلی + چون رنج خماری کہ بافیون ننشیند
نشانۂ فرسنگ۔ فرسنگ کا نشان جو میلوں پر استون سے قائم
کرتے ہیں۔ یحیی کاشی۔ یکچند پاے خود بہت لنگ میکنم + ہمراہی
نشانۂ فرسنگ میکنم۔
نشاندن۔ بٹھلانا آدمی و درخت وغیرہ کا۔
نشستن۔ بیٹھنا۔
نشستن زمین۔ دھنس جانا زمین کا نیچے کو۔ ظہوری۔ ہمت عالی
بناے پستی نکند + این طرح بجز دراز دستی نکند۔ برخاستہ اند کاہ
ماہی لغفان + سنگین ست بنا زمین نشستی نکند۔
نشۂ خانہ۔ نشۂ ساز۔ نشۂ مند۔ معانی اسکے معلوم ہیں۔ ابو البرکات

منیر - زلفش بخانہ چشم تو عشوہ خیز دست + زخال نامہ خط تو فتنہ گیر دخال +
طغرا - زلب باید بادہ این جام باز + بلب نارسیدہ بو دلنشہ باز - محمد اسحاق
شوکت - روزی کہ از شراب جنون نشہ مند شد + ساغر زکاسہ سر مجنون لبسر کشید
نشستن تیغ وتیشہ - کاشا تلوار اور تیشہ کا اور زخم کرنا - س۵ - زنہار
از ترقی دولت مباش ایمن + برخاستن زتیغ برای نشستن ست سلیم
کدام روز مرا سایہ لبسر انداخت + کہ ہیچو تیغ لبفرقم بہ پیمانہ نشست -
نشستن گاہ - قرارگاہ قیامگاہ ٹھہرنے اور بیٹھنے کی جگہ - نظامی
نشستن گہے وید نراب وگیا + بگوہر گرای تر از کیمیا -
نشستن آفتاب وماہ - غروب ہونا چاند سورج کا - طاہر وحید
بر خیز ساقیا کہ بنور تو زندہ ام + عالم شود سیاہ چو بنشیند آفتاب - زلالی
چو شد کاشانہ را آشوب درگاہ + نشست از پاے چون بنشستن ماہ -

نون با صاد

نصیحت پذیر - نصیحت قبول کرنے والا - نظامی نصیحت پذیران
انداز شاہ + سوے شہر پوشیدہ جستند راہ -
نصیحت گر - نصیحت کرنے والا - نظامی - نصیحت گری با خدا و ند زور +
بود تخمی افگندہ در خاک شور -
نصیحت گزار - واعظ نصیحت کرنے والا - نظامی - چو آگاہ گشت
آن نصیحت گزار + کہ از بیند او گرم شد شہریار +

نون با طاے مہملہ

نطع وطشت - بادشاہون کے دربار مین جب کسی بادشاہ یا امیر کا
سر کاٹا جاتا تو نطع یعنے لبساط بچھا کر اور اسپر طشت زرین رکھکر سر کاٹا
جاتا - آصف خان جعفر - جبین ریزند ہر گہ نطع شاہان + دریغ
از طشت وتیغ کینہ خواہان -
نطع جواہر - وہ لبساط جسکو بچھا کر جوہری موتی پرویا کرتے ہین -
سالک قزوینی - بر نطع جواہری ست غلطان + گوہر چون رنگ در بیابان -

نون با ظاے معجمہ

نظارہ فریب - نظارہ سنج - نظارہ پسند - نظارہ پیوند - نظارہ
گذار - نظارہ گر - معانی ان کے قریب الفہم ہین - طالب آملی - وہ چہ
غزالی کز آشنائی زلفت + ہر سر موبہ تنت نظارہ پسند ست - ابوالفیض
فیاضی - کرد از فتر نظارہ پیوند + با ہمنفسان اشارتے چند - ولہ - بودند
نظارہ سنج چالاک + در گردش قرعہ ہاے افلاک - ابوطالب کلیم
زسیل اشک چنان شست وشوے دیدہ وہم + کہ ہر نظارہ فریبے بفیتد
از نظرم + صائب - در خیرگی نگاہ مرا نیست کوتہی + روے ترا نظارہ
گذار آفریدہ اند - عبد اللہ ہاتفی حصار کی تعریف مین - ز دیوار ہایش
بر آوردہ سر + ستارہ چو دستار نظارہ گر -
نظر بند - وہ شخص جو لوگون کی نظرون مین ہو اور نام ایک عمل سحر کا -
شفیع اثر - چشم جادوے تو کردہ ست نظر بند مرا + ہر کجا می نگرم روے تو ام در نظر ست
نظر شور - بد نظر -
نظر باز - نظر پرداز - نظر پرست - نظر ور - نظرستان -
نظر سوز - نظر گداز - نظر گاہ - معانی انکے قریب الفہم ہین - طالب
آملی - بجسن شعلہ نظر باز یم زعقل مپرس + نیاز عشق چہ سازم کہ ناز نین
طلب ست - صائب - آ چند زر سوا شدن راز توان سوخت +
از بے تہی اشک نظر باز توان سوخت - ولہ - نظر پرداز شو گر قصد سیر جوی
قیامت را + کہ چشم دوربین آئینہ منزل تو اند شد - فیضی فیاضی -
در انجمن نظر پرستان + از عشق تو مے شدند مستان - س۶ - مرا ست
بپیش نظرگاہ تو + چگونہ نبینم بدر راہ تو -
نظر تنگ - تنگ چشم خسیس - محمد سعید اشرف - با نظر تنگان
نشستن عمر ضائع کردن ست + بیشود کوتاہ عمر رشتہ تا با سوزن ست -
نظارگان - نظارگیان - جمع نظارہ جو صیغہ مبالغہ کا ہے - نظامی
بخلوتگہ خسروش تاختند + ز نظارگان مجلہ پرداختند - صائب - در دیدہ
نظارگیان جمال تست + بیتور تر زخانہ بیرون آئینہ
نظر آب دادن - بنظر آب دادن - محبوب کو دیکھنا دیدار کرنا
صائب - تا ز یاقوت لب او بنظر دادم آب + ریگ این بادیہ را لعل بدخشان
کردم - ولہ - تا از ان روے عرقناک نظر دادم آب + آب حیوان بنظر
موج سراب ست مرا -
نظر داشتن - کسی پر نظر رکھنا اسکو دیکھنا - طالب آملی - خوشا
چشمے کہ بر روے عرقناکی نظر دارد + خوشا ابرے کہ آب از چشمہ خورشید بردارد
نظر گذاشتن - نظر گماشتن - کسیکی طرف دیکھنا - ظہیر فاریابی
بنور طلعت خسرو کہ نیر خورشید + نظر بروے نتواند گذاشتن گستاخ - کمال
اسماعیل - چشم دارم کہ تو از گوشہ چشم + بر معاشم نظرے بگمارے -
نظر بستن ودوختن - کسی چیز کو نظر مین رکھنا - صائب -
شوخ چشمے کہ نظر بر دل من دوختہ است + سینہ سنگ از و خانہ پر نور شدہ است
نظر گردانیدن - نظر گرفتن - کسی سے روگردانی کرنا بیزار ہونا -
نظر پوشیدن - نابینا کرنا -
نظر کشادن - آنکھین کھولنا دیکھنا -
نظر کردہ - نظر یافتہ - پرورش یافتہ منظور نظر - طغرا - ہمہ عہد چشم

در پردلی + نظر کردۂ شیر مردان علی۔

نظر جفت کردن بچیزے۔ غور سے دیکھنا کسیکو۔ نورالدین ظہوری۔ مجنون لطافت قبلہ نظر جفت چون کنند + ابروئے شوخ چشم قبابل برابست

نظر داشتن بچیزے۔ نظر سیاہ کردن بچیزے۔ کسی چیز کو کمال توجہ اور ارادت سے دیکھنا۔ ابوالبرکات منیر۔ شب وصال تو بر مہ نظر سیہ نکنم + بہ ورزروشنم از پرتو چراغ چہ حظ۔

نظر گرم کردن بچیزے۔ نظر نہادن بچیزے۔ دل کے شوق سے کسی چیز کو دیکھنا۔ طاہر وحید۔ دل بیتاب من از شوق تماشا سوئے پیش از آنم کہ بروے تو نظر گرم کنم۔ میر خسرو۔ نظر در نیکوان چندان نہادم + کہ شد ناگہ دل زارم گرفتار۔

نظم سنجی۔ نظم گستری۔ نظم کرنا اشعار موزون کرنا۔ حافظ۔ گردون چو کرد نظم ثریا بنام شاہ + من نظم خود چرا نکنم از کہ کمترم۔ طالب آملی۔ نظم سنجے ہم ترازو بیدہ خصم خام را + ز انکہ تو شایستہ شعری او باب شعیر۔ ولہ۔ باین طبیعت کج و این فہم دون اساس + ہمہ بگ سپردہ اند بجود کنظم گستری۔

نظری۔ مقابل بدیہی اور جسپر نظر ہو اور منظور رہو۔ مفید بلخی۔ نیم زفیض نگاہ تو لحظہ نومید + لبسان آئینہ ہر چند گشتہ ام نظری۔

نون با عین

نعل بہا۔ وہ روپیہ جو مغلوب بادشاہ غالب کو دیکر اسکے لشکر کو اپنے ملک سے واپس کرتا ہی۔ سعدی۔ گردست دہد دولت آنکم کہ سر خویش + در پائے سمند تو کنم نعل بہائے۔

نعل افگندہ است۔ محروم و مایوس ہو گیا ہی۔ خاقانی۔ بوقت ہست کز مرکبان انجم + ہم نعل بیفگند و ہم سم۔

نعل برابرش ہست یعنی چست اور چالاک ہی۔ نظامی۔ جو آرا چو گل نعل برابرش بست + چو پرسے رسد نعل در آتش ست۔

نعل در چرخ۔ اضطراب و بیقراری ہین۔ سعید اشرف۔ بے وزگار شد کز چرخ ست نعل آفتاب + تا رود وقت مرصع کاری این در بکار۔

نعل در۔ دروازے کا آہنی کنڈا جسکے ساتھ حلقے یعنے دروازے کی زنجیر ملا کر دروازہ بند کرتے ہین۔ محسن تاثیر۔ کار ہا محکم میان در کشائیش بستہ اند + از تمنائے کشودن نعل در آتش ست۔

نعش کسے بہ تیر زدن۔ کمال بغض و عداوت کرنا خصومت سے پیش آنا۔ سعید اشرف۔ آن بت از کینہ زند نعش مرا بسکہ بہ تیر + کاغذ گردہ کند صفحۂ تصویر مرا۔

نعل بر آتش نہادن۔ نعل در آتش نہادن۔ مضطرب بیقرار کرنا جادوگرون کا عمل ہی کہ جسکو بے آرام کرنا منظور ہوتا ہی اسکے نام کا نقش نعل پر لکھکر آگ مین ڈال دیتے ہین۔ صائب۔ نعل شبنم را زبرگ لالہ در آتش نہد + اشتیاق آفتاب از چہرۂ تابان او۔

نعل بستن۔ نعل زدن۔ نعل لگانا۔ سعدی۔ آن شنیدی کہ صوفیے بسکوفت + زیر نعلین خویش میخے چند + آستینش گرفت سرہنگی کہ بیا نعل بر ستورم بند۔

نعل بر سینہ و جگر بریدن۔ داغ دینا۔ صائب۔ بریدہ نعل ز عشق کہ بر جگر لالہ + کبنبل کہ سیہ کردہ چشم تر لالہ۔

نعل کہنہ بحلوا دادن۔ پرانا نعل دیکر حلوا خریدنا جیسے کہ ہندمین پرانا لوہا نعل وغیرہ دیکر خونچہ بریان خرید لیتے ہین فارس مین حلوا لیتے ہین۔ شفیع اثر۔ دہد فلک مہ نو را چو نعل کہنہ بحلوا + باشتی کند از ناز گر اشارہ چند۔

نعل واژون زدن۔ لبستن کردن۔ وہ کام کرنا جو نہ کرسکین۔ زلالی یزدی۔ گرمہ عید نماید فلکت شاد مشو + کہ غرض ہاست درین نعل کہ واژون زدہ است۔ صائب۔ حسن از دائرہ عشق نبرد پا بیرون + نعل داغ و نہ فرزانہ کو کو بگذار۔

نعلین در پا کردن۔ جوتی پہننا۔ درویش والہ۔ نعلین کنی زخاک در پا + وز حسن بندی ہر اسپ ہر اے۔

نعل موزہ۔ وہ نعل جو چرمین موزہ کے نیچے لگاتے ہین۔ زلالی۔ سوارش مست توسن مست و رہ مست + ز نعل موزہ تا طرف کلہ ست۔

نعمت کدہ۔ نعمت خانہ یعنے بہشت۔

نعل زنگی۔ ہلال یعنے ماہ نو۔ نظامی۔ کہ چون شاہ چین زین برابرش نہاد + فلک نعل زنگی در آتش نہاد۔

نون با غین

نغمۂ عنقا۔ نام ایک نغمہ کا ہی۔ جمال الدین سلمان۔ الا تا بر حجر قمری سراید نغمۂ عنقا + الا تا در چمن نرگس کشا ید دیدۂ شہلا۔

نغمہ پیما۔ نغمہ سا۔ نغمہ زار۔ نغمہ سنج۔ نغمہ انگیز۔ نغمہ پرداز۔ نغمہ ریز۔ نغمہ زن۔ نغمہ خیز۔ نغمہ سرا۔ نغمہ طراز۔ نغمہ فرو۔ ہر ایک کے معانی قریب القہم ہین۔ ملا طغرا ہیر مغان کی تعریف مین۔ معنی چنان نغمہ پرداز شد + کہ پیرا یش پردۂ ساز شد۔ ولہ۔ فطانتش کان بہ بالا بود + از آن بابتے نغمہ پیما بود۔ ولہ۔ گل قرار یافت ابر بہار + کہ عالم شد از رعد او نغمہ زار۔ میر خسرو۔ نغمہ زن شن

زیرہ پردہ شناس + نغمہ زنی کرد بچندین سپاس - ولہ - صدا خبر کرد
بصدا حسرتند + کف بادہ اش چون کف نغمہ ساز - میرزا صائب -
صدائے خندۂ گل کار بلبل میکند صائب + ندارد احتیاج نغمہ سنجی
گلستان ما - عرفی - آنجا کہ ادب نغمہ طراز ست سمیعم + وانجا کہ سخن
جلوہ فروش ست بصیرم - کسے غیر از آن دلبر نغمہ فرد + زبان در دہانہا
سخن نکرد -

نون با فاسے

نفس آباد - سینہ اور شش جسکو عربی مین ریہ اور ہندی مین پھیپھڑا
کہتے ہین - نظامی - در نفس آباد دم نیم سوز + صدر نشین
گشتہ شہ نیمروز -
نفاق زار - منافقون کے رہنے کی جگہ - میر یحیی شیرازی - نفاق
زار جہان قابل توطن نیست + خوشا کسیکہ غریب آید و غریب رود -
نفس کش - چراغ وغیرہ جو ایک پھونک سے بجھ جاسے - سالک
قزوینی - جنون لبس ست پریشانی دماغ مرا + بہ یک نفس نفس کش
باش چراغ مرا -
نفس ناطق - نفس ناطقہ - انسانی روح جو اور حیوانون کو خدا نے
عنایت نہین کی -
نفس تنگ - نفس صبح دم - بہت قلیل وقت جو نہایت فوری گذر جاے -
صائب - غنچہ لیے کہ بدل ہست زنکہت خارش + نفس صبح قبا و دراز منقار خود -
نفس شوم - بدبخت و منحوس - صائب - نفس صبح کافر زبان
ناصحان یارب + مرا کردند عاقل رفتہ رفتہ این نفس شومان -
نفس بخوشی و بفراغت از تہ دل بر آوردن - صائب نیست پرواے
بہارم من و کنج قفسے + کہ بر آرم بفراغت نفسے از تہ دل -
نفس بلند شدن - بڑھیانا گفتگو کا کسی بات مین - درویش والہ ہروی -
خصم ار بلند شد نفس ناصواب او + بہ گفتگو خموشی ما شد جواب او -
نفس در دہان گرفتن - نفس در گلو شکستن - نفس در گلو گسستن -
نفس در گلو کردن - دم بند کرنا سانس دبا لینا - عرفی - میخواست
گل کہ دم زند از رنگ و بوے یار + از غیرتش صبا نفس اندر دہان گرفت -
ظہوری - اگر سرو و صد چہ شد از دل و رو پر + نفس ہی شکنم در گلوے
سینہ تنگ - پہلی ہراسانی - از بسکہ شد ضعیف تنم دم نگسلم + تر سم
کہ چو سپند بگلو نالہ ان نفس -
نفس درست کردن - نفس راست کردن - ٹھہرنا دم لینا دم لینا
آرام کرنا - ارادت خان واضح - صبا رسیدہ نازد اگر راہ گم کشتم -
نفس درست نکرد آن زرہ رسیدۂ ما - صائب - نفس از خانۂ آئینہ بیگانہ
راست میکردی + اگر آگاہ میگشتی ز درد انتظار من -
نفس دمیدن - افتادن - بافتن - تازہ داشتن - تازہ کردن -
دزدیدن - دویدن - سوختن - شمردن - فرو رفتن - کشیدن -
گسستن - نفس زدن - معانی ان سبکے قریب الفہم ہین - میرزا
صائب - اگرچہ خانۂ آئینہ ست روے زمین + نفس کشیدن ما ہیچکس
نمیداند - محسن تاثیر - غریق قلزم وحدت دم از خودی نزند + بود محال
کشیدن میان آب نفس + ولہ - تعب ز شوق طلب راحت ست طالب را
منیر نادر زدویدن بسرعت آب نفس - طالب آملی - زہیچ شود نرانہ داوڑکم
بگوش + آنجا کہ بلبل نفسے دلنشین زند -
نفس انداختن - ساکت کرنا - طغرا - شکوۂ دانہ و دام از قفس انداخت
مرا + شور بیہودہ زحیثم نفس انداخت مرا -
نفس سوختن - رنج کھینچنا محنت اٹھانا - صائب - نکند چرخ تعدی
بنفس سوختگان + سرمہ در کار نباشد نفس سوختہ را - ولہ - تا خویش را
رسانند بآن زلف عنبرین + در نافۂ آہوان نفس مشک ناب سوخت -
نفس غواص در میان آب سوختن - دم کو ضبط کرنا غواص کا
پانی مین - طاہر وحید - نزد آبے بر آتش مال دنیا اہل دنیا را چشنا و
را نفس دائم میان آب میسوزد -
نفس بازپسین - و نفس واپسین - آخری دم - میر خسرو - غنیمتین
نفسے کز ہمہ لطف تو بس ست این + بستان کز جانم نفس بازپسین ست این -
نفس سوختہ - نفس گسستہ - ساکت اور خاموش و دم بخود - صائب -
باگل بجاے صید افتر کی بستہ ایم + بلبل نفس گسستہ رود در رکاب ما -
نفس خاے - نفس کسل - رنج دینے والا تکلیف پہونچانے والا -
ظہوری - زور دہاے نفس خاے کامران بخروشم + ز غصہ ہاے جگر کاو
کامیاب بگریم -
نفس درازی - زیادہ گوئی - میرزا یحیی - یکدم بس ست ہستی گریست
سرفرازی - عمر دراز نبود غیر از نفس درازی -
نفس شماری - نزع کی حالت -

نون با قاف

نقش بر آب - ناپایدار و باطل و بے اصل و بے ثبات - صائب - عمر
آب زندگی نقش بر آبے بیش نیست + گر بقا داری طمع جان تو و جان سخن -
نقل مذہب - ایک مذہب چھوڑ کر دوسرا اختیار کرنا - طالب آملی - بے
بہمین نقل مذہب گاہ گاہے ہم خوش ست + لطف کن تسبیح من لبستان ...

نثارم بعد -

نقارۂ آفتاب زرد - شام کی نوبت جو بادشاہون کے دربار پر بجتی ہو۔ ایمائی - درآخر عمر عیش پیران + نقارۂ آفتاب زرد نعمت -

نقد را نسیہ نداد - یعنے نقد موجود کو چھوڑ کر نسیہ کو اختیار نکر -

نقشبند - مصور نقاش اور نقش کیا ہوا اور لقب ایک بزرگ صاحب سلسلہ و امام طریقت کا جسکا نام نامی بہاء الدین شاہ نقشبند ہے۔ نظامی گنجوی - چنان ساختش نقشبند + کہ بست برنقش ترکان بند -

نقابدار - پردہ پوش چھپا ہوا مستور - ابوطالب کلیم - خورشید دگر نقابدار است + منقل معشوق برکنار است -

نقش دیوار - حیران و سراسیمہ و خاموش و ساکت -

نقل آور - جو شخص شراب کی مجالس مین نقل دیتا ہو - میر خسرو - گشتہ مہ نو ساغرش طوبیہ شدہ نقل آورش + عید مبارک بر ورش خوان مسیحا دشتہ

نقش باز - نقش پرداز - نقش ساز - معانی ان کے قریب الفہم ہین نور الدین ظہوری - بحریفان نقش باز بگو + سادہ بازکسے و نا بخورد میرزا بیدل - بگوشش برنخیزد نقش آسایش زپہلویم + برگ حوبست از غفلت چو مخمل بر سر مویم - ملا طغرا رقاصون کی تعریف مین - بصبا اصولے زدن بے نیاز + ز بر لعبگی بے صبا نقش ساز -

نقل مجلس - جو بات ہر مجلس مین مشہور ہو - آصفی - میان لیتہ لبان نقل مجلس این سخن ست + کہ ست شور جہان لبتہ ہاے تندی ما -

نقل فروش - نقل بیچنے والا - سیفی - جویان وصل نقل فروشیم لعل تو دیگر کجا رویم کہ اینجا ست نقل دے -

نقرہ خنگ - نقرہ گھوڑا سپید گھوڑا - عرفی - آفتاب از شوق یا بوست دل خود میخورد + تا ز بہر نقرہ خنگت آورد زرین رکاب -

نقرہ خام - نقرہ سیم - خالص چاندی - محسن تاثیر - خام نقرہ یا بدن نازنین او + در قالب عقیق کند جان سرین او - فرخی - مہر تابانست تو اے نیک تراز و رستیم + سنبل تازہ ہمی برو مد از نقرہ سیم

نقش بجرام - نقش حرام - وہ شخص جو قد و قامت اور ترکیب اچھی رکھتا ہو مگر اس سے کوئی کام نا نکلے -

نقل ماتم - وہ نقل جو ماتم پر تقسیم کرتے ہین فارس مین سیاہ رنگ اور ہندمین سپید - شفیع اثر - رنگ ایجادم ز روے نقل ماتم بخشید + خلق را شیرین شد از روز سیاہم کام جان -

نقب افگن - نقب زن - وہ شخص جو دیوارون مین نقب لگاتا ہو - میر خسرو - رخنہ کارے زنقب افگن بخواہند + لبان حکے کا ہمداز تیر زن -

نقد روان - جو سکہ رائج الوقت ہو - صائب - عشاق تو بر نقد روان کیسہ ندوزند + از لکہ سبی ست کفہا یکرم را -

نقش آوردن - نقش باختن - نقش بالیدن - نقش بر ریگ انگندن - نقش خواندن - نقش دادن - نقش دیدن - نقش سوختن - طالب آملی - آنانکہ نقش روے تو آرند سوے باغ + گلبرگ را زطاق دل شبنم افگنند - جلال اسیر - در قمار عشق باشد باختن نقش مراد + تا کیسہ را دل نرفت از دست صاحبدل نشد - عماد لباس بے ستون بر نقش شیرین تنگ خواہد شد + چنین کز دیدن و یاد زرین چنگ می بالد - طالب آملی - بلوح نکتہ زنگ آمیزی عرفی نگر شد + بیا طالب کہ نقش نوی برروے کار افگن - حافظ - گفتی کہ حافظا این ہمہ رنگ و فسون چیست + نقش غلط مخوان کہ ہمان لوح سادہ ایم ظہوری - راست نکردہ کارکس فر لبساط مہرہ ورہ + مہرہ نرد دوستی نقش مراد سید ہد - شفیع اثر - لبسکہ نقشم در قمار عشقبازی سوختہ است گل کند داغم برنگ کعبتین از استخوان -

نقش افتادن - نقش قائم ہونا ظاہر ہونا - حافظ - حسن روے تو بیک جلوہ کہ در آئینہ کرد + این ہمہ نقش در آئینہ اوہام افتاد -

نقش بد نشین - جو نقش با مراد نہ پڑے - طالب کلیم - مگذر ز تماشا بوسہ بازی + اے ست کہ نقش بد نشین نیست -

نقش برداشتن - ذکر فتن - اسکے معنے قریب الفہم ہین - میرزا بیدل - اگر از صفحۂ آئینہ حیرت شود زائل + توان برداشتن از نقش ما راحت نقش بیدل ہم - میر خسرو - نقش خود از راہ فنا بر گرفت + نور بقا دید و فنا در گرفت -

نقش چیزے داشتن - کسی امر کے حاصل کرنے کی استعداد اور حوصلہ ہونا - حافظ - استانت منزل و دولت نہ اگر زانست ولیس + دارد این قصہ سطے نقش تاریخ قدم

نقش زدن - نقش کرنا اور لکھنا - حافظ - ہر کس نقشے نظمے زد کلامش دلپذیر آمد + تدروے طرفہ میگیرم کہ چالاکست شاہینم

نقش بردن - ستردن - شستن - زائل کرنا کسی نقش کا - سعدی بارنت نیلہ ام از سر دیان تا کہ برد + باز از نگین عہد تو نقش و کہ برد - انوری - نقش طبعی ستروز روزگار + نقش الہی نتوانند سترد -

نقش شکستن - نقش کو زائل کرنا - مولوی معنوی - نقش حق را ہم با مرحق شکن + بر زجاج دوست سنگ دوستان زن -

نقش سپیدن - افگندن - انداختن - انگیختن - بستن -

کردن - نگاشتن - نہادن - نقش لکھنا پیدا کرنا ظاہر کرنا
کھینچنا - محمد جان قدسی - نقش چشم خویش برِ بال کبوتر میکشم +
طالب دیدار از این خوبتر مکتوب نیست - طالب آملی - بیارتا رسد
این نامہ بر شکسته آلود + چه نقش یا که ببال کبوتر اندازد - میرزا صائب
بر لفس عشق و صد نقش بدیع انگیزد + تا نگرد و بخود آن آئینه سیما
مشغول - زلالی - نزاکت آنچنانش نقش بسته + که بار رنگ شاخ
گل شکسته - علی خراسانی - ملقاتش قضا نقش بجائے دگرش کرد +
ور دیدہ ما نیست مثال قدش امشب -
نقش گرفتن - قبول کرنا قائم ہونا نقش کا - صائب چنین که
من زلباس تعلق آزادم + عجب که پہلوے من نقش بوریا گیرد -
نقش نشستن - نشاندن - اعتبار پیدا کرنا و عمل پانا کسی امر کن
ظاہر شدنی - بہر خدمت پیش اسباب سخن آمادہ باش + نقش خود را چون
قلم بنشان و خود استادہ باش - میرزا صائب - نقش امید لبوسہ
بر چہ حسن نشست + تا شد بوقت خط شگون عقیق تو -
نقطه ریختن - فال کسی برین لینا - ظہوری - نقطه ریز بے قرار
قرار + نا توان تر شود ز ضعف توان -
نقل مکان - ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا - صائب - دل بخط
نقل مکان کرد از ان حلقۂ زلف + میتوان یافت کہ از اندر رہائی دارد -
نقرۂ زیبقی - کیمیائی چاندی جو کیمیاگر پارے سے بناتے ہیں - نظامی
زرکانی - نقرۂ زیبقی + که مهتاب را داد بے رونقی -
نقل بادامی - یہ نقل بادام کے مغز پر قند چڑھا کر بناتے ہیں محسن تاثیر
شب کہ از خون دلم میل بہ آشامی کند + چشم او را خواب شیرین نقل بادامی کند

نون با کاف

نگون بخت - بدبخت و بدطالع - سعدی - شغال نگون بخت را شیر
خورد + بماند آنچہ روباہ ز و سیر خورد -
نگون ہمت - سست و کاہل نکما - میر خسرو - نگون ہمتان را زلو
نور نیست + و گر نیز بارد بتو دور نیست -
نگارین بودن - کتاب اور نامہ - نظامی - دریغ آمدم کاین نگارین نوردہ
بود در سفینہ گرفتار گرد -
نگارگر - نقاش نقش لکھنے والا - میر معزی - باد صبا نگارگر بوستان
شدہ است + در بوستان چگونہ توان بود بے نگار -
نگون سار - نگون سر سر جھکائے ہوئے - صائب - عشق تابع نیست
خرد تیغ زبانی دارد + چون شد قلم شمع نگونسار شود -

نکتہ گیر - عیب پکڑنے والا نقص ظاہر کرنے والا - حافظ - سپیدہ دم
کہ صبا بوے لطف جان گیرد + چمن ز لطف ہوا نکتہ بر جنان گیرد -
نکوئی کن و در آب انداز - مثل ہے -
نگاہ انداز - جتنے فاصلہ پر نظر پہونچ سکے - میرزا بیدل - مین
نظارہ سے کہ از بیگانہ خو نیہا + در آغوش ست و دور از یک نگاہ انداز ہے
نگین عاشق و معشوق - دو نگینے جو ایک خانہ مین نصب ہون +
ابو الحسن شیرازی - با وجود اتحاد از یکدگر بیگانہ ایم + چون نگین
عاشق و معشوق در یک خانہ ایم -
نکتہ دان - نکتہ سنج - نکتہ ور - دانا ہوشیار لائق صاحب علم
حافظ - زان یار دلنوازم شکریست با شکایت + گر نکتہ دان عشقے
خوش بشنو این حکایت - طالب آملی - آنجا کہ درس و بحث جنون
در میان بود + نوبت بہ نکتہ سنجی مجنون نمیدہم - ظہوری - برین
خوان نعمت کاسہ خون جگر + بکے نکتہ رنگین کنا نکتہ ور -
نگارستان - وہ محل جو منقش ہو - ابو طالب کلیم - در تماشاے
پرید و یان اقلیم خیال + دیدہ گر بر ہم نہی چشمت نگارستان شود -
نگارین - منقش و رنگین - مخلص کاشی - دلم فشردہ آن پنجہ نگارین است
مجھے کہ بدل ناخنے زندانیست -
نگین دان - نگین خانہ - وہ خانہ جسمین نگینہ نصب کیا جاے
صائب - حسن در خانۂ زین جلوہ دیگر دارد + در نگین خانۂ نگین جلوہ دیگر دارد
نکتہ آرا - نکتہ پرداز - نکتہ پرور - نکتہ پیوند - معانی انکے
قریب الفہم ہین - ظہوری - چو نافع از او نکتہ آرا شود + سخنہائے
تلخش گوارا شود + کم آمد چنین نکتہ پرداز کم + کہ نازند زو
لفظ و معنے بہم - میر خسرو - ندیم خاص شاپور خردمند +
ہمرائے سخن را نکتہ پیوند -
نکو بیدہ راے - بیوقوف و احمق - سعدی - ملک را دل رفتہ
آمد بجاے + بخندید و گفت اے نکوہیدہ راے -
نگاہ چرانی - کسیکی طرف دیکھنا - صائب - بر سینہ لعل و داغم
لبس لالہ و گل من + تا کے نگہ چرانم در باغ و راغ مردم -

نون با میم

نماز جماعت - نماز خسوف - نماز عید - نماز قضا - نماز قصر
نماز معکوس - مشہور نمازین ہین - صائب - نجھے کہ فتوے
لبساز با یاران + کہ در نماز جماعت شتاب بیکارست - نعمت خان
عالی - ہمیشہ دیدہ زشرگان کند نماز خسوف + کہ جسم خاکی من در میانہ

حائل شد - صائب - غم از دل میرواید چون صباح عید بشارت + نماز عید واجب میکند بر خلق دیدارت - رضی دانش - خط شد پدید و طاقت دل ناتمام ماند + لطف نیاز با چو نماز قضا نداشت - آرزو - ترقی ست تنزل فروتنی بگزین + که ترک سرکشی اینجا نماز معکوس ست -

نمک فلان چیز دران ست - یعنی خوبی اور لطف فلان چیز کا اسی مین ہی - صائب - نمک صبح دران ست که خندان باشد + نخیه ظلمت بی ترحمی که نمایان باشد -

نماند - نہ رہیگا اور - نماند - بنون عنه نہ رہا - نظامی که سکندر نه بهشت کشور نماند + نماند کسی چون سکندر نماند -

نه مالی دارد که سلطان بگیرد و نه ایمان که شیطان ببرد - مثل ہی - کم ور جگر ندارد - مفلس محض ہی - والہ خان خالص - با صفائی مال جهان جمع نگردد + زان روست که در خانهٔ آئینه نمی نیست - وله - از مزرع ناکامی من رفته طراوت + خون بر فره ام سوخته نم در جگرم نیست -

نمیشود - نہیں ہوتا ممکن نہیں ہی - شیخ - نمیشود لب شیرین خاطر آشوبان + که تشکنند بداغ دلم نمکدان را -

نمک پرور - نمکین - جو چیز نمک آلوده ہو - ظہوری - دل ست اینکه ز خمش نمک پرورست + دل ست اینکه زہرش پر از شکرست -

نمکزار - نمکسار - کان نمک شور زمین - ابو طالب کلیم - نه روید سبزه در ہر جا نمکزارست حیرانم + که خط چون سبز و خرم میکند لعل لب او را - آرزو - دل ستمکش عاشق ہمیشه در کارست + ز شور بختی خود عامل نمکسارست -

نمودار - نمونه ہر ایک چیز کا جو دکھلایا جائے - نظامی - نمودند ہر یک بگفتار خویش + نموداری از نقش پرکار خویش -

نمک پاش - وه چیز جس سے کسی پر نمک چھڑکین - رضی دانش - آه از سوختن زخم نمک پاش مکن + ناله را تا نفسی ہست چو نی فاش مکن -

نمک چش - تھوڑا سا کھانا جو نمک دریافت کرنے کے لیے ہنڈیا سے نکالا جاوے و بمعنی مطلق چکھنا نمک کا اور ہر چیز جو قلیل ہو - طالب آملی - ہر گه رسید غم بسر خوان تبسمم + لخت دلی برسم نمک چش گرفته است -

نمک گیر و نمک بچشمش - اسکی آنکھوں مین نمک ہو یه کلمه بد دعا کے موقع پر بولتے ہین - ابو طالب کلیم - چون سوی غنچه بیاد دہنت منگرم + نمک لعل لبت چشم مرا میگیرد -

نم تاک - شراب انگوری -

نمین و نمناک - بھیگی ہوئی چیز پانی سے -

نمک اشک - شور ذائقه آنسوؤن کا -

نمک سنگ - ایک قسم کے نمک کا نام ہی - صائب - از زبان لعل لبش تلخی گفتار نبرد + نمک سنگ کجا تلخی با دام کشد -

نمدران - باصطلاح لوطیان فرج -

نمد آب چین - وه نمد جس سے نہا کر بدن کو خشک کرتے ہین - محمد قلی سلیم - سرد و سر شاک چند کشتی خواری از جہان + چون ابر اسقدر نمد آبچین مباش -

نمد بافتن - نمد بنانا اور تھپنا - میرزا بیدل - تونگری که دم از فقر میزند غلط ست + ہوے کاسهٔ چینی نمدمی بافند -

نمد بگردن افگنده رفتن - داد چاہنا انصاف مانگنا فریادیون کی صورت بنانا - سنجر کاشی - بلبل نغمه طراز نده گزیدست زبان + قمری زخمه سر اسینه و بر آورده نوا + داد خواہانه بگردن نمد افگنده رود + راست تا کنگرهٔ بارگه بار خدا -

نمد پوش و نمد زین - گھوڑے کا خوگیر جو گھوڑے کی پشت پر رکھکر زین اسپر رکھتے ہین - نظامی - سم بادپایان بخون چون عقیق + شده تا نمد زین بخون در غریق -

نمک افگندن - کسی چیز مین نمک ڈالنا - ابو طالب کلیم - اگر سرمایهٔ خونها سرکم شد + ولا زان لب نمک بر ریش افگن -

نمک انگیختن - رونا اور آنسو بہانا -

نمک بر جگر داشتن - سخت محنت کرنا نہایت تکلیف اٹھانا -

نمک بدیگ افگندن - کردن - ہنڈیا مین نمک ڈالنا - ابو طالب کلیم - آن نمک ہاے که دیگ آرزو کا رداشت + روزگار از شور بختی میکند در رہم + وله - کلیم از فکر آن لبہاے پر شور + نمک در دیگ سوداہیش افگن -

نمک تازه کردن - نمودن - از سر نو دوستی قائم کرنا پرانی محبت کو نیا کرنا - محمد قلی سلیم - جرعه ریز که ما چارهٔ خمیازه کنیم + بوسه دہ که بآن لب نمکی تازه کنیم - محسن تاثیر - دل فارغ شده لبتم لبیانی که ہمیں نمکی تازه نمودم بر ہانی که مپرس -

نمک بحرام شدن - و نمک حرام شدن - حق ناشناس ہونا کفران نعمت کرنا - میرزا معز فطرت - نمک لب ساغر می ریخت زاہد شیاد + کسی نمک بحرامی چنین ندارد یاد -

نمک خوردن و نمکدان شکستن - نہایت ناشکری کرنا - محمد زمان لاہجی - ملیدن لب شاہد و زخم کردن + نمک خوردن ست و نمکدان شکستن -

نمکدان - جس برتن مین نمک رکھین - صه - نمکدانی به تنگی چون دل مور + نمک چندان که در عالم فتد شور -

نمکدان شکستن - اپنے مالک کے خاندان کے ساتھ بدی کرنا - صائب - خط سنگین دل سیاه لعل جانان را شکست + دیده از حق نظر لبت و نمکدان را شکست -

نمک ریختن - انباشتن - سودن - کردن - معانی ان کے قریب الفہم
ہین - میرزا معز فطرت - مبادا شور عشر درمے عیشم نمک ریزد + عجب تر
نسبت در کنج لحد مشت غبارم را - طالب آملی - طالب نمک لعل تو
انباشتہ در طبع + ہذان روے چو گفتار تو شورش نمکین ست - صائب -
در چشم اعتبار نمک سودن ست و بس + در شورہ زار عالم اگر ہست حاصلی
واله - بخیہ را چون محرم راز نہان خود کنیم + ما کہ از غیرت نمک در چشم سوزن کردہ ایم
نمک بر کباب زدن - کباب مین نمک ڈالنا - نعمت خان عالی -
کوتہ ز شور بختی ما شد شب وصال + چندانکہ زد نمک دل ما بر کباب صبح
نمک بداغ زدن - داغ پر نمک ڈالنا - طاہر وحید - این چہ نمک
بود بداغم زدی + بوئے بہارے بدماغم زدی -
نمک بر جراحت زدن - زخم پر نمک ڈالنا تکلیف دینا - صائب -
آنکس کہ بر جراحت ما میزند نمک + بیگانہ گر کاوش حق نمک را رعایتے -
نمک بر زخم پاشیدن - زخم پر نمک چھڑکنا - معز فطرت - جواب
سخن آہستہ گو یم زمن بشنو + نمک بر زخم جانم پاش بوسے لبت بشنو
نم از رخسار چیدن - آنسو پونچھنا تسلی تیمارداری کرنا - مخلص کاشی -
لبا شور لیش ار بر نام دل افگار ما + آستین سوز و اگر چیدیم از رخسار ما -
نم بیرون ندادن - نہایت ممسک ہونا بخیل ہونا خسیس ہونا - لالی
پیر شکست این شیشہ نم بیرون نداد + رحمت شادی را بسیل خون نداد -
نمد بید زدہ - وہ نمد جسکو کرم کھاجاے اور سوراخ سوراخ ہو جاے
سعید اشرف - در دست کسیکہ جام امید زدہ + در روز
لباس گل و بید زدہ + شب موسم صحر است کہ در سایہ بید +
مہتاب نماید نمد بید زدہ -
نمد تکیہ - ایک قسم کے نمد کا نام ہے - ملا طغرا - نمد تکیہ از بہر گل
ساختند + وے از درشتی نمید اختند -
نمک آلودہ - نمک خوردہ - نمک سودہ - وہ چیز جسکو نمک
لگا ہوا ہو - محسن تاثیر - آنکہ غم دل برد و عالم نفروشم + زخم نمک
آلودہ بمرہم نفروشم - طالب آملی - آن بہ کہ لب از خواہش الماس
بہ بندم + رسوا نکنم داغ نمک خوردہ خود را - ابوطالب کلیم - پچکیا
مہر کار بجائے رساند + کاخر طالع کنیم داغ نمک سودہ را -

نون با واو

نواخت - شعرا کی اصطلاح مین موافق ملا طغرا سراج کے ذکر ہے
فلک گشت بانعل او چون نواخت + اجابت بجز طلب عشق باخت -
نوا سنج - نوا پرداز - نوا ساز - نوا شناس - نوا طراز -

نواگر - مطرب گانے والا - رضی دانش - ز تنگیہائے دل بر من نفس
شہر خموشان شد + نوا پرواز کی مرغ گرفتار یخنین باید -
نوشخند - خوشی کا ہنسنا مقابل زہر خند - صائب - در نوشخند
برق خطر ہاست زینہار + بازی مخور ز چہرہ خندان روزگار -
نوبر - نیا پھل تازہ میوہ تازہ پھل اور وہ پھل جو پہلے پہل کھایا جاے
صائب - بر فقیران پیش دستی کردن از انصاف نیست + میوہ چون
در شہر شد بسیار نوبر میکنیم -
نوبہار - نوبر - نوجوان - نوگل - معانی ان کے قریب الفہم ہین
ملا شبتی تھانیسری - بیا پدر نا پدید داند کسے + چو نوبر پرون رفت
از آشیان - نظیری نیشاپوری - بو صلش تا رسم صد بار در خاک
افگند شوقم کہ نوپروازم و شاخ بلندی آشیان دارم -
نو رفتار - نو قدم - نوپا - وہ بچہ جو چلنا سیکھا ہو - طاہر غنی
بود گو یا طفل نو رفتار شوق تازہ ام + گر لبم تا رفت بیرون بر زبانها افتاد
طہماسپ قلی بیگ - بطرف کوے عشق از ناتوانی چون زپا افتم + چو طفل نو
قدم بر خیزم و دیگر بجا افتم - طاہر وحید - چو رایہ و وزی لغزیدہ این -
جہان سر بسر گشتہ بر ہم زدہ + ازین کودک نوبپا آمدہ -
نوسفر - جسنے پہلا سفر کیا ہو - حافظ - ہمتم بدرقہ راہ کن اے طائر
قدس + کہ دراز است رہ مقصد و من نوسفرم -
نوسوار - جو پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا ہو - میرزا صائب -
دیگرے وارد عنانت را چو طفل نوسوار + گرچہ در ظاہر عنان اختیارت دادہ اند
نو شکار - تازہ شکار کھیلنے والا - خون بار انو شکاران
پے بجا بار بخشند + ہمچو برگ لالہ در دامان صحرا ریختند -
نوشگوار - بمعنی خوشگوار مطبوع کھانا یا شربت - حکیم سنائی -
آب حیوان چو شد گرہ در حلق + زہر گشت ارچہ بود نوشگوار -
نوشا نوش - نوش نوش - پے در پے پینا شراب وغیرہ کا -
نجف کاشی - نشنید در لعاب بارگاہ مغفرت فردا + ز نوشانوش مستان
متصل بانگ اذان ما - نظیری نیشاپوری - چو بیدارم کنند از
خواب مستی چشم آن دارم + کہ ہمسنگ اذان گیرند بانگ نوش نوش را
نوحید - حق بداند حال ہر برگشتہ حال + واقف است از درد ہر اہل
ملال - یافتہ از آب و تابش آب و رنگ + ہر گل و ہر سبزہ و ہر نونہال -
نون والقلم - دوات اور قلم اور نام ایک سورہ کا انتیسوین سیپارہ
قرآن شریف مین -
نوبادہ کردن - میوہ بنا کر نا مرادف نوبر کردن - محمد قلی میلی

باز مژگان ترم نو باده خوناب کرد + باز چشم خون فشانم خیر باد خواب کرد
نوسخن - وہ بچہ جو باتین کرنے لگ گیا ہو - فیضی فیاضی - شدم رخ
بعاشقی نواساز + چون کودک نوسخن ہم آواز -
نوبت زن - نوبت و نقارہ بجانے والا - میر خسرو - چو نوبت زنت
گشت نوبت نواز + زغلغل سر آسمان کرد باز -
نوردیدن - لپیٹنا - تہ کر لینا - طالب آملی - بساط عیش یاران
در نوردید + طرب در خانہ ما بدشگون ست -
نوشجان - وہ چیز جو ممد و مقوی حیات و مرغوب و محبوب جان ہو -
میرزا معز فطرت - ستم لطف ست گر پاسے محبت در میان باشد +
دل از دست تو زخمے خورد گفتم نوشجان باشد -
نوشیدن - پینا شراب اور پانی وغیرہ کا -
نوشتن - لکھنا تحریر کرنا -
نوشین - شیرین و ذائقہ دار - نظامی - دگربار نوشابہ ہوشمند +
ز نوشین لب خویش بگشاد بند -
نوازان - موسیقی کے ایک پردہ کا نام ہی -
نوپا آمدہ - وہ بچہ جو چلنا اور کھڑا ہونا سیکھے -
نوتوبہ - جسنے نئی توبہ کی ہو -
نوکیسہ - جسکو نئی دولت حاصل ہوئی ہو - صائب - نوکیسہ ست
ایام نیستم + چون صبحدم ہزار گریبان دریدہ ام -
نوبت گاہ - قید خانہ حوالات کا مقام - نظامی - بنوبت گہ شاہ
بردند شان + بسرہنگ نوبت سپردند شان -
نوبتی گاہ - بادشاہی خیمہ کا مقام کیونکہ نوبتی خیمہ کو کہتے ہین -
نظامی - بلند اخترش بازو مساز گشت + بسوئے نوبتی گاہ خود بازگشت -
نوش لب و نوشین جلوہ - معشوق کی تعریف مین کہا جاتا ہی -
طالب آملی - بنوشین جلوہ ہائے دایم غم سست دمان بودم + فغان
کان ذوق ہم پامال عیش گاہ گاہے شد -
نوشادر بیکانی - ایک قسم کے نوشادر کا نام ہی - سیفال مین
اسفرنگی - گر برسر کشد روزی دگر دیدہ حسود او + ہر ذرہ از گرد
نوشادر بیکانی -

نون با ہاے ہوز

نہاری پز - نہاری بجانے والا - محمد سعید اشرف - در گرہ نوای
صفار ادر یاب + در بنگاہ نشین وہموار اور یاب + شیرین شکر فروش
مار ابنگر + لیلی نہاری پز ما را دریاب -

نہر ایلاق - یہ نہر دار الملک خطا اور الغوز مین ہی -
نہادن - رکھنا وضع کرنا چھوڑنا ظہوری - لالہ از شرم چہرہ
رنگ نہاد + شکر از شور خندہ تنگ کشاد و
نہان پیکران - روحانی مخلوق - نظامی - نہان پیکران بالقا
سبز پوش + کہ خواند سرائیدہ اور اسروش -
نہان خانہ - نہان درہ - پوشیدہ جگہ جو خزانہ وغیرہ رکھنے کے
لیے گھر کے کسی موقع مین بنایا جائے اور خلوت خانہ درویشون کا -
معز فطرت - ساقی بدہ آن آئینہ راز نہان را + از غیر بپرداز نہانخانہ جان را
نہانی کشاے - منجم و ستارہ شناس - نظامی - سوم فیلسوفے
نہانی کشاے + کہ باشد بسوے فلک رہنماے -

نون با یاے تحتانی

نیشکر بالا - نیشکر قد - محبوب کی تعریف مین بولتے ہین - عبداللطیف
خان تنہا - صبحدم آئینہ دار طوطی آشفتہ است + محفل افروز کہ شد
آن نیشکر بالا چو شمع - محسن تاثیر - کہ بآن نیشکر قد بسر انصاف
خواہد شد + دلش با بیدلان خویش آخر صاف خواہد شد -
نیمخواب - محبوب کی آنکھونکی تعریف مین بولتے ہین - میر خسرو -
بازبازی - لیس غمزہ نیمخواب را + نیز دہ بجادوئے جان من خراب را
نے لیست - چھوٹا سا جو پھولون سے بناتے ہین - ابوطالب کلیم -
میران دسے کہ ندارد مجلس یاد او + بر دوش خیز شد لیست سفید تیشن
نیست - معدوم و ناپود - آس شدم زبیداسیاے زمانہ +
نیست گشتیم زپس جفاہاے زمانہ -
نیمدست - وہ مسند جو چھوٹی ہو - اوحدالدین انوری -
دست آفت بدو چگونہ رسد + کرد و نیمدست و مسند رست -
نیم راست - ایک پردہ موسیقی کا نام ہی - میر خسرو - گفتی از
قول اگر قوال راست + گفت گے راست گہے نیم راست -
نیم سفت - سخن سربستہ نا تمام اور گوہر جو پورا پرویا نہ گیا ہو -
نیم پیچ - وہ حقہ جو چاندی اور لوہے کے تارون سے بناتے ہین
محسن تاثیر - لبکہ پیچیدہ نیشکر از بالائش + نے پیچ است کنون
پیش قد رعنائیش -
نیم تاج - ایک تاج دیبا سے بناتے ہین اور جواہر کے ساتھ
مرصع کرکے عروس کے سر پر رکھتے ہین - ناظم ہروی - مرصع
نیم تاجے بر سرش بود + کہ ماہ نو کلاہ زر کرش بود -
نیم چرخ - ایک قسم کی کمان کا نام ہی کہ تختہ مین بنائی جاتی ہی -

انوری۔ اے بجائے کہ از علو بنگند + نیم چرخ تو چرخ را از دست۔

نیم رخ۔ تصویر یک چشمی۔

نیازمند۔ محتاج و صاحب نیاز۔

نیم خند۔ تبسم کی حالت میں۔ صائب۔ روزے کہ لبشہ دید لب ہاچو قند او + شد خندہ زہر در دہن نیم خند او۔

نیم خورد۔ آدھا کھایا ہوا۔ صائب۔ ہمچو آب زندگانی نیم خورد خضر نیست + مہر مہر شرم باشد غنچہ خندان تو۔

نے سوار۔ بانس کی لکڑی کا گھوڑا بنا کر اور اُسپر چڑھکر خورد سال لڑکے دوڑتے ہیں۔ صائب۔ زہا چشتک ز خاطرم ہرگز غبارے بر ندا شت + مرکب نے بار شد بہ نے سوار خویشتن۔

نیشتر زنبور۔ زنبور کا نیش۔ عرفی۔ بسکہ ہر خار رگ کی کرد و عجب نیست اگر + با ہمیرہ پشتگذرا ز نشتر زنبور نسل۔

نیک محضر۔ نیک خصلت جو روبرو اور غیبت میں یکسان ہو۔ میر معزی۔ پیش تو درد و ستاری محضری آوردہ ام + تا چو خوانی محضرم دانی نکو محضر مرا۔

نیمدار۔ وہ فرش جو نہ نیا ہو اور نہ پرانا۔ محمد سعید اشرف۔ افگندہ طرح خرمی از سایہ ہائے نیم + دامان دشت ساختہ نو فرش نیمدار۔

نیمہ دینار۔ نیم دینار۔ نیم ہلال۔ محبوب کے لب کے ساتھ تشبیہ دیجاتی ہے۔ میر حسن دہلوی۔ از دہانت نیم دینارے بہ بخشش + دو اجیب آمد کنج خوبی راز کوہ۔ خاقانی۔ آورد ضرار عید پیدا + کان نیم ہلال کردہ گویا۔

نیک آموز۔ واعظ نصیحت دینے والا۔ جلال عضد۔ ہر کرا گوشی بود سوفوضہ پیغام بلا + کے تواند گوش کردن پند نیک آموز خویش۔

نیم باز۔ جو چیز آدھی کھلی اور آدھی بند ہو مثلاً آنکھ وغیرہ۔ طالب آملی۔ مخمور سے بگوشہ بالین نہادہ لیک + می ہیرادوار فرشہ نیم باز او۔

نیم سوز۔ جو چیز نصف جل چکی ہو۔ رضی دانش۔ مینا چو نیمہ کشد نفرسایند نسیم بہرو زہ + تا صبح دم وفا نکند شمع نیم سوز۔

نے نرگس۔ نرگس کا قلم۔ محمد اسحاق شوکت۔ بود خندہ بدن گل بلبل چاک گریبانش + نے نرگس لفریاد آید از بیداد مژگانش۔

نیمرس۔ شراب اور میوہ اور سبزہ اور وہ مرغ جسکے پر بخوبی نہ نکلے ہوں وغیرہ۔ میرزا طاہر وحید۔ بخون خویش زنم غوطہ گر کنم پرواز + چو طائرے کہ پر و بال نیمرس دارد۔

نیک اندیش۔ نیک آثار۔ نیک اختر۔ نیک بخت۔ نیکی پسند۔ نیک پے۔ نیکو خصال۔ نیکو خواہ۔ نیک دل۔ نیک رائے۔

نیکو رسم۔ نیک روز۔ نیکو سخن۔ نیک سرانجام۔ نیک سرشت۔ نیکو سگال۔ نیک سودا۔ نیکو سیر۔ نیکو سیرت۔ نیک عہد۔ نیکو فال۔ نیکو کار۔ نیک نام۔ نیک نہاد۔ نیکو ہمت۔ سب کے معانی قریب الفہم ہیں۔ جمال الدین سلمان۔ نیک اختری بمنزل قدرت رسد کہ او + یا بد زقدر وصدر شرف القصال یافت سعد زلفتو سے چراغ عمل بر فروز + کہ چون نیک بختان شوی نیک روز۔ صائب۔ چون نگردد سپر در میدان جان بازان عشق + نیست خضر نیک پے گر شرمسار زندگی۔ نظامی۔ در آمد بر شاہ نیکو خصال + بنالید مانند کوس از دوال۔ میر معزی۔ سال نو چون باز فرخندہ نو آمد شاہ را + شاہ نیکو عہد نیکو رسم نیکو خواہ را۔ و لہ۔ آن کامگار محتشم نیکو خصال نیک دل + شادی بطبعش متصل راوی بدستش مقترن + نظامی۔ نکو رائے چون رائے را بد کند + خرابی در آبادی خود کند۔ جمال الدین سلمان۔ قرب سی سال بہ نیکو سخنی در عالم شدہ مشہور و شدم جاہل بد گوامسال۔ مرشد قلی بیگ حاکم ہرات ہر کرا خواہ بجہان نیک سرانجام افتد + باید اندر قدم آن بت خودکام افتد۔ رضی دانش۔ متاع ہوش ببازار گرم گل برسان + در انتظار نشستست نیک سودائی۔ سعدی۔ نکو سیرت و پارسا بودمی + گر آنہا کہ می گفتمی کردمی۔ نظامی۔ کجا بودی اے دولت نیک عہد + بدرگاہ مہدی فرود آ ز مہد۔ سعدی۔ قدیم نکوکار نیکی پسند + بہ کلک قضا در رحم نقش بند۔ حافظ۔ حافظ نہاد نیک تو کامت برآورد + جانم فدائی مردم نیکو نہاد باد۔

نیل داغ۔ سیاہی داغ کی۔ آبرو۔ دردمند آن بہ کہ سوزد داغ بر بالائے داغ + بے زمین نیل داغم لالہ کارے مشکل ست۔

نیم ترک۔ خود جو سپاہی جنگ کے وقت سر پر رکھتا ہے۔

نیم رنگ۔ وہ جو پورا رنگ نہو۔

نیم بسمل۔ نیم کشت۔ تڑپتا ہوا زخمی نیم مردہ۔ س۔ می تپید و ر تاب و تب میغلطد اندر خاک و خون + ہر کرا تیغ نگاہت نیم بسمل میکند۔ محمد قلی سلیم۔ چون نیم کشت ناز شوم زان نگاہ گرم + ذوق تبسم نمکین می کشد مرا۔

نیمہ قندیل۔ ہلال یعنی نیا چاند۔ خاقانی۔ نیمہ قندیل عیسے بود با محراب روح + یا مثال طوق اسپ شاہ صفدر ساختہ۔

نیم ہلال۔ معشوق کا لب۔

نے قلم۔ نیزہ قلم۔ نے کلک۔ قلم جس سے لکھتے ہیں۔ مفید بلخی

سفید مرغ گرفتار گلشن سخنم + درین چمن قفسم از نئے قلم باشد -
ولہ - شعر رنگین لفوج اہل سخن + علم نیزۂ قلم باشد -

نیلوفری چشم - جو آدمی کبود چشم ہو - صائب - مرا فگند در
دریائے غم نیلوفری چشمی + کہ چون خورشید عالم سوز زرین ست مژگانش

نیم تسلیم - ناف تک ہاتھ پہونچانا خم ہونا واسطے سلام کے
نیم تسلیم ہو اور زمین تک ہاتھ پہونچانا پوری تسلیم -

نیم غنچہ تبسم - مسکرانا - طالب آملی - حاشا کہ در لب ما دل دردی
جو ملود + ذوقی کہ نیم غنچہ تبسم ورا ولود -

نے انبان - نام ایک ساز کا ہے - فوقی یزدی - گاہ بشیم گاہ زیر و بم
گاہ صوفی گاہ مست + گاہ سرنائے لوازم گہ نے انبان بیزم

نیزار و نیستان - بانسون کا جنگل - اراوت خان - نیست
انگشت شہادت از شہیدان نگاہ + دشت نے زار شد از بسکہ خدنگی برخاست

نیابت کردن - قائم مقام ہونا دوسرے شخص کی جگہ کام کرنا -
طالب آملی - چنان بکار ہوا تیرہ ساخت آب زلال + کہ قطرہ
بر لب جو میکند نیابت خال -

نیزہ دوانیدن - مشہور ہے - میر خسرو - مین شہاب فلک و نیزہ
دوانیدن او + کہ شد اندر شب تار از مہ نو حلقہ ربائے -

نیزہ را پیچ دادن - نیزہ کو پیچ دینا - نظامی - درآورد در جنگ
زنگی بپیچ + بزنگی کشی نیزہ را داد پیچ -

نیزہ زن - نیزہ باز - نیزہ بردار - نیزہ دار - نیزہ گذار -
نیزہ ور - ہر ایک معانی قریب الفہم ہیں - کمال خجند - در قلب
نیزہ بازی مژگان آن پری + خونریزان و چشم نظر باز م آرزوست
شفیع اثر - اگر دارد سر خود منگذاری + کند بانند مالک نیزہ دارے -
جمال الدین سلمان - ماہ قلب افروز لیعنے آفتاب تیغ زن + برق
جوشن پوش لیعنے آسمان نیزہ ور -

نیکی کردن و در آب انداختن - معاوضہ کی امید نرکھکر کسیکے ساتھ
نیکی کرنا - صائب - میکند نیکی و در آب روان می افگند + ہر کہ
نقد جان نثار تیغ قاتل میکند -

نیل بزبان رفتن - نیل کے خم کا بگڑجانا اور مشہور ہے کہ جب نیلگر کا
خم بگڑجاتا ہے تو وہ کسی غیر ممکن الوقوع امر کا اشتہار دیتا ہے - نظام
دست غیب - حرف وصل من و تو میگویند + بزبان رفتہ مگر نیل فلک -

نیل بر چہرہ مالیدن - روسیاہ کرنا رحمت سے محروم رکھنا - در د
واالہروی - قریب تو بچہرۂ عزازیل + مالید سپہر کہ سجدہ نیل -

نیم تن - نیم تنہ - وہ جامہ جسکا دامن اور آستینین کوتاہ ہیں - لطفا ی
نیم تنے تا سر زانوش ہست + از پے آن بر سر زانو نشست -

نیم تہ کردن - کسیکو کمر سے پکڑکر دوہرا کردینا - عبد الله ہاتفی - یکے نیم
تہ کردہ قصاب دار + بسے فوج جنگی دران کار زار -

نیم جان - نیم مردہ نہ مرا ہوا نہ زندہ - طاہر وحید - مسیح فاتحہ خوان ست
نیم جان ترا مرو است دادن جان رنج ناتوان ترا -

نیم زبان - کم گو آدمی جو بہت سی باتین نکرے - باقر کاشی - گرچہ
روے سخن امروز سراسر با ماست + ماز کم حوصلگی نیم زبانیم ہمہ -

نیمرو - وہ گوہر جو ایک گول اور دوسری طرف مستوی ہو - سید حسین
خالص - حق القدم گرفت گہرہائے نیمرو + پائے کسے کہ آبلہ زد در سراغ ما -

نیم عرق گیری - نیم گلاب کشی - [illegible]

طاہر وحید - چو نیم ہائے عرق گیری ازین دو + نفس باشد ابکار نیم گرم لوفو
ولہ - چون نیم گلاب کشی گشت اشکبار + آہم بلب ز گریہ کرد حلق من گرفت -

نے قلیانی نے تنباکو - تماکو کھینچنے کا نیچہ - محسن تاثیر - نا صبح نہ ساز
چون نے قلیان نفس پرداز + تا چند تلخ گویدو تا کے فرو برم - محمد قلی
سلیم - عہد لیست کہ انگشت تحیر شدہ است + آشنائے ہمہ لب نیچو نے تنباکو -

نیچہ عیاری - وہ نے جسمین عیار دوا و بیہوشی کا بھر دیتے ہین جسکو
بیہوش کرنا چاہتے ہین اسکو سنگھا دیتے ہین - سعید اشرف -
نے کہ از شور نوالیش عالمی بیدست و پاست + نیچہ عیاری بیہوشی اروے لوست

نیاز یا شی - بہت ساعجز و نیاز کرنا - محسن تاثیر - یا ساز نیاز یا شی یا
ناز میکند + این لبس میان اہل نیاز امتیاز ما -

نیزہ خطی - سنان خطی - ایک قسم کے نیزہ کا نام ہے جو خط مین بنایا
جاتا ہے اور خط یمامہ مین ایک مقام ہے - طالب آملی - نیزۂ خطی بدست
او کند + با دل دشمن زبان اندر دہان - سعید اشرف - گشت چون
نام نکویت گفتہ ام عالم نورد + چون سنان خطیت شد خامہ ام گیتی ستان -

نیستی - مقابل ہستی بہ یائے معروف اور بہ یائے مجہول نہونا - جمال الدین
سلمان - ہر لو گر نیستی سرا جہان + چرخ گرد جہان نگردیدی -

نیک را نیکی و بد را بدی - مثل ہے -

چوتھی فصل

اردو اصطلاحون وجہاوروں کے ذکر مین

نون با الف

نا آشنا - نا واقف انجان ، ورکیا جمیکا - قطعہ از مولف - ایسی ایسی

ہوائے روزگار ہو گئے ہیں عقرب اپنے اقربا + دوست تھے جتنے وہ دشمن بن گئے + آشنا سارے ہوئے ناآشنا۔

ناچاقی ہونا۔ بگاڑ اور بیر ہو جانا۔

ناچ نچا لوں آنگن ٹیڑھا۔ ناچنے کا وقوف نہیں الزام مکان پر دیتا ہے۔

ناچ نچانا۔ حیران و پریشان کرنا ستانا۔ دوہا۔ بھوک منگا دے بھیک کو بھوک ہی سیس لوائے + بھوک کرائے چوریاں بھوک ہی ناچ نچا۔

ناخلف اٹھنا۔ پیدا ہونا۔ نالائق اولاد ہونا کپوت پیدا ہونا۔

ناخن لینا۔ ناخن تراشنا کاٹنا گھوڑے کا ٹھوکر کھانا۔

ناداری آنا۔ مفلس ہونا کنگال ہونا۔

ناڑا چھوٹ کرنا۔ پیشاب کرنا۔

ناڑا کھولنا۔ جماع کرنا۔

نارنیچی کرنا۔ سر جھکانا گردن خم کرنا۔

ناڑی چھوٹنا۔ نبض غائب ہو جانا دم نکل جانا سست ہونا۔

ناڑی نبولنا۔ نبض کا حرکت نکرنا۔

ناز اٹھانا۔ کسیکے ناز نخرے کی برداشت کرنا۔

ناز کرنا۔ فخر کرنا نازاں ہونا۔

نازک مزاج۔ نازک دماغ ہونا کسیکی بات سننے کی طاقت نرکھنا

ناسازگار ہونا۔ ناموافق و نامطبوع ہونا۔

ناس کر دینا۔ کھو دینا بگاڑ دینا خراب کر دینا۔

ناشتا کرنا۔ صبح کو کچھ کھا لینا۔

ناف ٹلنا۔ ناف پڑ جانا۔

ناک آنا۔ ناک سے ریزش گرنا۔

ناک بھوں چڑھانا سمیٹنا۔ ناراض ہونا آزردہ خاطر ہونا ناسخ میں گیا جب اسکے گھر ایسی چڑھالی ناک بھوں + ہو نہ ممسک کی یہ صورت روے سایل دیکھکر۔

ناک پر انگلی رکھکر بات کرنا۔ یہ عادت اکثر عورات کی ہے۔

ناک پر تنکا رکھدینا۔ کسی کا دینا نے العفو ادا کر دینا۔ راحت پیچھے کچھ لیتی ہوں رکھدیتی ہوں پہلے ناک پر + بی کسی بھڑوے کا بندی پر تنکا آتا نہیں۔

ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا۔ کسی کا احسانمند نہونا احسان کا بار نہ اٹھا سکنا

ناک چڑھانا۔ رنجیدگی ظاہر کرنا نفرت کرنا۔

ناک چنے چبوانا۔ نہایت تنگ کرنا دق کرنا۔

ناک چوٹی میں گرفتار ہونا۔ اپنی عزت کی فکر میں رہنا یہ مقولہ عورات کا ہے

ناک رکھلینا۔ عزت رکھلینا آبرو بچانا۔

ناک رگڑنا۔ گھسنا نہایت منت کرنا۔

ناک کاٹ چوتڑوں تلے رکھنا۔ بے شرم و بے عزت ہو جانا آبرو کا پاس نکرنا۔

ناک کاٹنا۔ بے آبرو کرنا۔

ناک کٹنا۔ بے آبرو ہونا۔

ناک میں بولنا۔ ناک میں سے آواز نکالکر بولنا۔

ناک میں دم کرنا۔ تنگ کرنا ستانا۔

ناک میں تیر ڈالنا۔ ازحد دق کرنا۔

ناک میں دم ہونا۔ تنگ و عاجز ہونا۔ ذوق۔ ہے نکہت ریحان کا دماغ اب کسی کو چمن + ہوتا ہے میرا ناک میں دم اور زیادہ +

ناکند بچھیرا۔ وہ گھوڑا جسپر سواری نہوئی ہو۔

ناک نہ دیا جانا۔ نہایت بدبو ہونا۔

ناک والا۔ صاحب عزت۔

ناکوں ناک بھر دینا۔ بالکل بھر دینا لبالب کر دینا۔

ناکوں ناک پیٹ بھر لینا۔ سیر ہو کر کھانا۔

ناکے میں اونٹ نکالنا۔ سوئی کے ناکے میں سے تاگا نکالنا تنگ اور دق کرنا۔

ناگ کالا کھلانا۔ کالے سانپ کو کھلانا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا کوئی خطرناک کام کرنا۔

نال گاڑا جانا۔ نوپیدا بچہ کا نال زمین میں گاڑا جانا۔

نام اٹھنا۔ مہر کا نقش اچھی طرح سے کاغذ پر آجانا۔ برق میں ہوں وہ سوختہ افتادہ کہ جب مہر ہوئی ہے داغ کاغذ کو لگا نام نہ میرا اٹھا۔

نام اچھلنا۔ برائی کے ساتھ نام مشہور ہونا۔

نام بد ہونا۔ بدنام ہونا۔ یار علی۔ میرا کیا نام بد ہوگا وہ خود بدکار ہی روشن + دیا ہے رنج مجھکو جب گلا کرتی ہوں راحت کا۔

نام پانا۔ نیکنامی حاصل کرنا۔

نام پر جان دینا۔ نیکنامی کے لیے نہایت کوشش کرنا۔

نام چلنا۔ نام باقی رہنا۔

نام خدا۔ یہ کلمہ حصول برکت اور قسم کے واسطے بولا جاتا ہے جرأت تنگ منہ دھر کو کیجیو قربان جاؤں ہائے + کیا ہی پیارا نام خدا آپ پر ہے آج۔

نام دھرنا۔ نام رکھنے والا باپ نہ رگ۔

نام دھرنا۔ رکھنا۔ موسوم کرنا کسی نام سے بچہ کا کسی کو عیب لگانا

ڈھولی ڈالنا۔ سپرد جو تیرے کے لب سے کام رکھتے ہیں + ہمیں کو وہ نام رکھتے ہیں۔

نام ڈبونا۔ اپنے آپکو بدنام اور رسوا کرنا۔ ہجر۔ خدا کے فضل سے اسکو بھی آج رو بیٹھے + رہی تھی نام ڈبونے کو آبرو باقی۔ جلال۔ بہانہ ڈھونڈھتی تھی چشم تر جدائی کا + اسے تو نام ڈبونا تھا آشنائی کا۔

نام روشن ہونا۔ خوبی کے ساتھ مشہور ہونا۔ یار علی۔ جان حبیب تو رہے جم سلامت سچ تو ہی + نام روشن ہو گیا میرا تیرے اقبال سے

نام زد کرنا۔ منسوب کرنا نام نہاد کرنا مقرر کرنا مشہور کرنا۔

نام کرنا۔ شہرت حاصل کرنا۔

نام لگ جانا۔ الزام لگ جانا۔

نام لیکر مانگ کھانا۔ بزرگون کے نام سے مانگ کر گذارہ کرنا۔

نام لینا۔ یاد کرنا ذکر کرنا الزام دینا۔

نام لیوا۔ مرید بیٹا وارث۔

نام نکالنا۔ برائی یا بھلائی کے ساتھ مشہور ہونا۔

نام ہونا۔ شہرت ہونا مشہوری ہونا۔ شیفتہ۔ ہم طالب شہرت ہین ہمین ننگ سے کیا کام + بدنام اگر ہونگے تو کیا نام نہوگا۔

ناگر کرنا۔ نہین کرنا انکار کرنا۔

نانی یاد آنا۔ محنت کے کام مین گھبرا جانا۔

ناؤ مین خاک اڑانا۔ تہمت دھرنا جھوٹ بولنا۔

نازک وقت۔ جوکھون یا خطرے کا وقت آزمائش اور معرکہ کا وقت۔

نابلد۔ ناواقف گنوار اجڈ۔

نابکار۔ نکما آدمی۔

ناک کا بال۔ کسیکا نہایت مقرب اور مصاحب۔

ناخن مین پڑے ہین۔ یعنے تمھارے جیسے میرے ناخن مین پڑے ہین جسطرح میل ناخن مین ہوتی ہی تمکو مین کچھ چیز نہین سمجھتا۔

نازک معاملہ۔ ٹیڑھی بات مشکل امر۔

نادرشاہی ہی۔ لوٹ اور ظلم کا زمانہ ہی۔

ناک پر پہیا پھر گیا ہی۔ چپٹی ناک ہی یہ جملہ بطور پھبتی کے بولا جاتا ہی۔

ناؤ خشکی مین نہین چلتی۔ خرچ کیے بغیر کام نہین نکلتا۔ برق ضروری ہی دریا دلی بہر نام + کبھی ناؤ خشکی مین چلتی نہین۔

ناؤ کسنے ڈبوئی خضر نے۔ یعنے جو شخص اپنا حامی و مددگار تھا اسی کی شرارت سے کام خراب ہوا۔ ذوق۔ وہ مثل ہی ناؤ یہ کسنے ڈبوئی خضر نے لے گیا خط ذوقِ دلکو سوئے گرداب کھینچ۔

نون با بائے

نبضین چھٹ جانا۔ چھوٹ جانا مضطرب و بیقرار ہو جانا قریب مرگ کے ہو جانا۔ جرات۔ احوال کچھ نہ پوچھو کہ کل نبض پر مری + رکھتے ہی ہاتھ چھٹ گئین نبضین طبیب کی۔

نون با تائے

نت نیا۔ ہمیشہ نیا ہر روز نیا۔ جرات۔ قیس اور فرہاد کو اسنے دکھا دشت و کوہ + عشق ہمکو نت نیا اک کام فرماتا رہا۔

نتھنون مین تیر دینا۔ نہایت تکلیف دینا دق کرنا۔

نتھنون مین دم کرنا۔ جان بلب کر دینا۔

نتھنی اترنا۔ نتھلی اترنا۔ خاوند مر جانا عورت کا بیوہ ہونا۔

نتھنے پھلانا۔ غضبناک ہونا غصہ مین آنا۔

نٹ کھٹی کرنا۔ شوخی و شرارت کرنا دغابازی کرنا۔

نٹ کھٹ۔ عیار شوخ شریر دغاباز۔ میر۔ کیا لڑکے دلی کے ہین عیار اور نٹ کھٹ + دل لیں ہین یون کہ ہرگز ہوتی نہین ہی آہٹ۔

نون با جیم

نچا مارنا۔ دق کرنا ستانا تکلیف دینا۔

نون با خائے

نخاس پر بھیجنا۔ چارپائی کو فروخت کے لیے بازار بھیجنا۔

نخرہ بگھارنا۔ نخرہ تلا کرنا۔ فریب کرنا بہانہ کرنا حیلہ گری کرنا اترانا۔ شوق۔ جیتے رہیے کہ اسمین مریے آپ + نخرہ تلا ذرا نہ کریے آپ۔

نخاس والیان۔ رنڈیان فاحشہ پیشہ دار عورتین۔

نخاس کی گھوڑی۔ فاحشہ بدکار عورت۔

نون با دال

ندڑ ہونا۔ بیخوف اور بیباک ہونا۔

نون با ذال

نذر دینا۔ نذر گذارنا۔ نذر کرنا۔ کوئی چیز یا زر نقد کسی کے آگے پیشکش کرنا چڑھانا بھیٹ کرنا رشوت دینا۔

نون با رائے

نرغے مین آ جانا۔ کسی بلا یا مصیبت مین پھنس جانا۔

نرم گرم اٹھانا۔ سخت سست بری بھلی بات سہنا۔

نون با زائے

نزدیک جانا۔ پاس جانا مباشرت کرنا۔

نون با سین

نسبت ہونا۔ سنگتی یا سگائی ہوجانا۔
نس پھڑک جانا۔ کسی رگ میں صدمہ پہونچنا۔
نسخہ باندھنا۔ عطار کا نسخہ کی دوائیوں کو پڑیا میں باندھکر دینا۔
نس کٹا۔ مخنث خوجہ ہیجڑا۔
نسبتی بھائی۔ بہنوئی یا سالا۔

نون با شین

نشہ پانی کرانا۔ بھنگ پوست پلانا رشوت دینا۔
نشہ پانی کرنا۔ بھنگ پینا پوست وغیرہ پینا۔
نشہ کرکرا ہونا۔ عیش میں خلل پڑنا۔
نشانہ بنانا۔ تیر یا بندوق کی گولی مارنا۔ ذوق۔ پہلے نشانہ کرتا وہ بندوق کا مجھے + پر ہمارے نصیب سے توڑا اچھا ہوا۔
نشانہ ہونا۔ تیر یا بندوق سے مارا جانا۔
نشہ ہرن ہوجانا۔ نشہ اتر جانا ہوش میں آجانا۔ جگر۔ چشم جانان وہ بلا ہے جو شرابی دیکھلے + نشہ ہوجائے ہرن آنکھ خماری ہوجائے۔
نشہ میں چور ہونا۔ مست اور بدہوش ہوجانا۔ ۵۔ جو محبت کے نشہ میں چور ہے + کیا کرے بے بس ہے اور معذور ہے۔
نشیلی آنکھیں۔ مست لال لال آنکھیں۔ ناسخ۔ آگئیں یاد جو رونے میں نشیلی آنکھیں + اشک ٹپکے میری آنکھوں سے سیہ لال پہ پیہ نشہ کے ہو ڈورے۔ آنکھ کی وہ سرخی جو شراب کے نشہ میں پیدا ہوجاتی ہے۔ ناسخ۔ نشہ کے نہیں یہ لال ڈورے + ہین جائے دلکو جال آنکھیں۔

نون با صاد مہملہ

نصیب پھوٹ جانا۔ بدقسمتی کا ظہور ہونا بھاگ پھوٹنا برے دن آنا۔
نصیب لڑجانا۔ قسمت لڑنا کسی کام کے درستی کے لیے نیک موقع ہوجانا۔
نصیب پھرنا۔ طالع جاگنا بخت کھل جانا۔ یار علی۔ بی بی باندی بن گئی اور باندی بی بی بنگئی + پیٹ رہنے سے زنانے کیا نصیبہ پھر گیا۔ داغ۔ مکین سے ہر مکان کے زیب ہے گو قید خانہ ہو + نصیبہ کھل گیا تھا حضرت یوسف سے زندان کا۔

نون با ظائے معجمہ

نظارہ کرنا۔ نظارہ مارنا + البیلے پن سے دیکھنا ترچھی نگاہ سے دیکھنا۔
نظر اتارنا۔ نظر بد کا دفعیہ کرنا صدقہ دینا۔
نظر انداز کرنا۔ نامنظور و ناپسند کرنا۔
نظر بچانا۔ آنکھ بچانا اغماض کرنا۔

نظر بند رکھنا۔ قید رکھنا حوالات میں رکھنا۔
نظر بھر کر دیکھنا۔ توجہ کی نگاہ سے دیکھنا۔
نظر پہ چڑھنا۔ نگاہ میں بھلا معلوم ہونا۔
نظر پڑجانا۔ دکھائی دیجانا ملاقات ہونا۔
نظر پھسلنا۔ نگاہ نہ ٹھہرنا۔ آتش۔ صفائی آئینہ کی چہرۂ شفاف رکھتا ہے + پھسلتی ہیں نگاہیں یار کے رخسار پر کیا کیا۔
نظر پھینکنا۔ ادھر ادھر دیکھنا۔
نظر جلانا۔ توے کی سیاہی سے کپڑے کو کالا کرکے آنکھوں کے مریض کے روبرو جلانا کہ چشم بد کا اثر جاتا رہے چھوت جھاڑنا۔
نظر جمنا۔ کسی پر نگاہ ٹھہرنا۔
نظر جھاڑنا۔ چھوت جھاڑنا۔
نظر چرانا۔ آنکھ چرانا شرمانا۔
نظر چڑھنا۔ پسند ہونا منظور ہونا۔
نظر ڈالنا۔ سرسری طور سے دیکھنا۔
نظر رکھنا۔ خواہش رکھنا چاہنا۔ میر حسن۔ ہمارا گئی بھول خوف و خطر + لگی رکھنے النسان پر تو نظر۔
نظر سے اترنا۔ نظر سے گرنا۔ پہلی سے محبت نہ رہنا بے وقعت ہوجانا۔ ناسخ۔ نہیں چڑھتا ہوں کسیکی بھی نظر پہ ناسخ + یار نظروں سے افسوس میں ایسا اترا۔ داغ۔ آسمان گر گیا نظر سے مری + عرش پر جب ترا دماغ ہوا۔
نظروں سے گرانا۔ بیقدر اور بے توقیر کردینا۔ ۵۔ مدتوں ضبط نے اشک آنکھوں سے ڈھلنے ندیا + پھر جو نظروں سے گرایا تو سنبھلنے ندیا۔ ذوق۔ روش اشک گرا دینگے نظر سے اکدن + اب ہی آنکھوں سے ہی مجھکو سجھائی دیتا۔
نظر سے نظر دو چار ہوجانا۔ آنکھ سے آنکھ ملنا۔ شوق۔ جب نظر سے نظر دو چار ہوئی + ایک برچھی جگر کے پار ہوئی۔
نظر سے نکل جانا۔ آنکھوں سے گذر جانا دیکھا جانا۔
نظر کھاجانا۔ نظر لگنا۔ بد نظر کا اثر ہوجانا۔ نظیر۔ مجھے ہے ڈر کسیکی نظر نہ کھا جائے + پھر نہ تم کھلے بالوں سے جان لوٹے پر۔ غالب۔ کہیں نظر نہ لگے انکے دست و بازو کو + یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔
نظر میں کھٹکنا۔ آنکھوں میں کھٹکنا منظور ہونا۔ میر۔ تیری پلکیں چبھتی نظر میں بھی ہیں + یہ کانٹے کھٹکتے جگر میں بھی ہیں۔

نظروں میں سمانا - آنکھوں میں سمانا پیارا لگنا - ؎ - وہ نہیں آیا نظر تو نظر آیا پھر گیا + وہ نہ نظروں میں سمایا تو سمایا پھر گیا -
نظروں میں رکھنا - نگاہ میں رکھنا - ؎ - جگہ دیتے ہیں ہم پہلو میں اپنے دلبر کو + جو منظور نظر ہے اسکو ہم نظروں میں رکھتے ہیں -
نظر ہو جانا - کسیکی نظر لگ جانا -
نظر باز - دور سے پہچان لینے والا تاڑ جانے والا -

نون با قاف

نقارہ بجاتے پھرنا - ڈونڈی پیٹتے پھرنا -
نقارہ ہو جانا - پیٹ ابھر جانا -
نقش بٹھلانا - سکہ بٹھلانا قایم کرنا -
نقش بیٹھنا - اثر ہو جانا قایم ہو جانا - غالب - اسکی بزم آرائیان سنکر دل رنجور یان + مثل نقش مدعائے غیر بیٹھا جاے ہے -
نقش دیوار بن جانا - ہو جانا بے حس و حرکت ہو جانا سکتے عالم میں ہو جانا -
نقش کالحجر ہو جانا - پتھر کی لکیر ہو جانا گہرا نقش پڑ جانا -
نقشہ کھینچنا - جمانا - کسی چیز کا ڈھانچ ڈالنا خاکہ اتارنا بنیاد جمانا -
نقل مکان کرنا - ایک مکان سے دوسرے میں جانا - مولف - بندگان زندہ دل مرتے نہیں + صرف کرلیتے ہیں وہ نقل مکان -
نقارہ کی چوٹ - علانیہ کھلم کھلا سب کے روبرو -
نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے - امیروں اور دولتمندوں کی مجلس میں غریب اور مفلس کی بات کون سنتا ہے -

نون با کاف

نکتوڑے توڑنا - نکتوڑے کرنا - نک نک کرنا - نخرہ کرنا ناک بھوں چڑھانا -
نکل پڑنا - اندازے سے باہر ہو جانا بگڑ جانا -
نکل جانا - بھاگ جانا پھٹ جانا جان نکل جانا گذر جانا حد سے باہر ہو جانا -
نکل چلنا - گستاخ ہو جانا پر پرزے نکالنا آگے بڑھ جانا - مصحفی - مت تیری طرف سے صبا کہیو میرے یوسف سے + نکل چلی ہے بہت پیرہن سے بو تیری
نکو بنانا - کرنا - بے عزت مشہور کرنا -
نگاہ اٹھاکر نہ دیکھنا - آنکھ اٹھاکر نہ دیکھنا -
نگاہ پھیرنا - بے لحاظ و بدید ہونا -
نگاہ کرنا - نظر کرنا دیکھنا -
نگاہ لڑانا - آنکھیں لڑانا عاشقانہ نظر سے دیکھنا -
نگاہ ملانا - چار آنکھیں کرنا -
نگاہ میں رکھنا - نظر میں رکھنا -
نگوڑا ناٹھا - مجرد بے خانمان لچا بدمعاش بدچلن -
ناکھڑی سک ٹک - سر سے پاؤں تک -
نکسیر بھی نہیں پھوٹی - چھلی - ناک سے خود بخود خون نہیں نکلا -
نکلے ہوے دانت پھر نہیں بیٹھتے - ظاہر ہوی بات پھر نہیں چھپ سکتی -
نکھنڈ آدھی رات ہے - پوری آدھی رات ہے -
نکیل ہاتھ میں ہے - مہار اسکی اسکے ہاتھ میں ہے کامل اختیار رکھتا ہے -

نون با لام

نلی ٹل جانا - ناف ٹل جانا اڑنگ بڑنگ ہو جانا -

نون با میم

نماز لگا لگا - وہ خبر جو ملے بغیر تر سے فعل بد کی سزا کسی شوخ لڑکے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوے ٹانگ پکڑکر گرا دیا نمازی نے ایک لگا اسکو دیدیا دوسرے روز لڑکے نے ایک اور شخص کی ٹانگ کھینچکر گرایا اسنے لڑکے کو ایسا مارا کہ تمام عمر کے لیے کافی ہو گئی -
نمدا بندھ جانا - دوالہ نکل جانا مفلس ہو جانا -
نمدا بندھوا دینا - غریب و مفلس کر دینا -
نمک چشی کرنا - کھانیکا ذائقہ معلوم کرنا -
نمک حلالی کرنا - اپنے مالک کی خیرخواہی کرنا -
نمک مرچ لگانا - مزے دار کرنا ذائقہ بڑھانا بات کو بڑھانا حاشیہ چڑھانا -
نموہا ہونا - کم گو ہونا بے زبان ہونا -
نمدا بھیجو - لعنت بھیجو جانے دو ذکر نکرو -

نون با نون

ننھا کاتنا - باریک سوت کاتنا -
ننانوے کے پھیر میں آجانا - سو پورا کرنے کی فکر میں پڑ جانا -
ننگا لچا - مفلس و بے اعتبار -
ننگی تلوار - بیباک اور بیخوف -

نون با واؤ

نوابی کرنا - امیرانہ طور سے رہنا -
نوبت بجنا - باجا بجنا شادی ہونا -

نوتیرہ بائیس بتا دینا۔ ادھر ادھر سے رقومات ملا کر حساب پورا کر دینا۔
نوش فرمانا۔ نوش جان کرنا۔ کھانا پینا۔
نوک جھوک ہونا۔ نوکا جھوکی ہونا۔ باہم دو شخصوں کے طنز آمیز باتیں ہونا۔
نوک جھوک کرنا۔ باہم مزاح کرنا۔
نوک دم بھاگنا۔ بے تحاشا بھاگنا۔
نوک زبان کرنا۔ حفظ کرنا یاد کرنا۔
نوک کی لینا۔ اترانا تمکنت کرنا۔ اسیر۔ کبھی جو سامنے تیر کسی نے نوک کی لی + کھٹک گیا مجھے کانٹے کا احتمال ہوا۔
نولکھا ہار پہنا دیگا۔ مالا مال کر دیگا لاکھ کے جواہرات دیگا۔
نونده باره سند هو ہو جانا۔ سلطنت برباد ہو جانا کسی بات کی کمی نہ رہنا۔
نو دولت۔ جسکو نئی دولت حاصل ہوئی ہو۔
نوک پلک سے درست۔ ہر طرح سے ٹھیک درست۔
نوک چوک۔ شوخی شرارت اچپلاہٹ۔ شوق۔ نوک چوک اک جمال سے پیدا + بانکپن چال ڈھال سے پیدا۔
نورکی باتیں۔ انوکھی باتیں۔
نور کے تڑکے۔ نور ظہور کے تڑکے۔ علی الصباح صبح صبح فجر کیوقت۔

نون با ہائے ہوز

نہانا دہینا۔ نیا نا دینا۔ دودھ دینے والی گائے کی پچھلی ٹانگوں کو دودھ دوہتے کیوقت باندھ دینا۔
نہال کرنا۔ امیر بنا دینا خوش و رضا مند کرنا۔ ناسخ۔ رہے وہ گل چمنستان دہر میں شاداب + دکھا کے سرو سا قامت کیا نہال مجھے۔
نہال ہونا۔ امیر بن جانا آسودہ حال ہونا۔ س۔ پڑ لگا صبر عنادل کا باغبان پہ ضرور + درخت چھانٹ کے ظالم نہال کیا ہوگا۔
نہانے کی حاجت ہونا۔ احتلام ہونا خواب میں انزال ہو جانا۔
نہانی ہونا۔ عورت کا حیض سے ہونا۔
نہنگ لاڈلا۔ ابتر ناشایستہ بےحیا لڑکا۔
نہورا ماننا۔ احسانمند ہونا ممنون ہونا۔
نہ نگلے بنتی ہے نہ اگلے۔ ہر طرح سے خرابی ہے نہ راہ رفتن نہ روئے ماندن۔

نون با یائے

نیا پرانا ہونا۔ بہت مدت کا ہونا۔
نیا راجہ یا نواب ہونا۔ نئی دولت حاصل ہونا۔
نیار بھوانس کرنا۔ مویشی کا چارہ تیار کرنا۔

نیار یا بن کرنا۔ مٹی سے چاندی نکالنا۔
نیاز حاصل کرنا۔ ملاقات کرنا۔
نیا کرنا۔ پہلے پہل کوئی نیا پھل کھانا۔
نیچا اونچا دیکھنا۔ غور سے کسی کو دیکھنا۔
نیچا پڑنا۔ مغلوب ہو جانا خجل ہونا۔
نیچا دکھانا۔ بےعزتی کرنا بےآبرو کرنا۔
نیر ون پانی چڑھ جانا۔ کسی مصیبت کا بڑھ جانا فساد پھیل جانا۔
نیلا پیلا ہونا۔ غضب میں آنا۔ جرأت۔ کل تلک جو گھر تھا بنا گھر سو آ سکے در پر آج + نیلا پیلا وہ کیونکر کیا کیا ہمیں دربان ہوا ہے
نیل بگڑنا۔ نیل کا ماٹ بگڑنا۔ چونکہ نیل کے حوض بگڑ جانے پر لوٹکے کے طور پر بے پر کی اڑایا کرتے ہیں از جہہ جھوٹ بولنا جھوٹی باتیں بنانا۔ اسیر۔ باندھی ہے سب نے زیر فلک جھوٹ پر کمر + شاید بگڑ گیا ہے کہیں ماٹ نیل کا۔
نیل ڈھلنا۔ نزع کیوقت آنکھوں سے پانی بہنا۔ مومن۔ کیا رو دوں خیرہ چشمی بخت سیاہ کو + وہاں شغل سرمہ ہے ابھی یہاں نیل ڈھل گیا
نیل کی سلائیاں آنکھوں میں پھیرنا۔ اندھا کرنا۔
نیل گھوٹنا۔ لڑائی مچانا فساد پیدا کرنا۔
نیم ملا۔ جو تھوڑی پڑھا ہوا ہو۔ مثل۔ نیم ملا خطرہ ایمان نیم حکیم خطرہ جان۔
نیم کی ٹہنی ہلانا۔ زخم سے مکھیاں اڑانا آتشک کی بیماری میں مبتلا ہونا۔
نیند اچٹ جانا۔ اڑ جانا۔ بیدار ہونا نیند نہ آنا۔ بحر۔ سوتے سوتے جب پکار اٹھتا ہوں اپنے یار کو + مرقدوں کے سونے والوں کی اچٹ جاتی ہے نیند۔
نیند بھر کے سونا۔ بےفکری کے ساتھ سونا۔ بحر۔ پھولکا کر نگے صور جو نامے اسیطرح + سوئیگا نیند بھر کے نہ عالم تمام رات۔
نیند حرام کرنا۔ سونے نہ دینا۔
نیند کا ماتا۔ نیند کا مستا جسکو سونے کی عادت ہو جرأت۔ رات دن اسکی جو بیخوابی کا مجھکو ہے خیال + تو یہ حالت ہے کہ گویا نیند کا ماتا ہوں میں
نین گنوانا۔ اندھا ہو جانا۔
نیوا ناس کھونا۔ بیخ و بن سے تباہ کرنا۔
نیو جمانا دھرنا۔ ڈالنا۔ بنیاد رکھنا کسی کام کو شروع کرنا۔
نئے بیخ۔ وہ گھوڑا جسکو پانچواں برس شروع ہو۔

سے سر سے - از سر نو شروع سے - جرات - دیکھا اس گل کو تو
شعلہ سا جگر سے چمکا ہ کیا یہ داغ کہین پھر نئے سر سے چمکا -
نئے سر سے جنم لیا ہی - بیماری سے شفا پائی ہو مرکر بچا ہو -

پانچوین فصل

ادویات یعنے لغات متعلق علم طب کے بیانمین

نون با الف

نارکیوا - یہ ایک نبات نیستان اور سایہ دار زمینون مین ہوتی ہی قد آدم بلند زیتون کے سے پتے خیرو جیسا پھول پھل بقدر فندق کے تیز رنگ اور تیز اور اندام طبیعت اسکی گرم خشک محلل ریاح دافع بلغم مصفیٰ جلد محلل اورام

نارنج - مشہور پھل ہی طبیعت اسکی پوست زرد اور شگوفہ کی گرم خشک اور تخم سرد خشک ترشی اسکی دوسرے درجہ سرد پہلے درجہ مین خشک اور تمام اجزا اسکے گرم و خشک کھانا کسی گرم کو مفید ہی پانی اسکا ساتھ شکر کے مسہل صفرا ہی اور مسکن صفرا کی تیزی کا -

نارقیصر - یہ ایک نبات ہی ساق اسکی پتلی اور سرخ زردی مائل پھول زرد اور خوشبو روم سے لاتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک پینا اسکا واسطے تقویت معدہ سرد و تحلیل ریاح و ادرار بول و درد مفاصل مفید ہی -

ناگیسر - ایک درخت عظیم الشان بنگال مین ہوتا ہی بقدر درخت انگور پتی امرود کی سی پھول خوشبو عطر اسکے پھولون اور پھولون کی زردی کا عمدہ ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک پھول اسکا دافع صفرا اور بلغم اور ہر قسم کے زہرون اور ریاح اور بواسیر ہر قسم ہی پیٹ کے کیڑون کو نکالتا ہی چہرہ کے رنگ کو صاف کرتا ہی خون کو صاف کرتا ہی -

ناطف - مشہور چیز ہی جسکو فارسی مین قبیل کہتے ہین عوام ہند مین کمیل مشہور ہی طبیعت اسکی گرم خشک سینہ اور ریہ اور سرفہ اور خلط بلغمی کے موافق مسمن بدن ہی -

نار مشک - شگوفہ ایک نبات کا ہی جو خراسان مین بہت ہی شکل مین مشابہ چھوٹے انار کے جو نہ پھولا ہو طبیعت اسکی گرم خشک ملطف و مرقق اخلاط مانع تحلیل ارواح و صعود بخارات بطرف دماغ دافع مالیخولیا و وسواس ہی -

نارجیل - مشہور چیز ہی جسکے تازہ پھل کو ناریل خشک کو کھوپرا عربی مین جوز ہندی یہ درخت دریاے ہند کے کنارے دکن اور بنگال مین بکثرت ہوتا ہی پھل اسکا خرما کی طرح خوشہ مین ہوتا ہی اور ہر خوشہ مین آٹھ سے اٹھارہ تک پھل ہوتے ہین درخت بھی اسکا درخت خرما سے ملتا ہی پھل اسکا تین پوست رکھتا ہی پانی اور تیل اسکا کار آمد ہی پختہ پھل اسکا لذیذ حلوون مین ڈالا جاتا ہی طبیعت تازہ پھل کی دوسرے درجہ مین گرم پہلے درجہ مین خشک اور پانی پہلے درجہ مین گرم تر مقوی حرارت غریزی مسمن بدن مولد خلط صالح دافع مواد باردہ بلغمی و سوداوی و استرخا و فالج و جنون ہی -

ناروین - یہ ایک جڑ مشابہ مامیران اور معنیٰ کے اور شکل مین مشابہ اسارون بہتر تر اور تازہ اور خوشبو ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک دافع فالج و لقوہ و ادرار بول و حیض محلل اورام رحم ہی سرمہ اسکا پلکون کے بالون کو جماتا ہی اور آبزن اسکے جوشاندہ کا درد گردہ کو دفع کرتا ہی -

ناگخوا - مشہور تخم ہی جسکو ہندی مین اجوائن کہتے ہین مائل بزردی تیز بو تیز مزہ تھوڑا تلخ ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم خشک ساتھ قوت مجففہ تریاقیہ و ملینہ کے ہی پینا اسکا دافع فالج اور رعشہ و استرخا و درد سینہ ہی -

نارجیل بحری - ناریل دریائی مشہور چیز ہی طبیعت اسکی مرکب القوی ہی ساتھ قوت تریاقیت و حفظ قواے بدن کے اور جو ہر ہفتہ مین دو یا ایک مرتبہ مقدار ایک حبہ اسکو ساتھ گلاب کے سنگ سماق پر پیس کر کھائے اکثر امراض سے نجات پائے اور جو مقدار چار پانچ حبہ کے گھسکر صاحب ہیضہ یا شارب زہر کو کھلاوین اور قے کراوین تو مواد فاسدہ سمیہ نکال ڈالتا ہی -

نون با باے

نبیذ - یہ ایک مسکر چیز سواے خمر کے بنائی جاتی ہی اقسام اسکے بہت ہین ہر قسم کے اناج اور میوون سے تیار کی جاتی ہی ہندی مین اسکو بوزہ کہتے ہین انمین سے ایک نبیذ الزبیب جو میوے سے بنائی جاتی ہی اور نبیذ العسل شہد سے اور نبیذ الشکر قند سے اور نبیذ الفواکہ میوون کے پانی سے اور نبیذ التمر کھجور سے اور نبیذ الارز جو چاول کے غلہ سے بناتے ہین خواص انکے الگ الگ ہین -

نون با حاے

نحاس - ایک دھات ہی جسکو فارسی مین مس ہندی مین تانبا کہتے ہین طبیعت اسکی تیسرے درجے گرم اور خشک محلل و محرق ساتھ قوت مدملہ اور قابضہ کے اگر اسکو سرکے مین بھگو رکھین اور اسمین شہد خمیر کرکے ضماد کرین تو نزلات اور کھانسی کو دفع کرتا ہی سرمہ لگانا اس سے باعث تیزی نظر کا ہی پینا محلول اسکا ساتھ ماء العسل مسہل زرد پانی کا ہی استسقا کے ابتدا مین اور لیپا ہوا پینا اسکا قے

اُتاتا ہی اور انپیون کے زہر کو نکالتا ہی۔

نحل۔ مگس شہد یعنے شہد کی مکھی طبیعت اسکی گرم اور خشک ہی اسکے بچے کو جو ہنوز پر نہ نکالے ہون سایہ مین سکھا کر ایک درم ساتھ فالودے کے کہ دس مثقال گیہون کے نشاستہ کا ہو پانچ مثقال قند سپید ملا کر پیئین تو بدن جلد موٹا ہوتا ہی۔

نحام۔ یہ ایک آبی چڑیا ہی جو اکثر پانیون کے کنارے رہتی ہی ابلق سپید و سیاہ مایل بزردی طبیعت اسکی گرم تر گوشت اسکا نہایت چرب اور بدبو ہوتا ہی مولد خون متین اور منی ہی۔

نون با خاے معجمہ

نخاع۔ حرام مغز جو انسان اور حیوان کی پشت کی ہڈیون مین موجود ہوتا ہی دماغ اور گردن اور پشت کے استخوانی مہرون سے گزرتا ہوا ریشکر اعصاب و اعضا کی ترطیب اسکا کام ہی طبیعت اسکی گرم تر طلا اسکا بہن بسیار ہی ضماد اسکا قروح کو اچھا کرتا ہی شقاق اور ایڑی کو نافع ہی۔

نخالہ۔ بھوسی یعنی گیہون کے غلہ کے چھلکے جو بعد آٹا چھاننے کے نکلتے ہین طبیعت اسکی گرم خشک محلل اور منقی ہی بخور اسکے عنابدکا سرکہ مین زکام کو نافع ہی ضماد اسکے جوشاندے کا مولیئے ہون کے پانی مین بچھو کے کاٹنے کے درد کو تسکین دیتا ہی۔

نون با دال

ند۔ یہ ایک دوا نباتی قبل بخور سے غالیہ کیطرح خوشبو خلفاے عباسی کیوقت یہ تجویز ہوئی عود ہندی و عنبر اشہب و صندل سپید وغیرہ خوشبودار چیزین اسمین ملائی گئین اور بتیان بناکر جلائی گئین جلنے کیوقت علاوہ روشنی کے تمام مجلس خوشبو ہو جاتی ہی طبیعت اسکی گرم و خشک مقوی قلب و دماغ و حواس خمسہ ہی۔

نون با راے

نرتیقشن۔ ایک نبات مشابہ اندرائن ہی اسکے پتے چھوٹے ہین سخت اور بیج اسکے کبابہ طبیعت اسکی گرم اور بہت خشک دافع بدبوے بینی ورعاف ہی ضماد اسکا شراب کے ساتھ بچھو کے زہر کو دفع کرتا ہی۔

نرجس۔ نرگس مشہور پھول خوشبودار اور مطبوع طبع دو تین اقسام کا ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم خشک جالی جاذب محلل قوی سونگھنا اسکے پھول کا دافع درد سر بلغمی و سوداوی و زکام و نزلہ پینا اسکی جڑ کی پیاز کے جوشاندے کا نہایت منقی رحم کا اور مسقط جنین ہی اور نکالنے والا کرم معدے کا اور التیام دینے والا زخمون ظاہری

اور باطنی کا اور دفع کرنے والا درد مثانہ اور رحم کا ہی۔

نرو کب۔ اسکون واو یہ ایک جڑ کرمان سے لاتے ہین بنا اسکی کرمان کے پہاڑون مین ہوتی ہی جہان پلنگ بہت ہوتے ہین جڑ کا رنگ بھی ابلق برنگ پلنگ ہوتا ہی مادہ پلنگ جب بچہ جننے کیوقت تکلیف پاتی ہی تو اس جڑ کو نکالکر کھاتی ہی اور آیندہ حاملہ نہین ہوتی اسکے خواص اس جڑ کے یہ ہین کہ جوش کھاتی ہوئی دیگ پر اسکو رکھدین تو جوش فرو ہو جائے تنور گرم مین ڈالدین تو سرد ہو جائے روٹیان اُتر جائین دودھ مین ڈالین تو دودھ پھٹ جاتا ہی عورت اسکو کھالے یا اندام نہانی مین رکھے کبھی حاملہ نہو اگر مرد کھائے تو اسکے نطفہ سے کوئی عورت حاملہ نہو دفع ناسور و خنازیر کے لیے یہ مجرب ہی۔

نون با سین

نسر۔ ایک جانور پرند کا نام ہی جسکو فارسی مین کرکس ہندی مین گدھ کہتے ہین تیز پرواز ہی اسقدر بلند پرواز کوئی پرندہ نہین ہی طبیعت اسکی گرم خشک گوشت اسکا دافع تشنج اور اکتحال اسکے خون کا دافع نزول الماء و سفیدی چشم ہی پینا اسکی چربی کا کھانسی کو دفع کرتا ہی۔

نسرین۔ مشہور پھول ہی جسکو ہندی مین سیوتی کہتے ہین طبیعت اسکی گرم اور خشک سونگھنا اسکا مقوی دل و دماغ و حواس دافع سردی اعصاب و صداع و زکام ہی اور پینا اسکے پانی کا منقی سینہ دافع اورام لثہ و حلق و خفقان سرد و مقوی معدہ ہی۔

نون با شین

نشا۔ نشاستہ جو گیہون کو بھگو کر اور گلا کر نکالتے ہین طبیعت اسکی پہلے درجہ مین سرد اور خشک بعض سرد تر جانتے ہین رادع اور قابض مقوی بصر فالودہ بنا کر پینا اسکا ساتھ مصری اور روغن بادام کے قاطع نفث الدم و خشونت حلق و کھانسی گرم و درد سینہ ہی

نشف۔ بیخ مرجان جسکو بسد بھی کہتے ہین مگر بعض کے نزدیک بسد ایک اور قسم کا پتھر ہی طبیعت اسکی خشک زیادہ ہی بسد سے قاطع خون اور التیام دینے والا زخمون کا اور بھرلانے والا تازہ گوشت کا زخمون مین ہی۔

نشارہ۔ ایک لکڑی کا برادہ جو لکڑی کے چیرنے کیوقت گرتا ہی اگرچہ طبیعت اسکی اس لکڑی کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہی مگر گرم اور خشک زیادہ ہوتا ہی قابض اور جالی اور برادہ لکڑی کرم خوردہ کا منقی و مدمل زخمون کا ہی

نون با عین

نعنع۔ ایک سبزہ کا نام ہی جو بستانی اور جنگلی ہوتا ہی نازک اور نرم

چیز اور خوشبو پودینہ کیطرح سبز افعال و خواص اسکے پودینہ سے قوی
طبیعت اسکی گرم و خشک دافع درد سر قاطع نزف الدم و نفث الدم و
درد سینہ و پہلو مقوی معدہ ہی ۔

نعام ۔ شتر مرغ جو مشہور پرندہ ہی بڑے قد و قامت کا گردن اسکی لمبی
اونٹ کیطرح ہوتی ہی اور مثل چیل کیطرح بہت پرواز نہیں کر سکتا طبیعت
اسکی گرم خشک گوشت محلل ریاح و قاطع بلغم و دافع قولنج و لقوہ و خدر و
درد مفاصل و بواسیر وغیرہ ہی ۔

نون با غین معجمہ

نغر ۔ بروا سے معلوم ایک چڑیا کا ہی جسکو فارسی مین ہکاوک اور خلقی کہتے
ہمولا کہتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک ہی سوکھا ہوا گوشت اسکا جسمین نمک
ملا ہوا ہو واسطے اسہال کے اور بے نمک واسطے عسر البول اور سنگ مثانہ
اور گردہ کے نہایت مفید ہی ۔

نون با فا

نفط ۔ یہ ایک رطوبت تیز بو رقیق اور قیر کے مانند زمین سے نکلتی ہی سیاہ
اور سپید طبیعت اسکی گرم اور خشک دافع فالج و لقوہ و رعشہ و خدر و اوجاع
بارده رطبہ و درد مفاصل ہی ۔

نفل ۔ یہ نبات بازوکی ہی مشابہ رطبہ کے خار نفشی مایل بسبزی شاخین
گرہ دار عرب مین بکثرت ہی طبیعت اسکی گرم و خشک بینا پھول اور
بیج اسکے کانٹی کی بیماری کو مفید ہی اور مدر بول پھول اسکا عمل مین
زیادہ قوی ہی ۔

نون با کاف

نکاچونی ۔ یہ ایک نبات زمین پر پھیلتی ہی ساق اسکی نہایت ضعیف
ہوتی ہین ریگستان پانی کے نزدیک پیدا ہوتی ہی طبیعت اسکی گرم خشک
پینا شیری یا کوٹی ہوئی پتیوں اسکی کا دافع سموم ہوام ہی اور ساتھ دودھ
پینا مسہل اخلاط فاسدہ ۔

نون با میم

نمر ۔ یہ ایک جانور ہی جسکو فارسی مین پلنگ ہندی مین تیندوا کہتے
ہین صورت اسکی شیر کے مشابہ ہی کثیر الحیا کوئی جانور اسکا گوشت نہین
کھاتا بدن مین گتے سے بڑا ہلکا اور سبک رفتار تیز رو شدید القوت صاحب
غیرت اور مشہور ہی کہ زخمی پلنگ کے زخم پر اگر چوہا موت جائے تو پلنگ زندہ
نہین رہتا اور چوہا حریص ہی اس امر پر کہ زخمی پلنگ پر پیشاب کرے اور
پلنگ اس سے اپنے آپکو بچاتا ہی طبیعت اسکے گوشت کی گرم اور خشک
اسکی چربی کے ملنے سے فالج دفع ہوجاتا ہی خدر اور وجع مفاصل اور نقرس کا
علاج ہی اسکے خون سے آنکھ کی بیماریاں دفع ہوتی ہین قطور اسکے سر کے مغز کا
اطلیل مین نعوظ کے علاج ہی اور جلوس اسکے پوست پر مسکن بواسیر ۔

نموس ۔ ایک جانور گلہری کے قدر زرد رنگ خطوط سیاہ کے ساتھ
بال چکنے چوہے اور چڑیون کو شکار کرتا ہی مستی کے وقت بلی کی آواز دیتا
سعوط اسکے خون کا عورتون کے دودھ کو بڑھاتا ہی سرمہ اسکے زہرہ
یعنی پتے کا آنکھ کے امراض کو دفع کرتا ہی ۔

نمل ۔ مورچہ یعنی چیونٹی طبیعت اسکی گرم خشک ہی ساتھ قوت
اگر اسکو روغن زیتون مین جوش دیکر کان مین ٹپکاوین برا ہی ہوتا ہی

نون با واو

نوشادر ۔ مشہور چیز ہی معدنی اور مصنوعی دونون قسم کا ہوتا ہی
معدنی کم ملتا ہی مصنوعی جو اینٹون کے پژاوون سے نکالا جاتا ہی
مستعمل ہی طبیعت اسکی گرم خشک اکتحال اسکا واسطے امراض چشم
اور رفع ہونے دمعہ سرد کے مفید ہی پینا اسکا سینہ کے بلغم کو نکالتا
نوارس ۔ یہ ایک خار دار درخت ہی شاخین اسکی پتلی تین گز لمبی
پھول زرد خوشبو کانٹے تیز گونہ سفید سرخ روم اور حلب مین ہوتا ہی
طبیعت اسکی گرم خشک ہی پینا اسکے عصارہ کا واسطے قرحہ اور
ذات الجنب کے بے نظیر ہی ۔

نون با ہا

نہما ۔ یہ ایک پہاڑی درخت قد آدم بلند شگوفہ مایل بسفیدی بیج
گول اور لمبی بدون پھل کے طبیعت گرم خشک سونگھنا اسکا واسطے
بند کرنے نزلہ اور زکام کے مفید ہی اور پینا دافع خفقان اگر سرکہ کے
ساتھ پئین تمام زہرون کی تاثیر کو رد کرتا ہی ۔

نون با یا

نیلج ۔ یہ دوا سوائے نیل کے ہی پتے اسکے مشابہ پتون سفتر کے ہین
زمین پر پھیلی ہوئی بوٹی ہوتی ہی اسکے پتون کی ٹکیا بناتے ہین اور
گھسکر سفیدی چشم کے علاج مین استعمال کرتے ہین ۔

نیلوفر ۔ مشہور پھول ہی جو پانی مین پیدا ہوتا ہی اصل نام اسکا نیلوپل
ہندی زبان مین ہی جسکا نیلوفر بنایا گیا ہی طبیعت اسکی سرد اور تر پھول
اسکا زیادہ تر لطیف ہی جڑ اسکی گرم خشک ہی پھول مقوی دل و دماغ
مسکن حرارت اور تشنگی ہی دافع درد سر و خشکی دماغ و درد سینہ
و کھانسی گرم و قروح ظاہری و باطنی ہی ۔

نیل ۔ مشہور چیز ہی طبیعت اسکی گرم خشک بعضون کے نزدیک معتدل
محلل و مجفف و رادع قاطع نفث الدم و نزف الدم پینا اسکا القہ جارحہ

واسطے سرفہ شدید بچون کے مفید ہی اور بھی فائدے اسکے درج کتب
طبیہ بہت ہین۔
نیم۔ مشہور درخت ہی حاجت تشریح کی نہین طبیعت اسکی سرد خشک
بخور اسکے پتون کے جوشاندے کا کان کے درد کو تسکین دیتا ہی
وجع مفاصل کا علاج ہی قطور اسکے پتون کے عصارہ کا ناک مین بدبو
کو دور کرتا ہی اسکے پتون کے جوشاندے سے ہر ایک زخم کو دھونا فائدہ
کثیر دیتا ہی زخم جلد خشک ہو جاتا ہی اور نیا گوشت بھر آتا ہی۔
نیدہ۔ اکثر شہرون مین یہ غذا لذیذ معروف ہے ہی اور دولتمند
بصرف زر کثیر اسکو بناتے ہین نہایت شیرین اور لذیذ ہوتی ہی ترکیب
اسکے پکانے کی مفصل درج مخزن الادویہ ہی طبیعت اسکی گرمی اور
سردی مین معتدل مولد خلط صالح مسمن بدن محلل بلغم ہی۔

تیسوان باب

حرف واو کے بیان مین اسمین پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات عربی و فارسی وغیرہ کے ذکر مین

واو با الف

وا۔ نارسیدہ و کشادہ و جدا۔ صفدر فوقانی۔ ہان بجنبان حلقہ
عجز و نیاز ہر تا بروے باب رحمت وا شود۔
والا۔ نام ایک قسم کے ابریشمی کپڑے کا اور بلند نجیب عزت و مرتبہ
چنانچہ والا جاہ و والا ہمت وغیرہ۔ حکیم محمد انور لاہوری۔ نماند
مفلس بنا فاید و محتاج + نہ دولتمند و والا جاہ ماند۔ طغرا و تعریف
دختر رز بنا شد چرا ہمچو گل شوخ و شنگ + کہ دار دلباسی ز والا ئے رنگ
واویلا۔ نوحہ و ماتم و افسوس مرکب واے اور ویل سے جنکے معنے
افسوس کے ہین مولانا اکبر لاہوری۔ غنی را بزبان ہنگام رحلت
بجز افسوس و واویلا نباشد۔
واباء۔ بہ بائے موحدہ قوت فہم و عقل۔
واجب۔ وہ امر جسکا کرنا انسان پر حکما ضروری ہو جیسے خدا کی
عبادت اور قرضہ یا حسب مصلحت اسکو کرنا ضرورت پڑجائے اور وہ
وجود جو اپنی بقا مین محتاج غیر نہو۔ سودا۔ اے کہ ہر فرض و واجبش
ادا + بعد از ان ہر سنت خیر الورا۔
واہب۔ بخشنے والا بخشش کرنے والا۔

واخواست۔ محاسبہ و مطالبہ۔
وات۔ حرف و سخن و تقریر اور پوستین۔
واجبات۔ جمع ہی واجب کی ضروری فرائض۔
واقعات۔ جمع ہی واقعہ کی۔
واقفیت۔ واقف ہونا آگاہ ہونا۔
وارث۔ میراث لینے والا مستوفی کا۔ سعدی۔ چہ خوش گفت
شوریدۂ در عجم + بکسریٰ کہ اے وارث ملک جم ہا گر ملک بر جم بماندی
و بخت + ترا کے میسر شدی تاج و تخت۔
واج۔ ژندی زبان مین بگو یعنے کہو اور عربی مین قل۔
وادیج۔ بہ دال ابجد وہ ٹٹی جسپر انگور کی بیل چڑھاتے ہین۔
وارنج۔ ساعد و بازو و آرنج۔
واضح۔ روشن اور ظاہر اور ہویدا۔
واخ۔ یہ ایک کلمہ ہی جو خوشی کے موقع پر بولا جاتا ہی اور بمعنے
راست اور درست۔
وارد۔ آنے والا قاصد و پیک۔
وافد۔ بکسر فاے ایلچی سفیر پیغام بر اور جو نجیب گھوڑے پر سوار ہو یا اونٹ پر
وامانند۔ بقا و قیام۔
والد۔ باپ جسکو فارسی مین پدر کہتے ہین۔
واعد۔ وعدہ کرنے والا۔
واحد۔ ایک اکیلا یکتا۔ توحید۔ خدا ست واحد و یکتا و بے مثال و
واحد + خدا ست ذات صمد لم یلد و لم یولد۔
واجد۔ پانے والا اپنی بات نکالنے والا وجود دینے والا۔
واد۔ پہلوی مین بیٹا مقابل دختر کے اور ہوا جسکو فارسی مین باد کہتے ہین
وارخد۔ سست اور کاہل آدمی۔
والاد۔ گھر کی چھت اور پردہ اور پختہ اور رنگین عمارت۔
وار۔ مانند و لائق و طرز و روش اور کلمہ نسبت کا چنانچہ سوگوار
و تقصیر وار و بزرگوار وغیرہ۔
والشت۔ ایک شہر کا نام ہی۔
واگیر۔ کشتی گیرون کی ایک ورزش کا نام ہی۔
واتگر۔ سخنور اور شاعر۔
واجار۔ ژندی زبان مین بازار جسکو عربی مین سوق کہتے ہین۔
وافر۔ بہت زیادہ۔
واز۔ کھلا اور کشادہ۔

وازر - کج اور باج جو بادشاہ رعایا سے لیتا ہے -

واپس - پیچھے ڈالنا پھیر دینا - میر خسرو - آن حرم قدس چو واپس فگند + راہ در انقصائے مقدس فگند -

واس - گیہون کا خوشہ -

والیس - ایک حکیم کا نام ہے جو مقرب اسکندر رومی کا تھا -

واسط - عراق عرب میں ایک شہر ہے جو بغداد اور بصرہ کے درمیان واقع ہے -

واعظ - وعظ کرنے والا نصیحت کہنے والا - سعدی - واعظ ار با تو نگفت بر فشاند دست را + محتسب گر میخورد معذور دارد مست را -

وازع - بزاے معجمہ و عین مہملہ باز رکھنے والا لشکر کا افسر اور حاکم اور بادشاہ -

وادع - وداع کرنے والا رخصت کرنے والا -

واسع - پھیلنے والا وسعت دینے والا -

واقع - ہونے والا -

واضع - رکھنے والا کسی چیز کا اُسکی جگہ پر پیدا کرنے والا بنانے والا -

واقف - ٹھہرنے والا کھڑا ہونے والا خبردار و آگاہ - توحید - بمال و دولت و بنائے دون مشو نازان + اگر تو واقف حالی و اہل عقل و وقوف -

واف - بلبل جو مشہور پرندہ ہے -

واجف - جسکا دل دھڑکتا ہو -

وامق - نام ایک شخص کا جو عذرا پر عاشق تھا

واق - نگہ رکھنے والا او شفیع اور نام ایک پرندہ کا اور نام ایک درخت کا جو ہر روز صبح کو بہار اور شام کو خزان کرتا ہے اور نام ایک جزیرہ اور پہاڑ کا -

واثق - نہایت مضبوط اور مستحکم - توحید - یاد کن بہر عبادت در الست باخدا عہدے کہ واثق کردہ -

واورنک - ترنج جو ایک مشہور میوہ ہے -

واشنگ - چوبک زن پاسبان -

واک - نام ایک پرندہ کا ہے جو پانی کے کنارے رہتا ہے -

وابل - بباے موحدہ جو بارش جسکے قطرے بڑے بڑے ہوں اور نام ایک قبیلہ عرب کا -

وائل - نام عرب کے ایک قبیلہ کا اور نام ایک گانون کا -

وال - ایک قسم کی مچھلی کا نام ہے جو فلوس دار ہوتی ہے اور عربی میں پناہ چاہنا -

وام - قرض اور رنگ و لون - صائب - گوش گیرد گل لوام از عندلیب + ہر کجا صائب سخن گستر شود -

واہم - وہم اور گمان کرنے والا -

وازون - بوازونہ - شوم و نامبارک و سرنگون -

والان - بادبان جسکو ہندی میں پال کہتے ہیں -

وان - نام ایک شہر کا اور حرف تشبیہ جسکے معنے مانند کے ہیں اور نیز بمعنے دارندہ یعنی رکھنے والا -

وادی ایمن - جس جنگل میں موسے کو درخت پر جلوہ الہی نظر آیا تھا - حافظ - شب تاریک و رہ وادی ایمن در پیش + آتش طور کجا وعدہ دیدار کجا -

والپسین - پچھلا اخیر کا -

واو - ایک حرف حروف تہجی سے ہے جسکے عدد چھ ہیں -

واقعہ - حالت خواب کی و جنگ و حادثہ - قاسم ارسلان - رنگ در واقعہ بنمود بیارا امشب + بست جان بر دل از این واقعہ دشوار شب -

والہ - دیوانہ اور شیدا و عاشق و شیفتہ و سرگشتہ -

واہمہ - وہم و گمان و شک - میرزا جلال اسیر - دل خوردہ اسیر تو و ما واہمہ خوردیم + گر کعبہ دلیل ست چہ باک ست درین راہ -

وایہ - خواہش و آرزو - طاہر وحید - گر کام وحید از تو طلب کرد مرنجے + جز سوختن خویش دگر وایہ ندارد -

واعیہ - حافظ و نگہبان اور فریاد کرنے والا -

وارستہ - آزاد و فارغ البال -

واگفتہ - نام ایک منزل کا مکہ کی راہ میں -

واہلہ - حضرت نوح کی عورت کا نام -

واہیہ - گرا ہوا اور شکستہ و کاہل -

واہمہ - ایک قوت کا نام ہے جو متعلق وہم اور خیال کے ہے -

وایہ - حاجت و مراد و معتاد ہر روزہ مثلاً کھانا افیون و کوکنار وغیرہ کا جسکی عادت ہو جاوے -

وارہ - شبیہ و نظیر و مانند -

وارونہ - بدبخت و نامراد -

وارونہ - معکوس و مقلوب -

واشامہ - رومال جس سے منہ پونچھیں -

واشہ - باشہ جو ایک شکاری جانور ہے -

والدہ - مادر یعنے مان -

واشی - دروغگو جھوٹا کذاب -

واہی - شکستہ اور کاہل اور بے مزہ باتیں - درویش والہ ہروی - حسن بنمود با نگشت ادا مجنون را + والہ است این و سخنہاش ہمہ واہی و بیہودہ -

وارستگی - آزادگی بے قید ہونا -

وافی - تمام وکمال اور وفا کرنے والا - نعتیہ از مولف - برائے مغفرت روز قیامت + فقط لطف نبی کافی و وافی ست -
واقی - بچانے نگاہ رکھنے والا مشتق وقایت سے -
واعی - حفظ کرنے والا یاد کرنے والا -
والی - دوست وحاکم و مالک - بہ کشور شہ کشورکشائی + توئی والی ہر ملک و ولایت
وادی - جنگل و بیابان غیر آباد زمین - حافظ - بہ راہرو کرد بجوم درش نبرد + مسکین بریدہ وادی و رہ در حرم نداشت -
واجبی - وظیفہ و روزینہ جو مقرر ہو - صائب - میرسد واجبا زنهانخانۂ غیب + ماچہ فرزندگی از عالم امکان داریم -
واصفی - یہ ایک شاعر ہرات میں رہتا تھا -
وائے - وا - کلمۂ افسوس ہے - میر مفخر فطرت - نالہ انگشتی زند گر بر لب خاموش من + آسمان فریاد بر دارد کہ اے وا گوش من - محتشمی - گرچہ دارند عندلیبان ہائے و ہوئے و چمن + مخفیا مرغ دلت را وائے دیگر ست -

	واو با بائے	

وبا - مرگ عام جو بسبب فساد ہوا کے ظاہر ہوتی ہے - شفیع اثر - از لبکہ با مزاج عدو سازگار نیست + افتادہ زا ب تیغ تو در ملک او وبا -
وبر - ایک جنگلی جانور بلی کی طرح ہوتا ہے اور اسکے چمڑے کی پوستین بناتے ہیں نیز بمعنے پشم شتر -
وبص - روشن ہونا چمکنا -
وبال - سختی و گرانی و خرابی و عذاب و دشواری - نظامی - گراین اژدہا خوت و مردم خصال + نہنگ ست کاو رد دو بیا وبال -

	واو با تائے فوقانی	

وت - پوستین جو مشہور رجز ہو -
وتد - لکڑی کی میخ اوتاد اسکی جمع ہے -
وتر - تنہا اور طاق اور اکیلا - وتر زہ کمان کی - چلہ کمان کا
وتکر - پوستین دوز پوستین سینے والا - با 2 کرار - تاءت ۱۲
وتک - نام ایک پرندہ کا ہے جسکو عربی مین سلوے کہتے ہیں -
وتین - وہ رگ جس سے دل سینہ مین معلق ہے -
وتیرہ - طرز و طریق روش - علی خراسانی - قدم جد الشوو طریقت شوق از ہم + بیک وتیرہ روم صبح و شام چون پرکار -

	واو با ثائے مثلثہ	

وثاق - بکسر اول بندش اور قید و مضبوطی -
وثاق - بضم اول خانہ و حرم سرائے -
وثوق - بضمتین استواری و اعتماد -
وثیق - استوار و محکم و مضبوط -
وثق - اعتماد و مضبوطی -
وثن - بفتحتین بت جو پتھر اور مٹی سے بناتے جاتے ہیں -
وثیقہ - استواری و عہد و پیمان اور وہ کاغذ جو بطور سند لکھا جائے - مدحیہ حکیم محمد انور - وہ کیون بخشا نہ جائیگا بھلا روز قیامت کو + مرید ے لا تقنطو کا در بغل جسکے وثیقہ ہو -
وثنی - بت پرست بت پوجنے والا -

	واو با جیم	

وجا - بکسر اول خصی کرنا مارنا -
وجا - بفتح اول خوف اور غم اور دھڑکا لگانا -
وجب - بفتحتین ایک بالشت -
وجوب - واجب ہونا لازم ہونا سزاوار ہونا مقرر ہونا -
وجنات - جمع وجنہ بہت سے رخسارے -
وجاہت - خوبروئی و روشناسی و عزت و آبرو -
وج - ایک دوا کا نام ہے -
وجد - بکسر اول تونگر ہونا یا توانا ہونا -
وجد - بفتح اول غمناک ہونا شگفتہ ہونا اور حالت ذوق شوق کی جو صوفیان سماع پسند کو ہوتی ہے - ظفر - لب پہ وہ سنکے تیری صیدا سپہ شوق دید جو پڑھ گیا + مجھے اضطراب کمال تھا یہی وجد تھا یہی حال تھا
وجود - پانا مطلوب اور ہستی کا اور وہ چیز ظہور مین آچکی ہو - لو زجود لو ظہور جسم و جان ست + وجود ہر وجود از تست موجود -
وجار - جس جگہ کفتار اور بھیڑیا رہتا ہو -
وجور - رقیق دوا جو حلق مین ڈالیں -
وجیز - کوتاہ و مختصر -
وجرہ - مترجمی فتوے جو قاضی اور مفتی لکھے -
وجارش - ژندی زبان مین گذارش -
وجع - درد جو پیٹ یا کسی اور عضو مین ہو -
وجع - وہ شخص جسکو درد ہو -
وجنک - مرغون کی چونچ -
وجل - بفتحتین ڈرنا خوف کرنا -
وجدان - بکسر اول کسی گم شدہ کو پانا -

وَجہ - بفتح اول چہرہ اور مُنھ اور طریقہ اور طور اور ذات اور حقیقت کسی چیز کی اور وہ چیز جس سے معاش کیجائے مثلاً زمین و مشابہ وغیرہ اور طرف و جانب۔

وِجہ - بکسر اول اور آخر میں تائے فوقانی جو بحالت وقف ہائے ہوز بنجاتی ہی قبلہ یعنے وہ سمت جسکی طرف مُنھ کیا جائے۔

وجنہ - رخسار یعنے گال آدمی کے۔

وجوہ - جمع وجہ۔

وجیہ - روشناس و صاحب عزت آدمی۔

	واو با حائے حطی	

وحدت - یگانہ ہونا اکیلا ہونا ایک ہونا - توحید - بے مکان بود مکان طالبان وحدت ست بے نشان بودن نشان ... تو آں از مکان و لامکان بالا مکان وحدت ست + از فنا و از بقا بیرون نشان وحدت ست۔

وحشت - تنہائی و رمیدگی و نفرت - صائب - نسبت کند دو رشتہ ہمتاب را یکے + دیوانہ وحشت از دل دیوانہ می برد۔

وحدانیت - واحد ہونا ایک ہونا۔

وحید - اکیلا یکتا یگانہ - توحید - منور ست بہر سمت نیر توحید ز شرق و غرب نماید جمال این خورشید + خدائے واحد و بے مثل و لاشریک و وحید + خدا ست مظہر تفرید و جامع تجرید۔

وحش - جمع وحشی جنگلی جانور - توحید - گہے از وحش شد ظاہر گہے از طیر + گہے از مور شد پیدا گہ از مار۔

وحوش - جمع وحش اور وحش جمع وحشی - مؤلف - خدا رازق روزی مار و مور + خبر گیر حال وحوش و طیور۔

وَحَل - کیچڑ اور نمناک زمین - سعدی - نگہ کرد سلطان بے محل + خود وش در بلا دید و خر در وحل۔

وحدان - جمع واحد۔

وحی - خدا کا پیغام اور آسمانی حکم - سعدی - برو گفت سالار بیت الحرام + کہ اے حامل وحی برتر خرام۔

وحشی - جنگلی جانور دام و دد - مؤلف - چرا وحشی شدی اے آدمی زاد + شرافت را چرا بدنام کردی۔

	واو با خائے	

وخامت - ناسازگاری و دشواری و گرانی۔

وَخ - صاحب کے معنے واہ واہ اور ناز و نخرہ کے کلمات جسکے معنے ہندی مین اوئی آئے ہی۔

وخ وخ - واہ واہ واہ واہ - فوقی یزدی - بجاے کس چو تجھ ذوق میکاشت + لوائے وخ وخے با خویش میداشت۔

وخوخ - وہ کلمات جن سے کسیکا دل خوش کیا جائے۔

وَخر - جگہ اور مکان۔

وخشور - قدیم فارسی مین خطاب رسول صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم۔

وخش - بفتح اول و سکون ثانی نام ایک شہر کا ولایت ختلان مین۔

وَخَش - بفتحتین نام ایک بیماری کا ہی جو گھوڑون کو ہوتی ہی۔

وخم - ناگوار و ناسازگار و دشوار و گران و بدگو۔

وخشیغہ - ایک آبی جانور کا نام ہی بعض کے نزدیک وخشیغہ مرغابی کا نام ہی ... وخشیغہ ... آبی پرندہ ہی۔

	واو با دال	

[illegible]

تا شمہ نازکا ہر کہ ودیعت کرد ست + فقر در سینہ من حوصلہ اعجاز تی

وِدَج - گردن کی ایک رگ اور دونون کو ... اجین کہتے ہین۔

وداد - محبت و دوستی پیار - سہ - خداوند عالم خدائے ودود کند لطف و رحمت باہل وداد۔

ودود - دوست پیارا صاحب محبت - توحید - خدا ست واجد موجود و حامد و محمود + خدا ودود و خدا مہربان خدا معبود۔

وُدّ - بضم اول و تشدید ثانی دوستی اور دادا۔

وَدّ - بفتح اول و تشدید نام ایک بت کا جسکو حضرت نوح کی قوم پوجتی تھی۔

وداع - پدرود کرنا رخصت کرنا - توحید - بہر ... اجل ظاہر شود + ناگہان چون بے خبر اطلاع + جان دہی بر بستر درماندگی با ہزاران بخزاے مرد شجاع + گر وداع از ہر چہار سو شود نا بلت الوداع والوداع۔

ودائع - جمع ودیعت بہت سی امانتین۔

وَدَع - خرمہرہ کلان یعنے سنکھ جو ہنود و عبادت کے وقت بجاتے ہین۔

وداغ - آگ جسکو آتش اور نار کہتے ہین۔

ودخین - ایک آبی جانور کا نام ہی جو مکدر اور میلے پانی مین رہتا ہی وہ آنکھین نہین رکھتا خالق نے اسکو اندھا پیدا کیا ہی۔

	واو با رائے مہملہ	

وراء - آخر مین ہمزہ عقب اور جانب یعنے پیچھے اور معنی سوا اور غیر

وبا - بغیر ہمزہ مخلوقات الٰہی جن وانس وغیرہ اور فارسی مین مخفف

اور اپنے اسکی پیچھے از مولف۔ مصطفےٰ اخیر نور انور اللہ صل علی +
احمد مرسل محمد مصطفےٰ صل علی ۔ ورا ہین کہ با ماجہا می کند +
ستم میکند یا جفا میکند۔
ورقا۔ فاختہ وکبوتر۔
ورکتا۔ ژندی زبان مین استخوان یعنے ہڈی۔
ورنا۔ یعنے برنا جوان آدمی اور خوب ونیک۔
وریب۔ اوریب اور ٹیڑھا اور کج۔
ورت۔ برہنہ وعریان یعنے ننگا۔
ورغشت۔ ایک گھانس کا نام ہی۔
وراثت۔ مردہ کا مال۔
وراج۔ ایک پھول ہی جسکو آفتاب پرست کہتے ہین۔
ورشیج۔ ایک پرندہ ہی جسکو عربی مین سادی اور سمانی کہتے ہین۔
ورنج۔ بزرگی وشان وشوکت اور اکھاڑنا اور سخت برابر سستکے
ورنج۔ زبون اور پلید وبدصورت۔
ورسیچ۔ گھر کی چھت اور دہلیز۔
ورنج۔ صاحب حرص وطمع۔
وردخ۔ اخیر مین خاے معجمہ آروغ یعنے ڈکار۔
ورد بفتح اول عربی مین گل سرخ یعنے گلاب کا پھول اور فارسی مین شاگرد ومرید
ورد بسکون ر ذکر اور وظیفہ اور وہ جگہ جہان پانی پیا یا اُٹھایا جائے
ورود۔ اندر آنا وارد ہونا۔
ورید۔ گردن کی رگ اور وہ رگ جو شہرگ ہو۔
ورزاد۔ وہ بیل جس سے ہل چلائین۔
ور۔ فارسی مین کلمہ نسبت اور مخفف آور ہی۔ سعدی۔ ازان بہرہ ور
ور آفاق گیست + ہست ضعیفان بجاہش قویست۔
ورکار۔ وہ میوہ جسکا درخت نہین مانند خربزہ وشہدوانہ وغیرہ
ورخس۔ جو ورم ناخن مین پیدا ہو۔
ورسس۔ لکڑی کی کھیل جو اونٹ کی ناک مین ڈالکر مہار کی رسی
اُسکے ساتھ باندھتے ہین۔
ورزش۔ مشق کرنا واسطے سیکھنے کام کشتی وغیرہ کے۔
ورع۔ پرہیزگاری۔
وراغ۔ بغین معجمہ آگ کا شعلہ اور روشنی آگ کی۔
ورغ۔ وہ بند جو دریا کے پانی کے روکنے کے واسطے گھانس اور
لکڑی اور مٹی سے باندھتے ہین۔

وراق۔ کاغذ کا بیچنے والا اور کاتب اور بالتشدید ہری زمین کی گھانس
ورق۔ پتا درخت کا اور کاغذ کا ٹکڑا۔ مولف۔ ورکتاب دل نظرن
کاندرا او + دفتر توحید باشد ہر ورق۔
ورک۔ آدمی کے سُرین یعنے چوتڑا اور فارسی مین نام ایک درخت کا
جسکی آگ تیز ہوتی ہی نیز نام ایک جانور کا۔
وردک۔ جہیز کا سامان جو باپ اپنی دختر کو نکاح کیوقت دیتا ہی۔
وردوک۔ چھوٹے پراٹھے اور روٹی کا جو ٹکڑا بنا کر رکھتے ہین
ورسنگ۔ پاسنگ ترازو کا اور عجیب ومعتبر اور خوش۔
ورکاک۔ ایک مرغ مردار خوار کا نام ہی۔
ورناک۔ کشمیر مین ایک چشمہ کا نام ہی
ورل۔ نام ایک جانور کا ہی سوسمار کیصورت پر ہی۔
ورم۔ آماس یعنے سوجن اور داغ کرنا۔
ورس۔ بندر لیمان سوت کا بند
ورمان۔ ایک پرندہ ہی جسکو فارسی مین مرغ آبی بھی کہتے ہین اور وہ
جنگلی کبوتر ہوتا ہی اور روح اور نفس ناطقہ۔
ورکو۔ خراسان مین ایک بستی ایک پتھر پر آباد ہی اور چار طرف
اُس پتھر کے نیچے سے چشمے پانی کے جاری ہین
ورطہ۔ گرداب پانی کا اور وہ زمین جسکا راستہ نملے۔ سعدی
درین ورطہ کشتی فرو شد ہزار + کہ پیدا نشد تختہ بر کنار۔
ورثہ۔ میراث پانے والے جمع وارث۔
ورپوشہ۔ دامنی اور چادر۔
ورقہ۔ تیسرا حرف دال وہ برج جسمین کبوتر رکھے جائین۔
ورواره۔ بالاخانہ جو گھر کے اوپر ہو۔
ورچی۔ زشتی وزبونی۔

واو با زاے معجمہ

وزارت۔ بکسر اول وزیر ہونا بار اُٹھانا۔
وزر۔ گرانی اور بھاری بوجھ اور پشتوارہ اور اُٹھانا بار کا پشت
اور گناہ اور ہتھیار جسکی جمع اوزار ہی۔
وزیر۔ شریک بار اٹھانے کا کسیکے ساتھ وزرا اسکی جمع ہی سعدی
در میر و وزیر و سلطان را + بے وسیلت مگرد پیرامن۔ سگ و دربان
چو یافتند غریب + این گریبان گرفت وآن دامن۔
وزش۔ وزیدگی یعنے چلنا ہوا کا۔
وزغ۔ بسم غ۔ غوک یعنے مینڈک جو آبی جانور مشہور ہی اور بعض

اژدیک - نام ایک جانور قسم چلپاسہ کا ہی -
وزن - قول قدر منزلت عزت و وقار -
وزان - بتشدید زائے وزن کرنے والا -
وزغ - مینڈک -

واو با سین

وسطیٰ - الف بصورت یائے درمیانہ انگلی ہاتھ کی -
وستا - خدا کی تعریف اور نام ایک کتاب کا جسکو زردشت نے تصنیف کیا احکام آتش پرستی مین -
وسعت - کشادگی و فراخی - سعدی - وسعت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوے گوے -
وساطت - درمیان ہونا واسطہ ہونا وسیلہ ہونا -
وسمت - داغ کرنا رنگ کرنا تہمت کرنا -
وسیلت - نزدیکی اور دست آویز -
وسالت - وسیلہ ہونا ذریعہ ہونا -
وسامت - خوبی زیبائی اور رنگینی -
وسخ - چرک اور ریم اور میل -
وسائد - جمع وسادہ کی -
وستاد - ہر ایک چیز زیادہ اور انبوہ -
وسواس - اندیشہ بد جو دل مین خطور کرے - توحید - دل از غبار بکن پاک و سینہ از وسواس + شو دو گر نہ جہات [illegible] -
وساوس - وسواس کی جمع ہی -
وسس - بمعنے لبس -
وسط - بفتح اول و سکون ثانی میانہ ہر ایک چیز کا -
وسط - بفتحتین وہ چیز جو درمیانہ ہو یعنے متوسط طول و عرض و فربہی و لاغری مین -
وسائط - جمع واسطہ بہت سے وسیلے -
وسیط - نام ایک کتاب کا ہی فقہ مین اور وہ شخص جو نسب مین میانہ اور محل مین رفیع ہو -
وسع - فراخی و دسترس و توانائی -
وسیع - فراخ اور کشادہ -
وسنک - نام ایک گھانس کا ہی جو پتھر کے درزون سے اگتی ہی اور اسکے پتون سے لیمو کی بو آتی ہی -
وسایل - جمع وسیلہ کی بہت سے وسیلے -

وسم - عیب و نشان و داغ -
وسیم - رنگدار خوبصورت حسین و جمیل - سعدی - شفیع مطاع نبی کریم + قسیم جسیم نسیم وسیم -
وستم - وہ بخار جو گرم پانی اور پکتی ہوئی دیگ سے نکلے -
وسن - غنودگی جو نیند کی ابتدا مین ہوتی ہی اور فارسی مین آلایش و آلودگی -
وسادہ - بالش و بالین یعنے تکیہ -
وسمہ - سیاہ رنگ جو نیل وغیرہ سے بالون پر کیا جائے اور داغ و نشان - صائب - وسمہ بر ابروے تلخ آن نگار تند خوے + زہر خون خوار است کش تیغ تغافل میچکد -
وسیلہ - واسطہ اور ذریعہ جو کسی کا ہو [illegible]
وسیلہ بزرگان کا دین و دنیا مین [illegible]
[illegible] - وسیلہ رفتن خود را [illegible] باشد [illegible] جو کتا ہی -
وسمہ - چوب دستی و عصا -
وسمی - بڑی بارش اور پہلی بارش موسم بہار کی -
وسنی - وہ عورت جو ایک شوہر کے [illegible]
وسنی - شرح اور ترجمہ کسی کتاب کا -

واو با شین معجمہ

وشتا - [illegible] احکام دین آتش پرستی [illegible]
[illegible] - چھینٹا اور تھوڑا باران [illegible]
[illegible]
وشت - خوب اور خوش و رقص و رقاصی -
وشاح - بہ جانے حطی گلے کا ہار اور [illegible] -
وشین - خوب و خوش و ماننداور نام ایک شہر کا ترکستان مین اور ایک قسم پارچہ ابریشمی کا -
وشق - بفتحتین اندازہ ایک دست کے پار کا جو ساتھ [illegible] اور ترکی مین نام ایک جانور کا جو روباہ کے قد پر سفید رنگ ہوتا ہی اور سیاہ داغ اسپر ہوتے ہین اسکے چمڑے کے پوستین بناتے ہین -
وشاق - خدمتگار و غلام و مصاحب بادشاہ کے - سعدی - [illegible] شاقان گردن فراز + کسے دیگر آنجا لغیر از ایاز -
وشک - دوا ر [illegible] کی [illegible] -
وشنگ - خرقہ جو مشہور سبز [illegible] -

وشنگ - مولی جسکو فارسی میں ترب کہتے ہیں مشہور چیز ہے -
وشیک - پاپوش یعنی جوتی -
وشنگ - بیلنا جس سے کپاس سے روئی الگ اور بنولے الگ کرتے ہیں -
وشنگ - جلدی کرنے والا ایک تیز رفتار -
وشکل - گوسپند شاخدار جنگی -
وشکول - چالاک و ہوشیار و قوی و حریص -
وشل - آب اندک یعنی تھوڑا پانی -
وشن - بفتح اول کفار کے اعتقاد میں ایک پیغمبر کا نام ہے -
وشکلہ - انگور کا دانہ -
وشکنہ - آلہ تناسل -
وشتی - بگاگونہ اور سرخ رنگ -
وشی - منسوب بشہر وش جس جگہ کے آدمی خوبصورت ہوتے ہیں اور
اطلس زیبا سے بھی وہ بنا ہے -

واو با صاد مہملہ

وصایا - جمع وصیت کی بہت سی وصیتیں -
وصب - بفتحتین بیماری اور رنج -
وصلب - بضم اول پیوند و خویشی و پیوستگی -
وصمت - بفتح اول عیب -
وصیت - سمجھانا بوقت سفر یا قبل از مرگ اپنے والیوں کو کسی امر کے
کرنے کے لیے - سعدی - پسرے را پدر وصیت کرد ہگاے جوانمرد یاد گیر
این پند + ہر کہ با اہل خود وفا نکند + نشود دوست روئے دولتمند -
وصید - آستانہ دہلیز -
وصف - صفت اور تعریف اور سراہنا - سعدی - وصف اگر کند
ور نکند اہل فضل + حاجت مشاطہ نیست روئے دلارام را -
وصاف - صفت کرنے والا تعریف کرنے والا - نعتیہ از مولف -
خود خدا ناطق ہو جسکی وصف میں + کیوں نہ اسکا ہر کوئی وصاف ہو -
وصل - پیوند اور ملنا مقابل جدائی کے - مولوی معنوی - تو برائے
وصل کردن آمدی + نے برائے فصل کردن آمدی -
وصال - ملنا مرجانا وصل پانا - سے - ہمہ عمر اندر جدائی بسا ندم
نشد وصل ممکن بغیر از وصال -
وصول - پہونچنا اور مل جانا کسی چیز کا -
وصلہ - کپڑے یا کاغذ کا پیوند اور ٹکڑا -
وصی - جسکو وصیت کیجائے -

وصالی - پارہ دوز جو کپڑے ٹکڑے سیکر فروخت کرتا ہو - محسن تاثیر -
چند در ملک عدم تعمیر اوالی کنم + این کہن مجموعہ را تا چند وصالی کنم -

واو با ضاد معجمہ

وضاءت - پاکیزگی و خوبی -
وضاح - بہت روشن اور ظاہر اور آدمی سپید رنگ -
وضوح - ظاہر و واضح ہونا -
وضع - بفتح اول رکھنا ترتیب کرنا -
وضع - بضم اول وہ بچہ جسکا نطفہ آخر ایام طہر حیض میں ماں کے پیٹ میں
قرار پاکر مضغہ ہو کیونکہ وہ بچہ ضعیف الخلقت ہوتا ہے -
وضیع - بروزن فعیل آدمی کمذات و فرومایہ -
وضو - بفتحتین منہ ہاتھ دھونا نماز کے واسطے - میرزا بیدل - شہیدان
راو ضوئے دادہ اند از آب تیغ + سجدہ آموز سر یا نیست جز محراب تیغ
وضاحت - بتشدید ضاد بہت روشن کرنے والا -

واو با طاے

وطا - بفتح اول و دوم پامال کرنا -
وطاء - بکسر اول اور اخیر میں ہمزہ موافقت کرنا اور وہ کپڑا جو بچھونے
وغیرہ پر ڈالتے ہیں -
وطر - بفتح اول و دوم حاجت -
وطواط - ایک جانور کا نام ہے جسکو چمگادڑ خطاف و ابابیل
کہتے ہیں اور لقب ایک شاعر کا -
وطن - جس ملک میں کوئی رہتا ہو وہ اسکا وطن ہے - ملا شاہی کابلی -
چو می بینم غریبے بر سر کوئی تو می ترسم + کہ دامنگیر خاک ست آن مبادا
آنجا وطن گیرد -
وطی - جماع کرنا پامال کرنا -

واو با ظاے معجمہ

وظائف - وظیفہ کی جمع ہے بہت سے وظیفے -
وظیفہ - روزینہ جو کسیکا مقرر ہو - سے - خداوند رزاق روزی
رسان + وظیفہ خورش نیک و بد در جہان -

واو با عین مہملہ

وعا - آوند و ظرف یعنی برتن -
وعد - بفتح اول نوید اور یعنی خوشخبری پہونچانا - ظہوری -
شب و روز در کار وعد و وعید + ہمہ ہفتہ ہر روز نوروز و عید
وعید - وہ وعدہ جو بدی کیواسطے کیا جائے یعنی ڈرانا -

کل ضرور سزا دونگا۔ میر معزی ۔ وعدہ خلد و وعید حشر بنماید ہمی + دست او در بزمگاہ و تیغ او در رزمگاہ ۔
وعود ۔ وعدہ کی جمع ہی ۔
وعور ۔ مشکل جگہ اترنے یا گذرنے کی ۔
وعظ ۔ نصیحت و پند ۔
وعاظ ۔ وعظ کرنے والا ۔
وَعوَع ۔ آواز سگ کتے کی آواز ۔
وعدہ ۔ نوید دینا نیکی مین ۔ سعدی ۔ وعدہ وصل چون شود نزدیک + آتش شوق تیز تر گردد ۔

واو با عین

وَغا ۔ بفتح اول جنگ لڑائی شور و فساد ۔
وَغد ۔ کمینہ و فرومایہ اور بادنجان یعنے بیگن ۔

واو با فا

وفا ۔ وعدہ پورا کرنا دوستی قایم رکھنا ۔ میرزا شریف الہام ۔ وعدہ گر یک نفس بود عمر ست + بلکہ عمر اینقدر وفا نکند ۔
وفات ۔ فوت ہونا مرجانا ۔ توحید ۔ مبازبازی ناحقہ در جہان ہر دم + کہ در وفات بہر بازی تو آید مات ۔
وفاقت ۔ موافقت و سازداری ۔
وفادت ۔ ایلچی ہونا پیغامبر ہونا ۔
وفد ۔ ایلچی گری کرنا ایلچی بنکر جانا ۔
وفود ۔ جمع ہی وفد کی ۔
وفور ۔ تمام ہونا بہت ہونا وافر ہونا ۔
وفر ۔ بہتایت اور زیادتی ۔
وِفاق ۔ موافقت و سازگاری کرنا ۔
وفق ۔ سازگار و موافق ۔
وفضہ ۔ ترکش تیرون کا ۔
وَفِیّ ۔ تمام و کمال ۔

واو با قاف

وِقاحت ۔ بیحیائی و بے شرمی و بے ادبی ۔
وقایت ۔ نگاہ رکھنا اور وہ چیز جس سے کوئی چیز درست رہے جیسے کتاب کا بقچہ اور نام ایک کتاب کا فقہ مین ۔
وقیعت ۔ ملامت اور عیب گوئی و غیبت و غمازی ۔
وقعت ۔ سختی و آسیب و جنگ و لڑائی ۔

وقت ۔ گھڑی ساعت زمانہ ۔ جمال الدین سلیمان ۔ زلفین سیہ خم بخم اندر زدہ باز + وقت من شوریدہ بہم برزدہ باز ۔
وقح ۔ بے شرمی و بے حیائی ۔
وقیح ۔ بے شرم و بے حیا ۔
وقاد ۔ آگ جلانے والا اور افروختہ ہونے والا ۔
وَقود ۔ بروزن ودود ایندھن جس سے آگ جلائین ۔
وُقود ۔ مصدر ہی آگ روشن کرنا ۔
وقید ۔ ایندھن جس سے آگ جلائین ۔
وَقار ۔ آہستگی و حلم و تمکین ۔
وَقر ۔ بفتح اول حلم و تمکین اور گرانی کانون کی ۔
وِقر ۔ بکسر اول اسقدر بار جسکو گدھا یا خچر اٹھا سکے ۔
وقور ۔ صاحب وقر ذی عزت ۔
وَقّاص ۔ گردن توڑنے والا اور جنگجو اور نام ایک اصحاب کا رسول صلے اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مین سے جو فن کمانداری و تیر اندازی مین یگانہ تھا ۔
وقاع ۔ بکسر اول جماع و جنگ ۔
وقع ۔ اعتبار و عزت جلی اور بلند ۔
وقایع ۔ خبرین اور واقعات زمانہ کے ۔
وُقوع ۔ اترنا اور ظاہر ہونا ۔
وقف ۔ کھڑے ہونا توقف کرنا اور جگہ کھڑے ہونیکی اور جاننا آگاہ ہونا اور وہ چیز جو کسیکے ملک مین نہو جیسے مسجد اور سامان متعلق مسجد وغیرہ جو خدا کے نام پر ملکیت سے نکالدیا ہو ۔ درویش والہ ہروی ۔ بر آتش وقف کردم ہمچو قرص مہر خرمن را + برین آتش زند چندانکہ خواہد چرخ دامن را ۔
وقوف ۔ شعور و آگاہی و خبر اور ایستادن یعنے کھڑے ہونا ۔ نورالدین ظہوری ۔ اگر تنگ ورزی ندارد حروف + ز معنی تراشی نداری وقوف ۔
وقواق ۔ نام ایک جزیرہ اور پہاڑ کا ہی جسمین سونیکی کان ہی اسمین ایک درخت بھی اسی نام کا ہی جسکے ساتھ بجای پھل آدمیون کے سر لٹکتے ہین اور اس پھل سے عجیب و غریب آوازین نکلتی ہین وہ سر لوگون کی باتین سنتے اور جواب دیتے ہین اور کدو کیطرح درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہین عورت مرد دونون اقسام کے چہرے ہوتے ہین عورتون کے چہرے نہایت خوبصورت ہوتے ہین جب درخت سے جدا ہوتا ہی بالکل خاموش ہوجاتا ہی گویا مرجاتا ہی ۔

وقایہ ۔ نام ایک کتاب کا فقہ مین اور وہ چیز جو کسی چیز کی درستی اور قیام کا باعث ہو۔
وقیہ ۔ نام ایک وزن کا ہی جو چالیس درم تول مین ہوتا ہی۔
وقفہ ۔ ٹھہراؤ اور توقف جو تھوڑا سا ہو۔
وقی ۔ نگاہ رکھنا۔

واو با کاف

وکلا ۔ جمع وکیل کی بہت سے وکیل۔
وکانا ۔ خوشہ خرما کا ایک ٹکڑا۔
وکالت ۔ وکیل ہونا منتظم کسی کے کام کا ہونا۔
وکر ۔ آشیانہ مرغ مرغ کا گھونسلا۔
وکس ۔ نقصان وزیان۔
وکاف ۔ پالان گدھے اور گھوڑے کا۔
وکف ۔ عیب اور گناہ۔
وک ۔ آبی جانور کا نام ہی جسکو ہندی مین مینڈک فارسی مین غوک عربی مین ضفدع کہتے ہین۔
وکوک ۔ کتون کے بھونکنے کا شور۔
وکال ۔ زغال یعنے کوئلہ۔
وکل ۔ بے بس آدمی جو اپنا کام دوسرے شخص کے بھروسہ پر چھوڑ دے۔
وکیل ۔ وہ شخص جسکے بھروسے پر اپنا کام چھوڑ دیا جائے۔
وکیرہ ۔ وہ ضیافت دوستون کی جو بتقریب تعمیر حویلی جدید کے کیجاے۔
وکدہ ۔ ژندی زبان مین مادہ جو مقابل نر کے ہی۔

واو با لام

ولا ۔ دوستی ومحبت اور پے در پے کرنا کسی کام کا۔
ولات ۔ جمع والی حاکم لوگ اور جمع ولی دوست لوگ۔
ولادت ۔ پیدا ہونا بچہ کا۔
ولایت ۔ ملک اور زمین جو آباد ہو اور ممالک اور والی ہونا اور تصرف و دوستی وحکومت وامارت وتقرب بندۂ نیک با خدا تعالے سعدی ؎ ولایت چہ باشد غم خویش خورد کہ از عمر بہتر شد و بیشتر۔
ولوج ۔ آنا ایک چیز کا دوسری چیز مین۔
ولج ۔ ایک پرندے کا نام ہی جسکو عربی مین سلوے کہتے ہین۔
ولد ۔ بیٹا فرزند۔
ولود ۔ وہ عورت جو بہت سی اولاد جنے۔
ولید ۔ لڑکا اور نام بہت سے لوگون کا اور نام ایک خلیفہ کا بنی امیہ مین سے۔

ولع ۔ بفتحتین فریفتگی اور حرص۔
ولع ۔ بضم اول دروغ وکذب۔
ولوع ۔ حریص ہونا۔
ولوغ ۔ بہ غین معجمہ وضمتین پانی پینا کتے کا اور منہہ پانی پر رکھنا۔
ول ۔ شگوفہ ہر چیز کا خصوصاً شگوفہ انگور کا۔
ولین ۔ خارش کی بیماری۔
والو ۔ متفرق وپریشان۔
ولہ ۔ سرگشتگی وعشق وخشم وغضب۔
ولولہ ۔ واویلا گفتن وجوش وخروش وآشوب وغوغا میر معزی ؎ ہزار ولولہ ومشغلہ درافتادست ٭ ز تیغ شاہ بہندوستان وترکستان
ولیمہ ۔ شادی کدخدائی کی ضیافت۔
ولانہ ۔ جراحت اور زخم۔
ولادہ ۔ وہ گول چمڑا جو آہنی تکلے مین ڈالکر سوت کاتتے ہین۔
ولی ۔ دوست یاری دینے والا صاحب خداوند والی ولایت مقرب حق۔ نظامی ؎ ز لبس ناز ونعمت کز وراندہ اند ٭ ولی نعمت عالمش خواندہ اند۔ س ؎ علی راز دار خفی وجلی ٭ علی بادشاہ ولایت ولی۔
ولانی ۔ شراب جو نئی کھینچی گئی ہو۔

واو با نون

وندا ۔ ژندی زبان مین خواہش اور حرص۔
وندر ۔ بھانڈا برتن کاسہ وکوزہ وبمعنی صاحب ومالدار۔ نظامی ؎ خداوندمائی وما بندہ ایم ٭ بہ نیروے تو سر بسر زندہ ایم
ونجنگ ۔ ایک قسم پھول کا ہی جسکو ضمیران وشاہ اسپرم کہتے ہین۔
ونگ ۔ ایک جانور بے دُم بلی کی طرح سے۔
وننگ ۔ لکڑی یا طناب جسپر انگور کی بیل چڑھاتے ہین۔
ونگول ۔ ضروری کام اور حاجت۔
ون ۔ ایک میوہ کا نام ہی جسکو ہند مین چرونجی کہتے ہین وبمعنے شبیہ ونظیر۔
وندہ ۔ ترہ تیزک جو ایک سبزہ مشہور ہی۔
ونی ۔ سستی کرنا کام مین۔

واو با ہے

وہاب ۔ بہت سی بخشش کرنے والا۔
وہج ۔ شعلہ مارنا آگ کا اور روشن ہونا۔
وہاج ۔ روشن اور افروختہ اور فروزان۔

وہاد ۔ پست زمین اور نشیب ۔
وہر ۔ ایک ملک کا نام ہی ۔
وہق ۔ کمند جو مشہور چیز ہی ۔
وہنگ ۔ وہ چوبی حلقہ جو آہنی رکاب کے بدلے باندھ لیتے ہین ۔
وہل ۔ سرو کو بھی جسکو درخت عرعر بھی کہتے ہین ۔
وہم ۔ جانا دل کا کسی چیز کیطرف بغیر قصد اور گمان لیجانے کے سعدی
اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم + وز ہرچہ دیدہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم
وہن ۔ سستی اعضا کی ۔
وہدہ ۔ زمین پست اور نشیب ۔
وہ ۔ کلمہ تعجب و تحسین و افسوس ۔
وہلہ ۔ خوف و ترس و نوبت و کرت ۔
وہمہ ۔ درد زہ جو عورت کو ولادت کیوقت ہوتا ہی ۔
وہبی ۔ بخشش کی ہوئی چیز
وہی ۔ نرم اور سست ہونا ۔

واو با یاے

ویدا ۔ کم اور تھوڑا مقابل بہت کے ۔
ویلانج ۔ ایک قسم حلوے کی ہی ۔
ویار ۔ اندک مقابل بسیار اور کم مقابل بہت کے ۔
ویثر ۔ بہ ثاے مثلثہ ہر ایک پھول جو سپید ہو ۔
ویدستر ۔ وہ جانور جسکو بیدستر بھی کہتے ہین اور خصیہ اسکا دوائی مین مستعمل ہی ۔
ویر ۔ ایک گانون متصل شہر اردبیل کے آباد ہی ۔
ویشر ۔ ہر ایک چیز جو خالص ہو ۔
ویس ۔ بہ یاے معروف نام ایک معشوقہ کا جسپر رامین عاشق تھا ۔
ویس ۔ بفتح اول کلمہ حقارت عربی مین ہی ۔
ویل ۔ عربی مین اسکے معنے واے و افسوس و عداوت و سختی و شور و فغان و ہلاک اور نام ایک وادی کا ہی دوزخ مین اور فارسی مین فتح و ظفر و فرصت وقت ۔
ویسم ۔ گلابہ جو دیوار پر ملتے ہین ۔
ویران ۔ وہ سرزمین جو آباد نہو اور وہ گھر جسمین کوئی رہتا نہو ۔
نظامی ۔ گوزنے کہ در شہر شیران بود + ہمہ گور و دشتش خانہ ویران بود ۔
ویین ۔ سیاہ انگور ۔
ویلان ۔ ناغہ یعنے جس روز کام کرنے والا اس روز کا کام نکرے ۔

ویرہ ۔ وہ درخت جو ساق نرکھتا ہو یعنی زمین پر پھیلے یا دوسرے درخت پر چڑھ جائے
ویثرہ ۔ پاک اور بے عیب ۔
ویلہ ۔ صدا و آواز و فریاد و شور ۔ فردوسی ۔ فرود آمد از تخت ویلہ کنان + زنان بر سر و دست و بازو کنان ۔

دوسری فصل

اردو لغات کے ذکر مین

واو با الف

واہ وا ۔ یہ کلمہ مقام تعجب و تحسین مین کہا جاتا ہی ۔ سودا ۔ غیر پہ ہی نت کرم ہمپہ ستم واہ وا + دیکھ لیا لیں تمھین ہمنے صنم واہ وا ۔
وار ۔ حملہ جو تلوار وغیرہ سے کسیکے مارنے کے لیے کیا جاے ۔ مولف
جھکا دیگا سر تسلیم بندہ + کریگی ناگہان جسدم اجل وار ۔
وارن ۔ وار نا ۔ نثار اور تصدق جو کسی پر کیا جائے ۔
واری ۔ تصدق و نثار ۔

واو با راے

وردی ۔ لباس وغیرہ نشان جس سے ملازم سرکار پہچانا جائے ۔

واو با ہاے

وہان ۔ اسجگہ اس مقام پر ۔

واو با یاے

ویرا ۔ زبردستی سے کوئی جنس رائج قیمت سے کم لوگون کے پاس فروخت کرنا جیسے کہ پہلے حکام کا دستور تھا کہ پرانے ذخیرہ کی جنس نکالکر زبردستی رعیت کے پاس فروخت کرتے تھے ۔

تیسری فصل

اصطلاحات و محاورات فارسی کے بیان مین

واو با الف

واہی العرا ۔ دست آویز جو لکھی جاتی ہی ۔
واقعہ طلب ۔ جنگجو دلاور پہلوان ۔
واقی عقرب ۔ ستارہ مریخ کیونکہ عقرب مریخ کا گھر ہی ۔
واقی الحسب ۔ جو شخص مالدار و عالم و فاضل و دیندار ہو ۔
واضع چار کتاب ۔ حق تعالے جل شانہ جسنے چار کتابین توریت موسے نبی اور انجیل عیسے نبی زبور داؤد نبی قرآن محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر نازل کین ۔

واژون سیر۔ واژون بخت ۔ بدبخت کم نصیب برگشتہ طالع۔ طالب آملی۔ طالب از باغ امیدم مید بدگلہائے یاس + واژگون سیرست آری کوکب سیارہ ام + سعدی ۔ چہ کند روز مند واژون بخت

واپیچ ۔ وہ پیچ جو اپسمین پڑے ہوے ہون ۔ ملا طغرا باغ احمدنگر کی تعریف مین ۔ ز واپیچ تاک بخشش پیچان او + دگرگون نما بد درختان او

وادی نورد ۔ صحرا نورد وحشی دیوانہ ۔ درویش والہ مروی جائے از وادی نوردان بر حسن وخارست تنگ + حسن راگر در بیابان جنون محمل سیکے ست ۔

واجب الوجود ۔ وہ شخص جسکی ذات مقتضی اسکے وجود کی ہو چنانچہ ذات باری تعالے جل شانہ کہ ذات اسکی وجود مین غیر کی محتاج نہین ۔

واگیر ۔ کشتی مین ایک ورزش کا نام ہے ۔ میر نجات ۔ وقت واگیر تو شاید بکفسون ونیرنگ + کہ ناستد بجہان سنگ دگر بر سر سنگ

والا باف ۔ عالم دیبا بافت سے ۔ سیفی ۔ یا رد الا باف کوکب وکار من سودا سے اوست + قیمت ہرکس بقدر ہمت والا سے اوست

وادادن سبق ۔ سبق کا بھول جانا ۔

وا افتادن ۔ دراز پڑجانا بیخبر سوجانا ۔ آصفی ۔ آصفی مرغ سحر نغمہ زبان ست ہنوز + گل نصیدنا زقبا کندہ و وا افتادست

وادید ۔ و وادیدن ۔ کسی کو دوبارہ دیکھنا ۔ صائب ۔ بعبرت بین جہان را تا کند قطع امید از تو + کہ دیدن ہاے رسمی را زپے وادید میباشد ۔ ولہ ۔ کشودم سر سرے برروے دنیا چشم زین غافل + کہ دیدنہاے رسمی در عقب وادیدنی دارد ۔

وادی مجنون ۔ وہ ویرانہ جسمین مجنون رہتا تھا ۔ صائب ۔ دامن صحرا چراغان شد ز نقش پاے من + وادی مجنون ندارد گرم رفتارے چنین ۔

واسوختن ۔ روگردانی کرنا باز آنا کسی کام کا ترک کرنا عشق ومحبت کا ۔ صفوی ۔ گویند داغ سوز کہ واسوزی از عشق خود را تمام سوختم و واسوختم ۔

واشدن ۔ شگفتہ و بے تکلف ہونا اور پردہ سے نکلنا ۔ صائب ۔ صد خندہ بلبل از گل تصویر واکشید + آن غنچہ لب ہنوز ہمین وانمی شود

واقع شدن ۔ روبرو ہونا مقابلہ ہونا ظاہر ہونا ۔ صوفی ساوجی ۔ دلم با کست و چشم پاک ہے محرم سرت گردم + اگر واقع شود این حرف ما خاطر نشان کن ۔

واقف شدن ۔ خبردار ہونا آگاہ ہونا ۔ صائب ۔ مگر واقف شد از جوش نشاط خون من صائب + کہ می پیچد ز قتل خود پشیمان آن جفا جو را

واکردن ۔ کھولنا فارغ کرنا جدا کرنا ۔ سعیدا ۔ گیلانی مولوی ۔ دل غمزدہ سر بمہر چہ نظر وا شد بر ما کرد + چون غنچہ سوائے تو مرا از ہمہ واکردہ

واکشیدن ۔ دراز کھینچنا الٹ جانا لینا اور وصول کرنا ۔ صائب ۔ سرو تر از سایہ جلال آب زندگی + گردید خضر سر کہ درین سایہ واکشید ولہ ۔ ہرگز نشد کہ بر سر حرف آورم ترا + من کز دہان غنچہ سخن واکشیدہ ام

واگشتن ۔ واگردیدن ۔ واپس ہونا پھر آنا کھلنا ۔ صائب ۔ چسان ز سیکدہ محروم بگذرم صائب + نمی توان ز لب بحر تشنہ واگردید ولہ ۔ دل وحشت زدہ از سینہ کجا یاد کند + چہ خیال است کہ گوہر بصدف واگردد ۔

وا بوسیدہ ۔ روگردان ہوا ہوا بیدماغ ہوا ہوا ۔ محمد سعید اشرف ۔ از بوسہ ام دلشاد کن زانجام حسرت یاد کن + کز بوسہ گاہا رستہ خط و از عشق وابوسیدہ من

واکردہ ۔ کھولا ہوا دروازہ وغیرہ ۔ صائب ۔ دیدن پیشانی واکردہ ات ہر صبحگاہ + چین جو صراز جبین واسکند آئینہ را ۔

وارنگی ۔ ایک رنگین چیز کے رنگ سے دوسری چیز کو اثر ہونا ۔ محسن تاثیر ۔ صفائی صبحدم آئینہ وارش + شفق وارنگی رنگین عذارش

	واو با جیم	

وجود نہادن چیزے را ۔ کسیکو صاحب قدر و توقیر جاننا ۔ سلیم ۔ آسمان را کے وجودے نہد ہر گز سلیم + آنکہ آگاہ اوست در دو آسمان سازے کند ۔

وجود عنقا دارد ۔ نایاب چیز ہے ۔

وجب کردن ۔ بالشت سے ناپنا ۔ محمد قلی سلیم ۔ از جنون این خرابہ را ہر روز + میکنم ہمچو آفتاب وجب ۔

وجد کردن ۔ بحرکت کرنا مستی اور شوق ذوق کیحالت مین ۔ کلیم ۔ در تنگنا ے خلوت غم میکند سلیم + وجدے کہ گرد باد بصحرا نمی کند ۔

وجود نگذاشتن ۔ کسی چیز کی قدر نکرنا ہیچ اور نابود جاننا ۔ سلیم ۔ خندہ موج درین دریا کجا اثر میکند + منکر دریا را وجودے نمی نگذاشتم

وجود ہستی ۔ ہستی کا وجود ۔ طاہر وحید ۔ ہست از جسم و زجان تا نمود ہستیم + عکس آئینہ ست پنداری وجود ہستیم ۔

	واو با حاے حطی	

وحدت وجود ۔ صوفیوں کی اصطلاحون مین ہرایک وجود مخلوق

خالق کا وجود تصور کرنا چنانچہ موج وحباب وگرداب وقطرہ وژالہ سب کو پانی کی ذات سمجھنا۔ توحید۔ تن بچشم وحدتش جلوہ دہد مانند جان + ہر کسے کز دیدۂ دل دید دیدار وجود۔

وحی منزل۔ قرآن مجید۔

وحدت بیشہ۔ ہر ایک چیز کو عین حق دیکھنے والا۔ تاثیر۔ نیست آئین دوبینی چشم وحدت بیشہ را + دیدہ پوشید از دو عالم ہر کہ شد بینائے عشق

وحشت زدہ۔ دیوانہ وحشی فراخ۔ صائب۔ آن ذرہ کہ از تیغ و ندان چکدش زہر + در مشرب وحشت زدگان سین سلام ست۔

وحدت نوعی۔ ایک جنس ہونے کی وحدت چنانچہ زید عمر خالد وغیرہ سب آدمی نوع میں ایک ہیں۔

وحدت ارادی۔ اپنے ارادہ سے مسلمان ہونا۔

وحدت قہری۔ زبردستی سے مسلمان کرنا۔

واو با راے

ورق کباب۔ کباب کے ورق جو بطور ٹکیا کے بناکر بھونتے ہیں۔ طاہر وحید۔ ہمہ شرح سوز داشک وغم وپیچ وتاب باشد + ورق کتاب عاشق ورق کباب باشد۔

ورق سنج۔ کتاب کو دیکھنے والا۔ امیر خسرو۔ حکیمان دانا ورق سنج راز + ز قانون حکمت گرہ کردہ باز۔

ورق باد۔ کنایہ زبان او رعین ہوا اور نفس کل۔ مولوی جامی۔ حکم خدائے ست کہ از کاف کن + ہر ورق باد نولیسد سخن۔

ورق داغ۔ وہ ہندسہ جو اوراق کی پیشانی پر شمار کے واسطے لکھتے ہیں۔ نعمت خان عالی۔ دفتر لالہ تمامی بورق داغ منست + با دل خون شدۂ خویش حسابے دارم۔

ورق خام۔ کچا کاغذ ہر ایک حساب کا جسمیں کسیکی دست اندازی نہیں ہوتی۔ طغرا۔ ناوک نازنگش زین دل ناپختہ رمید + چون دبیر کہ خط از ورق خام کشید۔

ورنشیدن۔ نشستن یعنے بیٹھنا۔ ملا فوقی یزدی۔ چون ورنشستہ بسند شیرین نکلّے + سے کو زطوق من بہ بہاے شکر دہد۔

ورق از سر واکردن۔ پھینکنا ورق کو گنجفہ کا واسطے نکالنے ورق بیش کے بازی گنجفہ میں۔ واصب قندھاری۔ مانند آن ورق کہ ز سر وا کند کسے + حسنت بچرخ گنجفہ داد آفتاب را۔

ورق برگردانیدن۔ ورق برگشتن۔ ایک حالت کو الٹ دینا اور پلٹنا حالت کا۔ نورالدین ظہوری۔ ز گل زیباست

درس بازی بلبل برکردن + بہ تحریک صبا آخر ورق گر برنگرداند۔

ورق چیزے خواندن۔ کسیکی حالت اور اوصاف کو پڑھنا۔ حافظ۔ تا صبا بر گل وبلبل ورق حسن تو خواند + ہمہ را نعرہ زنان جامہ دران میداری۔

ورق درنوشتن۔ ورق طے کردن۔ ورق راندن۔ طے کرنا کسی مسافت کا گذر جانا کسی زمانہ کا۔ نظامی۔ چو لختے زمین را ورق در نوشت + ز پہلوے وادی درآمد بدشت۔ ولہ۔ چو عمرش ورق راند بر بیست سال + نشا ہنشہی بر قبل زد دوال۔

ورق دریدن۔ ترک کردینا اور چھوڑ دینا کسی امر کا۔ زلالی۔ خداے کو شکستن آفریدہ + ورق بر ساغر دینا دریدہ۔

ورق را دفتر ساختن۔ جمع کرنا اوراق کا۔ صائب۔ شمر زعمر خویش نفس نا شمردہ را + دفتر مساز این ورق باد بُردہ را۔

ورق سیاہ کردن۔ مسودہ کرنا۔ طاہر غنی۔ ورق ودوات وکاغذ ہمہ جمع کرد نرگس + کہ بوصف چشم خوبان ورقے سیاہ سازد۔

ورق نانوشتہ خواندن۔ غیب کا حال جاننا۔

ورق ورق گشتن۔ ایک ایک ورق دیکھنا۔ امان اللہ عالی۔ کتابخانہ عالم ورق ورق گشتم + خط تو دیدم وگفتم کہ مدعا این ست۔

ورق پیماے۔ ورق دیکھنے والا۔ طغرا۔ دل ہدہد ورق پیماے راز ست + ازان طومار منقارش دراز ست۔

واو با زاے معجمہ

وزغ در آستین دارد۔ میلا اور خراب آدمی۔

وزن بر خویش گذاشتن۔ غرور اور تکبر کرنا۔ میرزا طاہر وحید۔ وزن گر بر خویش بگذاری بمطلب میرسی + میشود باد مراد کشتیت سبے لنگری۔

وزیدن بو۔ ظاہر ہونا بو کا۔ سنجر کاشی۔ ہمہ وسواس تمنا ہمہ سوداے وصال + می وزد بوے جنون از گل اندیشۂ ما۔

وزیدن شعلہ۔ بلند ہونا شعلہ کا۔ علی خراسانی۔ وحشت مجنون نہ ہمین بے سر ناقہ ماست + میوزد شعلۂ این برق بصحراے دگر۔

واو با ضاد معجمہ

وضو تازہ داشتن۔ عبادت کے لیے وضو کرکے رہنا۔ سعدی۔ باب عبادت وضو تازہ دار + کہ فردا آتش شوی رستگار۔

وضو داشتن۔ حاجت وضو کی رکھنا۔ حسن رفیع۔ کاملے دریائے کردا مروز + زاہد مانگر وضو دارد۔

وضع اوراقی و وضع بے شیرازہ - وہ شخص جسکا حال ایک وتیرہ پر نہو - محسن تاثیر - وضع ادتاثیر بے شیرازہ چون فرشود بہ قسمت آنرا کہ از سر رشتہ دفتر کنند -

واو با طائے حطی

وظیفہ خوار - وظیفہ خور - روزمرہ کا روزانہ پانے والا سعدی - اے کریمے کہ از خزانۂ غیب گبر و ترسا وظیفہ خور داری -

واو با عین

وعدۂ حق رسیدن - نزع کا وقت پہونچنا - نگرد و وا زدم دمے پیش و پس + چو آن وعدۂ حق رسد ناگہان -

وعدۂ شب درمیان - جو وعدہ کل وفا ہوگا - صائب - بہ پیام وعدۂ شب درمیان زلف او + روزگارے شد کہ روز از کیسۂ امید رود

وعدہ گاہ - جس جگہ وعدہ کیا جاوے - رضی دانش - وعدہ گاہ گرم خوبان گوشۂ میخانہ است + سر زمینے نیست غیر از تاکہ دلکش مرا -

واو با قاف

وقت فلان تنگ ست - نازک ست - فرصت بہت کم ہے - صائب - بہوسۂ دل باشاد کن در آخر حسن + کہ وقت ما و تو اے نازنین بسے تنگ ست جمال الدین سلمان - دم مزن بلبل کہ وقت گل بغایت نازک ست ہان و تشنیع و تقاضا برنیاید پیش زن -

وقت وساعت - گھڑی اور گھڑیال جس سے وقت معلوم کرتے ہین - محسن تاثیر - چو وقت وساعت الساعت دائم کوک میکرد آلہ میگیرم حساب دفتر لیل ونہار خود -

وقت گرگ ومیش - بہت صبح کا وقت جسوقت آسمان پر سیاہی باقی ہو - واعظ قزوینی - موے چون گردید گندم جو دکنہ ہشیار شو + وقت گرگ ومیش صبح مرگ شد بیدار شو -

وقع نہادن - وقع نہادن - معتبر رکھنا - ظہوری - شہرستی تا از و گردیدہ شایع آنچنین + مہ پرستان ماہ را ننہند وقعے آنچنان -

وقت روا رو - چلنے کا وقت - علی خراسانی - اکنون کہ دل شگفتہ شد گرم روا رو + این وقت نشستن نبود وقت روا روست -

وقت سحرگاہ - صبحگاہ - فجر کا وقت - سعدی - شنیدم کہ وقتی سحرگاہ عید + ز گرمابہ آمد برون بایزید -

واو با ہائے

وہمناک - صاحب وہم وخیال - فیضی فیاضی - طبع تو اگرچہ وہمناک ست + چون من بتو ام تراچہ باک ست -

واو با یائے

ویران شہر - ایک شہر کا نام ہے جہان زعفران اعلے قسم ہے - محمد علی سلیم - از حال خراب من خبر میگویید + زانکہ کہ چو زعفران ویران شہر

ویران گر - غارت گر ڈاکو - عبداللہ ہاتفی - چو آمد ویران گران ہاملتہ + فگندند در بام و در زلزلہ -

ویحک - یہ کلمہ جو کمال ترحم کے وقت زبان پر لاتے ہین اور معنے اسکے اسپر افسوس ہے - علی خراسانی - سرور اولیا امام زمن + آنکہ جبریل گویدش ویحک -

ویرانہ نشین - جنگل مین بیٹھنے والا - ابوطالب کلیم - کلبۂ فقر ہم اسباب تجمل دارد + بوریا مسند ویرانہ نشین میباشد -

چوتھی فصل

اردو محاورات کے بیان مین

واو با الف

واجبی سا - تھوڑا سا -

وار کرنا - ہاتھ مین ہتھیار لیکر کسی پر حملہ کرنا - مولانا اکبر - کبھی وہ دام گیسو مین پھنسا کر مار دیتے ہین + کبھی عاشق پہ شمشیر نگہ سے وار کرتے ہین

وار لینا - کسیکا وار اپنے اوپر لینا - حکیم محمد انور - لگانا دل پہ تیغ ابروے خمدار مشکل ہے + کہ اس تلوار کا گردن پہ لینا وار مشکل ہے -

وارنٹ جاری کرانا - گرفتاری پر پروانہ جاری کرانا -

واری جانا - صدقے جانا -

وارنا - تصدق کرنا -

وارے نیارے ہونا - بہت سا کمانا اور فائدہ ہونا -

واہ واہ ہونا - تعریف ہونا شاباش ہونا -

واہی تباہی پھرنا - بیکار اور ڈانوان ڈول پھرنا -

واہ رے مین - ایک فخریہ جملہ ہے -

واحد شاہد ہے - خدا گواہ ہے -

واو با بائے

وبال ہونا - ناگوار ہونا بھاری ہونا مشکل ہونا کسی امر کا - مولف - مبتلائے غم ہوے مارے گئے + بال زلفون کے وبال جان ہوے -

واو با جیم

وجود پانا - پکڑنا - پیدا ہونا ظہور پکڑنا ہستی مین آنا - حق ہے موجود جسکے جلوون سے + جزو کل نے وجود پکڑا ہے -

واو با راے

وردی بجانا۔ شاہی محل پر طنبور تاشہ وغیرہ بجانا نوبت بجانا۔
وردی بولنا۔ کسی ضروری امر کی خبر اپنے افسر کو دینا۔
ورق بکھر جانا۔ نا اتفاقی ہوجانا تباہ و برباد ہوجانا۔
ورق گردانی کرنا۔ کتاب کے ورق ادھر ادھر کرنا کچھ نہ پڑھنا وقت ضائع کرنا۔
ورہونا۔ ور رہنا۔ غالب رہنا زبردست رہنا سبقت لیجانا۔

واو با ضاد معجمہ

وضع حمل ہونا۔ بچہ پیدا ہونا۔
وضو توڑنا۔ ناپاک ہونا ناجائز کام کرنا۔ ناسخ۔ دیکھ لینا کہ تیرا ہم بھی وضو توڑینگے + محتسب تونے اگر شیشہ ہمارا توڑا۔
وضو ٹوٹنا۔ ناپاک ہونا ناجائز کام ہونا۔ شوق۔ خوب بھر کر لگا دے منہ سے سبو + خیر ٹوٹے جو ٹوٹتا ہے وضو۔
وضو ٹھنڈے ہوجانا۔ ڈھیلے ہوجانا۔ ارادہ ٹوٹ جانا سست ہوجانا۔

واو با عین

وعدہ یا وقت برابر ہوجانا۔ میعاد پورا ہونا اخیر وقت آجانا۔ جرات۔ وقت جب اپنا برابر ہو سدھار و تم سو وقت + عرض کرتے ہین یہ با دیدۂ تر تم سے ہم۔

واو با قاف

وقت پانا۔ موقع حاصل کرنا۔ صفدر رامپوری۔ وقت پا کر یہ کہا اُس سے کہ اے جان جہان + یہی دن ہین جو اپنے لگا لو ارمان۔
وقت کاٹنا۔ رفع الوقتی کرنا دن گذارنا۔ شعر۔ گذرا جو عیش کا زمانہ تھا + اب مصیبت کا وقت کاٹتے ہین۔
وقت نکل جانا۔ زمانہ گذر جانا موقع جاتے رہنا۔ قطعہ از مولف۔ عالم فانی سے چلد و گے وہین + ناگہان جسوقت وہ آئیگا وقت + اب کرو جو کام کرنا ہے تمھین + آئیگا کب جب نکلجائیگا وقت۔

واو با لام

ولایت پانا۔ بادشاہ ہوجانا ولی ہوجانا۔

پانچوین فصل

ادویات یعنی لغات متعلق بعلم طب کے بیان مین

واو با الف

واق۔ مرغابی جو مشہور پرندہ ہے اور پانی مین خوش رہتا ہے طبیعت اُسکی گرم اور خشک گوشت اُسکا محلل ریاح روغن اُسکا دافع فالج و امراض عصبی ہے۔

واو با جیم

وج۔ یہ ایک نبات ہے جو پانی مین پیدا ہوتی ہے فارسی مین اسکو سوسن زرد کہتے ہین نرگس کی سی پتی پھول زرد جڑ گرہ دار تیز مزہ تلخ ساتھ حرارت و حرافت کے طبیعت اسکی گرم و خشک ملطف و جالی و قاطع بلغم تریاق سموم دافع فالج و استرخا و خدر و لکنت زبان ہے۔

واو با دال

ودع۔ دریائی جانور قسم اصداف سے ہے جسکو خرمہرہ اور ہندی مین گھونگا کہتے ہین طبیعت اسکی سرد و خشک دافع عسر البول ناشف رطوبات اعضا کے ظاہری رافع بیاض عین ہے۔

واو با راے

ورد۔ وہ پھول جسکو ہندی مین گلاب کا پھول کہتے ہین بہت اقسام کا ہوتا ہے خوشبو کسی مین زیادہ کسی مین کم ہے رنگت کسیکی کم کسیکی زیادہ سرخ ہے طبیعت اسکی مرکب القوی پہلے درجہ مین سرد دوسرے درجہ مین خشک اور بعض کے نزدیک گرم اور تر ہے اور بعض اسکو معتدل ساتھ قوت قابضہ کے اور خشک پھول مین قبض زیادہ مقوی ارواح مفرح و ملطف و مسہل و مسکن صفرا و بلغم رقیق عرق اور جوشاندہ اسکا مسہل اور مقوی اعضاے رئیسہ ہے۔
ورد اصفر۔ یہ نام نسرین زرد برّی کا ہے درخت اسکا خاردار خوشبو و مفرح و مقوی باہ ہے۔
ورس۔ یہ پھل ایک درخت کا ہے جو یمن مین ہوتا ہے اسکے پھل سے جو پک کر پھٹتا ہے زرد ریشہ باریک مایل بسرخی بالون سے مشابہ نکلتا ہے اس سے لوگ زعفرانی کپڑے رنگتے ہین ایک قسم سیاہ حبشہ سے لاتے ہین اسکا رنگ سرخ و تیرہ ہوتا ہے طبیعت اسکی گرم و خشک مقوی مفرح عظیم بڑھانے والا باہ کا دافع برص و خارش ہے۔
ورد الحماق۔ یہ ایک پھول ہے عربی مین اسکو ورد العجائز فارسی مین گل رعنا اور گل عجب کہتے ہین یہ پھول اندر سے سرخ باہر سے زرد زعفرانی کوئی خوشبو اور کوئی بغیر بو کے ہوتا ہے طبیعت اسکی گرم خشک و محلل قوی ہے۔
ورل۔ یہ ایک جانور ہے جسکا سر چھوٹا اور دُم دراز ہے پوست ابلق طبیعت گرم و خشک مقوی باہ و محلل جاذب زہر ہوام ہے۔
ورشان۔ مشہور پرندہ ہے خاکستری رنگ جسکو فاختہ کہتے ہین گوشت اسکا

کبوتر کے گوشت سے ہلکا ہی اور طبیعت گرم خشک دافع فالج وسردی گردہ و مثانہ و درد پشت ہی۔

واو باسین

وسخ ۔ آدمی کے جسم کا میل طبیعت اسکی گرم وخشک باعتبار اختلاف جثہ واعضا مختلف بھی ہوتا ہی طلا کرنا کان کے میل کا واسطے پھٹے جانے ہونٹون اور واسطے کاٹنے سانپ کے مفید ہی پینا اسکا مورث بیہوشی واستسقا اور زیادہ مقدار قاتل ہی طلا اسکا دافع بواسیر و اورام پستان ہی۔

وسخ الکوائر ۔ یہ ایک طرح کا میل شہد کی مکھیون کے چھتون مین پایا جاتا ہی جو موم کے علاوہ مائل بسرخی نرم وخوشبودار ہوتا ہی طبیعت اسکی گرم وخشک لطیف وجالی وجاذب ومحلل اورام ہی بخور اسکا دافع سرفہ کہن اور ضرب مین قایم مقام مومیائی کا۔

واو باشین

وشیج ۔ یہ ایک نبات بوستانی مشابہ لیمون ہی لکڑی اسکی ایسی سخت ہی کہ اسکے نیزے بناتے ہین پتی دھنیے کی سی جڑ گرہ دار طبیعت سرد خشک رادع ومقوی اعضا وعلاج شکستگی اعضا دافع سیلان رحم ونزف الدم وبواسیر ہی۔

وشق ۔ ایک جانور کی پوستین ہی جو کتے سے بڑا و چیتے سے چھوٹا ہی بحری دونون قسم کا ہوتا ہی انڈے اپنے خشکی مین رکھتا ہی طبیعت اسکی گرم وخشک دافع فالج ورعشہ غرض کہ پہننا اس پوستین کا کثیر النفع وفائدہ بخش ہی۔

واو باعین

وعل ۔ یہ ایک قسم کی پہاڑی گائے ہی سیاہ رنگ بقدر چھوٹی بھینس کے مزاج اسکا گرم وخشک گوشت اسکا جید الغذا مقوی اعضائے سبر و دین چربی اسکی دافع فالج و وجع المفاصل ہی۔

واو بالام

ولب ۔ نبات اسکی بقدر ایک گز کے بلند پتی مشابہ زیتون کے شیردار طبیعت اسکی گرم وخشک منفتی ومقی ساتھ قوت مسہلہ کے مخرج اخلاط فاسدہ منقی بدن عجیب خواص اسکا یہ ہی کہ اگر پتے اسکے اوپر سے کاٹین مقی ہوتے ہین مع دودھ کے قوت مسہلہ اسمین نہین ہوتی اور اگر نیچے سے کاٹین صرف مسہل ہی مقی نہین ہوتی اور اگر نیچے اور اوپر کی ملا کر استعمال کرین تو قے اور اسہال دونون وقوع مین آتے ہین۔

باب اکیسوان

لغات ہائے ہوز کے بیان مین اسمین پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات عربی وفارسی وغیرہ کے ذکر مین

ہائے باالف

ہا ۔ یہ ایک حرف حروف تہجی مین سے ہی عربی مین اسکے معنے صیغۂ امر کے ہین یعنے پکڑ اور فارسی مین حرف جمع اور کبھی زایدہ بھی لاتے ہین و بمعنے اینک و مصغر این واشارہ اسکی طرف جو قریب ہو اور طپانچہ جو کسیکے منھ پر مارا جائے۔

ہاہنا ۔ عربی مین بمعنے اینجا یعنے اس جگہ اس ول حرف ہاے کی ساتھ جو الف ہی لکھنے مین نہین آتا پڑھنے مین آتا ہی۔

ہاریا ۔ ایک قسم مچھلی کی ہی جسکے بہت سے پانون ہین اور تمام جسم پر کانٹے

ہایب ۔ بکسر ہمزہ خائف اور ڈرپوک۔

ہارب ۔ بھاگ جانے والا۔

ہات ۔ امر ہی بخش اور آراستہ کر۔

ہاروت ۔ نام ایک فرشتہ کا جو چاہ بابل مین ہمراہ دوسرے فرشتے ماروت کے مقید ہی۔ حافظ۔ لطف باشد گر نپوشی از گدا ہاروت رایک تا بکام دل ببیند دیدہ ہاروت را۔

ہادخت ۔ نام ایک نسک کا ہی المبس نسک کتاب زند زردشت سے اور نسک بمعنی قسم اور باب کے ہی۔

ہادشت ۔ زندی زبان مین امت اور پیرو جس امام یا پیغمبر کے ہون

ہار ۔ سلک مروارید اور پھولون کا مالا اور گرا ہوا منہدم ہونے والا اور آدمی کا گوہ اور تمام حیوانات کا گوبر۔ ملا منیر۔ بذکر خلق شاہنشاہ دوران + زہار گل ملایک سبحہ گردان۔

ہالپور ۔ ایک شہر کا نام ہی

ہاجر ۔ پریشان بات کہنے والا۔

ہادر ۔ بدال مہملہ بے اختیار آدمی۔

ہامر ۔ ابر بہت برسنے والا۔

ہامرز ۔ پہلوی زبان مین برخیز یعنے اٹھ۔

ہاجس ۔ دل مین آنے والا خیال۔

ہاوش ۔ بہ واو مفتوح امت پیغمبر کی اور پیرو کسی امام کے۔

ہابط ۔ نیچے اترنے والا۔

ہاح ۔ بزدل اور ڈرپوک آدمی۔

ہائع - خائف و ڈرپوک آدمی -
ہاتف - آواز دینے والا اور فرشتہ جو غیب سے آواز دیوے -
ہاک - ژندی زبان مین بیضہ یعنے انڈا جسکو تخم مرغ کہتے ہین -
ہالک - ہلاک کرنے والی بیماری وغیرہ -
ہال - الائچی سپید و قرار و آرام اور وہ پختہ میل جو واسطے حد بندی کے
میدان چوگان بازی کے بناتے ہین -
ہاطل - بہت برسنے والا بادل -
ہابیل - نام حضرت آدم کے فرزند کا جسکو قابیل اُسکے بھائی نے قتل کیا تھا -
ہائل - ہولناک یعنے جس سے خوف آئے -
ہامال - شبیہ و نظیر و مانند -
ہاکول - سم الفار سنکھیا جو مشہور زہر ہی -
ہادم - منہدم کرنے والا گرانے والا کسی عمارت وغیرہ کو -
ہایم - سرگشتہ و شیفتہ ہونے والا کسیکے عشق مین اور نہایت پیاسا -
ہاشم - رسول صلے اللہ علیہ وسلم کے جد کے باپ کا نام ہی جو نہایت
خوش خلق تھا اور شجاعت و سخاوت ہاشمی خاندان کے لیے ہی -
ہاضم - ہضم کرنے والی -
ہارون - حضرت موسے پیمبر کے بھائی کا نام ہی جو نبی تھا و نام خلیفہ
عباسی جسکو ہارون رشید کہتے تھے و قاصد و پیک و نقیب
و پاسبان -
ہامان - فرعون کے وزیر کا نام ہی اور نام ایک گانون کا کرمان کے
علاقہ مین کہ میر لعمت اللہ اُس جگہ مدفون ہین - توحید - بکریانیدگی
در صحن بستان ابر گریان را + بخندانید گہی بر چہرۂ گل برق خندان را +
گہی با مور بخشد پایۂ تخت سلیمانی + گہی کمزور شل مور سیسازد سلیمان
را + رہا از ورطۂ محنت کلیم اللہ را سازد + کند غرقاب دریای فنا
فرعون و ہامان را -
ہاون - اوکھلی جسکے اندر ادویات وغیرہ کو کوٹتے ہین -
ہامون - وہ جنگل جسکی زمین ہموار ہو - سعدی - ز دریای
عمان بر آمد کسے + سفر کردہ ہامون و دریا بسے -
ہان - خبردار ہو یہ ایک کلمہ تنبیہ ہی جو کسی کام کی تاکید مین بولا جاتا ہی
اور مقابل نہین کے اور بعض موقع پر بجوش طبعی و ظرافت - نادم
گیلانی - بہرہ چند انی ندارم از حیات و از ممات + چون چراغ صبحدم
ہان مردن وہان زیستن -
ہاجن - کنواری لڑکی جس سے صحبت نہ کیجائے اور سنگ چقماق -

ہازو - متحیر و سرگشتہ و دیوانہ -
ہامہ - کاسۂ سر و پیشانی -
ہاتلہ - ہولناک اور ڈراونی صورت -
ہالہ - جو دائرہ چاند سورج کے گرد پڑجاتا ہی - طاہر وحید - ہیش
ہزار تیر گذارد بیک کمان + مانند آفتاب کہ در ہالہ میرود -
ہاویہ - ساتوین دوزخ کا نام ہی جو سب سے اسفل طبقہ ہی -
ہالگاہ - چوگان بازی کا میدان -
ہاژہ - متفکر و متحیر -
ہاکرہ - جسکی زبان مین لکنت ہو ہاکلہ بھی اُسکو کہتے ہین -
ہائیہ - ناچار و لاعلاج -
ہاجرہ - مادر اسماعیل پیغمبر علیہ السلام -
ہالکہ - نفس حریص -
ہارونی - قاصدی و نقیبی و پاسبانی - نظامی - بہ ہارونیش
خضر و موسے روان + مسیحا چہ گویم ہمو کب روان -
ہاروتی - جادوگری و سحر سازی -
ہاشمی - وہ قریش جو ہاشم کی اولاد سے تھے چنانچہ محمد صلے اللہ علیہ
وسلم ہاشم کی اولاد سے تھے اس سبب سے لقب آپکا ہاشمی تھا -
نعتیہ از مولف - سرور و سید رسول ہاشمی امی لقب + ناسخ الادیان
و ختم الانبیا صل علے -
ہاری - کناس میلا اٹھانے والا -
ہادی - ہدایت کرنے والا راستہ دکھلانے والا اور فارسی مین
ایک پتھر کا نام ہی جسکے پاس وہ پتھر ہو کتا اُسکو نہین بھونکتا -
ہامی - سرگشتہ و حیران -
ہانی - پہلوی مین ہنشین یعنے بیٹھ -
ہائے - دردناک آواز ہی -

ہائے با بائے موحدہ

ہبا - گرد اور غبار اور ضایع اور تباہ - مولانا مظہر - ترک آورد
زن و زر و فرزند و خانمان + اسباب ملک و مال سراسر ہبا کند -
ہبوب - ہوا کا چلنا -
ہبب - بفتح اول و تشدید ثانی عربی مین نیند سے جاگنا اور چلنا تلوار کا
مضروب پر -
ہب - بکسر اول ژندی زبان مین بگذار یعنے چھوڑ دے -
ہبت - بخشنا ہبہ کرنا -

ہبید۔ وہ آلہ اور وزن دار لکڑی جس سے ہل چلی ہوئی زمین کو ہموار اور صفا کرتے ہین۔
ہبید۔ تخم حنظل جو مشہور چیز ہی۔
ہبر۔ ریم اور زرد پانی جو زخم سے نکلے۔
ہبط۔ نیچے اتارنا اور نقصان کرنا۔
ہبوط۔ نیچے اترنا تنزل مین آنا۔
ہبنق۔ احمق بیوقوف بے عقل۔
ہباک۔ فرق سر یعنے چوٹی سر کی۔
ہباک۔ کف دست ہاتھ کی ہتھیلی۔
ہبل۔ نام ایک بت کا جو کفار نے کعبہ مین رکھا تھا۔
ہبل۔ کاہل وسست وگران تن۔
ہبہ۔ بخشش کرنا بخشید دینا۔

ہاے با تاے فوقانی

ہتر۔ سخن بیفائدہ وسختی زمانہ وغیبت وپردہ دری۔
ہتف۔ آواز اور صدا جو کان مین پڑے۔
ہتاک۔ پردہ در اور بیغیرت کرنے والا۔
ہتک۔ بیغیرتی اور پردہ دری۔
ہتیہ پول۔ ہتیہ پور۔ نام اس جگہ کا جس جگہ شاہجہان بادشاہ کے حکم سے دربار شاہی کے چپ وراست دو مست ہاتھی واسطے تنبیہ اور سزا کے ہی مجرمان کے کھڑے رہتے تھے جس مجرم کے لیے حکم ہوتا ہاتھی اسکو مست ہاتھیون کے آگے ڈالدیا جاتا۔
ہتھ نالچی۔ ہتھ نال یعنے چھوٹی توپ کا چلانے والا گولانداز۔

ہاے با جیم

ہجا۔ ہجو کرنا برا بولنا اور حروف تہجی کو باعراب ادا کرنا۔
ہجرت۔ اپنے وطن کو چھوڑنا جدا ہونا۔
ہجعت۔ سونا نیند کرنا۔
ہج ہج۔ علم اور نیزہ اور ستون اور سیدھا کھڑا ہونا۔
ہجند۔ نام ایک گھاس کا ہی جو خودرو ہوتی ہی۔
ہجد۔ بیداری نیند سے اٹھنا۔
ہجاور۔ ملک خطا مین ایک شہر کا نام ہی۔
ہجیر۔ کابرن بن کاوہ کے بیٹے کا نام ہی جسکو سہراب نے ایران جانے کے وقت قلعہ سپید کے پاس زندہ پکڑ لیا تھا۔
ہجر۔ عربی مین جدائی اور علحدگی۔ صائب۔ مردم باریک بین در
وصل ہجران میکشند ٭ مرغ زیرک گر بشاخ گل نشیند دام اوست۔
ہجوع۔ خواب وآرام۔ سعدی۔ ہمہ شب نبودش قرار وہجوع ٭ ز تسبیح وتہلیل بسیار از جوع۔
ہجع۔ مدہوش وبیخود۔
ہجف۔ بھوکا ہونا۔
ہجوم۔ جمع ہونا مجمع کرنا۔ طالب آملی۔ عشق بر کشور تن از شش جہت آورد ہجوم ٭ پر حذر باش کہ تسخیر بلاد تو از دوست۔
ہجو۔ بدگوئی وبدکلامی۔
ہجمہ۔ اونٹون کا گلہ جو چالیس سے زیادہ ہو
ہجدہ۔ اٹھارہ عدد ہین۔
ہجری۔ سنہ ہجری جو اسلام مین رائج ہی ابتدا اسکی حضرت رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے اور مدینہ مین داخل ہونے سے قرار پائی جو آج ۲ ماہ شوال سنہ [illegible] ہجری ہی۔

ہاے با دال

ہدا۔ ہدایت اور سیدھا راستہ۔
ہدایا۔ جمع ہدیہ بہت سے تحفے۔
ہدات۔ ہدایت کرنے والے ہادی کی جمع ہی۔
ہدایت۔ سیدھا راستہ دکھلانا رہنمائی کرنا۔
ہدنج۔ خنگ گھوڑا جسکے بال سپید ہون۔
ہدر۔ لغت یزد مین ایک مقام ہی۔ محسن تاثیر۔ شد خانۂ من باین فضائل ٭ در وصف ہدش بعجز قائل۔
ہدہد۔ مشہور پرندہ ہی۔ حافظ۔ اے ہدہد صبا بسبا میفرستمت ٭ بنگر کہ از کجا بکجا میفرستمت۔
ہدر۔ خون مباح ہونا باطل وضایع وناچیز ہونا۔
ہدش۔ لغت یزد مین ایک مقام کا نام ہی۔ محسن تاثیر۔ خوش آب وہواے آن گلستان ٭ اول ہدش ست وکبس طرز جان۔
ہدف۔ نشانہ تیر کا۔
ہدنگ۔ خنگ گھوڑا۔
ہدم۔ ویران کرنا گرانا مسمار کرنا۔
ہدان۔ بزدل واحمق بیوقوف۔
ہدن۔ صلح وصفائی۔
ہدمان۔ ایثار کرنا یعنے کوئی چیز اپنے خرچ سے لگا لگا کر دوسرے شخص کو دیدینا۔
ہدرہ۔ سود وفائدہ وحق اور ہدرہ بیفائدہ۔

ہدیہ - تحفہ اور اچھی چیز جو کسی دوست کو دیجائے - فردوسی ہمہ
ہدیہ ہا ساختند و نثار + ز دینار و از گوہر شاہوار -
ہدیہ - ایک جانور ہے جسکے بہت سے ہاتھ پاؤن ہین اور عوام اسکو خر خدا کہتے ہین
ہدینہ - نردبان زینہ لوری -
ہدی - وہ اونٹ اور بکری وغیرہ جانور جو کعبہ کو قربانی کے لیے بھیجے جائین اور فارسی مین وہ زمین جسمین بارانی زراعت ہو جاتی ہے کھیتی

ہائے با ذال معجمہ

ہذر - ہیچکارہ و بیہودہ -
ہذیل - عرب مین ایک قبیلہ ہے -
ہذیان - بیماری کی بیہوشی مین بکنا و اہیات باتین کرنا -

ہائے با رائے

ہرا - بفتح گولی سونے اور چاندی کی جو گھوڑے کے زین کی رخت مین لگائی جاتی ہے گھوڑے کی حمایل مین بھی نصب کرتے ہین -
ہرا - بضم اول و تشدید رائے شور و فریاد و آواز مہیب و ترس و بیم اور چکارہ دینا چمکنا -
ہرا - بفتح اول مخفف ہرات جو مشہور شہر ہے -
ہرب - بفتحتین فرار کرنا بھاگنا اور شدت غم و الم کی -
ہرات - ایک شہر دار الملک خراسان ہے بعض بکسر ہائے و بعض بفتح ہائے اسکو بولتے ہین ہری بھی اسکا نام ہے - رباعی - ہرات بنا دست ہری را بنیاد + گشتاسپ دگر رو بنائے بنہاد + بہمن پس ازان عمارت دیگر کرد + اسکندر رومیش ہمہ داد بباد + خواجہ نظام الدین نظامی گنجوی اس شہر کی آبادی منسوب بسکندر رومی کرکے لکھتے ہین - نظامی - ہرات کے گنجش چو پدر رام کرد + بہ پہلو زبانش ہری نام کرد -
ہر ہفت - سات سنگار عورتون کے جو ہر ایک ملک مین الگ الگ ہین ہندوستان کی زنانہ آرایش پوشاک زیور حنا سرمہ پان مسی کنگھی چوٹی اور ایرانی آرایش ہر ہفت وسمہ حنا گلگونہ سفیداب زرک غالیہ سرمہ ہے - صائب - در انتظار تو ہر ہفت کردہ ہشت بہشت + نظر سیاہ نگردان بہر تماشائے -
ہرمست - بفتح اول و ضم میم نام ستارہ مشتری و نام روز پنجشنبہ و نام روز اول ہر ماہ شمسی -
ہرنوت - مکر و حیلہ و خست و خیانت و بدگوئی و غصہ و کینہ جو دل مین ہو -

ہرج - بفتح اول و سکون ثانی فتنہ و آشوب -
ہرج مرج - سرگشتگی و آوارگی -
ہرانید - حقیقت و چگونگی -
ہرد - زرد چوبہ جسکو ہندی مین ہلدی و ہردی کہتے ہین -
ہرمزد - نام ستارہ مشتری و روز پنجشنبہ -
ہرنار - ایک نہر جو بیابان شہر کے نیچے جاری ہے -
ہر - بفتح اول فارسی مین ایک کلمہ ہے جو افادہ معانی عموم کرتا ہے اور کبھی افادہ معنی شرط کرتا ہے چنانچہ کہا جاے کہ ہر کہ در پنجا آید اور اسلام گفتم - سعدی - عزیزے کہ از درگہش سر بتافت + بہر در کہ شد ہیچ عزت نیافت -
ہر - بکسر اول و تشدید ثانی گربہ یعنے بلی جو مشہور جانور ہے -
ہر - بفتح اول و تشدید ثانی ساخت اسپ مثل زین و لگام وغیرہ -
ہریر - بروزن فقیر بانگ سگ کتے کی آواز -
ہرگز - کسی وقت کسی زمانہ مین کبھی ہمیشہ ابداً آباد - سعدی تا بدو کان خانہ ورگردی + ہرگز اے خام آدمی نشوی -
ہرمز - ہر شمسی مہینے کا پہلا دن اور نام ستارہ مشتری کا اور نام نوشیروان کے بیٹے کا - سعدی - شنیدم کہ در وقت نزع روان + بہرمز چنین گفت نوشیروان + کہ خاطر نگہدار درویش باش + نہ در بند آسایش خویش باش -
ہرتوز - بہ تائے فوقانی سچ کہنا اور سچی خبر پہونچانا -
ہرز - وہ مغاک جسمین نا کارہ پانی جمع ہو -
ہرشیر - ژندی زبان مین صدق و یقین -
ہرموز - ایک شہر کا نام ہے -
ہرمس - بکسر اول نام ادریس علیہ السلام جو نبی اور بادشاہ اور حکیم تھا اور حساب و ہندسہ و ہیئت سب اسیکا پیدا کیا ہوا ہے -
ہرماس - شیر درندہ -
ہراس - ترس و بیم و خوف - سعدی - چنین گفت مرد حقایق شناس + ازین ہم کہ گفتی ندارم ہراس -
ہرس - چھت کی لکڑیان جو مکان پر ڈالی جاتی ہین -
ہرقلوس - ایک قسم کی کاسنی کا نام ہے جو دوا مین مستعمل ہے -
ہراش - قے کرنا اور استفراغ و شگوفہ -
ہرش - کتون کو لڑنے پر برانگیختہ کرنا -
ہربنک - ایک گھاس کا نام ہے جو گیہون کے کھیت مین پیدا ہوتی ہے

اسکا بیج گیہون مین مل جاتا ہی جو نکال ڈالتے ہین اگر کھایا جاتا ہی
تو دل کو گھبراتا ہی۔

ہرگ۔ احمق و بے عقل و بے وقوف۔

ہرمزک۔ نام خسرو بن پرویز بادشاہ کا۔

ہراک۔ کم فہم آدمی جو بہت جلد دوسرے شخص کے کہنے مین ہوجاے۔

ہراول۔ وہ فوج جو سب سے اول لڑائی پر ہو۔

ہرقل۔ روم کے باشاہ کا لقب ہی۔

ہرول۔ ایک دانہ بقدر ماش کے ہوتا ہی جسکو الملک بھی کہتے ہین۔

ہروہل۔ کنجارہ یعنے کھلی تلون کی جو تیل نکالنے کے بعد رہجاتی ہی۔

ہرم۔ بفتحتین نہایت بوڑھا و ضعیف ہونا۔ سعدی۔ کرا ورا ہم
وست قدرت بہ نیست + ترا بر کرم ہمچنان دست ہست۔

ہروم۔ نام ایک شہر اور پہلوان کا اسی شہر مین نوشابہ فرمان فرما
تھی اسکندر رومی نے اسکا نام بروع رکھا۔

ہروتوم۔ تخم بذر قطونا یعنے اسپغول جو مشہور دوا ہی۔

ہرمان۔ یہ دو گنبد ملک مصر مین قدیم زمانے کے بنے ہوئے ہین اور
حکماے قبل از طوفان نوح انکو بنایا تھا بعض کا قول ہی کہ وہ دونو
گنبد ادریس علیہ السلام نے تعمیر کیے تھے طوفان مین وہ منہدم نہین
ہوئے حضرت علی علیہ السلام سے طلسم کیصورت سے جو ایک گدھ
کی شکل ہی اور بچھایا ہی کو پنجہ مین پکڑے ہوئے انکی بنا کی تاریخ معلوم
کی بنی الہرمان النسر نے السرطان یعنے بنائے گئے ہرمان نسر طائر مین
اس سے ظاہر ہوا کہ تقریبًا پانچہزار سال آدم کی پیدائش سے پیشتر
جنھون نے ان گنبدون کو بنایا تھا کیونکہ اب نسر جدی مین ہی اور
نسر دو ہزار سال مین ایک برج طے کرتا ہی۔

ہرجان۔ پہاڑی بادام جسکا تیل قوت باہ بڑھاتا ہی عربی مین
اسکو بیت الہرجان کہتے ہین۔

ہرطمان۔ ایک گھاس کا نام ہی جسکو قرطمان بھی کہتے ہین۔

ہرفولیون۔ یونانی زبان مین ایک قسم کے پودینہ کا نام ہی۔

ہرین۔ دہشتناک آواز مانند آواز شیر وغیرہ درندون کے
جو خوفناک ہون۔

ہراسان۔ ڈرتا ہوا اور خوفناک۔

ہرو۔ فارسی مین شجاع و دلیر اور عربی مین ارنا جو بدمستی وغیرہ سے۔

ہراسہ۔ خوفناک شکل جو باغبان زراعت مین بناتا ہی تاکہ اس سے
جانور ڈر کر بھاگ جائین۔

ہرزہ۔ بیہودہ و بے فائدہ۔

ہرآئینہ۔ البتہ بیشک۔ استاد فرخی۔ ہرآئینہ نبود دست خاک را
برباد + چنانکہ آتش سوزندہ را آب روان۔

ہرمسیہ۔ منسوب بہرمس جو ایک فرقہ ہرمس حکیم کا پیرو ہی بعض کے
نزدیک ہرمس ایک اور حکیم سواے ادریس نبی علیہ السلام کے تھا
جس سے فرقہ ہرمسیہ منسوب ہی۔

ہرہ۔ بکسر اول گربہ مادہ جو نر نہو یعنے بلی۔

ہرولہ۔ گھوڑے کی رفتار جسکو پویہ کہتے ہین۔

ہریسہ۔ ایک قسم کے آش کا نام ہی جو گیہون کوٹ کر اور گوشت
و روغن و نمک مصالحہ ملا کر پکاتے ہین۔

ہربد۔ آتشکدہ اور آتش پرست۔

ہرسنہ۔ عشق پیچان جو مشہور بیل ہی۔

ہرقلوہ۔ ایک قسم کی جنگلی کاسنی ہی۔

ہرگارہ۔ بکاف پارسی پتھر کی ہنڈیا اور لوہے کی کڑاہی یا ہنڈیا
جسمین حلوا پکاتے ہین۔

ہرلوہ۔ میوہ درخت عود کا جو مرچ کیطرح ہوتا ہی اور عود کی بو دیتا ہی۔

ہروانگہ۔ بواو کہ تیسرا حرف ہی بیمارخانہ جسکو دارالشفا کہتے ہین۔

ہشرہ۔ مقعد کا سوراخ جس سے اندرونی فضلہ نکلتا ہی اور نام
ایک قسم کی گھاس کا جسکا غورہ خشخاش کے غورہ کیطرح ہوتا ہی
اور اسکے کھانے سے بیہوشی آتی ہی۔

ہری۔ نام شہر ہرات جو دارالملک خراسان کا ہی۔ نظامی۔ بناکرد
شہرے چو شہر ہری + کزو انسان کند شہر کم دیگری۔

ہروی۔ منسوب بہرات اور نام ایک قسم زبان فارسی کا ہفت اقسام
پارسی مین سے۔

ہاے با زاے معجمہ

ہزت۔ عیش و خوشی۔

ہزیمت۔ بھاگنا کسی جنگ کے موقع سے۔ نظامی۔ ہزیمت درافتاد
بدخواہ را + جہان داد شاہی جہان شاہ را۔

ہزج۔ وہ آواز جو سُر تال کے ساتھ ہو اور نام ایک بحر کا بحور نظم سے۔

ہزبر و۔ ایک آبی جانور کا نام ہی اور نام چوتھی بلا زہی نردکا۔

ہزار۔ بلبل جو مشہور جانور ہی اور بعض کے نزدیک ہزار ایک
جانور سواے بلبل کے ہی۔ حافظ۔ صد ہزاران گل شگفت و بانگ
مرغے برنخاست + عندلیبان را چہ پیش آمد ہزاران را چہ شد۔

ہژبر - بکسر اول وفتح ثانی شیر درندہ - نظامی - گر شیر پیش آید و گر ہژبر + بر و نیل بارم چو بارندہ ابر -

ہژبار - زاید دانت گھوڑے کے جنکے سبب سے وہ چارہ نہین چبا سکتا جب تک وہ اُکھاڑے نہ جائین -

ہژیر - بحرف سوم یائے تحتانی جلدی و چالاکی و ہشیاری و ستودہ و پسندیدہ و خوب و نیک -

ہژاہژ - خوف و ترس و جنبش و ہزیمت - سنجر کاشی - ہنگام ہژاہژ خزان ست + در مرز از ان صبا وزان ست -

ہژاع - مرد ضعیف و خوفناک -

ہژال - لاغری و ضعف -

ہژل - بیہودہ باتین اور مسخری -

ہژر - مرد شجاع و دلیر -

ہژہ - ہلانا کسی چیز کو جنبش دینا و بکسر اول جنبش سواروں کی اور خوشی و ناخوشی کا -

ہژینہ - بروزن خزینہ خرچ و نفقہ جو عیال کو دیا جائے -

ہاے با سین

ہست - ہے اور موجود مقابل نیست اور معدوم کے - مولف - نیست و ہست ہر چہ ہست از لست + راست و چپ بلند و پست از لست -

ہستہ - خستہ یعنی تخم خرما وغیرہ کا جو میوہ کے اندر ہو -

ہسترہ - پالان گدھے وغیرہ کا جسمین اینٹ و مٹی وغیرہ ڈالکر لیجاتے ہین -

ہستی - عالم موجودات و مخلوقات - نظامی - پناہ بلندی و پستی توئی + ہمہ نیستند آنچہ ہستی توئی -

ہاے با شین

ہشت - آٹھ عدد ہین -

ہشت - بکسر اول چھوڑا اور چھوڑنا - سعدی - قیامت کسے بینی اندر بہشت + کہ معنی طلب کرد و دعوے بہشت -

ہش - بفتح اول شادان و کشادہ رو -

ہُش - بضم اول مخفف ہوش -

ہشاش - شگفتہ چہرہ اور خندان رو -

ہاے با ضاد معجمہ

ہضیمت - ظلم اور غضبناکی -

ہضم - توڑنا کسی چیز کا ریزہ ریزہ کرنا اور پچ جانا طعام کا معدہ مین -

ہضیم - ستم رسیدہ و مظلوم -

ہضبہ - بلند زمین اور پشتہ -

ہاے با طاے

ہطلان - خفیف بارش جو چند روز برابر ہوتی رہے -

ہاے با فاے

ہفت - سات عدد ہین جسکو عربی مین سبع کہتے ہین - کمال اسماعیل - دہان بست ہفت آب خاک و تو بنمود + بدست کو کہ گوید چنین سخنہا باز -

ہُفت - بضم اول ایک گھونٹ شراب یا پانی کا جسکو فارسی مین دم عربی مین جرعہ کہتے ہین -

ہفوت - بیہودہ گوئی و لغزش و خطا -

ہفتاد - ستر عدد ہین سے - در لیغا کہ عمرت بہفتاد رفت + بالبو ہفت ہبا و رفت -

ہفوش - ایک قسم کے چاول ہین جو تکلف سے پکائے جاتے ہین اور ترکیب اسکے پکانے کی ہفت قلزم مین لکھی ہے -

ہفہف - آواز سنگ کُٹنے کی آواز -

ہفتہ - سات دن کا عرصہ شنبہ سے جمعہ تک - سعدی - شنیدم کہ یک ہفتہ ابن السبیل + بیامد بمہمان سرائے خلیل -

ہفدہ - سترہ عدد ہین -

ہاے با قاف

ہقعہ - بفتحتین جیم جنہا نام منزل پانچوین کا منازل قمر سے اور وہ تین ستارے جوڑا ہین ایک دوسرے کے پاس ہین -

ہاے با کاف

ہکذا - پہلا الف اسکا تحریر مین نہین آتا کلمہ ظرف ہے یا نہی تنبیہ اسکے فارسی مین چنین اور ہندی مین اسی طرح -

ہکہک - ہچکی جو ایک بیماری ہے -

ہکل - بضم سماروغ یعنی خاکی انڈا جو برسات کے موسم مین زمین سے سپید رنگ انڈے کی صورت پر خود رو نکلتا ہے اور لوگ اسکو پکا کر کھاتے ہین -

الف با لام

ہلا - کلمہ تنبیہ ہے فارسی اسکے معنے آگاہ باش اور ہندی مین خبردار - سعدی - شنید از درون عابد آواز پا + ہلا گفت بر در چہ پائے بپا -

ہلب - موے خوک یعنی سور کے بال اور وہ لکڑی جو ملاح پانی کی تھاہ لگنے کے لئے اور چھوٹی کشتی کو اس سے چلاتے ہین ہندی مین اسکو

حیا کہتے ہیں۔

ہلاکت۔ ہلاک کرنا تلف کرنا ماردینا ضائع کرنا۔

ہلند۔ مرد بیگانہ و بیچارہ۔

ہلندورز۔ ایک گھاس کا نام ہی جو دوا میں مستعمل ہی۔

ہلالوش۔ شور و غوغا فتنہ و آشوب۔

ہلنش۔ ایک مردار خوار جانور کا نام۔

ہلک۔ بضم اول ہلاکت و نیستی۔

ہلک۔ بفتحتین فارسی میں ہکہک یعنے ہچکی جو ایک بیماری ہی۔

ہلاک۔ ہلاکت تلف کرنا ماردینا۔ سعدی۔ قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت + نوشیروان نمرد کہ نام نکو گذاشت۔ لاہجی۔ نوری بشیر نے کو نام خود رہبر کند + ما میان راہ ہلاکت آنگند۔

ہلتاک۔ برف جو ہوا سے برستی ہی۔

ہلیک۔ زرد آلو جو مشہور چیز ہی۔

ہلاہل۔ ایک قسم کے زہر قاتل کا نام ہی جو کسی تریاق سے علاج پذیر نہیں ہی اور ہلاہل نام ایک پہاڑ کا ہی چین میں جس پر زہریلا سبزہ ملتا ہی اسواسطے اسکا نام بھی ہلاہل رکھا گیا اور وہ زہر نہایت موثر زہر ہی۔

ہلال۔ نیا چاند جسکو تین شب تک ہلال کہہ سکتے ہیں محمد قلی سلیم۔ ہر انگشتم برائے دل خراشی + ہمہ ناخن چو انگشت ہلال است۔

ہلال ہلال۔ لخت لخت و پارہ پارہ۔ صائب۔ اگر زسنگ حوادث شود ہلال ہلال + صدا بلند نگردد ز جام دردکشان۔

ہلک۔ بضم اول فارسی میں آغوش و بغل۔

ہلل۔ فارسی میں بگمار یعنے چھوڑ اور کنگل ال وغیرہ کی جس سے تیل نکال چکے اور عربی میں چھوٹی الایچی جسکو قاقلہ صغار بھی کہتے ہیں۔

ہلیلج۔ یہ ایک دوا واسطے بند کرنے خون اور تحلیل کرنے ورم کے عصارہ درخت مغیل سے بناتے ہیں۔

ہلبال۔ غربال یعنے چھلنی جس میں آٹا چھانتے ہیں جسکو پرویزن بھی کہتے ہیں۔

ہلہ۔ فارسی میں اسکے معنے بیا یعنے صیغۂ امر ہی۔

ہلہلہ۔ یہ ایک بازیکا نام ہی جو کہ پانی میں لڑکے کھیلتے ہیں ہی۔ شرف الدین شفائی۔ موسی ہلہلہ بازی چپلان بکجا رفتہ + تا کاری صد ید صد کرمان بکجا رفتہ۔

ہلاشم۔ ہر ایک چیز جو زبون و زشت ہو۔

ہلو چین۔ جھولنا جو چھت یا درخت کے ساتھ رسن باندھکر جھولتے ہیں۔

ہلوزن۔ وہ نقش جو دیوار پر کریں۔

ہلیون۔ ایک جنگلی میوے کا نام ہی جو سیب کی صورت پر ہوتا ہی مگر سیب سے چھوٹا علف شیران و علف خرس و لفاح البری بھی اسکو کہتے ہیں۔

ہلیون۔ یہ ایک گھاس ہی جسکو مارچوبہ اور مارگیاہ کہتے ہیں اسکا آبجوش اگر کتے کو دیں کھانے فی الفور مرجاتا ہی اور جانوروں کے زہروں کو دفع کرتا ہی۔

ہلاکو۔ ایک ظالم سفاک بدسیرت بادشاہ کا نام ہی جس نے بغداد کو قتل کیا خاندان عباسیہ برباد کیا لاکھوں آدمی تہ تیغ کیے اسکے باپکا نام تولی خان بن چنگیز خان تھا۔ گر از نوشیروان چہرہ نماید + گئے حجاج گردد گہ ہلاکو۔

ہلو۔ ایک قسم کے شفتالو کا نام ہی جو نہایت شیرین اور لذیذ ہوتا ہی محسن تاثیر۔ شفتالو سے ولبان ہلو کش + خوبان جہان درآرزو کش۔

ہلیچو۔ ژندی لغت میں آلو چہ جو مشہور میوہ ہی۔

ہلیسم۔ وہ چپو یعنے چوڑی لکڑی جس سے ملاح کشتی چلاتے ہیں اور وہ ستون جس سے کشتی باندھتے ہیں۔

ہلیلہ۔ مشہور پھل ہی جسکی تشریح ادویات کی فصل میں کی گئی ہی۔

ہلیانہ۔ [illegible] جو ایک مشہور دوا ہی۔

ہلی۔ چھوڑ [illegible] سعدی۔ [illegible] + وگر بجہان [illegible]

ہلالی۔ منسوب ہلال جیسے جام ہلالی [illegible] صائب۔ [illegible] جام ہلالی [illegible] + ہلالی۔ [illegible] ہلالی [illegible]

باب ہا مع المیم

ہما۔ گویا شاید ہم چنان و ہمچنین۔

ہما۔ مشہور جانور ہی اسکا سایہ جسکے سر پر پڑجاتا ہی سلطنت اور دولت اسکو پہنچ جاتی ہی۔ سعدی۔ ہما ہے بر ہمہ مرغان از آن شرف دارد + کہ استخوان خورد و طاہر نیازارد۔

ہمچا۔ [illegible]

ہمبلا۔ [illegible] کی ایک کتی کا نام ہی۔

ہمت ۔ قصد ارادہ مستحکم زور و طاقت ۔ سعدی کسے را کہ ہمت
بلند اوفتد + مرادش کم اندر کمند اوفتد ۔
ہمار ۔ بفتح اول اندازہ و حساب و شمار ۔
ہمار ۔ عربی میں پرگو و بسیار گو ۔
ہمز ۔ آنکھ سے اشارہ کرنا اور پنجہ مروڑنا عیب کرنا مارنا جلانا ۔
ہمین ۔ ژندی زبان میں گرمی کا موسم ۔
ہمس ۔ نرمی آواز کی اور نرم آواز ۔
ہماس ۔ شریک و رفیق ۔
ہمس ۔ درم و دینار ۔
ہمال ۔ مثل و مانند و شبیہ و نظیر
ہموم ۔ غم اور فکر اور اندیشے ۔
ہمم ۔ بہت سی ہمتیں اور ارادے ۔
ہمام ۔ مہتر قوم و مرد بزرگ ۔
ہم ۔ بفتح اول فارسی میں اسکے معنے نیز اور ہندی میں بھی ۔ نظامی
جہاں آنچنان شد کہ درویش راست + کہ ہم خویشتن را و ہم خویش راست
ہمّ ۔ بفتح اول و تشدید ثانی غم و فکر و اندیشہ اور ارادہ و قصد کرنا
اور وہ حالت کہ کسیکو ایک ہی مرتبہ خوف و اندیشہ لاحق حال ہو جاوے
اور وہ حالت جو خوف و رجا کے درمیان ہو ۔
ہمایون ۔ مبارک و خجستہ اور نام ایک بادشاہ مغل کا جو بابر کا بیٹا تھا
سے ۔ بپایہ پائے بوسش چرخ گردون + بر تیہ بندہ اش بخت ہمایون
ہمیان ۔ وہ کیسہ جسمیں روپیہ پیسہ رکھا جاوے ۔ ابو طالب ۔
خواجہ سر جا قصۂ پیراہن یوسف شنید + چشمش جلوۂ ہمیان
در ہم میکند ۔
ہمدان ۔ مشہور شہر ایران کے علاقہ میں ۔ کلیم ۔ در دامن الوند
اگر غنچہ شود گل + زنہار مگوئید کلیم از ہمدان نیست ۔
ہمارہ ۔ اندازہ و حساب و ہمیشہ مخفف ہموارہ ۔
ہمہمہ ۔ بولنا شیر درندہ کا ۔
ہمہ ۔ سب تمام بالکل ۔ سعدی ۔ ہمہ تخت و ملکی پذیرد زوال +
نماند بجز ملک ایزد تعال ۔
ہمائے ۔ نام دختر بہمن کہ باجازت ملت آتش پرستان اپنے باپ کے
نکاح میں تھی اور داراب اسکے بطن سے پیدا ہوا اور نام اسفندیار
کے بہن کا جسکو ارجاسپ نے قلعہ روئین میں قید کیا اور اسفندیار نے
اسکو رہائی دلوائی اور ارجاسپ کو قتل کیا ۔

ہائے با نون

ہندبا ۔ کاسنی جو مشہور دوا ہے ۔
ہنگفت ۔ بفتح اول و ضم کاف فارسی موٹا و سطبر کپڑا وغیرہ ۔ سعدی
کمان کشید و نزد بر ہدف کہ نتوان دوخت + مگر بسوزن پولاد جامۂ ہنگفت
ہند ۔ ولایت ہند جو مشہور ولایت ہے ۔ نعتیہ از مولف ۔ توئی
ہادی عرب را و عجم را + توئی رہبر بہند و چین و ماچین ۔
ہنوند ۔ حیا و شرم پہلوی زبان میں ۔
ہنجار ۔ بفتح اول راستہ طریق طرز و روش ۔ استاد فرخی ہنجار
بر وپیش شد اندر شب تاریک + جائیکہ دران رہ برود باد بہنجار ۔
ہنر ۔ اچھی صنعت اور اچھا کسب مقابل عیب کے ۔ سہ بندہ عاصیم
سراپا عیب + زانکہ در خود ہنر نپندارم
ہنکار ۔ تیزی و تندی ۔
ہنوز ۔ تا حال اب تک اور نام ایک سپہدار ایرانی کا کہ گرشاسپ
پدر نریمان کی جنگ میں مارا گیا ۔ فردوسی ۔ جہاز سرفرازان یکے
کینہ توز + سپہدار او بود نامش ہنوز ۔ سعدی ۔ ہنوزت گر سر صلح
باز آمے + کزان محبوب تر باشی کہ بودی ۔
ہنوتاس ۔ مقربان بارگاہ الٰہی ۔
ہنگ ۔ بفتح اول اس لفظ کے بارہ معنے ہیں ۔ اول ارادہ و قصد
و آہنگ اور طرف اور جگہ دوسرے سنگینی و تمکین و وقار تیسرے
وزن و مقدار و اندازہ چوتھے زور و قوت و طاقت و قدرت پانچوین
غار و شنگاف جو پہاڑ میں ہو چھٹے آگاہ رکھنا اور خبردار کرنا ساتوین
زیرکی و عقل و دانائی و ہشیاری آٹھوین لیا ۔ نواں جیسے بہت سا
نوین قوم و قبیلہ و لشکر و سپاہ دسوین ضرب و مار سوم و اسباب آزار
گیارھوین وہ پانی جو پیا جاوے بارھوین زکام و ہوا زدگی و نزلہ
ہنک ۔ بکسر اول زحیر و پیچش کی بیماری ۔
ہنگام ۔ ہنگامہ ۔ وقت و زمانہ اور ہجوم آدمیون کا ۔ سعدی ۔
دوش با لکی بہ ہنگام برداشت + ہمیدانکہ چند از شب گذشت
درازی شب از مژگان من پرس + کہ یکدم خواب در چشمم نگشت ۔
نظامی ۔ نہادم ز صہر شیوہ ہنگامہ + مگر در سخن نو کنم نامہ
ہنام ۔ ژندی زبان میں پیشہ اندام ۔
ہنجام ۔ بیکار و کاہل و باطل و مہمل ۔
ہندوستان ۔ مشہور ولایت ہے ۔ نظامی ۔ دو ہفتہ چو آرا
ز ہندوستان پہلو و با شکوہ گر باسبان ۔

ہَن - بفتح اول منت واحسان -
ہندو - وہ شخص جو ہند مین رہنے والا ہو فارسی مین کبھی
اطلاق چور پر کرتے ہین اور کبھی پاسبان اور کبھی غلام اور کبھی
کافر پر - توحید - نمود حضرت واحد در دوئی بسد ود + چار سوے
جہان باب اتحاد کشود + ہر حساب جدا سے یگانہ محسوب ست + شمار
واحد مطلق ہر عدد بسد ود + مجوس تابع فرمان و بندہ اش ہندو +
غلام زار مسلمان مطیع حکم یہود -
ہندہ - عرب کی ایک عورت کا نام ہی جو کفار قریش کے سردار
ابو سفیان کی زوجہ اور معاویہ امیر شام کی والدہ تھی جب ابو سفیان
لشکر لیکر پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم پر چڑھ جاتا تو یہ بھی ساتھ جاتی
بدر کی جنگ مین اسکا بھائی سید الشہدا امیر حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا
وہ کینہ اس عورت کے دل مین تھا احد کی جنگ مین جب امیر حمزہ شہید
ہوے تو یہ عورت بہت خوش ہوئی اور نعش پر جا کر حضرت حمزہ کے
ہاتھ پانون ناک کان عضو تناسل کاٹنے کے لیے مثلہ کیا اور سینہ چیر کر دل
و جگر نکالا اور دانتون مین چبایا خدا کی پناہ -
ہَندہ - بفتح اول وہ داغ جو اونٹ کی گردن کے پیچھے ہو اور نام چھٹی
منزل کا منازل قمر سے -
ہندوانہ - مشہور پھل ہی -
ہندسہ - اندازہ اور نام ایک علم کا ہی جس سے معرفت اشکال
و مقادیر اشیا حاصل ہو -
ہندو کوہ - نام ایک پہاڑ کا ہی جو کابل سے ہالیکس پر واقع ہی
ہندی - منسوب بہند یعنے ہند کا رہنے والا یا ہند کی بنی ہوئی
کوئی چیز جیسے ہندی تلوار وغیرہ اور تخلص ایک شاعر کا جسکا اصلی
نام رائے بہادر کنھیا لال تھا فارسی نظم اور نثر اردو کتابین اسکی مثلاً
ظفر نامہ رنجیت و مثنوی نگارین نامہ اور دیوان مناجات ہندی اردو
وغیرہ بہت ہین سب کتابین بارہ فارسی و اردو ہین انگریزی مین
بھی یہ بزرگ صاحب تصنیف گذرا ہی لاہور مین قیام پذیر تھا محکمہ
انجنیری مین عہدہ ایکزیکٹو انجنیری پر ممتاز تھا - ہندی - در زبان
پارسی ہندی نوشت + نسخہ مطبوع و نظم دلپذیر -
ہنی - خوشگوار اور با ذائقہ -

ہاے با واو

ہوا - جوف فلک یعنے وہ فاصلہ جو آسمان اور زمین مین ہی اور خالی
اور باد جو ایک عنصر عناصر اربعہ سے ہی و آرزو و اشتیاق و خواہش
و دوستی و خیر خواہی - نظامی - غبار د ہوا تا نگوئی ببار + زمین با ورد
تا نگوئی بیار - حافظ - فتاد در سر حافظ ہواے چون تو شہی + کمینہ
بندہ خاک در تو بودی کاج -
ہویدا - ظاہر اور سب کے سامنے -
ہوسپ - ژندی زبان مین نیکنامی اور نیکی و خوبی -
ہویت - مرتبہ وحدت و ذات باری تعالی -
ہوخت - نام بیت المقدس جو قبلہ انبیا کا تھا اور اب بھی اسکو قبلہ مانتے ہین
ہودج - کجاوہ پردہ دار سواری اونٹ اور ہاتھی کی عورات کے لیے -
ہوادج - جمع ہودج -
ہوربج - اونی پتلی -
ہورخ - بزبان عجم بیت المقدس -
ہود - نام ایک پیغمبر کا ہی جسکی نافرمانی کے سبب سے قوم عاد پر عذاب
نازل ہوا اور نام ایک سورہ کا قرآن مین اور توبہ کرنا اور خدا کی طرف
رجوع لانا -
ہور - بواو مجہول آفتاب عالمتاب - سعدی - بتابد لیے ماہ و پروین
و ہور + کہ سر بیداری بالین گور -
ہوبر - بباے موحدہ [illegible] رفاقت و امداد و پشت -
ہودر - بواو مجہول و فتح دال [illegible] بد قیافہ آدمی -
ہورقش - ستارہ مشتری -
ہورشتن - سیٹی کی آواز -
ہوشار - [illegible] لنگڑے اور [illegible] -
ہواجس - جمع ہاجس وسوسے جو دل مین گزرتے ہین -
ہوس - آرزوے نفس و خواہش - بابا فغانی - چشم دے ز دیدن
روئے تو بس نکرد + روے تو [illegible] بہر کہ باز آنش ہوس نکرد -
ہولیس - حرکت غیر معلوم و جان [illegible] روح و جوہر لطیف -
ہوش - زیرکی و عقل و دانائی و بمعنی جان و موت و مرگ -
میرزا معز فطرت - خانہ زاد چشم آہو بود داغ لالہ اش + از نگاہ
او نصیب اسکے ہوشمند بود -
ہوشنگ - نام ابن کیومرث علیہ السلام جو پہلے بادشاہون مین سے
ابن سیامک بن کیومرث -
ہوکیک - ایک جانور [illegible] ہر وقت الٹا رہتا ہی جب تک خون اسکے
گلے سے نہین نکلتا تھا [illegible] ہوتا -
ہوکیک - چھوٹا خربزہ -

ہولشک ۔ بدبخت و بدنصیب آدمی۔
ہولاک ۔ گیند کھیلنا اور چوگان بازی۔
ہوبدک ۔ ملحدون کے ایک پیشوا کا نام ہی۔
ہوالک ۔ جمع ہالک ہلاک کرنے والی بیماریان۔
ہَول ۔ ڈر اور خوف اور بیم و ہیبت و ترس۔ سعدی۔ چنان ہول زان حال برمن نشست + کہ ترسیدم از پاے رفتن ببست۔
ہودل عمارت رصد جو ستارون کے دیکھنے کے لیے بناتے ہین۔
ہوام حشرات الارض مار کژدم وغیرہ۔
ہوم ۔ ایک درخت کا نام ہی جسکے پتے آتش پرست عبادت کیوقت اپنے پاس رکھتے ہین۔
ہَون ۔ بفتح اول عربی مین آرام و آہستگی اور وقار اور نرمی اور سبکی اور فارسی مین وہ زراعت جسمین مٹی کے ڈھیلے زیادہ ہون۔
ہُون ۔ بضم اول عربی مین خواری اور بیعزتی اور فارسی مین کلمہ تاکید و استکراہ اور ایک قسم کا دینار و سکہ جو دکن مین رائج تھا۔
ہُو ۔ بضم اول و واو معروف خوف و بیم و اسم حضرت حق سبحانہ تعالیٰ۔
ہَوُو ۔ بفتح اول و واو معروف مضموم بروزن سبو انباغ یعنے دو عورتین جو ایک مرد کے نکاح مین ہون۔
ہَو ۔ بفتح اول ریم اور زرد پانی جو زخم سے نکلتا ہی۔
ہوالہ ۔ ہولناک و خوفناک۔
ہوبہ ۔ دوش و کتف۔
ہودہ ۔ بدال مہملہ حق و راست و درست چنانچہ بیہودہ ناحق و ناراست۔
ہوزہ ۔ چکاوک جو ایک پرندہ ہی۔
ہوائی ۔ عاشق بوالہوس اور ایک قسم کی آتشبازی۔ میر خسرو۔ بدست باد صبا زان نمید ہم پیغام + کہ محرم تو شدن کار ہر ہوائی نیست۔
ہوبلے ۔ بکسر لام وہ گھوڑا نیا جسکی پیٹھ پر زین نہ باندھا گیا ہو۔
ہولی ۔ ترس و بیم و خوف۔

ہاے با یاے

ہیجا ۔ جنگ و کارزار یعنے لڑائی۔
ہیولا ۔ مادہ ہر شے کا اور اصل اور ماہیت ہر ایک چیز کی و جوہر اول و روح اعظم۔
ہیمیا ۔ علم طلسم کا۔
ہیلا ۔ باشہ جو ایک شکاری جانور ہی۔
ہیہات ۔ بعید ہوا اپنے مطلب و مقصود سے یہ لفظ افسوس کے مقام پر بولا جاتا ہی۔ سعدی ۔ کہ ہیہات قدر تو نشناختم + بلشکر قدومت نپرداختم
ہیئت ۔ بروزن نخیرت بن جانا کسی صورت اور شکل کا اور نام ایک علم کا جس سے مساحت کرہ زمین اور اشکال افلاک کی تشریح کیجاتی ہی
ہیلاج ۔ زائچہ ولادت مولود کا جس سے منجم اسکی عمر دریافت کرتے ہین۔
ہَیج ۔ بفتح اول و جیم عربی گرد و غبار اور اٹھایا جانا۔
ہَیّج ۔ بفتح اول و تشدید یاے تحتانی مکسور بروزن سید اٹھانے والا۔
ہیچ ۔ ناچیز و معدوم و اندک اور تھوڑا سا۔ دنیا ہیچ ست و کار دنیا ہمہ ہیچ + اے ہیچ ز بہر ہیچ بر ہیچ مپیچ۔
ہیداج ۔ گھوڑا جو تیز اور تند ہو۔
ہیدر ۔ [illegible] جس سے [illegible] اڑا کر غلہ بھوسہ سے جدا کرتے ہین۔
ہیربد ۔ خادم آتشخانہ کا پوجاری کسی بت خانہ اور عبادت گاہ و مندر کا و صاحب و خداوند۔
ہیر ۔ آگ جسکو آتش بھی کہتے ہین اور نام ایک معشوقہ کا جو جھنگ علاقہ پنجاب مین تھی اور رانجھا اسپر عاشق تھا قصہ انکا مشہور ہی۔
ہیکر ۔ وہ گھوڑا سرخ جو سیاہی مائل ہو۔
ہیز ۔ مخنث جو نہ عورت ہو نہ مرد و بد دل اور ڈرپوک آدمی۔
ہیش ۔ بمعنی ہیچ و لاشی و ناچیز اور قسم ایک کپڑے کی جسکو بافتہ کہتے ہین۔
ہیرک ۔ بچہ بز یعنے بکری کا بچہ۔
ہیکل ۔ کوئی ایسا جسم جس سے اسکی عظمت دیکھتے ہی ظاہر ہوجائے و صورت و شکل و حمائل و تعویذ۔ سعدی ۔ بہ ہیکل قوی چون تناور درخت + ولیکن فرومانده بے برگ سخت۔
ہیاکل ۔ جمع ہیکل۔
ہیل ۔ الایچی سپید جسکی تشریح ادویات کی فصل مین ہوئی ہی۔
ہَیم ۔ بفتح اول سرگشتگی و حیرانی۔
ہِیم ۔ بکسر اول پیاسا اونٹ۔
ہیزم ۔ خشک لکڑی جلانے کی۔ نظامی ۔ ہمہ سختی از بستگی لازم ست + چو در بشکنی خانہ پر ہیزم ست۔ مولوی معنوی ۔ آدمی را آدمیت لازم ست + عود را گر بو نباشد ہیزم ست۔
ہیون ۔ اونٹ اور گھوڑا۔ ظہوری ۔ روز رزم تو گشتہ خفتان پوش + تن گردان ز نقش نعل ہیون۔
ہیجان ۔ برانگیختہ ہونا۔

ہین - بالکل سیلاب اور بمعنی انیک اسیوقت اور چھوڑ اور شتاب ہو
اور خبردار ہو یہ کلمہ زجر کا ہے -
ہتھیان - کذب و دروغ یعنے جھوٹ -
ہیرون - ایک قسم کا بانس ہے جسکو قصب کہتے ہین -
ہیہان - سرگشتگی و حیرانی -
ہیاہ - دوال یعنے دورا چمڑے کا ہو یا سوت کا -
ہیمہ - جلانے کی لکڑی -
ہیلہ - مخفف ہلیلہ
ہیضہ - بدہضمی جو ایک بیماری ہے -
ہی - فارسی مین ایک کلمہ تنبیہ اور خبرداری و چشم نمائی و آگاہی کا
ہے اسیری لاہی - گفتم کہ سر عشق کنم فاش در جہان +
ہی خرد وہ آمد و گفتا کہ ہی خموش -
ہیولائی - منسوب بہ ہیولا جو ہر ایک چیز کی اصل اور مادہ کو کہتے ہین
اور درحالت نسبت نون زاید بھی لے آتے ہین چنانچہ روحانی حقانی
وربانی وغیرہ - طالب - بلکہ جو ہر ذات تو چون رسم ہیہات +
ہنوز طفل صفت عقل من ہیولائی ست -

دوسری فصل

اردو لغات کے ذکر مین

ہاے بالف

ہاتھی دانت - ہاتھی کا دانت جسکو فارسی مین دندان فیل کہتے ہین
ہاٹ - دوکان اور بازار -
ہار - پھولون یا موتیون کا مالا اور مات جو بازی شطرنج وغیرہ مین
ہوجائے - مولانا اکبر - اگر ہار رقیب روسیہ کے ہاتھ سے پہنا +
گلے کے ہار ہوجائینگے ہم دل مین یقین رکھنا -
ہانس - گلے کی ہڈی جسکو ہنسلی کہتے ہین -
ہالون - یہ ایک تخم مشہور ہے جسکو حب الرشاد عربی مین کہتے ہین
ہاتھ - فارسی مین دست عربی مین ید ہے مولانا اکبر لاہوری [illegible]
مجلس مین جاؤگے اگر اے شمع رو + اپنی کھو بیٹھوگے تم توقیر اپنے ہاتھ سے
ہاتھی - مشہور چارپایہ ہے جسکو فارسی مین پیل عربی مین فیل کہتے
ہین - حکیم محمد انور لاہوری - بہت سا رہیگا جہان مین نہ تھوڑا +
[illegible] پالکی اور نہ ہاتھی نہ گھوڑا -
ہانڈی - دیگ جسمین کھانا پکاتے ہین -

ہانسی - ہند مین مشہور شہر ہے -
ہائے - کلمۂ افسوس ہے -

ہاے با تاے

ہتھوڑا - لہارون اور سنارون کا آہنی اوزار ہے -
ہتھیا - وہ شدت کی بارش جو موسم برسات کے اخیر مین ہوتی ہے
فارسی مین اسکو سیل باران کہتے ہین -
ہٹ - ضد و اصرار کرنا ایک بات پہ کھڑے ہوجانا -
ہتھیار - تلوار بندوق وغیرہ سامان لڑائی کا -
ہتھوڑی - لہارون کے چھوٹے آہنی اوزار کا نام ہے -
ہتھیلی - کف دست -
ہتھنی - فیل مادہ -

ہاے با جیم

ہچکی - ایک بیماری ہے جسکو فارسی مین ہکہک کہتے ہین -

ہاے با دال

ہڈی - فارسی مین استخوان عربی مین عظم

ہاے با راے

ہرا - سبز اور تر و تازہ -
ہرنا - آہو سہرا اور کاٹھی کا ہرنا فارسی مین جسکو حناے زین کہتے ہین
ہرنوٹا - ہرن کا بچہ عربی مین اسکو غزال اور فارسی مین آہو بچہ کہتے ہین
ہڑ - ہلیلہ جو مشہور دوا ہے -
ہریاول - جس جگہ بہت سا سبزہ ہو -
ہڑتال - ایک کانی جوہر ہے جسکو عربی مین زرنیخ کہتے ہین اور
بند ہوجانا بازار کی دوکانون کا بسبب کسی فساد کے -
ہرن - مشہور جنگلی چارپایہ ہے جسکو فارسی مین آہو اور عربی مین
ظبی کہتے ہین -
ہرکارہ - جاسوس جو دور دور سے خبرین لائے اور خطوط لیجائے -
ہریسہ - ایک کھانے کا نام ہے -
ہرنی - مادۂ آہو -
ہرجائی - جسکو ایک جگہ قرار نہو مولف - ایک مسکن مین نہین ملتا
دل مضطر قرار + جیسے ہرجائی ہوا ہے یار ہرجائی مرا -

ہاے با زاے

ہزارہ - ملک پنجاب کے سرحدی ملک مین ایک پہاڑی کے علاقہ کا نام ہے

ہاے با شین

ہشن ہش - وہ آواز جس سے اونٹ کو بٹھلاتے ہین -

ہاے با کاف

ہکا بکا - متحیر و سراسیمہ حیران و پریشان -
ہکلا - جو بولنے پر بخوبی قادر نہو عربی مین اسکو الکن اور فارسی مین گنگناج کہتے ہین -
ہگوڑا - جو بار بار پاخانہ جائے -
ہگاستا - جس کو ہر وقت پاخانہ کی حاجت رہے -
ہگانٹھی - پاخانہ پھرنے کی جگہ بیت الخلا -

ہاے با لام

ہلانا - حرکت دینا جنبش دینا -
ہلکا - جو بھاری اور وزن دار نہو -
ہلاس - تنباکو کو پیسکر جو ناک مین چڑھاتے ہین -
ہل - مشہور چیز ہی جس سے زمین قابل زراعت کرتے ہین -
ہلچل - اضطراب و بے آرامی -
ہلدی - زرد چوبہ جو مشہور چیز ہی -

ہاے با میم

ہمجولی - ہم سن ہم عمر دوست یار -
ہمیانی - روپیہ پیسہ ڈالنے کا کیسہ -

ہاے با نون

ہنڈیا - وہ دیگ جسمین کھانا پکاتے ہین -
ہنڈوانا - گدہے پر بٹھلا کر کسی مجرم کو شہر مین تشہیر کرنا -
ہنسیا - وہ شخص جسکو ہنسی کی عادت ہو -
ہنس راج - ایک گھاس کا نام ہی جو پانیون کے کنارے پر پیدا ہوتی ہی -
ہنسوڑ - ہنسنے والا آدمی -
ہنس مکھ - خندان و ظریف -
ہنڈی - ایک جگہ روپیہ دیکر دوسری جگہ بذریعہ تحریر ہنڈی دینے والیکی لینا یہ رسم ہند مین جاری ہی -
ہنسی - خندہ کرنا ظرافت کرنا -
ہنسلی - ایک زیور کا نام ہی جو گلے مین پہنتے ہین -

ہاے با واو

ہوا - بہ تشدید واو وہ مہیب صورت جس سے بچے دس سال کے لڑکے ڈرین -
ہوا - خواہش اور چاہ اور باد یعنی ہوا -
ہوشیار - صاحب عقل و ہوش آدمی -

ہول - خوف و بیم -
ہول دل - دل کا دھڑکنا -
ہونٹھل - جسکے ہونٹھ پھٹے ہون -
ہو بہو - بعینہ ملتی ہوئی صورت -
ہونٹھ - لب انسان کے -
ہولے ہولے - آہستہ آہستہ -
ہولی - ہندون کے ایک تہوار کا نام ہی -

ہاے با یاے

ہیجڑا - مخنث جو مردمی سے بے بہرہ ہو -
ہیرا - مشہور قیمتی جواہر ہی جسکو الماس کہتے ہین

تیسری فصل

محاورات و اصطلاحات فارسی کے ذکر مین

ہاے با الف

ہاے و ہو - شور و غوغا جو برپا ہو - ظہوری - بہ باغ طرب بلبت یک نغمہ سنج + زلبس در غمش ہاے و ہو کردہ ایم
ہاے ہاے - غم و مصیبت کیوقت بولا جاتا ہی - شیخ - دل ہمو چو شیشہ شکستہ + از گریہ ہاے ہاے مارا -

ہاے با جیم

ہچ ہچ - بوسہ کی آواز - ملا فوقی یزدی - منکودہ از در عشرت سرا کہ خوش کوک ست + نواے ہچ و ہچ بوسہ باغر بخوانی -
ہچ کردن - راست کرنا علم کا اور درست کرنا منجنیق کا - سہ - گردون علم حکمت بر بام تو ہچ کرد + بینی بخط خویش بکوس و علم اندر -

ہاے با راے

ہر ان کجا سر کجا - ہر جگہ اور ہر موقع پر - میر معزی - از آتش جگر بدخواہ گشت خشک + وز آب دیدگان رخ بدگوے گشت تر + آرے ہر ان کجا کہ خلاف تو بگذرد + ہم آب دیدہ باشد و ہم آتش جگر -
ہر جا کہ پری وشے ست دیوے با اوست - مثل ہی یعنی جس جگہ بھلائی ہی برائی ساتھ لگی ہوئی ہی -
ہر چہ خوشتر ست - جو کچھ ہی خوشتر ہی خوب و پسندیدہ ہی - ظہیر فاریابی - گفتار تلخ زان لب شیرین تو در خور ست + خوش گن عبارتے کہ خطت ہر چہ خوشتر ست -
ہر چہ از غیب میرسد نیکو ست - جو چیز غیب سے پہونچے اچھی ہی

سہ - آنچہ روزی رسان دہد نیکوست + ہر چہ از غیب میرسد نیکوست -

ہرج مرج - فتنہ و آشوب اور خلط ملط لشبیبؔ فراز مسیح کاشی - سن و خیال البش ہرج مرج و ہر نگر + گہ گاہ ملک مگس میشود شکر زاری -

ہر چند - جس قدر ہر قدر - حکیم محمد انور لاہوری - ہر حالت خویش شرمسارم ہر چند + در چشم جہان ذلیل و خوارم ہر چند + بر فضل خدا امیدوارم انور + ہیکسی عاجز گناہگارم ہر چند -

ہر چہ از آسمان آید زمین بردارد - یعنے جو حاکم حکم کرے محکوم ملتا ہے رباعی - آنم کہ غم ہر دو جہان بردارم + بر دوش دل این بار گران بردارم + از جانب روم زسیل اندوہ چو زمین + ہر چیز آید ز آسمان بردارم +

ہر چہ در دیگ ست بچمچہ بر می آید - مثل ہے -

ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مکانے دارد - مثل ہے -

ہر کجا دیدیم آب از جو بدریا میرود - رعیت کا مال بادشاہ کے خزانہ میں جاتا ہے -

ہر کہ از خدا ترسد از وبا ید ترسید - جو خدا سے ڈرے اس سے ڈرنا چاہیئے - سعدی - ز ستمگران و لاور بترس + ہر ان کو بترسد ز داور بترس -

ہرزہ گرد - ہرزہ دو - بیفائدہ پھرنے والا - میرزا بیدل - گرد یا گیرد لفس آئینہ دار آبرو ست + چون ہوا از ہرزہ گردی منفعل شد شبنم ست - طاہر غنی - فارغ نیم ز ہرزہ دوی ہمچو آسیا + بیہودہ پائے خویش بدامن کشیدہ ام -

ہر لیسہ پز - وہ شخص جو ہر لیسہ پکاتا ہے ہر لیسہ گر بھی اسکو کہتے ہیں - سیفی - خوش نعمتے ست وصل جوان ہر لیسہ پز + ما ئیم و ہر صباح دکانش ہر لیسہ پز - فوقی یزدی - شنیدہ ام کہ فضولے ز خام طمعیہا + بلیح کردہ چقندر کہ من ہر لیسہ گرم -

ہرزہ مرس - بیہودہ گرد خراب آدمی - علی خراسانی - بر سر کوی تو از کثرت فریاد رقیب + شب ہمہ شب چو سگ ہرزہ مرس میگردد -

ہرزہ نال - ہرزہ جنگ - ہرزہ خند - ہرزہ خرج - ہرزہ دوست - ان کے معانی قریب الفہم ہیں - صائب - نیم از ہرزہ نالان چون جرس در راہ عشق او + ز طی وادی بمنزل میرساند کار وا نہا را + آقا شاپور - چہ در سست دگر چشم ہرزہ جنگ ترا + کہ بستہ راہ تبسم دہان تنگ ترا - صائب - بچشم ہرزہ خرج ہیچ دخل دنیا نمی آید + کہ چہ حاصل زین کہ برمن سبز کرد و دریا را - ابو طالب کلیم - بر تنگ ظرف سست مینا ہرزہ خند افتاد جام + بد حریفانند بکہ

ہیکسی تنہا خوش ست -

ہر زمان - ہر وقت ہر گھڑی دن رات - توحید - گردن فرمانبری خم دار پیش ذوالجلال + ہر زمان ہر ساعت و ہر وقت ہر شام و صباح

ہر کہ - ہر واحد اور ہر شخص اور ہر کس - محسن تاثیر - ہر کمال ہر کہ شاہد بے نیاز یہاے اوست + رونق گلشن ز ناز باغبان معلوم شد -

ہر چہ - ہر چیز اور ہر قدر - نظامی - ہمی ہر چہ زور آرد این دیو زاد + قوی دست گردد کہ دستش مباد -

ہر جائی جسکو ایک جگہ قرار نہو - محسن تاثیر - یکدل حریف شیوہ ہر جائی تو نیست + مستانہ جلوہ کن و ما را ز ما برآر -

ہر کارے و ہر مردے - ہر ایک کام ہر ایک مرد کے واسطے - میرزا بیدل - بیا زاہد طریق صلح کل ہم عالمے دارد + تو و تسبیح ما و مینا کشی ہر کار و ہر مردی -

ہر ہمہ و ہر یک و ہر یکے - معانی انکے معلوم ہیں - میر خسرو - عالم مطلق نہ بتعلیم کس + ہر ہمہ زو یافتہ تعلیم و بس - نظامی - چہ گویند ہر یک درین داستان + کہ دولت نہ بیند مرا زین داستان - ولہ - یکے لو نمایندہ ہر یکے ست + ہمہ ہستی از بانگ او اندکے ست -

ہرزہ درای - ہرزہ زبان - ہرزہ گو - ہرزہ لای - جو آدمی بے ہودہ گو ہو - طالب آملی - شب دراز ست مکن ہرزہ درائی طالب + تا دم نالہ مرغان سحر خوان برسد - صائب - در کاروان ما جرس قال و قیل نیست + راہ سخن بہرزہ درایان نمیدہیم - حکیم سنائی - ہر کہ او شعر ترا گوید جواب از اہل عصر + نزد او ہر کس بیاید ہرزہ گوی ہرزہ لاے -

ہاے با زاے

ہزار اسپ - ہزار بز - نام دو قلعوں کا خراسان میں اور ہزار اسپ ایک قلعہ ملک خوارزم میں بھی ہے - انوری - اے شاہ ہمہ ملک جہان حسب تراست + وز دولت و اقبال جہان کسب تراست + امروز بیک حملہ ہزار اسپ بگیر + فردا خوارزم و صد ہزار اسپ تراست -

ہزار جریب - ایران میں ایک باغ ہے جسکی زمین ہزار جریب ہے اور شاہ عباس نے تعمیر کیا تھا محسن تاثیر - چہ حاجت ست بگلگشت باغ اسیران را + قفس ہزار جریب ست عندلیبان را -

ہزار ہیچو وے اورا پیچ در شکم ست - یعنے دوسرا شخص پہلے سے ہزار مرتبہ بہتر ہے محمد سعید اشرف - قدر نگار من و شمع چہ ہم باشد + ہزار ہیچو ویش پیچ و شکم باشد -

ہزار میخ - ایک قسم کا خرقہ درویشون کا جو طرح طرح ٹکڑے کپڑے کے اسکو لگائے جاتے ہین - میر خسرو - چو گشت نغمہ مرغان صبحگاہ بلند + ہزار میخی شب بر خود آسمان بدرید -

ہزار اسفند - سداب کوہی جو ایک گھاس ہی -

ہزبر انداز - بہادر پہلوان - عرفی - چو جعد شاہد دولت بدست عزت داشت + رکاب شاہ پلنگ افگن و ہزبر انداز -

ہزار آواز - بلبل جو مشہور جانور ہی -

ہژدہ ہزار عالم - اٹھارہ ہزار عالم مخلوقات -

ہزار آستین - دریا کیونکہ ہر شعبہ اس سے بمنزلہ آستین ہی -

ہزار افشان - انگور کا جنگلی درخت -

ہزار پیرہن گوشت گرفتن - بہت سا موٹا ہو جانا شانی تکلو - دوش ہزار پیرہن گوشت گرفتہ ام کہ گفت + پارہ استخوان شدہ شانی ... شدہ ما -

ہزار رنگ برآمدن - طرح طرح کے رنگ دکھلانا اور اپنے آپ کو آراستہ کرنا - سلیم - ہزار رنگ برآمد بہ پیش روے تو گل + ولی نشد کہ تو اند نمود رنگ ترا -

ہزار ستون - وہ عمارت جو محمد تغلق بادشاہ نے تعمیر کی تھی - بدر چاچی - نہ سقف بے ستون کہ بشش بروز شد تمام + ور گوشہ ہزار ستون تو مضمر است -

ہزار داستان - بلبل -

ہزار پیشہ - وہ ایک چیز جو بہت سے کام آئے مثلاً ایک کارد جسکے دستہ مین مقراض وغیرہ اوزار کارآمد رکھے گئے ہون - صائب - چہ غم تہی اگر از بادہ جام و شیشہ ماست + کہ چشم پر تم ساقی ہزار پیشہ ماست -

ہزار چشمہ - وہ دمل جسکو سرطان کہتے ہین اکثر پشت پر انسان کے نکلتا ہی اور یہ پھوڑا اکثر مہلک ہوتا ہی -

ہزار خوابہ - بہت سی سونے والی آنکھین - میر خسرو - بعد ہزار شب ہم اکنون شبے نخسید + این دیدہ کہ شبہا بود ہی ہزار خوابہ -

ہزار دانہ - ہزار دانہ کی تسبیح - جمال الدین سلمان + تا چرخ ہزار دانہ گردان + در حلقہ ذکر خدا لتعالیست -

ہزار پایہ - ایک زہریلے کرم کا نام ہی جسکے بہت سے پاؤن ہوتے ہین ہندی مین اسکو کنسلائی کہتے ہین -

ہزار پائی - کنسلائی جسکا ذکر ہزار پایہ مین ہو چکا - کمال اسماعیل - ترسم کہ چون دراز شد این شعر ہیچکس + در گوش خویش رہ ندہد چون ہزار پائی -

ہاے باسین

ہستی فروش - وہ شخص جو اپنے اوپر اثبات ہستی کا کرے اور حقیقت مین ایسا نہو - ظہوری - قوی گشتہ درد دوائی بخر + زہستی فروشان فنائے بخر -

ہستی موہوم - ہستی دوروزہ - ہستی دوروزہ حیات چندروزہ -

ہست و بود کردن - موجودہ چیز پر کفایت کرنا - طالب آملی - یک ... قوت دل ہست و بود کرد -

ہستی جاودانہ - ہمیشہ کی زندگی - قطعہ - حق تراداد ملک و دولت و مال + سلطنت و زر بانہ بخشیدت + در نکو نامی و نکوکاری ہستی جاودانہ بخشیدت -

ہاے باشین

ہشت مشت - لڑنا الیس مین لات مکا طمانچہ ایک دوسرے کو مارنا

ہشت بہشت - آٹھ بہشت جنکے اسامی یہ ہین خلد دار السلام دار القرار جنت عدن جنت الماوی جنت نعیم علیین فردوس

ہشت صفات - آٹھ صفتین انسانی معرفۃ اللہ خدا کو سچا عالم دین پڑھنا شکر ہر حالت مین کرنا - رضا مندی قسمت ازلی ہونا صبر بلا و قلت رزق پر کرنا خدا کے حکم کو تعظیم کے ساتھ ادا کرنا خلق خدا پر شفقت کرنا عفت و عصمت و دیانت و امانت کے ساتھ زندگی بسر کرنا مرگ کو ہر وقت یاد رکھنا -

ہشت گنج - آٹھ خزانے خسرو پرویز کے جو اسکے پاس جمع تھے گنج افراسیاب - گنج عروس - گنج باد آورد - گنج بازو - گنج دیبہ خسروی - گنج سوختہ - گنج خضرا - گنج شاد آورد -

ہشت و چار چشم فلک - بارہ بروج -

ہشتن - چھوڑنا -

ہاے بافاے

ہفت آسیا - سات آسمان - صائب - کیم من وچہ بود رزق ہیچ من مورے + کہ بار خاطر این ہفت آسیا شدہ ام -

ہفت اعضا - انسان کا تمام بدن سر گردن سینہ مع اسکے متعلقات کے پشت مع آلات تناسل دونون ہاتھ دونون پاؤن

ہفت دریا - سات سمندر دریاے اخضر دریاے عمان دریا

قلزم جسکو بحر احمر بھی کہتے ہین دریاے بربر دریاے اوقیانوس
دریاے [illegible] بحر الروم دریاے اسود۔ سعدی۔ سنگ بدریاے
هفتگانه اندر [illegible] چو گم شد [illegible] پلید تر گردد۔
ہفت قرا۔ سات قاری قرآن پڑھنے والے جو علم قرأت کے امام تھے
اول نافع دوسرا ابو عمر تیسرے ابن عامر چوتھا عاصم پانچوان حمزہ چھٹا
کسائی ساتوین عبد اللہ ابن کثیر
ہفت اختر۔ سات ستارے آسمانی ہ۔ زحل و مشتری و مریخ
شمس زہرہ عطارد و قمر ہست۔
ہفت بنا۔ سات آسمان ہ۔ منہدم گر شود کنون چہ عجب + کہنہ
ہشت ست کاخ ہفت بنا۔
ہفت چشمۂ بہشت۔ کوثر کافور سلسبیل تسنیم [illegible] زنجبیل [illegible]
[illegible] جنت و [illegible] ہین۔ خاقانی۔ بہشت [illegible]
ہشت اندرین سہ غرفہ [illegible] ہفت حجلہ و انداختن دو حجرۂ خواب۔
ہفتاد و ہفت۔ معانی قریب کے ہین۔ نظامی۔ چو [illegible] خضر سے
[illegible] چشمہ + ہفتاد و ہفت آب لب البشر۔
ہفتاد و ہشت۔ [illegible]
ہفتاد و دو ملت۔ بہتر مذہب جو اسلام مین رائج ہین چنانچہ اہل
تشیع امامیہ [illegible] خارجیہ و قدریہ وغیرہ مگر زمانہ حال مین ایک
فرقہ [illegible] ہوا ہے [illegible] کہتے ہین اور وہ کسی امام کے پیرو نہین
[illegible] اہل حدیث و موحد کہتے ہین دوسرا [illegible] جسکے موجد سید احمد
ہین ان کے خیالات اوہام صنع کیے ہین جو قرآن اور حدیث سے برخلاف ہین
ہفت دوزخ۔ ایک دوزخ سات طبقون مین منقسم ہے سقر سعیر
لظی حطمہ جحیم جہنم ہاویہ۔
ہفتاد و دو [illegible]۔ بہتر مذہب۔
ہفت اختر۔ سات ستارے آسمانی۔
ہفت کشور۔ سات ولایتین چین ترکستان ہند توران ایران
روم و شام
ہفت پرکار۔ سات آسمان۔
ہفت پیکر۔ سات ستارے۔
ہفت [illegible]۔ سات طبقے آنکھون کے ملتحمہ قرنیہ عنبیہ عنکبوتیہ شبکیہ
زجاجیہ صلبیہ
ہفت در۔ ہفت در ہفت دور۔ ہفت قلعہ خیبر۔ سات قلعہ
خیبر کے [illegible] قموص [illegible] سلالہ۔

ہفت جوش۔ سات دھاتین ملاکر جو چیز بنائی جاے اور سات
دھاتین یہ ہین زر نقرہ تانبا جست لوہا سکہ قلعی۔ محمد سعید اشرف
چار آئینہ چہار ارکان بدن + باشد مشتر ہفت جوش گردون چہ کند
ہفت خط۔ سات طرح کا خط اول خط جور دوم خط بغداد تیسرا
خط بصرہ چوتھا خط ازرق پانچوان خط اشک چھٹا خط کاسہ گر
ساتوان خط فرودینہ۔
ہفت محیط۔ سات سمندر۔
ہفت سبع۔ سات منزلین قرآن کی۔ سعدی۔ اگر خود ہفت
سبع از بر بخوانی + چو آشفتی الف با تا ندانی۔
ہفت اورنگ۔ سات ستارے اور سات رنگ سیاہ سپید
سرخ سبز زرد کبود و عباسی۔
ہفت ہیکل۔ ایک ہفت روزہ دعا کا نام ہے۔
ہفت امام۔ سات امام امام اعظم ابو حنیفہ کوفی امام شافعی
امام مالک امام احمد حنبل امام ابو یوسف امام محمد امام زفر
ہفت لاے چشم۔ ہفت پردۂ چشم۔ آنکھونکے سات پردے
ہفت قلم۔ سات طرح کا خط ثلث۔ محقق توقیع ریحان رقاع
نسخ تعلیق۔
ہفت اندام۔ جسم انسان کا دل جگر سپرز شش زہرہ معدہ
دماغ انسان کا اور نام ایک رگ کا۔
ہفت اقلیم۔ سات ولایتین سرزمین جو سات ستارون کے
ساتھ تعلق رکھتی ہین۔
ہفت سلام۔ سات سلام جو قرآن شریف مین ہین اول سلام
قولا من رب الرحیم دوسرا سلام علی ابراہیم تیسرا سلام علی نوح
فی العالمین چوتھا سلام علی موسے و ہارون پانچوین سلام علی الیاسین
چھٹے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین ساتوین سلام ہی حتے مطلع الفجر
ہفت طارم۔ سات آسمان۔
ہفت خوان۔ جب کیکاؤس ماژندران مین قید تھا اور رستم
اسکی رہائی کے واسطے گیا سات دن مین ماژندران مین پہنچا اور
کیکاؤس کو رہائی دلائی راستے مین جو صعوبتین اسکی ہوئین انکو
ہفت خوان رستم کہتے ہین۔ دوسرے جب ارجاسپ بادشاہ توران نے
اسفندیار کی بہنون کو قلعہ روئینہ دژ مین قید کیا اور اسفندیار اسوقت
باپ کی قید مین تھا جب خلاص ہوا ہفت خوان کے راستے سے بڑے
مصائب اٹھاکر روئینہ دژ مین پہونچا اور ارجاسپ کو مارکر اپنی بہنون کو

خلاص کرلیا یان سات منزلون کو جو راہ مین اسکو طے کرنی پڑی مین ہفت خوان اسفندیار اسکو کہتے ہین۔ محمد سعید اشرف۔ گرد و سفید موے چو زال دہین قدم + رستم اگر گذر کند از ہفتخوان برف۔

ہفت مردان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی حسن حسین علیہم السلام۔

ہفت زمین۔ سات ولایتین۔

ہفت خواہران۔ سات ستارے۔

ہفت الوان۔ وہ خوانچہ جو عیسےٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترا اور وہ سات قسم کا کھانا تھا نان نمک مچھلی سرکہ شہد انار روغن تر ہ یعنے سبزہ۔

ہفت تنان۔ اصحاب کہف جو کہتے ہین سات ہین اور سات قسم کے ولی اللہ غوث قطب اوتاد ابدال نقبا نجبا فضلا۔

ہفت سلطان۔ سات شاہنشاہ ظاہری و باطنی حضرت امام رضا شاہ خراسان سلطان ابراہیم بن ادہم سلطان بایزید بسطامی سلطان ابو سعید ابو الخیر سلطان محمود غزنوی سلطان سنجر سلطان اسماعیل سامانی۔

ہفت پشت کسے را بسنگ آبی رسانیدن۔ کسیکی تعریف کرکے خوش کرنا اغراق و مبالغہ کیا تھ کے ساتھ سراہنا محمد سعید اشرف۔ سن کیا ز اختلاط آن سنگ ارکی شرف + سنگ آبی رساند ہفت پشت ویش را

ہفت پردہ۔ سات آسمان اور سات پردے آنکھون کے۔

ہفت خلیفہ۔ ساتون عضو باطنی دل جگر شش زہرہ سپر زہرہ گردہ مثانہ

ہفت طبقہ چشم۔ آنکھون کے سات پردے۔

ہفت میوہ۔ کشمش انجیر پستہ آلو بخارا آلو سیب انگور میزان کا مشرقی۔ چند بن دل شکستہ زسود الوداع غم + بیمار ہفت میوہ بن سبز ظاہرم

ہفت کوہ۔ سات پہاڑ جو بہت بڑے مشہور کئے جاتے ہین ایک کوہ قاف دوسرا کوہ دماوند تیسرا کوہ سراندیپ چوتھا کوہ گلستان نواحی طوس مین پانچوین کوہ ورن کا الکے مغرب مین چھٹا کوہ لبنان جسکو لنتی بھی کہتے ہین ساتوان کوہ چین جسکو کوہ ہمالہ بھی بولتے ہین اس پہاڑ مین بڑے بڑے ملک اور ریاستین شامل کشمیر و تبت و کابل وغیرہ

ہائے با لام

ہلال رکاب۔ صاحب رتبہ و اقتدار۔ سہ اوج چرخ بر بن مہرمی شود حاضر بپاے بوسیت اے سرور ہلال رکاب پا۔

ہلال کمان۔ بادشاہون کی تعریف مین بولا جاتا ہے۔ سید حسین غزنوی۔ ستارہ حبش و زحل سپہ و سہیل کبین + شہاب نیزہ و مہ ناوک و ہلال کمان۔

ہلال ابرو۔ محبوب کی تعریف مین بولتے ہین۔ جمال الدین سلمان۔ بنما بہ شاہد عید ہلال ابرو جمال + سوے ساقی بیکند ایما با بروے ہلال

ہائے با میم

ہمانا۔ شاید گویا گمان غالب کے موقع پر بولا جاتا ہی بیشک لا ریب سعدی۔ کہ پندارم از عقل بیگانۂ + و مستی ہمانا کہ دیوانۂ۔

ہمتا۔ برابر و مثل و مانند۔

ہمپا۔ ہمراہ و ور دگار۔ صائب۔ وقت آن دیوانہ خوش کہ شہر چون [illegible] ہمپا شود

ہمدست۔ شریک و سہیم و متفق [illegible]

را ہمدست مژگان کن + چہ وا ازتیغ تنہا گر نباشد کار فرمایش۔

ہم صحبت و ہم نشست۔ مصاحب و حاضر باش۔ سعدی۔ بشنواے خرد مندزان دوست دست + کہ با دشمنانت بود ہم نشست

ہمہ جا خانہ عشق ست چہ مسجد چہ کنشت۔ یعنے ہر جگہ عشق کا ظہور ہی۔ سہ ہمہ جا مسکن دلدار چہ دوزخ چہ بہشت + ہمہ جا خانہ عشق ست چہ مسجد چہ کنشت۔

ہم آورد۔ دو حریف جو آپس مین لڑ رہے ہون۔ میر صیدی۔ بہتر از خویش ہم آورد ندارد صیدی + دام بر داشت ز قانون نبرد کاہی

ہمداماد۔ ہمریش۔ ہمزلف۔ عورت کی بہن کا خاوند سار هو۔

ہم خوجہ۔ ایک مالک کے دو نوکر خواجہ تاش۔

ہم نبرد۔ جو آپس مین دو شخص جنگ کرتے ہون۔

ہمایون شکار۔ اچھے شکار کھیلنے والا۔ شیخ العارفین ایردی طبع در پے فکر بلند نیست شہباز نا ہیبتہ ہمایون شکار بود۔

ہمسر۔ برابر و ہم رتبہ۔ فوقی یزدی۔ چہ خوش باشد شوہر دیگر ہمسر باشد چھینا اور رہا ہمسر شوہر ما۔

ہمشیرۂ انگور۔ شراب انگوری۔ جمال الدین سلمان۔ ظاہر ہمشیرۂ انگور بود و در ازل + آب حیوان کو کفیل عمر جاویدان شود

ہمکار۔ ہم پیشہ و ہم کسب۔ مسیح کاشی۔ بسے ناخن کند دعوے مسیح + پہ چشم کم مبین ہمکار فرہاد است ای

ہمگیر۔ ثابت و قائم ہونے والا پھیلنے والا۔ محسن تاثیر۔ ہمت سبز چو ہمگیر شود + فان روا سے خط کشمیر شود۔

ہموار۔ برابر و یکسان۔ صائب۔ این در دہ زردی [illegible]

از دل + این داغ نه داغی ست که هموار توان کرد۔

همآواز۔ جن دو شخصوں کی ایک آواز ہو۔ صائب۔ حیف داماں فلک پیوند از گفتار من + در سخن صائب ہمآوازے اگر میداشتم۔

همچو روز۔ دن کی طرح بہت روشن اور ظاہر و آشکارا۔ ظہوری۔ بزیر پردۂ ایام ہیچ راز نماند + که ہمچو روز نشد بر دل منور او۔

همراز۔ دو شخص جنکا بھید ایک ہو۔

همنفس۔ رفیق و ہمراز۔

همسلک۔ سمدھی جنکے لڑکی لڑکا آپس میں بیاہے ہوے ہوں۔

همسنگ۔ موافق و برابر۔

همسنگ۔ برابر و ہموزن۔

همتک۔ ہمپا برابر چلنے والا۔

همقلم۔ دو شخص جو تحریر میں شامل ہوں۔ سعدی۔ دو ہمجنس دیرینہ و ہمقلم + نباید فرستاد یکجا بہم۔

همدم۔ رفیق دوست آشنا۔

همت باکسے کردن۔ ہمت و امداد کرنا۔ شاہی سبزواری۔ قدم بکوے وفا مردوار شاہی + که پیر عشق چنین کرد با تو ہمت پیر۔

همداماں۔ ہمزلف یعنے ساڑھو۔

همراہی کردن۔ کسیکے ساتھ برابری کرنا ساتھ جانا۔ حافظ۔ شبے با عارضش مہ ہمرہی کرد + دگر شب دیدمش قالب تہی کرد۔

همقران۔ ہمقرین۔ بہت نزدیک۔ نصیرای بدخشانی۔ بدور حسن تو در عشقبازی چون شمع گشتم + براہ عاشقی کس را ندیدم ہمقرین خود۔

همگنان۔ جماعہ حاضرین۔ ظہوری۔ ہیچ از ہیچکس دریغ نداشت + ہمہ از بہر ہمگنان آورد۔

همدون۔ ہمچنین ایسی ہی۔ نظامی۔ ہمیدون درین چشم روشن دماغ + ابوبکر شمع ست و عثمان چراغ۔

همداستان۔ ہمکلام و ہمصحبت۔

همعنان۔ ہمراہ چلنے والا۔

همچو۔ یہ لفظ افادۂ تشبیہ کرتا ہے مفرد ہو خواہ مرکب فارسی میں ہمچنین کے معنی بھی دیتا ہے۔ سلیم۔ لذت دشنام او دل میبرد از کف سلیم + ہمچو شیرینی ندیدم کو بتلخی دل برد۔

همترازو۔ ہمپلہ ہموزن ہمرتبہ۔

همراہ۔ رفیق راستہ کا بدرقہ۔ سعدی۔ ہمراہ اگر شتاب رود ہمرہ تو نیست + دل در کسے مبند که دلبستۂ تو نیست۔

همسایہ۔ جسکا گھر پاس پاس ہو۔

همہ۔ سب تمام۔ سعدی۔ ہمہ در ہواے ہوس ساختی + دمے با مصالح نپرداختی۔

همخوابہ۔ ہمبستر۔

همپشتی۔ امداد و تقویت۔

همجولی۔ ہمعمر و ہمسن جسکو ہندی میں ہمجولی کہتے ہیں۔

همکاری۔ ہمپیشگی۔

ہاے با نون

هنوز دہلی دور است۔ ابھی اس کام میں توقف ہے مثل ہے۔

هنرپیوند۔ ہنرخداوند۔ ہنرسنج۔ ہنرپیشہ۔ ہنرمند۔ ہنرور۔ ہنری۔ صاحب ہنر۔ ہنرپرداز۔ صاحب ہنر کو کہتے ہیں جو کوئی ہنر جانتا ہو۔ میر خسرو۔ خیرہ شد طوطی ہنرپرداز داد صیاد خویش را آواز۔ ابوطالب کلیم۔ دل زبیت زینت کشتی ہنر پرورنہ لیست + نقش بوریا بر خویشتن زیور نہ لیست۔ سعدی۔ شبے ہنرفروش شد باندیشہ ام + بدل برگذشت آن ہنر پیشہ ام۔ شاہ گفتا که آن ہنرپیوند + نہ بہ تنہا اساس کار افکند۔ ولہ۔ چون بدیدند آن ہنرمندی + خیرہ شد زان ہنرخداوندی۔ سعدی۔ ہنر چو گشتش نباشد لکام + بجاے رود کش نداند نام۔ ... گشادہ دیدہ معنی ... شعر ... ہنرے۔

هندسہ باز۔ مکار و فریبی۔

هنرفروش۔ اپنے ہنر پر فخر کرنے والا اور ہنر بیچنے والا۔ ابوطالب کلیم۔ کمال کسب کن اما ہنرفروش مباش + کہ ہست اہل ہنر را ہنرفروشی عیب۔

هندوانہ از ترس افگندن۔ نہایت خوف اور دہشت سے سنگ و ناآرزو ساختن ... ہندوانہ فیل + گر کمترین غلام تو گوید باو ہری۔

هندوے دریانشین۔ قلم جس سے لکھتے ہیں۔

ہاے با واو

هوش افزا۔ دانا اور لائق آدمی۔

هواپرست۔ جو اپنے مطلب کا یار ہو۔ طالب آملی۔ طالب زہواپرستی ہند ہمہ گشت و سوے مطالب آمد۔

هوس باد۔ ہوس پخت۔ ہوس پرور۔ ہوس پیرائے

ہوس پیشہ - ہوس خانہ - ان کے معانی قریب الفہم ہیں - طالب آملی - چند با عشق ازل طوف ہوس خانہ کنم + در حرمگاہ ہوس جلوہ پرواز کنم - میر خسرو - ہوس پیشہ چون آدمی نیست کس + کہ دار دبنا دید ہوس + عرفی - قصیدہ نظم ہوس پیشگان بود عرفی + تو از قبیلہ عشقے وظیفہ ات غزل ست - زلالی - کراے وسعت طراز سینہ تنگ + ہوس بخت فضاے دشت و سنگ -

ہشیار مغز - دانا ولئیق -

ہوا پست کردن - کم کرنا آرزو و نفس کا - زلالی - ہواے بیدماغی پست گردان + رضا را با قضا ہمدست گردان -

ہوا خوردن و ہوا یافتن - تصرف کرنا ہوا کا مزاج ہیں - صائب - بادم جان پرور شمشیر عادت کردہ است [illegible]

بیمارسن - میر مہدی - آن چشم ناتوان غم مردم کجا خورد + [illegible] نگہ خود ہوا خورد -

ہوا درگرہ بستن - ہوا پیمودن - بیجا اور لغو حرکت کرنا -

ہوا زدن - پہونچنا ہوا کا - ظہوری - تا ہواے تو در دماغ بزد + لب در داستان باغ بزد -

ہوا شگفتن - موسم بہار کا آنا - صائب - بسیار شگفت ست ہواے چمن امروز + ترسیم کہ ما را ز دل تنگ برآرد -

ہوا گرفتن - پرواز کرنا - میرزا صائب - زخاکدان تعلق گرفتہ ام ہوا + غبار دست ندارد بطرف دامن ما -

ہوا خوردن بادہ - تصرف کرجانا ہوا کا شراب ہیں اسکی کیفیت خراب ہوجانا - صائب - رنگ نماند در لب نوزلفش سرگان + بادہ ہوا چو میخورد یا برکاب میشود -

ہوا شدہ - جو چیز ہوا ہیں مل گئی ہو - میرزا بیدل - ز آفتاب طلب شبنم ہوا شدہ ایم + دل رمیدہ ما را ز ما چہ میجوئی -

ہاے با یاے

ہیچ و پوچ - خراب و ناکارہ و سہل و بے مغز لغو یعنی - محسن تاثیر - کرد پہلو خالی از ما یار دیرین چون حباب + زد ہیچ و پوچ برہم رابطہ چندین سالہ را -

ہیچ مرد - ناکارہ اور خراب آدمی ضعیف و زبون و کمزور - نظامی - جہان آن کسے راست کو در نبرد + بہ شمشیر نگذاشت بر ہیچ مرد -

ہیربد - آتش پرست اور لقب گشتاسپ کا -

ہیچکس - ناکارہ و ناقص و ناکس آدمی - حکیم شفائی - لب بدشنام چو تو ہیچکس نگشایم + ظلم بر ہجو تو بر طبع سخندان نکنم -

ہیزم کش - وہ شخص جو آگ میں لکڑیاں ڈالے تا آگ جلتی رہے - سعدی - میان دو کس جنگ چون آتش ست + سخن چین بدبخت ہیزم کش ست -

ہیچدان - ہیچمدان - احمق بیوقوف - ظہوری - لبک بر خوان شوق تو بیخود گشتہ است + لب بتوصیف تو بکشادست عقل ہیچدان -

ہیمہ دان - جس جگہ لکڑیوں کا انبار لگا یا ہوا ہو - علی خان موجی - دوش در ہیمہ دان مطبخ فکر + بخت شعرے کہ وصف حالی قند

ہیزم تر فروختن - ہیمہ تر فروختن - خراب کام کرنا [illegible]

[illegible]

چہ سوز ہجر و لفروخت کس بعشق چو من ہیمہ تری -

ہیضہ زدن - قے اور اسہال کرنا بسبب بدہضمی طعام کے - مسیح کاشی - اے مرد قناعت ست خواہش پیکن + قطع نظر از حاصل دہر کن + ہنگامہ کرس ہیچوری ہر سیم + کو ہیضہ زن و مکشت عالمے

ہیکل بستن - فوت ہونا مرجانا - فردوسی - ہدان خانہ شاہ یزدان پرست + فرود آمد از اسپ و ہیکل ببست -

ہیا ہو - شور و غوغا و ہاے ہو - عبد الصمد ہاتفی - چو از آب آموختہ آن سجادہ + ہیا ہو سیاہ بینداختی بادہ -

ہیچکارہ - نکما و بے اعتبار آدمی - ہ سور فکر آن ہم ور ہاو آن کہ چون من بروزگار کسے ہیچکارہ نیست -

ہیرکدہ - آتشخانہ آتش پرستون کا - میر معزی - در ہیرکدہ گر نہ مدح تو بخوانند + بیزار شود ہیربد از زند و پازند -

چوتھی فصل

محاورات و اصطلاحات اردو کے بیان میں

ہاے با الف

ہاتھا پائی کرنا - مارپیٹ زدوکوب کرنا دھول دھپا -

ہاتھ اتر جانا - ہاتھ کے جوڑ کا اپنی جگہ سے بے جگہ ہو جانا -

ہاتھ اٹھاکے دینا - خوشی کے ساتھ دینا -

ہاتھ اٹھا کے کوسنا - ہاتھ اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دینا - مخیر - ہاتھ اٹھا کر وہ کوسنے جو لگے + واہ رے ہم آپ تو سہا سمجھے

ہاتھ اٹھانا - ہاتھ اونچا کرنا دعائیں مانگنا سلام کرنا مارنا -

دست بردار ہونا۔ ذوق۔ قاتل کبھی نہ تو نے اُٹھائے ہزار حیف +
اُٹھ مزار کشتۂ تیغ نظر پہ ہاتھ۔ سحر۔ راز پوشی سے کبھی ہاتھ اُٹھایا ہم نے گیا
نبض دکھلا کے مرض اپنا بتایا نہ گیا۔
ہاتھ چھانٹی کرنا۔ کسی سے لیکر نہ دینا قرض ادا نکرنا ہاتھ لگی
کرنا چوری کرنا۔
ہاتھ آنا ہاتھ لگنا۔ قبضے مین آنا وصول ہونا۔
ہاتھ اونچا ہونا۔ آسودہ حال ہونا۔
ہاتھ باندھنا۔ ہاتھ جوڑنا منت کرنا۔ حکیم محمد انور۔ وہ ستمگار
لات مارتا ہی + جسقدر رنجیدہ باندھتا ہی ہاتھ۔
ہاتھ باندھے کھڑے رہنا۔ حاضر موجود رہنا۔ قطعہ دستہ حسن
بیٹھا ہے وہ مہوش جیسے + اک عالم در دولت پہ کھڑا رہتا ہی +
[illegible] بارے خوشامد کے کوئی + ہاتھ باندھے ہوئے
خدمت مین کھڑا رہتا ہی۔
ہاتھ بڑھانا۔ لینے یا دینے کے لیے ہاتھ لمبا کرنا کسی امر مین دخل دینا
ہاتھ بکانا۔ ہاتھ بکنا۔ عہد و پیمان کرنا کسیکے ہاتھ فروخت ہوجانا
غلام ہونا۔ مؤلف۔ خوبرو جو آئے اس بازار مین + شکل یوسف
بک گئے وہ آنکھیں ہاتھ۔
ہاتھ بند ہونا۔ تنگ ہونا مفلس و نادار ہونا۔ مولانا [illegible]
حق کشا الیش تجھکو بخشیگا ضرور + تنگدستی مین نہ رکھنا دل کو تنگ +
جب عنان چلا بکی اس گلزار سے + تازہ آجائیگا رد نے گلبرنگ۔
ہاتھ بھر جانا۔ ہاتھ تھک جانا خون اُتر آنا۔ ہاتھ بھاری
اور سن ہوجانا کسی چیز سے آلودہ ہوجانا۔
ہاتھ بھر کا دل ہوجانا۔ خوشی سے دل بڑھجانا۔
ہاتھ بھر کی زبان ہوجانا۔ زبان دراز ہوجانا۔
ہاتھ بیٹھنا۔ جمنا۔ کوئی کام کرنے لگنا محاورہ ہوجانا کام سے
واقف ہوجانا۔
ہاتھ پانی لینا۔ آبدست و استنجا کرنا۔
ہاتھ پاؤن بچانا۔ چوٹ نہ لگنے دینا۔
ہاتھ پاؤن پھول جانا۔ حواس قائم نرہنا کسی خوشی یا خوف سے
گھبرا جانا۔ قطعہ از مؤلف۔ باغ مین جب گیا وہ غیرت گل +
راگ سب بلبلونکو بھول گئے + ہو گئین بند سر بسر کلیان + پھول کے
ہاتھ پاؤن پھول گئے۔ جرأت۔ ابھی باتین ہی ہین اور دست و پا
پھولے مرے یارو + یہ دھڑکا ہی جب اُس گل کو لا کے تو کیا ہوگا۔

شوق۔ تم بھی صاحب نصیب بیشک ہو + تم پہ وہ آفت ہین ادبار کے
ہو + سنکے یہ ہاتھ پاؤن پھول گئے + رنج فرقت تمام بھول گئے۔
ہاتھ پاؤن توڑنا۔ خوب مارنا محنت کرنا۔
ہاتھ پاؤن ٹوٹنا۔ اعضا شکنی ہونا درد ہونا۔ ناسخ۔ محتسب نے
میکدہ مین کیا کوئی توڑا ہی خم + ٹوٹتے ہین آج ساقی کچھ ہمارے ہاتھ پاؤن
ہاتھ پاؤن ٹھنڈے ہوجانا۔ قریب مرگ کے ہونا۔
ہاتھ پاؤن چلنا۔ کام کے لائق ہونا۔ عرش۔ نہ گریبان چھٹے
نہ دامن دشت + جب تلک ہاتھ پاؤن چلتے ہین۔
ہاتھ پاؤن سے چھوٹنا۔ عورت کا بخیریت جننے سے فراغت پانا
نہا دھو اُٹھنا۔
ہاتھ پاؤن مارنا۔ دریا مین تیرنا محنت کرنا بیقرار ہونا بسمل ہونا
ناسخ۔ دیکھ پائے گورے گورے جو تمھارے ہاتھ پاؤن پشت
مانند بسمل کیون نہ مارے ہاتھ پاؤن + کشتی مے لگا یا پار بیڑا
سا قیا + ہم نون دریائے غم مین ڈوبنے مارے ہاتھ پاؤن۔
ہاتھ پاؤن نکالنا۔ جوان ہونا ہوش مین آنا۔ قطعہ [illegible]
ابھی اس شوخ کی + اور نہین اب تک سنبھالے ہاتھ پاؤن + کون
جانبر ہوگا اسکے ہاتھ سے + جس گھڑی اس نے نکالے ہاتھ پاؤن۔
ہاتھ پاؤن ہارنا۔ سست اور کاہل ہوجانا۔
ہاتھ پاؤن ہلانا۔ کچھ کام کرنا بیکار نہ بیٹھنا۔ آتش۔ پہونچے
تڑپ تڑپ کے بھی جلاد تک نہ ہم ضعف سے + طاقت سے ہاتھ پاؤن زیادہ ہلا چکے۔
ہاتھ پر قرآن یا گنگا جل رکھکر قسم کھانا۔ کسی امر مین اپنی صفائی
بیان کرنے کیلیے شرعی قسم اُٹھانا۔
ہاتھ پر ناک رکھلانا۔ جان اپنی کو خطرہ مین ڈالنا جوکھم کا کام کرنا
ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنا۔ کوئی کام نکرنا بیکار و معطل بیٹھے رہنا۔
ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ وعدہ دینا اقرار کرنا شرط لگانا۔ نسیم۔ تب
مارے اسکو ہاتھ پر ہاتھ + بولا کہ ہو قول جان کے ساتھ۔
ہاتھ پڑجانا۔ کسی چیز مین کچھ نقصان ہوجانا۔
ہاتھ پسارنا۔ ہاتھ پھیلانا گدائی کرنا سوال کرنا بھیک مانگنا۔
ہاتھ پسارے جانا۔ دنیا سے خالی ہاتھ جانا۔
ہاتھ پکڑنا۔ دستگیری و امداد کرنا۔ آتش۔ عجب نا آشنا ہین
آشنا اس بے مروتی کے + ڈبو دیتے ہین اُسکو ہاتھ جسکا پکڑتے ہین۔
ہاتھ پھیرنا۔ چمکارنا پیار کرنا تھپکنا۔
ہاتھ پھینکنا۔ پٹے بازی کرنا تلوار اور پٹے کے ہاتھ ہلانا کسیکا مال

مارنا جلد جلد بکنا۔ بڑے نوالے مارنا۔
ہاتھ پیلے کرنا۔ غریبانہ شادی کر دینا۔
ہاتھ تنگ ہونا۔ دست نگر ہونا ادھین ہونا۔
ہاتھ تلنا۔ کسیکے ہاتھ کو گرم تیل مین تل دینا۔
ہاتھ مٹکانا۔ ہاتھون کو نچانا عشوہ سازی کرنا۔
ہاتھ جوڑنا۔ منت خوشامد کرنا توبہ کرنا۔ رشک۔ یا وُن اُنھین تو اُٹھا کھون ہاتھ جوڑکر + کیا ملگیا تھین دل عشاق توڑ کر +
ہاتھ جھاڑکے کھڑے ہو جانا۔ اپنے پاس کچھ باقی نرکھنا سب کچھ خرچ کر ڈالنا۔
ہاتھ جھاڑنا۔ ہاتھ لگانا۔
ہاتھ جھٹکنا۔ خفگی کے ساتھ کسیکے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لینا۔
ہاتھ جھوٹا کرنا۔ اُلش کر دینا۔
ہاتھ جھوٹا ہو جانا۔ کسی صدمہ سے ہاتھ بیکار ہوجانا اکام سے جاتا رہنا۔ بحر۔ پیچھے سے جھونک سے بیکل کلائی ہو گئی + مین جانے لگا یا زخم اُسکا ہاتھ جھوٹا ہو گیا۔
ہاتھ چڑھنا۔ ہاتھ کا کسی کام پر روان ہونا۔
ہاتھ چلانا۔ مارنے لگ جانا۔
ہاتھ چلنا۔ آسودہ حال ہونا غالب ہونا کسی کام مین دخل ہونا۔ سہ۔ جنون کی جیب دری پر ہین خوب چلتے ہاتھ + سلوک سینہ بھی کچھ تو کرے چلتے ہاتھ۔
ہاتھ چمکانا۔ ہاتھون کو اونچا اور انگلیون کو ٹیڑھا کرکے نچانا۔ رشک۔ کھولکر زلف کہا اژدر موت کیا ہی + ہاتھ چمکا کے وہ لوبے پر بیٹھا کیا ہی۔
ہاتھ چومنا۔ نہایت درجہ کی تعظیم کرنا۔ سہ۔ لکھ لیا مانی نے جب اُس بت بے پیر کے ہاتھ + چومتا تھا کبھی اپنے کبھی تصویر کے ہاتھ
ہاتھ چھوڑنا۔ ضرب لگانا تلوار مارنا۔ برق۔ رشک قتل جگر تن مین لہو کھاتا ہی جوش + ہاتھ پھر بھی کوئی اسے ہر تابان چھوڑدے
ہاتھ خالی جانا۔ ضرب نہ لگنا تیر نشانہ پر نہ لگنا بازی مین داؤن خالی جانا۔
ہاتھ دانتون سے کاٹنا۔ کسی بات پر افسوس کرنا۔ آتش۔ دامن چھڑا کے جیب کیا ہو وہ جو تھا + دانتون سے کاٹتا ہون بے اختیار ہاتھ۔
ہاتھ خالی نہونا۔ ہر وقت کام مین مصروف رہنا۔

ہاتھ دکھانا۔ نبض دکھانا نجومی کو ہاتھ کے خطوط دکھلاکر حال پوچھنا کسی کو اپنی دلاوری و بہادری دکھلانا۔ جرات۔ نکالے ہاتھ وہ پردہ نشین نہ پردہ سے + ہزار ہین کے نجومی کہین دکھاؤ ہاتھ۔
ہاتھ دوڑانا۔ کسی چیز کے چھین لینے کا ارادہ کرنا۔
ہاتھ دھرنا۔ رکھنا۔ تھامنا روکنا پکڑنا مدد کرنا۔ ذوق۔ لے ذوق وقت نالے کے رکھلے جگر پہ ہاتھ + ورنہ جگر کو رویگا تو رکھ کے سر پہ ہاتھ + خط دے کے دلمین تھا کہ زبانی بھی کچھ کہے + پر اُسنے رکھدیا دہن نامہ بر پہ ہاتھ۔
ہاتھ دھوکے پیچھے پڑنا۔ کسی کام کے سر ہو جانا لپٹ جانا پیچھے پڑجانا
ہاتھ دھو بیٹھنا۔ نا امید ہوجانا [illegible] ۔ اشک خونین کا نہی جوش ہو جرات تو بس آہ + ہاتھ دامن سے ہی دھو بیٹھئے دھوتے دھوتے + بحر۔ یہ دی ہی بیکلی تونے کہ دل مین ہی یہ کل سے دین دھو کر زندگی سے ہاتھ پونچھون تیرے آنچل سے۔
ہاتھ دیکھنا۔ ہاتھ تکنا محتاج ہونا ہاتھون کے خط دیکھکر حال بتلانا آتش۔ سیکھے ہین ہاتھ دیکھ کے اُس بت کا برہمن + تم عاشقون کو قتل کر دگے حجاب سے۔
ہاتھ دینا۔ مدد کرنا کسی چیز کو ہاتھ سے پھیلانا جیا بک دستی کرنا کیسہ مین ہاتھ دیکر گھوڑے کی قیمت دریافت کرنا۔
ہاتھ ڈالنا۔ ہاتھ لگانا چھونا کھانا کھانا شروع کرنا کسی غیر عورت کو چھیڑنا غارت کرنا لوٹنا کام شروع کرنا۔
ہاتھ رنگنا۔ مفت کا روپیہ مارنا۔
ہاتھ روکنا۔ باز رہنا دست کشی کرنا۔
ہاتھ سادھنا۔ ہاتھ صاف کرنا مشق کرنا۔
ہاتھ سر پر رکھنا۔ حمایت کرنا سر کی قسم کھانا۔
ہاتھ سے جانا۔ اختیار سے نکل جانا۔ یکرنگ۔ گر خبر لینی ہو تو لے صیاد + ہاتھ سے یہ شکار جاتا ہی۔
ہاتھ سے دینا۔ بخشنا کھونا۔ نسیم۔ آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجئے + جاتا ہو تو اُسکا غم نہ کیجے۔
ہاتھ سے نکلنا۔ کام ہاتھ سے کیا جانا۔
ہاتھ صاف کرنا۔ مارنا زد و کوب کرنا لوٹنا غارت کرنا۔ ذوق۔ چھوڑا نہ دلمین صبر نہ آرام نے شکیب + تیری نگہ نے صاف کیا گھر کے گھر پہ ہاتھ
ہاتھ کا جھوٹا۔ بد دیانت بے اعتبار۔
ہاتھ کا سچا۔ دیانت دار اعتباری۔

ہاتھ کٹ جانا۔ تحریری اقرار ہو جانا۔
ہاتھ کھینچنا۔ الگ ہو جانا ہاتھ روک لینا۔ ناسخ۔ خاک میں ملجائیگا
خار بیابان کی طرح + ہاتھ اپنا کاوشوں سے اسے غرب آثار کھینچ۔
ہاتھ لانا۔ تحسین و آفرین کا اظہار کرنا ہاتھ ملاکر خوشی ظاہر کرنا۔
صبا۔ منھدی ملکر ہو چوٹ مرجان سر + ہاتھ لانا نگار کیا کہنا۔
ہاتھ لگانا۔ چھونا شروع کرنا آغاز کرنا۔ یکرنگ۔ زبان شکوہ ہو
منھدی کا مہربات + کہ خوبوں نے لگائے ہین مجھے ہاتھ۔ برق۔
مرجائے تو جاتا رہے دردسر عاشق + صندل کی عوض ہاتھ لگایا نہیں جاتا
ہاتھ لگنا۔ پانا دستیاب ہونا چھوا جانا۔ شوق۔ بولی باتیں بنا
کے ساتھ + اب تو مین لگ گئی ہون تیرے ہاتھ۔
ہاتھ مارنا۔ چرانا غبن کرنا رشوت کھانا بہت سا کھانا کھانا ہاتھ
ہاتھ ملنا۔ ذوق۔ اے شمع ایک چور ہے باد نسیم صبح + مارے ہے
لو (؟) دم میں تیرے تاج زر پہ ہاتھ۔ وابستہ کھانا ہاتھ اس مزے سے
عشق ہیرا دل + جیسے گرسنہ مارے ہے حلوائے تر پہ ہاتھ۔
ہاتھ ملانا۔ ہاتھ سے ہاتھ ملانا مصافحہ کرنا ملاقات کرنا پھیر کرنا
لین دین کرنا سخاوت کرنا۔ قطعہ۔ کیون نہ ملیگا خدا آنکھ ہے ہاتھ
ہاتھ جو ملاتے ہین جاتے واپس نہین کبھی خالی + سائل آکے جو
در پہ آتے ہین۔
ہاتھ ملنا۔ افسوس کرنا آسف کھانا۔ ذوق۔ پرکتر کیونکہ جو صیاد نے
چاہی مقراض + ہاتھ ملتی تھی مرے حال پہ کیا ہی مقراض۔
ہاتھ مین ٹھیکرا دینا۔ مفلس و نادار کر دینا۔
ہاتھ مین ٹھیکرا لینا۔ مفلس ہو جانا۔
ہاتھ مین دل رکھنا۔ کسیکو رضامند رکھنا۔
ہاتھ مین سے پھرنا۔ خواہش نفسانی کا زور ہونا۔
ہاتھ مین ہاتھ دینا۔ مصافحہ کرنا۔ جرات۔ گر ملون مین کف افسوس
تو ہنستا ہے وہ شوخ + ہاتھ مین ہاتھ کسی شخص کو دیکر اپنا۔
ہاتھ مین ہنر ہونا۔ صاحب کمال ہونا۔
ہاتھ نرکھنے دینا۔ سخت اور تلخ بن جانا۔
ہاتھ ہلائے جانا۔ کام کرتے جانا۔
ہاتھی کے دانت بیٹھانا۔ جوان آدمی کو تعلیم دینا مشکل کام کرنا
ہار ڈالنا۔ گلے مین کسیکے ہار پہنانا کوئی مشکل کام کسیکے متعلق کر دینا
ہاتھی کے نوکر ہونا۔ کسی قسم کے تابع ہونا۔
ہانڈی آپ پکنا۔ دیگ کا جوش کھانا اپنی حیثیت سے بڑھکر کام کرنا۔

ہانڈی پکنا۔ آپسمین صلاح مشورہ ہونا۔
ہانڈی گرم کرانا۔ رشوت دلانا مال کھٹانا۔
ہانڈی چڑھنا۔ گرم کرنا۔ مفت کا مال مل جانا۔
ہان مین ہان ملانا ہانجی ہانجی کرنا۔ سبکی سن لینا بظاہر سبکے
خیر خواہ بنے رہنا خوشامد سے کام چلانا۔
ہاڑے کھانا۔ خوشامد کرنا گڑگڑانا تلوون کی خاک چاٹنا۔
ہاہا ہی ہی کرنا۔ بیہودہ طور سے ہنسنا قہقہے اڑانا۔
ہائے ہائے کرنا۔ کسی بیماری یا مصیبت مین رونا۔
ہاتھ بھر۔ بیچ کی انگلی سے کہنی تک لمبا آدھا گز۔
ہاتھ چالاک۔ چالاکی سے کام کرنے والا۔
ہاتھ کا میل۔ ادنےٰ اور ناکارہ۔
ہاتھ کی لکیر مین۔ قسمت مقسوم بخت اور وہ تحریر جو بدلی نہین جا سکتی
ہاتھ لگے میلا ہو۔ نہایت خوبصورت اور اجلا۔
ہانڈی والی۔ باہمی شراکت جو کسی کام مین ہو۔
ہارے۔ ہار کے جھک مارکے۔ ناچار ہو کر آخری حالت مین۔
ہاتھ ہلاتے ہوئے آئے۔ لینے خالی ہاتھ آئے۔
ہاتھی نکل گیا دم باقی ہے۔ بہت سا کام ہو چکا ہے تھوڑا باقی ہے
ہاتھ کے نیچے۔ اپنے ماتحت حکومت مین۔
ہاتھ سے۔ معرفت ذریعہ سے۔
ہاتھ جھلائی۔ وہ روپیہ پیسہ جو حکام اور زمینداروں کے
نوکر مسافروں سے لے لیتے ہین۔
ہاتھ تلے۔ ہاتھ کے نیچے قبضہ مین۔

ہائے با بائے

ہپا دینا۔ کھانا دینا رشوت دینا۔
ہپ کر جانا۔ کھا جانا نگل جانا ہضم کر جانا۔

ہائے با تائے

ہاتھوں سے اکھڑ جانا۔ پتنگ کی ڈور کا ٹوٹ جانا دوستی کا
جاتا رہنا قبضے سے نکل جانا۔
ہتھے مارنا۔ پتنگ کی ڈور کو جلد جلد گھسیٹنا کسی چیز کو اپنے
قبضے مین لانا۔
ہتھ ادھار دینا۔ دستگردان قرض دینا۔
ہتھا مارنا۔ کسی چیز کو چھین لینا۔ برق۔ نقد دل لیکے الگ ہو گیا
برق مجھے + ہاتھ ملتے ہی ستمگار نے ہتھا مارا۔

ہاتھ پھیری کرنا۔ مکر و فریب سے کسیکا مال لے لینا۔ فریب سے کسیکو اپنے دام مین لانا۔
ہاتھون سے جانا۔ پتنگ کا ہاتھ سے ٹوٹ جانا تعلق موقوف ہونا۔
ہاتھے چڑھنا۔ قابو اور بس مین آنا۔ بحر۔ قبضے پہ ہاتھ رکھتے ہین۔ وہ بات بات مین ہوگیا بیچ ہی یار کے ہاتھے چڑھا ہوا۔
ہتھیا مول لینا۔ نیل یا دہ مول لے لینا کسی جھگڑے مین پھنس جانا۔
ہتھیلی بجانا۔ تالی بجانا۔ تالی پیٹنا۔
ہتھیلی پر سرسون جمانا۔ پھرتی سے کوئی کام کر لینا۔ میر تقی۔ نہ اے رشک بہار آنکھین اٹھائے پشت پا سے تو + ہتھیلی پر اگر سرسون ترے آگے جما دون مین۔
ہتھیلی پر لیے پھرنا۔ کسی کام کرنے کے واسطے ہر وقت مستعد۔ خواہش نفسانی کے لیے کسی عورت کا مجبور ہو جانا۔
ہتھیلی ٹیکنا۔ غلام بنانا۔
ہتھیلی دینا۔ سہارا دینا۔
ہتھیلی کا پھپھولا۔ وہ چیز جو ذراسی ٹھیس سے ٹوٹ جائے بحر۔ آجکل جسنے مجھے چھیڑا ذرا مین رو دیا + غم سے ہے یہ دل ہتھیلی کا پھپھولا ہوگیا۔ ذوق۔ پھینک کر شیشۂ دل ہاتھ سے کہتا ہے وہ مست + کیا بنا یا تھا ہتھیلی کا پھپھولا مجھکو۔
ہتھیلی کھجلانا۔ روپیہ ملنے کی امید ہونا۔
ہٹا کٹا۔ توانا و تندرست۔
ہٹ دھرمی کرنا۔ بے ایمانی سے ضد کرنا۔

ہاے با جیم

ہچکیان بندھ جانا۔ دردناک حالت مین رونا۔
ہچر مچر کرنا۔ پس و پیش آجکل کرنا۔
ہجے کرنا۔ حروف کو ملانا بات مین حجتین نکالنا۔

ہاے با دال

ہدف مارنا۔ تیر نشانہ پر مارنا۔ تیر چلانا۔ سہ۔ تیر جو ایک اسطرف مارا ہتنے گویا پڑا ہدف مارا۔
ہڈیان۔ توڑنا زدو کوب کرنا۔
ہڈیان نکل آنا۔ نہایت لاغر ہو جانا۔

ہاے با راے

ہرا باغ دکھلانا۔ کسی امر مین زبانی باتین کرکے تسلی کر دینا۔
ہرا ہو جانا۔ سرسبز ہو جانا پک جانا۔ بحر۔ پھر کسی کان کے سبزے سے لڑی آنکھ اپنی + پھر ہرا ہو گیا زخم جگر اچھا ہو کر۔
ہر بالی ہونا۔ ہر ایک کام سے واقف ہونا۔
ہرہر ہو جانا۔ غائب ہو جانا گم ہو جانا۔
ہر دل کھل جانا۔ سینہ صاف ہو جانا۔
ہر دیگی چمچہ۔ رکابی مذہب جسطرف کچھ حاصل ہوا سیکا بن جانا۔
ہردے کرنا۔ حفظ کرنا یاد کرنا۔
ہر فن مولا۔ ہر کسب مین استاد۔
ہرن ہو جانا۔ بھاگ جانا۔ ناسخ۔ پھر ہرن ہو گئی میری وحشت + پھر وہ رعنا غزال آپہونچا۔
[illegible] کسطرح بھونکنے لگنا۔
ہڑکالی کتیا۔ دیوانی کتیا۔
ہرن دھوپ مین کالے ہوئے جاتے ہین سخت دھوپ پڑتی ہے جسکی گرمی سے ہرن کالے ہوئے جاتے ہین۔

ہاے با زاے معجمہ

ہزار منھ ہزار باتین۔ ہر کوئی بات بنا کر کرتا ہے۔
ہزاروان ہین۔ ہزار ہا لوگون مین۔ سہ۔ وہی اک ذات سیکڑون ہین ہیئ دہ ہی لاکھون مین اور ہزارون مین۔
ہزاری۔ دولتمند بڑا آدمی۔

ہاے با شین

ہشت مشت ہونا۔ آپس مین لات مکا ہونا۔

ہاے با ضاد معجمہ

ہضم کرنا۔ کسی کا مال کھا جانا پچا جانا۔

ہاے با فاے

ہفت زبان ہونا۔ بہت سی زبانون سے واقف ہونا۔
ہفت قلم ہونا۔ عربی فارسی وغیرہ خطوط لکھ سکنا۔

ہاے با کاف

ہکا بکا سہجانا۔ حیران و سرگردان رہجانا۔
ہگ دینا۔ خوف سے پاخانہ نکل جانا۔

ہاے با لام

ہلاس ہو جانا۔ ہلاس کی طرح چٹکی چٹکی ہٹ جانا سب خرچ ہو جانا۔
ہل چل پڑنا۔ بھاگنے پر مستعد ہو جانا۔ میر۔ دربھی آگئی اکبار صف اعدا مین + ایک دو ہاتھ کے چلنے مین پڑی ہے ہل چل۔

ہلدی کی گرہ لیکر پنساری بن بیٹھا۔ تھوڑے سرمایہ پر دولتمند بن بیٹھا ہے۔
ہلدی لگا کر بیٹھنا۔ چوٹ لگنے کا بہانہ کرنا۔
ہلکا پھلکا۔ نہایت ہلکا بہت سبک۔
ہلکا کرنا۔ بوجھ کم کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ کم عزت و بے آبرو کرنا۔ بحر گناہی چشم میں مجھکو عشق نے ہلکا کیا + جنبش دامان مژگان سے میں اکثر ہل گیا۔
ہلکا کھانا۔ وہ کھانا جو جلد ہضم ہوجائے۔
ہلکا ہونا۔ بوجھ کم ہونا بیماری کم ہوجانا غصہ اتر جانا جوش و ہوائی اتر جانا۔
ہلکورے لینا۔ ہلکورے مارنا۔ ندی کے پانی کا ہلنا دریا کا موجزن ہونا۔
ہل کے پانی نہ پینا۔ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکنا نہایت سست و کاہل ہونا۔ کیف۔ ہوگئے ہل کے نہ پانی بھی پیا رسیری میں + جو کیفیت حال ہمارا ہمیں [illegible] ہے۔
ہلکی بات کہنا۔ خراب بات منھ سے نکالنا۔
ہلکے بھاری ہونا۔ رنجیدہ ہونا ناراض ہونا خفیف و ذلیل ہونا۔
ہلا کرنا۔ دفعۃً دشمن پر حملہ کرنا۔
ہل مل جانا۔ موافقت ہوجانا۔
ہلسلا اٹھانا۔ شغل اٹھانا۔
ہلدی لگا کے بیٹھو گے۔ چوٹ لگیگی تو ہلدی لگانی پڑیگی۔
ہلدی لگے نہ پھٹکری۔ کچھ خرچ نہوا مفت کام بن گیا۔
ہلکے ہلکے۔ ہولے ہولے آہستہ آہستہ۔
ہلکا لہو۔ پتلا خون ہر زود اثر ہے۔

ہاے با میم

ہما ہمی کرنا۔ غرور و تکبر کرنا زور و طاقت دکھلانا۔
ہم بستر ہونا۔ مباشرت کرنا۔
ہم پلہ ہونا۔ ہموزن و ہمرتبہ ہونا۔
ہم پیالہ و ہم نوالہ ہونا۔ کھانے پینے میں شریک ہونا۔

ہاے با نون

ہن برسنا۔ روپیہ برسنا خوب آمدنی ہونا۔
ہندی کی چندی کرنا۔ ہندی زبان کی شرح کرنا بیفائدہ تقریر کرنا نکتہ چینی کرنا۔
ہنڈیا پکنا۔ دیگ دم ہونا۔
ہنڈیا چڑھنا۔ ہنڈیا چولھے پر رکھنا۔
ہنسلی اتر جانا۔ گردن کے نیچے کی ہڈی کا اپنی جگہ سے ہلجانا۔
ہنسنا بولنا۔ خوش خوش رہنا۔
ہنسی اڑانا۔ مسخری کرنا۔ داغ۔ ہماری تربت پہ تم جو آنا تو چار آنسو گرا کے جانا + ذرا سے پاس آبرو بھی ہنسی ہماری نہ تم اڑانا۔
ہنسی میں کھنسی ہوجانا۔ ہنستے ہنستے لڑ پڑنا۔
ہنسی میں لیجانا۔ کسی بات کو مذاق سمجھنا۔
ہنکارا بھرنا۔ بات سنتے سنتے ہوں ہوں کرتے جانا۔
ہنر کی پوٹ۔ ہنرمند آدمی۔
ہنڈیا ڈوئی۔ گھر کا سامان۔
ہنستی پیشانی۔ خندہ پیشانی ہنس مکھ۔
ہنستے کھیلتے۔ خوشی میں گھر آباد ہیں۔ ذوق۔ سینہ دہم مرے زخم جگر ہنستے ہیں ہنسنے دو چارہ گرو ہنستے ہی گھر بستے ہیں
ہنسی خوشی سے۔ رضامندی سے۔
ہنسی کے مارے پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ بہت سی ہنسی آتی ہے۔

ہاے با واو

ہوا چھوڑنا۔ گوز چھوڑنا۔
ہوا اڑ جانا۔ مشہور ہوجانا بھرم ظاہر ہونا۔
ہوا اکھڑ جانا۔ بے اعتبار ہوجانا۔
ہوا باندھنا۔ عزت قائم کرنا نام بڑھانا۔
ہوا بتانا۔ ٹال دینا۔
ہوا بدلنا۔ حالت پلٹ جانا موسم بدل جانا۔
ہوا بگڑ جانا۔ ہوا خراب ہوجانا اعتبار میں فرق آنا۔ مصحفی۔ واشد کچھ آگے آہ سے ہوتی تھی دل کے تئیں + اقلیم عاشقی کی ہوا اب بگڑ گئی۔ فغان۔ صحبت گل پہ فقط بلبل سے کیا بگڑی ہوئی + آجکل سارے چمن کی ہے ہوا بگڑی ہوئی۔
ہوا بندھنا۔ ہوا رک جانا۔ ناموری حاصل ہونا مشہوری پانا۔
ہوا بھر جانا۔ فربہ ہوجانا مغرور و متکبر ہونا۔
ہوا پھانکنا۔ فاقہ کشی کرنا۔
ہوا پر چڑھ جانا یا ہوا آجانا۔ متکبر و مغرور ہوجانا۔ برق۔ وہ بلا ہیں جو ہوا پر کبھی آجاتے ہیں + کوچہ زلف کی بھی خاک اڑا جاتے ہیں
ہوا پر سوار ہونا۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا۔ جلدی کرنا۔

ہشتابی کرنا۔ سہولت سے کام نکرنا۔
ہوا پر گرہ لگانا۔ شعبدہ بازی کرنا۔ چالاکی وعیاری کرنا۔ ناممکن کام کر دکھانا۔
ہوا پر ہونا۔ متکبر ومغرور ہونا۔ برق۔ ہماری خاک کی نہ اڑاؤ بربادی + مزاج یار بہت ان دنوں ہوا پر ہے۔
ہوا پھر جانا۔ زمانہ کا رخ بدل جانا۔ جرأت۔ مزاج سیر چمن سے جو یار کا پھر جائے + گلوں کا اور ہی کچھ رنگ ہو ہوا پھر جائے۔
ہوا دینا۔ ہوا میں رکھنا۔ وخصومتین فساد کرانا۔
ہوا زدگی ہوجانا۔ زکام ونزلہ ہوجانا۔
ہوا سا۔ بہت ہلکا پھلکا۔
ہوا سے باتیں کرنا۔ تکبر کرنا۔
ہوا کا [illegible]۔ ہوا کا رستے چلنا۔
ہوا کرنا۔ پنکھا کرنا۔
ہوا کھانا۔ سیر کرنا دل بہلانا۔
ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا۔ ہر کام میں جلدی کرنا۔ آتش۔ پیادہ پا چمن میں بہار کو دیکھا + ہوا کے گھوڑے کے اوپر جسدن سوار ہو لی۔
ہوا لگنا۔ غرور وتکبر میں آجانا۔
ہوا ہونا۔ ہوا ہوجانا۔ گم ہوجانا۔ غائب ہوجانا۔ دکھائی نہ دینا۔
ہوائیاں اڑنا۔ ہوائیاں چھوٹنا۔ آتش بازی چلنا۔ چہرہ کا رنگ متغیر ہونا۔ چہرہ پر پریشانی برسنا۔
ہو بیٹھنا۔ کسی جگہ قیام کر بیٹھنا۔ مالک ہو بیٹھنا۔
ہوتا رہیگا۔ کوئی ایسا ہوگا جو پھر بات پڑیگی۔ میر۔ تو یوں گالیاں غیروں کو شوق سے دے + ہمیں کچھ کہیگا تو ہوتا رہیگا۔
ہو جانا۔ گزر جانا۔ نکل آنا۔ پورا ہوجانا۔ ختم ہوجانا۔ سیکھ لینا۔
ہو چکنا۔ ختم ہوجانا۔ مر جانا۔ رند۔ قرآن اٹھاتے ہیں طمع زر کے واسطے + وہ بندہ گر یہی ہیں تو اسلام ہو چکا۔
ہو حق کرنا۔ پکار پکار کر ذکر الٰہی کرنا۔ شور وغوغا کرنا۔ آتش۔ مدت لعبہ ہی اک چشم زدن کا وقفہ + کرلیں ہو حق یہ خرابات نشین تھوڑی سی۔
ہو رہنا۔ ایک مقام پر بیٹھ رہنا۔ چپک جانا۔ کمال تک پہونچنا۔ پہونچ ہوجانا۔
ہوڑ باندھنا۔ شرط لگانا۔ دعوے کرنا۔
ہوس لگانا۔ خواہش کرنا۔
ہو سکنا۔ ممکن ہونا۔

ہوش اڑنا۔ بیہوش ومتحیر ہوجانا۔ ناسخ۔ تیری عقل وذہن ہر جبین اے رشک چمن + عاشقوں کے ہوش اڑتے ہیں بجائے عندلیب۔
ہوش بجا ہونا۔ حواس درست ہونا۔
ہوش پکڑنا۔ یا سنبھالنا۔ ہوش میں آنا۔ بالغ ہونا۔ سن تمیز کو پہونچنا۔ ہشیار ہونا۔
ہو کا عالم ہونا۔ ہو کا مقام ہونا۔ قفا کا مقام ہونا۔ ویرانہ جنگل ہونا۔ کیف۔ اللہ رے شوق دل کو اس بت کی جستجو کا + کعبہ بھی دیکھ آئے تھا اک مقام ہو کا۔
ہو کر رہنا۔ ضرور ہونا۔
ہول بیٹھ جانا۔ خوف قائم ہ...
ہول دلا۔ ڈرپوک آدمی۔
ہولی کا بھڑوا۔ مسخرہ آدمی۔
ہو لینا۔ ختم ہوجانا۔ بس ہوجانا۔
ہونٹ چبانا۔ ہونٹ کاٹنا۔ افسوس کرنا۔ تاسف کرنا۔ پچتانا۔ آتش۔ تو نے منہ پھیرا سوال بوسہ پر مجھسے جو یار + ہونٹھ اپنے اپنے دانتوں سے چبا کر رہ گیا۔
ہونٹ چاٹنا۔ لذیذ چیز کے ذائقہ میں ہونٹھوں پر زبان پھیرنا۔ سہ۔ جسکا تیرے لبوں کا جو شیرین دہن لگا + ہونٹ اپنے چاٹنے کو عقیق یمن لگا۔
ہونٹ ہلانا۔ بولنا۔ بات کرنا۔ نظیر۔ ٹک ہونٹ ہلاؤں تو یہ کہتا ہے ٹک بے + اور پاس جو بیٹھوں تو سناتا ہے سرک بے۔
ہونٹوں کا ہلنا۔ آہستہ بات کرنا۔
ہولس لگنا۔ بری نظر کا اثر ہوجانا۔
ہول جول۔ تردد واضطراب۔
ہوادار مکان۔ کھلا مکان۔
ہوا کا رخ بتاؤ۔ منہ مت لگاؤ۔ اٹھا کر پھینک دو۔
ہوا کھاؤ۔ لیے ہو چلتے پھرتے نظر آؤ۔ شوق۔ دیکھو بہت نہ اتراؤ + ٹھنڈے ٹھنڈے چلو ہوا کھاؤ۔
ہوا ہو۔ دفع ہو دور ہو۔ جرأت۔ آہ یہ باد خزاں یارب ہو دنیا سے ہوا + دم میں نقشہ اور ہی کچھ ہوگیا بستان کا۔
ہوش میں آؤ۔ ہوش پکڑو۔ ہوش کے ناخن لو۔ ہوش کی لو۔ ہوش کی دوا کرو۔ ہشیار ہو سنبھلو۔ آپے میں آؤ۔

ہوا خواہ - دوست ہمدرد -

ہوائی دیدہ - شوخ چشم بےحیا -

ہوا سے لڑتی ہے - لڑنے والی عورت ہے - ذوق - شعلہ بھڑکے ذکیونکر محفل مین + شمع بجھ بن ہوا سے لڑتی ہے - شوق - اور کچھ بولون توبگڑتی ہے + تو تو ما ما ہوا سے لڑتی ہے -

ہولی آئی ہے - قدیم رسم ہے - مصرع - ہولی آئی ہے کہ آنکھون کو چُرا لیتے ہین -

ہو تیسا نے - درصورت موجودگی -

ہوتے سوتے - خویش رشتہ دار یگانے - میر حسن - کہا ہوتے سوتون سے اپنے اسو + فقیرون کو چھیڑ دو بیٹھے رہو - شوق - ہوتون سوتون سے اپنے بیار + چل بچے ہو گئے خدائی مار -

ہوڑا ہوڑی - بچا بچی فدا فدی -

ہاے با یاے

ہیٹی کرنا - بےعزتی کرانا ذلت اٹھانا -

ہیکڑی کرنا - زبردستی کرنا - دو دو تاب دندان دکھانا بزم مین تو ہنس ہنس کر + کوئی کھا جاے جو سے کی تنی خوب نہین -

ہیر پھیر کی باتین کرنا - فریب کی باتین کرنا -

ہیلا دینا - دھکا دینا پانی مین دھکیل دینا -

ہینگ لگانا - چونا لگانا زک دینا -

ہیضہ ہونا - ہیضہ کی بیماری ہونا دافع الریض - شہ رگی رہنا -

ہیجڑی کھوٹنا - کوریاطن ہونا بیوقوف ہونا - گھر دکھائی دینا -

ہائی ہر کرنا - رونا پیٹنا ماتم کرنا - شوق - مجھکو بیٹھے سواری گر ہنگواے ہمکو ہائی کرے جو گھر کو جاے -

ہیسی کرنا - ٹھٹھے کرنا - بیہودگی کے ساتھ ہنسنا دانت نکالنا -

ہیرا آدمی ہے - بھلا آدمی ہے -

پانچوین فصل

ادویات یعنے ان لغات کے ذکر مین جو علم طب کے متعلق ہین

ہاے با الف

ہاتھونا - یہ ایک نبات ہے ساق اسکی بلند ساتھ رطوبت لزجیکے شاخ اور پتے چھوٹے جرطشلغم کی سی اسکو پکا کر کھاتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک ملطف اخلاط غلیظ مقوی قلب حافظ صحت دافع کھانسی و درد سینہ و امراض گردہ و مثانہ ہے -

ہارسنگھار - یہ ایک ہندی درخت ہے اور پھول اسکا خوشبودار شل پھول چنبیلی کے اسکے پانی سے کپڑے رنگتے ہین جو زرد رنگ ہوتے ہین طبیعت اسکی سرد خشک پتے اسکے ساتھ قدرے ادرک کے پرانی حمیات کو مفید ہے اور بیج اسکے پیس کر اور پانی مین ملا کر سر کے بالون کو دھوتے ہین -

ہاے با دال

ہدہد - مشہور پرندہ ہے چونچ اسکی لمبی اور سر پر تاج پرون کا ہوتا ہے اسکو مرغ سلیمانی کہتے ہین طبیعت اسکی گرم و خشک سرمہ اسکے خون سے لیا ہوا دفع بیاض چشم کے واسطے مفید ہے -

ہدبد - یہ ایک جانور بقدر باقلا کے خاکستری رنگ نمناک مقامات مین ہوتا ہے طبیعت اسکی سرد تر قطور اسکے جوشاندہ کا پوست انار کے ساتھ کان کے درد کو دفع کرتا ہے عسر النفس کا علاج ہے عسر البول اور یرقان کے لیے مفید ہے -

ہرطمان - یہ دانہ گیہون اور جو کی زراعت مین پیدا ہوتا ہے بعض لوگ اسکو جلبان جانتے ہین کہ ہرطمان کا رنگ سیاہی مائل اور جلبان کا خاکستری ہے طبیعت اسکی سردی مین معتدل مائل بخشکی ہے اسکا جوشاندہ کھانسی کو دفع کرتا ہے حابس لبطن ہے اور ورم حارہ کو تحلیل کرتا ہے -

ہرنوہ - عود کے درخت کا پھل ہے مرچ سے چھوٹا ہے ساتھ تھوڑی زردی کے مزہ تیز بوخوش مرکب لقوی گرمی اور خشکی مین معتدل مفرح و محلل نافع زکام و نزلہ دافع اوجاع حلق ہے -

ہریسہ - یہ ایک قسم کا کھانا گوشت اور حبوب ہر ایک قسم کے ملا کر پکاتے ہین طبیعت اسکی گرم تر کثیر الغذا مسمن بدن و گردہ مقوی عصب و باہ بڑھانے والا منی کا ہے -

ہربی - یہ ایک جڑ کشمیر کے پہاڑون سے لاتے ہین سیاہ و شکری رنگ کی ہوتی ہے طبیعت اسکی گرم اور خشک سموم قتال سے ہے آدھے چنے کے برابر اگر انسان کھاے فوراً مر جاے -

ہرفوری - تیسرا حرف فاے موحدہ ہندی لغت پھل ایک درخت کا ہے جو ہند مین پیدا ہوتا ہے شاخین اسکی بہت اور گنجان پتے لمبے پھول چھوٹے صندلی رنگ پھل گول پختہ زرد رنگ کچا اور پکا کھایا جاتا ہے اچار بھی ڈالتے ہین طبیعت سرد و تر قاطع صفرا تسکین خون دینے والا حرارت کا پیدا کرنے والا بلغم کا ہے -

ہاے با لام

هلام - ایک قسم کی غذا کا نام ہی جو گوشت سے پکائی جاتی ہی روغن مین داغ کرکے قند اور دار چینی اسمین ملا کر روٹی کے ساتھ کھاتے ہین طبیعت اسکی گرم تر کثیر الغذا اسمن بدن مقوی باہ و گردہ و مثانہ ہی -

هلیون - یہ ایک نبات بستانی و جنگلی ہوتی ہی ہندمین اسکو ناگردون کہتے ہین درخت اسکا انار کی جڑ سے پیدا ہوتا ہی اور درخت لپٹ جاتا ہی طبیعت اسکی گرم خشک محلل و مفتح سدہ دافع ظلمت بصر و درد سینہ وریہ و پہلو و استسقا ہی -

ہاے با نون

هندبا - فارسی مین اسکو کاسنی کہتے ہین باغی اور جنگلی دونون قسم کی ہوتی ہی مشہور دوا ہی طبیعت اسکی سرد تر مفتح و مسکن حدت صفرا و خون و تشنگی دافع درد سر گرم و درد سر صفراوی ساتھ صندل سرخ و سرکہ و گلاب کے اور ضماد اسکے پتون کا دافع خفقان و محلل ورم ہی اور پینا اسکے پانی کا دافع یرقان و استسقاے گرم و مقوی جگر و تشنگی و غشیان و ہیجان ہی -

هندبا بری - جنگلی کاسنی طبیعت اسکی سرد خشک [illegible] و مقوی معدہ قوی زیادہ بستانی سے ہی -

ہاے با واو

ہوا - فارسی مین اسکو باد کہتے ہین یہ ایک عنصر ہی [illegible] اور پانی سے لطیف آگ سے ثقیل اور ایک ستہ ضروریہ موجودات جسمانی یعنی موالید ثلاثہ سے ہی اور راحت دینے والی روح حیوانی کو جو دل مین ہی اگر ایک دم اسکو نہ پہونچے تو انسان مرجاے طبیعت اسکی بالذات گرم تر ہی مگر باعتبار اختلاف اوضاع فلکی و ارضی و باعتبار جہات مختلف بھی ہو جاتی ہی -

هوم المجوس - یہ ایک گھاس ساق اسکی ایک عدد پتلی او سخت پہول زرد تیرہ مشابہ یاسمین طبیعت گرم خشک اور پہول سرد خشک ہی اسکے پہول کا جوشاندہ مدر بول ہی سنگ گردہ و مثانہ کو نکالتا ہی اور ذرور حابس خون ہر ایک زخم کا ہی -

هوم - یہ ایک نبات ہی شاخین اسکی گرہ سے بھری ہوئی پھل مشابہ نخود کے ہی چکور اسکو دیکھکر بہت خوش ہوتا ہی اسکے پتے نہین ہوتی اور نہ بھی جڑ ہوتی ہی سموم قتالہ سے ہی -

هوفاریقون - ایک نبات ہی جو تین قسم پر ہوتی ہی اور تینون کا پھل مشابہ جو کے ایک قسم کا قد بقدر بالشت کے پتے سداب کے سے بہت سرخ اور سپید پہول طبیعت اسکی گرم خشک مجفف و محلل و ملطف

نافع ادرار بول و حیض و اسہال صفراوی ہی دوسری قسم کی شاخین زیادہ پتی لفناع کی سی ساق سرخ پہول زرد طبیعت اسکی گرم اور خشک پینا دو درم اسکا مسہل صفراے غلیظ و سیلان [illegible] مین مانند پہلی قسم کے ہی تیسری قسم کہ اسکو دار بردی لکھتے ہین نبات اسکی پہلی قسم سے بڑی اور چھوٹی دوسری قسم سے بہت سرخ شاخین جوڑی پہول زرد طبیعت اسکی گرم اور خشک مگر پہلے درجہ سے کمتر مسہل رطوبات معدہ پینا دو درم اسکا مسہل صفراے غلیظ ہی و مقوی معدہ دافع فالج و عرق النسا و عسر البول

ہاے با یاے

ہیل لوا چیر لواچی اسکا نام ہی جسکا ذکر حرف خاے مین ہو چکا ہی طبیعت اسکی گرم اور خشک لاچی سے زیادہ لطیف ہی مقوی جگر و معدہ و ہاضم طعام ہی -

ہیشنہ - اس نبات کی بلندی ایک گز تک اندر سے خالی شگوفہ چوڑا بنفشئی درمیان شگوفہ کے ایک چیز روئی کیطرح ہوتی ہی اگر وہ روئی کان مین [illegible] کا واسطے [illegible] -

[illegible]

لغات یاے تحتانی کہ یا مین ہین پانچ فصلین ہین

پہلی فصل

لغات عربی و فارسی وغیرہ کے ذکر مین

یاے با الف

یا - فارسی مین یہ حرف عاطفہ ہی اور افادہ تردد کا کرتا ہی معطوف اور معطوف علیہ دونون پر آتا ہی - سعدی - یا مکن با پیلبانان دوستی + یا بنا کن خانہ در خورد پیل + یا مرو با یار ازرق پیرہن یا بکش بر خانمان انگشت نیل -

یا - عربی مین حرف ندا ہی - توحید - مالک ملک جہانی یا الہ العالمین نیست ذات بے مثالت را تعلق با شریک + بے نظیرے بے نظیرے بے نظیرے بے نظیر + لا شریکے لا شریکے لا شریکے لا شریک -

یا اسفا یا اسفی - واے افسوس -

یارا - قوت توانائی طاقت - مولانا جامی - [illegible]
چہ یارا + کہ بنماید چنین شکل دل آرا -

یاسا۔ ترکی میں ماتم و غم و اندوہ و قتل و غارت و قصاص۔
یاب۔ پانے والا اور صیغہ امر لینے پااور حاصل کر۔ توحید ہشت نوز ...
... ہشت شہرہ ہست ہر قطرہ زفیضت بہرہ یاب۔
یاقوت۔ مشہور جواہر ہی جو سرخ و زرد و کبود و سپید ہوتا ہی اور
نام ایک خوشنویس کا جو غلام مستعصم بالله خلیفہ عباسی کا تھا اور
نام ایک قسم کے پلاؤ کا اور نام ایک جزیرہ کا۔
یالیج۔ بفتح لکین تیر پیکان دار اور نیزہ۔
یاجوج ماجوج۔ نام ایک جنگلی آدم خوار قوم کا ہی جنکو سکندر نے
آہنی دیوار بنا کر ایک پہاڑ میں قید کر دیا ہی۔
یافوخ۔ اخیر میں خاے معجمہ شیر خوار بچہ کا تالو جو اوپر سے متحرک
ہوتا ہی ہندی میں اسکو تالو کہتے ہیں۔
یاد۔ حافظہ میں اپنا ذہن نشین کرنا و حفظ و قوت حافظہ۔ نظامی
... اور لیس پردہ خاموش کرد ... یکبار یادم فراموش کرد۔
یازند۔ شکل و شباہت۔
یاور۔ ... حرف و او ... مددگار ... حد زندگی شل ...
... اندو یاد ... خدا یاور ... بود یاد۔
یاری۔ قوت بازو معاون و مددگار ... سکے ہیں۔
... یاری۔ وفادار و وفاداری ... یاران شہید و یاری ... ابن لیو ...
یادیر۔ بفتح دال بارھواں روز ... کا۔
یاتشلی۔ ترکی میں داخل ہوتے ہیں ...
یافر۔ بفتح فاے بازیگر اور ناچنے والا۔
یادر۔ بکسر دال وہ زمین جو بادشاہ و حاکم وقت وجہ معیشت میں
کسی مستحق کو مرحمت کریں۔
یاز۔ بالندہ یعنی پھولنے پھلنے والا۔
یاس۔ عربی میں نا امیدی کی حالت۔ توحیدی۔ نماند دولت
حشمت نہ تنگی و افلاس + نماند وقت امید و نماند حالت یاس + نہ ملک
ماند نہ مالک نہ تاجدار نہ تاج + نہ تخت ماند نہ کرسی نہ صاحب اجلاس۔
یابس۔ خشک اور خشک کرنے والا۔
یانع۔ بکسر نون وہ میوہ جو پک چکا ہو۔
یاغ۔ ترکی میں روغن گھی تیل وغیرہ۔
یارق۔ ترکی میں روشن اور سفید۔
یارک۔ بچہ دان یعنی عورت کا رحم۔
یال۔ گردن اور گردن کے بال۔

یام۔ وہ گھوڑا جو بطور ڈاک راستہ کی ہر ایک منزل پر باندھا
جاے اور سوار بوقت پہونچنے کے فوراً اسپر سوار ہو جاے اور نام
ایک قبیلہ کا ہیں ہیں اور نام حضرت نوح کے بیٹے کا جو بعد طوفان
کے زندہ تھا۔
یاسین۔ نام ایک سورۃ کا قرآن کی سورتوں سے اور نام حضرت
رسول مقبول صلے الله علیہ وسلم کا۔ حکیم محمد انور در نعت ...
نازل بوصف چہرہ تابان تو + سورۂ طاہا و یاسین ناطق اندر شان تو
یاسمین۔ مشہور پھول زرد اور سپید ہوتا ہی جسکو ہندی میں چنبیلی
کہتے ہیں یاسم و یاسمن بھی اسکو کہتے ہیں۔ مؤلف۔ گل خجل از تاب
تاب چہرہ ات + منفعل از رنگ و بوئیت یاسمین۔
یاوہ۔ وہ خراب باتیں جو بیمار بیہوشی کی حالت میں کہتے ہیں اور وہ
حالات جو صوفیہ کرام کو کشف سے ظاہر ہوتے ہیں۔
یاسان۔ لائق و سزاوار اور نام ایک پیغمبر کا پیغمبران عجم سے۔
یابو۔ ترکی میں بارکش گھوڑا۔ حکیم کاظما لودی۔ ... یابندہ
مردہ یابو لے + عنکبوتے تنیدہ بر ہوتے۔
یاہو۔ ایک قسم کا کبوتر ہی جو یاہو یاہو بولتا رہتا ہی۔ طغرا کبوتر
چو یاہو زد از روے ذوق + شد از ذکر او بوستان گرم شوق۔
یاوہ۔ بفتح واو گم و ناپدید و بیہودہ۔ میر خسرو۔ اے ... کس
پند گوید + ہر دل یاوہ گرد مارا۔
یانہ۔ ترکی میں طرف و جانب۔
یاقہ۔ ترکی میں کپڑے کا گریبان۔
یافہ۔ گم شدہ و مفقود اور بیہودہ باتیں لغو تقریریں۔
یارہ۔ کنگن جو ایک زیور ہاتھوں میں پہنا جاتا ہی اور حلقہ گلو یعنی
ہنسلی اور نام ایک مرکب دوا کا جسکو ایارج بھی کہتے ہیں اور
وہ مسہل دوا ہی۔
یاسہ۔ حکم و قانون و ریاست۔
یازندہ۔ کسی کام کے کرنے کے لیے ہاتھ دراز کرنے والا۔
یازہ۔ بہ زاے معجمہ لرزہ کھانا کانپنا۔
یالہ۔ گاے کے سینگ۔
یاوگی۔ بیہودگی و گم گشتگی یعنی گم ہونا اور یاوہ ہونا۔
یارگی۔ قوت طاقت و توانائی حوصلہ ہمت جرأت جسارت۔ نظامی
کرا یارگی کز سر گفتگوے + زمین جاے آبا کند جستجوے۔
یاری۔ ظاہری امداد جو انسان انسان کو دیتا ہی۔

یاوری - باطنی امداد جو خدا کیطرف سے ہو -
یاسے - ترکی میں تیر اندازی او موسم گرمی کا -
یاغی - بمعنے باغی نافرمان -
یاقوت رمانی - وہ یاقوت جسکا رنگ انار کے دانہ کا ایسا ہو -
یاقوت کانی - وہ یاقوت جو کہ کان کی کان سے نکالا گیا ہو -
یاقوت جگری - جسکا رنگ جگر کا سا ہو -
یارا - طاقت و حوصلہ و جرأت - سعدی - سکہ زہر چرخ گردون
فراشتہ [illegible] یارائے خوردن نداشت -

باب یا با بائے موحدہ

[illegible]
یبیب - [illegible] ان وار -
یبوست - خشکی مقابل رطوبت کے -
یباب - ویران و غیر آباد -
یبست - جنگلی یا الک کا ساگ جو کھانے میں بھی آتا ہے -
یبروج - مردم گیاہ جو ایک گھاس ہے اور اسکی جڑ عورت مرد کی
صورت پیدا ہوتی ہے [illegible] زمین سے نکالتا ہے
مر جاتا ہے اسواسطے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسکو نکلوانے میں نکالنا
ہو تو وقت چاروں طرف سے زمین کھود کر جڑ کو کھلا [illegible] میں
رسی کا ایک سرا [illegible] گلے میں اور دوسرا سرا جڑ میں باندھتے ہیں
اور کتے کے سامنے کچھ دور فاصلہ پر گوشت رکھدیتے ہیں کتا گوشت
کھانے کی لالچ سے اٹھتا ہے اور زور سے جڑ کو نکال لاتا ہے وہ کتا بھی
زندہ نہیں رہتا -
یبس - خشکی اور خشک ہونا -
یبنلو - منڈی جگہ غلہ وغیرہ اجناس بکنے کی جہاں سوداگری مال
آکر فروخت ہوتا ہو یہ لغت ترکی ہے -
یبقش - ترکی میں بمعنے رسید لینے پہونچا -
یبتورش - ترکی میں پہونچایا گیا -
یبتوع - ایک درخت جسکے پتوں سے دودھ نکلتا ہو -
یتاق - پاسبانی و نگہبانی - سعدی - تو مست شراب ناز و یارا
بیداری گشت در رفاقت -
یتیم - جس بچہ کا باپ یا ماں مر گئی ہو - سعدی - مرکہان بینی کہ مرش
عظیم + بلرزد ہمی چون بگرید یتیم -
یتون - وہ بچہ جو حسب معمول پیدا ہو یعنی پہلے ماں کے پیٹ سے پاؤں نکلیں

یتاقی - پاسبان جو کہ پہرا دے -

باب یا بائے مثلثہ

یثرب - پہلا نام شہر مدینہ کا ہے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ
وسلم اسمیں تشریف لے گئے تو نام اسکا مدینۃ النبی رکھا گیا -

باب یا جائے حطی

یحمور - گورخر جو مشہور جانور ہے -
یحموم - دود سیاہ کالا دھواں -
یحیی - نام ایک پیغمبر کا ہے علیہ السلام -

باب یا خائے معجمہ

یخشایخ - وہ [illegible]
یخ - وہ برف جو موم کیطرح ہوا سے برستی [illegible] پانی ہو
اور فرق یخ اور برف میں یہ ہے کہ [illegible]
گلائے ہوئے موم کیطرح قطرہ قطرہ - ابو طالب [illegible]
یخ نشان شدا [illegible]
یخبرالیس [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

باب یا دال

[illegible]
یخشیدی - زلور خود بیٹھا ہو بشتہ مر بخت کرد [illegible]
خود دم جان بخش بخشیدی سیارا -
یدطولا - یدطولی - کمال جو کسی ہنر میں ہو -
ید - دست یعنی ہاتھ و نعمت و دولت و نیکی و قدرت و طاقت -
یدک - کوتل گھوڑا جسکو عربی میں جنیبت [illegible]
تا بر دلخت جگر از سر میدان محنت + تاختہ از پے آن [illegible]
یدرہ - عشق پیچان کی بیل جو درختوں پر چڑھ جاتی ہے -
یدقہ - نام ایک درخت کا جسکے پھل اور [illegible]
یدہ - برف و باران و عمل سحر و ساحری -

باب یا ذال

یذقہ - نام ایک درخت کا قسم زرد آلو سے ہو -

باب یا را

یرغا - راہوار و تیز رو بلغار -

یرا - چین اور شکن جو لاغر آدمی کے جسم پر پڑجاتی ہین-
یرنا - وسما مہندی وغیرہ جس سے ہاتھ یا بالون کو رنگین-
یرت - منزل و مقام یہ لغت ترکی ہے-
یرخنج - بیماری کابوس کی یعنے خواب مین ڈرنا-
یرمر - انتظار کرنا راستہ دیکھنا-
یراش - رغبت و توجہ-
یرانع - بہ عین مہملہ بالس جسکو نے کہتے ہین-
یرامیع - ایک دوا کا نام ہے جسکو پلیون کہتے ہین-
یرنغ - و یرانغ - بہ غین معجمہ وہ گھوڑا جو سواری کے لائق ہو-
یرلیغ - بادشاہی فرمان جسکو مثال و منشور کہتے ہین یہ لفظ ترکی ہے
یرلغ اسکا اختصار ہے - جلال الدین سلمان بیسیر شاہ امور
ہیچ شاہ + کہ بندہ باز نماند ز پابوس رکاب + اگرچہ برگ نوائے
نداشتم لیکن + شدم بحکم اشارت مصاحب اصحاب-
یراق - سامان و اسباب و سلاح اور فوج کا سامان-
یرمستی - درہم [illegible]
یرندا [illegible] - [illegible]
گھوڑے کی تعریف مین [illegible]

یرقان - ایک بیماری ہے [illegible]
[illegible]

یرمغان - ارمغان [illegible]
یربان - نام شہر سمرقند کا جو مشہور شہر ہے-
یرغو - سیاست و حکومت-
یراغہ - ؤ قلم اور کرم شب تاب یعنے جگنو اور آدمی ڈرپوک-
یرہ - ترکی مین زمین-

باب یاے زاے معجمہ

یزدجرد - یزدگرد - نام بہرام گور بادشاہ کے باپ کا جو کمال
ظالم تھا اور گھوڑے نے اسکو دولتی مارکر مارڈالا اور نام نوشیروان کے
پوتے کا جسکو شہریار بھی کہتے تھے اسنے چالیس سال سلطنت کی
آخر حضرت عمر خلیفہ ثانی رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد مین
جب صحابہ کا لشکر عجم پر حملہ آور ہوا تو اسنے شکست کھائی اور بھاگ کر
نیشاپور چلا گیا اور اپنے نوکرون کے ہاتھ سے مارا گیا شاہان عجم کی
سلطنت اسپر ختم ہوئی-

یزد - فارس مین ایک شہر ہے-
یزکدار - سردار فوج طلیعہ کا جس فوج کو ترکی مین قراول کہتے
ہین - نظامی - برون شد یزکدار دشمن شناس + بیاتے
کمر بست بر جاے پاس-
یزدان بخش - نوشیروان اور ہرمز اسکے بیٹے کا وزیر تھا اور مزدک
حکیم کہ جسنے اپنا مذہب ایجاد کرکے قباد نوشیروان کے باپ کو گمراہ
کیا تھا اسنے نوشیروان کے حکم سے اسی ہزار آدمی کے ساتھ جو
حکیم کے پیرو تھے قتل کیا-
یزک - فوج قراول جسکو طلیعہ کہتے ہین پاسبان اور پہرہ دار فوج
یزدان - فارسی اسماے الہی مین سے ایک نام ہے زمانہ سابق مین
فارسی آتش پرستون کا یہ اعتقاد تھا کہ خدا دو ہین ایک یزدان
دوسرا اہرمن یزدان انسان سے نیکی کراتا ہے اور اہرمن برائی یزدان
روشنی پیدا کرتا ہے اور اہرمن تاریکی - نظامی - یزدان کا امر
دشمن ست + یزدان [illegible] اہرمن ست-
یزدادین - ایک کھانے کا نام ہے جو قیمہ گوشت مین انڈے
ڈالکر پکاتے ہین-
یزنہ - بہن کا شوہر جسکو بہنوئی کہتے ہین-
یزدی - منسوب بہ یزد شہر یزد کا رہنے والا-

باب یاے سین

یسارت - توانگری و دولتمندی-
یسار - عربی مین توانگری و دولتمندی و ثروت اور بایان ہاتھ
اور فارسی مین شوم و نامبارک - نورالدین ظہوری نشست
بدیمانشد از یمین و یسار + خداے را کہ بہ پہیز از یسارے چند-
یسر - آسان ہونا اور آسانی - ع - مشو دلتنگ اندر تنگدستی
کہ یسر از عسر میگردد نمودار-
یسیر - بروزن فقیر آسان-
یساق - یاساق مہم تیاری جنگ کی - ظہوری - خفتان و زرہ تیغ و
تیرش + دل کسب نکردہ در یساق ست-
یساول - میر توزک و نقیب و چوبدار - فوقی یزدی - بندہ
آن نگاہ خشم آلود + کہ یساول بجانش غضب ست-
یسال - یسل - پیرہ فوج کا ترکی ہے - فوقی یزدی - [illegible]
[illegible] + [illegible] یسال باز لیسار-

باب یاے شین

یشب - ایک قیمتی پتھر کا نام ہی جو سپید مایل بسبزی ہوتا ہی اسکا
بڑا فائدہ یہ ہی کہ جسکے پاس ہو اسپر بجلی نہین گرتی -
یشت - نام ایک لشک کا آنت پر زہر سے جسکے ایس لشک یعنے ابا بجھے
یشک - بڑے دانت شیر و فیل و گرگ وغیرہ کے -
یشم - وہی پتھر جسکو یشب اور یشپ کہتے ہین -

باب یا عین

یعقوب - نام ایک پیغمبر علیہ السلام کا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے
والد بزرگوار تھے اور یہ لفظ عبرانی ہی اور نام امام ابو یوسف کا -
یعسوب - شہد کی مکھیون کے بادشاہ کا نام ہی کہ سب مکھیون سے
بڑا ہوتا ہی [illegible] علی مرتضا
علیہ السلام کا -
یعوق - نام ایک بت کا تھا جسکو ایک گروہ قوم نوح علیہ السلام
کی پوجتی تھی -

باب یا غین

یغما - غارت و تاراج اور نام ایک شہر کا [illegible] جسمین خوبصورت
لوگ رہتے ہین - سعدی - [illegible] یغما کو
کے التفات کند بربتان یغمائی -
یغمیصا - لباس جو ایک [illegible]
یغلا - ایک آہنی برتن کا نام ہی جسمین [illegible] اور [illegible]
بناتے ہین - [illegible] اسکو کہتے ہین
یغوث - ایک بت [illegible]
یغنج - یغنغج - ایک سانپ زرد رنگ خوش خال و خط سبزہ دار
ہوتا ہی کسیکو کاٹتا نہین -
یغناز - نام دختر خاقان چین جو بہرام گور کے نکاح مین تھی -
یغلغ - تیر پیکان دار -
یغناع - وہ کلاہ جو زردوز ہو اور جمعیت لشکر و فوج و اجتماع
مردم اور میدان جسمین لوگ جمع ہون -
یغام - غول بیابانی جو جنگل مین رہتے ہین -
یغلو - لوہے کی کڑاہی -
یغمائی - لوٹا ہوا مال اور وہ شخص جو شہر یغما مین رہتا ہو -

باب یا فا

یفاع - وہ زمین جو بلند ہو -
یفن - بہت ضعیف آدمی -

باب یا قاف

یقلمش - ترکی مین بمعنے خوش آمدہ یعنے پسند ہوا -
یقین - وہ بات جسمین شک و شبہ نہو یقین تین مراتب رکھتا ہی
اول علم الیقین دوم عین الیقین تیسرے حق الیقین علم الیقین
وہ ہی کہ ایک امر کا یقین النسان کو باقوال ثقات و روایات صحیحہ
ہو جاے عین الیقین وہ جو آنکھ سے دیکھکر یقین کیا جاے حق الیقین
وہ جسکو حواس خمسہ راست و درست تصور کرین یہ قسم اعلی قسم یقین
کی ہی - سہ - سجدہ کن برخاک عجز اے خاکسار + از رہ تصدیق اخلاص یقین
یقظ - بیدار مقابل خفتہ کے -
یقظان - بیدار -
یقطین - وہ درخت جو زمین پر پھیل جاے جیسے کدو اور خربزہ
اور سیندوانہ کی بیل -
یقظہ - عالم بیداری -

باب یا کاف

یکسب - [illegible]
[illegible]
یکران - [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
یکے - مزید علیہ لفظ یک - نظامی - یکے گرگ را کو بود خشمناک
ز بسیاری گوسپندان چہ باک -

باب یا لام

یلدا - شب تار یعنے اندھیری رات - سہ - جلوہ گر روے روشن
از گیسوے مشکل مہتاب در شب یلدا -
یلا یلا - بیا بیا آؤ آؤ -
یلسب - نکاح کے سامان کی تیاری کرنے والا از دواج کے
لوازمات بہم پہونچانے والا -
یلوج - بفتحتین وضم واو پیغمبر رسول یہ لغت ترکی ہی -
یلغار - حملہ کرنا نام یلوج کا دشمن پر -
یلدگر - قزل ارسلان بادشاہ کے باپ کا نام ہی -
یلدز - نام ایک پہلوان اور ستارہ کا -

یلمق - قبا جو ایک پہننے کا کپڑا ہی
یلاق - نام ایک بادشاہ ترک کا اور لوٹا ہوا مٹی کا برتن جسکو کہتے اور بلی وغیرہ کو پانی پلاتین یا کھانا کھلاتین -
یالک - بادشاہون کے پہننے کا ..ج -
یل - پہلوان و شجاع و دلاور - فردوسی - منش کردہ ام رستم داستان + وگر نہ یلی بود در سیستان -
یلمہ لیشم - قزوین کے علاقہ مین ایک پہاڑ ہی اسکو کھودین تو طرح طرح کے آدمیون اور جانورون کے بت سنگین نکلتے ہین جسکا ... کہ کبھی اس جگہ شہر آباد تھا اور غضب الٰہی سے سب انسان و حیوان پتھر ہوگئے ہین -
یلمان - پھلانا تلوار کا کسیکے جسم مین - ملاوحشی - سینہ ماہی و ... کردہ داشت راہ + تیغ را تا دست او ایلمان کردہ بود -
یلان - قزاین اور جرجان کے درمیان ایک بستی کا نام ہی -
یلمانچی - منجنیق جسکے ذریعہ سے ... وقت محصور و شہر پہ قائم ... اور آگ پھینکتے ہین -
یلمن - وہ دھاری ... ہی -
یلیرن - بلانے والا اور گانے والا -
یلمبہ - بفتحتین و بائے موحدہ ایک قسم کی زرہ کا نام ہی جو چیونٹیکی کپڑون سے بنائی جاتی ہی -
یلہ - چھوڑا گیا جیسے قید سے ... کیا گیا - اور دوڑتا ہوا جانا یا پھرنے والا اور فاحشہ عورت -
یلمچ - جو چیز لغاری مین رکھکر حیوانات کو کھلاتین -
یللی - بفتح اول و تشدید لام اول و کسرہ لام ثانی و یائے مجہول یہ ایک کلمہ ہی کہ مست لوگ وقت لشاط و سماع کے زبان پر لاتے ہین -
شیخ کاشی - داد مطرب وف بدستم یللی ... مستم یللی -
سید حسین خالص - اے حریفان حق پرستم یللی ہارت توحید مستم یللی
یلی - مخفف یللی - میر خسرو - گشتہ یلی زن ہمہ بربانگ نے ہر طرح زنان یلا زہر طرح -
یلچی - بضم اول گذرباق اور وہ گدا اگر جو راستہ مین بیٹھکر مانگے -

باے با میم

یمرود - نازک آدمی اور لودا ہٹلر ایک درخت کا جو بنیا لگا یا گیا ہو -
یما - نام ایک بادشاہ کا اور نام قیصر روم کے ایک غلام کا -
یمک - نام ایک شہر کا اور نام ایک بادشاہ کا -

یمام - جنگلی کبوتر -
یم - دریا یہ مشہور لفظ ہی - سعدی - نہ ابر افگند قطرہ سوے یم ز صلب آورد نطفہ در شکم -
یمان - منسوب بہ یمن یمن کے رہنے والا -
یمن - بضم اول برکت و خوبی و مبارکی -
یمن - بفتحتین نام ایک ولایت کا - لطافی - سہیلے بر آمد ز عرب تافتہ + ادیم یمن رنگ زو یافتہ -
یمین - دہنا ہاتھ اور دہنی طرف اور قسم و سوگند و قوت و توانائی و رتبہ و درجہ - توحید - دہد جلوہ نور خدا پیش و پس نما یدسح از یمین و یسار -
یمگان - ایک بستی بدخشان مین ہی اور اس جگہ حکیم ناصر خسرو کی قبر ہی
یمسو - بارود جس سے بندوق اور توپ چلائی جاتی ہی -
یمزدہ - مردم گیاہ جسکا بیان پہلے ہو چکا ہی -
یمشیر - ... جسمین کھانا ... ہی
یمانی - منسوب بہ یمن جو ایک ملک ہی -

باے با نون

ینگا - بھائی کی زوجہ اور چچا کی بی بی وکدبانو و مشاطہ -
ینگ دنیا - نئی دنیا امریکہ کا ملک جو پہلے کسیکو معلوم نہ تھا اور اب انگریزون مین سے کلنبس نام ایک انگریز نے معلوم کیا -
خیالی گیلانی - عاقلان را دہر زندان ست و بند عاقلان را ینگ دنیاے خوش ست -
ینبوع - بڑا چشمہ پانی کا -
ینابیع - جمع ینبوع بہت سے چشمے -
ینق - شیرابہ و شیردان جسکو کھیری بھی کہتے ہین -
ینگ - شکل و مانند و طرز و روش و آئین و طریق و قاعدہ و قانون و تمکین و وقار اور نام ایک جانور کا جو ہمیشہ گھاس مین رہتا ہی اور ترکی مین آستین - سلمان ساوجی - گل فرخار ندیدیم بدین حسن و جمال + ترک نیکی نشندیدم بدین شیوہ و ینگ -
ینبوت - ایک گھاس کا نام ہی پودینہ کیطرح اسکے کھانے سے قوت باہ جاتی رہتی ہی عورت حاملہ کھاے تو اسقاط حمل ہو جاے -
ینیلو - وہ منڈی جسمین ہر ایک جنس تجارت اکر فروخت ہووے کاروان و قافلہ و بازار -
ینمہ - ایک گھاس کا نام ہی -

یاے باواو

یوسف زلیخا - یہ کتاب یوسف و زلیخا کی عشقیہ حالت مین مصنفہ مولانا جامی نظم مین مشہور ہی اور شعرائے بھی یہ قصہ منظوم لکھا ہی [illegible] سید اشرف [illegible] حرف عشق و عاشقی [illegible] خواندان طفلان یو دلم [illegible] زلیخا [illegible]

یوب - [illegible] جیسے عالیشان مکان مین بچھایا جاے

یوت - یاے فوقانی و بالفتح مرض جو انسان اور حیوان مین پڑ جاتی ہی

یواقیت - جمع یاقوت

یوج - وہ جانور جو گھاس کھاتے ہین

یوح - بحاے حطی آفتاب عالمتاب

یوالخ - بخاے معجمہ ویرانہ جو بے آب اور آبادی سے دور ہو

یولقار - ترکی مین وہ تار جو رودہ خشک سے بناتے ہین مطلق تار اور سوت شرف الدین شفائی [illegible] بنیاد آہنگ [illegible] لش اگرکی یولقار

یوز - ڈھونڈھنا تلاش کرنا اور تلاش کرنے والا اور نام ایک شکاری جانور کا جسکو چیتا سندہ مین کہتے ہین

یونس - ایک پیغمبر کا نام ہی علیہ السلام جسکو مچھلی نگل گئی تھی سعدی - قرص خورشید در سیاہی شد یونس اندر دہان ماہی شد

یوالس - گھوڑا کوتل اور نرم رفتار اور سواری کے لائق

یورش - حملہ کرنا لشکر کا دشمن پر ایک ہی دفعہ

یوبش - تلاش کرنا جستجو کرنا

یوغ - جوا جو ایک لکڑی کا حلقہ بنا ہوا ہوتا ہی اور قلبہ رانی کیوقت بیلون کے گلے مین ڈالتے ہین

یوسف - ایک پیغمبر کا نام ہی اور نام ایک سورة کا قرآن کی سورتون مین سے جسمین قصہ حضرت یوسف کا مفصل تحریر ہی اور اس قصہ کو حق جل وعلا نے احسن القصص فرمایا ہی

یوزک - شکاری کتا

یوک - رفیدہ نان پزون کا جسپر روٹی رکھکر تنور مین لگاتے ہین

یونت ئیل - ترکی زبان کے سالون مین سے ایک سال کا نام ہی یعنے اسکے سال اسپ یعنے گھوڑے کا سال ہین کیونکہ وہ بارہ سال ہین اور نام ہر ایک سال کا جانورون کے نام پر رکھا گیا

یوم - روز یعنے دن

یونان - مشہور ولایت ہی جو زمانہ سلف مین علم و ہنر کا معدن تھا اور بڑے بڑے حکما اس ملک سے نکلے یہ ملک اقلیم پنجم مین واقع ہی اور داخل روم کے ملک مین اس ملک کو یونان ابن یافث بن نوح نے آباد کیا

یوکان - بچہ دان مادہ کا انسان ہو یا حیوان

یون - تانبے کا سکہ یعنے پیسہ اور ہندی زین اور نام ایک رنگ کا اور رنگ اور لون جیسا کہ آذر لون یعنے آگ کے رنگ سا

یو - پہلوی زبان مین ایک جسکو عربی مین واحد کہتے ہین

یویہ - بہر دو یاے تحتانی عزم و ارادہ و قصد

یوبہ - بیم یاے موحدہ آرزو و تمنا و خواہش و اشتیاق

یوچہ - بجیم تازی قطرہ پانی یا خون و شراب وغیرہ

یوخہ - جماع کی لذت اور ترکی مین پتلی روٹی یعنے پھلکا

یوزہ - گدائی اور درخت کا تنہ اور لپٹا جانوروں کا مستی مین

[illegible]

ہود - فرقہ یہودیون کا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] موسم مین بآرام زندگی بسر کرے یہ ترکی لفظ ہی

ییل - ترکی مین بروزن قیل سال یعنے برس

ییلان - ترکی مین مار یعنے سانپ

دوسری فصل

اردو لغات کے بیان مین

یاے باالف

یادر۔ یہ لغت فارسی اُردو مین مستعمل ہی عربی مین اسکو حفظ کہتے ہین۔ مولف۔ آپکی ہم پر جو تھی پہلی عنایت یاد ہی + پہلی صحبت بے تکلف اور محبت یاد ہی۔

یادگار۔ وہ عمل جس سے کوئی بعد مرگ یاد ہو۔ مولف۔ یاد تم جس سے رہو نیکی کے ساتھ + کر لو اپنی کوئی قایم یادگار۔

یار۔ دوست مہربان محبوب معشوق۔ ع۔ یار کو ہم نے جابجا دیکھا + کہین ظاہر کہین چھپا دیکھا۔

یاقوتی۔ ایک مرکب معجون کا نام ہی جسمین یاقوت بھی ایک جزو ہوتا ہی۔

تیسری فصل

اصطلاحات و محاورات فارسی کے بیان مین

یارب۔ اے پروردگار یہ کلمہ کبھی بوقت دعا اور کبھی بوقت تعجب زبان پر لاتے ہین۔ [illegible] + گر طلب داری گہر یا [illegible] پس بہر برخال سر [illegible]

یاقوت لب [illegible] میر معزی۔ جام زرین تو پر کرده ز یاقوت روان [illegible]

یاقوت تر [illegible] خونی آنسو۔

یادوست [illegible] کیوقت کہتے ہین۔ میرزا [illegible] نمیگویم + [illegible]

یاقوت قدح۔ یاقوت روان [illegible] سرخ شراب۔ حافظ۔ یاد باد آنکہ چو یاقوت قدح خنده زدی + در میان من و لعل تو حکایتہا بود۔

یادبود۔ یادگار۔ یادگاری۔ وہ نشان جو کسی شخص سے زمانہ مین رہجاے اور لوگ اسکے ذریعہ سے اُسکو یاد کرین۔ میر [illegible] کاشی۔ فراموشم مشو از وعده ات زان گونه دست از پا + که ہر یادبود خویش رشتہ بر انگشت پابندم + محمد قلی سلیم۔ برای سوختن من چو شعلہ تند مشو + اگرچہ خار و خسم یادگاری چمنم۔ صائب۔ برگ عیشے نیست چشم از نوبہار او مرا + چون لالہ داغے یادگار او مرا۔

یاد کردن۔ یاد کردن۔ کسیکو یاد کرنا۔ حافظ۔ نگویم از من بیدل بسہو کردی یاد + که در حساب خرد نیست سہو و قلت۔

یارمند۔ یاری گر۔ ممد و معاون و مددگار۔ فردوسی۔ تو باد و بر و بر ستور لوند + ہمش راہبر باش و ہم یارمند۔ نظامی۔ جہان را بدین خوبی آراستی + بدون زانکہ یاری گری خواستی۔

یال مراد۔ وہ گھوڑا جسکے بال کے بال دراز ہون۔ شفیع اثر گھوڑے کی تعریف مین۔ جلوه دارش ز بخت خویش شاد ست + رواکاش ازین یال مراد ست۔

یادش بخیر۔ یہ کلمہ دعائیہ غائب کے حق مین کہا جاتا ہی۔ صائب۔ بیگانگی شده ست ز عالم مراد ما + یادش بخیر کہ نیفتد بہ یاد ما۔

یار غار۔ مصیبت کے وقت کا دوست اور خطاب حضرت صدیق اکبر ابوبکر جانشین اول رسول صلے اللہ علیہ وسلم کا جو تین روز ہجرت مدینہ کے سفر مین پہاڑ کے غار مین حضرت کے ساتھ رہا تھا۔ ع۔ حضرت صدیق یار غار بود + جانشین سید ابرار بود۔

یازده در۔ گیارہ دروازے یعنے انسان کے جسم کے سوراخ یعنے دو سوراخ کانون کے دو سوراخ ناک کے دو سوراخ آنکھون کے دو سوراخ حلق کے ایک سانس کے واسطے دوسرا کھانا کھانے کے واسطے دو سوراخ ذکر کے یعنے ایک بول کا دوسرا منی کا ایک سوراخ مقعد کا جو براز اور ہوا کے اخراج کے لیے ہی عورت کے جسم مین دو سوراخ پستان کے علاوہ ہین۔

یاررس۔ ممد و معاون و مددگار۔ فردوسی۔ بہرحال خواہند زو یاررس + کہ او را جہاندار یارست و بس۔

یاری رس۔ مددگاری کرنے والا۔ نظامی۔ بزرگا بزرگی دہا بیکسم + توئی یاوری بخش و یاری رسم۔

یاوری بخش۔ مدد کرنے والا ممد و معاون۔ توحید۔ توئی یاوری بخش بے یاوران + توئی حاکم اے داور داوران۔

یاقوت فروغ۔ وہ چیز جسکی روشنی یاقوت کی سی ہو۔ میرزا صائب۔ دور ہواے لب یاقوت فروغ تو عقیق + اشک گرمی ست کہ از چشم سہیل افتاده ست۔

یاقوت نرم۔ ایک قسم کا یاقوت ہی جو کم قیمت اور نرم ہوتا ہی اور کنایہ معشوق کے لب۔ صائب۔ می خورد و فروزان شد و از شرم بہ آمد + یاقوت لب لعل عجب نرم بر آمد۔

یاقوت خام۔ معشوق کے لب۔

یاد بودن۔ یاد داشتن۔ یاد ہونا اور یاد رکھنا۔ محمد قلی سلیم۔ بر گفته احباب لبے گوش نہادیم + حرفے نشنیدیم کہ در یاد نباشد۔

یاختن۔ باہر نکالنا ظاہر کرنا کوئی بڑا کام کرنا۔

یازیدن - یازدن - دراز کرنا اور کسی کام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا -
یارستن - طاقت و قدرت رکھنا -
یاقوت روان - سرخ شراب -
یار فروشی - اپنے دوست کی تعریف کرنا - نورالدین ظہوری - دو چشم مخمور
زیادہ نوشی کردند ٭ بر شعلہ زینہ پردہ پوشی کردند ٭ ظاہر شد از او میل خریداری
من ٭ اغیار ہمہ یار فروشی کردند -
یار کردن چیزے باچیزے - ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا - میر خسرو - برتن
بیمار شیرین گشت مجنون اجل ٭ زانکہ عشقت چاشنی خویش با آن یار کرد -
یاقوت اسکندری - وہ یاقوت جو ظلمات سے اسکندر کا لشکر اٹھا لایا تھا اور
وہ سب کنکر جانکر اٹھا لے گئے تھے جب روشنی میں آکر دیکھا تو سب قیمتی یاقوت
[illegible] ہوے سب پچھتائے [illegible] کہ زیادہ کیوں نہ لائے
اور جو نہ لائے تھے وہ اور زیادہ پچھتائے کہ ہم بالکل محروم رہے - نظامی -
چو دیدند لشکر آور خویش ٭ نہادند سنگ رہ آورد پیش ٭ ہمہ سنگہا سرخ
یاقوت بود ٭ کز و دیدہ را روشنی قوت بود ٭ یکے راز کم گوہری دل بدرد ٭ یکے را
زبے گوہری باد سرد ٭ پشیمان شد آنکس کہ باقی گذاشت ٭ پریشان تر آنکس کہ او بر نداشت
یاوہ [illegible] بیہودہ گوئی -

یاے با خاے

یخ در بہشت - ایک قسم کا حلوا ہے حلوے خرج بھی اسکو کہتے ہیں ہند میں جو
ایک حلوا در بہشت نام ہے یہ حلوا سے یخ در بہشت -
یخ بسیار آب شود تا فلان کار بر آید - یعنے وہ کام جلدی ہونے والا نہیں
سید حسین خالص - فلک آسمان بکام زاہد طامع کجا گردد ٭ یخے بسیار گردد آب
تا [illegible] گردد -
[illegible] کش - وہ شخص جو یخ کا صندوق اٹھا کر جا بجا لے جاتا ہے - میر نجات
سر و برداشتن از شیخ چہ آسان باشد ٭ بہتر آنست کہ یخدان کش زندان باشد
یخنی کش - باورچی اور خدمتگار - میر نجات - سفرہ برداشتن از شیخ
چہ آسان باشد ٭ بہتر آنست کہ یخنی کش زندان باشد -
یخ لغزک - برون لغزک یخ کے اوپر سے پھسلنا یہ ایک کھیل ہے جو سرما میں
لڑکے کھیلتے ہیں - محمد سعید اشرف - باز از وصف لحد سے بیتاب ٭
میرود خامہ ام بہ یخ لغزک -
یخ بستن یخ کردن - بستہ ہونا پانی کا بسبب سردی کے - قاسم مشہدی
بہ صفحۂ جبہہ موج چین یخ بندد ٭ بروے چراغ آستین یخ بندد ٭ از بسکہ
تاثیر ہوا از اہمہ ٭ وقتست کہ سجدہ بر زمین یخ بندد - شیخ اثر - شود
افسردہ صاف دل ز سکون ٭ آب یخ میکند چو استاد است -

یخ خوردن - سرد مہری کرنا -

یاے با عین

یعنی چنین باشد - یعنے ایسا ہی ہوگا - طاہر وحید - شنیدم گشت
[illegible] مہربان یعنے چنین باشد ٭ چو شمع دل یکے شد با زبان یعنے چنین باشد
یعنے چہ - یعنے کیا - حافظ - ماہ من ہر چہ بر انداختہ یعنے چہ ٭ مست از خانہ
برون تاختہ یعنے چہ -

یاے با کاف

یک بادام جا - بہت تھوڑی جگہ - شوکت - کے از اندازۂ خود پا نہد
نظارہ ام بیرون ٭ نگاہ من ز کوے یار یک بادام جا گیرد -
یک [illegible] شاپور - بہار نسیم
[illegible]
یک سر ہزار سودا - ایک آدمی کے متعلق بہت سے کام -
یک دیدہ خواب - یک چشم خواب - تھوڑی سی نیند - میرزا جلال اسیر
یک دیدہ خواب [illegible] آرمیدگی
صائب - [illegible] بیدار
[illegible]
یک [illegible]
یک [illegible] بلندی نشست
[illegible]
یک [illegible] آدمی
[illegible]
یک [illegible]
درشت [illegible]
یک [illegible] خانہاے
یک [illegible] شراب -
یک [illegible] منصب
کے لیے [illegible]
یک چند - کسیقدر مدت تھوڑے دن - حافظ - از قیل و قال مدرسہ حالے
دلم گرفت ٭ یک چند نیز خدمت معشوق و می کنیم
یک چشم زد - ایک لحہ بھر -
یک لورد - ایک طرح ایک ہی طرح -
یک چشمہ کار - یک کار منتظم و آراستہ - صائب - پیشوائی حسن را
شاید در شمار ٭ دلبری یک چشمہ کار از نرگس جادوے اوست -

یک سر - ناگاہ و تنہا اور اچانک -

یک سراسر - تمام و مجموع بالکل - باقر کاشی - آن جوہرم کہ می شکنند از سراسر یکسر + باور کنی اگر بسری یک سراسرم

یکہ سوار - یکسوارہ - بہت اچھا سوار اکیلا سوار - سعدی - اگر پاے بندی رضا پیش گیر + وگر یکہ سوارہ رہ خویش گیر - مخلص کاشی - یکہ سوار جلوہ را صف شکن و کون کن + سیر شکار غمزہ را رخصت ترکتازہ -

یکہ تاز - وہ بہادر سوار جو تنہا دشمن پر جا پڑے - فوقی یزدی - آن سوار یکہ تازم در بیابان جنون + کافتاب بر کنندم از روے شاطری -

یکہ انداز - ایک تیر سے شکار مارنے والا - مجیر الدین بیلقانی - باشنے کز غمزہ چشم یکہ اندازش برفت + گرچہ از دل بگذرد پیکانش در سینہ شکند -

یک کنش - ایک [illegible]

یکتا یک گوہر ہمتاع - گران گوہر بنا جنس - حسین خالص - زمین نقش دو بالا [illegible] سودا سے دل + این متاع کم بہا اینجا یکایک میکنند -

یکدگر گرفتن ورق - باہم چسپان ہونا کتاب کے اوراق کا - میر خسرو - دفتر غنچہ را [illegible] یکدگر گرفتہ [illegible]

یکیک - [illegible] - [illegible] - کیلانی -

یکایک [illegible] - قانی -

[illegible] - شیخ نوی -

[illegible] نورد -

یک لعل [illegible] ناقہ

صفت [illegible]

یک قدآدم - آدمی کے قد کی مقدار - محمد اسحاق شوکت - دل سنگ آہن [illegible] فرو [illegible] چراغ خویش را + [illegible]

یک قلم - ایک ہی دفعہ تمام و مجموع - [illegible] - یک قلم [illegible]

[illegible] -

[illegible] خوردن - ایک دفعہ پیو کر پانی [illegible] آب حیوان ست بیداری کز و ہمسر [illegible] سے اسکندر تا کے حسرت [illegible] خوردن بیش نیست -

[illegible] ایک شعر [illegible] کی جال [illegible]

یک [illegible] سخن - [illegible] ہو جاے تھوڑا وقت [illegible] ہر [illegible] کہ ندارد

یکپا شدن - تیز چلنا دوڑنا -

یک پشت کار ماندن - نہایت تر و تازہ [illegible] حب آل صاحب تیغ دو سر علی + یک پشت کار

پشت ناخن پشت کمان - ظہور اسیا [illegible] خم ابرو نشود در [illegible] وکر دان + تا نکہ ز دوری زنو [illegible]

صائب - چون قلم شد [illegible] از سیہ کاری ناخن دستگاہ خندہ ام -

یک پہلو افتادن - ایک پہلو پر پڑنا [illegible] نتوان بر دو جان افتاد یک پہلو + بقصد قتل ما

یکتا پیراہن - جسکے پاس ایک ہی پیراہن ہو [illegible] صبر و لباچاک ~~[illegible]~~ چون آمدی [illegible] شمع خلوت

یک جلو رفتن - [illegible] جانا [illegible] از پیش بر [illegible] + یک جلو تا بقیامت [illegible]

یک چشم زدن - یک چشم پریدن - ایک [illegible] تا چشم من زخون جگر جاشنی گرفت + یک چشم

صائب - نتوان رفت بیک چشم پریدن [illegible]

یک چشمہ کردن - زیست ریست کرنا - میر خسرو [illegible] کردہ + بیا ہم چار [illegible] ایمان بر آمد -

یک خانہ شدن کمان - خم کھانا کمان کا کمان سپہر + داد سپہر [illegible] تیرش [illegible]

یک دہن - ہر [illegible] میل [illegible]

صادق دست غیب - [illegible] از [illegible]

[illegible] از جان بہترش -

یک دہن لب خندان - مسکرانا - صائب [illegible] جہان کنم + چون صبح یک دہن لب خندان کنم [illegible]

یکرو کردن - ایک رخ کرنا اتفاق دور کرنا [illegible] بودن [illegible] یک رو کنم [illegible]

یک سر و گردن بلند شدن - اختیار [illegible] اونچا ہونا بلند ہونا - صائب - [illegible] مژگانش + کمان [illegible] ور چون باشند [illegible]

یکسو کردن - فیصلہ کرنا معاملہ [illegible] صفوی - ہر چہ بادا باد رسے چند [illegible] این بار یکسو [illegible]

یک کاسہ کردن [illegible] ملا دینا دو چیزوں کا [illegible] گذشتہ
حسن [illegible] یک کاسہ کردہ است چوتھی آج [illegible]
یکہ خوان [illegible] نہاد م [illegible] سکتا ہو کوشش کی [illegible]
[illegible] ہو [illegible] پردہ نغمہ پرداز ست [illegible]
ہستو از [illegible] بیشتر نشستہ
یکہ خوانی خود [illegible] ست۔
یکہ خوردن [illegible] ن۔ اچانک متحیر و سراسیمہ ہو جانا کسی عجیب یا
[illegible] سن تاثیر۔ ہم سراسیمہ شد اندم کہ گل روے
تو دید [illegible] پردی۔ وشنم زلب
[illegible] از رقیب ہمدارد دیر یکے خوردم۔
یک پہلو [illegible]
یک پہلو [illegible] یک پہلوے تو ہست
[illegible] نان خوے تو۔
یک جلوہ۔ تیز چلنے والا۔ ملا طغرا۔ اے طفل اشک تندرو کز شوق گشتی
یک جلوہ خرتے از [illegible] یعقوب تو یا یوسف ثانی بگو۔
یکرو۔ ایک رخا اور ایک طرفہ آدمی [illegible]
یک اسپہ [illegible] خود را یک اسپہ سر افلاک
ہنرنم + خورشید سان سر اینک بر کف نہادہ ایم۔
یک دندانہ۔ یکسان دبرابر۔
یک دہن خندہ۔ یک دہن خمیازہ۔ ایک دفعہ کا ہنسنا اور خمیازہ لینا
اور دہن کا لفظ اسکے ساتھ الیسا ہی ہے جیسا کہ یک نفر ادم و یکراس اسپ
و یک مہار شتر وغیرہ ہی۔ سالک یزدی [illegible]
خندیدہ است + [illegible] عقدہ رو بدار شکر زار دلم۔ صائب۔ سرا پایم
[illegible] یک دہن خمیازہ مے گردد + چو مے گردد بخاطر یاد آن لبہاے میگون
یک سوارہ۔ تنہا گھوڑے پر سوار۔ صائب۔ پیادہ دار مکرر سپہر سرکش
[illegible] در جلو [illegible] یکسوارہ دل۔
یک سرہ۔ اچانک اور یکبارگی۔
یک شبہ۔ ایک رات کا جیسا کہ ہلال یک شبہ و طفل یک شبہ وغیرہ اور نام
ایک ہفتے کے پہلے دن کا۔ سعید اشرف۔ چو خورشید بخاور نہان ساخت چہر
[illegible] در آمد [illegible] سپہر + فزون گشت از کوکبش کو کبہ + لب برکرد [illegible]
نام تو یک شنبہ
یک غنچہ۔ مقدار یک غنچہ۔ صائب۔ غم عالم فراوان ست و من یک
غنچہ دل دارم + چسان [illegible] ساعت کنم ریگ بیابان را۔

یک تو چہرہ۔ راستہ جو ایک تو چہ کی مقدار ہو۔ صائب۔ بافعل گشتہ
ہم سفر یک تو چہرہ انیسی [illegible] خار استہ الہا۔
یکہ و جنازہ۔ نام ایک بندوق کا ہی جسکو انیاں [illegible] ایک شخص نے ایجاد کیا
ہے۔ از شوق شکار تو شود جان تر و تازہ + بر سر کہ خورد تیر تو یکہ و جنازہ۔
یک تنہ۔ تنہا و یکتا۔
یک دلہ۔ بے ریا و بے نفاق۔
یک رشتہ۔ ہم جدی آدمی۔
یکروئی۔ بے ریائی کرنا ایک رخ ہونا۔
یک رکابی۔ مصروف ہونا بجد ہونا شتابی کرنا اور کوتل گھوڑا۔
یک چشمی۔ ~~یک چشمی~~ سے ایک آنکھ سے دیکھنا اور وہ تصویر جو یک چشمی ہو
یک تہی۔ وہ کپڑا جو دوہرا نہو اکہرا ہو۔
یک رنگی۔ بظاہر و باطن یکسان ہونا۔

یاے با واو

یوم الحساب۔ قیامت کا دن۔
یوم [illegible] نقاب۔ آفتاب [illegible]
یوم التناد۔ دن قیامت کا۔
یوسف [illegible] مقام اور نام سلوت
[illegible] اکا ہوں گا
[illegible] التفات باقی
یوسفستان [illegible]
یوسف [illegible] یوسف کا
لقب [illegible] گوش
یوم [illegible] طالب آملی از بادہ
[illegible] دلدار خانہ را۔
یوم [illegible]
یوم الباحر [illegible] ایک یا پہلے دن سے
پانچواں ساتواں [illegible] بیسواں بیسواں
اکیسواں [illegible]
[illegible] علے کاندر
یوسفی کردن۔ بادشاہی کرنا۔ لغت
جہان + یوسفی او [illegible] بار گاہ
یوزیدن۔ طلب کرنا اور [illegible]

چوتھی فصل

محاورات اردو کے

یا ے با الف

یاد گدگدانا۔ بار بار [illegible] رہ رہ کر خیال آنا۔

یار کرنا۔ دوست [illegible] پیدا کرنا کسی سے آنکھ لگانا۔ راحت۔
نکل جائے گی یہیں تھی یار کرکے دیکھنا اک دن + رہو گھر سوت کے اچھا
بچھوڑو جانا تم وہان کا۔

یار بنانا۔ دوست بنانا محبت کرنا۔ ۵۔ دشمن اپنوں کو جانتے ہیں ہم
یار اغیار کو بناتے ہیں۔

یار ماری کرنا۔ دوست بنکر دغا دینا۔

یاری دینا۔ مدد کرنا امداد دینا تشفی کرنا۔

یاد ش بخیر۔ جب کسی عزیز کا غیر حاضری میں ذکر آتا ہے تو یہ کلمہ زبان پر
لاتے ہیں یعنے خدا اسکو بخیر رکھے۔ داغ۔ نہیں معلوم اک مدت سے واعظ
حال کچھ وہاں کا مزاج اچھا تو ہے یاد ش بخیر اس آفت جان کا۔

یار مار۔ دغاباز جو دوستوں سے فریب کرے۔

یار باز۔ فاحشہ عورت۔

یار باش۔ [illegible]

[illegible]

یاسمین۔ [illegible]

[illegible]

بہہ جان کا یہیں۔ دنیا کا دنیا ہی میں ضمیر چاہو جتنا گھوٹے لوگوں کا
تم صاحب گلا ہاتھ خالی جاؤ گے مہمان کا یہیں رہ جائیگا۔

یہ کیا ہے۔ آج یہ کیا نئی بات ہے آج کیا دنیا جاتے دیکھی۔ داغ۔
یہ کیا ہو آج غیروں سے مری تعریف ہوتی ہے + یہ کیا ہے خود بیان
ہوتا ہے اپنے جور پنہاں کا۔

پانچویں فصل

ادویات یعنے لغات متعلق بعلم طب کے بیان میں

یا ے با الف

یاقوت۔ قیمتی اور عظیم القدر پتھروں میں سے یہ ایک پتھر ہے سرخ
زرد کبود [illegible] سپید [illegible] رنگ [illegible] ان میں اعلیٰ قسم سرخ
رمانی اور [illegible] پتھروں سے زیادہ
سخت ہے البتہ الماس [illegible] زیادہ سخت ہے سرخ کو [illegible] مانک
زرد کو پکھراج کبود کو نیلم بولتے ہیں مادہ اسکی پیدائش کا گندھک
اور پارہ ہے [illegible]

[illegible]

یاسمین۔ یہ ایک پھول ہے جسکو [illegible]

[illegible]

یا ے با ہا ے

[illegible] عضو قسم ترکا ... رگون کی ... عضو کی دوا ... [illegible] مشابہ پلنگ کے ہے اسکی ... [illegible] کام ... ہین
... استکا ... ہین تو ... زیادہ ہوا اور اگر ... [illegible] طبیعت اسکی گرمی اور خشکی مین ... [illegible] خواص مین
... کے ساتھ ... عرق ... کا علاج ہے اور ... [illegible] مانند پلنگ کے ہے۔
... [illegible]

مثنوی در خاتمہ کتاب ہذا

نسخہ جامع لغات تمام | ہوگیا السلام والاکرام
کب تھا ممکن کہ سر و پا چیز | باوجود قصور عقل و تمیز
ایسی جامع کتاب لکھ لیتا | جسکا لکھنا کمال مشکل تھا
تھا مین اس کام مین فقط تنہا | اور عجب ... باری کا
... [illegible] | ... یہ سخت جانفشانی تھی
محنت اس کام ... [illegible] کی | ... سال کی ... [illegible]
نیند شب کو نہ دن کو تھا آرام | تھا یہی شغل ... [illegible] شام
گذرا دن لکھتے لکھتے شام ہوئی | رات تحریر مین تمام ہوئی

[illegible]

باب ... یا ... [illegible]

... [illegible] دودھ ... [illegible]

[illegible]

... یا واو

... [illegible] جانور ہے جسکو ہندی مین ... کہتے ہین ... [illegible]

خاتمة الطبع از محمد عسکری

شکر و سپاس بیحد [illegible] خالق انس و جان مالک کون و مکان کے واسطے ہے جسنے اپنی قدرت کاملہ [illegible] انسان کی
زبان کو انواع کلام سے [illegible] فرمایا اور ہر کلام کے افہام و تفہیم کے واسطے علم حل لغات [illegible]
جس سے [illegible] مشکل الفاظ و اصطلاحات کی ترتیب [illegible] کتابین مرتب ہوئین - اور درود نامحدود اس سرورکائنات
برگزیدہ [illegible] چراغ ہدایت سے گمگشتگان وادی ضلالت کو راہ راست دکھلائی طالبان حق کو انوار فیض الٰہی سے
[illegible] معرفت [illegible] بیان فرمایا [illegible] الله کو معدن عرفان الٰہی بنایا جنکے فیض تعلیم
سے بڑے بڑے عالم کامل ہوئے جنہوں نے ہر علم و فن مین اور خاصکر علم لغت مین بیشمار کتابین جمع فرمائین جنکی تالیفات بطور یادگار کے
آجتک تمام عالم [illegible] علما [illegible] جس سے قیامت تک انکا نام باقی [illegible] عالم فانی [illegible]
[illegible] لیکن [illegible] اردو [illegible]
[illegible] ایک [illegible] مجموعہ کہنا زیبا ہی اس زبان مین [illegible] کتاب [illegible]
[illegible] مشکل [illegible] محاورات و اصطلاحات کی تحقیق ایک ہی کتاب [illegible]
[illegible] حاوی محاورات و اصطلاحات لکھے یہ جامع اللغات جو بہت [illegible]
[illegible] محاورے جنکا علم ہر شخص کو ضروری ہے اور
[illegible]

[illegible]

[illegible] اودھ اخبار ہے -